

احیاء العلوم


المعروف أحياء العلوم الدين كالمباحث اور مستند اور ترجمہ

مصابح السائين

مصنف:

ابو حامد محمد بن الاسلام امام محمد غزالی

ترجمہ: مولانا محمد صدیق ہزاروی



پروگریسو بکس

حجۃ المصلکین زبده العارفين قدوة السالکين حجة الاسلام امام
 ابو بن غزالی رحمته الله عليه
 حامد محمد

کی تحقیق ایتق اور علوم معارف کا بے بہا خزانہ

جلداول

احیاء علوم الدین

المعروف احیاء العلوم کا با محاورہ مستند اردو ترجمہ

مصابیح السالکین

مترجم: علامہ مولانا محمد صدیق ہزاروی برکاتہم عالیہ

6- یوسف مارکیٹ، غزنی سٹریٹ اردو بازار، لاہور

فون 042-37124354 فیکس 042-37352795

پروگریسو بکس

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

جملہ حقوق بحق پروگریسو بکسز محفوظ ہیں

احیاءِ علوم الدین

تصنیف	—	حضرت امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ
مترجم	—	مولانا محمد صدیق ہزاروی مدظلہ
جلد	—	اول
بار اول	—	جولائی 2003ء
بار دوم	—	جون 2005ء
بار سوم	—	جنوری 2013ء
تصحیح/پروف ریڈنگ	—	مولانا محمد یسین قصوری / محمد عبداللہ قادری مولانا محمد اختر رضا قادری / محمد ادریس قادری
پرٹرز	—	آصف صدیق پرنٹرز لاہور
ناشر	—	چوہدری غلام رسول - میاں جواد رسول میاں شہزاد رسول
قیمت مکمل سیٹ	—	روپے 1=

ملنے کے پتے

ملت پبلی کیشنز

Ph: 051-2254111 فیصل مسجد اسلام آباد

E-mail: millat_publication@yahoo.com

مسلم بک ریو


042-37112941

12- گنج بخش روڈ لاہور فون 0323-8836776

دوکان نمبر 5- مکہ سنٹر نیوارڈ بازار لاہور 0321-4146464

Ph: 042-37239201 Fax: 042-37239200

ملت پبلی کیشنز



6- یوسف مارکیٹ - غزنی سٹریٹ اردو بازار لاہور

فون 042-37124354 فیکس 042-37352795

پروگریسو بکسز

عرضِ ناشر

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اللَّهُكَ صَدِّقًا شَكْرًا وَاحْسَانًا هَيْهَاتُ مَا نَسَى فِي رُبِّي
ادارہ "پروگریسیو جس" کو امام غزالیؒ کی مشہور و معروف تصنیف "احیاء علوم الدین"
کا ترجمہ اسکے شایان شان شائع کرنیکی سعادت عطا فرمائی۔ قبل ازیں ہم امام غزالیؒ کی مشہور
و معروف اور ہر دل عزیز تصانیف "کیسائے سعادت" اور "منہاج العابدین" شہرہ آفاق مترجم علامہ
محمد سعید احمد نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کے تراجم کیساتھ شائع کر چکے ہیں۔ انکے علاوہ ادیب شہیر عالم بے
بدل، مترجم بے نظیر و دلپذیر علامہ شمس بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے قلم سے مشہور زمانہ کتب غنیۃ الطالبین،
تاریخ الخلفاء، نفحات الانس جامی وغیرہ کے تراجم شائع کر چکے ہیں۔ بازار میں ان بہتر تراجم دستیاب
نہیں۔

ادارہ کو یہ بھی شرف حاصل ہے کہ ادارہ سلطان العارفين حضرت سلطان باہر رحمۃ اللہ علیہ
کی عارفانہ و صوفیانہ کتب کے تراجم شائع کرنے کی سعادت حاصل کر چکا ہے۔ اور اعلیٰ حضرت مولانا
امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی بہت سی لاجواب کتب و رسائل منظر عام پر لانے
میں بلاشبہ ادارہ کی خدمات مثالی ہیں۔

ادارہ کی ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے کہ قارئین کو ایسا لٹریچر فراہم کیا جائے جو کہ اپنی مثال آپ
ہو۔ اس میں ہم کس حد تک کامیاب رہے ہیں۔ اسکا اندازہ بخوبی لگایا جاسکتا ہے۔

ادارہ نے اب "احیاء علوم الدین" کے ترجمہ کی سعادت حاصل کی ان شاء اللہ تعالیٰ علما کرام
اور قارئین حضرات اسکو سراہیں گے۔ "احیاء علوم الدین" کے مترجم عالم ذمی و فار صاحب تصنیف
کثیرہ (تقریباً پچاس) حضرت علامہ محمد صدیق ہزاروی مدظلہ العالی ہیں۔ انہوں نے صرف دس

نظامی کی بہت سی کتب کے تراجم اور شروحات لکھی ہیں بلکہ احادیث کی مشہور و معروف کتب ترمذی شریف، طحاوی شریف اور ریاض الصالحین کے تراجم بھی کیے ہیں۔ آپ کا اسلوب بیان سلاست اور رنگینی عبارت میں بے مثال ہے۔ ان کی شگفتہ بیانی اور عبارت کی شائستگی لائق تحسین ہے۔ الغرض انہیں تصنیف و ترجمہ کے میدان میں ید طولیٰ حاصل ہے۔ آپ نے نہایت ہی مختصر عرصہ میں اس میدان میں شہرت حاصل کی ہے۔

آخر میں ہم علم کرام ہشائخ عظام اور قارئین کرام کے شکر گزار ہیں کہ وہ اس ادارہ ”پروگریسو بکس“ کی کتب و تراجم کو ترجیح دیتے ہیں اور ادارہ کی حوصلہ افزائی فرماتے ہیں۔ انکی یہ حوصلہ افزائی ہی ہے کہ ہم مزید علمی و تحقیقی کتب اور تراجم پیش کرنے کیلئے کوشاں ہیں۔

اللہ رب العزت جل جلالہ سے دعا ہے کہ وہ ہماری کوششوں کو اپنی بارگاہ میں مقبول فرمائے۔ انہیں ہمارے لیے وسیلہ بخشش بنائے اور دین اسلام کی مزید خدمت کرنے کی ہمت و توفیق عطا فرمائے۔

آمین بجاہ نبی المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم
چوہدری غلام رسول
میاں جواد رسول

فہرست جلد اول

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۵۳	اقوال صحابہ و تابعین	۵	عرض ناشر
۵۵	تعلیم کی فضیلت	۱۶	ابتدائیہ (صدیق ہزاروی)
۵۶	آیات کریمہ	۱۸	مقدمہ و جاہت رسول
۶۰	احادیث مبارکہ	۳۳	مقدمہ (از مصنف) امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ
۶۲	اقوال صحابہ و تابعین	۳۴	سبب تالیف
۶۲	عقلی دلائل	۳۵	ترتیب کتاب
۶۲	فضیلت کیا ہے؟	۳۵	ترتیب ابواب
۶۲	تفہیم اشیا کی طلب	۳۶	مزید تفصیل
۶۲	علم کا اعزاز	۳۶	عظمت کتاب
۶۲	انسانی اعمال کی اقسام	۳۸	کتاب کو چار حصوں میں تقسیم کرنے کی وجہ
۶۲	شرف سیاست	۳۸	۱۔ علم کا بیان
۶۵	مراتب سیاست	۳۹	پہلا باب
۶۵	افضل سیاست	۳۹	فضیلت علم
۶۶	دوسرا باب	۴۰	آیات کریمہ
۶۶	فرض عین علم کا بیان	۴۱	احادیث مبارکہ
۶۶	فرض کفایہ علم	۴۲	ایک تشبیہ کا ازالہ
۶۶	علوم شرعیہ	۴۲	صحابہ کرام اور تابعین کے اقوال
۶۶	نقد اور فقہاء کا مقام	۴۲	طلب علم کی فضیلت
۶۶	ایک اعتراض اور اس کا جواب	۴۲	آیات کریمہ
۶۶	تقویٰ کے مراتب	۴۲	احادیث مبارکہ
۶۶	علم فقر کی فضیلت	۴۲	

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۱۲۲	اقسام علماء	۸۰	علم طریقی آخرت
۱۲۲	<u>پانچواں باب</u>	۸۲	علم کلام اور فلسفہ
۱۵۲	متعلم و معلم کے آداب	۸۵	تقسیم فلسفہ
۱۵۲	مراتب علوم	۸۶	علم فقہ و کلام
۱۵۶	ایک شبہ کا ازالہ	۸۸	قرب خداوندی کا راستہ
۱۵۶	استاذ کے آداب	۸۹	تذکرہ ائمہ
۱۶۶	<u>چھٹا باب</u>	۱۱	حضرت امام شافعی رحمہ اللہ
۱۶۸	علم کی آفات نیز علماء آخرت اور علماء صوفی کی علامات	۹۵	حضرت امام مالک رحمہ اللہ
۱۶۸	صحابہ کرام اور اسلاف کے اقوال علماء آخرت	۹۸	حضرت امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ
۱۸۳	کی نشانیاں	۹۹	حضرت امام احمد بن حنبل و حضرت امام سفیان ثوری
۱۸۳	تینتیس سالہ دور طالب علمی کا حاصل مباح چیزوں		رحمہما اللہ تعالیٰ
۱۸۹	سے بچنا تقویٰ ہے۔	۱۰۰	<u>تیسرا باب</u>
۲۲۲	<u>ساتواں باب</u>	۱۰۵	علم مذہب کی علت مذمت
۲۲۵	عقل، اس کی عظمت حقیقت اور اقسام	۱۰۵	الفاظ علوم میں تبدیلی کا بیان
۲۲۵	آیات کریمہ	۱۱۱	علوم محمودہ کی تعداد
۲۳۰	احادیث مبارکہ	۱۱۱	مذہب علم
۲۳۰	عقل کی حقیقت اور اس کی اقسام	۱۲۲	علم محمود
۲۳۶	عقل کے اعتبار سے انسانی نفوس میں تفاوت	۱۲۲	وہ علوم جن کی مخصوص مقدار محمود ہے۔
۲۴۱	<u>۲۔ قواعد عقائد کا بیان</u>	۱۲۶	<u>چوتھا باب</u>
۲۴۱	<u>پہلی فصل</u>	۱۲۶	علم خلاف کی طرف توجہ کا سبب
۲۴۱	کلمہ شہادت کے بارے میں اہل سنت و جماعت	۱۲۹	نیز مناظرے اور مجادلے کے نقصانات
۲۴۱	کا عقیدہ	۱۳۰	مناظرات کو صحابہ کرام کی مشاورت سے تشبیہ دینا
۲۴۱	تتمیز یہ خداوندی	۱۳۵	طلب حق کے لیے مناظرہ کی شرائط
			مناظرہ کی آفات اور ہلاکت خیزی ایک شبہ کا ازالہ

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۲۰۲	شرعی بحث	۲۲۲	حیات و قدرت
۲۰۵	حکم شرعی	"	علم
۲۰۹	شبہات اور ان کا ازالہ	۲۲۳	ارادہ
"	مرحبہ کا شبہ	"	سماعت و بصارت
۲۱۲	معتزلہ کا شبہ	"	کلام
۲۱۴	ایمان میں کمی زیادتی	۲۲۴	افعال
۲۱۷	ایمان کے اقرار میں استثناء	۲۲۵	کلمہ شہادت کے دوسرے حصہ "رسالت"
۲۲۵	اقسام تفاق		کا مفہوم
۲۲۸	۲۔ اسرار طہارت کا بیان	۲۲۶	دوسری فصل
۲۲۹	مراتب طہارت	"	تدریجاً پہنائی کی وجہ اور اعتقاد کے درجات
۲۳۲	ایک شبہ کا ازالہ	۲۲۷	تیسری فصل
۲۳۴	پہلی قسم	۲۲۸	قواعد عقائد
"	زائل کی جانے والی نجاست جس چیز کے ساتھ	۲۲۹	ارکان ایمان
۲۳۵	نجاست زائل کی جاتی ہے۔	۲۳۰	منکر نکیر کا سوال
۲۳۹	نجاست دور کرنے کا طریقہ	"	عذاب قبر
"	دوسری قسم	۲۳۱	میزان
"	احداث سے طہارت	۲۳۲	پن صراط
۲۴۰	قضاے حاجت کے آداب	"	جنت و دوزخ
۲۴۲	استنجاء کا طریقہ	"	خلافت و امامت
۲۴۳	وضو کا طریقہ	۳۰۰	صحابہ کرام کی فضیلت اور اس کی ترتیب
۲۴۵	کلی کرتے وقت کی دعا	"	شرائط امامت
۲۴۶	ناک میں پانی چڑھاتے وقت کی دعا	۳۰۱	خوف فتنہ کے وقت انعقاد امامت کیا ایمان
"	ناک بھاڑتے وقت کی دعا	۳۰۲	اور اسلام ایک ہی چیز ہے۔
			نئی بحث

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۳۸۰	تکمیل ارکان کی فضیلت	۳۴۶	چہرہ دھونے وقت کی دعا
۳۸۲	فضیلت جماعت	۳۴۷	دایاں بازو دھونے وقت کی دعا
۳۸۴	فضیلت سجدہ	۳۴۸	بایاں بازو دھونے وقت کی دعا
۳۸۶	خشوع کی فضیلت	۳۴۹	سر کا مسح کرتے وقت کی دعا
۳۹۰	سجدہ اور جائے نماز کی فضیلت	۳۵۰	کانوں کا مسح کرتے وقت کی دعا
۳۹۳	<u>دوسرا باب</u>	۳۵۱	گردن کا مسح کرتے وقت کی دعا
۳۹۴	نماز کے ظاہری اعمال	۳۵۲	دایاں پاؤں دھونے وقت کی دعا
۳۹۵	ہاتھ اٹھانے کا طریقہ	۳۵۳	بایاں پاؤں دھونے وقت کی دعا
۳۹۶	تکبیر تحریمیہ	۳۵۴	مکروہات وضو
۳۹۷	قرأت	۳۵۵	وضو کی فضیلت
۳۹۸	رکوع اور اس کے متعلقات	۳۵۶	غسل کا طریقہ
۳۹۹	سجدہ	۳۵۷	تیمم کا طریقہ
۴۰۰	تشہد	۳۵۸	<u>تیسری قسم</u>
۴۰۱	ممنوعات نماز	۳۵۹	ظاہری نجاستوں سے پاکیزگی حاصل کرنا
۴۰۲	سُنن و فرائض کے درمیان امتیاز	۳۶۰	میل کچیل اور رطوبتیں عام ہیں داخل ہونے والے کے لیے کیا سنت ہے؟
۴۰۳	فرائض نماز	۳۶۱	بدن میں پیدا ہونے والی چیزیں
۴۰۴	نماز کی سنتیں	۳۶۲	دار طہی کے بڑھے ہوئے بال
۴۰۵	<u>تیسرا باب</u>	۳۶۳	دار طہی کے مکروہات
۴۰۶	نماز کی باطنی شرائط	۳۶۴	۴۔ نماز کے اسرار و مسائل کا بیان
۴۰۷	خشوع اور حضور قلب کی شرائط	۳۶۵	<u>پہلا باب</u>
۴۰۸	باطنی امور جن سے حیانت نماز مکمل ہوتی ہے	۳۶۶	اذان کی فضیلت
۴۰۹	دل کی حاضری	۳۶۷	قرن نماز کی فضیلت
۴۱۰	حضور قلب کے لیے نافع دوا		
۴۱۱	نماز میں دل کی حاضری کی تفصیل		

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۴۸۸	مغرب کی سنتیں	۴۱۹	نماز کے شرائط
۴۸۹	عشاء کی سنتیں	۴۳۳	خشوع کرنے والوں کی نماز کے بارے میں کچھ
۴۹۰	وتر		واقعات
۴۹۲	چاشت کی نماز	۴۳۸	<u>چوتھا باب</u>
۴۹۳	<u>دوسری قسم</u>	"	امامت کا بیان
"	اتوار کے دن کے نوافل	"	امام پر کیا باتیں لازم ہیں
۴۹۴	سوموار کے دن کے نوافل	۴۴۳	قرأتِ قرآن
۴۹۵	منگل کے دن کے نوافل	۴۴۹	<u>پانچواں باب</u>
۴۹۶	بدھ کے دن کے نوافل	"	جمعۃ المبارک کی فضیلت
"	جمعرات کے دن کے نوافل	"	آداب و سنن اور شرائط
۴۹۷	جمعہ کے دن کے نوافل	"	فضیلتِ جمعہ
۴۹۸	ہفتہ کے دن کے نوافل	۴۵۲	شرائطِ جمعہ
"	اتوار کی رات کے نوافل	۴۵۳	جمعہ کی سنتیں
۴۹۹	سوموار کی رات کے نوافل	۴۵۴	وجوبِ جمعہ کی شرائط
۵۰۰	منگل کی رات کے نوافل	"	عادت کی ترتیب پر آدابِ جمعہ
"	بدھ کی رات کے نوافل	۴۶۶	بعض دیگر آداب و سنن
۵۰۲	جمعرات کی رات کے نوافل	۴۷۵	<u>چھٹا باب</u>
"	جمعۃ المبارک کی رات کے نوافل	"	متفرق مسائل
۵۰۳	ہفتہ کی رات کے نوافل	۴۸۳	<u>ساتواں باب</u>
۵۰۴	<u>تیسری قسم</u>	"	نوافل کا بیان
"	عیدین کی نماز	۴۸۵	پہلی قسم
۵۰۶	نماز تراویح	"	فجر کی سنتیں
۵۰۸	ماہِ رجب کی نماز	۴۸۶	ظہر کی سنتیں
۵۰۹	ماہِ شعبان کی نماز	۴۸۸	عصر کی سنتیں

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۵۲۷	چوتھی قسم	۵۰۹	چوتھی قسم
	مال تجارت کی زکوٰۃ	۵۱۰	سورج گرہن کی نماز
۵۲۸	پانچویں قسم	"	نماز گہن کا طریقہ اور وقت
	دینے اور مودنیات کی زکوٰۃ	۵۱۱	بارش کی نماز
"	چھٹی قسم	۵۱۲	نماز جنازہ
	صدقہ فطر	۵۱۳	تعمیر المسجد
۵۲۹	ادائیگی اور اس کی ظاہری و باطنی شرائط	۵۱۵	تعمیر الوصو
۵۳۳	باطنی آداب کی باریکیاں	۵۱۶	گھر میں داخل ہونے اور نکلنے وقت کی نماز
۵۵۲	زکوٰۃ وصول کرنے والا وغیرہ	۵۱۷	نماز استخارہ
"	اسباب استحقاق	۵۱۹	نماز تسبیح
۵۵۵	پینے والے کے آداب	۵۲۰	مکروہ اوقات میں نماز کی ممانعت کا فلسفہ
۵۶۱	نقلی صدقہ لینے اور دینے والے کے آداب	۵۲۲	۵۔ اسرار زکوٰۃ کا بیان
"	صدقہ کی فضیلت (قرآن و حدیث)	"	زکوٰۃ کی فرضیت
۵۶۲	اقوال صحابہ و تابعین	۵۲۳	پہلی فصل
۵۶۶	صدقہ چھپا کر یا ظاہری طور پر دینا عدلیہ صدقہ دینا	"	زکوٰۃ کی اقسام اور اسباب وجوب
۵۷۳	زکوٰۃ اور صدقات سے میں کیا لینا افضل ہے۔	۵۲۴	پہلی قسم
۵۷۴	۶۔ روزے کے اسرار کا بیان	"	رجا توروں کی زکوٰۃ
۵۷۹	پہلی فصل	۵۲۵	اوتھوں کی زکوٰۃ
"	ظاہری واجبات اور سنتیں نیز توڑنے والے امور	"	گایوں کی زکوٰۃ
"	ظاہری واجبات	۵۲۶	دوسری قسم
۵۸۱	روزہ توڑنے کے لوازم	"	زمین کی فصل کی زکوٰۃ (عشر)
"	باقی دن میں نہ کھانا	۵۲۷	تیسری قسم
۵۸۳	دوسری فصل	"	سوتے چاندی کی زکوٰۃ

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۶۲۵	چوتھا ادب (طواف کعبہ)	۵۸۳	روزے کے اسرار اور باطنی شرائط
۶۳۰	پانچواں ادب (صفا اور مروہ کے درمیان سعی)	۵۹۰	تیسری فصل
۶۳۳	چھٹا ادب (وقوف عرفات اور اس سے پہلے)	"	نفل روزے اور ان کی ترتیب
۶۴۱	ساتواں ادب (حج کے باقی اعمال)	۵۹۴	۴۔ اسرار حج کا بیان
۶۴۲	کنکریاں مارنے کا طریقہ	۵۹۵	پہلا باب
۶۴۶	آٹھواں ادب (عمرہ اور طواف وداع تک باقی امور)	"	پہلی فصل
۶۴۷	نواں ادب (طواف وداع)	"	فضیلت حج
۶۴۸	دسواں ادب (مدینہ طیبہ کی زیارت اور اس کے آداب)	۶۰۱	بیت اللہ شریف اور مکہ مکرمہ کی فضیلت
۶۴۹	روحانہ مطہرہ پر چاضی	۶۰۴	مکہ مکرمہ میں ٹھہرنے کی فضیلت اور کراہت تمام شہروں پر مدینہ طیبہ کی فضیلت
۶۵۴	سفر سے واپسی کے آداب	۶۱۰	دوسری فصل
۶۵۶	تیسرا باب	"	حج کی شرائط، ارکان و اجبات کی صحت اور ممنوعات
"	حقیقی آداب اور باطنی اعمال	"	شرائط حج
۶۶۳	اعمال باطنیہ اور اخلاص	"	ارکان حج
۶۶۷	حج کا ارادہ	۶۱۴	حج کی اقسام
"	حج کے لیے فراغت	"	حج اور عمرہ کے ممنوعات
۶۶۸	زاد و راہ	۶۱۳	دوسرا باب
"	سواری	۶۱۵	سفر کے شروع سے واپسی تک کے ظاہری اعمال
"	احرام کی چادریں	"	پہلا ادب (مال سے متعلق)
۶۶۹	روانگی	"	دوسرا ادب (احرام سے دخول مکہ تک)
"	جنگلوں میں داخل ہونا	"	تیسرا ادب (دخول مکہ سے احرام تک)
۶۷۰	احرام اور تلبیہ	۶۲۱	
۶۷۱	دخول مکہ مکرمہ	۶۲۲	

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۶۹۱	حقوقی آیات کی رعایت	۶۹۱	بیت اللہ شریف کی زیارت
۶۹۳	قرأت کی ابتداء	۶۹۳	بیت اللہ شریف کا طواف
۶۹۴	بلند آواز سے قرأت	۶۹۴	حجر اسود کا استلام
۶۹۶	خوش آوازی سے قرأت	۶۹۶	کعبۃ اللہ کے پردوں کو بکھڑانا
۷۰۰	تیسرا باب	۷۰۰	صفا اور مروہ کے درمیان سعی و قوت
۷۰۱	تلاوت سے باطنی اعمال کلام کی عظمت کو	۷۰۱	عرفات۔
۷۰۲	سمجھنا۔	۷۰۲	گنکریاں مارنا
۷۰۳	تمکلم کی تعظیم	۷۰۳	مدینہ طیبہ کی زیارت
۷۰۴	دل کی حاضری	۷۰۴	زیارت نبوی
۷۰۵	عز و فکر کرنا	۷۰۵	
۷۰۶	آیات کے مفہوم کو سمجھنا	۷۰۶	۸۔ آداب تلاوت قرآن کا بیان
۷۰۸	سمجھنے کے راستے میں رکاوٹیں	۷۰۸	پہلا باب
۷۱۱	فہم کی چار رکاوٹیں	۷۱۱	قرآن پاک اور اس کے اہل لوگوں کی فضیلت اور
۷۱۲	تخصیص خیال کرنا	۷۱۲	تلاوت میں کوتاہی کرنے والوں کی مذمت۔
۷۱۳	تاثر	۷۱۳	فضیلت قرآن۔
۷۲۰	ترقی	۷۲۰	اقوال صحابہ و تابعین
۷۲۱	قطع تعلق	۷۲۱	غافل لوگوں کی تلاوت کی مذمت
۷۲۲	چوتھا باب	۷۲۲	دوسرا باب
۷۲۳	قرآن پاک کو سمجھنا اور تفسیر بارائے	۷۲۳	تلاوت کے ظاہری آداب قاری کی حالت
۷۲۴	۹۔ اذکار اور دعاؤں کا بیان	۷۲۴	قرأت کی مقدار
۷۲۵	پہلا باب	۷۲۵	تقسیم مقدار قرأت
۷۲۶	ذکر کی اجمالی اور تفصیلی فضیلت اور فائدہ	۷۲۶	کتابت قرآن
۷۲۷	آیات کریمہ	۷۲۷	ترتیب قرآن
۷۲۸		۷۲۸	تلاوت کرتے ہوئے روننا

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۷۹۶	حضرت خضر علیہ السلام کی دعا	۷۲۲	احیاءِ مہلک
"	حضرت معروف کرخی رحمہ اللہ کی دعا	۷۲۵	آثارِ صحابہ و تابعین
۷۹۷	حضرت عقبہ (غلام) رضی اللہ عنہ کی دعا	۷۲۶	مجالسِ ذکر کی فضیلت
۷۹۸	حضرت آدم علیہ السلام کی دعا	۷۲۸	"لا الہ الا اللہ" پڑھنے کی فضیلت
"	حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی دعا	۷۵۲	سبجان اللہ، الحمد للہ اور دیگر اذکار کی فضیلت
۷۹۹	حضرت سلیمان تیمی رضی اللہ عنہ کی دعا	۷۶۲	<u>دوسرا باب</u>
۸۰۰	حضرت ابراہیم بن ادھم رضی اللہ عنہ کی دعا	"	دعا کے آداب وغیرہ
۸۰۲	<u>چوتھا باب</u>	"	دعا کی فضیلت
"	رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ	۷۶۲	آدابِ دعا
"	عنہم سے مروی منتخب دعائیں۔	۷۷۶	سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور
۸۱۲	استعاذہ	"	آپ پر درود و شریف بھیجنے کی فضیلت
۸۱۸	<u>پانچواں باب</u>	۷۸۱	فضیلتِ استغفار (آیات و احادیث)
"	مختلف امور سے متعلق ماثور دعائیں	۷۸۶	آثارِ صحابہ و تابعین
"	مسجد کی طرف جاتے وقت کی دعا	۷۸۹	<u>تیسرا باب</u>
۸۱۹	گھر سے کسی کام کے لیے نکلنے وقت کی دعا	"	(ماثور دعائیں وغیرہ)
"	منیٰ میں داخل ہونے کی دعا	"	دعا کے فخر
۸۲۰	رکوع میں کیا پڑھا جائے؟	۷۹۱	دعا کے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا
"	رکوع سے سر اٹھاتے وقت سجدے میں۔	۷۹۲	دعا کے حضرت فاطمہ الزہراء رضی اللہ عنہا
۸۲۱	تلاز سے فراغت پر	"	دعا کے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ
۸۲۲	مجلس سے اٹھتے وقت	۷۹۳	دعا کے حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ
"	بازار میں داخل ہوتے وقت	۷۹۴	دعا کے حضرت قبیسہ بن مخارق رضی اللہ عنہ
"	قرض کی ادائیگی کے لیے	"	حضرت ابو ذر اور رضی اللہ عنہ کی دعا
۸۲۳	نیا لباس پہنتے وقت	۷۹۵	حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا
"	ناپ ندیدہ بات دیکھتے پر	۷۹۶	حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۸۳۳	نکاح کی مبارک باد پیش کرتے وقت	۸۳۳	چاند دیکھتے وقت
"	ادائیگی قرض کے وقت	۸۳۴	آدھی چلتے وقت
۸۳۵	دعا کا فائدہ	"	کسی کی وفات پر
۸۳۶	۱۔ وظائف کی ترتیب اور قیام لیل کی فضیلت	۸۳۵	صدقہ دیتے وقت
"		"	نقصان اٹھانے پر
۸۳۱	<u>پہلا باب</u>	"	کام کا آغاز کرتے وقت
"	(وظائف کی فضیلت، ترتیب اور احکام)	"	آسمان کی طرف دیکھتے وقت
"	وظائف کی فضیلت	۸۳۶	گرج سننے پر
۸۳۲	وظائف کی تعداد اور ترتیب	"	بجلی چمکنے پر
۸۳۹	کلماتِ ذکر	"	بارش برسنے پر
۸۵۶	دوسرا وظیفہ	"	غصہ آنے پر
۸۵۱	تیسرا وظیفہ	۸۳۷	ڈر کے وقت
۸۵۹	چوتھا وظیفہ	"	جہاد کے وقت
۸۶۰	پانچواں وظیفہ	"	کان کے بولنے پر
۸۶۱	چھٹا وظیفہ	"	قبولیتِ دعا پر
۸۶۲	ساتواں وظیفہ	۸۳۸	اذانِ مغرب سننے پر
۸۶۳	رات کے وظائف	"	غم پہنچنے پر
"	پہلا وظیفہ	"	جسم میں درد پر
۸۶۶	دوسرا وظیفہ	۸۳۹	تکلیف پہنچنے پر
۸۶۹	تیسرا وظیفہ	"	سونے کا ارادہ ہوتو۔
۸۷۰	سونے کے آداب	۸۳۱	بیداری کے وقت
۸۷۷	چوتھا وظیفہ	۸۳۲	وقتِ شام کی دعا
۸۸۰	پانچواں وظیفہ	"	شیشہ دیکھتے وقت
۸۸۳	حالات کی تبدیلی سے وظائف کا بدلنا	۸۳۳	کچھ خریدتے وقت

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۹۰۳	ظاہری شرائط	۸۸۲	عابد کا وظیفہ
۹۰۴	باطنی امور	۸۸۵	عالم کا وظیفہ
۹۰۹	رات کے جزاء کی تقسیم	"	عالم کے دن رات کی تقسیم
"	پہلا مرتبہ	۸۸۶	طالب علم کا وظیفہ
"	دوسرا مرتبہ	۸۸۷	کام کاج کرنے والے کا وظیفہ
"	تیسرا مرتبہ	۸۸۸	حکمرانوں کا وظیفہ
۹۱۰	چوتھا مرتبہ	"	موجودہ کا وظیفہ
"	پانچواں مرتبہ	۸۹۲	دوسرا باب
۹۱۱	چھٹا مرتبہ	"	(قیام لیل کی آسانی کے اسباب وغیرہ)
۹۱۲	ساتواں مرتبہ	"	مغرب و عشاء کے درمیان عبادت کی فضیلت
"	فضیلت والی راتیں اور دن	۸۹۵	قیام لیل کی فضیلت
"	شب معراج کی نماز	"	آیات کریمہ
۹۱۳	شب برأت کی نماز	۸۹۶	احادیث مبارکہ
"	معراج و ماخذ	۹۰۰	آثار صحابہ و تابعین
		۹۰۳	قیام لیل کی آسانی کے اسباب

ابتدائیہ

بسم اللہ الرحمن الرحیم

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا ایک اہم مقصد "تزکیہ قلوب" ہے قرآن پاک میں "ویریکیم" کے الفاظ مبارکہ سے اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، "تزکیہ قلوب" کی افادیت اور اہمیت سے کسے مجال انکار ہو سکتی ہے جب کہ دل کی پاکیزگی، احکام شریعت کی بجا آوری اور نفس و شیطان کے دام ترویج سے نجات کا بنیادی پتھر ہے۔

امت مسلمہ کے صلحاء اور علماء نے نیابت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فریضہ انجام دیتے ہوئے ہر دور میں فلاح انسانیت کے اس اہم راستے کو اپنایا اور اپنی گرانقدر تصانیف کے ذریعے دولت کی ہوس جاہ و مرتبہ کی چاہت اور نخوت و تجبر کی خواہش کے بتوں کو پاش پاش کیا چنانچہ جن لوگوں نے ان حکمت و موعظت سے بھرپور اور اخلاق حسنة کے گرانقدر خزانہ تصانیف سے استفادہ کیا ان کے نزدیک دیوی دولت پر گاہ کی حیثیت بھی نہیں رکھتی اور وہ تخت اقتدار کو ٹھوکر مارنے سے بھی گریز نہیں کرتے ان کی نگاہیں دلوق و سجادہ کی جو وقعت ہے تخت سکندری کو بھی وہ مقام حاصل نہیں ہے۔

حضرت امام غزالی رحمہ اللہ نے "احیاء علوم الدین" ایسی نہایت بیش قیمت تصنیف کے ذریعے نہ معلوم کتنے گمشدگان راہ کوراہ حق کا مسافر بنایا اور کتنے ہی وہ خوش نصیب ہیں جن کی زندگیوں میں اس دریکتا نے انقلاب برپا کیا۔ "احیاء العلوم" کی عظمت کا اندازہ اس بات سے بخوبی ہو جاتا ہے کہ اکابر امت جلیل القدر علماء و صوفیاء نے اس کتاب کی عظمتوں کو سلام کیا اور نہایت قیمتی الفاظ سے اسے خراج تحسین پیش کیا۔

حضرت شیخ ابو محمد کا زور و نوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔

"اگر تمام علوم ناپید ہو جائیں تو میں (ان کو) احیاء العلوم سے نکال لوں گا"

کتاب تعرفت الیہ ص ۷۷

قطب الاولیاء شیخ عبداللہ عیدروس رحمۃ اللہ فرماتے ہیں۔

"میں نے کئی سال احیاء العلوم کا مطالعہ کیا ایک ایک فصل اور ایک حرف کو بار بار پڑھا اور اس میں غور و فکر کیا تو ہر دن میرے سامنے بڑے بڑے علوم و اسرار اور عمدہ مضامین ظاہر ہوئے جو پہلے مجھے حاصل نہ تھے اور نہ ہی اس سے پہلے ان تک کسی کی رسائی ہوئی" (ایضاً)

وہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ قوت شدہ لوگوں کو زندہ کر دے تو وہ زندہ لوگوں کو صرف ان باتوں کی وصیت کریں گے

جو احیاء العلوم میں درج ہیں" (ایضاً)

”احیاء علوم الدین“ عربی زبان میں لکھی گئی ہے اور یہ بات واضح ہے کہ عربی زبان سے ناواقف شخص کے لیے اس سے استفادہ اس وقت تک ممکن نہیں جب تک یہ کتاب اسے ایسی زبان میں نہ لے جس کے ذریعے وہ اس کتاب کو پڑھ سکے۔ آج سے کافی عرصہ پہلے احیاء العلوم کو اردو زبان میں منتقل کیا گیا جو یقیناً اردو دران طبقہ کے لیے ایک اچھی کوشش تھی لیکن بدلتے ہوئے حالات کے تقاضوں کے مطابق ایک ایسے نئے ترجمہ کی ضرورت اپنی جگہ باقی تھی جو جدید دور کی ضرورتوں کو پورا کر سکے۔

پروگریسو بکس اور دو بازار لاہور کے میاں شہباز رسول جو دینی کتب کی اشاعت کے ذوق سے مالا مال ہیں، نے راقم سے ایک ملاقات میں احیاء العلوم کے ترجمہ کی فرمائش کی بلکہ اس قدر اصرار کیا کہ راقم کو اپنی علمی بے بضاعتی اور مصروفیت و ہجوم کار کے باوجود انکار یا فرار کی راہ نظر آئی۔ چنانچہ راقم نے احیاء العلوم کا اردو ترجمہ لکھنا شروع کر دیا حقیقت یہ ہے کہ راقم کو احیاء العلوم سے جو فیض حاصل ہوا وہ الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا اور اگر یہ کہوں تو بے جا نہ ہوگا کہ اس ناچیز اور کم علم، کاقلم و قراطس سے جو ربط قائم ہے وہ قدوة الاصفیاء حضرت امام غزالی اور حضرت غزالی دوران علامہ سید احمد سعید کاظمی رحمہما اللہ کا عظیم فیضان ہے۔

حضرت سید وجاہت رسول قادری مدظلہ صدر ادارہ تحقیقات امام احمد رضا کا لیے حد ممنون ہوں کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے کچھ وقت نکال کر نہایت عمدہ اور سبباً تقسیم تحریر فرما کر راقم کی حوصلہ افزائی فرمائی فجزاھم اللہ احسن الجزاء۔ حضرت مولانا مفتی محمد رب نواز زید مجاہد نے نہایت محنت اور کاوش سے حوالہ جات کی تخریج کے ذریعے کتاب کی وقعت کو کر دیا ہے اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔

ادارہ پروگریسو بکس نے راقم کو بیہ ذمہ داری سونپ کر اس سعادت سے بہرہ مند ہونے کا شرف بخشا ہے اس پر جناب میاں غلام رسول اور ان کے نوجوان متحرک صاحبزادے جناب میاں شہباز رسول کا شکریہ گزار ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ دینی کتب کی اشاعت کے سلسلے میں ان کی مساعی کو بار آور فرمائے اور اس راستے میں حائل مشکلات کے ازالہ میں ان کی مدد فرمائے آمین بجاہ سید المرسلین علیہ التھیۃ والتسلیم۔

محمد صدیق ہزاروی

جامعہ نظامیہ رضویہ لاہور

۲۳ شوال المکرم ۱۴۱۸ھ / یکم فروری ۱۹۹۸ء بروز اتوار

مقدمہ

بسم اللہ الرحمن الرحیم

فاسٹ می گویم وارز گفنتہ اودل شادم

حجتہ الاسلام امام محمد غزالی علیہ الرحمۃ والرضوان کی نابغہ عصر ہستی کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ ایسی ہستیاں صدیوں میں منصفہ شہود پر آتی ہیں۔ ان کا شمار ان ذواتِ مقدسہ میں ہوتا ہے جنہوں نے اپنی زندگی کا ہر لمحہ اس عالم ناپاپیدار کی رنگارنگ دلچسپیوں سے بیگانہ ہو کر دینِ متین کی معرفت، خود آگاہی و خدا آگاہی کی منزل کے حصول، علم حقیقی و یقینی کے اور اک اور اس کے اور جذبہ عرفانِ محبتِ الہی و عشقِ نبویؐ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابداع و فروغ میں صرف کیا۔ ان کے خیال و فکر کی ہر سہلہ میں "ہوائیہ" کی آوازیں ہیں اور قلم کی ہر جھلک میں خدا کے علم یزل کی معرفتیں پوشیدہ ہیں۔ ان کی تحریر کی ہر سطر محبت و اتباعِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا درس دیتی ہے۔

حجتہ الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا نام نامی محمد ابن محمد ابن محمد تھا۔ اور کنیت ابو حامد خاندان میں سوت اور دھاگے کا کام ہوتا تھا اسی مناسبت سے آپ خود کو غزالی کہتے تھے، عربی کی اصطلاح میں غزال اسی معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ آپ کی ولادت باسعادت خراسان کے شہر طاہران میں ۴۵۰ھ / ۱۰۵۲ء میں ہوئی۔

آپ کے والد ماجد محمد بن محمد خود زیادہ پڑھے لکھے نہ تھے لیکن آپ کو علماء و صوفیاء کی مجلسوں میں بیٹھنے کا شوق تھا، علماء و مشائخ کی فیضِ صحبت سے علم کی فیض رسانی اور اس کی اعلیٰ صلاحیتوں کا ادراک تھا اس لیے دل سے چاہتے تھے کہ ان کے دونوں صاحبزادگان محمد غزالی اور احمد غزالی زبورِ علم شریعت و طریقت سے آراستہ ہوں، چنانچہ اس مقصد کے لیے آپ نے اپنے صاحبزادگان کے لیے کچھ اثاثہ بھی پس انداز کیا جو آپ کے انتقال پر ان دونوں سعادت مند بیٹوں کے حصول علم اور سوز تکمیل علم میں بہت کام آیا۔

امام صاحب کی پوری زندگی علم کی پیاس بجھانے کے لیے سفر اور نقل مکانی میں گزری۔ انہوں نے علوم شریعت میں کمال حاصل کرنے کے لیے اپنے زمانے کے تمام علوم متداولہ عقلیہ اور نقلیہ میں دسترس حاصل کی مثلاً۔ اصول فقہ، فقہ علم حدیث، منطق، فلسفہ، علم کلام، علم اخلاق تصوف وغیرہا۔

تحصیل علم کی ابتدائی منزل میں ایک حادثہ نے آپ کی زندگی پر گہرا اثر ڈالا جو اب کے ذوق و شوق طلب علم کے لیے ایک ہمیشہ ثابت ہوا۔

آپ طاہران میں اپنے استاد احمد بن محمد سے جو اپنے وقت کے جید عالم تھے، ابتدائی علوم کی تکمیل کے بعد ان کے

مشورے پر درس نظامی میں شمولیت کے لیے جرجان تشریف لے گئے جہاں آپ نے علامہ ابو نصر اسماعیلی سے کسب علم کیا۔ جب آپ جرجان سے فارغ التحصیل ہونے کے بعد واپس لوٹ رہے تھے تو راستے میں ڈاکوؤں سے آپ کے قافلے کو لوٹ لیا آپ کی بھی تمام متاع لوٹ لی گئی حتیٰ کہ وہ صغیم مجموعہ تحریر (نوٹس) جو آپ نے دوران تعلیم سبقاً سبقاً اور موضوع کے اعتبار سے بڑی کاوش سے تیار کیا تھا اور جو آپ کے اہلک کے علمی سفر کا ایک بہت عظیم سرمایہ تھا اور آپ کو جان سے زیادہ عزیز تھا وہ بھی ڈاکوؤں نے آپ سے چھین لیا۔ آپ اپنی جان و مال کی پروا کئے بغیر ڈاکوؤں کے سردار کے پاس گئے اور فرمایا کہ تم لوگ میرا سب کچھ لے سکتے ہو لیکن وہ میرا مجموعہ تحریر تمہارے کسی کام کا نہیں، میرا سب کچھ علم اسی میں ہے وہ مجھے واپس کر دو۔ ڈاکوؤں کا سردار ہنسا اور یہ کہہ کر آپ کا کتابچہ واپس کر دیا، "واہ صاحبزادے آپ نے جو کچھ پڑھا وہ اس کتاب میں رکھ دیا اور اپنے پاس کچھ نہ رکھا؟" آپ کو سردار کے ان الفاظ پر بہت ندامت ہوئی واپسی آپ نے اس کتابچہ میں جو کچھ تحریر تھا نہ یہ کہ سب ازبر کر لیا بلکہ ان میں مذکورہ تمام علوم اور دیگر علوم و فنون میں ایسا کمال حاصل کیا کہ دنیا کے علم آج تک آپ کے استحضار علمی پر حیرت زدہ ہے۔

اسی بنا پر آپ کو "حجتہ الاسلام" کا لقب دیا گیا کہ آپ کی زبان و قلم اہل علم و فن کے نزدیک سند کا درجہ رکھتی ہے۔ بعد میں طلب علم کی سرستی اور تحصیل علم میں درجہ کمال طے کرنے کی خواہش اس زمانہ کے مشہور مرقہ مدرسہ نظامیہ میں داخلہ کے حصول کے لیے نیشاپور لے آتی ہے۔ یہ ملک کی سب سے بڑی جامعہ تھی۔ یہاں کے شیخ الجامعہ کو "امام الحرمین" کہا جاتا تھا۔ امام الحرمین کا منصب اس وقت دنیائے علم و ادب کا سب سے بڑا منصب تھا اور نہ صرف علماء و خواص عوام بلکہ سلطان وقت بھی "امام الحرمین" کے فتوؤں اور احکامات کے پابند ہوتے۔

جب امام غزالی طوس سے نیشاپور تشریف لے گئے تو وہاں اپنے زمانے کے سب سے بڑے عالم علامہ ابوالمعالی جوینی علیہ الرحمۃ "امام الحرمین" تھے۔ چنانچہ امام صاحب نے آپ کی شاگردی اختیار کرتی۔

علامہ جوینی علیہ الرحمۃ کے وصال کے بعد ۸۷۸ھ میں سلطان وقت کے امام غزالی کو اس منصب اعلیٰ (امام الحرمین) پر فائز کیا، لیکن اسی مسند پر تشریف فرما ہونے کے لیے امام غزالی کو سلطنت کے دیگر جید علماء و سے دقیق علمی موضوعات پر بحث و مباحثہ اور مختلف علوم و فنون پر مناظرہ کے امتحان سے گذرنا پڑا، جس میں آپ نہایت کامیاب رہے اور سلطان وقت اور ملک بھر کے علماء و فضلا آپ کے تبحر علمی کی قائل ہو گئے۔ تمام اراکین و امراء سلطنت آپ کے مقلد ہو گئے۔ اور ایک وقت ایسا بھی آیا کہ بادشاہ وقت سے زیادہ امام صاحب کا سکہ لوگوں کے دلوں پر بیٹھ گیا۔ بایں ہمہ اہتمام و احتیاط کہ آپ سلطنت و حکومت کے قضیے بھی نپٹاتے تھے، اپنے تعلیمی مشاغل سے کسی بھی وقت غفلت نہ ہونے دی اور درس و تدریس اور مواعظ و تعاریف کا سلسلہ برابر جاری رہا۔ سلطنت سلجوقیہ کے وزیر اعظم خواجہ نظام الملک طوسی، امام غزالی کے بڑے معتقد تھے اور وہ نبض نبض امور مملکت میں امام غزالی سے مشورہ کرتے تھے، وہ امام غزالی کی بہت زیادہ

خدمت کرتے اور ان کی دلجوئی میں مشغول رہے۔ تاکہ امام صاحب نیشاپور چھوڑ کر بغداد یا کسی اور شہر مثلاً دمشق وغیرہ ہجرت نہ کر جائیں، اس لیے کہ امام غزالی تمام بلاد اسلامی میں معروف تھے اور سرسلطان اور مدرسہ نظامیہ کا مہتمم یہ چاہتا تھا کہ وہ اس کے دارالسلطنت میں آجائیں اور درس و تدریس کی سند سنبھالیں، لیکن ۸۴۲ھ میں مدرسہ نظامیہ بغداد کے مدرس اعلیٰ علامہ حسین بن علی طبری کے انتقال کے بعد نظام الملک کی استدعا پر امام غزالی علیہ الرحمۃ کو اس منصب اعلیٰ کو قبول کر کے بغداد آنا پڑا۔ ۸۸۸ھ تک آپ اس عہدے پر متمکن رہے لیکن امام غزالی اپنے تمام علوم کی تکمیل کے بعد جس باطنی اور روحانی سکون کے متلاشی تھے وہ ان کو حاصل نہ تھا، پھر بغداد میں اس وقت نزاع، انتشار اور فتنہ و فساد کی کیفیت تھی، سیاسی اعتبار سے سلطنت عباسیہ کمزور ہو رہی تھی، دارالخلافہ بغداد مختلف فرقوں، سنی، شیعہ، باطنیہ، معتزلیہ، اور دیگر مذاہب باطلہ، مجوسی، عیسائی، فلسفی، ظاہری وغیرہ کے درمیان بے جا مناظروں اور مجادلوں کی آماجگاہ بنا ہوا تھا۔ ماحول کی اس پریشان حال کے امام صاحب کی زندگی پر بھی برا اثر ڈالا، حالات سے اس قدر بیزار ہو گئے کہ ان کی صحت بھی خراب رہنے لگی چنانچہ روحانی سکون کی خاطر آپ نے منصب تدریس سے رخصت اختیار کی اور حج و زیارت حرمین شریفین کے لیے چلے گئے واپسی پر شام (دمشق) میں کافی عرصہ قیام کیا وہاں سے بیت المقدس اور پھر اسکندریہ شریف لے گئے اور لوٹتے ہوئے پھر دمشق میں کافی مدت قیام پذیر ہوئے، آخر میں اپنے وطن طوس تشریف لائے تو دنیا کی گونا گوں مصروفیات اور رنگا رنگی سے قطعی کنارہ کشی اختیار کر چکے تھے، حتیٰ کہ لباس فاخرہ کی بجائے ایک کبیل اور ٹھٹھے اور لذیذ غذاؤں کے بدلے ساگ پات پر گذر رہے تھے۔ دمشق اور بیت المقدس کے اسی سفر کے دوران آپ نے احیاء العلوم، جواہر القرآن، تفسیر یافت التاویل، رہم جلدیں مشکوٰۃ الانوار اور دیگر مشہور کتب تصنیف فرمائیں۔

تصنیف و تالیف سے دل اچاٹ ہوا تو پھر نیشاپور تشریف لائے اور درس و تدریس کی سند سنبھالی، دوبارہ طبیعت گھبرائی تو طوس واپس آگئے۔ یہاں آکر ایک خانقاہ اور ایک دارالعلوم کی بنیاد ڈالی اور پھر صرف اور ادو وظائف ریاضت و عبادت، گوشہ نشینی اور تصوف کی تدریس میں عمر گزار دی۔ آپ ستائیس سال کی عمر میں شیخ ابوعلی فارمدی علیہ الرحمۃ کے ہاتھ پر بیعت ہوئے تھے یہ آپ کا زمانہ طالب علمی کا بعد میں آپ نے زیادہ وقت دمشق میں شیخ نصر مقدی رحمۃ اللہ علیہ کی تربیت روحانی میں گزارا۔

غزنیۃ الاولیاء میں امام غزالی علیہ الرحمۃ کے حوالے سے ایک واقعہ درج ہے جس سے ان کے روحانی مقام کا پتہ چلتا ہے۔ "شیخ محمد صادق شیبانی نے اپنی کتاب "مناقب غوثیہ" میں تذکرہ کیا ہے کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شب معراج حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ اے خاتم المرسلین، صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا ارشاد گرامی ہے کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کے مثل میں، میری خواہش ہے کہ ان میں سے کسی عالم کو دیکھ سکوں، اس وقت امام غزالی علیہ الرحمۃ کی روح وہاں موجود تھی چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے اس کو

پیش کیا گیا، آپ نے اس روح سے نام دریافت کیا جو اب ملا محمد ابن محمد ابن محمد غزالی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دریافت فرمایا میں نے تم سے صرف تمہارا نام دریافت کیا تھا، تم نے اہمیت کے بتانے کی کیوں ضرورت سمجھی؟

امام صاحب کی روح نے جواب دیا کہ آپ سے بھی تو طور پر پوچھا کہ یہ صرف یہ دریافت کیا گیا تھا کہ یہ کیا ہے، لیکن آپ اس کے متعلق تمام تفصیل بتانا شروع کر دیں کہ میں اس عصا سے فلاں فلاں کام لیتا ہوں، اور یہ عصا فلاں فلاں موقع پر میری مدد کرتا ہے، حالانکہ آپ کا جواب صرف عصا فرادنیسا ہی کافی ہو جانا، جناب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں اب بات تو تم صحیح کہتے ہو لیکن وہ تمام جوابات میرے منہ سے بے ساختہ نکل گئے تھے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی روح نے فوراً جواب دیا کہ بس اسی طرح میرے والد کا نام بھی بے ساختہ نکل گیا، اور ہو سکتا تھا کہ آپ بعد میں میرے والد کا نام دریافت فرماتے لہذا میں نے پہلے ہی شامل کر دیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اس جواب پر خاموش ہو گئے اس پر پید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عصا کے ذریعے تنبیہ کی کہ غزالی خاموش ہو جاؤ چنانچہ اس عصا کی چوٹ کا نشان امام رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت کے بعد ان کے جسم پر دیکھا گیا بلکہ بعض مورخین کہتے ہیں کہ امام صاحب اس چوٹ اور تنبیہ کی وجہ سے ننگم کر چلے تھے۔

امام غزالی علیہ الرحمۃ کے شاگردوں کا سلسلہ بہت ہی وسیع تھا ایک ایک وقت میں ڈیڑھ ڈیڑھ سو طالب علم آپ کے زیر تربیت ہوئے تھے بلکہ امام الحرمین کے انتقال کے بعد آپ کے شاگردوں کی تعداد سینکڑوں سے ہزاروں تک پہنچ گئی، یہاں تک کہ اس دور میں آپ کے درس میں تقریباً تین سو مدرسین، اور سینکڑوں روٹا و امرا، دینار اور اکیں سلطنت تک درس میں شریک ہوتے اور آپ کے مواعظ کو نقل کر لیا کرتے تھے۔

لیکن اس مقبولیت، اور اعلیٰ علمی مقام و منصب کے ساتھ، ساتھ جیسا کہ ایسی برگزیدہ شخصیتوں کے ساتھ ہوتا ہے ان کے بہت سے حاسد اور بدخواہ بھی پیدا ہو گئے تھے جنہوں نے امام صاحب کو ستانے اور پریشان کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی، لیکن امام صاحب علیہ الرحمۃ نے محض اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر ہر طرح کی صعوبتیں اور رنج برداشت کئے اور حرف شکوہ زبان پر نہ لائے۔ وہ بادشاہ وقت سے بھی کبھی مرعوب نہیں ہوئے، نہ بڑے سے بڑے منصب نے ان کی زبان و قلم کو اعلیٰ کلمۃ الحق سے روکا۔ دنیا سے بے رغبتی اور باسوا اللہ سے بے خوفی ان کی شان اور ان کی شخصیت کا خاصہ تھا۔ وہ مرد مومن تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے ولی تھے جن کی شان میں قرآن مجید میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔

الَّذِينَ أُولِيَ اللَّهُ الْخَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

”وہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہے اور نہ غم“ (ترجمہ کنز الایمان)

وہ اوائل عمر ہی سے آخری دم تک اشاعت اسلام اور مسلمانوں کی تربیت و تزکیہ نفس میں مشغول رہے مال و متاع، جاہ و حشم، تخت و تاج کی ان کی نظر میں کوئی وقعت نہ تھی۔

کوئی علم ایسا باقی نہ تھا جس کے حصول میں کوئی کمی رہ گئی ہو جو آپ کی تصانیف کے مطالعہ سے معلوم ہو سکتا ہے۔ وہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سرشار تھے، دیدار الہی کے مشاق تھے۔

۱۲ جمادی الآخر ۱۰۵۰ھ کو جب صبح صادق نے اپنا گریبان چاک کیا، امام غزالی علیہ الرحمۃ اٹھے، وضو کیا، ملک الموت سامنے آئے دکھائی دیئے آپ نے ان کو خوش آمدید کہا، آگے بڑھے تسلیم خم کیا، کہا آپ کا حکم بسر و حتم قبول، میں تو مشاق نقائے دوست ہوں اپنے ہاتھوں کفن سپن کر ملک الموت سے فرمایا کہ ہاں اب روح قبض کر لیجئے۔ «لادالہ الا اللہ محمد رسول اللہ» پڑھا اور روح قبض کر لی گئی جسدِ خاکی یہاں رہ گیا روح عالم جاودانی کو پرواز کر گئی وہ دن بھی اتفاق سے پیر کا تھا جو ان کے آقا حبیب کبریا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا دن ہے، تمام عالم اسلام میں اس سانچے سے پہل مچ گئی ہے

آج پھولے نہ سمائیں گے کفن میں آسے

آج کی رات ہے اس گل سے ملاقات کی رات

تاریخ ولادت: لفظ "محبّت اور بحر العلوم" سے برآمد ہوتی ہے۔ ۴۵۰ھ

تاریخ وفات: "محبّت مجتبیٰ" ۵۰۵ھ نکلتی ہے تذکرۃ الشعراء میں تاریخ وفات یوں لکھی ہے۔

نصیب حجتہ الاسلام از میں سرائے سنج

حیات پنجہ گو چار و مہمات پانچ صد و پنج

امام غزالی رحمۃ اللہ نے اپنی چوٹی سالہ مختصر سی زندگی میں وہ کارپائے نمایاں انجام دیئے جو تاریخ عالم میں کم شخصیات

نے انجام دیئے اور تمام عالم انسانیت کے لیے ایک سبق اور مثال ہیں۔ اس عرصے میں تحصیل علوم اسلامی کے علاوہ اپنے

زمانے کے مختلف النوع علوم عقلیہ و نقلیہ میں تبحر و کمال و شہس، تصنیف و تالیف کا زمانہ طالب علمی سے لے کر عمر کے

آخری ایام ایک عمل مسلسل، جو تصانیف کی کثرت پر منتج ہوتا ہے، حضور و سفر میں مشغلہ درس و تدریس اور وقت کے گزرتے

کے ساتھ ساتھ ہجوم تلامذہ میں روز افزوں اصناف تحصیل علم اور ابلاغ علم نافع رُشیریت و طریقت کے لیے دور دراز ممالک

کے بار بار سفر، علوم و معارف روحانی اور صحبت اولیاء سے فیضیابی کے لیے تمام بلاد اسلامیہ میں صحرانوردی اور پیر آخر

میں عالم شش بہان کی گونا گول مصروفیات سے کہیں دور عالم لاموت میں «هو اللہ»، کے سحر و خاریں غوطہ زنی، اور مقام فنا

سے مقام بقا تک سیر آپ کی حیات کے یہ اور دیگر تمام معاملات و معمولات انسان کو درطہ حیرت میں ڈال دیتے ہیں۔ علامہ

شبلی نعمانی اپنی تصنیف «الغزالی» میں امام علیہ الرحمۃ کی ہمہ جہت شخصیت کی متذکرہ خصوصیات پر یوں روشنی ڈالتے ہیں۔

«تصنیفات کے اعتبار سے امام صاحب کی زندگی نہایت حیرت انگیز ہے۔ انہوں نے صرف ۴۵ برس کی عمر بانی توبیّا

میں برس کی عمر سے تصنیف و تالیف کا مشغلہ شروع کیا، دس گیارہ برس صحرانوردی اور باہر پیمانی میں گزارے، ساتھ ہی ساتھ

درس و تدریس کا شغل بھی قائم رہا اور کبھی کسی زمانے میں آپ کے شاگردوں کی تعداد ڈیڑھ سو سے کم نہیں رہی۔ فقرو تصوف کے مشغلے جدا گانہ، دور دور سے جو فتاویٰ آئے تھے، ان کے جوابات دنیا الگ — بایں ہمہ سینکڑوں کتب تصنیف کیں، جن میں بعض کئی کئی جلدوں پر مشتمل اور گونا گوں مضامین سے پر ہیں اور ہر تصنیف اپنے مضمون میں بے نظیر ہے۔

اس سعادت بزور بازو نیست
تا نہ بخشد خدائے بخشندہ

علامہ شبلی نعمانی نے امام غزالی علیہ الرحمۃ کی ہمہ جہت شخصیت اور ان کی زندگی کی مصروفیات اور ان کے کارناموں کا جو نقشہ کھینچا ہے، اس کی مماثلت اگر دور حاضر کی کسی بابوہ عصر شخصیت میں دیکھی جاسکتی ہے تو وہ ہے امام احمد رضا خاں افغانی علیہ الرحمۃ کی شخصیت ہے جو امام غزالی علیہ الرحمۃ کی طرح کثیر التصانیف (ایک ہزار سے زیادہ کتبہ کے مصنف) علوم اسلامی، فقہ، حدیث، تفسیر کے علاوہ اپنے دور کے تمام علوم پر نہ صرف نظر بلکہ ستر سے زیادہ جدید و قدیم علوم و فنون پر دسترس رکھتے تھے اور ہر فن میں آپ نے کوئی نہ کوئی یادگار تصنیف چھوڑی ہے، فرق یہ ہے کہ امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ مذہب شافعی کے فقیہ اعظم، امام اور چھٹی صدی ہجری کے مجدد تھے، اور امام احمد رضا خاں افغانی علیہ الرحمۃ والرضوان مذہب حنفی کے فقیہ اعظم، امام اور چودھویں صدی ہجری کے مجدد تھے، اس اعتبار سے امام احمد رضا خاں اپنے دور کے امام غزالی تھے۔ لیکن ذاتی بغض و عناد، علمی کم مائیگی کی بنا پر حسد کینہ پرور امر اور علماء و اعیان مملکت کی ریشہ دوانیوں کے اعتبار سے دونوں کے حالات یکساں نظر آئے ہیں، امام غزالی علیہ الرحمۃ کی ذہانت و فطانت، علم و فضل اور ان کے کمالات و کرامات سے چلنے والوں نے ان پر طرح طرح کے الزامات لگائے، ان کی تصانیف میں جاوے جاویں تلاش کئے گئے اور من گھڑت عقائد و افکار کو ان کے ذاتی عقیدہ و مسلک سے منسوب کیا گیا یہاں تک کہ ان کو زندیق تک کہا گیا اور ان کی بعض تصانیف حتیٰ کہ "احیاء العلوم، جہی بلند پایہ اور اخلاقیات کے موضوع پر بے نظیر اور بے مثال کتاب کو بھی نذر آتش کر دیا گیا، لیکن سب بے سود! امام غزالی علیہ الرحمۃ کے ذاتی کردار، اخلاق و آداب اور سچائی علم نے لوگوں کے دلوں میں خود راہ بنائی، ان کی تصانیف کم کردگان منزل کے لیے چراغ راہ ثابت ہوئیں، علم و احسان کی بالآخر جیت ہوئی، جہالت و گراہی پسپا ہوئی، امام احمد رضا خاں افغانی علیہ الرحمۃ کے ساتھ بھی حاسدوں اور جاہلوں کا کچھ ایسا ہی سلوک رہا، الحمد للہ ان کے وصال کے پچھتر سال بعد ان کی بعض معرکۃ الآراء تصانیف کے منظر عام پر آنے کے بعد اب جہل و عداوت اور بعض عناد کے بادل جھٹ رہے ہیں اور ان کا علمی وقار بلند سے بلند تر ہو رہا ہے اور نابوہ عصر شخصیت کے خد و خال نکھر کر سامنے آ رہے ہیں۔

امام غزالی علیہ الرحمۃ کی تصانیف کی صحیح تعداد کا تعین مشکل ہے لیکن ان کے سوا سچ نگار سینکڑوں کی تعداد بتاتے ہیں۔

علامہ شبلی نعمانی نے اپنی تصنیف "الغزالی" میں بحساب حروف تہجی اجمالاً اٹھتر (۱۸) کتب شمار کی ہیں۔ لیکن ان کی مشہور تصانیف علوم کے اعتبار سے حسب ذیل ہیں۔

فقہ :- تعلیقہ فی فروع المذہب - بیان القولین - وجیز - وسیط ، بسیط ، خلاصۃ الرسائل - اختصار المختصر غایتہ الغور مجموعہ فتاویٰ ، وغیرہما۔

اصول فقہ :- تحسین المآخذ - مفصل الخلاف فی اصول القیاس ماخذ فی الخلافات - سفار العلل۔

منطق :- معیار القلم - محک النظر - میزان العمل۔

فلسفہ :- مقاصد الفلاسفہ

علم کلام :- تہافتہ الفلاسفہ - منقذ - الحجام العوام - اقتصاد - مستطہری - فضایح الالباحہ - حقیقت الروح الرسالۃ القدسیہ

تفرقہ بین الاسلام والزندقہ مواسب الباطنیہ - القول الجمیل فی رد علی من غیر الانجیل - قسطاس المستقیم۔

علم الاخلاق والتصوف :-

احیاء العلوم - کیمیائے سعادت - المقصد الاقصیٰ اخلاق الابرار - جواهر القرآن ، جواهر القدس فی قضیۃ النفس - مشکوٰۃ

الانوار - منہاج العابدین معراج الساکین - فیصحة الملوک ایما الولد - ہدایۃ المہدایۃ - مشکوٰۃ الانوار فی لطائف الاخبار وغیرہ ان تصنیفات میں بعض ایسی کتب ہیں جو کسی اسلامی ملک میں بھی دستیاب نہیں ہیں مگر ان کے چند مخطوط نسخے لندن ، پیرس اور برلن کے کتب خانوں میں اب تک محفوظ ہیں۔

امام غزالی علیہ الرحمۃ کو عربی اور فارسی ادب اور اس کی لغت پر کامل عبور حاصل تھا۔ ان کی نثر نگاری کا امتیاز سادگی اور

سہل نگاری ہے لیکن زبان و بیان میں فصاحت و بلاغت کی شان جھلکتی ہے۔ وہ ایک اعلیٰ شعری ذوق کے بھی حامل تھے بلکہ خود شاعری سے بھی شغف تھا لیکن ان کی شاعری کا محور عشق حقیقی ہے۔ علامہ شبلی نعمانی نے مجمع الفصحا اور روایات البجات

سے امام غزالی علیہ الرحمۃ کی چند رباعیات نقل کی ہیں وہ امام صاحب کی شاعری پر تبصرہ کرتے ہوئے تحریر کرتے ہیں کہ "سلجوقی دور میں شعرا زیادہ تر موجد قصائد لکھا کرتے، لیکن قصیدہ سے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کو کوئی دلچسپی نہ تھی لہذا قطعاً اور رباعیات پر ہی اکتفا کیا" بطور نمونہ دو رباعیاں یہاں پیش کی جاتی ہیں۔

اسے کان بقا درچہ بقائے کہ نہی درجائے نہ کلام جاسے کہ نہی

اسے ذات از ذات تو جہت مستغنی آخر تو کجائی کہ کجائے کہ نہی

رباعی دیگر

باجامہ نماز سے بسزے خم کریم وز آب خرابات تیم کریم

شاید کہ دریں میگردہ ہا دریا بیم آں پارہ کہ در صومعہ ہا گم کردیم
 امام غزالی علیہ الرحمۃ کی حیات، کارناموں اور تصانیف کا بنظر غائر مطالعہ کرنے سے یہ بات کھل کر سامنے آتی ہے کہ
 امام رحمۃ اللہ کا مسلک اور عقائد و معمولات بعینہ وہی تھے جو آج کل اہلسنت و جماعت جنہیں عرف عام میں بریلوی کہا جاتا ہے
 کے ہیں اور امام غزالی قدس سرہ نے یہ عقاید اپنے اسلاف کرام یعنی سلف صالحین سے اٹھ کر کیے بطور غوثہ صرف تین
 عقائد و مسائل آپ کی زیر نظر کتاب "ایجاد العلوم" ہی سے نقل کیے جاتے ہیں۔

۱۔ عقیدہ حاضر و ناظر:

"التجیات" کی بحث میں امام غزالی رحمہ اللہ تحریر کرتے ہیں کہ حالت نماز میں جب قعدہ میں ان الفاظ پر پہنچو التَّحِيَّاتُ
 لِلَّهِ وَالصَّلَاةِ وَالطَّيِّبَاتِ تو اس مقام پر فوراً اپنے قلب و روح اور تصور و خیال کی قوت کو مجتمع کر کے سید عالم صلی اللہ
 علیہ وسلم کے سراپائے اقدس کے تصور میں ڈوب جاؤ اور (باادب) عرض کرو کہ آپ پر سلام و کمال ہو یا نبی اللہ اور اللہ تعالیٰ
 کی رحمتیں اور برکتیں۔ (السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ)

۲۔ قیام تعظیمی:

امام غزالی علیہ الرحمۃ والرضوان "سماح" کی بحث "ادب خاص" میں قیام تعظیمی کے جواز کے متعلق ایک جگہ تحریر فرماتے
 ہیں۔ کہتے ہیں کہ۔

کسی (معزز مہمان یا بزرگ شخصیت) کی آمد پر تعظیماً کھڑے ہو کر استقبال کرنا عربوں میں مروج نہ تھا چنانچہ بعض اوقات
 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے وقت کھڑے نہیں ہوتے تھے (یعنی بعض اوقات
 کھڑے ہوتے تھے اور بعض اوقات نہیں بھی ہوتے تھے) جیسا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے پتہ چلتا ہے،
 لیکن چونکہ اس کے متعلق کوئی نہی عام نہیں وارد ہے اس لیے جن ممالک میں اس طریقہ کا رواج ہے ہمارے نزدیک وہاں قیام
 تعظیمی میں کوئی مضائقہ نہیں ہے کیوں کہ اس عمل سے مقصود تعظیم و تکریم اور اظہار محبت و عقیدت ہے یہ اور اسی قسم کی تمام عادات
 اطوار بھی جو کسی قوم میں رواج پاگئی ہیں جائز اور مستحسن ہیں، البتہ جس فعل یا عمل کے متعلق کوئی ایسی نہی وارد ہو جس کی تاویل نہیں
 ہو سکتی تو وہ بلاشبہ ناجائز ہے۔

۳۔ اصل اشیاء میں اباحت ہے:

اہلسنت و جماعت کے قدیم سلف صالحین کا یہ ضابطہ ہے اور اس مسئلہ پر معزلیوں سے سخت اختلاف بھی رہا ہے
 اس لیے کہ وہ اصل اشیاء میں خطر کے قائل تھے۔

علامہ شبلی نعمانی کے بقول کہ

امام غزالی علیہ الرحمۃ نے اپنی تحریروں میں انسانی بود و باش، معاملات و معمولات اور اخلاق و محاشات، تمام امور

کے لیے اصول شریعت کو کسوٹی قرار دیا ہے اور اسی وجہ سے اپنی تمام تصانیف خصوصاً احیاء العلوم میں عنوانات کے ابتداء میں آیات قرآنی اور روایۃ احادیث کو بنیاد بنا کر گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں اور احکام شریعہ سے استنباط کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کسی قوم یا زمانے کے رسم و رواج پر قول فیصل صادر کرنے سے قبل اس نکتہ کو ملحوظ رکھا ہے کہ شارع علیہ الصلوٰۃ والسلام کے کون سے افعال رسالت کی حیثیت سے تعلق رکھتے ہیں اور کون سے معاشرت و عادت کی حیثیت سے۔ چنانچہ "احیاء العلوم" جلد دوم میں آداب طعام سے متعلق جو ایک طویل باب تحریر کیا ہے اس میں جہاں کھانا کھانے کے متعدد قواعد و ضوابط لکھے ہیں، ایک قاعدہ یہ بھی درج ہے کہ کھانا دسترخوان پر چن کر کھانے چاہئیں۔ میز یا صندلی پر رکھ کر کھانا نہ چاہیے۔ اس لیے کہ دسترخوان زمین پچھا کر کھانا کھانے کا عمل دسترخوان کو اونچا کرنے کے عمل سے کی بہ نسبت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے زیادہ قریب ہے۔ اس کی سند میں انہوں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک حدیث نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی صندلی رکشتی یا اونچے دسترخوان پر کھانا تناول نہیں فرمایا۔ پھر امام غزالی علیہ الرحمۃ نے بعض علماء سلف کا ایک قول بیان کیا ہے کہ کھانے کے آداب میں چار چیزیں بدعت ہیں جو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد رواج پائیں؛ اول کھانے کے اونچے خوان (میز، صندلیاں) دوم جھلنیاں، سوم آستان اور چہارم شکم سیری۔ ان اقوال کو لکھنے کے بعد امام غزالی کہتے ہیں کہ گو میں یہ کہتا ہوں کہ دسترخوان زمین پر پچھا کر کھانا بہتر ہے لیکن اس سے یہ معنی نہیں کہ صندلی یا میز پر رکھ کر کھانا کھانا مکروہ یا حرام ہے کیوں کہ اس بات میں، یعنی ممانعت میں کوئی حکم شریعت میں ثابت نہیں۔ رہا یہ امر کہ یہ چیزیں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور پہاڑیوں کے بعد کی ایجاد ہے، اس لیے بدعت ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہر ایک نوا ایجاد امر (بدعت) کی ممانعت نہیں بلکہ ممانعت اسی بدعت کے لیے ہے جو کسی سنت قائمہ کے خلاف ہو، یا جس سے شریعت کا کوئی حکم باوجود اس کی علت موجود ہونے کے باطل ہو جائے بلکہ بعض احوال میں جب اسباب بدل جاویں بدعت کا ایجاد واجب ہو جاتا ہے تب بدعت مستحب اور پسندیدہ ہو جاتی ہے۔

میز صندلی پر رکھ کر کھانا کھانے میں صرف بدعات ہیں کہ کھانا زمین سے کچھ اونچا سینے کے برابر ہو جانا ہے اور کھانے میں آسانی ہو جاتی ہے اور یہ کوئی ناجائز یا ممنوع امر نہیں بلکہ انسان کی اپنی سہولت کی بات ہے۔ البتہ یہ چاروں مذکورہ امر جنہیں بدعت کہا گیا ہے وہ سب حالات و معاملات میں یکساں نہیں۔ ان میں آستان سب سے بہتر ہے۔ یعنی بہتر بدعت ہے۔

یہ ایک قسم کی گھاس ہوتی تھی جو ہاتھ صاف کرنے کے لیے اس زمانے میں صابن کی بجائے استعمال ہوتی تھی، اس لیے کہ ہاتھ کا دھونا نطافت کے لیے ہے اور آستان سے نطافت (صفائی) اچھی طرح ہوتی ہے تو یہ تو ایک اچھی بات ہے، اول زمانے کے لوگ جو اس کا استعمال نہ کرتے تھے تو اس کی جڑ و جوہ ہو سکتی ہے ممکن ہے کہ اس کے

استعمال کی ان کو عادت نہ رہی ہے یا یہ گھاس بونی اس زمانے میں دریافت نہ ہوئی ہے یا صفائی کا اہتمام کرنے کی یہ نسبت وہ زیادہ اہم کاموں میں مشغول رہنے کو زیادہ ترجیح دیتے ہوں، کیوں کہ بعض اوقات تو وہ ہاتھ بھی نہیں دھوتے تھے بلکہ تلوؤں وغیرہ سے صاف کر لیا کرتے تھے اور اس سے یہ نتیجہ نہیں نکالا جاسکتا کہ کھانے کے بعد ہاتھ کا دھونا مستحب نہیں اسی طرح چھلنی سے غذا کا صاف کرنا غذا کی صفائی ستھرائی کے لیے ہے اور یہ مباح ہے، کراہیت جب پیدا ہوگی جب اس میں آسائش طلبی کی نیت سے مبالغہ کیا جائے اسی طرح اونچا دسترخوان رمیز وغیرہ پر کھانے کی آسانی کے لیے ہے ہاں اگر تکبر اور نمود و نمائش کے لیے ہو تو یہ ناجائز ہے۔ باقی رہا پیٹ بھر کر کھانا کھانا، یہ ان چاروں میں سخت زبردست ہے کہ اس سے بڑی شہوتیں پیدا ہوتی ہیں۔

قارئین کرام آپ ذرا امام غزالی علیہ الرحمۃ کے اس اصول پر غور کریں کہ کس قدر آسان اور منطقی ہے آج بھی اسی اصول کو سامنے رکھ کر مسلمانوں کے بیسیوں اختلافی مسائل حل ہو سکتے ہیں اور مسلمانوں کو بات بات پر بدعتی کہنے والوں اور اس بات پر مسلمانوں کو آپس میں دست و گریبان کرنے والوں کا قلع قمع ہو سکتا۔ دور جدید میں شیخ الاسلام والمسلمین امام احمد رضا خاں افغانی علیہ الرحمۃ نے امام غزالی اور دیگر اسلاف کرام رحمہم اللہ کے اسی اصول کو سامنے رکھ کر مسلمانوں کے درمیان انتشار و افتراق پیدا کرتے والے فرقہ پرستوں کا رد اور دیگر جدید مسائل کا حل پیش کیا ہے۔

امام غزالی علیہ الرحمۃ کی یوں تو ہر تصنیف بسیط، علوم و فنون کا خزینہ اور عرفان و آگہی کا گنجینہ ہے لیکن "احیاء العلوم" اور "کیمیائے سعادت" دو تصنیفیں ایسی ہیں جنہیں اپنے موضوعات اور طرز تحریر کی بنا پر مولانا مٹھے روم علیہ الرحمۃ کی مشنوی تشریف کی طرح "الہامی" کہا گیا آپ کی تمام تصنیفات میں اس کو جو قبول عام آپ کے اپنے زمانہ حیات اور اس کے بعد آج تک حاصل ہے وہ حیرت انگیز بھی ہے اور اس کے الہامی ہونے کی دلیل بھی۔

"کیمیائے سعادت" "در اصل "احیاء العلوم" کا فارسی میں خلاصہ ہے، حیات انسانی کے گوشے سے متعلق کوئی ایسا موضوع نہیں ہے جو امام موصوف نے "احیاء العلوم" میں بہ وضاحت نہ بیان کیا ہو۔ یوں تو بظاہر یہ کتاب اخلاق و تصوف سے متعلق ہے، لیکن امام غزالی علیہ الرحمۃ نے اس میں دنیا کے تمام علوم و معارف کو اس طرح یکجا کیا ہے کہ گویا دریا کو کوزے میں بند کر دیا گیا ہے اب یہ ہر قاری کے مزاج، اس کی سطح علمی، اس کی فکری لہروں کی تعداد و ارتعاش (

پر پرواز اور سب سے بڑھ کر یہ کہ توفیق الہی پر مبنی ہے کہ وہ اس نابغہ روزگار تصنیف سے کیا کچھ حاصل کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کو ہر دور کے اکابر علماء و مشائخ نے نہ صرف اپنے مطالعہ میں رکھا ہے بلکہ اپنے شاگردوں اور مریدوں کو سبقاً سبقاً اس کی باقاعدہ تعلیم بھی دی ہے اور اہل سلوک نے تشریح و تفسیر اور اصلاح احوال کے لیے نصاب طریقت کی "ٹکٹ بک" کے طور پر اس کا مطالعہ لازمی قرار دیا ہے۔ محدث زین الدین عراقی، حضرت شیخ اکبر

محمی الدین ابن عربی، شارح مسلم امام نووی رحمہم اللہ جیسی شخصیات نے اس کا بار بار مطالعہ کیا ہے اور اس کے مضامین کی تعریف و

توصیف کی ہے۔ "اجیاد العلوم" اسم باسمہ ہے۔ امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کے مقدمہ میں، حمد باری تعالیٰ اور صلوة وسلام کے بعد اس تصنیف کی وجہ تسمیہ یہ لکھی کہ میرا ارادہ ہوا کہ علوم دینی کے زندہ کرنے میں ایک کتاب لکھی جائے تاکہ لوگ رسوم دنیا داری سے نکل کر علم کے بموجب عمل کرنے پر رغب ہوں، اور فرمایا کہ وہی علم اور عمل نافع ہے جو اللہ و تبارک و تعالیٰ کی ذات کا عرفان عطا کرے، اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ مردوس ہے، ایسا ہی علم و عمل آخرت کی منزل تک بامراد پہنچنے کی ضامن ہے لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک مرشدِ کامل کی رہنمائی اور دستگیری حاصل ہو اس لیے کہ وہ ہی راہِ آخرت کے نشیب و فراز سے واقف ہوتا ہے "اجیاد العلوم" کو اپنے دور کی اسی قسم کی تصانیف پر جو امتیازات ہیں اس کے متعلق امام غزالی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں کہ "اور" حضرات نے بھی ان موضوعات میں سے بعض امور میں کتابیں تحریر کی ہیں مگر یہ کتاب (اجیاد العلوم) ان کتابوں سے پانچ باتوں میں ممتاز ہے:

- ۱۔ ان تصانیف میں جو اجمال تھا اس کی تفصیل بیان کی گئی ہے۔
- ۲۔ پراگندہ مضامین کو ترتیب وار اور نظم و ضبط کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔
- ۳۔ طویل مضامین کا اختصار پیش کیا گیا ہے۔
- ۴۔ مکرر مضامین کو حذف کر دیا گیا ہے اور
- ۵۔ بہت سے دقیق اور نازک مسائل کا حل جن کا گذشتہ تصانیف میں کوئی ذکر نہ تھا، متحقق اور عام فہم اسلوب میں بیان کئے گئے ہیں۔

اجیاد العلوم چار جلدوں پر مشتمل ہے۔

پہلی جلد میں عبادات ہیں۔

دوسری میں عادات (معاملات اور آداب) ہیں۔

تیسری میں مہلکات (وہ امور جو بندے کو تباہ کرنے والے ہیں) اور

چوتھی میں منجیات (بندے کو نجات دینے والی چیزیں) ہیں

امام غزالی رحمہ اللہ نے ہر جلد میں دس دس باب باندھے ہیں۔ جو درج ذیل ہیں۔

جلد اول: عبادات

(۱) علم (۲) عقائد کے قواعد (۳) طہارت کے اسرار (۴) نماز کے اسرار (۵) زکوٰۃ کے اسرار (۶) روزہ کے اسرار

(۷) حج کے اسرار (۸) تلاوت قرآن کے آداب (۹) دعا و اذکار (۱۰) وظائف اور ان کے اوقات کار۔

جلد دوم: عادات

(۱) کھانے پینے کے آداب (۲) نکاح کے آداب (۳) کسب و روزگار کے احکام (۴) حلال و حرام (۵) صحبت کے

آداب واقسام رخلق کے ساتھ معاملات کرنے میں، (۶) گوشہ نشینی (۷) آداب سفر (۸) سماع و حال (۹) امر اور نواہی (۱۰) آداب زندگی (اخلاق نبوی کی روشنی میں)

جلد سوم - مہلکات

۱۱) عجائبات قلب (۲) ریاضت نفس (۳) شہوت شکم اور شہوت نفسانی (۴) زبان کی آفات (۵) غصہ، کینہ اور حسد اور اس کے مضرات (۶) دنیا کی برائی (۷) محبت مال اور بخل کی مذمت (۸) حب جاہ اور ریا (۹) تکبر اور خود پسندی کی مذمت (۱۰) غرور کی مذمت

جلد چہارم - منجیات

(۱) توبہ (۲) صبر اور شکر (۳) خوف ورجا (۴) فقر اور زہد (۵) توحید و توکل (۶) محبت و شوق اور انس و رضا (۷) نیت، اخلاص اور صدق (۸) مراقبہ و محاسبہ (۹) فکر و عبرت (۱۰) مہمت اور مابعد المہمت۔

یہ ہے معرکہ الازکا کتاب احیاء العلوم کا اجمالی خاکہ اس کتاب کے اب تک مختلف زبانوں میں ترجمے ہو چکے ہیں۔ اردو زبان میں اب تک مولوی احسن نالوتوی صاحب دیوبندی کا ترجمہ راقم کی نظر سے گزرا ہے جس پر سن اشاعت اول ۱۳۸۲ھ تحریر ہے اس طرح اس ترجمہ کی زبان و بیان ۱۲۵ سال سے زیادہ وقیانوسی ہے۔ لہذا زبان اردو کے جدید تقاضوں اور عصر حاضر کے مزاج، زبان و بیان کے بدلتے ہوئے پیرایوں اور طرز تحریر کے جدید نظم و ترتیب کے پیش نظر احیاء العلوم کے ایک نئے اردو ترجمہ کی شدید ضرورت تھی اور اس بات کی احتیاط کرنا تھی کہ اس کتاب کا مترجم ایک ایسا فاضل ہو جو نہ صرف عربی اور جدید اردو زبان و لغت پر کامل عبور رکھتا ہو، بلکہ امام غزالی علیہ الرحمۃ کے عقائد و مسلک سے فکری ہم آہنگی بھی رکھتا ہو تاکہ ترجمہ میں متن کے کسی سیاق و سباق یا مفہوم سے اعراض یا انحراف کی کوئی گنجائش نہ رہ جائے جس کا آج کل عام طور سے مشاہدہ ہے، اس لیے کہ جہاں معاشرے میں دیگر بددیانتی اور برائیاں فروغ پذیر ہیں وہیں علمی خیانت اور اسلاف کرام کی تصانیف میں موجود مسلمہ عقائد، اور ان سے مستخرجہ افکار و عقائد میں تحریف کا عمل بھی تیزی سے جاری ہے اور یہ سب کچھ تحقیق و تدقیق، فروغ علم اور علم دوستی کے نام پر کیا جا رہا ہے۔ مثال کے طور پر جماعت اسلامی کے سابق امیر میاں محمد طفیل صاحب کا حضرت داتا گنج بخش علی ہجویری علیہ الرحمۃ والرضوان کی تصنیف و کشف المحجوب، کا ترجمہ ہی لے لیں اور اس کا اصل کتاب کے متن سے موازنہ کریں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ میاں صاحب نے کس دیدہ دلیری کے ساتھ حضرت داتا گنج بخش علیہ الرحمۃ کے عقائد و افکار کو مسخ کر کے پیش کرنے کی جسارت کی ہے جیسا کہ جماعت اسلامی جو ”صالحین“ کی جماعت کہلاتی ہے اس کے امیر کا اصل کردار کیا ہے و کسی دوسری زبان میں ترجمہ کرنا ایک مشکل فن ہے اس کے لئے ضروری ہے کہ مترجم نہ صرف دونوں زبان پر عبور رکھتا ہو بلکہ وہ مصنف کے عقائد و افکار، اور طرز بیان سے بھی پوری طرح واقف ہو ترجمہ کا اصل تصور یہ ہے کہ کتاب کا حقیقی موضوع، اس کے الفاظ، اور اس کا حقیقی مقصد تو بالکل وہی رہنا چاہیے جو اصل کتاب کا ہے جو مصنف کہتا

چاہتا ہے، یا مخاطب تک جو ابداع کرنا چاہتا ہے لیکن اگر کلام کے مبہم و متعلق الفاظ اور اس کی الجھنوں اور اس سے پیدا ہونے والے اشکال کو دور کرنے کے لیے عام فہم الفاظ اور سہلے اختیار کیے جائیں یا مطالعہ کی آسانوں اور کتاب کو مزید مفید بنانے کے پیش نظر حواشی، تعلیقات یا ہم معانی اصطلاحات کا سہارا لیا جائے تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں۔ بلکہ یہ ترجمہ کی زبان میں مرید حسن پیدا کرتا ہے اور ایک دوسری زبان کے قاری کے لیے سہولیات فراہم کرتا ہے۔ ان تمام امور کو مد نظر رکھتے ہوئے اس بات کو شدت سے محسوس کیا جا رہا تھا کہ تصوف و اخلاق کے موضوع پر اچھا و العلوم جیسی اہم کتاب کا ترجمہ کوئی ایسا صاحب دل عالم کرے جو امام علیہ الرحمۃ کے قلم کی زبان اور طرز بیان کو سمجھتا ہو ان کے مرتبہ و مقام کا بھی عارف ہو اور تصوف و اخلاق کی انہی اعلیٰ قدروں کا پروردہ ہو جس کے داعی حضرت امام موصوف ہیں۔

یہ امر باعث مسرت اور اہل علم کے لیے قابل اطمینان ہے کہ عالم جلیل، فاضل نبیل، محترم محمد صدیق ہزاروی زیر علم، نے جو متعدد کتابوں کے مصنف اور مترجم بھی ہیں "احیاء العلوم" کو اردو کے قالب میں منتقل کرنے کا بیڑا اٹھایا ہے۔ مولانا محمد صدیق ہزاروی صاحب، شہر لاہور کی ایک عظیم اسلامی درس گاہ دارالعلوم جامعہ نظامیہ رضویہ میں اناذہیں، عربی، فارسی اور اردو زبان و لغت پر ان کی گہری نظر ہے، فقہ اور تصوف ان کا محبوب موضوع ہے، فقہی مسائل پر سلسلہ وار ان کے متعدد کتابچے اور رسائل اب تک شائع ہو چکے ہیں راقم نے ان کے اکثر رسائل کا مطالعہ کیا ہے فقہی اصطلاحات اور عالمانہ مباحث کو جس طرح وہ عام فہم اور روزمرہ اردو کے قالب میں ڈھالتے ہیں اس سے اردو زبان پر ان کے عبور اور فقہی مسائل اور اس کے جزئیات و اصطلاحات پر ان کی نظر کا اندازہ ہوتا۔ قاری کو جس طرح وہ مطمئن کر دیتے ہیں اس سے موضوع پر ان کی گرفت کا اظہار ہوتا ہے "احیاء العلوم" کا ترجمہ بھی انہوں نے بڑی جانفشانی اور محنت سے کیا ہے۔ ترجمہ کے مطالعہ سے پتہ چلتا ہے کہ موصوف صاحب طرز قلم کار ہیں۔ انہوں نے آسان اور یا محاورہ زبان استعمال کی ہے اور اصل کتاب کے عربی کے ہر جملے کا مطلب اردو اصطلاحات کے مطابق عام فہم زبان میں لکھنے کی سعی فرمائی ہے۔ مولوی احسن نانوی صاحب کے ترجمہ کے مقابلے میں اس ترجمہ کی دیگر امتیازی خصوصیات درج ذیل ہیں۔

۱۔ دوران مطالعہ راقم کو "احیاء العلوم" میں کوئی قرآنی آیت، کوئی حدیث شریف، کوئی قول صحابہ دائمہ، کوئی واقعہ یا مسئلہ ایسا نظر نہیں آیا جس کو مترجم نے نظر انداز کیا ہو۔

۲۔ اصل کتاب کی ترتیب و پیش کش کو برقرار رکھا ہے۔

۳۔ اصل کتاب کا طرز بیان، روح اور ترتیب کو اردو زبان کے محاورات کے مطابق اس طرح رکھا ہے کہ قاری کو یہ گمان ہوتا ہے کہ اصل کتاب اردو ہی میں تصنیف ہوئی ہے۔

۴۔ کتاب کے دس حصوں کے ہر حصے کو ایک عنوان کے تحت ذکر کیا گیا ہے اور اس کی ذیلی فصلوں کو باب میں تبدیل کیا گیا ہے۔

۵۔ اصل کتاب میں، جیسا کہ اگلے زمانے کا دستور تھا، شروع سے آخر تک ایک تسلسل کے ساتھ جملے لکھے گئے ہیں کوئی پراگرافنگ نہیں ہے، نہ ہی ذیلی عنوانات علیحدہ لکھے گئے ہیں۔ مولانا ہزاروی نے جدید طرز تحریر کے مطابق پراگرافنگ کی ہے اور ہر عنوان اور ذیلی عنوان کو جلی حروف میں علیحدہ سے تحریر کیا ہے، اہم نکات کو ترتیب وار اور جہاں موقع سمجھا نمبر وار پیش کیا ہے۔

۶۔ اصل کتاب ہی قرآنی آیات اور احادیث مبارکہ کی تخریج نہیں ہے، مولوی احسن نانوتوی صاحب نے صرف آیات قرآنی کے ترجمہ اور احادیث کے سلسلے میں تخریجات عراقی سے صرف نام کتب اور راوی اعلیٰ پر اکتفا کیا ہے، لیکن زیر نظر ترجمہ میں فاضل مترجم نے قرآنی آیات کے ترجمہ کے ساتھ حاشیے پر اس سے متعلق سورہ کا نام اور آیت کے عدد کی تخریج کی ہے۔ اور احادیث مبارکہ کے سلسلے میں ماخذ کتب کا جلد، باب اور صفحہ کا باقاعدہ حوالہ دیا گیا ہے۔ اس سے قاری کو حوالہ جات تلاش کرنے میں بڑی سہولت ہوتی ہے۔

۷۔ قرآنی آیات کے ترجمہ کے بارے میں مولوی احسن نانوتوی صاحب نے اپنے مقدمہ میں یہ وضاحت کر دی ہے کہ انہوں نے شاہ عبدالقادر مرحوم کے ترجمہ کا اتباع کیا ہے شاید اس لیے کہ اس وقت اردو میں صرف انہی کا ترجمہ موجود تھا لیکن علامہ صدیق ہزاروی نے قرآنی آیات کا ترجمہ کرتے وقت یہ التزام نہیں کیا اس لیے قاری کو یہ پتہ نہیں چلتا کہ یہ ترجمہ کس کس ترجمہ قرآن سے ماخوذ ہے۔ بہتر ہوتا کہ صرف ایک ترجمہ قرآن امام احمد رضا خاں افغانی علیہ الرحمۃ کے ترجمہ "کنز الیمان" کو اختیار کرتے تاکہ اسناد اور حوالہ جات میں آسانی رہتی۔

غرض کہ مولانا ہزاروی صاحب نے قدیم ترجمہ کی روش ترک کر کے بڑی محنت اور کاوش سے نہ صرف یہ کہ عام فہم اور آسان بامحاورہ ترجمہ کیا ہے بلکہ کتب کی ترتیب و تدوین اس طرح کی ہے کہ مسائل و نکات تلاش کرنے میں کوئی دقت نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اس کاوش کو شرف قبول عطا فرمائے اور عامۃ المسلمین کے لیے اسے نافع بنائے۔ اور ساتھ ہی ان کو دیگر جلدوں کے ترجمہ کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔

(آئین)

پروفیسر سید یونس لاہور کے مالک محترم شہباز رسول صاحب ایک دیندار اور علم دوست انسان ہیں۔ جذبہ حمایت مذہب و مسک سے سرشار ہیں۔ اسلاف کرام کی نایاب اور نابغہ عصر تصانیف کے شائع کرنے کا شوق و ذوق اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی طبیعت میں ودیعت فرمایا ہے۔ جہاں تک راقم کے علم میں ہے "احیاء العلوم" کے ترجمہ کی تحریک بھی انہی کی طرف سے ہے اللہ تعالیٰ ان کے اس جذبہ صادق کو سلامت رکھے اور "احیاء العلوم" اور اس جیسی دوسری کتب کی اشاعت کو ان کے لیے دنیا و آخرت کے فلاح کا ذریعہ بنائے۔

(آئین)

فجزاه الله احسن الجزاء وصلى الله تعالى عليه خير خلق سيدنا محمد وعلى اله
 واصحابه وازواجه واوليائه اجمعين وبارك وسلم۔

محرمہ سید و جہانت رسول قادری عفی عنہ
 صدر ادارہ تحقیقات امام احمد رضا کراچی
 ۵ ارمان المبارک ۱۴۱۸ ہجری ۱۲ جنوری ۱۹۹۸ء

مقدمہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی بے حد اور مسلسل تعریف کرتا ہوں اگرچہ اس کے حق جلال کے سامنے تمام تعریف کرنے والوں کی تعریف حقیر و بیچ ہے۔

اس کے بعد اس کے رسولوں کی بارگاہ میں صلوٰۃ و سلام کا وہ ہدیہ پیش کرتا ہوں جو انسانوں کے سر دار (حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم) سمیت تمام رسولوں کو شامل ہو۔

بعد واضح کرنا اپنے اس ارادے کے سلسلے میں بارگاہِ خداوندی میں بھلائی کا طالب ہوں جو میں نے علوم دین کو زندہ کرنے کے سلسلے میں کتاب لکھنے کے لیے کیا ہے۔

پھر اے منکرین کی جماعت میں شامل ملامت گروں میں شدت سے ملامت کرنے والے اور غافل منکرین کے طبقات میں انکار اور ڈانٹ ڈپٹ میں حد سے بڑھنے والے تیرے تعجب کو دور کروں گا۔

اللہ تعالیٰ نے میری زبان سے خاموشی کی گرہ کھول دی اور میرے گلے میں کلام و گفتگو کا ہار ڈال دیا ہے کہ میں تیرے اس اصرار کے خلاف کلام کروں جو تو نے صریح حق سے آنکھیں بند کر کے باطل کی مدد اور جہالت کی تحسین میں اختیار کر رکھا ہے تو صدی جھگڑا لو بن گیا اور تو نے ان لوگوں کے خلاف فتنہ و فساد برپا کر رکھا ہے جو مخلوق کی (بڑی) رسموں سے تھوڑا بہت نکلنا چاہتے ہیں یا ان رسموں سے تعلق ختم کر کے علم کے مطابق عمل کی کچھ نہ کچھ کوشش کرتے ہیں انہیں اس بات کی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تزکیہ نفس اور اصلاح قلب کا جو حکم دیا وہ اسے پائیں گے نیز تمام عمر کے رائیگاں جانے کی تلافی سے ناامید ہو کر بعض کوتاہیوں کا ازاں کریں گے اور ان لوگوں کے ہم پیالہ ہونے سے بچ جائیں گے جن کے بارے میں صاحبِ شریعت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

”قیامت کے دن سب سے سخت عذاب اس عالم کو ہو گا جسے اللہ تعالیٰ نے اس کے علم سے نفع نہیں دیا۔“
مجھے اپنی عمر کی قسم! بجز ریشیرا اصرار اس بیماری کی وجہ سے ہے جس نے عام لوگوں کو گھیر رکھا ہے بلکہ وہ عالمگیر ہے۔ یعنی وہ اس معاملے (آخرت) کی عظمت کو ملاحظہ کرنے سے قاصر ہیں اور انہیں اس بات کا علم نہیں کہ معاملہ ہولناک اور مصیبت بڑی ہے۔

آخرت سامنے سے آرہی ہے اور دنیا پیچھے پھیر رہی ہے موت قریب ہے اور سفر دور کا ہے، زاویرا کم ہے، اندیشہ

بہت بڑا ہے اور راستہ بند ہے۔

وہ علم و عمل جو خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے نہ ہو وہ ایک صاحب بصیرت ناقد کے نزدیک مردود ہے بے شمار مہلکات کی موجودگی میں کسی راہنما اور ساتھی کے بغیر آخرت کے راستے پر چلنا سخت ٹھکن اور دشواری کا باعث ہے۔

راستے کے راہنما وہ علماء ہیں جو انبیاء کرام علیہم السلام کے وارث ہیں اور ان سے زمانہ خالی ہو چکا ہے۔ اب تو محض رسمی لوگ رہ گئے ہیں ان میں سے اکثر پر شیطان غالب آچکا ہے اور سرکشی نے ان کو گمراہ کر رکھا ہے۔ ان میں سے ہر ایک فوری فائدے کے حصول میں معروف ہے چنانچہ وہ نیکی کو برائی اور برائی کو نیکی قرار دیتے ہیں۔

یہاں تک کہ علم ناپید ہو گیا روئے زمین سے ہدایت کے نشانات مٹ گئے انہوں نے مخلوق خدا کے ذہنوں میں یہ بات ڈال دی ہے کہ علم یا تو حکومت کا فتویٰ ہے جس کے ذریعے ہم جھگڑوں کے فیصلے کے سلسلے میں قاضیوں کی مدد طلب کریں۔ یا علم بحث و مناظرہ کا نام ہے کہ بڑائی چاہتے والا اپنے لیے غلبہ اور مخالفت کو خاموش کرانا چاہتا ہے۔ یا علم مقضیٰ مسیح کلام کا نام ہے کہ واعظ اس کے ذریعے عوام کو پھیلاتا ہے۔

کیونکہ ان کے نزدیک ان تین باتوں کے سوا کوئی دوسرا طریقہ حرام کا دام (جال) اور مال دنیا کا جال نہیں۔ جہاں تک آخرت کے راستے اور اس طریقے کا تعلق ہے جس پر سلف صالحین چلا کرتے تھے نیز اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی کتاب میں فقہ، حکمت، علم، حکم، روشنی اور ہدایت و رشد قرار دیا ہے وہ مخلوق کے درمیان سے لپیٹ دیا گیا اور اسے بالکل بھلا دیا گیا ہے۔

اور چونکہ یہ بات دین میں ایک بہت بڑے رخنے اور نہایت تاریک مصیبت ہے اس لیے علوم دینیہ کو زندہ کرنے اور متقدمین ائمہ کے راستوں کو واضح کرنے نیز ان علوم کی عظمت کو واضح کرنے کے لیے ہیں اس کتاب کی تحریر میں مشغول ہوا جو انبیاء کرام اور پہلے بزرگوں کے نزدیک نافع ہیں۔

ترتیب کتاب | میں نے اس کتاب کو چار حصوں میں تقسیم کیا۔ (۱) عبادات کا بیان (۲) عادات کا بیان (۳) ہلاک کرنے والی چیزوں (مہلکات) کا بیان (۴) نجات دینے والی باتوں (منجیات) کا بیان۔ اور ان سے پہلے میں علم کا بیان لایا ہوں کیوں کہ یہ نہایت ضروری اور اہم ہے تاکہ میں اس علم کو واضح کر دوں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر اس کی طلب ہر ایک پر لازم کی ہے کیونکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا: طلب علم ہر مسلمان پر فرض ہے (۱)۔

(۱) سنن ابن ماجہ ص ۲۰ باب فضل العلم

اور میں نافع علم کو، نقصان دہ علم سے ممتاز کروں گا کیونکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا: ”ہم ایسے علم سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتے ہیں جو نفع بخش نہیں“ (۲)

اور میں ثابت کروں گا کہ اس زمانے کے لوگ راہ صواب سے پھر گئے ہیں انہوں نے چمکتی ریت کو پانی سمجھ کر دھوکہ کھایا اور علوم کے سلسلے میں معزز کو چھوڑ کر پھلکے پر فقاہت اختیار کر لی۔

عبادات کا بیان دس بابوں پر مشتمل ہے۔

ترتیب ابواب

(۱) قواعد عقائد (۲) اسرارِ طہارت (۳) اسرارِ صلوٰۃ (۴) اسرارِ زکوٰۃ (۵) اسرارِ صیام (۶) اسرارِ حج (۷) آدابِ تلاوتِ قرآن (۸) اذکار (۹) دعائیں (۱۰) باعتبار وقت و ظائف کی ترتیب۔

عبادات کا بیان بھی دس ابواب پر مشتمل ہے۔

(۱) کھانے کے آداب (۲) نکاح کے آداب (۳) احکام کسب (۴) حلال و حرام (۵) مختلف قسم کے لوگوں کے ساتھ صحبت و معاشرت کے آداب (۶) گوشہ نشینی (۷) آدابِ سفر (۸) سماع اور وجد (۹) نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا (۱۰) آدابِ معیشت اور اخلاقِ نبوت۔

مہلکات کا بیان بھی دس ابواب پر مشتمل ہے۔

(۱) عجائباتِ قلب کی شرح (۲) ریاضتِ نفس (۳) دو شہوتوں یعنی پیٹ اور شرمگاہ کی شہوت کا بیان (۴) زبان کی آفات (۵) غصے، کینے اور حسد کی آفات (۶) دنیا کی مذمت (۷) مال اور سخی کی مذمت (۸) عہدے اور ریابکاری کی مذمت (۹) تکبر اور خود پسندی کی مذمت (۱۰) غرور کی مذمت نجات دینے والے امور کا بیان بھی دس بابوں پر مشتمل ہے۔

(۱) توبہ (۲) صبر و شکر (۳) خوف اور امید (۴) فقر و زہد (۵) توحید و توکل (۶) محبت، شوق، انس اور رضا (۷) نیت، صدق اور اخلاص (۸) مراقبہ اور محاسبہ (۹) تفکر (۱۰) موت کا ذکر۔

مزید تفصیل

عبادات کے بیان میں، میں ان کے پوشیدہ آداب ان کی سنتوں کی باریکیاں، ان کے معانی کے اسرار، وہ چیزیں جن کی طرف ایک باعمل عالم مجبور ہوتا ہے بلکہ جو شخص اس پر مطلع نہ ہو وہ علمائے آخرت سے نہیں ہوتا ہے ان میں سے زیادہ وہ باتیں ہیں جن کو فقہ کی کتب میں چھوڑ دیا گیا ہے۔ عادات کے بیان میں، میں لوگوں کے درمیان جاری معاملات کے اسرار، ان کی باریکیاں اور ان کے راستوں کی گہرائیاں نیز جہاں جہاں وہ جاری ہیں ان میں پوشیدہ درج (پرہیزگاری) کا ذکر کروں گا کیوں کہ ہر دین دار کو ان کی ضرورت ہوتی ہے۔

مہلکات کے بیان میں ہر اس میری عادت کا ذکر کروں گا کہ قرآن پاک نے اسے مٹانے اور اس سے نفس اور

دل کو پاک کرنے کا حکم دیا ہے میں ان میں سے ہر عادت کی تعریف اور حقیقت ذکر کروں گا پھر وہ سبب ذکر کروں جس سے یہ عادات پیدا ہوتی ہیں پھر وہ آفات جو مرتب ہوتی ہیں پھر وہ علامتیں جن کے ذریعے ان کی پہچان حاصل ہوتی ہے اس کے بعد وہ علاج بتاؤں گا جس کے باعث ان سے چھٹکارا مل سکتا ہے اور ان تمام باتوں پر قرآن پاک کی آیات، احادیث اور آثار سے شہادت پیش کروں گا۔

نجات دینے والے امور کے بیان میں ہر اس قابل تعریف خصلت کا ذکر کروں گا جس میں رغبت کی جاتی ہے اور وہ مقربین اور صدیقین کی عادات سے ہے اور جس کے ذریعے بندہ اپنے رب کا قرب حاصل کرتا ہے ہر خصلت کی تعریف و حقیقت ذکر کروں گا نیز ان کو کیسے حاصل کیا جاسکتا ہے ان سے کونسا فائدہ حاصل ہوتا، ان کی علامات کیا ہیں جن کے ذریعے ان کی پہچان حاصل ہوتی ہے ان کی کون سی خصلت ہے جس کی وجہ سے یہ مرغوب ہیں اور اس سلسلے میں شریعت اور عقل سے شواہد پیش کروں گا۔

ان میں سے بعض امور کے بارے میں کچھ لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں لیکن یہ کتاب (احیاء علوم الدین) عظیم کتاب پانچ وجوہ سے ان سے ممتاز ہے۔

- (۱) جس چیز کو انہوں نے بغیر حل کے اور مجمل چھوڑا ہم نے اسے حل کیا اور بیان کیا۔
- (۲) جس چیز کو انہوں نے منتشر رکھا ہم نے اسے مرتب کیا اور جسے انہوں نے متفرق رکھا ہم نے اسے منظم کیا۔
- (۳) جس بات کو انہوں نے ایک طویل تقریر میں بیان کیا ہم نے اسے مختصر طور پر ضبط کر دیا۔
- (۴) جو بات انہوں نے بار بار لکھی ہم نے اسے حذف کر کے صرف مطلب کو ثابت رکھا۔
- (۵) ایسے باریک امور جن کا سمجھنا ذہنوں پر دشوار ہے ان کتب میں ان کو نہیں چھیڑا گیا کیونکہ ان سب نے اگرچہ ایک ہی طریقہ اپنایا، لیکن ممکن ہے کہ ہر ایک ممالک ایسی بات پر مطلع ہو جائے، جس سے اس کے رفقاء بے خبر رہے ہوں یا ہو سکتا ہے وہ بے خبر نہ ہوں لیکن اپنی کتب میں لانا بھول گئے ہوں یا بھولے بھی نہ ہوں لیکن کسی وجہ سے انہوں نے حقیقت سے پردہ نہ اٹھایا ہو۔

تو یہ کتاب کے خواص ہیں علاوہ ازیں یہ کتاب ان علوم کی تفصیل پر بھی مشتمل ہے۔

مجموعہ دو باتوں نے کتاب کو چار حصوں میں تقسیم کرنے کی رغبت کتاب کو چار حصوں میں تقسیم کرنے کی وجہ دی۔

ان میں سے ایک اصلی وجہ ہے اور وہ یہ ہے کہ تحقیق و تفہیم کے لیے یہ ترتیب ضروری ہے۔ کیونکہ جس علم کے ذریعے آخرت کی طرف توجہ کی جاتی ہے اس کی دو قسمیں ہیں۔ (۱) علم مکاشفہ (۲) علم معاملہ۔ علم مکاشفہ سے میری مراد وہ علم ہے جس کے ذریعے فقط معلومات کا کشف حاصل ہوتا ہے۔ اور علم معاملہ سے مراد وہ علم ہے جس کے ذریعے (معلومات کے کشف کے ساتھ

ساتھ عمل بھی کیا جاتا ہے اس کتاب سے فقط علمِ معارفہ مقصود ہے علمِ مکاشفہ مراد نہیں کیوں کہ اسے کتاب میں لانے کی اجازت نہیں۔

اگرچہ یہ طالبانِ حق کے مقصد کی غایت اور صدیقین کا مطمح نظر ہے۔ اور علمِ معارفہ اس کی طرف جاتے والا راستہ ہے لیکن انبیاء کرام علیہم السلام نے مخلوق کے ساتھ علمِ طریقت و ارشاد میں ہی گفتگو کی ہے۔ جہاں تک علمِ مکاشفہ کا تعلق ہے تو اس میں انہوں نے اشارے، مثال پیش کرنے اور اجمال کے طریقے پر گفتگو کی ہے۔ کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ لوگوں کی سمجھا سے برداشت نہیں کر سکتی، اور علماء، انبیاء کرام کے وارث ہیں لہذا ان کے لیے ان کے راتے اور اقتداء سے پھرنے کی کوئی صورت نہیں۔

پھر علمِ معارفہ کی بھی دو قسمیں ہیں۔ ایک علمِ ظاہر ہے یعنی اعضا کے اعمال کا علم اور دوسرا علمِ باطن یعنی دل کے اعمال کا علم۔ اعضاء پر جو عمل جاری ہوتے ہیں وہ یا تو عادت کے طور پر ہیں یا بطور عبادت ہیں، اور دل جو حواس سے پردے میں ہیں ان پر عالم ملکوت سے جو اعمال جاری ہوتے ہیں وہ یا تو محمود ہیں یا قابلِ مذمت۔ تو اس علم کو دو حصوں یعنی ظاہر و باطن میں تقسیم کرنا ضروری ہوا۔

وہ حصہ جو ظاہر ہے اور اعضاء سے متعلق ہے وہ عادت و عبادت میں تقسیم ہوتا ہے اور جو حصہ باطن سے اور دل کے حالات اور اخلاقِ نفس سے متعلق ہے وہ مذموم و محمود میں تقسیم ہوتا ہے اس طرح کل چار قسمیں ہوتیں تو یوں علمِ معارفہ میں ان اقسام کو نظر انداز نہیں کیا جاسکتا۔

کتاب کو چار حصوں میں تقسیم کرنے کی دوسری وجہ یہ ہے کہ میں نے طلباء کو دیکھا کہ وہ ایسی فقہ میں سچی رغبت رکھتے ہیں جو ان لوگوں کے نزدیک صحیح ہے جو اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں رکھتے وہ اسے فخر کرنے اور مقابلوں میں اپنے مرتبہ و منزلت کو ظاہر کرنے کے لیے زرہ کے طور پر استعمال کرتے ہیں وہ فقہ چار حصوں میں تقسیم ہوتی ہے تو چونکہ محبوب کے لباس میں بلبوس بھی محبوب ہوتا ہے تو میں نے کتاب کو ترتیبِ فقہ میں لانے کے سلسلے میں کوئی کوتاہی نہ کی، تاکہ آہستہ آہستہ لوگوں کے دلوں کو اس طرف مائل کیا جاسکے۔ یہی وجہ ہے کہ جن لوگوں نے روسا کی دلوں کا طب کی طرف میلان چاہا تو انہوں نے اپنی کتاب کو ستاروں کی تقویم کی صورت میں جلدوں (شکلوں) اور ہندسوں میں لکھا۔ اور اس کا نام تقویمِ صحت رکھا تاکہ اس جنس سے ان روسا کے انس کے باعث ان کو اس کے مطالعہ کی طرف متوجہ کریں۔ اور جس علم میں ابدی زندگی کا فائدہ ہو اس کی طرف دلوں کو کھینچنے کا جیکہ کرنا اس لیے سے اہم ہے جو طب کی طرف کھینچتا ہے کیونکہ طب تو صرف جسمانی صحت کا فائدہ دیتی ہے۔ جبکہ اس علم کا نتیجہ، قلوب و ارواح کا علاج ہے اس کے ذریعے انسان ابدی زندگی تک پہنچ جاتا ہے تو اس کے مقابلے میں طب کی کیا حیثیت ہے جس کے ذریعے صرف جسمانی علاج ہوتا ہے اور جسم تو تھوڑے ہی دنوں خراب ہو جائیں گے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے توفیق، ہدایت اور صراطِ مستقیم پر قائم رہنے کا سوال کرتے ہیں وہ کریم جواد ہے۔

علم کا بیان

اس میں سات باب ہیں۔

پہلا باب :-

علم، تعلیم اور تعلم کے بیان ہیں۔

دوسرا باب :-

کون سے علوم فرض عین اور کون سے فرض کفایہ میں فقہ اور علم کلام کہاں تک علم دین سے ہیں، نیز علم آخرت اور علم دنیا کا بیان۔

تیسرا باب :-

وہ علوم جنہیں عام لوگ علوم دینیہ میں شمار کرتے ہیں حالانکہ وہ ان میں شامل نہیں نیز کونسا علم اور کس قدر قابل خدمت ہے۔

چوتھا باب :-

مناظرہ کے نقصانات اور لوگ اختلافات اور جھگڑے ہیں کیوں مشغول ہوئے؟

پانچواں باب :-

استاذ اور شاگرد کے آداب کا بیان۔

چھٹا باب :-

علم اور علماء کے مضائب کا بیان

ساتواں باب :-

عقل، اس کی فضیلت و اقسام اور اس سلسلے میں وارد روایات کا بیان۔

پہلا باب

علم، تعلیم اور تعلم کی فضیلت اور اس پر عقلی اور عقلی دلائل۔

فضیلتِ علم

قرآنی آیات :-

شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلَأَ سِدْرَةَ
وَأُولُوا الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ - (آل عمران ۱۸)

اللہ تعالیٰ اس بات پر گواہ ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں
فرشتوں اور اہل علم نے بھی اس بات کی گواہی دی اور یہ کہ
وہ انصاف قائم کرنے والا ہے۔

دیکھو! اللہ تعالیٰ نے کس طرح اپنی ذات پاک سے آغاز کیا پھر فرشتوں اور اس کے بعد اہل علم کا ذکر فرمایا شرف و
فضیلت اور برتری و کمال کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔
اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔

يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ
أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ - (مجادلہ ۱۱)

اور تم میں سے جو لوگ ایمان لائے نیز اہل علم کے درجات
کو اللہ تعالیٰ بلند فرمائے گا۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں۔
”علماء کرام، عام مومنین سے سات سو درجات بلند ہوں گے اور ہر دو درجوں کے درمیان پانچ سو سال کی مسافت
ہوگی“

ارشاد خداوندی ہے۔

قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ
لَا يَعْلَمُونَ (زمزم)

آپ فرمادیجئے کیا اہل علم اور بے علم برابر ہو سکتے
ہیں۔

اور ارشاد فرمایا :-

إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ - (فاطر ۲۸)

بے شک اللہ تعالیٰ سے اس کے بندوں میں سے علماء
ہی ڈرتے ہیں۔

نیز ارشاد باری تعالیٰ ہے:-

قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ - (زمرہ ۲۳)

آپ فرمادیں گے اللہ تعالیٰ میرے اور تمہارے درمیان بطور گواہ کافی ہے نیز وہ لوگ جن کے پاس علم ہے۔

ارشاد خداوندی ہے:-

قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ (نمل ۴)

اور جس کے پاس کتاب کا علم تھا اس نے کہا میں اسے (بلقیس کے تخت کو تیرے پاس لاؤں گا۔

اس میں اس بات کی خبر دی گئی ہے کہ وہ قوتِ علم سے اس بلقیس کا تخت لانے پر قادر ہوا۔

وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيَلْتَمِسُونَ ثَوَابَ اللَّهِ خَيْرٌ لِّمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا - (قصص ۲۸)

اور اہل علم نے کہا تمہارے لیے خرابی ہو جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کئے ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ثواب بہتر ہے۔

اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ قدرِ آخرت کی عظمت، علم کے ذریعے معلوم کی جاتی ہے۔

اور یہ مثالیں ہیں جنہیں ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں اور انہیں صرف علماء ہی سمجھتے ہیں۔

وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ لِنَفْسِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ - (عنکبوت ۲۳)

اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:-

اور اگر وہ اسے (اپنے جھگڑے کو) رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے بااختیار لوگوں (علماء) کی طرف لوٹاتے تو اسے وہ لوگ جانتے جو ان میں سے اجتہاد کرتے ہیں۔

وَتُورَدُ وَرَأَىٰ الرَّسُولَ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلَّهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَ مِنْهُمْ - (نساء ۵۳)

اللہ تعالیٰ نے واقعات و معاملات کے فیصلے کو علماء کرام کے اجتہاد کی طرف لوٹایا اور حکم خداوندی کے اظہار میں ان کے مرتبہ کو انبیاء کرام علیہم السلام کے درجہ سے ملایا۔

کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد پاک:-

اسے انسانوں اپنے شک ہم نے تم پر لباس اتارا جو تمہاری شرمگاہوں کو چھپاتا اور زینت ہے اور تقویٰ کا لباس بہتر ہے

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُؤَارِي سَوْءَ الْكُفْرِ وَيَسَؤُا لِبَاسَ الْمُتَّقِينَ - (احزاب ۵۹)

(احزاب ۵۹)

ہیں "لباس" سے مراد علم، "ریش" سے مراد یقین اور "لباس التقویٰ" سے حیا مراد ہے۔

اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:-

اور بے شک ہم ان کے پاس کتاب لائے جس میں ہم نے اپنے علم سے واضح کر دیا۔

وَلَقَدْ جِئْنَا هُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَا لَهُ عَلٰی
عِلْمٍ (اعراف ۵۲)

بیز ارشاد خداوندی ہے۔

پھر ہم ان پر علم کے ساتھ ضرور بیان کریں گے۔

فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ (اعراف ۵)

ارشاد باری تعالیٰ ہے:-

بلکہ وہ روشن آیات ہیں جو ان لوگوں کے سینے میں ہیں جن کو علم دیا گیا۔

بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي مَسْئُرِ الَّذِينَ
أوتُوا الْعِلْمَ (عنکبوت ۲۹)

اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا اور اسے بیان سکھایا۔

خَلَقَ الْإِنْسَانَ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ (رحمن ۳۰)

اللہ تعالیٰ نے احسان جتاتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی۔

احادیث مبارکہ:-

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:-

اللہ تعالیٰ جس شخص کے لیے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے اور اس کی ہدایت اس کے دل میں ڈال دیتا ہے۔

مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ
وَيُلَقِّنْهُ رُشْدًا (۱)

بیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

علماء کرام، ر علم میں، انبیاء کرام علیہم السلام کے وارث ہیں۔

الْعُلَمَاءُ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ (۲)

یہ بات واضح ہے کہ نبوت سے بلند کوئی رتبہ نہیں اور اس رتبہ کی وراثت سے بڑھ کر کوئی اعزاز نہیں۔

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

آسمانوں اور زمین کی ہر چیز عالم کے لیے بخشش طلب

يَسْتَعْفِرُ لِّلْعَالَمِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ

(۱) المعجم الكبير، محمد بن كعب قرظي جلد ۱۹ ص ۳۲۰ محمد بن كعب القرظي عن معاوية-

(۲) سنن ابن ماجه ص ۲۰ - باب فضل العلماء

وَالْأَرْضِ - (۱)

کرتی ہے۔

اس شخص سے بڑھ کر کس کا منصب ہوگا جس کے لیے آسمانوں اور زمین کے فرشتے طلب معفرت میں مشغول ہوں
یہ اپنی ذات میں اور وہ اس کے لیے استغفار میں مشغول ہیں۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:-

بے شک علم، معزز کی عزت کو بڑھاتا ہے اور غلام کو اس
قدر بلندی عطا کرتا ہے کہ وہ بادشاہوں کے درجہ پر پہنچ
جاتا ہے۔

إِنَّ الْحِكْمَةَ تَزِيدُ الشَّرِيفَ شَرَفًا وَتَرْفَعُ
الْمَمْلُوكَ حَتَّى يُدْرِكَ مَدَارِكَ

الْمَمْلُوكِ - (۲)

اس حدیث میں اس کے دیوبی فائدہ (پھل) کی خبر دی اور یہ بات معلوم ہے کہ آخرت بہتر اور باقی رہنے والی ہے۔

آقاؐ نے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:-

کسی منافق میں (یہ) دو خوبیاں نہیں پائی جاتیں
راہ راست پر ہونا اور دین کی سمجھ۔

خَصَلَتَانِ لَوْ يَكُونَانِ فِي مَنَافِقٍ حَسَنٍ سَمَتِ
رَفِقَةٍ فِي الدِّينِ - (۳)

اس دور کے بعض فقہاء کی منافقت کی وجہ سے (اس) حدیث پر بہرگز شک نہ کرنا کیوں کہ آپ
کے ارشاد گرامی میں وہ فقہ مراد نہیں جو تمہارے خیال و تصور میں ہے عنقریب فقہ کا مفہوم بیان ہو
گا۔ فقیہ کا سب سے کم درجہ یہ ہے کہ وہ اس بات پر یقین رکھتا ہوں کہ آخرت، دنیا سے بہتر ہے اور جب اس پر یہ معرفت
صادق اور غالب آجائے تو وہ منافقت اور ریاکاری سے بری الذمہ ہو جائے گا۔

ایک شبہ کا ازالہ

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:-

بہترین انسان وہ مومن عالم ہے کہ جب اس کی ضرورت
پڑے تو وہ نفع دے اور جب اس سے بے اعتنائی برتی
جائے تو وہ بھی بے نیاز ہو جائے۔

أَفْضَلُ النَّاسِ الْمُؤْمِنُ الْعَالِمُ الَّذِي
إِنْ أَحْتَجَّ إِلَيْهِ نَفَعَ وَإِنْ اسْتَعْنَى عَنْهُ
أَعْتَى نَفْسَهُ - (۴)

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:-

(۱) احکام السادة المتقين جلد اول ص ۷۱

(۲) کنز العمال جلد ۱۰ ص ۱۴۶ حدیث نمبر ۴۲۸۷

(۳) جامع ترمذی ص ۳۸۴، باب ماجاء فی فضل الفقہ

(۴) کنز العمال جلد ۱۰ ص ۱۷۲ حدیث نمبر ۲۸۹۰۷

ایمان برہنہ ہے اس کا لباس تقویٰ ہے اس کی زینت
حیاء اور اس کا پھل علم ہے۔

لوگوں میں سے درجہ نبوت کے زیادہ قریب، علماء اور
مجاہدین ہیں، علماء، رسولوں کی لائی ہوئی تعلیمات کی طرف
لوگوں کی راہنمائی کرتے ہیں جب کہ مجاہدین رسولوں کی لائی
ہوئی شریعت کے تحفظ کے لیے اپنی تلواروں سے
جہاد کرتے ہیں۔

ایک قبیلے کی موت، ایک عالم کی موت سے آسان تر
ہے۔

سوسے اور چاندی کی کانوں کی طرح لوگوں کی بھی کانیں میں
پس ان میں سے وہ لوگ جو دور جاہلیت میں بہتر تھے اسلام
میں بھی بہتر ہیں بشرطیکہ دین کی سمجھ رکھتے ہوں۔

قیامت کے دن علماء کرام کی (تحریرات کی) سیاہی کو شہداء
کے خون کے مقابلے میں تو لاجائے گا۔

الْإِيمَانُ عُرْبَانٌ وَبِأَسَةِ التَّقْوَىٰ وَزِينَتُهُ
الْحَيَاءُ وَثَمَرَتُهُ الْعِلْمُ۔ (۱)

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

أَقْرَبُ النَّاسِ مِنْ دَرَجَةِ النَّبُوَّةِ أَهْلُ
الْعِلْمِ وَالْجِهَادِ أَمَّا أَهْلُ الْعِلْمِ قَدَلُوا
النَّاسَ عَلَى مَا جَاءَتْ بِهِ الرُّسُلُ وَأَمَّا
أَهْلُ الْجِهَادِ فَجَاهِدُوا بِأَسْيَافِهِمْ
عَلَى مَا جَاءَتْ بِهِ الرُّسُلُ۔ (۲)

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

كَمُوتِ قَبِيلَةٍ أَيْسَرُ مِنْ مَوْتِ
عَالِمٍ۔ (۳)

آپ نے مزید فرمایا۔

النَّاسُ مَعَاوُنٌ كَمَا دِنِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ
فَخِيَارُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِي
الْإِسْلَامِ إِذَا فَفَّهُوا۔ (۴)

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

يُوزَنُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَدَادُ الْعُلَمَاءِ بِدَمِ
الشَّهْدَاءِ۔ (۵)

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

(۱) الفردوس بما تورا الخطاب جلد اول ص ۱۱۲ حدیث نمبر ۳۸۰۔

(۲) کنز العمال جلد ۴ ص ۳۱۰ حدیث نمبر ۱۰۶۴۔

(۳) الاسرار المرفوعہ ص ۱۷۷ حدیث نمبر ۶۸۸۔

(۴) مستدراک احمد بن حنبل جلد ۲ ص ۵۳۹ روایات ابی ہریرہ

(۵) کنز العمال جلد ۱۰ ص ۱۷۳ حدیث نمبر ۲۸۸۹۹۔

جاتے ہیں ایک حکمرانوں کا طبقہ اور دوسرے علماء۔

وَالْفُقَهَاءُ (۱)

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:-

اِذَا اتَى عَلِيٌّ يَوْمَ لَا اِزْدَادَ فِيهِ عِلْمًا
يَقْرَبُنِي اِلَى اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ فَلَا يُوْرِكُ لِي
فِي طُلُوعِ الشَّمْسِ ذَلِكِ الْيَوْمِ (۲)

جب مجھ پر کوئی ایسا دن آئے جس میں، میں ایسے علم
کا اضافہ نہ کروں جو مجھے اللہ تعالیٰ کے قریب کر
دے تو اس دن کے طلوع آفتاب سے مجھے برکت حاصل
نہ ہوئی۔

رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کو عبادت اور شہادت پر فضیلت دیتے ہوئے یوں ارشاد فرمایا:-

رَفَضْتُ الْعَالِمَ عَلَى الْعَابِدِ لَفَضْلِي عَلَى آدَتِي
رَجُلٍ مِّنْ اصْحَابِي (۳)

عابد پر عالم کی فضیلت اس طرح ہے جیسے مجھے اپنے ادنیٰ
صحابی پر فضیلت حاصل ہے۔

تو دیکھئے آپ نے کس طرح علم کو درجہ نبوت کے ساتھ ملا دیا اور کس طرح علم سے خالی عمل کا درجہ گھٹا دیا اگرچہ عابد، اس عبادت
کے علم سے بے بہرہ نہیں ہوتا جسے وہ ہمیشہ کرتا ہے کیونکہ اگر یہ علم نہ ہو تو وہ عبادت ہی نہیں۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:-

فَضَّلْتُ الْعَالِمَ عَلَى الْعَابِدِ لَفَضْلِ الْقَمَرِ
لَيْلَةَ الْبَدْرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ (۴)

عالم کی عابد پر فضیلت اس طرح ہے جس طرح چودھویں
رات کا چاند تمام ستاروں سے افضل ہے۔

آپ نے ارشاد فرمایا:-

يَشْفَعُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثَلَاثَةٌ اَرْبَابٌ مِنْكُمْ
الْعُلَمَاءُ ثُمَّ الشُّهَدَاءُ (۵)

قیامت کے دن تین قسم کے لوگ سفارش کریں گے،
انبیاء کرام پھر علماء و عظام پھر شہداء کرام۔

تو آپ نے ایسے مرتبہ کے ساتھ (ان کی) عظمت بیان فرمائی جو نبوت سے ملا ہوا ہے اور یہ درجہ شہادت سے بلند ہے
باوجودیکہ شہادت کی فضیلت میں روایات آئی ہیں۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:-

(۱) کنز العمال جلد ۱۰ ص ۱۳۴ حدیث نمبر ۲۸۶۸

(۲) جامع ترمذی ص ۳۸۲، ۳۸۵ باب ماجاء فی فضل النعمہ

(۳) " " " " " "

(۴) سنن ابن ماجہ ص ۲۴۰ باب ذکر الشفاعة

مَا عَيْدَ اللَّهُ تَعَالَى بِشَيْءٍ أَفْضَلَ مِنْ فِقْهِ
فِي الدِّينِ وَلَفَقِيهِ وَاحِدًا شَدَّ عَلَيْكَ
الشَّيْطَانِ مِنَ الْفِ عَابِدٍ -

وَلِكُلِّ شَيْءٍ عِمَادٌ وَعِمَادُ هَذَا الدِّينِ
الْفِقْهُ - (۱)

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:-

خَيْرُ دِينِكُمْ اَيُّسِرُهُ وَخَيْرُ الْعِبَادَةِ الْفِقْهُ -
(۲)

آپ نے ارشاد فرمایا:-

فَضْلُ الْمُؤْمِنِ الْعَالِمِ عَلَى الْمُؤْمِنِ الْعَابِدِ
بِسَبْعِينَ دَرَجَةً - (۳)

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:-

اِنَّكُمْ اصْبَحْتُمْ فِي زَمَانٍ كَثِيرٍ فُقَهَاءٍ
قَلِيلٍ قُرَآؤَةٍ وَخُطْبَاءٍ قَلِيلٍ سَائِلُوهُ
كَثِيرٌ مُعْطَوْهُ الْعَمَلُ فِيهِ خَيْرٌ مِنَ الْعِلْمِ
وَسَيَاتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ قَلِيلٌ فُقَهَاءُ
كَثِيرٌ خُطْبَاءُ قَلِيلٌ مُعْطَوْهُ كَثِيرٌ سَائِلُوهُ
الْعِلْمُ فِيهِ خَيْرٌ مِنَ الْعَمَلِ - (۴)

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:-

بَيْنَ الْعَالِمِ وَالْعَابِدِ مِائَةٌ دَرَجَةً بَيْنَ

دین کی سمجھ سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کی گئی اور
ایک فقینہ، شیطان پر ایک ہزار عابد سے زیادہ
سخت ہے۔

ہر چیز کا ستون ہوتا ہے اور اس دین کا ستون دین
کی سمجھ ہے۔

تمہارا بہتر دین وہ ہے جو زیادہ آسان ہو اور بہترین عبادت
دین کی سمجھ حاصل کرنا ہے۔

مومن عالم کو مومن عابد پر ستر درجے فضیلت حاصل
ہے۔

بے شک تم ایسے زمانے میں ہو جس میں اہل علم زیادہ اور
قراء و خطباء کم ہیں مانگنے والے کم اور دینے والے زیادہ
ہیں اس (زمانے) میں عمل، علم سے بہتر ہے اور عنقریب
لوگوں پر ایک زمانہ آئے گا جس میں اہل علم کم اور خطباء زیادہ
ہوں گے دینے والے کم اور مانگنے والے زیادہ ہوں گے
اس (زمانے) میں علم، عمل سے بہتر ہوگا۔

عالم اور عابد کے درمیان ایک سو درجے کا فرق ہے

(۱) کنز العمال جلد ۱۰، ص ۱۴۷، ۱۴۸، حدیث نمبر ۲۸۷۵۲

(۲) کنز العمال جلد ۳، ص ۳۸، حدیث ۵۳۵۳۔

(۳) کنز العمال جلد ۱۰، ص ۱۵۵، حدیث ۲۸۷۹۷

(۴) مجمع الزوائد بحوالہ طبرانی، جلد اول، ص ۱۲۷، باب فی فضل العلماء

كُلِّ دَرَجَتَيْنِ حَضْرًا لِحُجُودِ الْمُضْمَرِّ سَبْعِينَ
سَنَةً - (۱)

اور ہر دو درجوں کے درمیان اتنی مسافت ہے کہ تیز
رفتار سے رہا ہو گھوڑا سرتال دوڑتا رہے۔

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کونسا عمل افضل ہے؟ آپ نے فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کے ذات پاک کا علم، عرض
کیا گیا آپ کا مراد کونسا علم ہے آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی ذات کا علم، انہوں نے عرض کیا ہم عمل کے بارے میں پوچھتے ہیں
آپ علم کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

إِنَّ قَلِيلَ الْعَمَلِ يَنْفَعُ مَعَ الْعِلْمِ بِاللَّهِ وَإِنَّ
كَثِيرَ الْعَمَلِ لَا يَنْفَعُ مَعَ الْجَهْلِ بِاللَّهِ - (۲)

اللہ تعالیٰ کے علم کے ساتھ تھوڑا عمل بھی نفع بخش ہے اور
اللہ تعالیٰ کی ذات سے لاعلم ہوتے ہوئے زیادہ عمل بھی
نفع نہیں دیتا۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

يَبْعَثُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ الْبَيَّاتِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
ثُمَّ يَبْعَثُ الْعُلَمَاءَ ثُمَّ يَقُولُ يَا مَعْشَرَ
الْعُلَمَاءِ إِنِّي لَمَّا صَغَعْتُ عَلِمْتُمْ فَيَكْفُرُوا لِي
بِكُمْ وَلَمَّا أَصَغَعْتُ عَلِمْتُمْ فَيَكْفُرُوا بِكُمْ
إِذْ هَبُوا فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ - (۳)

اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بندوں کو اٹھائے گا پھر علماء
کرام کو اٹھائے گا اس کے بعد فرمائے گا اے علماء کرام
کے گروہ! میں نے اپنا علم تمہیں جانتے ہوئے عطا کیا تھا
اور میں نے تمہیں اپنا علم اس لیے نہیں دیا تھا کہ میں تمہیں
عذاب دوں بے شک میں نے بخش دیا۔

ہم اللہ تعالیٰ سے حسن خاتمہ کا سوال کرتے ہیں۔

حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے حضرت کیل سے فرمایا دل کے کیل، مال
سے بہتر ہے، علم تیری حفاظت کرتا ہے اور تو علم کی، علم حاکم ہے اور مال

صحابہ کرام اور تابعین کے اقوال

محکوم، مال خرچ کرنے سے کم ہوتا ہے اور علم خرچ کرنے سے بڑھتا ہے۔

حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ ہی نے فرمایا۔

دورات پھر عبادت کے لیے اگڑے رہتے والے اور دن کو روزہ رکھنے والے مجاہد سے عالم افضل ہے۔ جب کوئی
عالم فوت ہو جاتا ہے تو اسلام میں ایسا رخنہ پیدا ہوتا ہے جسے اس کا کوئی نائب ہی پُر کر سکتا ہے (۴)

(۱) الترغیب والترہیب جلد اول ص ۱۰۲، فضل العالم علی العابد

(۲) کنز العمال جلد ۱۰ ص ۱۵۶ حدیث نمبر ۲۸۸

(۳) کنز العمال جلد ۱ ص ۱۶۳ نمبر ۲۸۹

(۴) کنز العمال جلد ۱ ص ۲۵۵ حدیث نمبر ۲۹۳۶۳

حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے نظم کی صورت میں فرمایا۔
 (ترجمہ) ”فخر کے لائق صرف اہل علم ہیں وہ خود ہدایت پر ہیں اور ہدایت چاہنے والوں کے لیے راہنما ہیں، ہر شخص کے لیے وہی چیز قدر کا باعث ہے جو اسے حسن عطا کرتی ہے اور جاہل لوگ علماء کے دشمن ہیں علم کے ساتھ کامیابی حاصل کرو اس کے ذریعے ہمیشہ زندہ رہو گے باقی لوگ مردہ ہیں اور علماء زندہ ہیں“
 ابو الاسود کہتے ہیں۔

”علم سے زیادہ قابل عزت کوئی چیز نہیں، بادشاہ لوگوں پر حکمران ہیں اور علماء حکمرانوں پر حاکم ہیں“
 حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں۔

”حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام کو علم، مال اور بادشاہی میں (سے ایک کا) اختیار دیا گیا تو انہوں نے علم کو اختیار کیا چنانچہ انہیں مال اور بادشاہی بھی عطا کر دی گئی۔“

حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ سے پوچھا گیا کہ انسان کون ہے؟ انہوں نے فرمایا ”علماء کرام“ پوچھا گیا بادشاہ کون ہے؟ فرمایا ”پہنیزگار لوگ“ پوچھا گیا بیوقوف کون لوگ ہیں؟ فرمایا ”وہ لوگ جو دین کے ذریعے دنیا کھاتے ہیں“

انہوں نے (حضرت ابن مبارک نے) غیر عالم کو انسانوں میں شمار نہیں فرمایا کیونکہ جس خصوصیت کے ذریعے انسان، تمام جانوروں سے ممتاز ہوتے ہیں وہ علم ہے۔ پس انسان، اس وصف کے ذریعے انسان ہوتا ہے جس کے باعث اسے عزت حاصل ہوتی ہے۔ اور یہ (اعزاز) اس کی شخصی قوت کی وجہ سے حاصل نہیں ہوتا کیونکہ اونٹ اس سے زیادہ طاقتور ہے اور نہ جسم کے بڑا ہونے کی وجہ سے ہے کیونکہ ہاتھی جسمانی طور پر اس سے بڑا ہے، نہ بہادری کی وجہ سے کیوں کہ درگے اس سے زیادہ بہادر ہیں۔ نہ کھانے کی وجہ سے کیوں کہ بیل کا پیٹ اس کے پیٹ سے زیادہ کشادہ ہے نہ صحبت و جماع کی وجہ سے کیوں کہ معمولی چڑیا بھی بلکہ وہ تو صرف علم کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔

بعض علماء کرام نے فرمایا، جس نے علم کو نہ پایا اس نے کیا چیز پائی اور جس نے علم کو پایا اس نے کیا کھویا (۱)۔
 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے۔

مَنْ أُوتِيَ الْقُرْآنَ فَرَأَى أَنَّ أَحَدًا أَوْحَىٰ
 خَيْرًا مِنْهُ فَقَدْ حَقَّرَ مَا عَظَّمَ اللَّهُ تَعَالَىٰ بِهَا
 جس شخص کو قرآن پاک (کا علم) دیا گیا پھر اس نے خیال کیا
 کہ کسی کو اس سے بہتر چیز ملی ہے تو اس نے اس چیز کو ہلکا
 جانا جسے اللہ تعالیٰ نے عظمت عطا فرمائی ہے۔

(۱) مطلب یہ ہے کہ جس کو علم حاصل ہو گیا اس کو دنیا کی ہر چیز مل گئی اور جسے علم نہیں ملا اسے کچھ بھی نہ ملا ۱۲ ہزاروی

(۲) کنز العمال جلد اول ص ۵۲۵ حدیث نمبر ۲۲۴۰۔

فتح موصیٰ رحمۃ اللہ نے پوچھا۔

کیا یہ بات نہیں کہ جب مریض کو کھانے پینے سے روک دیا جائے تو وہ مرجاتا ہے؟ انہوں نے (حاضرین نے) کہا ہاں کیوں نہیں، فرمایا، دل کا بھی یہی حال ہے،

جب اس سے علم اور حکمت کو تین دن روکا جائے تو وہ مرجاتا ہے۔ انہوں نے سچ فرمایا کیونکہ دل کی غذا علم و حکمت ہے اور ان دونوں کے ذریعے وہ زندہ رہتا ہے جیسے جسم کی غذا کھانا ہے۔ لہذا جس نے علم کو نہ پایا اس کا دل بیمار ہے اور اس کی موت لازمی ہے۔ لیکن اسے اس بات کا شعور نہیں ہوتا۔ کیونکہ دنیا کی محبت اور اس میں مشغولیت اس کے احساس کو ختم کر دیتی ہے جیسے غلبہ خوف فوری طور پر زخموں کی تکلیف کو مٹا دیتا ہے اگرچہ وہ موجود ہوتی ہے اور جب موت اس سے دنیا کے بوجھ کو مٹا دیتی ہے تو اسے اپنی ہلاکت کا احساس ہوتا ہے اس وقت وہ بہت زیادہ افسوس کرتا ہے کیوں کہ وہ اسے نفع نہیں دیتا۔ یہ ایسے ہے جیسے خوف سے نجات پانے والے اور نشے سے افاقہ حاصل کرنے والے کو ان زخموں کا احساس ہوتا ہے جو اس کو نشے یا خوف کی حالت میں پہنچے۔ پس ہم اس دن سے پناہ چاہتے ہیں جب حقیقت کھل جائے گی اب تو لوگ سوئے ہوئے ہیں جب مرجائیں گے تو بیدار ہوں گے۔

حضرت حسن بصری رحمہ اللہ نے فرمایا۔

”علماء کی (تحریرات کی) سیاہی کو شہداء کے خون کے مقابلے میں تو لاجائے گا تو شہداء کے خون سے علماء کی سیاہی زیادہ وزنی ہوگی۔“

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں۔

”تم پر لازم ہے کہ علم کے اٹھنے سے پہلے اسے حاصل کرو اور اس کا اٹھنا اسے روایت کرنے والوں کا فوت ہونا ہے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں قتل ہو کر شہید ہوئے جب علماء کرام کی عزت دیکھیں گے تو تمنا کریں گے کہ کاش اللہ تعالیٰ ان کو بھی علماء کے طور پر اٹھاتا اور تم میں سے کوئی بھی پیدا کشتی عالم نہیں ہوتا علم تو سیکھنے سے حاصل ہوتا ہے۔“

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا۔

”مجھے رات کا کچھ حصہ علم کے مذکورہ میں گزارنا، عبادت میں رات گزارنے سے زیادہ پسند ہے“ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ اور حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے بھی اسی طرح منقول ہے۔

حضرت حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ، ارشاد خداوندی

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي

الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ

اے ہمارے رب! ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما اور
آخرت میں بھی بھلائی عطا کر اور ہمیں آگ کے عذاب

سے بچا۔

کی تفسیر میں فرماتے ہیں۔ ”دینیا میں بھلائی علم اور عبادت سے۔ اور آخرت میں جنت“

کسی دانا سے پوچھا گیا کون سی اشیاء جمع کی جائیں؟ اس نے جواب دیا ”وہ اشیاء کہ جب تمہاری کشتی ڈوب جائے تو وہ تمہارے ساتھ تیرتی رہیں۔“ اس سے علم مراد ہے۔ کہا گیا ہے کہ کشتی کے ڈوبنے سے مراد موت کے ذریعے بدن کی ہلاکت ہے بعض دانا لوگوں نے فرمایا ”جس نے حکمت کو لگام بنایا لوگ اسے اپنا پیشوا بناتے ہیں۔ اور جو شخص حکمت (دانائی) میں مصروف ہوتا ہے لوگوں کی نگاہوں میں باوقار ہوتا ہے۔

حضرت امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔

علم کی شرافت ہے کہ جو شخص اس سے منسوب ہوتا ہے اگرچہ معمولی سی نسبت ہو وہ خوش ہوتا ہے اور جس سے یہ نسبت اٹھائی جائے وہ غمگین ہوتا ہے (۲)

حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا:-

اسے لوگو! تم پر علم (کا حاصل کرنا) لازم ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پاس ایک چادر ہے جسے وہ پسند فرماتا ہے پس جو شخص علم کا ایک باب طلب کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے وہ چادر پہنا دیتا ہے پھر اگر وہ کوئی گناہ کرتا ہے تو وہ تین مرتبہ اس کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ وہ اس چادر کو واپس نہ لے لے اور یہ سلسلہ جاری رہتا ہے اگرچہ وہ گناہ اس کی موت تک دراز ہو جائے۔

حضرت اخف نے فرمایا۔

ایسا معلوم ہوتا ہے کہ علما کرام مالک بن جائیں اور جس عزت کی مضبوطی علم سے نہ ہو اس کا انجام ذلت ہے۔ حضرت سالم بن ابی الجعدہ فرماتے ہیں۔

مجھے میرے مالک نے تین سو درہموں میں خرید کر آزاد کر دیا میں نے سوچا کہ کونسا پیشہ اختیار کروں تو میں نے علم کے شعبہ کو اختیار کر لیا ایک سال نہ گزرا تھا کہ شہر کا حاکم میری ملاقات کے لیے آیا لیکن میں نے اسے اجازت نہ دی۔ حضرت زبیر بن ابوبکر فرماتے ہیں۔

میرے والد نے مجھے عراق میں ایک خط لکھا کہ علم کو اختیار کرو۔ اگر تم محتاج ہو گے تو وہ تمہارے لیے مال ہوگا اور اگر

(۱) سورہ بقرہ آیت ۲۰۱

(۲) کسی کو کہا جائے کہ بیٹھ جا لکھا ہے تو وہ فخر محسوس کرتا ہے اور اگر کہا جائے کہ یہ جاہل ہے تو وہ اپنی توہین محسوس کرتا ہے اگرچہ وہ

جاہل ہی کیوں نہ ہو ۱۲ مئی ۱۹۵۱ء

نہیں ضرورت نہ ہوگی تو وہ تمہارا حسن و جمال ہوگا۔

حضرت لقمان کی اپنے بیٹے کو کی گئی وصیتوں میں بھی اس بات کا ذکر کیا گیا ہے۔ انہوں نے فرمایا۔

اے بیٹے! علماء کی مجلس اختیار کرو اپنے زانوؤں کے زانوؤں سے ملا دو۔ اللہ تعالیٰ دلوں کو نور حکمت سے زندہ کرتا ہے

جیسے کہ آسمان کی موسلا دہا بار بارش زمین کو آباد کر دیتی ہے۔

کسی دانا کا قول ہے کہ جب کسی عالم کا انتقال ہوتا ہے تو پانی میں مچھلیاں اور فضا میں پرندے روتے ہیں اگرچہ اس کا

چہرہ گم ہو گیا لیکن اس کی یاد نہیں بھولتی حضرت زہری رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔

علم نر ہے اور اسے مردوں میں سے وہی پسند کرتے ہیں جو زہروں سے

طلب علم کی فضیلت

آیات کریمہ:-

ارشاد خداوندی ہے:-

فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ

لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ - (۲)

اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:-

فَأَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ - (۳)

احادیث مبارکہ:-

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:-

مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَطْلُبُ فِيهِ عِلْمًا سَلَكَ

اللَّهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ - (۴)

آپ نے ارشاد فرمایا:-

تو کیوں نہ نکلے ہر قبیلے سے چند آدمی تاکہ دین میں تفقہ (سمجھ) حاصل کریں۔

پس اہل علم سے پوچھو اگر تم تمہیں جانتے۔

جو شخص طلب علم کے لیے کسی راستے پر چلتا ہے اللہ تعالیٰ اس

کے سبب اس شخص کو جنت کے راستے پر چلا دیتا ہے۔

لہٰذا طلب علم کا حصول جو امر مردوں کا کام ہے اگرچہ یہ جذبہ عورتوں کے اندر بھی پایا جاتا ہے یہ مطلب نہیں کہ عورتیں علم حاصل

نہیں کر سکتیں ۱۲ ہزاروی۔

(۲) سورۃ توبہ آیت نمبر ۱۲۲ (۳) سورۃ نحل آیت (۴۳)

(۴) سنن ابی داؤد جلد ۳ ص ۲۱۷ حدیث نمبر ۳۶۴۱

بے شک فرشتے طالب علم کے عمل پر راضی ہوتے ہوئے
اس کے لیے اپنے پر بچھا دیتے ہیں۔

تمہارا صبح کے وقت علم کا ایک باب سیکھنے کے لیے
جانا ایک سو رکعت (نوافل) پڑھنے سے بہتر ہے۔

علم کا ایک باب جسے کوئی شخص سیکھے اس کے لیے دنیا
اور جو کچھ اس میں ہے بہتر ہے۔

علم کی تلاش کرو اگرچہ چین میں ہو (یعنی بہت دور ہی
کیوں نہ ہو)۔

طلب علم ہر مسلمان (مرد و عورت) پر فرض ہے۔

علم خزانہ ہے اور اس کی چابیاں سوال ہے سنو! پوچھا
کرو اس میں چار آدمیوں کے لیے ثواب ہے پوچھنے والے،
عالم، توجہ سے سننے والے اور ان لوگوں سے محبت کرنے
والے کے لیے۔

جاہل کو اپنی جہالت پر اور عالم کو اپنے علم پر خاموش رہنا

إِنَّ الْعِلْمَ نِكَاحٌ لَتَضَعُ أَجْنَاحَهَا يَطَّالِبِ
الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَصْنَعُ - (۱)

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:-

لَا تَنْتَعِدُ وَتَتَعَلَّمُ بِأَبَا مِنْ الْعِلْمِ خَيْرٌ مِنْ
أَنْ تُصَلِّيَ مِائَةَ رُكْعَةٍ - (۲)

آپ نے فرمایا:-

بَابٌ مِنَ الْعِلْمِ يَتَعَلَّمُهُ الرَّجُلُ خَيْرٌ لَّهُ
مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا - (۳)

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:-

اطْلُبُوا الْعِلْمَ وَلَوْ كَانَ بِالصَّيْنِ
(۴)

آپ نے فرمایا:-

طَلَبُ الْعِلْمِ قَرِيبَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ
اِشَارَةٌ فَرَمَا:-

الْعِلْمُ خَزَائِنٌ مَقَاتِلُهَا السُّؤَالُ وَالْوَاقِفَاتُ
لَوْهَا فَانَّهُ يُوجِرُنِيهِ الرَّبْعَةُ السَّائِلُ
وَالْعَالِمُ وَالْمُسْلِمُ وَالْمُحِبُّ لَهُمْ - (۶)

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:-

لَا يَنْبَغِي لِلْجَاهِلِ أَنْ يَسْكُتَ عَلَى جَهْلِهِ

(۱) مسند امام احمد بن حنبل جلد ۴ ص ۲۴۱ مرویات صفوان بن عسال

(۲) کنز العمال جلد ۱۰ ص ۲۵۸ حدیث نمبر ۲۹۳ (۳) کنز العمال جلد ۱۰ ص ۱۶۳ حدیث نمبر ۲۸۸

(۴) کنز العمال جلد ۱۰ ص ۱۳۸ حدیث نمبر ۲۸۶۹ (۵) سنن ابن ماجہ ص ۲۰ باب فضل العلماء

(۶) کنز العمال جلد ۱۰ ص ۱۳۳ حدیث نمبر ۲۸۶۹۲

مناسب نہیں (۲)

کسی عالم کی مجلس میں حاضر ہونا ایک ہزار رکعات (توافل) پڑھنے ایک ہزار مریضوں کی بیمار پرسی کرنے اور ایک ہزار جازوں میں بشریک ہونے سے بہتر سے عرض کیا گیا یا رسول اللہ! کیا قرآن پاک پڑھنے سے بھی؟ آپ نے فرمایا قرآن پاک بھی تو علم کے ساتھ ہی فائدہ دیتا ہے۔

ذَلِكَ الْعِلْمَانِ تَسَلَّتْ عَلَى عِلْمِهِ - (۱)
حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے۔
مَنْ جَلَسَ مَجْلِسَ عَالِمٍ أَفْضَلَ مِنْ صَلَاةِ أَلْفِ رُكْعَةٍ وَعِبَادَةِ أَلْفِ مَرِيضٍ وَشَهْوٍ دَأْفٍ جَنَازَةٍ - فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمِنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ؟ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهَلْ يَنْفَعُ الْقُرْآنُ إِلَّا بِالْعِلْمِ - (۳)
آپ نے ارشاد فرمایا:-

جس شخص کو اس حال میں موت آئے کہ وہ اسلام کو زندہ کرنے کے لیے علم حاصل کر رہا تھا تو جنت میں اس کے اور انبیاء کرام کے درمیان ایک درجہ کا فرق ہوگا (یعنی اسے انبیاء کرام کا قرب حاصل ہوگا)

مَنْ جَاءَهُ الْمَوْتُ وَهُوَ يَطْلُبُ الْعِلْمَ لِيُحْيِيَ بِهِ الدِّينَ سَلَامًا فَبَيْنَهُ وَبَيْنَ الْأَنْبِيَاءِ فِي الْجَنَّةِ دَرَجَةٌ وَاحِدَةٌ - (۲)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں میں نے طالب علمی کے زمانہ میں عجز و انکساری سے کام لیا اور اب بحیثیت معلم میری عزت کی جاتی ہے حضرت ابن ابی ملیکہ بھی اسی طرح فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں۔

اقوال صحابہ و تابعین

میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی مثل نہیں دیکھا اگر تم ان کی زیارت کرو تو ایک خوبصورت ترین شخص کو دیکھو گے جب وہ گفتگو کرتے ہیں تو عرب کے سب سے زیادہ فصیح اور فتویٰ دیتے ہیں تو لوگوں میں سے سب سے بڑے عالم معلوم ہوتے ہیں حضرت ابن مبارک فرماتے ہیں۔

”مجھے اس شخص پر تعجب ہے جو علم حاصل نہیں کرتا اس کا نفس اسے کس طرح بزرگی کی طرف بلاتا ہے“
کسی دانائے کہا۔

(۱) مجمع الزوائد جلد اول ص ۱۶۲، ۱۶۵ باب فیما ینبغی للعالم والباحل۔

(۲) مطلب یہ ہے کہ بے علم کو طلب علم کے ذریعے اپنی جہالت کا ازالہ کرنا چاہیے اور جو شخص عالم ہے وہ دوسروں کو سکھاتا ہے ایسا نہ کرنا جائز ہے ۱۲ ہزاروی

(۳) الاسرار المفروغہ ص ۱۱۳، ۱۱۴ حدیث نمبر ۲۲ (۴) کنز العمال جلد ۱۰ ص ۲۶۰ حدیث نمبر ۲۹۳۸۲

مجھے لوگوں پر اس قدر ترس نہیں آتا جتنا دواؤمیوں میں سے ایک پر آتا ہے ایک شخص جو علم طلب کرتا ہے لیکن اسے سمجھتا نہیں دوسرا وہ جو علم کو سمجھتا ہے لیکن طلب نہیں کرتا۔

حضرت ابوورداد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں۔

”میرے لیے ایک مسئلہ سیکھنا رات بھر کے قیام سے بہتر ہے“

انہوں نے مزید فرمایا:-

”عالم اور طالب علم، بھلائی میں شریک ہیں باقی تمام لوگ عوام الناس ہیں ان میں کوئی بھلائی نہیں“

مزید فرمایا:-

”عالم یا طالب علم یا علم کو سننے والے بنو جو تھا آدمی نہ بننا ہلاک ہو جاوے گے“

حضرت عطا فرماتے ہیں:-

”علم کی ایک مجلس کھیل کود کی ستر مجلسوں کا کفارہ ہوتی ہے“

حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:-

رات کو عبادت کے لیے قیام کرنے اور دن کو روزہ رکھنے والے ایک ہزار عبادت گزاروں کی موت ایک اسے عالم کی موت کے سمانے بیچ ہے جو اللہ تعالیٰ کے حلال و حرام رکروہ کی سمجھ رکھتا ہو۔

حضرت امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:-

”طلب علم، نفل نماز سے بہتر ہے“

حضرت ابن عبدالحکم رحمہ اللہ فرماتے ہیں:-

”میں حضرت امام مالک رحمہ اللہ کے پاس علم حاصل کیا کرتا تھا ظہر کا وقت ہوا تو میں نے نماز پڑھنے کے لیے کتابوں کو

اٹھا کیا انہوں نے فرمایا ہے فلاں! جس کام کی طرف تم اٹھتے ہو وہ اس سے افضل نہیں جس میں تم مصروف تھے بشرطیکہ نیت صحیح ہو۔ (۱)

حضرت ابوورداد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:-

جس شخص کے خیال میں طلب علم کے لئے جانا جہاد نہیں تو اس کی رائے اور عقل ناقص ہے۔

(۱) اگر دین کا طالب علم بالخصوص فقہ سیکھنے والا، اسباق سے فرصت نہ پائے تو اسے جماعت چھوڑنے کی اجازت ہے (عام کتب فقہ)

تعلیم کی فضیلت

آیاتِ کریمہ:

ارشادِ خداوندی ہے:-

وَلْيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ
لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ - (۱)

اس سے مراد علم سکھانا اور ہدایت دینا ہے۔
ارشادِ خداوندی ہے:-

وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ آذَنُوا الْكِتَابَ
كَتَبْنَا لَهُمْ لِلنَّاسِ وَلَا يَكْتُمُونَ -

(۲)

اس میں علم سکھانے کو واجب قرار دیا گیا ہے۔

ارشادِ باری تعالیٰ ہے:-

وَإِنْ فَرِيقًا مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ
يَعْلَمُونَ - (۳)

اور ان میں سے ایک گروہ حق کو چھپاتا ہے حالانکہ وہ
جاتے ہیں۔

یعنی علم کو چھپانا حرام ہے جیسے گواہی چھپانے کے بارے میں فرمایا:-

اور جو اسے (گواہی کو) چھپائے اس کا دل گناہ گار ہے۔

وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبًا - (۴)

اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:-

اللہ تعالیٰ نے جس عالم کو علم دیا ہے اس سے وہ عہد لیا جو
انبیاء کرام سے لیا کہ وہ اسے لوگوں کے لیے بیان کریں اور
اسے نہ چھپائیں۔

مَا كُنِيَ اللَّهُ عَالِمًا عِلْمًا إِلَّا وَآخَذَ عَلَيْهِ

مِنَ الْمِيثَاقِ مَا أَخَذَ عَلَى النَّبِيِّينَ أَنْ

يُبَيِّنُوا لِلنَّاسِ وَلَا يَكْتُمُوهُ - (۵)

(۱) سورہ توبہ (۱۲۲) (۲) سورہ آل عمران آیت نمبر (۱۸) (۳) سورہ بقرہ آیت نمبر (۱۲۶)

(۴) سورہ بقرہ آیت نمبر (۲۸۳)

(۵) فیض القدير جلد ۵ ص ۲۰۶

ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا اللَّهَ وَعَمِلَ
صَالِحًا۔ (۱)

اور اس سے بڑھ کر کس کی بات اچھی ہے اللہ تعالیٰ کی
طرف بلانا اور اچھے کام کرنا ہے۔

اور ارشاد خداوندی ہے۔

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ
الْحَسَنَةِ۔ (۲)

اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اور اچھے وعظ
کے ساتھ بلاؤ۔

نیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔

وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ الْحِكْمَةَ۔ (۳)
احادیث مبارکہ۔

اور وہ (رسول صلی اللہ علیہ وسلم) انہیں کتاب و حکمت سکھاتے ہیں۔

سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن کی طرف بھیجا تو فرمایا۔

اگر اللہ تعالیٰ تمہارے ذریعے کسی ایک شخص کو ہدایت دے
تو یہ تمہارے لیے دنیا اور ما فیہا سے بہتر ہے۔

لَوْ أَنَّ يَهْدِيَ اللَّهُ بِنِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ
لَّكَ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا۔ (۴)

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

جو شخص علم کا ایک باب سیکھتا ہے تاکہ لوگوں کو سکھائے
تو اسے ستر صدیقوں کا ثواب دیا جاتا ہے۔

مَنْ تَعَلَّمَ بَابًا مِنَ الْعِلْمِ لِيُعَلِّمَ النَّاسَ
أُعْطِيَ ثَوَابَ سَبْعِينَ صِدْقًا۔ (۵)

حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا۔

جو شخص عالم ہو اور عمل کرے نیز سکھائے تو اسے آسمانوں
کی سلطنت میں عظیم کہا جاتا ہے۔

مَنْ عِلِمَ وَعَمِلَ وَعَلَّمَ قَدْ لَكَ يَدْعَى
عَظِيمًا فِي مَلَكُوتِ السَّمَوَاتِ (۶)

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ عابدین و مجاہدین سے

إِذَا كَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ

(۱) سورۃ فصلت (۳۲) (۲) سورۃ النحل آیت ۱۲۵ (۳) سورۃ آل عمران آیت ۷۸

(۴) صحیح مسلم جلد ۲ ص ۲۷۹ باب من فضائل علی ابن طالب۔

(۵) الترغیب والترہیب جلد اول ص ۹۸ باب فضل طلب العلم

(۶) کنز العمال جلد ۱ ص ۱۶۴ حدیث نمبر ۲۸۸۵

فرمائے گا جنت میں داخل ہو جاؤ علماء کرام عرض کریں
انہوں نے ہمارے علم کی فضیلت کے باعث عبادت
اور جہاد کیا اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم میرے نزدیک میرے
بعض فرشتوں کی طرح ہو سفارش کرو تمہاری شفاعت
قبول ہوگی کریں گے پھر جنت میں
داخل ہو جائیں گے۔

لِّلْعَابِدِينَ وَالْمُجَاهِدِينَ اَدْخَلُوا الْجَنَّةَ
فَيَقُولُ الْعُلَمَاءُ بِنُفْسِ عَلِمْنَا تَعَبَدُوا
وَجَاهَدُوا فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ اَنْتُمْ
عِنْدِي لِبَعْضِ مَلَائِكَتِي اسْتَفَعُوا اسْتَفَعُوا
فَيَسْفَعُونَ ثُمَّ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ۔

(۱)

تو یہ اعزاز اس علم کے ذریعے ہو گا جو تعلیم کے ذریعے دوسروں تک پہنچا ہے اس علم لازم کے ذریعے نہیں تو
دوسروں تک نہیں پہنچا۔

اللہ تعالیٰ علم کو اس طرح نہیں اٹھائے گا کہ لوگوں کو
عطا کرنے کے بعد ان سے واپس لے لے بلکہ علماء
کو اٹھانے کے ذریعے علم کو اٹھائے گا جب بھی کوئی
عالم اس دنیا سے رخصت ہو گا تو اس کے ساتھ اس
کا علم بھی چلا جائے گا حتیٰ کہ وہ وقت آئے گا جب جاہل
لوگ لوگوں کے رہنما ہوں گے اگر ان سے پوچھا جائے
تو علم کے بغیر فتویٰ دیں گے اس طرح خود بھی گمراہ ہوں گے
اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔
اِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ لَا يَنْتَزِعُ الْعِلْمَ اِنْتِزَاعًا
مِّنَ النَّاسِ بَعْدَ اَنْ يُؤْتِيَهُمْ آيَاتِهِ وَلٰكِنْ
يَذْهَبُ بِذَهَابِ الْعُلَمَاءِ فَكُلَّمَا
ذَهَبَ عَالِمٌ ذَهَبَ بِمَا مَعَهُ مِنَ
الْعِلْمِ حَتّٰى اِذَا الْمَيِّتُ اِلَّا رُوْسًا
جَهَالًا اِنْ سُئِلُوْا فَيَقُوْلُوْنَ بَعِيْرَ عِلْمٍ
فَيُضِلُّوْنَ وَيُضِلُّوْنَ (۲)

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

مَنْ عِلِمَ عِلْمًا فَلْتَمَنَّ الْجَمَّةُ اللّٰهُ
يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِلِحَامِهِ مِنَ النَّارِ۔ (۳)

آپ نے ارشاد فرمایا۔

جس شخص نے علم حاصل کیا پھر اسے چھپایا یا رسیا نہ کیا،
تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے آگ کی لگام ڈالے گا۔

(۱) کنز العمال جلد ۱۰ ص ۱۳۶ حدیث نمبر ۲۸۶۸۸

(۲) صحیح مسلم جلد ۲ ص ۲۰۵۹ کتاب العلم

(۳) جامع ترمذی ص ۳۷۹ ناچار فی کتمان العلم

بہترین عطیہ (اور سب سے اچھا تحفہ) کیا ہے) دانائی
کی ایک بات جسے تم سوچو پھر اسے محفوظ رکھ کر اپنے مسلمان
بھائی کے پاس لے جاؤ اور اسے سکھا دو تو یہ ایک سال
کی عبادت کے برابر ہے۔

«نِعْمَ الْعَطِيَّةُ وَنِعْمَ الْهَدِيَّةُ كَلِمَةٌ حَكِيمَةٌ
تَسْمَعُهَا فَتَطْوِي عَلَيْهَا ثُمَّ تَحْمِلُهَا إِلَى
آخِرِ لَكَ مُسْلِمٍ تَعْلَمُهُ أَيَّاهَا تَعْدِلُ عِبَادَةَ
سَنَةٍ» (۱)

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:-

«الَّذِينَ مَلَعُونَ وَمَلَعُونَ مَا فِيهَا الْأَذْكَرُ
اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَمَا وَالَاهُ أَوْ مَعْلَمًا
أَوْ مَعْلَمًا» (۲)

دنیا اور جو کچھ اس اندر ہے سب قابل لعنت ہے
سوائے اللہ تعالیٰ کے ذکر اور اس چیز کے جو اس سے متعلق
ہو، نیز ظلم سکھانے اور سیکھنے والا۔

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:-

«إِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَمَلَائِكَتُهُ وَأَهْلُ سَمَوَاتِهِ
وَأَرْضِهِ حَتَّى الثَّمَلَةَ فِي جُحْرِهَا وَحَتَّى
الْحُوتِ فِي الْبَحْرِ لَيُصَلُّونَ عَلَى مَعْلَمِ
النَّاسِ الْخَيْرِ» (۳)

بے شک اللہ تعالیٰ، اس کے فرشتے، آسمانوں اور زمینوں
کی مخلوق حتیٰ کہ چوٹی اپنے سوراخ میں اور مچھلی دریائیں،
لوگوں کو نیکی سکھانے والوں کے لیے رحمت کی دیوانگتے
ہیں۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:-

«مَا أَفَادَ الْمُسْلِمَ أَخَاهُ فَايْدَةٌ أَفْضَلُ
مِنْ حَدِيثٍ حَسَنِ بَلَغَهُ قَبْلَهُ» (۴)

کوئی مسلمان اپنے بھائی کو اس حدیث بہتر فائدہ نہیں
پہنچاتا جو اس تک پہنچے اور وہ اسے اس (مسلمان بھائی)
تک پہنچائے۔

آپ نے ارشاد فرمایا:-

«كَلِمَةٌ مِنَ الْخَيْرِ يَسْمَعُهَا الْمُؤْمِنُ فَيَعْلَمُهَا
وَيَعْمَلُ بِهَا خَيْرَ لَهُ مِنْ عِبَادَةِ سَنَةٍ» (۵)

ایک اچھی بات جسے کوئی مسلمان سن کر دوسروں کو
سکھاتا اور خود اس پر عمل کرتا ہے وہ اس کے لیے
ایک سال کی عبادت سے بہتر ہے۔

(۱) مجمع الزوائد جلد اول ص ۱۶۶ باب فیمن تشرعنا (۲) مجمع الزوائد جلد اول ص ۱۲۲ باب فی فضل العالم۔

(۳) جامع ترمذی ص ۲۸۵ ماجانی فضل الفقہ (۴) کنز العمال جلد ۱۰ ص ۱۶۲

(۵) کتاب الزهد والرفاق ص ۳۸ حدیث نمبر ۱۳۸۶۔

ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم (خانہ اقدس سے) باہر تشریف لائے تو آپ نے دو مجلسیں دیکھیں ان میں سے ایک مجلس والے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ رہے تھے اور اس کی طرح متوجہ تھے اور دوسرے لوگوں کو تعلیم دے رہے تھے آپ نے فرمایا یہ لوگ اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں اگر وہ چاہے تو ان کو عطا کرے اور اگر چاہے تو روک دے لیکن وہ گروہ لوگوں کو تعلیم دے رہا ہے اور بے شک مجھے بھی معلم بنا کر بھیجا گیا ہے۔ پھر آپ ان کی طرف چلے اور ان کے پاس بیٹھ گئے۔ (۱)

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

وقال صلى الله عليه وسلم «مَثَلُ مَا بَعَثَنِي اللهُ عَزَّوَجَلَّ بِهِ مِنَ الْعِلْمِ كَمَثَلِ الْغَيْثِ الْكَثِيرِ أَصَابَ أَرْضًا فَكَانَتْ مِنْهَا بَقْعَةٌ قَبِلَتْ الْمَاءَ فَأَنْبَتَ الْكَلْبُ وَالْعُثْبُ الْكَثِيرُ، وَكَانَتْ مِنْهَا بَقْعَةٌ أَمْسَكَتِ الْمَاءَ فَثَفَعَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ بِهَا النَّاسَ فَشَرِبُوا مِنْهَا وَسَقَوْا وَزَرَعُوا، وَكَانَتْ مِنْهَا طَائِفَةٌ قَبِعَانُ وَتَمَسَكَ الْمَاءَ وَلَا تَنْبِتُ كَلْبًا» (۲)

اللہ تعالیٰ نے مجھے جس ہدایت اور علم کے ساتھ بھیجا ہے اس کی مثال بہت زیادہ بارش جیسی ہے وہ زمین کے ایک ایسے ٹکڑے کو پہنچتی ہے جو اسے قبول کرتا ہے تو اس سے بہت زیادہ گھاس اُگتا ہے اور زمین کا ایک ٹکڑا ایسا ہے جو پانی کو روک لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے لوگوں کو نفع عطا فرماتا ہے وہ اس سے خود پیتے ہیں (جانوروں کو پلاتے ہیں اور کھیتی باڑی کرتے ہیں اور ایک خطہ ایسا ہے جس میں پانی نہیں ٹھہرتا اور نہ اس سے گھاس پیدا ہوتا ہے۔

تو آپ نے پہلی مثال ان لوگوں کے بارے میں بیان فرمائی جو اپنے علم سے نفع اٹھاتے ہیں دوسری مثال ان لوگوں کی ذکر فرمائی جو اپنے علم سے نفع پہنچاتے ہیں اور تیسری مثال ان لوگوں کی ہے جو ان دونوں باتوں سے محروم ہیں۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

إِذَا مَاتَ ابْنٌ أَدَمًا نَقَطَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ عَلَيْهِ يُنْفَعُ بِهِ» (۳)

جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا سلسلہ عمل ختم ہو جاتا ہے سوائے تین باتوں کے۔ ایک وہ علم جس سے نفع اٹھایا جائے۔ (آخر تک) (۴)

(۱) سنن ابن ماجہ من ۲۱، باب فضل العلم (۷) صحیح بخاری جداول ص ۱۸ باب فضل من علم رہا صحیح مسلم ج ۲ ص ۱۱۱ باب ما یلحق الانسان (۲) مکمل حدیث اس طرح ہے: حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے البتہ تین عمل باقی رہتے ہیں صدقہ جاریہ، وہ علم جس سے نفع حاصل کیا جائے اور نیک اولاد جو اس کے لیے دعائیں مانگے (مشکوٰۃ شریف ص ۲) ایسے لوگوں کو اس حدیث پر غور کرنا چاہیے جو کسی فوت شدہ کے لیے دعائیں مانگنے کو شرک و بدعت کہتے ہیں اور مسلمانوں کو چاہیے اپنی اولاد کو ایسے لوگوں کو پاس علم حاصل کرنے کے لیے نہ بھیجیں ورنہ اولاد کی دعا سے بھی محروم ہو جائیں گے ۱۲ ہزار روپی

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
الدال علی الخیر کفاحلہ (۱)
آپ نے ارشاد فرمایا:-

نیکی کی راہ دکھانے والا نیکی کرنے والے کی طرح ہے۔

«لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ: رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ
عَزْوَاجًا حَكِيمَةً فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيَعْلَمُهَا
النَّاسَ، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَسَلَطَهُ
عَلَى مَلَكَةٍ فِي الْخَيْرِ» - (۲)

دو قسم کے انسانوں پر رشک کیا جاسکتا ہے ایک وہ شخص
جس کو اللہ تعالیٰ نے دین کی سمجھ عطا فرمائی وہ اس کے ساتھ
فیصلہ کرتا ہے اور اسے لوگوں کو سکھاتا ہے اور دوسرا وہ
شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے مال عطا فرمایا تو اس کو نیکی کی راہ
پر خرچ کرنے کی قدرت عطا فرمائی۔

✽ ✽ ✽

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:-

«عَلَى خَلْفَائِي رَحْمَةُ اللَّهِ، قِيلَ: وَمَنْ
خَلْفَاؤُكَ قَالَ: الَّذِينَ يَجِبُونَ سُنَّتِي
وَيَعْلَمُونَهَا عِبَادَ اللَّهِ» - (۳)

«میرے خلفاء پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو، عرض کیا گیا آپ کے
خلفاء کون لوگ ہیں آپ نے فرمایا وہ لوگ جو میری سنت
کو پند کرتے اور بندگانِ خدا کو اس کی تعلیم دیتے ہیں»

اقوال صحابہ و تابعین

حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا:-

«جو شخص کوئی حدیث بیان کرے اور اس پر عمل بھی کرے اس کے لیے عمل کرنے والے کے ثواب کے برابر
(ثواب) ہے»

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں:-

«لوگوں کو بھلائی کی تعلیم دینے والے کے لیے ہر چیز مغفرت کی دعا کرتی ہے حتیٰ کہ دریا میں مچھلیاں بھی»
بعض علماء کرام فرماتے ہیں:

«عالم، اللہ تعالیٰ اور بندوں کے درمیان واسطہ ہوتا ہے تو اسے غور کرنا چاہیے کہ کس طرح داخل ہو»
ایک روایت میں ہے کہ حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ عسقلان میں تشریف لائے وہاں (کچھ عرصہ) ٹھہرے لیکن کسی انسان
نے آپ سے کوئی سوال نہ کیا آپ نے فرمایا مجھے کراہہ دو تا کہ میں اس شہر سے چلا جاؤں جہاں علم سرچکا ہے، آپ نے یہ بات

(۱) جامع ترمذی ص ۲۸۲ باب ماجاء ان الدال علی الخیر۔

(۲) صحیح بخاری جلد اول ص ۱۷۰ باب الاعتناء فی العلم۔

اس لیے فرمائی کہ آپ تعلیم کی فضیلت اور اس کے ذریعے علم کے بقا کی خواہش رکھتے تھے۔

حضرت عطاء رحمہ اللہ فرماتے ہیں ”میں حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ کے پاس حاضر ہوا تو وہ رو رہے تھے میں نے پوچھا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا ”(اس لیے کہ) کسی نے مجھ سے کوئی مسئلہ نہیں پوچھا۔ بعض حضرات کا قول ہے کہ علماء کرام زمانوں کے چراغ نہیں (ان میں سے) ہر ایک اپنے زمانے کی شمع ہے کہ اس سے اہل زمانہ روشنی حاصل کرتے ہیں۔

حضرت حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔

”اگر علوانہ ہوتے تو لوگ چوپایوں کی طرح ہوتے یعنی وہ (علماء) ان کو تعلیم کے ذریعے چوپائے کی حالت سے نکال کر انسانیت کی حالت میں لائے ہیں۔“

حضرت عکرمہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔

”اس علم کی ایک قیمت ہے پوچھا گیا ”وہ کیا ہے“؟ انہوں نے فرمایا کہ اسے ان لوگوں تک پہنچاؤ جو اسے اچھی ^{طرح} یاد رکھیں اور ضائع نہ کریں۔

حضرت یحییٰ بن معاذ فرماتے ہیں:-

”علماء کرام، امت محمدیہ پر ان کے ماں باپ سے بھی زیادہ رحم کرنے والے ہیں“ پوچھا گیا ”وہ کیسے“؟ فرمایا اس لیے کہ ماں باپ انہیں دنیا کی آگ سے بچاتے ہیں اور یہ (علماء کرام) ان کو آخرت کی آگ سے محفوظ رکھتے ہیں۔

کہا گیا ہے کہ علم کا پہلا مرحلہ خاموشی ہے، پھر غور سے سنا، پھر یاد رکھنا اس کے بعد عمل کرنا اور بعد ازاں اسے پھیلانا۔ کہا گیا ہے۔ اپنا علم ان لوگوں کو سکھاؤ جو بے علم ہیں اور ان لوگوں سے سیکھو جو اس بات کو جانتے ہیں جس سے تم بے علم ہو۔ جب تم ایسا کرو گے تو جو کچھ نہیں جانتے اسے سیکھ لو گے اور جو کچھ جانتے ہو اسے محفوظ کر لو گے،

حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے فرمایا: (امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں) اور میرا خیال ہے وہ مرفوعاً (یعنی حضور علیہ السلام سے) روایت کرتے ہیں۔

”علم حاصل کرو کیونکہ اسے سیکھنا خشیت الہی (کا باعث) ہے، اس کی تلاش عبادت، اس کا درس تسبیح، اس میں بحث کرنا جہاد کسی بے علم کو سکھانا صدقہ اور اس کے اہل لوگوں تک اسے پہنچانا قرب خداوندی ہے، علم تنہائی میں نمودار اور علیحدگی میں ساتھی ہے، دین میں راہنما خوشی اور تنگی کی حالت میں صبر دینے والا، دوستوں کے سٹنٹ نائٹ، اجنبی لوگوں کے ہاں رشتہ دار اور حجت کے راستے کا نیاز ہے اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے بہت سے لوگوں کو رفعت عطا فرماتا ہے۔ چنانچہ انہیں نیک کاموں میں قائد، اور ہادی بنا دیتا ہے جن کی افتدائی جاتی ہے وہ اچھے کاموں میں راہنما ہوتے ہیں لوگ ان کے قدموں پر چلتے ہیں ان کے افعال کو غور سے دیکھتے ہیں۔ فرشتے ان کی دوستی میں رغبت رکھتے اور ان کو

اپنے پروں سے چھوٹتے ہیں ہر خشک و زچیز حتیٰ کہ دریا کی مچھلیاں اور کیڑے مکوڑے خشکی کے درندے اور جانور، آسمان اور اس کے ستارے ان کے لیے بخشش چاہتے ہیں۔ کیونکہ علم، دل کو اندھے پن سے (بچا کر) زندگی دیتا ہے یہ اندھیلوں کو دور کر کے آنکھوں کو روشنی دیتا ہے، بدن کو کمزوری سے نجات دے کر قوت بخشتا ہے، اس کے ذریعے بندہ نیک لوگوں کی منازل اور بلند درجات تک پہنچتا ہے اس میں غور و فکر روزہ رکھنے کے برابر اور اس کا درس قیام لیل کے مساوی ہے۔ اسی کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی عبادت و فرمانبرداری ہوتی ہے۔ اسی سے اس کی توحید اور بزرگی کا اقرار ہوتا ہے، اسی کے ذریعے پرہیزگاری حاصل ہوتی ہے اسی (علم) کے ذریعے صلہ رحمی کی جاتی ہے، یہی حلال و حرام کی پہچان کا ذریعہ ہے، علم امام اور عمل اس کا تابع ہے۔ علم نیک بخت لوگوں کے دلوں ڈالا جاتا ہے اور بد بختوں کو اس سے محروم رکھا جاتا ہے ہم اللہ تعالیٰ سے اچھی توفیق کا سوال کرتے ہیں۔

عقلی دلائل | جان لو کہ اس باب کا مطلوب علم کی فضیلت اور نفاست معلوم کرنا ہے لیکن جب تک خورد "فضیلت" کا مفہوم اور اس کی مراد کا علم نہ ہو تو اس بات کا پتہ نہیں چل سکتا کہ وہ علم یا کسی دوسری اچھی خصلت کا وصف ہے چنانچہ وہ شخص راستے سے بھٹک گیا جو اس بات کو جاننے کی طمع رکھتا ہے کہ آیا زید حکیم ہے یا نہیں، لیکن وہ حکمت کے معنی اور حقیقت کو نہیں سمجھتا۔

فضیلت کیا ہے | فضیلت، فضل سے ماخوذ ہے اور اس کا معنی "زائد" کے ہیں جب دو چیزیں کسی بات میں مشترک ہوں اور ان میں سے ایک کسی اضافی بات کے ساتھ متعلق ہو تو کہا جاتا ہے فضیلت

وہ الفضل علیہ " وہ اس دوسری چیز پر فضیلت رکھتی ہے اور وہ اس سے افضل ہے لیکن یہ زیادتی اس چیز میں ہونی چاہیے جو اس چیز کا کمال ہے جیسے کہا جاتا ہے کہ گھوڑا لگدھے پر فضیلت رکھتا ہے،

یعنی بوجھ اٹھانے کی قوت میں وہ اس کے ساتھ شریک ہے لیکن پلٹ کر حملہ کرنے اور سخت حملہ آور ہونے میں حسن صورت میں اس سے بڑھ کر ہے اگر فرض کیا جائے کہ ایک لگدھے میں کچھ چیزوں کا اضافہ کر دیا جائے تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ اس سے افضل ہے کیوں یہ اضافہ جسم میں ہے جب کہ معنوی طور پر نقصان ہے اور کسی حیوان میں یہ کمال کی بات نہیں کیونکہ حیوان، اپنے باطنی معنی اور صفات کی وجہ سے مطلوب ہوتا ہے جسم کی وجہ سے نہیں۔

جب آپ یہ بات سمجھ گئے تو آپ پر مخفی نہیں رہتا چاہیے کہ اگر علم کا دوسری صفات سے تقابل کیا جائے تو یہ ایک فضیلت ہے جس طرح گھوڑے کو دوسرے حیوانات کے مقابلے میں رکھا جائے تو اسے فضیلت حاصل ہے بلکہ نیز و طرنا گھوڑے کی فضیلت ہے مطلقاً فضیلت نہیں جب کہ علم تو ذاتی طور پر بھی فضیلت ہے اور کسی دوسری چیز کی طرف اضافت کے بغیر بھی فضیلت ہے کیوں کہ وہ اللہ تعالیٰ کا وصف کمال ہے، فرشتوں اور انبیاء کرام کا شرف ہے بلکہ سمجھاؤ گھوڑا، بے سمجھ گھوڑے سے اچھا ہوتا ہے اور یہ مطلق فضیلت ہے (کسی کی طرف نسبت کریں یا نہ)

نفیس اشاء کی طلب | جاننا چاہیے کہ وہ نفیس چیز جس میں رغبت ہوتی ہے اس کی تین قسمیں ہیں۔ (۱) جو غیر کی وجہ سے مطلوب ہوتی ہے (۲) جو ذاتی طور پر طلب کی جاتی ہے (۳) وہ چیز جو ذاتی طور پر بھی اور غیر کی وجہ سے بھی مطلوب ہوتی ہے۔

جو چیز ذاتی طور پر مطلوب ہوتی ہے وہ اس چیز سے افضل ہوتی ہے جو غیر کی وجہ سے مطلوب ہوتی ہے، غیر کی وجہ سے مطلوب اشیا کی مثال درہم اور دینار ہیں یہ دونوں پتھر میں جن کا کوئی فائدہ نہیں اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کی ضرورتوں کو ان کے ذریعے آسان نہ فرماتا تو ان کا اور کنکر لوں کا ایک مقام ہوتا۔ وہ چیز جو اپنی ذات کے باعث مطلوب ہوتی ہے وہ آخرت کی سعادت اور دینار خداوندی کی لذت ہے اور وہ چیز جو اپنی ذات اور غیر دونوں کی وجہ سے مطلوب ہوتی ہے اس کی مثال بدن کی سلامتی ہے مثلاً پاؤں کی سلامتی مطلوب ہوتی ہے کیونکہ اس طرح جسم درد سے محفوظ رہتا ہے اور اس لیے بھی کہ اس کے ذریعے انسان چل کر اپنے مقاصد و حاجات تک پہنچتا ہے۔

علم کا اعزاز | اس اعتبار سے جب علم کو دیکھیں تو وہ اپنی ذات میں لذیذ ہے لہذا وہ ذاتی طور پر مطلوب ہے اور چونکہ وہ آخرت کے گھر اور اس کی سعادت کا وسیلہ ہے نیز قرب الہی کا ذریعہ ہے کیوں کہ اس کے بغیر اس ذات تک نہیں پہنچ سکتے۔

اور انسان کے حق میں سب سے بڑا تہ ابدی سعادت ہے اور بہترین چیز وہ ہوگی جو اس (ابدی سعادت) کا وسیلہ ہو، اور اس تک علم اور عمل کے بغیر نہیں پہنچ سکتے۔ جب تک عمل کی کیفیت کا علم نہ ہو عمل تک بھی نہیں پہنچ سکتے لہذا دنیا اور آخرت میں بنیادی خوش نختی علم ہے۔ بنا بریں وہ سب سے بہتر عمل ہے اور ایسا کیوں نہیں ہوگا جب فضیلت شے کی معرفت اس کے نتائج کی عظمت سے معلوم ہوتی ہے اور آپ معلوم کر چکے ہیں کہ علم کا نتیجہ تمام جہانوں کے پروردگار کا قرب ہے، فرشتوں اور ملائکہ اعلیٰ (اور پر والی مخلوق) سے مل جانا ہے یہ تو آخرت کا اعزاز ہے جب کہ دنیا میں عزت و وقار، بادشاہوں پر حکم نافذ کرنا، طبیعتوں میں احترام کا لازم ہونا ہے یہاں تک کہ غبی قسم کے ترکی اور عربوں میں سے اکھر مزاج لوگ بھی اپنی طبیعتوں کے ہاتھوں مشائخ و علماء کی عزت کرنے پر مجبور ہیں کیوں کہ وہ تجربہ کی بنیاد پر زیادہ علم کے ساتھ مختص ہوتے ہیں بلکہ جانور بھی طبعی طور پر انسان کی عزت کرتے ہیں کیونکہ انہیں اس بات کی سمجھ ہے کہ انسان اپنے کمال کی وجہ سے ان سے بڑھ کر درجہ رکھتا ہے۔

یہ علم کی مطلق فضیلت ہے پھر علوم و فضیلت کے اعتبار سے مختلف ہیں جیسا کہ آگے بیان آئے گا تو اس اختلاف کی وجہ سے ان کی فضیلت میں تفاوت ایک لازمی امر ہے۔

جہاں تک تعلیم و تعلم کی فضیلت کا تعلق ہے تو وہ ظاہر ہے جیسا کہ ہم نے ذکر کیا کیونکہ جب علم، تمام کاموں میں سے افضل ہے تو اسے سیکھنا افضل کام کی طلب ہے اور اس کی تعلیم بہترین چیز سے (دوسروں کو) فائدہ پہنچاتا ہے۔

اس کی وضاحت یوں ہے کہ تخلیق کا مقصد دنیوی بھی ہے اور دینی ہے اور خب تک دنیا کا نظام درست نہ ہو دین کا نظام قائم نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے اور جو شخص اسے آخرت کا آلہ اور اپنی منزل قرار دے اس کے لیے یہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا آلہ و وسیلہ ہے اس شخص کے لیے نہیں جو اس کو اپنا ٹھکانہ اور وطن بنا لے دنیا کے امور انسانوں کے اعمال سے ہی منظم ہوتے ہیں۔

انسانی اعمال، ان کے پیشے اور صنعتیں تین قسموں میں منحصر ہیں۔

انسانی اعمال کی اقسام

(۱) اصول ۱۔ وہ اعمال جن کے بغیر اس کائنات انسانیت کا نظام نہیں چل سکتا اور

یہ چلا نہیں۔

(۱) زراعت جس پر کھانا موقوف ہے۔

(۲) کپڑا بنانا جس پر لباس موقوف ہے۔

(۳) تعمیر جس پر رہائش کا دار مدار ہے۔

(۴) سیاست جو باہمی انس اور اجتماع نیز اسباب معیشت میں باہمی تعاون اور اس کی مضبوطی کے لیے ضروری ہے۔

۲۔ وہ امور جو ان چاروں کو مہیا کرنے والے اور ان کے خادم کی حیثیت رکھتے ہیں۔ مثلاً آہنگری (لوہار کا پیشہ) یہ زراعت

کا خادم ہے بلکہ دوسری صنعتوں کے بھی کام آتا ہے کہ ان کے آلات مثلاً دھنا اور کاتنا کہ یہ دونوں کپڑا بننے کی صنعت میں کام

آتے ہیں کیونکہ اس کے لیے کام تیار کرتے ہیں (یعنی سوت وغیرہ مہیا کرتے ہیں)

۳۔ وہ کام جو اصول (بنیادی کاموں) کو پورا کرنے والے اور ان کی زینت کا باعث ہیں جسے زراعت کے لیے (آٹا) پینا

اور روٹی پکانا اور بانی کے لیے دھونا اور سینا (دھوبی اور درزی کا پیشہ) ان تین قسم کے امور کو عالم ارضی کے قیام میں اسی

طرح دخل ہے جس طرح انسان کے اعضا کا اس کے پورے جسم سے تعلق ہوتا ہے کیوں کہ اعضائے انسانی کی تین قسمیں ہیں۔

(۱) اصول جسے دل، جگر اور دماغ، (۲) وہ اعضاء جو ان تینوں کے خادم ہیں مثلاً معدہ، رگیں، شہر باہیں، پٹھے اور گردن

کی رگیں۔ (۳) وہ اجزاء جو تکمیل جسم کا سبب اور اس کے لیے زینت کا باعث ہیں جیسے ناخن، انگلیاں اور ابرو وغیرہ۔

ان تمام پیشوں میں سے زیادہ معزز اصول ہیں اور ان اصول میں سے افضل وہ سیاست ہے جو

شرط سیاست

لوگوں کے درمیان انس پیدا کرنے اور ان کی اصلاح کا باعث ہے یہی وجہ ہے کہ اس عمل سے

تعلق رکھنے والوں میں ایسا کمال درکار ہوتا ہے جو دوسرے پیشوں میں نہیں ہوتا۔ اسی لیے اس پیشے سے تعلق رکھنے والا دوسری

صنعتوں کے متعلقین سے خدمت لیتا ہے۔

مخلوق کی اصلاح چاہتے اور دنیا و آخرت میں نجات دینے والے صراط مستقیم کی طرف رہنمائی

مراتب سیاست

کرنے والی سیاست کے چار مراتب ہیں۔

(۱) سیاستِ علیا۔ پر انبیاء کرام علیہم السلام کی سیاست ہے ان کا حکم عام و خاص کے ظاہر و باطن پر چلتا ہے۔
 (۲) خلفاء اور بادشاہوں کی سیاست۔ ان کا حکم بھی عام و خاص سب پر نافذ ہوتا ہے لیکن ان کے ظاہر پر ہوتا ہے باطن پر نہیں۔

(۳) اللہ تعالیٰ اور اس کے دین کا علم رکھنے والے علماء کرام کی سیاست۔ ان کا حکم صرف خاص لوگوں کے باطن پر چلتا ہے عام لوگوں کی سمجھ ان سے استفادہ تک رسائی حاصل نہیں کر سکتی۔ اور نہ ہی ان (علماء کرام) کو لوگوں کے ظاہر پر کوئی حکم نافذ کرنے یا منع کرنے یا ان کے لیے کوئی حکم جاری کرنے کی قوت حاصل ہوتی ہے۔

(۴) واعظین کی سیاست۔ ان کا حکم صرف علم لوگوں کے باطن پر چلتا ہے۔

افضل سیاست | تو ان چار قسم کی سیاستوں میں سے نبوت کے بعد سب سے افضل سیاست، علم سے فائدہ پہنچانا، لوگوں کے دلوں کو بڑی اور ہلک عادتوں سے پاک کرنا نیز اچھی اور باعث سعادت خصلتوں کی طرف ان کی راہنمائی کرنا ہے اور تعلیم سے ہی مراد ہے ہم نے کہا کہ سیاست، تمام صنعتوں اور پیشوں سے افضل ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی بھی صنعت (یا پیشے) کی پہچان تین باتوں سے ہوتی ہے۔ یا تو اس قوت کو دیکھا جاتا ہے جس کے ذریعے اس فن کی معرفت حاصل ہوتی ہے جیسے علوم عقیدہ کو علم لغویہ پر فضیلت حاصل ہے کیوں کہ حکمت، عقل کے ذریعے حاصل ہوتی ہے اور لغت سماعی چیز ہے اور عقل، سماعت سے افضل ہے۔

یا عام نفع کو دیکھا جاتا ہے جیسے زراعت، زرگری کی نسبت زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔

یا اس جگہ کو دیکھا جاتا ہے جس میں تصرف ہوتا ہے جیسے زرگری، چمڑا رنگنے کی صنعت (رباعت) سے افضل ہے کیونکہ ان میں سے ایک کا محل سونا ہے اور دوسرے کا محل، مردار کا چمڑا ہے۔

اور یہ بات پوشیدہ نہیں کہ علوم دینیہ، آخرت کے طریقے کی سمجھ کا نام ہے۔ اور ان کا حصول، کمال عقل اور ذہن کی تیزی کے ذریعے ہوتا ہے۔ اور عقل، انسانی صفات میں سے افضل ہے جیسے اس کا بیان آگے آ رہا ہے۔ اس لیے کہ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی امانت کو قبول کیا جاتا ہے۔ اور اسی کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے قرب تک رسائی ہوتی ہے۔ جہاں تک نفع کے عام ہونے کا تعلق ہے تو اس میں کوئی شک نہیں کیوں کہ اس کا نفع اور نتیجہ آخرت کی سعادت ہے۔

رہا اس کے محل کا معزز ہونا تو یہ بات کس طرح پوشیدہ رہ سکتی ہے کیوں کہ معلم، انسانوں کے دلوں اور نفوس میں تصرف کرتا ہے اور زمین پر جو کچھ موجود ہے ان سب سے زیادہ شرف انسان کو حاصل ہے، انسان کے اجزاء میں سے افضل اس کا دل ہے معلم اسی کی تکمیل، اس کو روشنی پہنچانے، اس کو پاک کرنے اور اسے قرب خداوندی تک پہنچانے میں مشغول رہتا ہے۔

تو تعلیم من وجہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے کسی اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی خلافت ہے بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی خلافت ہے کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے عالم کے دل پر اپنی سب سے خاص صفت کو کھول دیا ہے پس وہ اللہ تعالیٰ کے عمدہ خزانوں کا خازن ہے پھر ہر محتاجِ علم پر اس کے صرف کرنے کا حکم دیا گیا ہے تو اس سے بڑھ کر کیا رتبہ ہو سکتا ہے کہ بندہ اپنے رب اور اس کی مخلوق کے درمیان واسطہ بن کر بندوں کو اس کے قریب کر دے اور انہیں جنت کی طرف لے جائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہیں بھی ان لوگوں میں شامل فرماوے اور ہر منتخب بندے پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو۔

دوسرا باب

محمود و مذموم علم ان کی اقسام و احکام نیز کون سا علم، فرض عین ہے اور کس علم کا حاصل کرنا فرض کفایہ ہے اور اس بات کا بیان کہ علم کلام و فقہ کسی حد تک علوم دینیہ سے ہیں نیز علم آخرت کی فضیلت کا بیان۔

فرض عین علم کا بیان | رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:-

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ - (۱)

ہر مسلمان پر علم کا حاصل کرنا فرض ہے۔

آپ نے مزید فرمایا:-

اطْلُبُوا الْعِلْمَ وَكُوبِ الصَّيِّئِينَ - (۲)

علم حاصل کرو اگرچہ چین میں ہو۔

اس سلسلے میں لوگوں (اہل علم) کا اختلاف ہے کہ کونسا علم ہر مسلمان پر فرض ہے چنانچہ اس مسئلے میں بیس سے زائد فرقے بن گئے ہیں ہم تفصیل نقل کر کے کلام کو لمبا نہیں کرتے البتہ خلاصہ یہ ہے کہ ہر فرقہ نے اسی علم کو واجب قرار دیا جس کے درپے وہ خود ہے چنانچہ مشکلمین کہتے ہیں کہ وہ "علم کلام" ہے کیونکہ اس کے ذریعے توحید کا ادراک ہوتا ہے اور اسی کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کا علم حاصل ہوتا ہے۔

فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ اس سے مراد علم فقہ ہے کیونکہ اس کے ذریعے عبادات اور حلال و حرام کا پتہ چلتا ہے نیز کون سے معاملات جائز اور کون سے ناجائز ہیں علم فقہ سے ان کی مراد وہ علم فقہ ہے جس کی ہر ایک کو ضرورت ہوتی ہے نادر اور کم واقع ہونے والے واقعات مراد نہیں۔

مفسرین و محدثین فرماتے ہیں یہ کتاب و سنت کا علم ہے کیونکہ ان دونوں کے ذریعے تمام علوم تک رسائی ہوتی ہے۔ اہل تصوف کہتے ہیں کہ اس سے علم تصوف مراد ہے۔

ان میں سے بعض کا قول ہے کہ بندے کا اپنے حال اور خداوند تعالیٰ کے ہاں اپنے مقام کو جاننا مراد ہے، ان ہی میں سے کچھ حضرات فرماتے ہیں کہ اخلاص اور نفس کی آفتوں کا علم نیز شیطان و وسوسوں اور فرشتے کے الہام میں تمیز کرنا مراد ہے۔ بعض حضرات فرماتے ہیں اس سے علم باطن مراد ہے اور یہ خاص لوگوں پر واجب ہے جو اس کے اہل ہیں ان حضرات نے لفظ کے عموم کو بدل ڈالا۔

ابو طالب کہتے ہیں کہ اس سے وہ علم مراد ہے جس کو وہ حدیث شامل ہو جس میں اسلام کی بنیادوں کا ذکر ہے اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے۔

”اسلام کی بنیاد پانچ چیزیں ہیں اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا ماہ رمضان کے روزے رکھنا اور استطاعت ہو تو بیت اللہ شریف کا حج کرنا، کیوں کہ یہ پانچ چیزیں واجب ہیں لہذا ان پر عمل کرنے کے طریقے اور کیفیت و جوب کا جاننا واجب ہے (۱) اور جس بات پر طالب علم کو یقین کرنا اور شک سے بچنا چاہیے ہم اسے ذکر کرتے ہیں وہ یہ کہ جس طرح ہم نے کتاب کے خطبہ میں ذکر کیا ہے علم کی دو قسمیں ہیں (۱) علمِ معاملہ (۲) علمِ مکاشفہ۔ اور فرضِ علم سے مراد علمِ معاملہ ہے۔

عقل اور بالغ بندے کو جن معاملات کا حکم دیا جاتا ہے وہ تین ہیں (۱) اعتقاد (۲) عمل (۳) (بعض کاموں کو پھوڑ دینا مثلاً جب کوئی شخص چاشت کے وقت احتلام یا عمر کے ذریعے بالغ ہو جائے (۲) تو سب سے پہلے اس پر کلمہ شہادت کا سیکھنا اور اس کا معنی سمجھنا واجب ہے۔

اور وہ کلمہ ”لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ“ ہے۔

اس کلمہ میں غور و فکر کرنے، بحث کرنے اور دلائل لکھنے کے ذریعے اس کی وضاحت اس پر واجب نہیں۔ بلکہ اس کے لیے صرف اتنا کافی ہے کہ وہ اس کی تصدیق کرے اور کسی شک و شبہ اور اضطرابِ نفس کے بغیر اس پر پکا یقین اور اعتقاد رکھے۔ اور یہ بات صرف تقلید اور سننے سے حاصل ہو جاتی ہے بحث اور دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی۔

کیوں کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے اجداد لوگوں سے تصدیق اور اقرار کو کسی دلیل کے سیکھے بغیر قبول کیا جب وہ شخص اس طرح کرے گا تو اس نے وجوب وقت پر عمل کر لیا۔ اس وقت اس پر جس چیز کا جاننا فرض عین تھا وہ کلمہ توحید کو سیکھنا اور اس کو سمجھنا تھا۔ اس وقت اس پر اس کے علاوہ کچھ بھی واجب نہیں اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اگر وہ اس کے بعد فوت ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کافر بنا دے اور گناہوں سے اجتناب کرنے والا شمار ہوگا۔

اس کے علاوہ جو کچھ واجب ہوتا ہے وہ ان حواض کی وجہ سے ہوتا ہے جو اسے پیش آتے ہیں اور یہ حواض عمل کرنے

(۱) صحیح بخاری جلد اول ص ۶ کتاب الایمان

(۲) بالغ ہونے کی دو صورتیں ہیں علامت کے ذریعے یا عمر کے پورا ہونے پر اگر لڑکے کو احتلام ہو جائے یا لڑکی کو حیض آجائے تو وہ بالغ ہو جائے ہیں لڑکے کو بارہ سال کی عمر میں احتلام آسکتا ہے اور لڑکی کو نو سال کی عمر میں حیض آسکتا ہے اگر علامات ظاہر نہ ہوں تو پندرہ سال کی عمر میں بالغ ہو جاتے ہیں اور یہ عمر لڑکی اور لڑکے دونوں کے لیے ہے ۱۲ ہزاروی۔

ہوتے ہیں یا اس کے چھوڑنے میں اور یا اعتقاد میں ہوتے ہیں۔

جہاں تک عمل کا تعلق ہے تو اس کی صورت یہ ہے کہ اگر وہ چاشت سے ظہر تک زندہ رہے تو ظہر کا وقت داخل ہوتے ہی اس پر طہارت اور نماز سیکھنے کے اعتبار سے ایک نیا عمل واجب ہو جائے گا اگر وہ صحیح تندرست ہے اور اس حالت میں ہے کہ اگر وہ سورج کے زوال تک کچھ نہ سیکھے تو وقت ظہر میں سب کچھ سیکھ کر عمل نہ کر سکے گا بلکہ اگر سیکھنے میں مشغول ہو تو ظہر کا وقت نکل جائے گا تو اس حالت میں یہ کہنا صحیح ہے کہ ظاہر یہی ہے کہ وہ (ظہر تک) زندہ رہے گا۔ لہذا اس پر وقت سے پہلے سیکھنا واجب ہے اور یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ عمل کے لیے جس علم کا حاصل کرنا شرط ہے وہ وجوب عمل کے بعد واجب ہوتا ہے لہذا زوال سے پہلے واجب نہ ہوگا باقی نمازوں کا معاملہ بھی اسی طرح ہے۔

پھر اگر وہ ماہ رمضان تک زندہ رہے تو اس کے سبب اس پر روزے کا علم حاصل کرنا واجب ہو جائے گا۔ یعنی وہ اس بات کا علم حاصل کرے کہ اس کا وقت صبح سے لے کر غروب آفتاب تک ہے۔ اور اس میں نیت کرنا، کھانے، پینے اور جماع سے باز رہنا واجب ہے اور یہ عمل عید کا چاند دیکھنے یا اس پر دو گواہوں کی گواہی تک ہے۔

پھر اگر اسے مال حاصل ہو جائے یا بالغ ہوتے وقت اس کے پاس مال تھا تو اس پر اس چیز کا علم واجب ہے جس کے سبب زکوٰۃ فرض ہوتی ہے لیکن یہ اسی وقت لازم نہ ہوگا بلکہ اسلام کے وقت سے ایک سال پورا ہونے پر لازم ہوگا۔ اگر وہ صرف اونٹوں کا مالک ہو تو اس پر صرف اونٹوں کی زکوٰۃ سے متعلق علم حاصل کرنا واجب ہوگا اسی طرح مال کی دوسری اقسام کا حکم ہے۔

اس کے بعد حج کے مہینے آجائیں تو حج سے متعلق علم کی فوری ضرورت نہیں کیونکہ اس کی ادائیگی تاخیر سے بھی ہو سکتی ہے لہذا فی الفور اس کے مسائل کا سیکھنا لازمی نہیں۔

لیکن علمائے اسلام کو چاہیے کہ وہ اسے آگاہ کریں کہ جو شخص سامان سفر اور سوار کا مالک ہو اس پر حج فرض ہے اگرچہ تاخیر کے ساتھ ہے حتیٰ کہ بعض اوقات وہ احتیاط کے طور پر جلد از جلد ادا کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو جب وہ ارادہ کرے تو اس پر حج کا طریقہ سیکھنا لازم ہے اور وہ بھی فرائض (امرکان) اور واجبات کا سیکھنا ہے نوافل کا سیکھنا ضروری نہیں کیوں کہ نوافل کو اپنی طرف سے ادا کرتا ہے لہذا اس کا علم بھی نفل ہے (واجب نہیں) بنا بریں اس کا سیکھنا فرض نہیں۔ اور کیا محض وجوب حج کے بارے میں اسے اچھی وقت آگاہ کرنے سے خاموشی اختیار کرنا حرام ہے؟ تو یہ بات فقہ سے متعلق ہے۔ اسی طرح ان تمام افعال کا علم تدریجاً حاصل کرے گا جو فرض عین ہیں۔

کسی فعل کو چھوڑنے سے متعلق علم بھی حسب ضرورت واجب ہوتا چلا جائے گا اور یہ شخصیات کے حوالے سے بدلتا رہتا ہے کیوں کہ گوئیے پر حرام کلام کے بارے میں معلومات حاصل کرنا واجب نہیں اسی طرح اندھے پر حرام نظر کا علم واجب نہیں، جنگل میں رہنے والے پر حرام مجالس کا علم حاصل کرنا واجب نہیں کیونکہ وہاں ایسی مجالس نہیں ہوتیں۔

گویا جن چیزوں کے بارے میں وہ جانتا ہے کہ وہ اس کے لیے غیر ضروری ہیں تو ان کے بارے میں علم حاصل کرنا واجب نہیں البتہ جن امور کے ہاتھ اس کا تعلق ہو ان سے آگاہی حاصل کرنا واجب ہے جس طرح کوئی شخص اسلام لانے وقت ریشم پہنے ہوئے ہو یا مغصوبہ زمین پر بیٹھا ہو یا غیر محرم کی طرف دیکھ رہا ہو تو ان امور کی وضاحت واجب ہوگی اور جن امور میں فی الحال مبتلا نہیں لیکن عنقریب ان کے ساتھ تعلق پیدا ہوگا جیسے کھانا پینا تو ان امور کی تعلیم واجب ہے حتیٰ کہ اگر کسی ایسے شہر میں ہو جہاں شراب نوشی اور خنزیر کھانے کا رواج ہو تو اس پر لازم ہے کہ وہ ان لوگوں کو اس کے چھوڑنے کی تعلیم دے اور تنبیہ کرے اور جن باتوں کا سکھانا واجب ہے ان کو سیکھنا بھی واجب ہے۔

جہاں تک عقائد اور قلبی اعمال کا تعلق ہے تو ان کا سیکھنا بھی (قلبی) خطرات کے مطابق ہے، اگر اسے ان معانی پر شک پیدا ہو جن پر کلمہ طیبہ کے دونوں جزو دلالت کرتے ہیں (توحید و رسالت) تو اس بات کا سیکھنا واجب ہے جو اس شک کو زائل کر دے اور اگر اپنے اس قسم کا شک نہ ہو لیکن وہ اس اعتقاد سے پہلے فوت ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ قدیم ہے اور اس کا دیدار ہو سکتا ہے نیز وہ حوادث قابل تغیر امور کا محل نہیں ہے اور اس کے علاوہ دیگر اعتقادات جو عقائد کی بحث میں ذکر کئے جائیں گے تو بالاتفاق وہ شخص اسلام پر قوت ہوا۔

اور یہ خطرات جو اعتقادات کو واجب کرتے ہیں ان میں سے بعض خود دل میں اٹھتے ہیں اور بعض شہر والوں سے سن کر پیدا ہوتے ہیں پس اگر وہ ایسے شہر میں ہو جس میں بدعت الکی کے بارے میں کلام و گفتگو عام ہو تو لازم ہے کہ اس کے بالغ ہونے ہی سے امور حق سکھا کر بدعات سے محفوظ کر لیا جائے کیونکہ اگر باطل اس تک پہنچ گیا تو اس کے دل سے اس کا نکالنا واجب ہوگا اور بسا اوقات ایسا کرنا مشکل ہوتا ہے مثلاً اگر یہ مسلمان تاجر ہو اور شہر میں سود کا معاملہ عام مروج ہو تو اس پر سود سے بچنے کا علم حاصل کرنا واجب ہے (۱) تو فرض عین علم میں یہی بات حق ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ جو عمل واجب ہے اس کی کیفیت کا علم رکھتا ہو پس جس شخص کو واجب عمل اور اس کے وقت و وجوب کا علم حاصل ہو گیا اس نے وہ علم حاصل کر لیا جو فرض عین ہے۔

(۱) بدعت ہر اس نئے عمل کو کہتے ہیں جو دین کے خلاف ہو اور دین میں اس کی کوئی اصل نہ ہو سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ہمارے اس دین میں ایسا کام جاری کیا جس کا دین سے کوئی تعلق نہیں تو وہ کام مردود ہے، گو با بدعت سے چھوڑنے کا حکم ہے یہ وہ عمل ہے جو شریعت کے خلاف ہو یا شریعت میں اس کی کوئی اصل نہ ہو لہذا میلاد النبی، برس ادینا و کرام نتیجہ چالیسواں وغیرہ بدعت نہیں کیونکہ یہ شریعت نہیں بلکہ نیکی کے کام ہیں ۱۲ ہزاروی۔

(۲) بچوں کو ابتدائی تعلیم کے لیے کسی بد عقیدہ ادارے میں داخل کرنا بھی خطرناک ہے کیوں کہ اس طرح بچے کو شروع سے گمراہ کر دیا جاتا ہے پھر اس کو راہِ راست پر لانا مشکل ہو جاتا ہے ۱۲ ہزاروی۔

صوفیاء کرام نے جو فرمایا کہ اس سے شیطان کے دوسو سول اور فرشتے کے اہام کا علم مراد ہے وہ بھی صحیح ہے لیکن یہ اس شخص کے لیے ہے جو اس کے درپے ہو اور جب غالب گمان یہ ہے کہ انسان شر، ریا اور حد کی طرف بلانے والی باتوں سے نہیں بچ سکتا تو اس پر لازم ہے کہ وہ اس کتاب کے باب (مہلکات میں سے ان باتوں کا علم حاصل کرے جن کا وہ حاجت مند ہے اور اس پر یہ بات کیسے واجب نہ ہوگی حالانکہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

تَلَاثُ مُهْلِكَاتٍ: شَحٌّ مَطْلَعٌ، دَهْوَةٌ
مُتَّبِعٌ، وَاعْتِبَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ - (۲)

تین باتیں ہلاکت میں ڈالنے والی ہیں (۱) ایسا بخل (اور لالچ)
جس کی اطاعت کی جائے (۲) وہ خواہش جس کی پیروی کی جائے

(۳) اور انسان کا خود پسندی میں مبتلا ہونا۔

ان امور سے کوئی بھی شخص محفوظ نہیں اور اس کے علاوہ دیگر قلبی خرابیاں مثلاً تکبر، خود پسندی وغیرہ جن کا ہم ذکر کریں گے وہ ان تینوں خرابیوں کے تابع ہیں۔ اور ان کا ازالہ فرض عین ہے۔ اور جب تک ان کی تعریف اور اسباب کی معرفت نیز ان کی علامات کی پہچان اور علاج کا طریقہ معلوم نہ ہو ان کا ازالہ ممکن نہیں کیونکہ جو شخص بُرائی کو نہیں پہچانتا وہ اس میں پڑ جاتا ہے علاج یہ ہے کہ ہر ایک سبب کی ضد سے مقابلہ کیا جائے اور یہ بات سبب اور مستبب کی پہچان کے بغیر کیسے حاصل ہو سکتی ہے۔

ہم نے کتاب کی بحث "مہلکات" میں جن باتوں کا ذکر کیا ہے ان میں سے اکثر کا علم فرض عین ہے اور بہت سے لوگوں نے بے مقصد امور میں مشغول ہو کر ان کو ترک کر دیا ہے۔

اگر تو مسلم شخص کسی دوسرے دین کو چھوڑ کر اس دین میں نہیں آیا بلکہ کفر سے اسلام کی طرف آتا ہے تو اسے جنت و دوزخ اور حشر و نشر پر ایمان سکھانے میں جلدی کرنی چاہیے تاکہ وہ اس پر ایمان لائے اور تصدیق کرے اور یہ کلمہ شہادت (کلمہ توحید مراد ہے) کی تکمیل ہے۔ کیوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانے کے بعد اسے معلوم ہونا چاہیے کہ وہ رسالت کی تبلیغ سے آگاہ ہو اور وہ اس طرح ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرے گا اس کے لیے جنت ہے اور جو آدمی ان دونوں کی نافرمانی کرے گا اس کے لیے جہنم ہے۔

جب تم اس تدریج (کسی عمل کا آہستہ آہستہ مقصد تک جاننا تدریج ہے) سے آگاہ ہو گئے۔ تو تمہیں معلوم ہو گیا کہ مذہب حق پر ہی ہے اور یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ ہر شخص پر رات دن میں کچھ ایسے حالات آتے ہیں کہ اس کی عبادت و معاملات کے سلسلے میں نئے نئے واقعات و لوازم پیدا ہوتے ہیں اس لیے جو نئی اور عجیب بات اس پر ظاہر ہو اس کے بارے میں پوچھنا ضروری ہے اور جن بات کا عنقریب واقع ہونا غالب ہو اس کے بارے میں علم حاصل کرنا بھی لازم ہے جب

یہ بات واضح ہو گئی کہ حضور علیہ السلام کے ارشاد گرامی "طلب العلم فریضہ علی کل مسلم" میں العلم جو الف لام کے ذریعے معرفہ ہے اس سے مراد اس عمل کا علم ہے جو مسلمانوں پر واجب ہے کوئی دوسرا علم مراد نہیں تو اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ علم تدریجی کیوں ہے نیز یہ کب واجب ہوتا ہے؟ (۱) واللہ اعلم بالصواب۔

فرض کفایہ علم | جان لیجئے کہ جب تک علوم کی اقسام ذکر نہ کی جائیں فرض اور غیر فرض میں تمیز نہیں ہو سکتی اور ہم جس فرض کے درپے ہیں جب علوم کی اس کی طرف اضافت کی جائے تو علوم کی دو قسمیں بنتی ہیں۔

(۱) علوم شرعیہ (۲) علوم غیر شرعیہ۔
 علوم شرعیہ سے مراد وہ علوم ہیں جو انبیاء کرام علیہم السلام سے حاصل ہوئے عقل، تجربہ اور محض سنا اس کی طرف راہنمائی نہیں کر سکتا جیسے حساب، طلب اور لغت عقل، تجربہ اور لغت سے حاصل ہوتے ہیں۔
علوم غیر شرعیہ کی تین قسمیں ہیں (۱) وہ علوم جو قابل تعریف ہیں (۲) وہ علوم جو قابل مذمت ہیں (۳) اور وہ علوم جو محض مباح کے درجہ میں ہیں۔

قابل تعریف وہ علوم ہیں جن شے دنیوی امور کی مصلحت وابستہ ہے جیسے طب (ڈاکٹری) اور حساب، پھر ان علوم کی دو قسمیں ہیں بعض وہ ہیں جن کا حصول فرض کفایہ ہے اور کچھ وہ ہیں جن کا حاصل کرنا محض فضیلت کا باعث ہے فرض نہیں ہر اس علم کو حاصل کرنا فرض کفایہ ہے جس کی دنیوی امور کے قیام میں ضرورت رہتی ہے جیسے طب کہ بدن کی بقا کے لئے اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور حساب کہ معاملات کے سلسلے میں نیز وصیتوں اور وراثتوں وغیرہ کی تقسیم میں اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ وہ علوم ہیں کہ اگر کسی شہر میں ان کو جانتے والا کوئی نہ ہو تو پورے شہر والے حرج میں پڑ جاتے ہیں۔ اور اگر ان میں ایک بھی جانتا ہو تو کافی ہے اور دوسروں سے یہ فرض ساقط ہو جائے گا ہماری اس بات پر تعجب نہیں ہونا چاہیے کہ ہم نے طب اور حساب کو فرض کفایہ میں سے قرار دیا کیونکہ اصولی صنعتیں بھی تو فرض کفایہ ہیں۔

جیسے کھیتی باڑی، نور باغی (کپڑا بنانا) اور سیاست بلکہ نشتر لگانا (۱) اور سلائی کرنا بھی کیونکہ اگر کوئی شہر نشتر لگانے والے سے خالی ہو تو وہ لوگ جلدی ہلاک ہو جائیں گے۔ اور ہلاکت کے خطرہ کے باعث وہ حرج میں مبتلا ہوں گے کیوں کہ جس ذات نے بیماری اتاری ہے اس نے دوائی بھی نازل کی ہے اس نے استعمال کا طریقہ بھی بتایا اور اس کے لیے

(۱) چونکہ مختلف اعمال آہستہ آہستہ (تدریجاً) فرض ہوتے ہیں اس لیے جب کوئی عمل واجب ہوگا اس کے بارے میں علم بھی فرض ہو جائے گا، اس باب کا خلاصہ یہی ہے ۱۲ ہزاروی۔

(۲) نشتر لگانے کو پھینہ اور سینگی لگانا بھی کہتے ہیں اس کے ذریعے جسم سے گندائوں نکالا جاتا ہے ۱۲ ہزاروی۔

اسباب بھی تیار فرمائے۔ لہذا ان کو چھوڑ کر ہلاکت کی طرف جانا جائز نہیں۔

وہ علوم جن کا حصول محض فضیلت کا باعث ہے، فرض نہیں تو وہ حساب کی باریکیوں اور طلب کے خالق اور اس کے علاوہ غیر ضروری باتوں میں مصروف ہونا ہے لیکن جس چیز کی ضرورت پڑتی ہے۔

اس کی تعداد میں قوت کا اضافہ ہوتا ہے

وہ علوم جو ناپسندیدہ اور قابل مذمت ہیں وہ جادو اور طلسم، شعبہ بازی اور برے ہتھکنڈے ہیں۔

وہ علوم جن کا حاصل کرنا محض جائز ہے تو وہ ایسے اشعار کا علم حاصل کرنا ہے جن میں کوئی ہلکی بات نہ ہو اسی طرح علم تاریخ اور جو اس کے قائم مقام ہیں۔

جہاں تک علوم شرعیہ کا تعلق ہے تو اس بیان کا مقصود وہی ہے اور وہ تمام کے تمام محمود ہیں لیکن بعض اوقات دھوکہ ہو جاتا کہ کچھ علوم کو شرعی سمجھا جاتا ہے حالانکہ وہ مذموم ہوتے ہیں اس لیے ان کی دو قسمیں ہوئیں ایک محمود، دوسرے مذموم۔ علوم محمودہ ہیں سے کچھ اصول اور کچھ فروع ہیں۔ بعض مقدمات ہیں اور بعض ان کو مکمل کرنے والے ہیں اس طرح یہ چار طرح کے بنتے ہیں۔

پہلی قسم۔ وہ علوم جو اصول ہیں اور وہ چلا ہیں۔ کتاب اللہ، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اجماع امت اور آثار صحابہ۔ اجماع اس لیے اصل ہے کہ وہ سنت پر دلالت کرتا ہے اور یہ تیسرے درجہ پر اصل ہے اسی طرح اقوال صحابہ (آثار بھی سنت پر دلالت کرتے ہیں کیوں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے وحی اور نزول قرآن کا مشاہدہ کیا اور احوال کے قریب سے انہیں وہ باتیں معلوم ہیں جو دوسروں سے غائب تھیں۔

اور بعض اوقات تحریریں ان باتوں کی گنجائش نہیں ہوتی جو قرآن سے معلوم کی جاتی ہے۔ اسی لیے علماء کرام نے صحابہ کرام کی اقتدا اور ان کے اقوال سے استدلال میں مصلحت دیکھی ہے اس اقتدا کو ضروری قرار دینے والوں کے نزدیک بھی یہ مخصوص طریقے اور خاص شرائط کے ساتھ ہے۔ لیکن اس فن میں اس کا بیان نہیں ہو سکتا۔

دوسری قسم۔ یہ فروع ہیں جو ان اصول سے معلوم کئے جاتے ہیں لیکن ان کے الفاظ سے نہیں بلکہ ان معانی کی وجہ سے جن پر عقل کو آگاہی ہوتی اور ان کے سبب مفہوم وسیع ہو گیا حتیٰ کہ لفظ سے وہ باتیں بھی معلوم ہو گئیں جن کے لیے الفاظ کو لایا نہیں گیا تھا۔ جیسے حضور علیہ السلام کا ارشاد گرامی

”رَقَاضِي غَضَّةٍ فِي حَالَتِهَا فِي فَيْصَلَةٍ نَزَعَتْ“ (۱)

سے معلوم ہوا کہ جس وقت اسے زور کا پیشاب آیا ہوا ہو یا بھوک کا غلبہ ہو یا کسی مرض کی وجہ سے درد محسوس کر رہا

(۱) صحیح بخاری جلد ۲ ص ۱۰۶، باب حل یقفی القاضی وهو غضبان۔

ہو تو اس وقت فیصلہ نہ کرے۔

اور علم فروع کی دو قسمیں ہیں ایک دنیوی بھلائی سے متعلق ہے اور وہ کتب فقہ میں ہے۔ اور اس سے تعلق رکھنے والوں کو فقہاء کرام کہا جاتا ہے اور وہ علمائے دنیا ہیں۔

اور دوسرا وہ جو آخرت کی بھلائی سے متعلق ہے اور وہ دل کے حالات اور اچھے اور بُرے اخلاق کا علم ہے نیز کونسی چیز اللہ تعالیٰ کے ہاں پسندیدہ ہے اور کون سی مکروہ، یہ علم اس کتاب (احیاء العلوم) کے نصف اخیر میں مذکور ہے۔ اس میں ان عادات و عبادات کا علم بھی شامل ہے جو دل سے اعضا پر ظاہر ہوتی ہیں۔ کتاب (احیاء العلوم) کے پہلے نصف میں ان کا بیان ہے۔

تیسری قسم :- یہ مقدمات ہیں جو ان (اصول) کے لیے آلات کی طرح جاری ہوتے ہیں جیسے لعنت و نحو کا علم، یہ کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے لیے آلہ ہیں۔

لعنت اور نحو ذاتی طور پر علوم شرعیہ میں سے نہیں لیکن شریعت کے سبب ان میں عجز و خوض لازم ہے کیوں کہ یہ شریعت عربی لعنت میں آئی ہے اور ہر شریعت کسی نہ کسی لغت میں ظاہر ہوتی ہے لہذا اس لغت کو آلہ کے طور پر سیکھا جاتا ہے۔ اور آلات میں سے علم کتابت بھی ہے البتہ یہ ضروری نہیں کیونکہ حضور علیہ السلام خود آئی تھے (آپ نے کسی سے لکھنا پڑھنا سیکھا نہ تھا) اور اگر تصور کر لیا جائے کہ یقینی باتیں سنی ہیں انہیں یاد کرنا ممکن ہے تو کتابت کی ضرورت باقی نہ رہے گی۔ لیکن عام طور پر لوگ اس بات (مزہبات یاد رکھتے) سے عاجز ہوتے ہیں لہذا کتابت کا سیکھنا ضروری ہے۔

چوتھی قسم :- وہ علوم جو کمال کرنے والے شمار ہوتے ہیں اور یہ علم قرآن سے متعلق ہیں کیونکہ ان میں سے بعض وہ ہیں جو الفاظ سے متعلق ہیں جیسے قراءتوں اور مخارج حروف کا سیکھنا اور کچھ معنی اسے متعلق ہیں جیسے علم تفسیر اس کا دار و مدار بھی نقل پر ہے (عقل پر نہیں) کیوں کہ محض لغت اس کے لیے کافی نہیں اور بعض علوم (اس قرآن پاک) کے احکام سے متعلق ہیں جسے ناسخ و منسوخ، عام و خاص، نص و ظاہر اس علم کو اصول فقہ کہا جاتا ہے اور یہ حدیث کو بھی شامل ہے۔

احادیث و آثار کا تتمہ راویوں، ان کے ناموں اور انساب نیز صحابہ کرام کے اسمائے گرامی اور ان کی صفات کا علم ہے راویوں کی عدالت اور ان کے حالات کا علم ہے تاکہ ضعیف (حدیث) کو قوی (حدیث) سے الگ کیا جاسکے اسی طرح ان کی عمروں کا علم ہے تاکہ حدیث مرسل کو سند لچے ممتاز کیا جاسکے اسی طرح دیگر امور جو ان سے متعلق ہیں یہ تمام علوم قابل تعریف ہیں اور فرض کفایہ سے ہیں۔

فقہ اور فقہاء کا مقام | اگر تم کہو کہ فقہ کو علم دنیا سے اور فقہاء کرام کو علمائے دین دنیا سے کیوں بلا یا ہے؛ تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا فرمایا اور ان کی اولاد کو مٹی کے جوہر اور اچھلتے پانی سے پیدا فرمایا انہیں (بالوں کی) پھٹیوں سے (مادوں کے) رجموں کی طرف نکالا پھر وہاں سے دنیا اور

وہاں سے قبر کی طرف لے گیا پھر میدان محشر کی طرف اور اس کے بعد جنت یا دوزخ کی طرف لے جائے گا، تو یہ ان کا آغاز ہے اور وہ ان کا انجام۔ اور یہ ان کی منزلیں ہیں دنیا کو آخرت کے لیے توشہ کے طور پر پیدا فرمایا تاکہ اس میں سے جو چیز آخرت کے لیے توشہ کی صلاحیت رکھتی ہے اسے توشہ بنالیں۔ اب اگر وہ اسے انصاف کے ساتھ حاصل کریں تو جھگڑے مٹ جائیں گے اور فقہاء معطل ہو کر رہ جائیں گے لیکن وہ تو خواہشات کے ساتھ حاصل کرتے ہیں جس سے جھگڑے پیدا ہوتے ہیں لہذا ایک بادشاہ کی ضرورت پڑی جو ان کے حالات کو درست رکھے اور بادشاہ کو قانون کی ضرورت ہے جس کے ذریعے اصلاح کرے تو فقیہ قانون سیاست کا عالم اور لوگوں کے درمیان ایک واسطہ ہے جب وہ خواہشات کی وجہ سے جھگڑتے ہیں تو فقیہ، بادشاہ کو تعلیم دیتا اور اسے مخلوق کی اصلاح اور نظم و ضبط قائم کرنے کا راستہ دکھاتا ہے تاکہ ان کے ٹھیک رہنے سے دنیا میں ان کے معاملات درست رہیں مجھے اپنی عمر کی قسم فقہ بھی دین سے متعلق ہے لیکن ذاتی طور پر نہیں بلکہ دنیا کے واسطہ سے کیونکہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ اور دنیا کے بغیر دین کی تکمیل نہیں ہو سکتی، سلطنت اور دین جڑواں ہیں۔ پس دین اصل ہے اور سلطنت اس کی محافظ ہے اور جس (عمارت) کی بنیاد نہ ہو وہ منہدم ہو جاتی ہے اور جس (عمارت) کا محافظ نہ ہو وہ ضائع ہو جاتی ہے پس بادشاہی اور نظم و ضبط بادشاہ کے بغیر کامل نہیں ہوتا، اور فیصلوں میں نظم و ضبط فقہ سے ہی قائم ہوتا ہے۔

تو جس طرح مخلوق میں سلطنت کے ذریعے سیاست (اصلاح و درستگی) پہلے مرتبہ میں علم دین سے نہیں بلکہ وہ اس چیز کی مددگار ہے جس کے بغیر دین مکمل نہیں ہوتا تو سیاست کے طریقوں کی معرفت بھی اسی طرح ہے (گو یا فقہ بھی دوسرے درجہ میں علم دین بنتا ہے) یہ بات تو معلوم ہے کہ حج ایسے محافظ کے بغیر مکمل نہیں ہوتا جو راستے میں بدوؤں سے بچائے۔ لیکن حج الگ چیز ہے۔ اور حج کی طرف جانا دوسری بات ہے، اسی طرح اس حفاظت کو قائم کرنا جس کے بغیر حج کی تکمیل نہیں ہو سکتی یہ تیسری بات ہے، اور حفاظت کے طریقوں، تدابیر اور قوانین کی معرفت چوتھی بات ہے تو علم فقہ کا خلاصہ سیاست و حفاظت کے طریقوں کی پہچان ہے اس پر ایک مسند حدیث دلالت کرتی ہے آپ نے فرمایا۔

وَلَا يُفِي النَّاسَ إِلَّا ثَلَاثًا أَمِيرًا وَمَا مَوْرَأُو
 لُوكُونَ كَوْصَفِ تَيْنِ أَدَى قَتَوَى دِيْتِي هِي اِمِيرًا يَانَا مَوْرَأُو (نائب)
 مُتَكَلَّفٌ - (۱)

امیر سے مراد امام (حاکم) ہے اور یہی لوگ قتوی دیا کرتے تھے مامور سے اس کا نائب مراد ہے اور متکلف ان دونوں کا غیر ہے اور یہ وہ شخص ہے جو اس جہد کے کو کسی ضرورت کے بغیر حاصل کرتا ہے حالانکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم قتوی دینے سے بچتے تھے۔

(۱) مسند امام احمد بن حنبل جلد ۲ ص ۱۸۳ مروی عن عبد اللہ بن عمرو۔

حتیٰ اگر ان میں سے ہر ایک دوسرے کے حوالے کر دیتا جب کہ ان سے علم قرآن اور آخرت کے راستے کا سوال کیا جاتا تو اس کا جواب دینے سے احتراز نہیں فرماتے تھے بعض روایات میں تکلف کی جگہ برائی کا لفظ ہے (یعنی ریاکار) پس جو شخص فتویٰ دینے کا عظیم کام اختیار کرتا ہے حالانکہ اسے کام کے لیے مقرر نہیں کیا گیا تو اس شخص کا مقصد صرف اور صرف مرتبہ اور مال کا حصول ہے۔

ایک اعتراض اور اس کا جواب | اگر تم کہو کہ آپ کی یہ تقریر زخون، حدود، نادان اور مقدمات کے فیصلوں کے بارے میں صحیح ہے لیکن اس کتاب میں عبادت کا جو حصہ ہے مثلاً روزہ اور نماز وغیر نیز معاملات میں سے عادات مثلاً حلال و حرام کو یہ شامل نہیں تو تمہیں جانا چاہیے کہ درحقیقت فقہ اعمالِ آخرت میں سے جن اعمال کے بارے فتویٰ دیتا ہے وہ تقریباً تین ہیں۔ (۱) اسلام (۲) نماز اور زکوٰۃ (۳) حلال و حرام تو جب تم اس سلسلے میں فقہ کے غور و فکر کی انتہا کو دیکھو گے تو معلوم ہو جائے گا کہ وہ دنیا کی حدود سے آخرت کی طرف تجاوز نہیں کرتی، تو جب تم نے ان تینوں میں اس بات کو معاموم کر لیا تو دوسرے امور میں یہ زیادہ ظاہر ہے۔

اسلام کے بارے میں فقہ صرف اتنی بات کرتا ہے کہ فلاں کا اسلام صحیح ہے یا صحیح نہیں، اسی طرح اسلام کی شرائط کا ذکر کرے گا وہ اس سلسلے میں صرف زبان کی طرف متوجہ ہوتا ہے جب کہ دل کا معاملہ فقہ کے اختیارات سے باہر ہے کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار اور حکومت والوں کو اس (دل کے معاملے) سے معزول فرمادیا کیونکہ کفار کے ایک لشکر میں سے ایک شخص نے کلمہ پڑھا تو جن صحابی نے اسے اس وجہ سے قتل کر دیا کہ اس نے محض خوف سے کلمہ پڑھا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا:-

”تو نے اس کا دل پھاڑ کر کیوں معلوم نہیں کیا“

هَذَا شَقَقْتَ عَنْ قَلْبِهِ - (۱)

بلکہ فقہ تو تلواروں کے سامنے ہیں اسلام کا فیصلہ کرتا ہے حالانکہ وہ جانتا ہے کہ تلوار نے اس کی نیت کو واضح نہیں کیا اور نہ اس کے دل سے جہالت اور حیرانگی کا پردہ اٹھا ہے لیکن وہ تلوار والے کو حکم دیتا ہے تلوار اس (مقتول) کی گردن کی طرف اور ہاتھ اس کے مال کی طرف پڑھا ہوا ہوتا ہے اور اس وقت یہ کلمہ اس کی گردن اور مال کو سچا لیتا ہے جب تک اس کی زندگی اور مال موجود رہے۔ اور یہ دنیا میں ہوتا ہے۔

اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:-

مجھے حکم دیا گیا کہ میں لوگوں سے لڑوں یہاں تک کہ وہ کلمہ طیبہ پڑھیں جب وہ ایسا کر لیں تو انہوں نے اپنے

أَمَرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَإِذَا قَالُوهَا فَقَدْ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءً

(۱) صحیح مسلم جلد اول ص ۶۸، باب تحریم قتل الکافر۔

تو آپ نے اس کا اثر خون اور مال میں قرار دیا۔ جہاں تک آخرت کا تعلق ہے تو اس میں مال فائدہ نہیں دیتے (۲) بلکہ وہاں دلوں کے اسرار اور خلوص سے فائدہ ہوگا۔ اور اس کا تعلق فن فقہ سے نہیں اگرچہ فقہ اس میں غور و خوض کرے جیسے وہ علم کلام اور طب میں سوچ بچار کرتا ہے حالانکہ یہ دونوں بھی اس کے فن سے خارج ہیں۔

جہاں تک نماز کا تعلق ہے تو فقہ اس کے صحیح ہونے کا فتویٰ دیتا ہے جب وہ نماز کی شرائط کی پابندی کرتے ہوئے عمل کی صورت میں لاتا ہے اگر وہ اپنی نماز میں شروع سے آخر تک غفلت کا شکار رہے۔ اور تکبیر کے علاوہ باقی تمام وقت بازار کے حساب و کتاب میں مشغول رہے تو یہ نماز آخرت میں فائدہ نہیں دیتی جس طرح محض زبانی اسلام (آخرت میں) نفع نہیں دے گا لیکن فقہ اس کے صحیح ہونے کا فتویٰ دیتا ہے یعنی جو اس طرح کر لیتا ہے وہ اسلام سے متعلق صیغہ امر کی تعمیل کر لیتا ہے اور اس سے قتل اور تعزیر دور ہو جاتی ہے۔ لیکن خشوع اور دل کی حاضری جو یہ آخرت کا عمل ہے اور اس کے ذریعے ظاہری عمل فائدہ دیتا ہے تو فقہ اس کے درپے نہیں ہوتا اور اگر وہ ایسا کرتا ہے تو یہ اس کے فن سے خارج ہے۔

اور زکوٰۃ کے سلسلے میں فقہ اس بات کی طرف نظر کرتا ہے جس کی وجہ سے بادشاہ کا مطالبہ ساقط ہو جاتا ہے یہاں تک کہ اگر کوئی شخص زکوٰۃ کی ادائیگی نہ کرے اور حکمران اس سے زبردستی وصول کر لے تو حکم دیا جائے گا کہ یہ شخص بری الذمہ ہو گیا کہا گیا ہے کہ حضرت امام ابو یوسف قاضی رحمہ اللہ سال کے آخر میں اپنا مال بیوی کو ہبہ کر دیتے اور اس کا مال اپنے لیے ہبہ کر دیتے تاکہ زکوٰۃ ساقط ہو جائے حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے یہ بات بیان کی گئی تو انہوں نے فرمایا یہ ان کی فقہ سے ہے اور انہوں نے سچ فرمایا کیونکہ یہ جیلہ صرف دنیا کی فقہ سے متعلق ہے لیکن آخرت میں اس کا نقصان ہر جرم سے بڑھ کر ہے اور اس قسم کا علم نقصان دہ علم ہے۔

جہاں تک حدال و حرام کا تعلق ہے تو حرام سے پچنا دین سے ہے لیکن اس بچاؤ (درع) کے چار مراتب ہیں۔

تقویٰ کے مراتب

(۱) پرہیزگاری کے چار مراتب ہیں

(۱) وہ پرہیزگاری جو گواہ کے عادل ہونے کی شرط ہے اور یہ وہ ہے کہ اس کے چھوڑنے سے

(۱) صحیح مسلم جلد اول ص ۳۷، باب الاسراف ان اس۔

(۲) یعنی محض مال آخرت میں فائدہ نہیں دیتا البتہ اگر دنیا میں اپنا مال اچھے کاموں پر صرف کیا تو وہ اعمال نفع دین گے تو اس طرح مال بالواسطہ آخرت میں بھی فائدہ دیتا ہے ۱۲ ہزاروی۔

(۳) اسلام میں جیلہ جائز ہے بشرطیکہ نیک مقاصد کے لیے ہو اس لیے حضرت امام ابو یوسف رحمہ اللہ کا یہ جیلہ بھی یقیناً کسی اچھے مقصد کے لیے ہوگا متقی امام کے بارے میں یہ تصور ہی نہیں ہو سکتا کہ وہ زکوٰۃ کی ادائیگی سے پچنا چاہتے ہوں گے ہر ۱۲ ہزاروی۔

آدمی گواہ اور قاضی نیز کسی کا دلی بٹنے کی اہلیت سے خارج ہو جاتا ہے۔ اور یہ (پرہیزگاری) ظاہر حرام سے بچنا ہے۔
(۷) صالحین کی پرہیزگاری۔ یہ ایسے شبہات سے بچنا ہے جن میں (حلال و حرام دونوں طرح سے) احتمالات ہوں،
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:-

دَعْ مَا يَرِيكَ إِلَى مَا لَا يَرِيكَ (۱)
شک والی چیز کو چھوڑ کر اس کو اپناؤ جو تمہیں شک میں
نہیں ڈالتی۔

نیز آپ نے فرمایا:-

أَلَدُّكُمْ حَذَّازُ انْقُلُوبٍ - (۲)
جو چیز دلوں میں کھٹکے وہ گناہ ہے۔ (۳)

(۲) متقی لوگوں کی پرہیزگاری حلال چیز کو اس لیے چھوڑنا کہ حرام میں جانے کا خطرہ ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:-
کوئی شخص اس وقت تک متقی لوگوں میں سے نہیں ہو
سکتا جب تک وہ ایسی چیز کو نہ چھوڑے جس میں کوئی حرج
ہیں اس چیز کے خوف سے جس میں حرج ہے۔ (۳)

اس کی مثال یہ ہے کہ پوشیدہ طور پر لوگوں کے بارے میں باتیں نہ کرے کہ کہیں غیبت تک نہ چلا جائے۔ اسی طرح وہ
خواہشات کے مطابق نہیں کھاتا کہ کہیں اس میں ایسی چستی اور گمراہی نہ پیدا ہو جائے جو اسے ممنوعات شرعیہ کی قریب کر دے۔
(۴) صدیقین کی پرہیزگاری۔ یہ اللہ تعالیٰ کے سوا ہر چیز کو چھوڑنے کا نام ہے کیوں کہ اسے یہ ڈر ہوتا کہ کہیں زندگی کی کوئی
سعادت قرب خداوندی کے بغیر نہ گزر جائے اگرچہ وہ جانتا ہے اور اسے یقین ہے کہ وہ (عمل) اسے حرام کی طرف نہیں
پہنچائے گا۔

یہ تمام درجات نقیہ کی نظر اور سوچ و بچاؤ سے الگ ہیں البتہ پہلا درجہ پر اس کی نظر ہوتی ہے یعنی ایسی پرہیزگاری جو
گواہی اور قضا سے متعلق ہے یا ایسا عمل جو عدالت میں منجمل ہوتا ہے اسے ترک کرنا، ایسی پرہیزگاری اس بات کے منافی نہیں
کہ آخرت میں گناہ نہ ہو،
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت وابصہ سے فرمایا:-

(۱) صحیح بخاری جلد اول ص ۲۷۵ باب تفسیر المشبہات (۲) شہب الایمانی جلد ۵ ص ۲۵۸ حدیث نمبر ۲۷۷

(۳) سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کی طہارت و پاکیزگی کی تاکید فرمائی ہے جب دل پاک ہو جاتا ہے تو اب دل خود بخود اس
بات کا فیصلہ کر دیتا ہے کہ یہ کام صحیح ہے یا غلط؟ ۱۴ ہزاروی

(۴) سنن ابی ماجہ ص ۳۲۱، باب الوریع والتقویٰ۔

اَسْتَفْتِ قَلْبِكَ وَاِنَّ اَفْتُوكَ وَاِنَّ اَفْتُوكَ
 وَاِنَّ اَفْتُوكَ - (۱)

”اپنے دل سے پوچھو اگرچہ لوگ تجھے (کچھ) فتویٰ دیں
 (دوسرا حصہ تین بار ذکر کیا)

فقیرہ دل کے خلیجان اور اس کے مطابق عمل کے بارے میں گفتگو نہیں کرتا بلکہ وہ صرف اسی چیز کا ذکر کرتا ہے جو عبادت
 میں خلل انداز ہو، تو اس وقت فقیرہ کی مکمل نظر اس دنیا سے مربوط ہوتی ہے جس کے ذریعے آخرت کی اصلاح ہوتی ہے۔ اور
 اگر وہ دل کی صفات اور آخرت کے احکام سے متعلق گفتگو کرے تو یہ اس کے کلام میں ضمنی گفتگو ہوگی جیسے اس کے کلام میں
 علم طب علم حساب علم نجوم اور علم کلام کا کچھ حصہ آجاتا ہے اور جس طرح نحو اور شعروں میں حکمت داخل ہو جاتی ہے۔

حضرت سفیان ثوری جو علم ظاہر کے امام تھے فرماتے ہیں اس علم کی طلب زیادہ آخرت سے نہیں اور یہ کیسے ہو سکتا ہے جبکہ
 اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ علم میں شرف اس پرنسپل کے باعث ہوتا ہے تو کیسے خیال کیا جاسکتا ہے حالانکہ وہ ظہار، لعان
 بیع سلم، اجارہ اور بیع صرف کا علم ہے اور جو کوئی ان باتوں کو اس لیے سیکھے کہ ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرے
 تو وہ مجنون ہے عبادت میں عمل دل اور اعضاء کے ساتھ ہوتا ہے اور ان اعمال کی وجہ سے بھی (علم کو) شرف حاصل ہوتا ہے۔
 اگر تم کو کہ آپ نے فقہ اور طب کو کیسے برابر کر دیا کہ طب بھی دنیا سے متعلق ہے کیوں کہ یہ جسمانی صحت کا نام ہے اور اس
 سے بھی دنیا کی بھلائی متعلق ہوتی ہے اور یہ برابری مسلمانوں کے اجماع کے خلاف ہے۔

تو تمہیں جاننا چاہیے کہ برابری لازم نہیں بلکہ ان دونوں میں فرق ہے۔

اور فقہ، تین وجہ سے افضل ہے۔

علم فقہ کی فضیلت

(۱) یہ علم شرعی ہے کیوں کہ یہ نبوت سے حاصل ہوتی ہے جب کہ طب علم شریعت سے

نہیں ہے۔

(۲) کوئی بھی آخرت کے راستے پر چلنے والا شخص فقہ سے قطعاً بے نیاز نہیں ہو سکتا نہ صحیح اور نہ ہی مریض لیکن طب
 کی حاجت صرف بیمار لوگوں کو ہوتی ہے اور وہ بہت کم لوگ ہیں۔

(۳) علم فقہ، علم آخرت سے ملتا ہوا ہے کیونکہ اس میں اعضاء کے اعمال پر نظر ہوتی ہے اور اعضاء کے اعمال دل کی صفات
 سے پیدا ہوتے ہیں پس اچھے اعمال اخلاق محمودہ سے پیدا ہوتے ہیں جو آخرت میں نجات دینے والے ہیں اور قابلِ ندمت
 اعمال مذموم صفات سے پیدا ہوتے ہیں۔ اور اعضاء کا دل سے تعلق کوئی محنتی بات نہیں جہاں تک صحت اور مرض کا تعلق
 ہے تو وہ مزاج اور مختلف اخلاط سے پیدا ہوتے ہیں۔ اور یہ بدن کے اوصاف ہیں دل کے اوصاف سے نہیں تو جب
 فقہ کی طرف یوں نسبت کی جائے تو اس کا شرف ظاہر ہوتا ہے اور جب طریق آخرت کے علم کو فقہ کی طرف نسبت

(۱) مستدرک امام احمد بن حنبل جلد ۲ ص ۲۲۸ روایات والبیض بن سعید

کر کے دیکھا جائے تو طریقِ آخرت کا علم اس کی نسبت افضل و اشرف معلوم ہوتا ہے۔

علم طریقِ آخرت

اگر تم کہو کہ علم طریقِ آخرت، تفصیل سے یوں بیان کر دیجئے کہ اس کے عنوانات کی طرف اشارہ ہو جائے اگرچہ اس کی مکمل تفصیل کا احاطہ ممکن نہیں تو جان لو کہ اس کی دو قسمیں ہیں۔

(۱) علم مکاشفہ (۲) علم معاملہ۔

علم مکاشفہ :- یہ باطن کا علم ہے اور یہ تمام علوم کی غایت و انتہا ہے بعض اہل معرفت نے فرمایا کہ جس شخص کو اس علم سے حصہ نہیں ملا مجھے اس کے بڑے خاتمے کا ڈر ہے۔ اور اس کا ادنیٰ حصہ یہ ہے کہ اس کی تصدیق کرے اور اس کے اہل کو تسلیم کرے۔

ایک دوسرے عارت فرماتے ہیں "جس شخص میں دو خصلتیں ہوں اس کے لیے اس علم کا دروازہ نہیں کھولا جاتا (۱) بدعت (۲) تکبر" کہا گیا ہے کہ جو شخص دنیا سے محبت کرتا ہو یا وہ خواہشات پر مصر ہو اس کو یہ علم حاصل نہ ہو گا، اگرچہ وہ باقی تمام علوم کا محقق ہو جائے اس کے منکر کی کم از کم سزا یہ ہے کہ وہ اس میں سے کچھ بھی نہیں پاتا۔ اس پر شکر کہا گیا۔ اس بات پر راضی ہو جو شیخ سے پوشیدہ ہے تو یہ ایک گناہ ہے جس کی سزا اسی کے اندر ہے۔

علم مکاشفہ صدیقین اور مقربین کا علم ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک نور ہے جب دل کو برے اخلاق سے طہارت و پاکیزگی حاصل ہو جاتی ہے تو وہ اس (دل) پر ظاہر ہوتا ہے اور اس نور سے بہت سے امور منکشف ہوتے ہیں کہ وہ پہلے ان کے نام سنا کرتا تھا اور اس کے لیے کچھ اجمالی معانی کا وہم ہوتا تھا لیکن وہ واضح نہیں ہوتے تھے تو اس وقت وہ معانی واضح ہو جاتے ہیں حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اور اس کی صفات کاملہ باقیہ اس کے افعال اور دنیا و آخرت کے پیدا کرنے میں اس کی حکمت کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے اسے یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ دنیا کو آخرت پر کیوں مرتب کیا؟ نبوت اور نبی کے معنی، وحی اور شیطان کا مفہوم لفظ ملائکہ اور شیاطین، شیطانوں کی انسانوں سے دشمنی کی صورت، فرشتوں کے انبیاء کرام کے سامنے ہونے کی کیفیت، ان تک وحی کے پہنچنے کی کیفیت آسمانوں اور زمین کی بادشاہی کی معرفت، دل کی معرفت، فرشتوں اور شیطانوں کے لشکروں کے باہمی ٹکراؤ کی کیفیت، فرشتوں کے الہام اور شیطانوں کی ٹھیس کے درمیان فرق کی پہچان، آخرت، جنت اور دوزخ کی معرفت، عذابِ قبر، پل صراط، میزان، حساب کی معرفت حاصل ہوتی ہے

اللہ تعالیٰ کے ارشادِ گرامی ہیں :-

أَفْرَأَىٰ كَيْفَ تَكْفُرُ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ

حَسِبْنَا (۱)

اپنے نامہ اعمال کو ٹپھو، آج کے دن تمہارے حساب کے لیے یہی کافی ہے۔

(۱) قرآن پاک سورہ اسراء آیت ۱۴

اور ارشاد خداوندی ہے :-

اور بے شک آخرت کا گھر ہی حقیقی زندگی ہے اگر وہ
جانتے،

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ
يَعْلَمُونَ (۱)

کا مطلب واضح ہو جاتا ہے۔

اللہ تعالیٰ سے ملاقات، اور اس کی ذات کریمہ کی زیارت، اس سے قرب کا مفہوم اس کے جوہر رحمت میں اترنے، اعلیٰ درجہ کے ملائکہ کی رفاقت کی سعادت فرشتوں اور انبیاء کرام کی رفاقت، اہل جنت کے درجات میں فرق، حتیٰ کہ ان میں سے بعض، بعض کو اس طرح دیکھیں گے جس طرح آسمان کے درمیان چمکتا ہوا ستارہ ہوتا ہے اور اس کے علاوہ امور جن کی تفصیل نہایت طویل ہے، سب کچھ معلوم ہو جاتا ہے۔

کیوں کہ اس نور مکاشفہ سے پہلے لوگ اگرچہ ان امور کے اصول کی تصدیق تو کرتے ہیں لیکن ان کے معانی کے بارے میں ان کے مختلف مقامات ہیں ان میں سے بعض ان سب کو مثالی تصور کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے جو کچھ اپنے (نیک) بندوں کے لیے تیار کر رکھا ہے یہ وہ نعمتیں ہیں جنہیں نہ تو کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی کان نے سنا اور نہ کسی انسان کے دل میں ان کا خیال گزرا اور مخلوق کے لیے جنت میں سے سوائے صفات اور ناموں کے کچھ نہیں۔

اور بعض کا خیال یہ ہے کہ ان میں سے بعض مثالی چیزیں ہیں اور بعض ان حقائق کے موافق ہیں جو ان کے الفاظ سے سمجھ آتے ہیں۔

اسی طرح بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کی انتہا یہ ہے کہ اس کی معرفت سے عاجزی کا اظہار کیا جائے جب کہ کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کی معرفت کے سلسلے میں بلند بانگ دعوے کرتے ہیں، بعض حضرات کہتے ہیں کہ جہاں تک عوام کے اعتقادات پہنچتے ہیں وہ معرفت خداوندی کی حد ہے۔ وہ یہ کہ وہ موجود ہے عالم، قادر، سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔

پس علم مکاشفہ سے ہماری غرض یہ ہے کہ پردہ اٹھ جائے یہاں تک کہ ان امور کی حقیقت اس طرح واضح ہو جائے کہ گویا آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اور کوئی شک باقی نہ رہے۔

اور بیات جوہر انسانی میں ممکن ہے اگر اس کے آئینہ دل پر دنیا کی آلائشوں کا زنگ اور میل نہ چڑھی ہو۔

علم طریق آخرت سے ہماری مراد وہ علم ہے جس کے ذریعے اس شے کو ان خباثوں سے جو اللہ تعالیٰ، اس کی صفات اور افعال کی معرفت کے سامنے حجاب بنتی ہیں، صاف کرنے کی کیفیت معلوم ہوتی ہے اور اس کو پاک و صاف کرنے کے لیے خواہشات سے روکنا اور تمام حالات میں انبیاء کرام علیہم السلام کی اقتدا کرنا ہوتی ہے۔ تو جس قدر دل کو جلا حاصل ہوتی

جائے گی۔ اور اس کے مقابل حق کا حصہ آنا جائے گا اس میں حقائق چھتے چلے جائیں گے اور اس کی طرف جانے کا ایک ہی راستہ ہے اور وہ ریاضت ہے جس کی تفصیل اپنے مقام پر آئے گی۔ علاوہ ازیں علم اور تعلیم کی ضرورت ہے اور یہ وہ علوم ہیں جو کتابوں میں نہیں لکھے جاتے اور جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے ان میں سے کچھ عطا فرمایا وہ انہیں صرف ان لوگوں سے بیان کرتا ہے جو ان علوم کے اہل ہیں اور وہی اس کے ساتھ گفتگو میں شریک اور اس کے راز دار ہوتے ہیں اور یہی وہ پوشیدہ علم ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے مراد لیا گیا ہے۔

آپ نے فرمایا:-

”إِنَّ مِنَ الْعِلْمِ كَهَيْئَةِ الْمَكْتُونِ لَا يَعْلَمُهُ إِلَّا أَهْلُ الْمَعْرِفَةِ بِاللَّهِ تَعَالَى، فَإِذَا تَطَقُوا بِهِ لَمْ يَجْهَلْهُ إِلَّا أَهْلُ الْإِذْتِرَارِ بِاللَّهِ تَعَالَى، فَلَا تَخْفَرُوا عَالِمًا أَنَا اللَّهُ تَعَالَى عِلْمًا مِثْلَهُ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يَخْفَرْهُ إِذْ أَنَا آيَاةٌ“ (۱)

”بعض علوم جو پوشیدہ خزانوں کی طرح ہیں ان کو صرف اہل معرفت جانتے ہیں جب وہ اس علم کے ساتھ بولتے ہیں تو اس سے سوائے ان لوگوں کے جو اللہ تعالیٰ کے ذات کے بارے میں مغالطہ میں ہیں، کوئی شخص ناواقف نہیں رہتا تو جس عالم کو اللہ تعالیٰ نے یہ علم عطا کیا ہو اسے حقیر نہ جانو کیونکہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے یہ علم دیا اسے اس شخص پر قرار نہیں دیا۔“

علم معاملہ ہے۔ اور یہ دل کے حالات کا علم ہے۔ اس میں سے جو قابل تعریف ہے اس کی مثال صبر، شکر، خوف و امید، رفا، زہد، تقویٰ، قناعت، سخاوت اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ کے احسانات کو پہچاننا، احسان، حسن ظن، اچھے اخلاق، عمدہ سلوک اور صدق و اخلاص ہے۔ ان احوال کی حقیقتوں کی معرفت ان کی تعریف اور وہ اسباب جن کے ذریعے یہ حاصل ہوتے ہیں، ان کے نتائج اور جو ان میں سے ضعیف ہو اس کا علاج تاکہ مضبوط ہو جائے اور جو زائل ہو جائے اسے لوٹانا یہ سب علم آخرت ہے۔

اور ان میں سے جو قابل مذمت ہیں وہ محتاجی کا خوف، تقدیر پر ناراض ہونا (دل کی اکھوٹ اور کینہ، حسد، بدبازی کی طلب، اپنی تعریف کو پسند کرنا دنیا سے نفع اٹھانے کے لیے طویل زندگی کی تمنا، تکبر، ریا کاری، غصہ اور نفرت عداوت اور بغض، طمع اور سخی، رغبت و تکبر، اکر اور غرور مال دار لوگوں کی تعظیم اور فقرا کی توہین، فخر و تکبر، مباغرات اور فخر حق بات سے تکبر کرنا، بے مقصد باتوں میں پڑنا، زیادہ گفتگو کو پسند کرنا مخلوق کو دکھانے کے لیے بن سفور کر رہنا، منافقت و خود پسندی اپنے عیبوں سے بے خبر ہو کر دوسروں کے عیب تلاش کرنا، دل سے فکر کا اٹھ جانا اور خوف خدا کا نکل جانا اور حیب نفس کو ذلت پہنچے تو اس کا سختی سے بدلہ لینا، اور حق کی بدد سے کمزوری دکھانا باطن کی دشمنی کے لیے ظاہری دوست

بنانا۔ اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے بے خوف رہنا کہ جو کچھ اس نے عطا کیا وہ واپس بھی لے سکتا ہے عبادت و اطاعت پر بھروسہ کرنا مکر، خیانت، دھوکہ بازی، طویل امیدیں، دل کی سختی اور سخت کلامی، دنیا رکھنے پر خوشی اور اس کے فوت ہو جانے پر افسوس کرنا مخلوق سے افسوس کرنا اور ان کی علیحدگی پر وحشت زدہ ہو جانا، ظلم، غصہ اور جلد بازی کرنا نیز جفا اور رحم کی کمی، یہ (مذکورہ بالا) اور اس کی مثل دل کی وہ صفات بد ہیں جو تمام برائیوں اور ممنوع اعمال کی جڑ اور بنیاد ہیں۔

اور ان کے مقابل جو اچھی عادات ہیں ان کا منبع اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور قرب ہے تو ان صفات کی تعریف، حقائق، اسباب، نتائج اور علاج کا علم، علمِ آخرت ہے اور علمائے آخرت کے فتویٰ کے مطابق یہ فرض عین ہے ان صفات سے منہ پھرنے والا آخرت میں حقیقی بادشاہ کے قہر سے ہلاک ہوگا جیسے ظاہری اعمال سے منہ پھرنے والا دینی فقہاء کے فتویٰ کے باعث سلاطین دنیا کی تلوار سے ہلاک ہوتا ہے تو فرض عین کے سلسلے میں علمائے دنیا کی نظر اصلاح دنیا کی طرف ہوتی ہے اور یہ مذکورہ علم، آخرت کی بہتری کے لیے ہے۔ اگر کسی فقیہ سے ان باتوں میں سے کسی بات مثلاً اخلاص، توکل اور ریا سے بچنے کے بارے پوچھا جائے تو وہ اس میں خاموشی اختیار کرے گا حالانکہ یہ وہ فرض عین ہے کہ اس کو چھوڑنے میں اس کے لیے اتنی ہی ہلاکت ہے۔ اور اگر تم اس سے نعان، ظہار، گھوڑ دوڑ اور تیر اندازی کے بارے میں پوچھو تو تمہارے سامنے ایسے دقیق فروری مسائل کی کئی جلدیں پیش کر دیں گے۔ کہ زمانے ختم ہو جائیں اور تمہیں ان میں سے کسی کی بھی ضرورت نہ پڑے اور اگر ضرورت پڑے بھی تو شہر اس کے بتانے والوں سے خالی نہ ہوگا اور وہ اس کو اس سلسلے میں مشقت سے بچائے گا تو یہ دن رات ان مسائل کو یاد کرنے اور پڑھنے میں مشقت برداشت کرتا ہے اور اس علم سے غافل ہے جو دین میں اس کے لیے اہم ہے اور جب اس فقیہ کی طرف رجوع کیا جائے تو کہتا ہے کہ میں اس میں اس لیے مشغول ہوں کہ یہ علم دین سے اور فرض کفایہ سے وہ اس کے سیکھنے میں اپنے آپ کو بھی اور دوسروں کو بھی دھوکا دیتا ہے حالانکہ عقلمند آدمی جانتا ہے کہ اگر اس کی فرض کفایہ کے سلسلے میں اپنے فرض کی ادائیگی ہوتی تو وہ اس پر فرض عین کو مقدم کرتا۔ بلکہ کئی دیگر فرض کفایہ کو اس پر مقدم کرتا کہتے ہی ایسے شہر ہیں جن میں غیر مسلم (ذمی) کے علاوہ کوئی ڈاکٹر نہیں اور طبیوں سے متعلق احکام فقہ ہیں ان کفار کی گواہی قبول نہیں۔ پھر بھی ہم نہیں دیکھتے کہ کوئی شخص اس (علم طب) میں مشغول ہو، اور علم فقہ، بالخصوص اختلافی اور باعث نزاع مسائل سیکھنے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں حالانکہ شہر ایسے فقہاء سے بھرے پڑے ہیں جو فتویٰ نویسی اور واقعات کے جوابات دینے میں مشغول ہیں۔

افسوس! کس طرح فقہائے دین اس فرض کفایہ میں مشغول ہونے کی اجازت دیتے ہیں جسے قائم کرنے کے لیے ایک جماعت موجود ہے اور وہ اسے چھوڑ رہے ہیں جسے قائم کرنے والا کوئی نہیں اس کا سبب کیا ہو سکتا ہے یہی کہ طب کے ذریعے اوقات اور وصیتوں کا ولی بنتے، شیعوں کے مال کی حفاظت قضا اور حکومت کا حصول، ہم عصر لوگوں سے آگے بڑھنا اور مشغولوں پر مسلط ہونا میسر نہیں۔

افسوس! افسوس! برے علماء کے دعوے کے باعث علم دین مٹ گیا تو ہم اللہ تعالیٰ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور اسی کی پناہ چاہتے ہیں کہ وہ ہمیں اس دھوکے سے بچائے جو رحمن کی ناراضگی اور شیطان کی خوشی کا باعث ہے۔

علمائے ظاہر میں سے جو صاحب تقویٰ تھے وہ علمائے باطن اور اہل دل لوگوں کی فضیلت کا اقرار کیا کرتے تھے حضرت امام شافعی رحمہ اللہ حضرت شیبان راعی کے سامنے اس طرح بیٹھتے جیسے بچہ اپنے کتب میں بیٹھتا ہے اور ان سے پوچھتے کہ فلاں فلاں کام کس طرح کریں ان سے پوچھا گیا آپ جیسا ذقینہ شخص اس دیہاتی سے پوچھتا ہے تو وہ فرماتے ان کو اس چیز کی توفیق دی گئی ہے جس سے ہم غافل ہیں۔ حضرت امام احمد بن حنبل اور حضرت یحییٰ بن معین رحمہما اللہ، حضرت معروف کرخی رحمہ اللہ کے پاس جاتے تھے حالانکہ وہ علم ظاہر میں ان دونوں کی طرح نہ تھے وہ دونوں ان سے پوچھا کرتے تھے۔ اور ایسا کیوں نہ کرتے جب کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ جب ہمیں ایسا معاملہ درپیش ہو جسے ہم قرآن پاک اور سنت مطہرہ میں نہ پائیں تو کیا کریں آپ نے فرمایا۔

سَلُوا الصَّالِحِينَ وَاجْعَلُوا شُورَى
بَيْنَهُمْ۔ (۱)

”صالحین لوگوں سے پوچھو اور ان کے باہمی مشورہ پر عمل کرو“

اسی لیے کہا گیا کہ علمائے ظاہر زمین اور ملک کی زینت ہیں اور علمائے باطن آسمان اور ملکوت کی زینت ہیں۔

حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ایک دن مجھ سے میرے شیخ حضرت سری سقطی رحمہ اللہ نے پوچھا ”جب تم میرے پاس سے چلے جاتے ہو تو کس کے پاس بیٹھتے ہو میں نے کہا حضرت محاسبی کے پاس فرمایا اچھا ہے ان سے علم و ادب سیکھنا لیکن جو کچھ وہ علم کلام اور مشکاھن کے رد میں کہیں۔ اسے چھوڑ دینا پھر میں جب واپس آنے لگا تو سنا کہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ تجھے حدیث والا صوفی بنائے ایسا صوفی بنائے جو (بعد میں) حدیث حاصل کرے۔ اس میں اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ جس شخص نے حدیث اور علم حاصل کر کے تصوف کو اختیار کیا اس نے کامیابی پائی اور جس نے علم سے پہلے تصوف اختیار کیا اس نے اپنے آپ کو خطرے میں ڈالا۔

علم کلام اور فلسفہ | اگر تم کیونکہ علوم کی اقسام ہیں، علم کلام اور فلسفہ کا ذکر کیوں نہیں کیا اور نہ اس بات کو واضح کیا کہ یہ دونوں علم مذموم ہیں یا قابل تعریف؟

تو جان لو کہ علم کلام جن نفع بخش دلائل پر مشتمل ہے وہ قرآن پاک اور احادیث میں پائے جاتے ہیں اور جو دلائل ان دونوں سے باہر ہیں وہ یا تو برے جھگڑے ہیں اور وہ بدعات سے ہیں جیسا کہ اس کا بیان کرنا ہے یا وہ مختلف فرقوں کے اختلافات سے متعلق تباہ کن باتیں ہیں اور ایسے مقالات کو نقل کرنے کے ذریعے بات کو لمبا کیا جاتا ہے جو بیہودہ بکو اس پر مشتمل ہیں طبیعتیں ان سرور کرتی اور کان ان کو زور پھینکتے ہیں ان میں جتنے بعض ایسی ہیں جن میں غور و خوض دین سے خارج ہے اور

پہلے دور (صحابہ کرام کے زمانے) میں ان کا وجود نہ تھا اور ان میں غور و خوض کرنا مکمل طور پر بدعت تھا۔ لیکن اب حکم بدل گیا کیوں کہ اسی طرح کی بدعتیں جو قرآن و سنت کے مقتضائے پھیر دیں، زیادہ ہو گئی ہیں اور کچھ ایسے لوگ ظاہر ہو گئے ہیں جنہوں نے جھوٹ ڈکھڑیا اور اس میں مرتب تفریریں بنا دیں۔ لہذا ضرورت کے تحت اس ممنوع کام کی اجازت دی گئی۔ بلکہ یہ فرض کفایہ علوم میں سے ہو گیا اور یہ اسی قدر ہے جس کے ساتھ کسی بدعتی کا مقابلہ کر سکے جب وہ بدعت کی طرف بلائے اور یہ ایک محدود حد تک ہے ہم آئندہ باب میں اس کا ذکر کریں گے۔

تقسیم فلسفہ

جہاں تک فلسفہ کا تعلق ہے تو وہ مستقل علم نہیں بلکہ اس کے چار حصے ہیں۔

(۱) ہندسہ اور حساب: یہ دونوں جائز ہیں جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے۔ اس سے صرف اسی شخص کو کو منع کیا جائے جس کے بارے میں ڈر ہو کہ وہ اس کے ذریعے مذموم کی طرف چلا جائے گا کیونکہ ان میں مہارت رکھنے والے اکثر لوگ ان دونوں سے بدعات کی طرف نکل گئے تو ان دونوں علوم سے کمزور ایمان والے کو بچایا جائے گا اس لیے نہیں کہ یہ ذاتی طور پر صحیح نہیں۔ جیسے نہر کے کنارے پر کھڑے چھوٹے بچے کو بچایا جاتا ہے کیوں کہ اس کے نہر میں گرنے کا ڈر ہوتا ہے اور جس طرح کسی نو مسلم کو کفار کے ساتھ میل جول سے محض ڈر کی وجہ سے روکا جاتا ہے کیونکہ جو مضبوط ہے وہ ان سے میل جول کو خود ہی اچھا نہیں سمجھتا۔

(۲) علم منطق: اس میں دلیل کی کیفیت اور شرائط نیز حد (تعریف) کی وجہ اور شرائط کا بیان ہوتا ہے اور یہ دونوں علم کلام میں داخل ہیں۔

(۳) الہیات: اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے بارے میں بحث کرنا علم الہیات ہے۔ یہ بھی علم کلام میں داخل ہے۔ فلسفیوں نے اس سلسلے میں کوئی نیا علم جاری نہیں کیا بلکہ ان کے الگ الگ مذاہب ہیں جن میں سے بعض کفر اور بعض بدعات پر مبنی ہیں۔ تو جس طرح اعتزال (معتزلی ہو جانا) الگ علم نہیں بلکہ اس کے ماننے والے تکلمین کا ہی ایک گروہ ہیں بحث و دلیل والے حضرات نے الگ مذاہب بنائے اسی طرح فلسفہ بھی ہے۔

(۴) طبیعات: ان میں سے شریعت اور دین حق کے مخالف ہیں اور وہ علم نہیں بلکہ جہالت میں اس لیے اقسام علوم میں بیان نہیں کئے جاسکتے، ان میں سے کچھ جسموں ان کے خواص اور ان کے تغیر و تبدیلی سے بحث کرتے ہیں وہ طب کے مشابہ ہیں البتہ یہ (فرق ہے) کہ طبیب کی نظر خاص طور پر انسانی جسم پر بیماری اور صحت کے اعتبار سے ہوتی ہے جب کہ یہ لوگ تمام اجسام کو ان کی تبدیلی اور حرکت کے حوالے سے دیکھتے ہیں لیکن علم طب کو اس پر فضیلت حاصل ہے اور اس کی ضرورت بھی رہتی ہے جب کہ علوم طبیعات کی کوئی حاجت نہیں ہوتی۔

تو نتیجہ یہ ہوا کہ علم کلام ان باتوں میں سے ہے کہ لوگوں کے دلوں کو بدعات پر مبنی خیالات سے بچانے کے لیے ان کا

جاننا فرض کفایہ ہے، اور یہ علم، بدعات کے پیدا ہونے سے پیدا ہوا جیسے حج کے راستے میں اہل عرب کے ظلم اور ان کی ڈاکہ زنی کی وجہ سے محافظ حاصل کرنے کی ضرورت پڑی (۱)

اگر عرب لوگ یہ زیادتی چھوڑ دیں تو کسی محافظ کو کرایہ پر حاصل کرنا طریق حج کی شرائط میں سے نہ ہوگا اس طرح اگر اہل بدعت اپنی بیہودہ گفتگو سے باز آجائیں تو صحابہ کرام کے زمانے میں جس قدر علم تھا اس سے زائد کی ضرورت نہ ہوگی تو علم کلام سے تعلق رکھنے والے کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ علم کس حد تک دین سے متعلق ہے نیز منکلم (علم کلام والا) کا درجہ صرف اسی قدر ہے جتنا حج کے راستے میں محافظ کا ہے۔ جب محافظ صرف محافظت کا فریضہ انجام دے تو وہ حجاج کرام میں سے نہ ہوگا۔ اور جب منکلم مناظرہ اور بدعتیوں کی روک تھام ہی میں مشغول ہو اور آخرت کے راستے پر نہ چلے اور نہ دل کی حفاظت و اصلاح میں مشغول ہو تو وہ علمائے دین میں سے بالکل نہ ہوگا اور منکلم کے پاس سوائے اس عقیدے کے جس میں وہ تمام عوام کے ساتھ شریک ہے اور کچھ بھی نہ ہوگا۔ اور یہ عقیدہ دل اور زبان کے ظاہری اعمال میں سے ہے وہ دوسرے لوگوں سے صرف اس لیے ممتاز ہوگا کہ وہ مخالفین سے جھگڑ سکتا ہے اور حفاظت کر سکتا ہے۔ جہاں تک اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات، اس کے افعال اور ان تمام باتوں کی معرفت کا تعلق ہے جن کی طرف ہم نے علم مکاشفہ کے بیان میں ذکر کیا وہ علم کلام سے حاصل نہیں ہوتے۔ بلکہ قریب ہے کہ علم کلام اس کے لیے حجاب اور رکاوٹ بن جائے اللہ تعالیٰ تک رسائی تو اسی مجاہدہ کی بنیاد پر ہوتی ہے جسے اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے مقدمہ قرار دیا ہے۔

ارشاد خداوندی ہے۔

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا
وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ۔ (۲)

اور وہ لوگ جو ہمارے راستے میں مجاہدہ (اور محنت) کرتے ہیں ہم انہیں اپنے راستوں کی طرف ہدایت دیتے ہیں اور بے شک اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہے۔

علم فقہ و کلام اگر تم کہوں کہ تم نے منکلم کی تعریف یوں کی ہے کہ وہ اہل بدعت کے الجھاؤ سے عوام کے عقیدے کی حفاظت کرتا ہے جیسے محافظ کی تعریف یہ ہے کہ وہ عربی بدوؤں کی لوٹ مار سے حجاج کرام کے ہتھان کی حفاظت کرتا ہے، فقہ کی تعریف یوں کی ہے کہ وہ اس قانون کی حفاظت کرتا ہے جس کے ذریعے بادشاہ زیادتی کرنے والوں کی زیادتی کو دوسروں سے روکتا ہے اور یہ دونوں مرتبے علم دین کے مقابلے میں کم درجہ کے ہیں حالانکہ علمائے امت جو

(۱) یہ اس وقت کی بات ہے جب لوگ پیدل حج کرنے جاتے تھے اور عرب کے بدو قافلوں پر حملہ کر کے لوٹ مار کرتے تھے اب

ایسی بات نہیں ۱۲ ہزاروی۔

(۲) قرآن پاک سورہ عنکبوت آیت ۶۹

فضیلت کے ساتھ مشہور ہیں وہ فقہاء اور متکلمین ہی تو ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہترین مخلوق ہیں تو کس طرح علم دین کے مقابلے میں ان کا درجہ اس قدر پست ہو گیا؟

تو جواباً، جان لو کہ جو شخص حق کو انسانوں کے ذریعے جاننا چاہتا ہے وہ مگر اسی کے جنگلوں میں بھٹکتا رہتا ہے اگر تو راہ حق پر چلتا ہے تو پہلے حق کو پہچان لے اس کے اہل کو خود بخود پہچان لے گا اور اگر تقلید اور لوگوں کے درمیان مشہور درجاتِ فضیلت پر ہی نظر رکھتا ہے تو صحابہ کرام اور کے درجات کی بلندی سے غافل نہ ہو تم نے جن لوگوں کا ذکر کیا ہے وہ سب صحابہ کرام کی عظمت اور ان کے تقدم پر متفق ہیں دین کے معاملے میں کوئی بھی شخص نہ ان کی بلند ہمتی کو پہنچ سکتا ہے اور نہ ان کی گردِ راہ کو۔ اور ان کی فضیلت کلام اور فقہ کی وجہ سے نہ تھی بلکہ وہ آخرت اور اس کی طرف جانے کا علم رکھتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ زیادہ نمازوں، روزوں، کثرتِ روایات اور فتویٰ و کلام کی وجہ سے افضل نہیں ہوتے بلکہ ان کی فضیلت کا باعث وہ بات تھی جو ان کے سینے میں راسخ تھی (۱) جس طرح رسولوں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے اس بات کی شہادت دی۔

لہذا تمہیں اس بار کو پانے کی جستجو کرنی چاہیے یہ جو ہر نفس اور پوشیدہ موتی ہے اور اپنے آپ سے اس چیز کو دور کر دو جسے اکثر لوگ کچھ تفصیلی وجوہات کی بنیاد پر باعثِ عظمت سمجھتے ہیں اور وہ اس بات پر متفق ہو گئے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت ہزاروں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم موجود تھے وہ تمام کے تمام علمائے راہ تھے، لیکن ان میں سے کوئی بھی فن کلام سے اچھی طرح واقف نہ تھا اس سے کچھ زیادہ صحابہ کرام کے علاوہ کسی صحابی نے بھی اپنے آپ کو فتویٰ دینے کے لیے مقرر نہیں کیا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہم بھی انہی لوگوں میں سے تھے جب ان سے کوئی فتویٰ پوچھا جاتا تو سائل سے فرماتے فداں امیر کے پاس جاؤ جس نے لوگوں کے معاملات کا فائدہ اپنے گلے میں ڈالا ہے یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ مقدمات اور فیصلوں کے سلسلے میں فتویٰ دینا ولایت و سلطنت کے امور سے ہے۔

جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تو حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا علم کے دس حصوں میں سے نو حصے چلے گئے ان سے پوچھا گیا کہ آپ یہ بات فرماتے ہیں حالانکہ ہم میں جلیل القدر صحابہ کرام موجود ہیں انہوں نے فرمایا میں فتویٰ اور احکام کے علم کی بات نہیں کرتا میری مراد علم باللہ سے ہے، تو تمہارا کیا خیال ہے انہوں نے فن کلام اور مناظرہ مراد لیا تھا تو تمہیں کیا ہوا کہ تم اس علم کی معرفت کی حفاظت نہیں کرتے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے وصال سے اس کے دس میں سے نو حصے چلے گئے۔ حالانکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کلام اور بحث و مناظرہ کا دروازہ بند کیا تھا اور جب حضرت ضعیف نے قرآن پاک کی دو آیتوں کے درمیان تعارض کے بارے میں پوچھا تو آپ نے انہیں در سے سے مالا اور ان

کا بائیکاٹ کیا بلکہ صحابہ کرام کو بھی ان کے بائیکاٹ کا حکم دیا۔

تمہارا یہ کہنا کہ علماء میں سے مشہور فقہاء اور متکلمین ہیں تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں فضیلت کا باعث اور چیز ہے اور لوگوں کے ہاں شہرت کا سبب دوسری بات ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلافت کے ساتھ مشہور تھے لیکن آپ کی فضیلت کا باعث وہ راز تھا جو آپ کے سینے میں راسخ و موجود تھا۔

حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سیاست کی وجہ سے مشہور تھے لیکن آپ کی فضیلت کا باعث وہ علم تھا جس کے نوحے آپ کی وفات کے ساتھ اٹھ گئے علاوہ ازیں حکومت کے ذریعے تقرب خداوندی کا قصد کرنا اور اس کی مخلوق سے عدل و انصاف اور شفقت سے پیش آنا تھا اور یہ بھی ایک پوشیدہ بات تھی جو آپ کے دل کے اندر تھی جب کہ آپ کے تمام ظاہری اعمال ہر ایسے شخص سے بھی صادر ہو سکتے ہیں جو مرتبہ، نام اور شہرت کا طالب ہو۔

تو شہرت ہلاک کرنے والے عمل میں ہوتی ہے اور فضیلت پوشیدہ چیزیں ہوتی ہے جس پر کسی کو اطلاع نہیں ہو سکتی۔ لہذا فقہاء اور متکلمین، خلفاء، قاضیوں اور علماء کی طرح ہیں اور وہ کئی قسم کے ہیں۔

ان میں سے بعض وہ ہیں جو اپنے علم، فتویٰ اور سنت نبویہ کی حمایت کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتے ہیں وہ نہ تو ریا کاری کرتے ہیں اور نہ شہرت کے طالب ہوتے ہیں ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کی فضیلت کا سبب علم پر عمل کرنا اور اپنے فتویٰ اور دلیل سے اللہ تعالیٰ کی رضا تلاش کرنا ہے کیوں کہ ہر علم عمل (کا ذریعہ) ہے کیونکہ وہ بھی ایک فعل ہے جس کو حاصل کیا جاتا ہے۔

لیکن ہر عمل، علم نہیں طیب بھی اپنے علم سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکتا ہے، چنانچہ اسے بھی علم پر ثواب ملتا ہے کیونکہ اس نے اس علم پر، اللہ تعالیٰ کے لیے عمل کیا۔ بادشاہ لوگوں کے درمیان ایک واسطہ ہوتا ہے لہذا وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں پسندیدہ ہوتا ہے اور اسے ثواب ملتا ہے اس لیے نہیں کہ وہ علم دین کا ذمہ دار ہے بلکہ اس لیے کہ وہ ایسا عمل اختیار کرتا ہے جس کے ذریعے وہ اللہ تعالیٰ کے تقرب کا ارادہ کرتا ہے۔

جن چیزوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کیا جاتا ہے۔

قرب خداوندی کا راستہ

وہ تین قسم کے ہیں۔ (۱) علم مکاشفہ (۲) محض عمل جیسے بادشاہ کا انصاف کرنا اور لوگوں کو کنٹرول کرنا (۳) علم و عمل کا مرکب یعنی طریقی آخرت کا علم، ایسے علم دالہ عالم بھی ہے اور عامل بھی، تو تم اپنے بارے میں سوچ لو کہ قیامت کے دن علماء کی جماعت میں ہونا چاہتے ہو یا عالمین کی جماعت میں یا دونوں جماعتوں میں تاکہ دونوں سے حصہ پاؤ تو محض شہرت کی تقلید کی بجائے یہ بات تمہارے لیے بہتر ہے جیسے شاعر نے کہا،

”جس کو دیکھو اسے اختیار کرو اور جس بات کو سنا اسے چھوڑ دو سورج، طلوع ہو تو زحل ستارے کی کیا

ضرورت ہے“

تذکرہ ائمہ | علاوہ ازیں ہم پہلے فقہاء کرام کے حالات زندگی نقل کرتے ہیں جس سے تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ یہ لوگ جو اپنے آپ کو ان کے مذاہب پر بتاتے ہیں انہوں نے ان پر ظلم کیا اور قیامت کے دن یہ ان کے بہت بڑے دشمن ہوں گے۔ ان لوگوں نے اپنے علم سے صرف اور صرف رضائے خداوندی کا مقصد کیا ان کے حالات سے علمائے آخرت کی علامات دیکھی گئی ہیں جیسے علمائے آخرت کی علامات کے باب میں اس کا بیان ہوگا۔ انہوں نے اپنے آپ کو صرف علم فقہ کے لیے وقف نہیں کیا تھا بلکہ دلوں کے علم میں مشغول اور نگران بھی رہتے تھے ان کے لیے تدریس و تصنیف سے وہی بات مانع تھی جو صحابہ کرام کی تصنیف و تدریس میں رکاوٹ تھی باوجودیکہ وہ علم فتویٰ کے مستقل فقیہ تھے رکاوٹیں یقیناً واقع ہوئیں ان کے ذکر کی ضرورت نہیں۔

اب ہم فقہاء کرام کے حالات سے وہ باتیں ذکر کرتے ہیں جن سے تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ جو کچھ ہم نے ذکر کیا وہ ان لوگوں پر طعن نہیں بلکہ ان لوگوں پر طعن ہے جنہوں نے ان کے مذاہب کو اپنا کر اپنے آپ کو ان کا پیروکار ظاہر کیا حالانکہ یہ لوگ اپنے اعمال و عادات میں ان کے مخالف ہیں۔

وہ فقہاء کرام جو فقہ میں سردار اور مخلوق کے قائد تھے یعنی مذاہب کے سلسلے میں ان کی اتباع کرنے والے زیادہ ہیں وہ پانچ حضرات ہیں۔

حضرت امام شافعیؒ، حضرت امام مالکؒ، حضرت امام احمد بن حنبلؒ حضرت امام ابو حنیفہؒ اور حضرت سفیان ثوری رحمہم اللہ ان میں سے ہر ایک عابد و زاہد اور علوم آخرت کا عالم تھا۔ دنیا میں لوگوں کی بھلائی کی سمجھ رکھتا تھا اور اپنی فقہ سے اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتا تھا۔ یہ پانچ عادات ہیں لیکن ہمارے زمانے کے فقہاء نے ان سب میں سے ایک کو اختیار کر لیا یعنی فقہ کی فروعات میں استعداد اور مبالغہ، اس لیے کہ باقی چار عادات کا تعلق آخرت سے ہے اور یہ ایک خصلت دنیا اور آخرت دونوں کے لیے ہے اگر اس سے آخرت کا ارادہ کیا جائے تو دنیا کے لیے اس کی بھلائی کم ہو جاتی ہے۔ انہوں نے اس سے دنیا کا قصد کیا اور ان ائمہ سے مشابہت کا دعویٰ کیا، لوہار کو فرشتوں پر قیاس کرنا افسوس ناک ہے۔

اب ہم ان ائمہ کرام کے وہ حالات زندگی بیان کرتے ہیں جن سے ان چار خصلتوں کا پتہ چلے ورنہ فقہ میں ان کا تعارف ظاہر ہے۔

حضرت امام شافعی رحمہ اللہ | حضرت امام شافعی رحمہ اللہ کے عابد ہونے پر دلیل یہ ہے کہ آپ نے رات کو تین حصوں میں تقسیم فرمایا تھا ایک تہائی علم کے لیے، دوسری تہائی عبادت اور تیسری نیند

کے لئے۔ حضرت بربیع فرماتے ہیں۔

حضرت امام شافعی رحمہ اللہ رمضان شریف میں نماز میں ساٹھ مرتبہ قرآن پاک ختم کرتے تھے۔

آپ کے ایک شاگرد حضرت ابو یطی فرماتے ہیں کہ آپ رمضان شریف میں روزانہ ایک قرآن پاک ختم کرتے تھے۔

حضرت حسن کراہی فرماتے ہیں۔ دو میں نے حضرت امام شافعی رحمہ اللہ کے ساتھ کئی راتیں گزاری ہیں آپ تقریباً رات کا تہائی حصہ نماز پڑھتے اور میں نے دیکھا کہ آپ پچاس آیات سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے اگر کبھی زیادہ پڑھتے تو ایک سو آیات ہوتیں۔

آپ جب بھی کسی آیتِ رحمت پر پہنچتے تو اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے اور تمام مومنین و مسلمین کے لیے رحمت کا سوال کرتے اور جب بھی ایسی آیت پڑھتے جس میں عذاب کا ذکر ہو تا تو پناہ مانگتے اور اپنے لیے نیز تمام مومنوں کے لیے نجات کا سوال کرتے گویا آپ کے لیے امید اور خوف کو جمع کر دیا گیا تھا۔

تو دیکھو ان کا پچاس آیات پر اکتفا کرنا کس طرح اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ آپ قرآن پاک کے اسرار و رموز میں غوطہ زن ہوتے اور ان میں غور و فکر کرتے تھے۔

حضرت امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں نے سولہ سال سے سیکر ہو کر نہیں کھایا کیوں کہ پیٹ کا بھر جانا بدن کو بھاری کر دیتا ہے، دل کو سخت کرتا ہے، دانائی کو زائل کرتا اور نیند پیدا کرتا اور اس شخص کو عبادت میں کمزور کر دیتا ہے تو شکم سیری کی آفات کے سلسلے میں ان کی حکمت پر غور کیجئے۔ پھر عبادت میں ان کی مشقت کو دیکھیں کیونکہ انہوں نے اسی کے لیے شکم سیری کو ترک کیا حقیقت یہی ہے کہ عبادت کی اصل کم کھانا ہے حضرت امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا میں نے کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے نام کی قسم نہیں کھائی نہ سچی اور نہ چھوٹی۔ تو اندازہ کیجئے وہ اللہ تعالیٰ کی توقیر و تعظیم کا کس قدر خیال فرماتے تھے اور یہ کس بات کی دلیل کہ وہ اللہ تعالیٰ کے جلال کا علم رکھتے تھے۔

حضرت امام شافعی رحمہ اللہ سے ایک مسئلہ پوچھا گیا تو آپ خاموش رہے عرض کیا گیا اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے آپ جواب نہیں دیتے۔

فرمایا میں اس وقت تک جواب نہیں دوں گا جب تک مجھے معلوم نہ ہو جائے کہ میری خاموشی میں بہتری ہے یا جواب دینے میں۔

تو دیکھئے آپ اپنی زبان کی کس قدر حفاظت فرماتے تھے حالانکہ فقہاء کرام پر تمام اعضاء سے زیادہ یہی مسلط ہے اور یہی ان کے ضبط و قابو سے زیادہ باہر ہو جاتی ہے اسی بات سے واضح ہوا کہ آپ کا بولنا یا خاموش رہنا دونوں کا مقصد فضیلت و ثواب کا حصول تھا۔

حضرت احمد بن یحییٰ بن وزیر فرماتے ہیں ایک دن حضرت امام شافعی رحمہ اللہ قندیلوں کے بازار سے نکلے تو ہم آپ کے پیچھے پیچھے چلے پڑے تو دیکھا کہ ایک شخص کسی اہل علم کو بہودہ باتیں کہتا تھا۔ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا شخص کلامی سے اپنے کانوں کو پاک رکھو جیسے تم اپنی زبانوں کو برے کلام سے پاک رکھتے ہو کیونکہ رقصہ آسنے والا کہنے والے کے ساتھ شریک ہوتا ہے بیوقوف آدمی اپنے برین (مغز) میں سے سب سے بڑی بات تمہارے برتنوں (دماغوں) میں

میں ڈانٹنے کی عرض کرتا ہے اگر بیوقوف کی بات کو اسی کی طرف لوٹا دیا جائے (یعنی نہ سنا جائے) تو لوٹانے والا نیک بخت ہوتا ہے جیسے اس کا قائل بد بخت ہوتا ہے۔

حضرت امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ”ایک دانہ دوسرے عقل مند کی طرف لکھا کہ تجھے علم دیا گیا ہے لہذا تو اپنے علم کو گناہوں کی سیاہی سے میدا نہ کر اس طرح تم اس دن اندھیرے میں رہو گے جب علم والے اپنے علم کی روشنی میں چلیں گے۔ آپ کا نہ ہذا اس طرح تھا آپ فرماتے ہیں ”جس نے دعویٰ کیا کہ اس نے دنیا کی محبت اور اپنے خالق کی محبت کو دل میں جمع کر لیا ہے تو اس نے جھوٹ بولا ہے۔“

حضرت حمیدی فرماتے ہیں حضرت امام شافعی رحمہ اللہ ایک دفعہ کچھ حکام کے ہمراہ عین کی طرف تشریف لے گئے تو دس ہزار درہموں کے ساتھ مکہ مکرمہ کی طرف لوٹے مکہ مکرمہ سے باہر آپ کے لیے ایک خیمہ نصب کیا گیا لوگ آپ کے پاس آنے لگے تو آپ اس وقت تک وہاں سے نہ ہٹے جب تک وہ تمام درہم تقسیم نہ کر دیئے۔ ایک مرتبہ آپ حمام سے نکلے تو حمام والے کو بہت مال دیا، ایک دفعہ آپ کا عصا مبارک ہاتھ سے گر گیا ایک آدمی نے اٹھا کر آپ کو دیا تو آپ نے اسے بدلے میں سچاں دینا عطا فرمائے۔

حضرت امام شافعی رحمہ اللہ کی سخاوت اس قدر معروف ہے کہ بیان کی حاجت نہیں اور زہد کی بنیاد سخاوت ہے کیوں کہ جو شخص کسی چیز کو پسند کرتا ہے وہ اسے روک لیتا ہے جدا نہیں کرتا اور وہی شخص مال کو جدا کرتا ہے جس کی نگاہ میں دنیا حقیر ہو اور زہد کا یہی مطلب ہے۔

آپ کے مضبوط زہد، اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ ڈرنے اور اپنی ہمت کو آخرت میں مشغول رکھنے پر یہ روایت دلالت کرتی ہے کہ حضرت سفیان بن عیینہ نے رقتِ قلبی کے بارے میں ایک حدیث حضرت امام شافعی رحمہ اللہ کے سامنے ذکر کی تو ان پر غشی طاری ہو گئی حضرت سفیان سے عرض کیا گیا کہ یہ تو انتقال کر گئے انہوں نے فرمایا اگر ان کا انتقال ہو گیا تو زمانے کا افضل انسان فوت ہوا۔

حضرت عبد اللہ بن محمد بلوی سے منقول ہے فرماتے ہیں میں اور حضرت عمر بن نباتہ بیٹھے ہوئے اللہ تعالیٰ کے بندوں اور پرہیزگار لوگوں کا ذکر کر رہے تھے تو حضرت عمر بن نباتہ نے مجھ سے کہا میں نے حضرت محمد بن اور بس شافعی سے زیادہ پرہیزگار اور فصیح نہیں دیکھا میں، امام شافعی اور حارث بن لیث صفائی طرف گئے حضرت حارث صالح (مرحوم) کے شاگرد تھے انہوں نے قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیا وہ نہایت خوش آواز تھے، انہوں نے یہ آیت پڑھی،

”یہ وہ دن ہے جب لوگ باتیں نہیں کریں اور نہ انہیں
عذر پیش کرنے (توبہ کرنے) کی اجازت ہوگی“

”هَذَا يَوْمٌ لَا يَنْطِقُونَ وَلَا يُؤَدُّونَ كَهَمًا“

تَبَعْتَهُمْ يَوْمَئِذٍ (۱)

(۱) قرآن پاک سورہ المرسلات آیت ۳۵-۳۶

میں نے دیکھا حضرت امام شافعی رحمہ اللہ کے چہرے کا رنگ بدل گیا ان کے جسم پر بال کھڑے ہو گئے وہ بہت زیادہ ٹرپے اور بیہوش ہو کر گر پڑے، جب افاقہ ہوا تو کہنے لگے۔

”یا اللہ! میں جھوٹوں کے مقام سے اور غافل لوگوں کے منہ پھیرنے سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اسے اللہ! عارفین کے دل تیرے لیے جھک گئے اور شائق لوگوں کی گردنیں تیرے سامنے جھک گئیں یا اللہ! مجھے اپنے جو دو کرم سے حصہ عطا فرما اور مجھے اپنے پردہ کرم میں چھپالے اپنے لطف و کرم سے میری کوتاہیوں کو معاف فرما دے۔“

وہ فرماتے ہیں پھر آپ چلے اور ہم واپس لوٹ آئے جب میں بغداد میں پہنچا اور ان دنوں آپ عراق میں تھے تو میں نہر کے کنارے بیٹھا تاکہ نماز کے لیے وضو کروں کہ ایک آدمی میرے پاس سے گزرا اور اس نے کہا اسے لڑکے! اپنے وضو کو ٹھیک کر اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت میں تجھ سے اچھی طرح پیش آئے گا میں نے مڑ کر دیکھا تو ایک شخص ہے جس کے پیچھے ایک پوری جماعت ہے میں جلدی جلدی وضو کر کے ان کے پیچھے پیچھے ہو گیا انہوں نے میری طرف متوجہ ہو کر پوچھا تمہیں کوئی کام ہے؟ میں نے کہا جی ہاں جو کچھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سکھایا ہے اس میں سے کچھ مجھے بھی سکھا دیجئے انہوں نے فرمایا جان لو! جس نے اللہ تعالیٰ سے سچ کہا یا اس کی تصدیق کی، اس نے نجات پائی، اور جس نے اپنے دین کا خوف رکھا وہ تباہی سے بچ گیا۔ جس نے دنیا میں زبرد اختیار کیا تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ثواب دیکھے گا اس سے اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی۔ کیا میں تمہیں مزید نہ بتاؤں؟

میں نے عرض کیا جی ہاں بتائیے، فرمایا جس میں تین عادات ہوں اس کا ایمان مکمل ہو گیا جس نے اچھی بات کا حکم دیا اور اس پر خود بھی عمل کیا، بڑائی سے روکا اور خود بھی باز رہا اور اللہ تعالیٰ کی حدود کی حفاظت کی، کہا تمہیں کچھ اور نہ بتاؤں؟ میں نے عرض ہاں کیوں نہیں۔ فرمایا دنیا سے بے رغبت اور آخرت کا شوق رکھنے والا ہو جاہر کام میں اللہ تعالیٰ سے سچ کا معاملہ کر رہا ہے سچا جان، نجات پانے والوں کے ساتھ نجات پانے والے میں نے پوچھا یہ کون ہیں؟ تو لوگوں نے بتایا یہ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ ہیں۔

تو تم ان کے بیہوش ہو کر گرنے، اور پھر ان کے وعظ کو دیکھو یہ کس طرح ان کے زہد اور انتہائی درجے کے خوف پر دلالت کرتا ہے اور یہ خوف و زہد اللہ تعالیٰ کی معرفت کے بغیر حاصل نہیں ہوتا کیونکہ!

إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ۔
اللہ تعالیٰ سے وہی لوگ ڈرتے ہیں جو اس کی معرفت رکھتے ہیں۔ (۱)

حضرت امام شافعی رحمہ اللہ نے یہ خوف زہد زہد سچ سلم، اجارہ اور فقہ کے دوسرے ابواب سے حاصل نہیں کیا بلکہ یہ

علوم آخرت سے ہے جو قرآن پاک اور احادیث مبارکہ سے حاصل ہوتے ہیں کیوں کہ پہلوں اور پھلوں کی حکمتیں ان دونوں قرآن و حدیث میں پھری ہیں۔

اسرار قلب اور علوم آخرت سے ان کے تعلق کی پہچان ان اقوال سے ہوتی ہے جو ان سے منقول ہیں۔
 مروی ہے کہ آپ سے ریاکاری کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فی البدیہہ فرمایا ریاکاری ایک فتنہ ہے جسے خواہشاتِ نفس نے علماء کی قلبی آنکھوں کے سامنے لاکھڑا کیا ہے انہوں نے اس کی طرف نفس کی بری چاہت کے ساتھ ان کی طرف دیکھا تو ان کے اعمال ضائع ہو گئے۔

حضرت امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا جب تمہیں اپنے عمل پر خود پسندی ریاکاری کا ڈر ہو تو دیکھو کہ تم کس کی رضا چاہتے ہو، کس ثواب میں رغبت رکھتے ہو، کس عذاب سے ڈرتے ہو، کس عافیت کا شکر یہ ادا کرتے ہو، کس مصیبت کو یاد کرتے ہو جب تم ان باتوں میں سے کسی ایک کے بارے میں بھی سوچو گے تو تمہاری نگاہوں میں تمہارے اعمال حقیر نظر آئیں گے۔

تو دیکھو حضرت امام شافعی رحمہ اللہ نے ریاکاری کی حقیقت اور خود پسندی کا علاج کس انداز میں ذکر کیا اور یہ دونوں دل کی بڑی بڑی آفات ہیں سے ہیں۔

حضرت امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا جو شخص اپنے نفس کو نہیں پہچاتا اس کے علم نے اسے نفع نہیں دیا۔ آپ نے فرمایا جس نے علم کے سبب اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کی اسے اس کے بھید نے نفع دیا اور آپ نے فرمایا ہر شخص سے کوئی نہ کوئی محبت کرنے والا اور دشمنی رکھنے والا ہوتا ہے جب یہ صورت حال ہو تو تو ان لوگوں کا ساتھی بن جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں۔ روایت میں آیا ہے کہ حضرت عبدالقادر بن عبدالعزیز ایک نیک اور متقی شخص تھے وہ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ سے تقویٰ کے مسائل پوچھا کرتے تھے اور حضرت امام شافعی رحمہ اللہ ان کے تقویٰ کی وجہ سے ان کی طرف توجہ فرماتے۔

ایک دن انہوں نے حضرت امام شافعی رحمہ اللہ سے پوچھا صبر، امتحان اور طاقت و اختیار میں سے کون سی بات افضل ہے؟ آپ نے فرمایا اختیار اور طاقت انبیاء کرام علیہم السلام کا درجہ ہے، اور طاقت امتحان کے بعد ہی ہوتی ہے اور جب کسی کا امتحان ہوتا ہے تو وہ صبر کرتا ہے اور جب صبر کرتا ہے تو اسے قدرت دی جاتی ہے کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش کی پھر انہیں طاقت عطا فرمائی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آزمائش میں ڈالا پھر انہیں قوت دی حضرت سلیمان علیہ السلام کی آزمائش کی تو اس کے بعد انہیں طاقت دی اور بادشاہی عطا فرمائی قدرت بہترین درجہ ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ”ہم نے اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو زمین میں طاقت دی“ (۱) اور حضرت ایوب علیہ السلام

کو بہت بڑی آزمائش کے بعد طاقت عطا فرمائی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ”ہم نے انہیں ان کے گھروالے اور ان کے ساتھ ان کی مثل عطا کئے۔ (۱)

تو حضرت امام شافعی رحمہ اللہ کی طرف سے یہ کلام اسرار قرآن میں ان کے غوطہ زن ہونے پر دلالت کرتا ہے نیز یہ کہ انہیں انبیاء و اہل عظام میں سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ساکین کے مقامات سے آگاہی تھی اور یہ تمام باتیں علومِ آخرت سے تعلق رکھتی ہیں۔

حضرت امام شافعیؒ سے پوچھا گیا کہ آدمی کب عالم بنتا ہے؟

آپ نے فرمایا جب وہ کسی علم میں محقق بننے کے بعد دوسرے علوم کے درپے ہوتا ہے پھر وہ اس چیز کی طرف دیکھتا ہے جسے وہ نہیں پاسکا۔ تو اس وقت وہ عالم بن جاتا ہے، جالینوس سے پوچھا گیا کہ تم ایک بیماری کے لیے بہت سی دوائیاں دیتے ہو؟ اس نے کہا ان سب میں سے ایک ہی مقصود ہوتی ہے اس کے ساتھ دوسری دوائیاں اس کی گرمی کو ختم کرنے کے لیے ہوتی ہیں کیونکہ مفرد دوا قاتل ہے یہ اور اس قسم کی دوسری بے شمار مثالیں اللہ تعالیٰ کی معرفت اور علومِ آخرت کے سلسلے میں حضرت امام شافعی رحمہ اللہ کے مرتبہ کی بلندی پر دلالت کرتی ہیں۔

انہوں نے فقہ اور اس میں مناظرہ سے بھی اللہ تعالیٰ کی رضا تلاش کی ہے اس بات پر ان سے منقول یہ روایات دلالت کرتی ہیں فرمایا میں چاہتا ہوں کہ لوگ اس علم سے نفع اٹھائیں اور اس میں سے کچھ بھی میری طرف منسوب نہ ہو۔ تو دیکھو کس طرح آپ علم اور اس کے لیے طلبِ شہرت کی آفت سے آگاہ تھے اور کس طرح ان کا دل اس طرف متوجہ ہونے سے پاک تھا اور وہ خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا کی نیت کرتے تھے۔

حضرت امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ”میں نے کسی سے بھی مناظرہ کرتے ہوئے یہ نہیں چاہا کہ وہ غلطی کرے، اور فرماتے ہیں میں نے جس سے بھی کلام کیا اس کے لیے یہی خواہش کی ہے کہ اسے توفیق حاصل ہو وہ سیدھے راستے پر رہے اس کی مدد کی جائے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے حمایت و حفاظت حاصل رہے۔ اور میں نے جب بھی کلام کیا تو اس بات کی پرواہ نہیں کی کہ اللہ تعالیٰ میری زبان سے حق کو واضح کرتا ہے یا اس کی زبان سے۔ مزید فرماتے ہیں میں نے جس پر بھی حق اور دلیل پیش کی ہے اور اس نے مجھ سے قبول کیا تو میں اس کے سامنے جھک گیا اور اس کی محبت کا معتقد ہو گیا ہے، اور جس شخص نے بھی مجھ سے امرِ حق پر حق کے خلاف زبردستی کی اور دلیل کار دیا میری نگاہوں سے وہ گر گیا اور اس نے اسے چھوڑ دیا۔ تو یہ علامات اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ فقہ اور مناظرہ سے آپ کا مقصد محض اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا تھا۔ تو دیکھئے کس طرح لوگوں نے ان پانچ خصلتوں (اس سے پہلے ذکر ہو چکا ہے) میں سے صرف اس ایک خصلت پر ان کی اتباع

کی ہے پھر انہوں نے اس میں بھی ان کی مخالفت کی۔ اسی لیے حضرت ابو ثور رحمہ اللہ نے فرمایا میں نے اور کسی بھی دیکھنے والے نے حضرت امام شافعی رحمہ اللہ کی مثل نہیں دیکھا۔

حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں چالیس سال سے جو بھی نماز پڑھتا ہوں تو حضرت امام شافعی رحمہ اللہ کے لیے دعا مانگتا ہوں۔ دعا مانگنے والے کے انصاف اور جس کے لیے دعا مانگی گئی اس کے درجہ کو دیکھو پھر اس زمانے کے علماء کے حالات کا ان سے مقابلہ کرو ان کے درمیان بعض وعناد کو دیکھو تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ ان لوگوں کا ان حضرات کی اقتدا کا دعویٰ ناقص ہے حضرت امام احمد رحمہ اللہ کے زیادہ دعا مانگنے کے باعث ان کے صاحبزادے نے پوچھا یہ شافعی کون شخص ہے جس کے لیے آپ ہر وقت دعا مانگتے ہیں۔

حضرت امام احمد رحمہ اللہ نے فرمایا بیٹا! حضرت امام شافعیؒ دنیا کے لیے سورج کی طرح اور لوگوں کے لیے عافیت کا باعث تھے۔ تو دیکھو کیا ان دو باتوں میں کوئی ان کا نائب ہے۔ حضرت امام احمد رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے جو شخص بھی روایت کو ہاتھ لگاتا ہے۔ اس کی گردن پر حضرت امام شافعی رحمہ اللہ کا احسان ہے۔

حضرت یحییٰ بن سعید قطان نے فرمایا میں چالیس سال سے جب بھی نماز پڑھتا ہوں حضرت امام شافعی رحمہ اللہ کے لیے دعا مانگتا ہوں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان پر علم کے دروازے کھول دیے اور ان کو ان میں راہ صواب عطا فرمایا ہم نے آپ کے مختصر سے حالات یہاں کئے ورنہ وہ شمار سے بھی باہر ہیں ہم نے ان میں سے اکثر مناقب شیخ نصر بن ابراہیم مقدسی رحمہ اللہ کی کتاب سے نقل کیے ہیں جو انہوں نے حضرت امام شافعی رحمہ اللہ کے مناقب میں لکھی ہے اللہ تعالیٰ ان سے اور تمام مسلمانوں سے راضی ہو۔

حضرت امام مالک رحمہ اللہ | حضرت امام مالک رحمہ اللہ بھی ان پانچ حضائل کے زیور سے آراستہ تھے ان سے پوچھا گیا اے مالک! طلب علم کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا بہت اچھا ہے لیکن دیکھو جو شخص صبح سے شام تک تمہارا ساتھ نہ چھوڑے تم بھی اس کے ساتھ رہو۔ آپ علم دین کی خوب تعظیم کرتے تھے حتیٰ کہ جب کوئی حدیث شریف بیان کرنا چاہتے تو وضو فرما کر اپنی مسند کے صدر مقام پر تشریف فرما ہوتے داری کو کنگھی کرتے خوشبو لگانے پھر بڑے وقار اور ہیبت کے ساتھ بیٹھتے اس کے بعد حدیث شریف بیان فرماتے۔ اس سلسلے میں ان سے سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا میں حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کو پسند کرتا ہوں حضرت مالک رحمہ اللہ نے فرمایا علم ایک نور ہے اللہ تعالیٰ جہاں چاہتا ہے اسے رکھتا ہے یہ کثرت روایات سے نہیں ہوتا آپ کی طرف سے (علم دین کا) یہ احترام و توقیر اس بات پر دلالت ہے کہ آپ کو جلالِ خداوندی کی نہایت قوی معرفت حاصل تھی۔ آپ نے علم سے رخصتے خداوندی کا ارادہ فرمایا تھا اس بات پر آپ کا یہ قول دلالت کرتا ہے آپ نے فرمایا ”دین میں جھگڑے کی کوئی حیثیت نہیں“ اور اس بات پر حضرت امام شافعی رحمہ اللہ کا یہ قول دلالت کرتا ہے فرماتے ہیں میں حضرت امام مالک

کے پاس حاضر تھا آپ سے اڑتالیس مسائل کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے ان میں بتیس مسائل کے بارے میں فرمایا "مجھے معلوم نہیں" اور جو شخص علم سے غیر خدا کی رضا چاہتا ہے اس کا نفس اسے اس بات کا اقرار نہیں کرنے دیتا کہ وہ کچھ نہیں جانتا۔ اسی لیے حضرت امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا جب علماء کا ذکر کیا جائے تو امام مالک رحمہ اللہ خیمہ ثاقب رکھتے ہوئے ستارے ہیں اور مجھ پر امام مالک سے بڑھ کر کسی نے احسان نہیں کیا۔

ایک روایت ہے کہ (عباسی خلیفہ) ابو جعفر منصور نے امام مالک رحمہ اللہ کو مکہ (مجبور کئے گئے شخص) کی طلاق کے بارے میں روایت حدیث سے روک دیا پھر ایک شخص کو حقیقہ طور پر آپ کے پاس بھیجا کہ وہ آپ سے یہ مسئلہ پوچھے انہوں نے لوگوں کے سامنے بیان فرمایا کہ جس شخص کو مجبور کیا گیا اس کی طلاق نہیں ہوتی (۱) ابو جعفر نے آپ کو کڑے لے لیکن آپ نے روایت حدیث کو نہ چھوڑا۔ حضرت امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا جو شخص حدیث کے بیان میں سچا ہوتا ہے اور جھوٹ نہیں پونتا اسے عقل سے نفع حاصل ہوتا ہے اور بڑھا پے میں اس کی عقل خراب نہیں ہوتی اور نہ کوئی آفت پہنچتی ہے۔

آپ کی دنیا سے بے رغبتی پر یہ روایت دلالت کرتی ہے کہ امیر المومنین مہدی نے ان سے پوچھا کیا آپ کا کوئی مکان ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، لیکن میں متقرب تمہیں ایک حدیث سناؤں گا۔

میں نے حضرت ربیع بن ابو عبد اللہ حمل سے سنا وہ فرماتے تھے کہ آدمی کا نسب ہی اس کا مکان ہے، ہارون الرشید نے آپ سے پوچھا کیا آپ کا مکان ہے؟ فرمایا نہیں، اس نے آپ کو تین ہزار دینار دیئے اور کہا کہ آپ ان سے مکان خرید لیں آپ نے وہ دینار لے لئے لیکن ان کو خرچ نہ کیا جب ہارون الرشید نے مدینہ طیبہ سے واپسی کا ارادہ کیا تو حضرت امام مالک رحمہ اللہ سے عرض کیا کہ مناسب ہے آپ ہمارے ساتھ چلیں میں نے ارادہ کیا ہے کہ لوگوں کو موٹا امام مالک کی ترغیب دوں جیسے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو قرآن پاک کی ترغیب دی تو انہوں نے فرمایا لوگوں کو موٹا کی ترغیب دینے کی کوئی سبیل (ضرورت) نہیں کیوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد صحابہ کرام مختلف شہروں میں تشریف لے گئے اور انہوں نے احادیث بیان کیں لہذا ہر شہر والوں کے پاس علم موجود ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

اِخْتَلَفَتْ اُمَّتِي رَحْمَةً - (۲)

میرا امت کا اختلاف رحمت ہے۔

اور جہاں تک آپ کے ساتھ جانے کا تعلق ہے تو اس کی بھی کوئی صورت نہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

اَلْمَدِيْنَةُ خَيْرٌ لِّكُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُوْنَ - (۳)

مدینہ ان (لوگوں) کے لیے بہتر ہے اگر وہ جانتے۔

(۱) مکروہ (مجبور کئے گئے شخص) کی طلاق احناف کے نزدیک واقع ہو جاتی ہے ۱۲ ہزار ہی۔

(۲) کنز العمال جلد ۱ ص ۱۲۶ حدیث نمبر ۲۸۹۸۶

(۳) صحیح بخاری جلد اول ص ۲۵۲ باب فضل المدینہ۔

آپ نے مزید فرمایا۔
 الْمَدِينَةُ تَنْفِي خَبثَهَا كَمَا يَنْفِي الْكَبِيرُ
 حَبَّتَ الْحَدِيدِ (۱)

”مدینہ میل کو اس طرح دور کرتی ہے جس طرح بھٹی لوہے
 کی میل کو دور کرتی ہے۔“

یہ تمہارے دینار جوں کے توں ہیں اگر تم چاہو تو لے لو اور چاہو تو چھوڑ دو تم نے اس عمل کے ذریعے مجھ سے مدینہ
 طیبہ چھوڑا نا چاہا تو میں مدینہ طیبہ پر دنیا کو ترجیح نہیں دوں گا۔

تو حضرت امام مالک رحمہ اللہ کی دنیا سے بے رغبتی کا یہ عالم تھا جب آپ کے شاگردوں اور علم کے پھیلنے کی وجہ سے
 آپ کے پاس دنیا بھر سے مال آنے لگا تو آپ اسے اچھے کاموں میں خرچ کر دیتے تھے۔ آپ کی یہ سخاوت آپ کے
 زہد اور دنیا سے بہت کم محبت پر دلالت کرتی ہے۔ زہد کا مطلب مال کا نہ ہونا نہیں بلکہ اس سے دل کی فراغت کا نام زہد
 ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام باوجود بادشاہی کے دنیا سے بے رغبت رہتے تھے۔ حضرت امام مالک رحمہ اللہ کی دنیا
 سے بے رغبتی پر حضرت امام شافعی رحمہ اللہ کی یہ روایت دلالت کرتی ہے وہ فرماتے ہیں میں نے حضرت امام مالک رحمہ اللہ
 کے دروازے پر خراسان کے گھوڑوں اور مصر کی خجروں کا ایک ایسا گلہ دیکھا کہ میں نے اس سے اچھا نہیں دیکھا تھا میں نے
 حضرت امام مالک رحمہ اللہ سے عرض کیا یہ کتنا خوبصورت ہے انہوں نے فرمایا اسے ابو عبد اللہ ایہ میزی طرف سے تمہارے
 لیے تحفہ ہے میں نے عرض کیا آپ اس میں سے ایک جانور اپنی سواری کے لیے رکھیں آپ نے فرمایا مجھے اللہ تعالیٰ سے
 جیا آتی ہے کہ میں اس مبارک مٹی کو جانور کے کھروں سے روٹوں جس میں اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں
 تو آپ کی سخاوت کا اندازہ کیجئے کہ آپ نے وہ تمام جانور ایک بار ہی دے دیئے نیز آپ خاکِ مدینہ طیبہ کی کس قدر عزت
 کرتے تھے۔

آپ کے علم کا مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا اور دنیا کو حقیر جانتا تھا اس بات پر یہ روایت دلالت کرتی ہے
 فرماتے ہیں میں ہارون الرشید کے پاس گیا تو اس نے مجھ سے کہا اسے ابو عبد اللہ! مناسب ہے کہ ہمارے پاس آپ کا
 آنا جانا ہے تاکہ ہمارے بچے آپ سے موطا کی سماعت کریں فرماتے ہیں میں نے کہا، اللہ تعالیٰ امیر کو عزت عطا کرے یہ علم
 تم لوگوں سے ہی نکلا ہے اگر تم اس کی تعظیم کرو گے تو یہ معزز ہوگا اور اگر تم اس کی تذلیل کرو گے تو اس کی عزت نہیں رہے گی
 لوگ علم کے پاس جایا کرتے ہیں علم لوگوں کے پاس نہیں جاتا۔ اس نے کہا آپ سچ فرماتے ہیں پھر اپنے بچوں کو حکم دیا کہ
 مسجد میں جا کر لوگوں کے ساتھ (موطا کی) سماعت کرو۔

حضرت امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ

حضرت امام ابوحنیفہ (نعمان بن ثابت) رحمہ اللہ بھی عابد، زاہد اور عارف باللہ تھے اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے اور اپنے علم سے صرف اس کی رضا چاہتے

تھے۔ حضرت ابن مبارک کی اس روایت سے آپ کی عبادت کا پتہ چلتا ہے وہ فرماتے ہیں حضرت امام ابوحنیفہ صاحبِ مروت اور بہت زیادہ نماز پڑھنے والے تھے حضرت حماد بن ابوسلمان فرماتے ہیں آپ رات بھر عبادت کرتے تھے۔ ایک روایت میں ہے آپ نصف رات عبادت میں گزارتے تھے ایک دن راستے سے گزر رہے تھے ایک شخص نے آپ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے دوسرے سے کہا یہ وہ شخص ہے جو تمام رات عبادت میں گزارتا ہے آپ فرماتے ہیں مجھے اس بات سے حیا آیا کہ اس بات پر میری تعریف کی جائے، جو مجھ میں نہیں پائی جاتی۔

آپ کے زہد کے بارے حضرت ربیع بن عاصم سے مروی ہے فرماتے ہیں مجھے زید بن عمر بن ہبیرہ نے بھیجا میں حضرت امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کو اس کے پاس لے گیا وہ آپ کو بیت المال کا سرگراں مقرر کرتا چاہتا تھا آپ نے انکار کیا تو اس نے آپ کو بیس کوڑے مارے۔ تو اندازہ کیجئے کہ آپ نے کس طرح اذیت برداشت کرنی لیکن حکومت کا منصب حاصل کرنے سے گریز کیا، حکم بن ہشام تقضی فرماتے ہیں حضرت امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں شام میں مجھ سے بیان کیا گیا کہ آپ، لوگوں میں بہت بڑے امانت دار تھے، بادشاہ نے اپنے خزانے کی چابیاں آپ کے حوالے کرنے کا ارادہ کیا اور دھمکی دی کہ اگر انہوں نے انکار کیا تو وہ آپ کی پیٹھ پر کوڑے مارے گا۔

تو آپ نے اللہ تعالیٰ کے عذاب پر بادشاہ کی سزا کو ترجیح دی۔

ایک روایت میں ہے کہ حضرت ابن مبارک کے پاس حضرت امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کا ذکر کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کیا تم ایسے شخص کا ذکر کرتے ہو جس کے سامنے دنیا اپنے تمام اطراف کے ساتھ پیش کی گئی لیکن اس نے اس سے گریز فرمایا۔ محمد بن شجاع سے بواسطہ ان کے بعض شاگردوں کے، مروی ہے فرماتے ہیں۔

حضرت امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ سے عرض کیا گیا کہ امیر المومنین ابو جعفر منصور نے آپ کے لیے دس ہزار درہموں کا حکم دیا ہے تو فرماتے ہیں حضرت امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ اس پر راضی نہ ہوئے جب وہ دن آیا جس میں اس مال کے ملنے کی توقع تھی تو آپ نے صبح کی نماز پڑھی اور منہ لپیٹ لیا آپ نے کسی سے کلام نہ کیا۔ حسن بن قھیلہ کا نانا مذہ مال لے کر آیا جب آپ کے پاس داخل ہوا تو آپ نے گفتگو نہ فرمائی بعض حاضرین نے کہا کہ ہم سے بھی ایک ادھ بات ہی کرتے ہیں یعنی یہ آپ کی عادت ہے پھر کہا اس مال کو ایک قھیلی میں مکان کے ایک کونے میں رکھ دو۔ اس کے بعد حضرت امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ نے اپنے گھر کے تمام سامان کی وصیت کر دی اور اپنے صاحبزادے سے فرمایا جب میں انتقال کر جاؤں اور تم مجھے دفن کر دو تو اس کے بعد دس ہزار کی اس قھیلی کو حسن بن قھیلہ کے پاس لے جانا اور اسے کہنا اپنی یہ امانت جو تم نے امام ابوحنیفہ کے پاس رکھی تھی لے لو، آپ کے والد پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو وہ اپنے دین پر بہت حریص تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ

وعدہ نفا کی دعوت دی گئی، آپ نے فرمایا میں اس کی صلاحیت نہیں رکھتا پوچھا گیا کیوں؟
 آپ نے فرمایا اگر میں سچا ہوں تو واقعی صلاحیت نہیں رکھتا اور اگر جھوٹا ہوں تو جھوٹا شخص بھی قاضی بننے کا اہل نہیں۔
 طریقِ آخرت، امور دین اور معرفتِ خداوندی سے متعلق آپ کے علم پر آپ کی خشیتِ الہی اور دنیا سے بے رغبتی دلالت
 کرتی ہے ابن جریر فرماتے ہیں مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ تمہارا یہ نعمان بن ثابت کو فی اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ ڈرتا تھا حضرت
 شریک بھی فرماتے ہیں حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ بہت زیادہ خاموش رہتے اور ہمیشہ فکر میں مستغرق رہتے تھے اور لوگوں
 سے بہت کم باتیں کرتے یہ آپ کے علمِ باطنی اور امورِ دینیہ میں مشغولیت کی علامات ہیں جس شخص کو خاموشی اور زہد عطا کیا گیا اسے
 تمام علم دیا گیا۔
 یہ تین ائمہ کرام کے حالات سے ایک مختصر جائزہ ہے۔

حضرت امام احمد بن حنبل اور حضرت امام سفیان ثوری رحمہما اللہ تعالیٰ

حضرت امام احمد بن حنبل اور حضرت امام سفیان ثوری رحمہما اللہ کے
 متبعین ان تینوں کے مقلدین سے کم ہیں جب کہ حضرت سفیان ثوری کے مقلدین، حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی تقلید
 کرنے والوں سے بھی کم ہیں لیکن زہد و تقویٰ کے ساتھ ان دونوں حضرات کی شہرت اظہر من الشمس ہے۔
 یہ تمام کتاب ان کے افعال و اقوال کی حکایات سے بھری پڑی ہے لہذا اب تفصیل کی ضرورت نہیں پس تم ان تینوں اماموں
 کی سیرت پر غور کرو اور سوچو کہ دنیا، سے بے رغبتی اور اللہ تعالیٰ کے لیے خالص ہونے کے سلسلے میں یہ احوال، اقوال اور افعال
 محض فقہی فروعات کے علم کا نتیجہ ہے کہ بیع سلم، اجارہ، طہار، ایلا اور لعان وغیرہ کی معرفت حاصل ہو جائے بس۔ یا کسی اور
 علم کا نتیجہ ہے جو اسی سے نہایت اعلیٰ و اشرف ہے تو اب لوگوں کو دیکھو جو ان حضرات کی اقتداء کا دعویٰ کرتے ہیں کیا وہ اپنے
 دعویٰ میں سچے ہیں یا نہیں؟ (۱)

(۱) حضرت امام غزالی رحمہ اللہ کی اس تمام گفتگو کا حاصل یہ ہے کہ علم فقہ اور علم کلام ضروری ہیں لیکن ان علوم کو حاصل کرنے کے بعد ان
 سے متعلق بحثِ باعہ اور مناظرہ و مجادلہ میں ہی مصروف ہو جانا اور آخرت کو بھول جانا دنیا اور شہرت کی طلب کو ہی مقصود بنا لینا ان اکابر ائمہ
 کے راستے روگردانی ہے لہذا اس سے یہ نتیجہ نکالا جائے کہ معاذ اللہ حضرت امام غزالی رحمہ اللہ علم فقہ و کلام کے خلاف تھے

تیسرا باب

وہ علوم جن کو لوگ محسوس نہیں سمجھتے ہیں حالانکہ یہ ان علوم میں سے نہیں ہیں۔ نیز کس وجہ سے بعض علوم کبھی مذموم ہو جاتے ہیں؟ اسمائے علوم کی تبدیلی کا بیان مثلاً فقہ، کلام، توحید، تذکیر اور حکمت، نیز علوم شرعیہ کس قدر محمود اور کس قدر مذموم ہیں۔

شاید تم کہو کہ علم تو کسی چیز کی ماہیت کو جاننے کا نام ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ہے تو کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک چیز علم بھی ہو اور اس کے باوجود وہ مذموم بھی ہو؟ تو تمہیں جان لینا چاہیے کہ کوئی علم ذاتی طور پر قابلِ مذمت نہیں ہوتا بلکہ وہ بندوں کے حق میں تین اسباب میں سے کسی ایک سبب سے مذموم ہوتا ہے۔

علم مذموم کی علتِ مذمت

پہلا سبب:۔ وہ علم صاحبِ علم یا کسی دوسرے کو کچھ نہ کچھ نقصان پہنچاتا ہو۔ جیسے جادو اور طلسمات کے علم کی مذمت کی جاتی ہے حالانکہ یہ حق ہے اور اس پر قرآن پاک گواہ ہے۔ لیکن یہ میاں بیوی (وغیرہ) کے درمیان جدائی ڈالنے کا ذریعہ ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو کیا گیا جس کے باعث آپ علیل ہو گئے حتیٰ کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ کو اس کی اطلاع کی اور وہ جادو ایک کنویں کے اندر پتھر کے نیچے سے نکال لارا۔

جادو ایک قسم کا علم ہے جو جو اہر کے خواص اور ستاروں کے مطالعے (طلوع) میں حسابی امور کو جاننے سے حاصل ہوتا ہے ان جو اہر سے اس آدمی کی صورت پر ایک ہیکل (رُبت) بناتے ہیں، جس پر جادو کرنا مقصود ہوتا ہے۔ مطالعے میں سے کسی خاص وقت کا انتظار کیا جاتا ہے پھر اس پر کچھ کفریہ اور خشن کلمات پڑھے جاتے ہیں جو شریعتِ مطہرہ کے خلاف ہوتے ہیں اور اس کے ذریعے شیطانوں کی مدد حاصل کی جاتی ہے اور اس سب کے مجموعہ سے اللہ تعالیٰ کی عادت جاریہ کے تحت اس مسخوڑ شخص میں عجیب و غریب حالات پیدا ہو جاتے ہیں ان اسباب کی معرفت، بحیثیتِ علم، مذموم نہیں لیکن یہ تو صرف مخلوق کو فرزدینے ہی کی صلاحیت رکھتا ہے اور جو چیز، برائی کا وسیلہ ہو وہ بھی بری ہوگی۔ تو اس علم کے مذموم ہونے کی یہ وجہ ہے۔

بلکہ اگر کوئی ظالم اللہ تعالیٰ کے کسی ولی کو قتل کرنے کے ذریعے ہو اور وہ اس سے کسی محفوظ جگہ چھپ جائے جب ظالم اس کے بارے میں پوچھے تو اسے بتانا جائز نہیں بلکہ یہاں خلاف واقع بات کہنا واجب ہے حالانکہ اس جگہ

کے بارے میں بتانا رہنمائی کرنا اور کسی چیز کی حقیقت کے علم سے آگاہ کرنا ہے لیکن یہ اس لیے مذموم ہے کہ نقصان تک پہنچا دیتی ہے۔

دوسرا سبب : وہ علم صاحبِ علم کو عام طور پر نقصان پہنچاتا ہو جیسے علم نجوم، یہ علم ذاتی طور پر مذموم نہیں۔ اس کی دو قسمیں ہیں۔ ایک قسم حساب سے متعلق ہے قرآن پاک نے بتایا کہ سورج اور چاند کا چلنا حساب سے ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے :-

الشمس والقمر بحسبان (۱)

سورج اور چاند حساب سے چلتے ہیں

اور ارشاد فرمایا :-

وَالْقَمَرَ قَدْرًا مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْوَةِ الْقَدِيمَةِ (۲)

ہم نے چاند کے لیے منازل مقرر کی ہیں حتیٰ کہ وہ پرانی ٹہنی کی طرح لوٹتا ہے۔

دوسری قسم احکام کے لیے ضروری ہے۔ اور اس کا حاصل اسباب سے حوادث پر استدلال کرنا ہے اور یہ ایسے ہی ہے جیسے طبیب بنفص کے ذریعے بیماری کے پیدا ہونے پر دلیل پکڑتا ہے اور یہ مخلوق کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی عادتِ کریمہ کی معرفت ہے لیکن شریعت نے اس کی مذمت کی ہے۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :

إِذَا ذُكِرَ الْقَدَرُ فَأَمْسِكُوا، وَإِذَا ذُكِرَتِ النُّجُومُ فَأَمْسِكُوا، وَإِذَا ذُكِرَ أَصْحَابُ قَوْمِكُمْ فَأَمْسِكُوا (۳)

جب تقدیر کے بارے میں بحث ہو تو تم خاموش رہو جب ستاروں کے بارے میں گفتگو ہو تو تم خاموش ہو اور جب میرے صحابہ کرام کے بارے میں کوئی بحث ہو تو بھی خاموش رہو۔

نیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :-

أَخَافُ عَلَىٰ أُمَّتِي بَعْدِي ثَلَاثًا: حَبِطَ الزَّيْتُ وَالْإِيمَانُ بِالنُّجُومِ وَالشُّكُوكُ بِالْقَدْرِ (۴)

مجھے اپنی امت پر تین باتوں کا ڈر ہے (۱) حکمرانوں کا ظلم کرنا (۲) ستاروں کا اعتقاد رکھنا اور (۳) تقدیر کو جھٹلانا

حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا ستاروں کے علم سے صرف اسی قدر سیکھو جس کے ذریعے تم خشکی اور سمندر میں راستہ پاؤ پھر رک جاؤ اس علم سے روکنے کی تین وجوہ ہیں۔

(۱) قرآن مجید سورہ رحمن آیت ۵ - ۲ قرآن مجید سورہ یسین آیت ۳۹

(۲) التمشید لابن البرجلد ۶ ص ۶۸ مرویات لذید بن سعد

(۳) کنز العمال جلد ۶ ص ۵۵ حدیث نمبر ۱۲۶۲۲

پہلی وجہ یہ ہے کہ یہ علم عام لوگوں کے لیے مضر ہے کیوں کہ جب ان کو بتایا جائے کہ یہ حالات ستاروں کی چال کا نتیجہ ہیں تو ان کے دل میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ ستارے ہی موثر ہیں، اور یہی تدبیر کرنے والے معبود ہیں۔ کیونکہ یہ عمدہ آسمانی اجسام ہیں، اس طرح دلوں میں ان کی عظمت بیٹھ جاتی ہے اور دل ان کی طرف ہی متوجہ ہو جاتا ہے اور بھلائی کی امید نیز برائی سے پرہیز کو انہی کی طرف سے سمجھتا ہے اور دل سے اللہ تعالیٰ کا ذکر مٹ جاتا ہے کیونکہ کمزور آدمی کی نظر و سائل پر ہوتی ہے جب کہ سچا عالم جانتا ہے کہ سورج، چاند اور ستارے امر خداوندی کے تابع ہیں۔

ضعیف شخص جو سورج نکلنے کے بعد اس کی روشنی کو دیکھتا ہے اس کی مثال اس چوٹی جیسی ہے کہ اگر اس کے لیے عقل پیدا کر دی جائے اور وہ ایک کاغذ پر ہوتو وہ تحریر کی روشنائی کو دیکھتی ہے تو اس کا اعتقاد صرف اتنا ہوگا کہ یہ قلم کا ہی فعل ہے اس کی نظر قلم سے انگلیوں تک اور ان سے ہاتھ تک پھروہاں سے ہاتھ کو حرکت دینے والے کے ارادے تک پھراس سے اس کا تب تک جو لکھنے پر قادر ہے اور ارادہ بھی کرتا ہے، وہاں سے ہاتھ، طاقت اور ارادے کے خالق تک نہیں جاتی تو مخلوق کی نظر عام طور پر نکلے درجے کے ان اسباب تک جاتی ہے جو قریب ہیں وہ اسباب کو پیدا کرنے والے تک نہیں پہنچتی علم نجوم سے روکنے کی ایک وجہ تو یہ ہے اور دوسری وجہ یہ ہے کہ نجوم کے احکام محض اندازے اور تخمینے کی بنیاد پر ہوتے ہیں ہر فرد خاص کے بارے میں نہ تو یہ یقینی ہوتے ہیں اور نہ ہی قطعی، تو گویا ان کے ساتھ حکم لگانا جہالت پر حکم نافذ کرنا ہے۔ اس صورت میں اس کی مذمت اس لیے ہے کہ یہ جہالت ہے علم ہونے کی وجہ سے نہیں حالانکہ یہ علم حضرت ادریس علیہ السلام کا معجزہ تھا جیسے متقول ہے۔ اب یہ علم ختم ہو گیا اور مٹ گیا۔ اب اگر کسی نجومی کی بات سنی ہوتی ہے تو وہ نادر اور اتفاقی ہوتی ہے کیوں کہ منجم بعض اوقات کچھ اسباب پر مطلع ہوتا ہے لیکن اس کے بعد مسبب بہت سی ایسی شرائط کے بعد حاصل ہوتا ہے جن کے خالق سے آگاہی بشری طاقت سے باہر سے اگر ایسا اتفاق ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ باقی اسباب کو بھی مقدر فرما دے تو اس کا قول درست ہو جاتا ہے اور اگر مقدر نہ فرمائے تو غلطی ہو جاتی ہے، اور یہ انسان کے اندازے کی طرح ہے کہ بعض اوقات بادلوں کو دیکھ کر جو جمع ہوتے ہیں اور پہاڑوں سے اٹھتے ہیں، اندازہ لگاتا ہے کہ آج بارش برسنے گی لیکن عام طور پر اس کے بعد سورج نکل آتا ہے اور بادل غائب ہو جاتے ہیں اور بعض اوقات اس کے خلاف بھی ہو جاتا ہے بارش برسنے کے لیے محض بادلوں کا ہونا کافی نہیں جب تک باقی اسباب کا علم نہ ہو اسی طرح علاج اندازہ لگاتا ہے کہ عادت کے طور پر کشتی ہواؤں سے محفوظ رہے گی لیکن ان ہواؤں کے لیے کچھ خفیہ اسباب ہیں جن پر وہ مطلع نہیں ہوتا تو یوں کبھی اس کا اندازہ ٹھیک ہو جاتا ہے اور کبھی غلط۔ اسی وجہ سے مضبوط عقیدے والے کو بھی علم نجوم سے منع کیا گیا۔

مذمت کا) کی تیسری وجہ یہ ہے کہ اس علم کا فائدہ کوئی نہیں سب سے کم بات یہ ہے کہ اس میں غور و خوض کرنا فضول اور بے مقصد بات کو سوچنا ہے نیز اپنی زندگی کو جو انسان کی بہترین پونجی ہے، بے فائدہ چیز پر ضائع کر دینا ہے اور

یہ انتہائی درجہ کا نقصان ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کے پاس سے گزرے تو اس کے پاس لوگ جمع تھے آپ نے فرمایا یہ کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا یہ بہت بڑا عالم ہے فرمایا کس چیز کا؟ انہوں نے کہا شعر گوئی اور عرب کے نسبوں کا آپ نے فرمایا:-

یہ ایسا علم ہے جس کا کوئی نفع نہیں اور ایسی جہالت ہے جس کا کوئی نقصان نہیں۔

عِلْمٌ لَا يَنْفَعُ وَجَهْلٌ لَا يَضُرُّ (۱)

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:-

علم تو آیات محکمات یا سنت قائمہ یا عدل پر مبنی فریضہ ہے۔

إِنَّمَا الْعِلْمُ آيَةٌ مُحْكَمَةٌ أَوْ سُنَّةٌ قَائِمَةٌ أَوْ فَرِيضَةٌ عَادِلَةٌ (۲)

تو اب ستاروں میں غور و خوض کرنا یا جو اس کے مشابہ ہے خطرے میں پڑنا ہے، اور جہالت میں بے مقصد مشغول ہونا ہے کیوں کہ جو کچھ مقدر ہے وہ ہو کر رہے گا اور اس سے بچنا ناممکن ہے، بخلاف طب کے کہ اس کی ضرورت پڑتی ہے اور اس کے اکثر دلائل پر اطلاع ہو جاتی ہے اسی طرح علم تبیر بھی فائدہ مند ہے اگرچہ وہ بھی ایک اندازہ ہی ہے لیکن وہ نبوت کا چھیا لیسواں حصہ ہے اور اس میں کوئی خطو نہیں۔

تیسرا سبب:- کسی علم میں آدمی کا یوں مشغول ہونا کہ وہ اس کو علم کا فائدہ نہیں دیتا تو وہ اس کے حق میں مذموم ہے جیسے علوم کی ظاہر اور اعلیٰ باتوں کو جاننے سے پہلے اس کی باریکیوں اور پوشیدہ باتوں کو سمجھنا، اسماءِ خداوندی میں بحث مباحثہ کرنا کیونکہ فلاسفہ اور متکلمین نے ان پر اطلاع کی کوشش کی لیکن وہ ان تک رسائی حاصل نہ کر سکے اور حقیقت تو یہ کہ ان تک رسائی اور ان میں سے بعض کے طریقوں پر اطلاع انبیاء کرام و اولیاء عظام کے علاوہ کسی کو نہیں ہو سکتی لہذا لوگوں پر واجب ہے کہ ان پر بحث کرنے سے گریز کریں اور جس قدر شریعت میں وارد ہے اس کی طرف رجوع کریں تو فقیہ یا فاضل شخص کے لیے اتنا ہی کافی ہے کتنے ہی لوگ ہیں جنہوں نے علوم میں غور و خوض کیا لیکن نقصان اٹھایا اور اگر ان میں مشغول نہ ہوتے تو اس کی نسبت دین میں اچھی حالت میں ہوتے اور علم کے بعض لوگوں کے لیے نقصان وہ ہونے کا کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا جس طرح یرزدے کا گوشت، اور لطیف سلوہ کی بعض اقسام دودھ پیتے پیتے بچے کو نقصان دیتی ہیں بلکہ کچھ لوگوں کو بعض امور سے ان کی جہالت نفع دیتی ہے۔ چنانچہ ایک حکایت ہے ایک شخص نے طبیب سے اپنی بیوی کے بانجھ ہونے کی شکایت کی کہ اس کے ہاں بچہ پیدا نہیں ہوتا طبیب نے اس کی نبض تلاش کی اور کہا تجھے اب بچہ پیدا کرنے کی دوائی کی ضرورت نہیں کیونکہ تیری نبض سے

(۱) کنز العمال جلد ۱۰ ص ۲۸۰ حدیث نمبر ۲۹۴۲۳

(۲) سنن ابی داؤد جلد ۲ ص ۴۴ کتاب الفرائض

معلوم ہوتا کہ تو چالیس دن میں مر جائے گی، عورت بہت زیادہ خوف زدہ ہو گئی اور اس کی زندگی تنگ ہو گئی اس نے اپنا مال نکالا اسے تقسیم کیا اور وصیت کی اور باقی وقت کھانے پینے کے بغیر گزارا حتیٰ کہ وقت پورا ہو گیا لیکن اس کی موت واقع نہ ہوئی اس کا خاوند طبیب کے پاس آیا اور کہا کہ اس کی وفات نہیں ہوئی طبیب نے کہا مجھے یہ بات معلوم تھی اب تو اس سے جماع کر بچہ پیدا ہوگا اس نے کہا وہ کس طرح؟ اس نے کہا میں نے دیکھا کہ وہ موٹی تھی اور اس کے رحم کے منہ پر چربی چڑھی ہوئی تھی مجھے معلوم تھا کہ یہ چربی صرف موت کے خوف سے کمزور ہو سکتی ہے تو میں نے اسے ڈرایا حتیٰ کہ وہ دہلی تیلی ہو گئی اور بچے کی ولادت سے رکاوٹ ختم ہو گئی۔ تو اس سے تمہیں معلوم ہو گیا کہ بعض علوم نقصان دہ ہوتے ہیں اور اس سے تمہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد گرامی کا مطلب بھی سمجھ آ گیا۔ آپ نے فرمایا:-

تَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ (۱)

”ہم غیر نافع علم سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتے ہیں“

اس حکایت سے سبق سیکھو اور ایسے علوم میں بحث نہ کرو جن کو شریعت نے مذموم قرار دیا اور ان سے روکا، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی اقتدار کرو اور اتباع سنت پر کفایت کرو سلامتی، اتباع میں ہے اور اشیاء میں بحث و تحقیق میں خطرہ ہے اپنی رائے، عقل، دلیل اور برہان کے ذریعے جھگڑا لونا نہ بنو۔

اور تمہارا یہ خیال کہ میں تو اس لیے بحث کرنا ہوں کہ اشیاء کی ناپیت معلوم کروں۔

لہذا علم میں غور و فکر سے کیا نقصان ہوتا ہے تو رجاں کو کہہ، اس کا جو نقصان تمہاری طرف لوٹے گا وہ بہت زیادہ ہے اور کتنی ہی ایسی چیزیں ہیں کہ ان پر تمہارا مطلع ہونا ایسے نقصان کا باعث ہے جو تمہیں آخرت میں ہلاک کر دے گا اگر اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی رحمت سے بچانے لے۔

اور رجاں لو کہ جن طرح ماہر طبیب علاج کے سلسلے میں پوشیدہ باتوں پر مطلع ہوتا ہے اور جسے یہ علم حاصل نہیں وہ ان باتوں کو بعید سمجھتا ہے اسی طرح انبیاء کرام علیہم السلام دلوں کے طبیب اور اخروی اسباب کے عالم ہیں لہذا تم اپنی عقل کو ان کی سنتوں پر فوقیت نہ دو۔ اس طرح ہلاک ہو جاؤ گے کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جنہیں انگلی میں تکلیف پہنچی ہے تو اس کی عقل چاہتی کہ اس پر لپک کرے یہاں تک کہ ماہر طبیب بتاتا ہے کہ وہ بھٹی کی دوہر کا طرف لپک کرے تو یہ شخص اسے عقل کے بہت زیادہ خلاف جانتا ہے کیوں کہ وہ اعصاب کے ٹھوٹنے اور نکلنے کی جگہ سے ناواقف ہوتا ہے اس کی توجہ ظاہری بدن پر ہوتی ہے طریقی آخرت کا معاملہ بھی اسی طرح ہے شریعت کے طریقوں اور آداب اور لوگوں کے لیے مقرر کردہ عقائد میں وہ اصرار و لطافت میں کہ انسانی عقل اور قوت ان کا احاطہ نہیں کر سکتی جیسے پتھروں کے خواص میں بعض عجیب باتیں ہیں کہ اہل فن سے بھی پوشیدہ ہیں حتیٰ کہ کوئی شخص اس بات سے آگاہ نہ ہو سکا کہ مفاطیس لوسے کو کس وجہ سے کھینچتی ہے تو عقائد و اعمال میں عجیب و غریب

باتیں اور دلوں کی طہارت، پاکیزگی اور تزکیہ اور ان کی اصلاح جو اللہ تعالیٰ کے قرب کا باعث ہے اور اس سے اس کے فضل کی خوشبوؤں کے حصول ہوتا ہے ان کا مفید ہونا دو ایوں اور جڑی بوٹیوں کے عجائبات و اسرار سے بھی زیادہ ہے، تو جس طرح دو ایوں کے منافع کو سمجھنے سے عقل قاصر ہے حالانکہ تجربہ وہاں تک پہنچاتا ہے تو عقل اس چیز کو سمجھنے سے بھی قاصر ہے جو آخری زندگی میں فائدہ دیتی ہے جب کہ یہاں تجربہ بھی نہیں ہو سکتا۔

یہاں تجربہ تب ہو سکتا تھا جب کچھ فوت شدہ لوگ ہماری طرف لوٹتے اور ہمیں ان نیک اعمال کے بارے میں بتاتے جو مقبول ہوئے اور اللہ تعالیٰ کے قرب کا باعث ہیں اور ان اعمال کی خیر بھی دیتے جو اس سے دور رکھتے ہیں اسی طرح عقائد کے بارے میں بتاتے اور یہ وہ بات ہے جس کی امید نہیں ہو سکتی۔ تو تمہارے لئے عقل کا اتنا ہی نفع کافی ہے کہ وہ تمہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی راہ دکھائے اور آپ کے اشاروں کا مشاہدہ کرے، اس کے بعد عقل پر عمل چھوڑ دو اور اتباع کو اختیار کرو تمہاری سلامتی اسی اتباع اور تسلیم کرنے میں ہے اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

إِنَّ مِنَ الْعِلْمِ جَهْلًا وَإِنَّ مِنَ الْقَوْلِ عِيًّا (۱)

بعض علم، جہالت ہیں اور بعض باتیں محض تھکاوٹ ہیں،

اور یہ بات معلوم ہے کہ علم، جہالت نہیں ہو سکتا بلکہ وہ نقصان پہنچانے میں جہالت جیسا اثر کرتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا۔

قَلِيلٌ مِنَ التَّوْفِيقِ خَيْرٌ مِنْ كَثِيرٍ مِنَ الْعِلْمِ (۲)

کم توفیق، زیادہ علم سے بہتر ہے۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا درخت بہت ہیں لیکن سب پر پھل نہیں لگتا اور کس قدر پھل ہیں لیکن سب عمدہ نہیں اور کتنے زیادہ علوم ہیں لیکن سب نافع نہیں۔

الفاظِ علوم میں تبدیلی کا بیان

برے علوم، علوم شرعیہ میں اس لیے مل جلی گئے کہ (بعض) لوگوں نے اپنی بڑی اغراض کے تحت علوم محمودہ کے نام تبدیل کر کے ان سے وہ معانی مراد لئے جو صالحین نیز دروہوں کے لوگوں کی مراد سے متضاد ہیں اور سچا لفظ ہے۔ فقہ، علم، توحید، تذکیر اور حکمت یہ اچھے نام ہیں اور جو لوگ ان سے متصف ہیں انہیں دین میں اعلیٰ مقام حاصل ہے لیکن اب یہ الفاظ مذموم معانی کی طرف منتقل کر دیئے گئے اور چونکہ یہ نام ان لوگوں پر پورے جاتے تھے لہذا اب جو لوگ ان سے متصف ہیں ان کی مذمت سے دلوں کو نفرت ہوتی ہے۔

فقہ۔ پہلا لفظ فقہ ہے اسے دوسرے معنی کی طرف منتقل تو نہیں کیا گیا لیکن اس میں تخصیص کر دی گئی یعنی جو

لوگ فتاویٰ کے عجیب و غریب فروع کی معرفت رکھے ہیں، ان کی باریک غلتوں سے واقف ہیں اور اس سلسلے میں بہت زیادہ گفتگو کرتے ہیں اور ان سے متعلق مقالات کو یاد کرتے ہیں انہیں فقہ کے ساتھ مخصوص کر دیا گیا ہے پس جو شخص اس میں زیادہ شور و فکر کرتا ہے اور اس میں بہت مشغول ہوتا ہے اسے رفقہ بہت بڑا فقیہ کہا جاتا ہے۔

حالانکہ پہلے زمانہ میں فقہ کا لفظ مطلقاً طریق آخرت کے علم نفوس کی آفتوں کی باریکیوں اور اعمال کو کوفہ کرنے والے امور کی معرفت دنیا کی حقارت سے خوب واقف ہونے یا آخرت کی نعمتوں سے اچھی طرح مطلع ہونے اور دل پر خوں چھائے رہنے پر بولا جاتا تھا۔

اس بات پر اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد گرامی دلالت کرتا ہے۔

لِيَنْفَقَهُمْ فِي الدِّينِ وَيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ
اِذَا رَجَعُوا اِلَيْهِمْ (۱)

اور چاہیے کہ وہ دین کی سمجھ حاصل کریں اور جب اپنی قوم کی طرف لوٹیں تو ان کو ڈرائیں۔

تو جس پیر سے ڈرنا اور خوف دلانا پایا جائے وہ فقہ ہے طلاق، عتاق (غلام آزاد کرنا) لعانِ مسلم اور اجارہ کے فروعی مسائل فقہ نہیں، کیونکہ ان امور سے ڈرنا اور خوف دلانا نہیں پایا جاتا کہ بلکہ ہمیشہ اسی کے ذریعے ہونے سے دل سخت ہو جاتا ہے اور اس سے خشیت نکل جاتی ہے جیسا کہ اب ہم ان لوگوں کا مشاہدہ کرتے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو ان مسائل کے لیے وقف کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے۔

لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا۔ (۲)

ان کے دل ہیں لیکن وہ ان کے ساتھ سمجھتے نہیں۔

اس سے مراد ایمان فتاویٰ نہیں۔ اور مجھے اپنی عمر کی قسم! لغت میں فقہ اور فہم دونوں ہم معنی ہیں گذشتہ دور میں اور آج بھی عادتاً یہ اسی حد معنی میں استعمال ہوتا ہے۔
اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا :-

لَا تَنْتُمْ اِنَّكُمْ رَهْبَةٌ فِي صُدُورِهِمْ
اللہ (۳)

ابنہ ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی نسبت تمہارا ڈر زیادہ ہے کیوں کہ وہ قوم سمجھتی نہیں۔

تو مخلوق کے دبدبے کو بڑا سمجھنے اور اللہ تعالیٰ سے کم ڈرنے کی وجہ قنوت فقہ بتائی ہے۔ تو دیکھئے نیز کیا یہ فروعات فتاویٰ کو یاد نہ کرنے کا نتیجہ رہے یا ان علوم کے نہ ہونے کا جن کا ہم نے ذکر کیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جو لوگ حاضر ہوتے تھے ان سے فرمایا :-

(۱) قرآن مجید سورہ توبہ آیت ۱۲۲، (۲) قرآن مجید سورہ اعراف آیت نمبر ۱۰۹،

(۳) قرآن مجید، سورہ خشر آیت ۱۳

عُلَمَاءُ حُكَمَاءُ فَطَمَاءُ (۱)

یہ لوگ اہل علم، دانا اور سمجھدار ہیں۔

حضرت سعد بن ابراہیم زہری سے پوچھا گیا "مدینہ طیبہ میں کون سب سے بڑا فقیہ ہے تو انہوں نے فرمایا "ان میں سے جو اللہ تعالیٰ سے زیادہ ڈرتا ہے" گویا انہوں نے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ فقہ کا نتیجہ تقویٰ ہے۔ اور تقویٰ، باطنی علم کا نتیجہ ہے تاوی اور فیصلوں کا نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

کیا میں تمہیں کامل فقہ کے بارے میں نہ بتاؤں؟ صحابہ کرام نے عرض کیا جی ہاں بتائیے۔ آپ نے فرمایا جو شخص لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یا یوس نہ کرے، نہ اللہ تعالیٰ کے فیضان کی تحفیہ تدریس سے بے خوف کرے، نہ اللہ تعالیٰ کے فیضان رحمت سے یا یوس کرے اور نہ ہی قرآن پاک کی بجائے کسی دوسری چیز میں رغبت کرتے ہوئے قرآن پاک کو چھوڑ دے۔

مَنْ لَمْ يَقْنَطِ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ وَكَمْ يُؤْتِنُهُمْ مِنْ مَكْرِ اللَّهِ وَكَمْ يُؤْشِرُهُمْ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ وَكَمْ يَدَعِ الْقُرْآنَ رَغْبَةً إِلَى مَا سِوَاهُ (۲)

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:-

مجھے صبح طلوع آفتاب تک اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے لوگوں کے ساتھ بیٹھا، چار غلام آزاد کرنے سے زیادہ پسند ہے۔

لَا أَنْ أَعْدَّ مَعَ قَوْمٍ يَذْكُرُونَ اللَّهَ تَعَالَى وَيَتَعَدَّوْنَ إِلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُعْتِقَ الرَّبْعَ رِقَابٍ (۳)

انہوں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ نے (زید رقاشی اور زید غیری کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا) "اِس وقت (مجلس ذکر تمہاری ان مجلسوں کی طرح نہ تھیں۔ کہ ایک شخص اپنے ساتھیوں کو وعظ سنا ہے اور بڑی روانی سے گفتگو کرتا ہے ہم تو بیٹھ کر ایمان کا تذکرہ کرتے قرآن پاک میں غور و فکر کرتے، دین کی سمجھ حاصل کرتے اور اپنے اور اللہ تعالیٰ کے انعامات کو شمار کرتے تو انہوں نے قرآن پاک میں غور و فکر اور انعامات الہیہ کے شمار کرنے کو فقہ قرار دیا۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:-

کوئی شخص اس وقت تک کامل فقیہ نہیں ہو سکتا جب تک وہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں لوگوں سے نفرت نہ کرے اور قرآن پاک کیلئے بہت سے معافی کا اعتقاد نہ رکھے۔

لَا يَفْقَهُ الْعَبْدُ كَيْلَ الْفَقْرِ حَتَّى يَمُتَ النَّاسَ فِي ذَاتِ اللَّهِ وَحَتَّى يَرَى لِلْقُرْآنِ وَجُوهًا كَثِيرَةً (۴)

(۲) کنز العمال جلد ۱ ص ۱۸۱ (۳) سنن ابی داؤد کتب العلم جلد ۲ ص ۱۶۰

(۴) جامع الاحادیث جلد ۹ ص ۴۱

یہ حدیث حضرت ابو درداد رضی اللہ عنہ سے موقوفاً بھی مروی ہے اور اس میں یہ اضافہ ہے۔

ثُمَّ يَقْبَلُ عَلَى نَفْسِهِ فَيَكُونُ لَهَا اسْتِثْنَاءً
 پھر وہ اپنے نفس کی طرف متوجہ ہو اور اس سے بہت زیادہ
 نفرت کرے۔

وَقَدْ (۱)

حضرت فرقد سخی نے حضرت حسن بصری رحمہ اللہ سے ایک بات کے بارے میں پوچھا انہوں نے جواب دیا تو حضرت فرقد نے عرض کیا کہ فقہاء آپ کے خلاف کہتے ہیں، حضرت حسن رحمہ اللہ نے فرمایا اسے فرقد بطور محبت فرقد کا اسم تصغیر استعمال کیا، صحیح تیری ماں گم پائے (یہ ایک محاورہ ہے) کیا تم نے اپنی آنکھوں سے کسی نقیبہ کو دیکھا ہے؟ نقیبہ تو وہ ہوتا ہے جو دنیا سے بے رغبت ہو، آخرت کی رغبت رکھتا ہے اپنے دین کی بصیرت رکھنے والا، اپنے رب کی ہمیشہ عبادت کرنے والا، پرہیزگار، مسلمانوں کی عزتوں سے اپنے نفس کو روکنے والا، ان کے احوال سے بچنے والا، اور ان کی جماعت کا خیر خواہ ہوتا ہے۔

ان تمام باتوں کے ساتھ یہ نہیں فرمایا کہ وہ فتاویٰ کے فروعی مسائل کا حافظ ہو، میں یہ نہیں کہتا کہ ظاہری احکام کے فتاویٰ پر فقہ کا اطلاق نہیں ہوتا بلکہ یہ بطور عموم یا بالشیعہ ان کو بھی شامل ہوتا ہے اسلاف کرام عام طور پر یہ لفظ علم آخرت پر ہی بولا کرتے تھے۔ اس تخصیص کا مطلب یہ ہے کہ بعض لوگوں نے اپنے آپ کو اس کے لیے وقف کر کے اور علم آخرت و فروع احکام قلوب سے اعراض کر کے لوگوں کو دھوکہ دیا اور اس پر نفس کی طرف سے مدد بھی پائی کیونکہ باطنی علم تو نہایت گہرائی میں ہے اور اس پر عمل کرنا مشکل ہے، اور اس کے ذریعے حکومت اور قضائے مرتبہ و مال کا حصول مشکل ہے تو شیطان نے لوگوں کے دلوں میں اس بات کو اچھا قرار دینے کا موقعہ یوں پایا کہ فقہ جو شریعت میں ایک اچھا نام ہے اسے ان لوگوں کے ساتھ خاص کر دیا۔

علم :- دوسرا لفظ "علم" ہے یہ لفظ بندوں اور مخلوق میں اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی آیات و افعال کی پہچان کے لیے بولا جاتا تھا حتیٰ کہ جب عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا وصال ہوا تو حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا "بے شک علم کے دس ہیں سے نو حصے فوت ہو گئے" انہوں نے لفظ علم الف لام کے ساتھ معرفہ ذکر کیا پھر اس کی وضاحت علم باللہ کے ساتھ فرمائی۔ ان لوگوں نے اس میں بھی تخصیص کے ساتھ تصرف کیا حتیٰ کہ انہوں نے عام طور پر اسے ان لوگوں کے لیے مشہور کر دیا جو فقہی مسائل وغیرہ کے سلسلے میں اپنے مخالفین کے ساتھ مناظرے میں مشغول رہتے ہیں کہا جاتا ہے حقیقتاً عالم تو یہی ہے، یہ علم میں مردانگی رکھتا ہے اور جسے اس فن (مناظرہ) کے ساتھ تعلق نہ ہو اور وہ اس میں مشغول ہوتا ہو تو اسے کمزور لوگوں میں شمار کیا جاتا ہے یہ لوگ اسے اہل علم میں شمار نہیں کرتے یہ بھی تخصیص میں تصرف ہے لیکن علم اور علماء کے فضائل کے بارے میں جو کچھ آیا ہے وہ ان لوگوں کے بارے میں ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کے احکام، افعال اور صفات کا علم رکھتے ہیں۔ اور اب تو یہ لفظ مطلقاً ایسے شخص پر بولا جاتا ہے جو شرعی علوم میں سے صرف اختلافی مسائل

میں بھگڑنے کے طریقوں سے واقف ہوا ہے بڑے بڑے علماء میں شمار کیا جاتا ہے حالانکہ وہ تفسیر، احادیث اور علم مذہب سے جاہل ہوتا ہے یہ بات بے شمار طالب علموں کے لیے ہلاکت کا باعث بن گئی ہے۔
توحید: تیسرا لفظ، توحید ہے آج کل فن کلام، مجادلہ و مناظرہ کے طریقوں کی معرفت، بد مقابل کے اعتراضات کو توڑنے کے طریقوں کے احاطہ، کثرت سوال کے لیے تکلف فصاحت کے اظہار شہادت ڈالنے اور الزامات دینے کا نام توحید رکھ دیا گیا ہے حتیٰ کہ ان میں سے کچھ لوگوں نے اپنے آپ کو اہل عدل و توحید کہنا شروع کر دیا، مشکلیں کا نام علماء نے توحید رکھ دیا حالانکہ اس فن کی یہ خاص باتیں پہلے دور میں نہیں تھیں بلکہ اس شخص پر سخت اعتراض کیا جاتا تھا جو اختلافات اور جھگڑوں کا دروازہ کھولتا تھا۔

اور جن ظاہری دلائل پر قرآن پاک مشتمل ہے اور اس کے سنتے ہی ذہن اس کی قبولیت کی طرف متوجہ ہوتے ہیں وہ سب کے لیے معلوم تھا اس زمانے میں (علم قرآن ہی مکمل علم تھا۔ ان کے نزدیک توحید ایک دوسری بات تھی جسے اکثر مشکلیں سمجھ نہیں پاتے تھے اور اگر سمجھیں تو اس سے متصف نہیں ہوتے تھے وہ مفہوم یہ تھا کہ انسان تمام امور کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یوں جانتے اس کی توجہ تمام وسائل سے ہٹ جائے وہ ہر خیر و شر کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جانے۔ یہ نہایت معزز مرتبہ ہے اور اس کا ایک نتیجہ توکل ہے جیسا اب توکل میں اس کا بیان آئے گا۔

اس کے نتائج میں سے ہے کہ مخلوق سے شکایت نہ کرے ان پر غصہ کرنا چھوڑوے اللہ تعالیٰ کے حکم پر راضی ہو جائے اور اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دے، اس کا ایک نتیجہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول ہے۔ کہ جب آپ کی بیماری کے دوران عرض کیا گیا، "آپ کے لیے معالج کو بلائیں؟ آپ نے فرمایا معالج نے ہی مجھے بیمار کیا ہے" ایک روایت میں ہے جب آپ بیمار ہوتے تو پوچھا گیا طبیب نے آپ کی بیماری کے بارے میں کیا بتایا آپ نے فرمایا اس نے مجھے کہا ہے کہ "میں جو چاہتا ہوں کرتا ہوں" کتاب توکل اور کتاب توحید میں اس پر شواہد پیش کیے جائیں گے۔
توحید ایک ایسا جوہر نفیس ہے جس کے دو پوست (چمڑے) ہیں۔ ان میں سے ایک، دوسرے کی نسبت مغز سے زیادہ دور ہے لوگوں نے لفظ توحید کو پوست کے ساتھ نیر پوست کی حفاظت کے فن کے ساتھ خاص کر دیا ہے اور مغز کو بالکل چھوڑ دیا ہے۔ پہلا پوست یہ ہے کہ تم اپنی زبان سے "لا الہ الا اللہ" پڑھو، یہ توحید اس تثلیث کے خلاف ہے جس کا دعویٰ پیسائی کرتے ہیں لیکن بعض اوقات منافق، جس کا باطن، ظاہر کے خلاف ہوتا ہے، وہ بھی اس کا اقرار کرتا ہے۔

اس کا دوسرا چمڑا یہ ہے کہ دل میں اس قول کے مفہوم کی مخالفت اور انکار نہ ہو۔ بلکہ ظاہر دل میں اس کا اعتقاد اور تصدیق موجود ہو، یہ عوام کی توحید ہے۔ اور جیسا کہ پہلے گزرا مشکلیں اس پوست کو بدعتی لوگوں کی گڑبڑ سے بچاتے ہیں۔ اور تفسیری چیز یعنی مغز یہ ہے کہ وہ تمام امور کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یوں سمجھنے کہ وسائل سے اس کی توجہ ہٹ

جائے۔ اور وہ صرف اسی کی عبادت کرے کسی دوسرے کی پوجا نہ کرے اس توحید سے وہ لوگ خارج ہیں جو نفسانی خواہشات کے پیروکار ہیں کیوں کہ جو شخص اپنی خواہش کے پیچھے چلتا ہے وہ اپنی خواہش کو معبود بتاتا ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے۔

أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ (۱)

دیکھو تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا۔

اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :-

أَبْغَضُ إِلَهٍ عُبِدَ فِي الْأَرْضِ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى هُوَ الْهَوَى (۲)

اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب بڑا معبود جس کی زمین میں پوجا کی جائے وہ خواہش ہے۔

اور حقیقت تو یہ ہے کہ جو شخص شوج و بجا کرتا ہے اسے معلوم ہو جاتا ہے کہ بت پرست، بت کی پوجا نہیں کرتا بلکہ وہ اپنی خواہش کی پوجا کرتا ہے۔ کیونکہ اس کا نفس باپ دادا کے دین کی طرف مائل ہے چنانچہ وہ اس میلان کے پیچھے چلتا ہے اور نفس کا ان چیزوں کی طرف مائل ہونا جن کو وہ چاہتا ہے خواہشات نفسانیہ ہی سے ہے اس توحید سے خلق خدا پر ناراض ہونا اور ان کی طرف متوجہ ہونا بھی خارج ہے کیوں کہ جو شخص سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیکھتا ہے وہ کسی دوسرے پر کیسے غمہ کر سکتا ہے تو توحید اس مقام کا نام ہے اور یہ صدیقین کا مقام ہے تو دیکھو اسے کس طرف پھیر دیا گیا اور کس پوست پر قناعت کی گئی۔ اور کس طرح انہوں نے اپنی تعریف اور فخر و تکبر میں اس سے استدلال کیا حالانکہ اس کا نام محمود ہے لیکن یہ اس معنی سے خالی ہے جو تعریف حقیقی کا باعث ہے اور یہ ایسا افلاس (غریت) ہے جسے کوئی شخص صبح سویرے اٹھ کر قبلہ رخ ہو کر کہے۔

”میں نے اپنا منہ خالصتاً اس ذات کی طرف کیا جس نے آسمان اور زمین کو پیدا فرمایا، تو اگر اس کی توجہ خاص اللہ تعالیٰ کی طرف نہ ہوگی تو وہ ہر روز صبح اللہ تعالیٰ سے بھوٹ بولتا ہے اگر وہ ظاہری توجہ مراد لیتا ہے تو اس کا رخ کعبۃ اللہ کی طرف ہے اور اس نے تمام جہات سے پھیر کر ادھر رخ کیا ہے۔ اور کعبہ شریف اس ذات کی جہت نہیں جس سے آسمان اور زمین کو پیدا فرمایا تاکہ اس کی طرف متوجہ ہونے والا اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو۔ اللہ تعالیٰ جہات اور کناروں کے احاطے میں آنے سے پاک ہے اور اگر اس شخص کی مراد قلبی توجہ ہے اور وہی مقصود عبارت سے ہے تو اس کے قول کی تصدیق کس طرح کی جائے گی حالانکہ اس کا دل اپنے کاموں اور دنیوی حاجات میں مبتلا ہے اور وہ ہر قسم کے مال، مرتبے

(۱) قرآن مجید، سورہ حاشیہ آیت نمبر ۲۳

(۲) المعجم الکبیر للطبرانی جلد ۱ ص ۱۲۳

اور اسباب کی کثرت حاصل کرنے کے لیے تلاش کر رہا ہے تو اس نے اپنے آپ کو کب اس ذات کی طرف متوجہ کیا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا؟ اور یہ کلمہ (آیت کریمہ) حقیقت توحید کی خبر دیتا ہے لہذا مقصد تو رہے جو صرف ایک ذات کا اعتقاد رکھتا ہے اور صرف اسی کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کے اس کلمہ کی تعمیل ہے ارشاد خداوندی ہے۔

قُلِ اللَّهُ خَمْدٌ ذَرُّهُ فِي سَخَوٰتِهِمْ
يَلْبَعُونَ (۱)

آپ فرمادیں اللہ ہے پھر ان لوگوں کو چھوڑ دیں جو انہی
بیہودگیوں میں کھیلتے ہیں۔

اور اس سے زبانی قول مراد نہیں کیونکہ زبان دل کی ترجمان ہے کبھی سچ کہتی ہے اور کبھی جھوٹ اللہ تعالیٰ کی نظر کا تقاضا تو دل ہے جس کی ترجمانی ہوتی ہے یہی توحید کا مرکز و منبع ہے
ذکر و تذکیر :- پوچھا لفظ ذکر و تذکیر سے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔

وَذَكَرُفَاتٍ الذِّكْرُ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ (۲)

ذکر کی تعریف میں بے شمار احادیث مبارکہ آئی ہیں جیسے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے:-
جب تم جنت کے باغات سے گذرو تو چہرہ (ان سے پھل حاصل کرو) عرض کیا گیا جنت کے باغات کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا مجالس ذکر۔

بے شک اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے ہیں جو مخلوق کے فرشتوں کے علاوہ ہیں وہ دنیا میں سپرد فریح کرتے ہیں جب وہ ذکر کی مجالس دیکھتے ہیں تو ان میں سے بعض، دوسروں کو آواز دیتے ہیں اپنے مقصود کی طرف اور چنانچہ وہ رہاں آتے ہیں ان کو گھیر لیتے ہیں اور غور سے سنتے ہیں سنو! اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو اور اپنے نفسوں کو یاد دلا لیا کرو۔

ایک حدیث شریف میں ہے۔
اِنَّ لِلّٰهِ تَعَالٰی مَلَائِكَةً سَیَّحِينَ فِی الدُّنْيَا سَبَّوْا
مَلَائِكَةَ الْخَلْقِ اِذَا رَاوْا مَجَالِسَ الذِّكْرِ
مِنَ اَرْضٍ بَعْضُهُمْ بَعْضًا اَلْهَمُّوْا اِلَیْ بُغْيَتِكُمْ
فَیَا تُؤْنَهُمْ وَیُحْفَوْنَ بِهُمْ وَیَسْتَعْمِرُونَ
اَلَا فَاذْكُرُوا اللّٰهَ وَذْكُرُوا اَنْفُسَكُمْ (۳)

توجیہاً کہ تم دیکھ رہے ہو اس زمانے میں یہ نام عام و اعظین کی ان باتوں پر بولا جاتا ہے جنہیں وہ ہمیشہ بیان کرتے ہیں اور وہ واقعات، اشعار، شطح اور طامات ہیں رشطح اور طامات کی وضاحت آ رہی ہے) واقعات تو بدعت ہیں اور بزرگوں نے قصہ کو لوگوں کے پاس بیٹھنے سے منع فرمایا ہے وہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صدیق اکبر اور حضرت

(۱) قرآن مجید سورہ انعام آیت ۹۲ (۲) قرآن مجید سورہ ذاریات آیت نمبر ۵۵

(۳) مسند امام احمد بن حنبل جلد ۲ ص ۱۵۰ (۴) مسند امام احمد بن حنبل جلد ۲ ص ۲۵۱

عمر فاروق رضی اللہ عنہم کے زمانے میں یہ لوگ نہیں تھے حتیٰ کہ قتنہ پیدا ہوا اور قصہ گو لوگ ظاہر ہوئے۔ (۱)

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کے بارے میں مروی ہے کہ ایک مسجد سے باہر تشریف لائے اور فرمایا میں صرف اس قصہ گو کی وجہ سے باہر آیا ہوں اگر یہ نہ ہوتا تو میں باہر نہ نکلتا۔

حضرت حمزہ فرماتے ہیں، میں نے حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ سے پوچھا کیا ہم قصہ گو لوگوں کی طرف منہ کر سکتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا۔

”بدعتوں کی طرف سے اپنی پٹھ پھیر لیا کرو۔“

ابن عون فرماتے ہیں میں حضرت ابن میرین کے پاس گیا تو انہوں نے پوچھا آج کی کوئی خبر ہے؟ میں نے کہا امیر (حاکم) نے قصہ گو لوگوں کو قصے بیان کرنے سے منع کر دیا ہے انہوں نے فرمایا اسے (امیر کو) اچھے راستے کی توفیق حاصل ہوئی ہے حضرت اعمش، بصرہ کی جامع مسجد میں داخل ہوئے، تو ایک قصہ گو کو دیکھا جو قصے بیان کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ ہم سے حضرت اعمش نے بیان کیا آپ حلقہ کے اندر چلے گئے اور اپنی بقل کے بال اکھاڑنے لگے، قصہ گو نے کہا اسے شیخ! تجھے جیا نہیں آتی؟ انہوں نے فرمایا کیوں؟ میں تو سنت پر عمل کر رہا ہوں اور تم جھوٹ بول رہے ہو میں اعمش ہوں اور میں نے تم سے کوئی بات بیان نہیں کی۔

حضرت احمد بن حنبل فرماتے ہیں سب سے زیادہ جھوٹے لوگ قصہ گو اور بھیک مانگنے والے لوگ ہیں۔

حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے قصے بیان کرنے والوں کو جامع مسجد بصرہ سے نکال دیا تھا اور جب حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کا کلام سنا تو انہیں نہ نکالا کیونکہ وہ علمِ آخرت، موت کی فکر دلانے، نفس کے عیوب پر آگاہی، (بڑے) اعمال کے مصیبتیں، شیطان کے وسوسے اور ان سے بچنے کا طریقہ بیان کر رہے تھے وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں، بندوں کی طرف سے شکر ادا کرنے میں کوتاہی کا ذکر کر رہے تھے، دنیا کی حقارت، اس کے عیوب اس کی ناپائیداری اور بوفانی، آخرت کے خطرات اور ہولناکیوں سے آگاہ کر رہے تھے شہر عابدیہ ذکر و تذکیر محمود ہے اور حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں اسی کی ترغیب دی گئی ہے وہ فرماتے ہیں۔

”ایک مجلس ذکر میں حاضر ہونا ایک ہزار رکعات سے افضل ہے۔“

زیادہ فضیلت کا باعث ہے کسی مجلسِ علم میں جانا ایک ہزار جنابوں میں حاضر ہونے سے افضل ہے۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ! کیا قرآن پڑھنے سے بھی؟ آپ نے فرمایا قرآن پاک کی قرأت بھی تو علم کے ساتھ ہی نفع دیتی ہے۔ (۲)

(۱) سنن ابن ماجہ باب القصاص ص ۲۴۲

(۲) الموضوعات باب تقدیم حضور مجلس العالم جلد اول ص ۲۲۲

حضرت عطار رحمہ اللہ فرماتے ہیں "ایک مجلس ذکر ہووے اور لعین کی بیعت مجلسوں کا کفارہ بن جاتی ہے، ان چکنی چٹپری باتیں بنانے والوں نے ان احادیث کو اپنے نفسوں کی پاکیزگی ٹھہرایا اور تذکیر کا لفظ اپنی خرافات کی طرف منتقل کر دیا یہ لوگ ذکر محمود کے طریقے سے ہٹ گئے اور ان قصوں میں مبتلا ہو گئے جن میں اختلافات اور کمی اور بیشی کا عمل دخل ہے قرآن پاک میں جو واقعات مذکور ہیں وہ ان سے خارج اور زائد ہیں۔"

کیونکہ بعض واقعات کا سنا نفع دینا ہے اور بعض واقعات اگرچہ سچائی پر مبنی ہوں، نقصان دہ ہوتے ہیں اور جو شخص اپنے آپ پر اس دروازے کو کھولتا ہے اس پر سچ اور جھوٹ، نفع بخش اور نقصان دہ خلط ملط ہو جاتا ہے اس لیے اس سے منع کیا گیا اسی لیے حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے فرمایا۔

"لوگوں کو سچے واقعات بیان کرنے والوں کی کس قدر ضرورت ہے۔"

اگر انبیاء کرام علیہم السلام کے واقعات میں سے کوئی واقعہ ہو اور وہ لوگوں کے ذہن سے متعلق ہو بیان کرنے والا سچا اور صحیح راوی ہو تو میں اس میں کچھ عجز نہیں سمجھتا، جھوٹ سے اور ایسے قصوں سے بچنا چاہیے جو لغزشوں اور کاہلی دستی کی طرف اشارہ کرتے ہوں اور عوام کے ذہن ان کے معانی کو سمجھنے سے قاصر ہوں ایسی نادر لغزش کو بھی بیان نہ کرے جس کے بعد اس شخص (لغزش کرنے والے) نے بطور کفارہ بہت سی نیکیاں کر کے اسے ڈھانپ دیا ہو۔ کیونکہ گناہ کا مرتکب شخص انہی کوتاہیوں اور لغزشوں کے سلسلے میں اس سے استدلال کرتا ہے اور اپنی طرف سے بطور معذرت اسے تمہید بنا کر یوں کہتا ہے کہ فلاں، فلاں مشائخ اور اکابر سے اس قسم کی غلطیاں سرزد ہوئی ہیں اور ہم سب گناہوں کے درپے ہیں اگر میں نے گناہ کیا تو کیا تعجب ہے مجھ سے بڑے لوگوں نے بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی ہے اور یہ بات اسے لاعلمی سے اللہ تعالیٰ کی ذات پر صبرت دلاتی ہے۔

اگر یہ دو باتیں نہ ہوں تو واقعات بیان کرنے میں کوئی عجز نہیں کیونکہ اس وقت وہ قابل تعریف واقعات اور ان قصوں کی طرف رجوع کرے گا جو قرآن پاک میں ہیں یا احادیث صحیحہ کی کتب میں مذکور ہیں۔

بعض حضرات نے عبادات کے سلسلے میں مغرب حکایات گھڑنے کی اجازت دی ہے اور ان کے خیال میں یہ مخلوق کو حق کی طرف بلانے کا ایک ذریعہ ہے لیکن یہ شیطانی وسوسہ ہے کیونکہ سچ نہیں بھوٹ سے بچنے کی بہت گنجائش ہے اور جو کچھ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا وہ وعظ میں من گھڑت باتیں بیان سے کفایت کرتا ہے اور یہ کیسے جائز ہو سکتا ہے حالانکہ قافیے ملانے کے لیے تکلف کرنے کو ناپ نہ کیا گیا اور اسے تصنع سے شمار کیا گیا ہے۔

حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے عمر سے مستمع کلام سنا تو فرمایا میں اسی لیے تمہیں اچھا نہیں سمجھتا میں تمہاری ضرورت اس وقت تک پوری نہیں کروں گا جب تک تو توبہ نہ کر لے۔ وہ آپ کے پاس کسی کام کے

یہ آیا تھا۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ سے تین مستح کلمات سن کر فرمایا۔

أَيَّاكَ وَالسَّبَّحَ يَا أَبْنُ رَوَاحَةَ (۱) اسے ابن رواحہ! اپنے آپ کو مقضیٰ مستح کلام سے بچاؤ۔

تو ممنوع مستح کلام وہ ہے جو تکلف ہو اور دو کلموں سے زیادہ ہو۔ یہی وہ ہے کہ جب ایک شخص نے جنین (عمل) کے خون بہائے بارے میں مستح کلام استعمال کیا اور یوں کہا، "ہریم اس بچے کی دیت کیسے ادا کریں جس نے پیایانہ کھایا چیخا اور نہ کوئی آواز نکالی اس قسم کی صورت میں خون معاف ہوتا ہے۔

”تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،“

أَسْبَحْ كَسَبَّحَ إِذْ لَمْ تَب (۲) دریاہ تپوں کی طرح سبح ملاحظہ ہونے؟

شعر گوئی :- وعظ میں زیادہ اشعار طرنا مذموم ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے :-

وَالشُّعْرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ - الْمُعْتَرَاتُ لَهُمْ

فِي كُلِّ وادٍ يَهيمُونَ - (۳)

اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشُّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ - (۴)

اور ہم نے انہیں (اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو شعر نہیں سکھائے اور نہ ہی یہ ان کے نشانیاں نشان ہیں۔

واعظین عام طور پر ایسے اشعار پڑھتے ہیں جن میں عشق، معشوق کے حسن و جمال، وصال کی خوشی و راحت اور فراق کے دکھ کا ذکر ہوتا ہے اور مجلس میں عام طور پر جاہل قسم کے عوام ہوتے ہیں ان کے باطن خواہشات سے بھر پور ہوتے ہیں۔ خوب صورت چہروں کی طرف توجہ سے ان کے دل خالی نہیں ہوتے تو یہ اشعار ان میں چھپی ہوئی خواہشات کو حرکت دیتے ہیں اس طرح وہاں خواہشات کی آگ بھڑک اٹھتی ہے وہ چیختے ہیں اور وجد میں آجاتے ہیں تو اکثر یا تمام شعر فساد پر مبنی ہوتے ہیں لہذا وہی شعر استعمال کیا جائے جس میں کوئی نصیحت یا حکمت ہو اور اسے صرف دلیل کے طور پر اور لوگوں کو اٹس دلانے کے لیے پڑھا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

إِنَّ مِنَ الشُّعْرِ لِحِكْمَةً - (۵)

بعض شعر، حکمت پر مبنی ہوتے ہیں۔

(۱) الاسرار البرزخية ص ۸۳ (۲) مستدام احمد بن حنبل جلد نمبر ۲ ص ۲۴۵

(۳) قرآن مجید سورۃ شعراء آیت نمبر ۲۲ (۴) قرآن مجید سورۃ لیسین آیت نمبر ۶۹

(۵) صحیح بخاری جلد ۲ ص ۹۰۸ باب ما یجوز من الشعر

اور اگر خاص لوگوں کی مجلس ہو جن کے بارے میں معلوم ہو کہ ان کے دل اللہ تعالیٰ کی محبت میں ڈوبے ہوئے ہیں اور ان کے ساتھ دوسرے لوگ نہ ہوں تو انہیں وہ شعر نقصان نہیں پہنچانا جو ظاہر میں مخلوق کی طرف ہوتا ہے کیوں کہ سننے والا جو کچھ سنتا ہے اسے اس مفہوم پر ڈھال لیتا ہے جو اس کے دل پر غالب ہے، اس کی تحقیق سماع کے باب میں آئے گی۔ اسی لیے حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ اس سے کچھ اور پوچھنے کو خطاب کیا کرتے تھے اگر زیادہ ہو جاتے تو آپ خطاب نہ فرماتے اور ان کی مجلس کبھی بھی بیس کی تعداد کو نہیں پہنچی ابن سالم کے مکان کے دروازے پر ایک جماعت آئی ان سے کہا گیا کہ آپ کے اصحاب حاضر ہیں کچھ بیان کیجئے انہوں نے فرمایا نہیں یہ میرے ساتھی نہیں یہ تو مجلسی لوگ ہیں میرے ساتھی تو خاص لوگ ہیں۔

شطح کیا ہے؟ شطح سے ہی مراد دو قسم کے کلام ہیں جنہیں بعض صوفیاء کرام نے گھڑا ہے۔

۱) اللہ تعالیٰ کے ساتھ عشق و محبت کے لیے چوڑے دعوے کرنا اور یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ تک پہنچ گئے ہیں لہذا انہیں ظاہری اعمال کی ضرورت نہیں حتیٰ کہ بعض نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اتحاد کا دعویٰ کیا اور وہ کہتے ہیں کہ پردہ اٹھ گیا۔ اور وہ مشاہدہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا دیدار کرتے ہیں اور انہیں حضوری خطاب حاصل ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم سے فلاں بات کہی گئی تو ہم نے یہ جواب دیا، وہ حسین بن منصور حلاج کے ساتھ مشابہت اختیار کرتے ہیں جنہیں اس قسم کے کلمات کی وجہ سے سولی پر چڑھایا گیا تھا۔

وہ منصور کے قول ”انا الحق“ اور حضرت بایزید بسطامی رحمہ اللہ کے اس قول سے دلیل پکڑتے ہیں انہوں نے ”سبحانی سبحانی“ میں پاک ہوں کہا تھا۔ یہ ایسا فن کلام ہے جس سے عوام کو بہت نقصان پہنچا ہے حتیٰ کہ بعض کاشتکاروں نے کاشتکاری چھوڑ دی اور اس قسم کے دعوے شروع کر دیئے کیونکہ اس قسم کے کلام سے طبیعتیں لذت محسوس کرتی ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے ان کے خیال میں اعلیٰ مقامات حاصل کرنے کے لیے ظاہری اعمال اور تزکیہ نفس کی ضرورت باقی نہیں رہتی تو غیبی قسم کے لوگ اس قسم کا دعویٰ کیوں نہیں کریں گے اور وہ من گھڑت اور مہمل قسم کے کلمات کیوں نہیں کہیں گے اور جب ان کے اس عمل پر اعتراض کیا جائے تو بلا تکلف جواب دیتے ہیں کہ اس اعتراض کی بنیاد علم اور مناظرہ ہے اور علم تو ایک حجاب (پردہ) ہے اور مناظرہ بازاری تو نفس کا عمل ہے۔ اور ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں تو یہ نور حق کے مکاشفہ کے باعث ہمارے باطن سے اٹھتی ہے یہ اور اس قسم کی دوسری خرافات جن کا اثر شہروں میں پھیل چکا ہے اور عوام کو اس سے عظیم نقصان پہنچا ہے حتیٰ کہ دین میں اس قسم کی بات کرنے والے کو مار ڈالنا دس آدمیوں کو زندہ رکھنے سے افضل ہے حضرت بایزید بسطامی رحمہ اللہ سے جو کچھ منقول ہے کہ انہوں نے سبحانی کہا، وہ صحیح نہیں اور اگر ان سے یہ بات سنی گئی ہے تو شاید وہ اپنے کلام میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکایت کے طور پر اپنے دل میں بار بار کہتے ہیں مثلاً آپ کو یہ کلمات کہتے ہوئے سنا گیا۔

إِنِّي أَنَا اللَّهُ وَإِلَهُ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي يَا
 بے شک میں ہی اللہ ہوں میرے سوا کوئی معبود نہیں تو تم
 میری ہی عبادت کرو۔

تو اس سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ قائل اپنا حال بیان کر رہا ہے بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بطور حکایت یوں
 کہتا ہے۔

۲۔ سطح کی دوسری صورت یہ ہے کہ کچھ اسے کلمات کہے جائیں جو بظاہر اچھے ہوں لیکن سمجھ نہیں سکتے ہیں۔ عبادت ہونے کا
 اور بے فائدہ ہو،

اور یہ اس طرح کہ یا تو خود کہنے والے کو بھی سمجھ نہ آتی ہو بلکہ وہ اپنی عقل کی خرابی اور خیال کی پریشانی کی بنیاد پر کہتا
 ہو کیونکہ جو کچھ اس کے کانوں میں پڑتا ہے وہ اس کلام کا مفہوم نہیں سمجھ سکتا اور ایسا اکثر ہوتا ہے یا یہ کہ وہ اسے سمجھتا ہے
 لیکن وہ اسے سمجھ نہیں سکتا اور ایسی عبارت نہیں لاسکتا جو اس کے ہا فی الضمیر پر دلالت کرے اس کی وجہ یہ ہے کہ
 اس کا علم سے تعلق کم ہوتا ہے اور عمدہ الفاظ کے ساتھ معانی کی تعبیر کے طریقے سے ناواقف ہوتا ہے اس قسم کے کلام
 کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا بلکہ اس سے دل پریشان اور عقل و ذہن حیران ہو جاتے ہیں۔ یا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے
 وہ معانی سمجھے جائیں جو مراد نہیں اور ہر شخص اپنی خواہش اور طبیعت کے مطابق اس سے مفہوم اخذ کرتا ہے۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:-

مَا حَدَّثَ أَحَدٌكُمْ قَوْمًا بِحَدِيثٍ تَوَفَّقَهُمُ
 إِلَّا كَانَ فِتْنَةً عَلَيْهِمْ۔

تم میں سے کوئی شخص کسی قوم سے ایسی بات کرے جسے
 وہ نہ سمجھ پائیں تو وہ ان کے لیے فتنے کا باعث ہوگی۔

اور آپ نے مزید فرمایا:-

كَلِمَةُ النَّاسِ بِمَا يَعْرِفُونَ وَدَعْوَا مَا يَنْكُرُونَ
 أَنْزِيدُونَ أَنْ يَكْذِبَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ۔

لوگوں سے وہ باتیں کرو جن کو وہ سمجھتے ہیں اور جو کچھ وہ نہیں
 سمجھتے انہیں چھوڑ دو کیاتم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول
 صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرتے ہو۔

(۳)

یہ وہ بات ہے جسے کہنے والا سمجھتا ہے لیکن سننے والے کی عقل میں نہیں آتی۔ تو اس بات کا کیا حال ہوگا جسے
 خود کہنے والا نہ سمجھتا ہو، اگر کہنے والا سمجھتا ہے لیکن سننے والا نہیں سمجھتا تو اس کا ذکر جائز نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام
 نے فرمایا:-

(۱) قرآن مجید سورہ طہ آیت ۱۴۱۔ (۲) صحیح مسلم جلد اول ص ۹ باب النہی عن الروایۃ۔

(۳) کنز العمال جلد ۱۰ ص ۲۲۷

دانائی کی بات غیر اہل کونہ بتاؤ یہ اس (حکمت) پر ظلم ہے اور جو لوگ اس کے اہل ہیں ان سے دانائی کی بات نہ روکو اس طرح تم ان پر ظلم کرو گے۔ تم مہربان طبیب کی طرح ہو جاؤ وہ بیماری کے مطابق دوائی دیتا ہے اور دوسرے الفاظ میں یہ ہے جس نے غیر اہل کو حکمت کی بات بتائی اس نے جہالت کا کام کہا اور جس نے اہل لوگوں سے اسے روکا اس نے ظلم کیا بے شک دانائی کی باتوں کا بھی ایک حق ہے اور اس حکمت کے لیے کچھ اہل لوگ ہیں لہذا ہر حقدار کو اس کا حق دو۔

طامات :- ان میں وہ امور بھی داخل ہیں جو ہم نے شطح کے بیان میں ذکر کئے ہیں اور بعض دوسرے امور میں جو ان کے ساتھ خاص ہیں وہ یہ کہ الفاظ شرعیہ کو ظاہر مفہوم سے ایسے باطنی امور کی طرف پھیرا جائے کہ ذہنوں کو ان سے فائدہ نہ پہنچے۔ جیسے فرقہ باطنیہ قرآن پاک میں تاویل کرتا ہے یہ بھی حرام اور بہت بڑے نقصان کا باعث ہے کیوں کہ سب الفاظ کو کسی شرعی دلیل کے بغیر ان کے ظاہری معانی سے پھیر دیا جائے اور کوئی عقلی دلیل بھی اس کا تقاضا نہ کرتی ہو تو اس سے الفاظ پر اعتماد نہیں رہے گا، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کا فائدہ ختم ہو جائے گا کیونکہ جو کچھ الفاظ سے سمجھ آتا ہے اس پر اعتماد نہ رہا اور باطن کے لیے ضبط نہیں بلکہ اس میں دل ایک دوسرے کے خلاف ہوتے ہیں اور اسے مختلف طریقوں پر ڈھالا جاسکتا ہے لیکن یہ بھی ایک بہت بڑی بدعت ہے اور نقصان کا باعث ہے طامات والوں کا ارادہ ایک عجیب و غریب بات نکالنا ہوتا ہے کیونکہ نفس عجیب و غریب باتوں کی طرف مائل ہوتے ہیں اور ان سے لذت حاصل کرتے ہیں۔ اس طرح فرقہ باطنیہ ظاہری الفاظ کی تاویل کر کے اور انہیں اپنی رائے کے مطابق کر کے پوری شریعت کو ختم کرنے کا راستہ پاتا ہے جس طرح ہم امام غزالی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب المستظہری میں جو باطنیہ کے روہیں لکھی گئی ہے ان کے مذہب کا ذکر کیا ہے۔

اہل طامات کی تاویل کی مثال ان میں سے بعض کا اللہ تعالیٰ کے ارشاد گرامی ہیں تاویل کرنا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
 اِذْ هَبْنَا الْوَيْلَ فَسُجَّوْنَا لَہٗٓ اِنَّا طٰغٰی (۱)
 (اے موسیٰ) فرعون کے پاس جاؤ اس نے سرکشی کی ہے۔

وہ کہتے ہیں کہ اس سے دل کی طرف اشارہ ہے یعنی فرعون سے دل ہی مراد ہے اور وہ ہر انسان کے لیے باطنی ہے اور ارشاد خداوندی ہے۔

وَ اَنْ اَلِقَ عَصٰکَ (۲)
 اور آپ اپنی لاٹھی ڈال دیں۔

وہ کہتا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے سوا جس چیز پر بھی اعتماد اور بھروسہ کرتے ہیں اسے چھوڑ دیں۔

اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے:-

تَسْحَرُوا قَانَ فِي السَّحْرِ بَرَكَةٌ - (۱)

سحری کھایا کرو بے شک سحری کھانے میں برکت ہے۔

وہ کہتے ہیں اس سے مراد سحری کے وقت معفرت طلب کرنا ہے، اس طرح کی اور بھی مثالیں ہیں حتیٰ کہ انہوں نے قرآن پاک میں اول سے آخر تک ظاہری معانی کو بدل ڈالا۔ اور اس تفسیر کو بھی بدل دیا جو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور دیگر علماء سے مروی ہے۔ ان میں سے بعض تاویلات کا باطل ہونا قطعی اور یقینی ہے جیسے فرعون سے دل مراد لینا، کیونکہ فرعون تو ایک محسوس شخص ہے اس کے وجود اور موسیٰ علیہ السلام کے اسے اسلام کی طرف بلانے کے بارے میں ہم تک متواتر خبر پہنچی ہے جیسے ابو جہل اور ابولہب وغیرہ دوسرے کفار ہیں اور وہ شیاطین اور فرشتوں کی جنس سے نہ تھے جو حواس کے ذریعے معلوم نہ ہو سکیں کہ ان الفاظ کی یہ تاویل کی جائے اسی طرح سحری کھانے سے استغفار مراد لینا بھی غلط ہے کیوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھانا تناول فرماتے اور فرماتے :-

تَسْحَرُوا - (۲)

سحری کھاؤ

نیز فرماتے :-

هَلُمَّوا إِلَى الْغَدَاءِ الْمُبَارَكِ (۳)

مبارک کھانے کی طرف آؤ۔

تو یہ وہ امور ہیں کہ نقل متواتر اور حواس کے ذریعے معلوم ہوتے ہیں ان کو دوسرے معانی کی طرف منتقل کرنا باطل ہے، ان میں سے بعض باتیں غالب گمان کے ذریعے معلوم ہوتی ہیں اور یہ وہ امور ہیں جو احساس سے متعلق نہیں ہیں تو یہ سب حرام اور گمراہی ہیں اور مخلوق پر دین کو خراب کرنا ہے اس سلسلے میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تابعین اور حضرت حسن بصری (رحمہم اللہ) سے کچھ بھی منقول نہیں حالانکہ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ لوگوں کو اسلام کی دعوت دینے اور وعظ و نصیحت کرنے میں بہت دلچسپی لیتے تھے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد گرامی کا یہی مفہوم ہے آپ نے فرمایا :-

مَنْ قَسَرَ الْقُرْآنَ بِدْرَائِهِمْ فَلْيَتَّبِعُوا مَقْعَدَهُ

جس نے اپنی رائے سے قرآن پاک کی تفسیر کی وہ جہنم

مِنَ النَّارِ (۴)

میں اپنا ٹھکانہ بنائے۔

یعنی اس کی غرض اور رائے ایک بات کو ثابت کرنے کی ہو اور وہ اس کے لئے قرآن پاک سے شہادت پیش کرے اور اس سے اپنی غرض پوری کرے حالانکہ اس پر نہ تو دلالت لفظی لغوی پائی جاتی ہے اور نہ کوئی نقلی دلیل۔ اس حدیث سے یہ مفہوم اخذ کرنا مناسب نہیں کہ قرآن پاک کی تفسیر، اجتہاد اور غور و فکر نہیں کرنی چاہیے کیوں کہ

(۱) صحیح بخاری جلد اول ص ۷۷ باب برکت السحر (۲) مستد امام احمد بن حنبل جلد ۲ ص ۱۰۱

(۳) مستد امام احمد بن حنبل ج ۲ ص ۱۲۶ (۴) جامع الترمذی جلد ۲ ص ۱۰۱ باب تفسیر القرآن

بعض آیات کے بارے میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور مفسرین سے پانچ، چھ اور سات تک معانی منقول ہیں۔ اور یہ بات معلوم ہے کہ یہ سب کچھ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سنا کیونکہ یہ معانی بعض اوقات ایک دوسرے کی ضد ہوتے ہیں جمع نہیں ہو سکتے لہذا یہ حسن فہم اور طویل غور و فکر کے نتیجے میں اخذ کئے گئے ہیں اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے لیے دعا فرمائی تھی۔

اللَّهُمَّ فَقِّهْهُ فِي الدِّينِ وَعَلِّمَهُ التَّوْبِيلَ۔ يَا اللَّهُ! ان كودين كى سمجھ اور تفسير و تاويل كا علم عطا فرما۔ (۱)

تواہل طامات میں سے جو شخص ان تاویلوں کو جائز قرار دیتا ہے حالانکہ وہ جانتا ہے کہ الفاظ قرآن سے یہ مراد نہیں اور اس کا خیال ہے کہ وہ ان تاویلات کے ذریعے مخلوق کو خالق کی طرف بلاتا ہے تو یہ اس شخص کی طرح ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھوٹی اور من گھڑت احادیث منسوب کرتا ہے حالانکہ وہ بات فی نفسہ صحیح ہوتی ہے لیکن شریعت نے اسے بیان نہیں کیا، جیسے وہ شخص جو ہر اس مسئلے کے لیے جسے وہ حق سمجھتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے حدیث گھڑتا ہے تو یہ ظلم اور گمراہی ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں مذکور سزا کے تحت داخل ہوتا ہے آپ نے فرمایا۔

مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلَيْتِيَوْمًا مَفْعَدًا
جس نے مجھ پر جھوٹ بولا تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔
مِنَ النَّارِ۔ (۲)

بلکہ ان الفاظ کی تاویل اس سے بھی بڑھ کر جرم ہے کیونکہ اس طرح ان الفاظ سے اعتماد اٹھ جاتا ہے اور قرآن کے فہم اور اس سے استفادہ کا راستہ بالکل ٹوٹ چھوٹ جاتا ہے۔ تو تمہیں معلوم ہو گیا کہ شیطان نے کس طرح لوگوں کے ارادوں کو علوم محمودہ سے، بڑے علوم کی طرف پھیر دیا اور یہ سب غلامیوں کی طرف سے ناموں کے بدلنے کی وجہ سے ہوا۔ اگر تم مشہور نام پر اعتماد کرتے ہوئے ان لوگوں کے پیچھے چلو گے اور جو کچھ پہلے دور میں معروف تھا اس کی طرف متوجہ نہیں ہو گے تو تم اس آدمی کی طرح ہو جاؤ گے جو کسی طبیب کی اتباع کر کے حکمت (داناہی) کے ذریعے شرف و اعزاز کا طالب ہوتا ہے کیونکہ اس زمانے میں طبیب، شاعر، اور نجومی کو کہا جاتا ہے۔

حکمت :- پانچواں لفظ! "حکمت" ہے اب یہ لفظ طبیب، شاعر اور نجومی پر لولا جاتا ہے حتیٰ کہ وہ شخص جو سڑکوں میں عوام کے ہاتھوں پر قرعہ اندازی کرتا ہے اسے بھی حکیم کہتے ہیں حالانکہ حکمت تو وہ ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے تعریف فرمائی اور شاہ خداوندی ہے۔

(۱) منہ نام احمد بن حنبل جلد اول ص ۲۱۴ (۲) صحیح بخاری جلد اول ص ۲۱ باب انم من کذب علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔

وہ جسے چاہے حکمت عطا فرماتا ہے اور جسے حکمت دی گئی تحقیق اسے بہت زیادہ بھلائی عطا کی گئی۔

يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتِ الْحِكْمَةَ
فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا (۱)

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:-

ایک کلمہ حکمت جسے کوئی شخص سیکھتا ہے وہ اس کے لیے دنیا و مافیہا سے بہتر ہے۔

كَلِمَةٌ حِكْمَةٌ يَتَعَلَّمَهَا الرَّجُلُ خَيْرٌ مِمَّا
الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا - (۲)

تو تم دیکھ لو کہ حکمت کس چیز کا نام تھا اور اب اسے کسی طرف منتقل کر دیا گیا ہے باقی الفاظ کو بھی اسی پر قیاس کر لیں۔ علماء سنیوں کے دھوکے اور فریب سے بچو کیونکہ دین کے بارے میں ان کا شر، شیطان کے شر سے زیادہ ہے کیونکہ شیطان انہی کے ذریعے مخلوق کے دلوں سے آہستہ آہستہ دین کو نکال رہا ہے یہی وجہ ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ مخلوق میں سے بدترین کون ہے؟ تو آپ نے (جواب دینے سے) انکار کیا اور فرمایا اسے اللہ بخشش فرما۔ یہاں تک کہ جب انہوں نے بار بار سوال کیا تو آپ نے فرمایا وہ برے علماء ہیں (۳)۔ تو تم نے علم محمود اور علم مذموم اور ایک دوسرے سے ان کے اقتباس کو جان لیا اب تمہیں اختیار ہے کہ اپنے نفس کا لحاظ کر کے اسلاف کی پیروی کرو یا دھوکے کی رسی کو پکڑو اور ان کے بعد والے لوگوں کی مشابہت اختیار کرو۔ ہمارے اسلاف کے تمام پسندیدہ علوم مٹ چکے ہیں۔ اور لوگ جن علوم میں منہمک ہیں ان میں سے اکثر بدعت اور نوپید ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح حدیث میں ثابت ہے آپ نے فرمایا:-

اسلام کا آغاز غریب الوطنی میں ہوا اور وہ اسی طرح اجنبی کی حیثیت اختیار کرے گا تو غریبا کے لیے خوشخبری ہے، آپ سنے پوچھا گی کہ غریبا کون ہیں؟ آپ نے فرمایا وہ لوگ جو میری سنت کی اصلاح کریں گے جب لوگ اسے خراب کریں گے اور وہ لوگ جو میری سنت کو زندہ کریں گے۔

بَدَأَ الْإِسْلَامُ غَرِيبًا وَسَيَعُودُ غَرِيبًا كَمَا
بَدَأَ فَطُوبَىٰ لِلْغُرَبَاءِ، فَفِيْلٍ: وَمِنَ الْغُرَبَاءِ
قَالَ الَّذِينَ يَصْلِحُونَ مَا أَفْسَدَكَ النَّاسُ
مِنْ سُنَّتِي وَالَّذِينَ يُحْسِنُونَ مَا آتَاؤُهُ مِنْ
سُنَّتِي - (۴)

اور ایک دوسری حدیث میں ہے۔ آپ نے فرمایا:-

وہ لوگ (اس چیز کو مضبوطی سے پکڑیں گے جسے آج تم نے (صحابہ کرام نے) اختیار کیا ہوا ہے۔

هَذَا لِمَنْ سَلِمَ لِمَا آتَاؤُهُ مِنْ سُنَّتِي
يَوْمَ تَأْتِي السُّنَّةُ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ (۵)

(۱) قرآن مجید سورہ بقرہ آیت نمبر ۲۲۹ (۲) کنز العمال جلد ۱۰ ص ۱۰۰ (۳) مجمع الزوائد جلد اول ص ۱۸۵ باب فینما لا ینتفع بعلمہ

(۴) جامع ترمذی جلد ۲ ص ۲۰۰ ماجاد ان الاسلام بد اغریبا - (۵) مسند امام احمد بن حنبل ج ۱ ص ۳۱۴

ایک اور حدیث شریف میں ہے آپ نے فرمایا :-
 الْغُرَبَاءُ نَاسٌ قَلِيلٌ صَالِحُونَ بَيْنَ نَاسٍ
 كَثِيرٍ مِمَّنْ يَبْغِضُهُمْ فِي الْخَلْقِ أَكْثَرُ مِمَّنْ
 يَحِبُّهُمْ (۱)

غریب و تھوڑے سے نیک لوگ ہیں جو دوسرے لوگوں کے
 مقابلے میں کم ہوں گے، ان سے محبت کرنے والوں کی
 نسبت، دشمنی رکھنے والے زیادہ ہوں گے،

تو یہ علوم غریب و اجنبی ہو گئے کیوں کہ ان کو یاد کرنے والوں سے دشمنی کی جاتی ہے اسی لیے حضرت سفیان ثوری رحمہ
 اللہ نے فرمایا "جب تم کسی عالم کو دیکھو کہ اس کے دوست زیادہ ہیں تو جان لو کہ وہ حق کے ساتھ باطل کو ملانے والا ہے کیونکہ
 اگر وہ سچ کہتا تو لوگ اس سے دشمنی رکھتے۔"

جان لو کہ اس اعتبار سے (محمودہ مذموم ہونے کے اعتبار سے)
 علم کی تین اقسام ہیں۔

علوم محمودہ کی تعداد محمودہ

۱- وہ علم جو تھوڑا ہو یا زیادہ بہر حال مذموم ہے۔

۲- وہ علم جو سراپا محمود ہے کم ہو یا زیادہ اور وہ جب بھی بڑھتا ہے احسن و افضل ہوتا ہے۔

۳- وہ جس سے کفایت کی مقدار محمود ہے اس سے زیادہ نہیں اور نہ ہی اس میں بحث مباحثہ پسندیدہ ہے۔

اور یہ بدن کے احوال کی طرح ہے کیونکہ ان میں سے بعض وہ ہیں جو قلیل و کثیر محمود ہیں مثلاً صحت اور حسن و جمال اور
 بعض مذموم ہیں تھوڑے ہوں یا زیادہ، جیسے بد صورتی اور بد اخلاقی، اور بعض وہ ہیں جن میں میانہ روی قابل تعریف ہے جیسے
 مال کا خرچ کرنا اس میں ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا پسندیدہ نہیں اگرچہ وہ بھی خرچ کرنا ہی ہے اور جیسے شجاعت ہے
 کہ اس میں کسی کو ہلاک کرنا غیر محمود ہے اگرچہ وہ بھی شجاعت ہی سے ہے تو علم کا بھی یہی حال ہے۔

مذموم علم وہ علم جو قلیل و کثیر مذموم ہے یہ وہ ہے جس میں نہ دنیوی فائدہ ہے نہ دینی، کیونکہ اس کا نقصان نفع

پر غالب ہوتا ہے جیسے جادو اور طلسمات کا علم اور علم نجوم اس میں سے کچھ وہ ہے جس میں بالکل فائدہ نہیں اور اس میں
 زندگی کو صرف کر دینا جو انسان کی سب سے بہترین ملکیت ہے، ضائع کر دینا ہے اور نفس چیز کو ضائع کرنا قابل مذمت ہے۔
 اور کچھ وہ ہے کہ اس کا نقصان اس نفع سے زیادہ ہوتا ہے جس کی دنیا میں امید ہوتی ہے تو نقصان کے مقابلے میں
 اس نفع کا کوئی شمار نہیں۔

علم محمود وہ علم جو آخر تک محمود ہی محمود ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کی صفات اس کے افعال، مخلوق کے
 بارے میں اس کی عادات اور دنیا پر آخرت کو مرتب کرنے کی حکمت کا علم ہے یہ علم ذاتی طور پر بھی مطلوب ہوتا ہے۔

اور آخرت کی سعادتوں کا وسیلہ ہونے کی وجہ سے بھی اس میں جس قدر بھی کوشش کی جائے وہ حد واجب سے کم ہوگی کیونکہ یہ وہ سمندر ہے جس کی گہرائی تک رسائی نہیں ہو سکتی اور گھومنے والے اس کے ساحل اور کناروں میں قدر ممکن ہوتا ہے گھومتے ہیں اور اس کے اندر انبیاء کرام اولیاء و عظام، اور علم میں مضبوط لوگ اپنے اپنے درجات اور مختلف قوتوں کے حساب سے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے حق میں لکھ دی ہیں، جاتے ہیں یہ وہ پوشیدہ علم ہے جو کتابوں میں لکھا نہیں جاتا اس علم سے آگاہی کے لیے سیکھنا اور علمائے آخرت کے حالات کا مشاہدہ مددگار ہوتا ہے جیسے اس کی علامات آئیں گی یہ تو ابتدائی بات ہے۔ اس کے بعد اس کے لیے مجاہدہ اور ریاضت مددگار ہوتی ہے نیز دل کو پاک صاف کرنا اور دنیوی تعلقات سے فارغ کرنا ضروری ہوتا ہے نیز انبیاء و اولیاء کرام کے ساتھ مشابہت اختیار کرنا ضروری ہے تاکہ اس کی طلب میں کوشش کرنے والے کو اس کے نصیب کے مطابق مل سکے، کوشش کے مطابق نہیں لیکن اسی میں مجاہدہ ضروری ہے کیونکہ ہدایت کی چابی مجاہدہ ہے اس کے علاوہ اس کی کوئی چابی نہیں۔

وہ علوم جن کی مخصوص مقدار محدود ہے | وہ علوم جن کی صرف ایک مخصوص مقدار محدود ہے یہ وہ علوم نہیں جن کا ہم نے فرض کفایہ علوم میں ذکر کیا ہے۔ ان میں سے ہر

علم کے تین درجے ہیں بقدر حاجت حاصل کرنا اور یہ ادنیٰ درجہ ہے دوسرا وہ ہے جس میں میانہ روی اختیار کی جاتی ہے اور یہ درمیانہ درجہ ہے اور اس میانہ روی سے بڑھ کر ہے جو آخر عمر تک حاصل کیا جاتا ہے تو تمہیں دو قسم کے آدمیوں میں سے ایک ہونا چاہیے یا تو اپنے نفس کے فکریں مشغول ہو یا نفس سے فراغت کے بعد دوسروں کے لیے فکر مند ہو جا۔

اپنی اصلاح سے پہلے دوسروں کی اصلاح کرنے سے بچو اگر تم اپنے نفس کی اصلاح میں مشغول ہو تو صرف اسی علم میں مشغول رہو جو تمہارے حال کے مطابق تم پر فرض ہے اور جو اعمال ظاہرہ سے متعلق ہے مثلاً نماز، طہارت اور روزے کے مسائل سیکھو سب سے اہم علم جسے تمام لوگوں نے چھوڑ رکھا ہے وہ قلبی صفات کا علم ہے کہ ان میں سے کون سی مذہب۔ کیونکہ کوئی بھی انسان صفات مذہبہ سے خالی نہیں ہو سکتا جیسے حرص، حسد، ریاکاری، تکبر اور خود پسندی وغیرہ یہ سب ہلاک کرنے والے امور ہیں اور ان کو چھوڑنا واجب ہے پھر ظاہری اعمال میں مشغول ہونا ایسے ہی ہے کہ انسان غارنش اور چھوڑے پھنسی کی تکلیف میں مبتلا ہو تو ظاہر بدن پر لیب کر لے اور نشتر یا جلاب کے ذریعہ اندر کا فاسد مادہ نکالنے میں سستی کرے نام کے علماء ظاہری اعمال کا مشورہ دیتے ہیں جیسے سڑکوں پر بیٹھے ہوئے، طبیب ظاہری بدن پر لیب کا مشورہ دیتے ہیں اور علمائے آخرت باطنی طہارت اور خیرانی کا مواد دور کرنے کا حکم دیتے ہیں وہ اس طرح کردل سے ان کی جڑیں ہی اکھاڑ دی جائیں اکثر لوگ تطہیر قلوب کی بجائے اعمال ظاہرہ کی طرف جاتے ہیں تو صرف ظاہری اعمال کے آسان اور قلبی اعمال کے مشکل ہونے کی وجہ سے ایسا کرتے ہیں جس طرح کڑوی دوائی کو سخت اور مشکل سمجھنے والا

شخص ظاہری لیب کا عمل اختیار کرتا ہے، اور اس سے بیماری بڑھتی جاتی ہے۔

اگر تم آخرت کا ارادہ رکھتے ہو، نجات کے طالب اور ابدی ہلاکت سے بھاگنا چاہتے ہو تو باطنی بیماریوں اور ان کے علم میں مشغول ہو جاؤ۔ جیسا کہ ہم نے مہلکات کے بیان میں تفصیلاً ذکر کیا ہے پھر اپنے آپ کو ان پسندیدہ مقامات کی طرف لے جاؤ جن کا ذکر ہم نے منجیات کے بیان میں کیا ہے، کیونکہ جب دل مذموم چیز سے خالی ہو گا تب وہ محمود چیزوں سے بھرا جائے گا جب زمین کو گھاس چونس سے پاک کیا جائے تب اس میں مختلف قسم کے غلے اور پھول اُگتے ہیں۔

اگر تم اسے خالی نہیں کرو گے تو یہ چیزیں پیدا نہیں ہوں گی۔ لہذا تم فرض کفایہ میں مشغول نہ ہو جاؤ بالخصوص جب کہ لوگوں میں اس (فرض کفایہ) کو قائم کرنے والے لوگ موجود ہیں، کیونکہ جو شخص دوسروں کی اصلاح کرتا ہے لیکن اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالتا ہے وہ بیوقوف ہے، تو اس سے بڑی حماقت کیا ہو سکتی کہ ایک شخص کے کپڑوں میں سانپ اور چھو گھس کر اسے ہلاک کرنا چاہتے ہوں اور وہ پنکھا ڈھونڈ رہا ہو جس کے ذریعے دوسروں سے کھیلوں کو دور کرے اور دوسرا آدمی اس کو ان سانپوں اور بھوڑوں سے نہیں بچاتا جب وہ اسے ہلاک کرنا چاہتے ہوں۔

اور جب تم اپنے نفس اور اس کی تطہیر سے فارغ ہو جاؤ اور ظاہری و باطنی گناہ کے چھوڑنے پر قادر ہو جاؤ اور یہ تمہاری عادت بن جائے اور تمہارے لیے ایسا کرنا آسان ہو جائے اور یہ بات کوئی بعید بھی نہیں تو پھر فرض کفایہ میں مشغول ہو جانا اور اس میں بھی درجات اور تدریج کا خیال رکھنا (یعنی اللہ تعالیٰ کی کتاب سے ابتدا کرنا پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اس کے بعد علم تقسیم اور دیگر تمام علوم قرآنیہ، یعنی تاریخ و مسوخ کا علم، مفسول و موصول اور محکم و منشاہ کا علم۔ سنت میں بھی یہی طریقہ اختیار کیا جائے پھر فروع میں مشغول ہو جانا اور وہ فقہ سے مذاہب کا علم حاصل کرنا ہے اختلافی مسائل نہیں۔ پھر اصول فقہ، اور اسی طرح باقی علوم جیسے جیسے زندگی اجازت دے اور وقت میں گنجائش ہو، اور کسی فن میں کمال حاصل کرنے کے لیے ساری زندگی اس میں خرچ نہ کر دینا۔ کیونکہ علوم زیادہ ہیں اور عمر کم ہے۔ اور یہ علوم محض آلات اور مقدمات ہیں ذاتی طور پر نہیں بلکہ غیر کی وجہ سے مطلوب ہیں، اور جو چیز غیر کی وجہ سے مطلوب ہوتی ہے اس میں مطلوب کو بھول جانا اور آلات کو کثرت سے حاصل کرنا مناسب نہیں۔

لہذا تم مروجہ لغت سے اتنا علم حاصل کرو جس کے ذریعے عربی کلام کو سمجھ سکو اور گفتگو کر سکو اور لغت نادرہ سے صرف اتنا حاصل کرو کہ قرآن و حدیث کے اس قسم کے الفاظ کو سمجھ سکو زیادہ گہرائی میں نہ جاؤ نحو کا علم صرف اتنا حاصل کرو جو کتاب سنت سے متعلق ہے کیونکہ ہر علم کے تین درجہ ہیں وہ) ادنیٰ بھی ہے، متوسط بھی اور کامل بھی، ہم حدیث، تفسیر، فقہ اور کلام کے سلسلے میں ان تینوں درجات کا ذکر کرتے ہیں تاکہ تم دوسرے علوم کو ان پر قیاس کر لو۔

تفسیر سے بقدر کفایت علم یہ ہے کہ قرآن پاک کے حجم کا دو گنا ہو جیسے واحدی نیشاپوری کی تفسیر ”وجیز“ ہے، درمیانہ درجہ یہ ہے جو قرآن پاک سے تین گنا زیادہ حجم رکھتی ہو جیسے تفسیر ”وسیط“ ہے اور اس سے زیادہ درجہ کمال

ہے جس کی کوئی حاجت نہیں اور نہ ہی مرتے دم تک اسے حاصل کیا جاسکتا ہے۔
حدیث میں اکتفاء کا درجہ یہ ہے کہ کسی فاضل اور ثن حدیث کے عالم سے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے مضامین سیکھ لیے جائیں، راویوں کے نام یاد کرنے کی ضرورت نہیں کیوں کہ تم سے پہلے لوگوں نے یہ ذمہ داری اٹھا کر نہیں فارغ کر دیا ہے تمہارے لیے ضروری ہے کہ ان کی کتب کی طرف رجوع کرو۔ نیز تم پر صحیحین کے ثن (احادیث) کو یاد کرنا بھی لازمی نہیں بلکہ اس قدر حاصل کر لو کہ ضرورت کے وقت جس قدر حاجت ہو اسے پورا کر سکو۔

حدیث کے سلسلے میں اعتدال یہ ہے کہ صحیح مسندات میں جو صحیح احادیث پائی جاتی ہیں اور صحیح بخاری و مسلم میں نہیں ہیں انہیں بھی صحیحین کے ساتھ ملا کر پڑھ لو۔ حدیث میں کمال کی صورت یہ ہے کہ اس کے علاوہ جو کچھ بھی ضعیف و قوی، صحیح غیر صحیح نقل حدیث کے طرق کثیرہ (حدیث کی اسناد) کی پہچان حاصل کرو نیز راویوں کے حالات ان کے نام اور اوصاف کی معرفت حاصل کی جائے۔

فقہ میں کفایت درجہ وہ ہے جو محقق المرنی رحمہ اللہ میں شامل ہے جسے ہم نے خلاصۃ المختصر کے نام سے مرتب کیا ہے، اس میں اعتدال یہ ہے کہ اس کتاب کا تین گنا ہو جائے اور یہ اندازہ ہم نے مذہب کی کتاب "وسیط" میں رکھا ہے اور کمال علم فقہ یہ ہے جو ہم نے وسیط میں لکھا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری بڑی بڑی کتابیں بھی پڑھی جائیں۔ علم کلام کا مقصد صرف ان عقائد کی حفاظت ہے جو اہل سنت نے سلف صالحین سے نقل کئے ہیں اس کے علاوہ نہیں اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ خالق امور کا کشف ہے لیکن یہ طریقہ کشف کے بغیر ہے۔ سنت کی حفاظت اختصار کے طور پر ایک مختصر کتاب عقائد سے ہو سکتی ہے اور اس کی مقدار صرف اتنی ہے جو ہم اس کتاب میں قواعد عقائد کے تحت لکھا ہے اس سلسلے میں متوسطہ درجہ ایک سو ورق کا ہے جیسا کہ ہم نے کتاب الاقتصاد فی الاعتقاد لکھی ہے اس کی ضرورت اس لیے ہے کہ بدعتی سے مناظرہ کیا جائے اور اس کی بدعت کا مقابلہ کر کے اسے توڑا جائے اور عام آدمی کے دل سے اسے نکالا جائے۔ اور یہ بات صرف عوام کے ساتھ ہی معتبر ہے بشرطیکہ وہ تعصب میں پڑھ نہ گیا ہو جہاں تک بدعتی کا تعلق ہے تو وہ جب مناظرہ کا طریقہ سیکھ لیتا ہے اگرچہ تھوڑا سا ہی ہو تو اسے علم کلام سے بہت کم نفع حاصل ہوتا ہے اگر تم اسے خاموش ہی کر دو تو وہ اپنے مذہب کو نہیں چھوڑتا۔ اپنے نفس کا قصور سمجھ کر لوں فرض کرے گا کہ اس کے غیر کے پاس اس بات کا جواب ہے اور یہ جواب دیتے سے عاجز ہو گیا۔ اپنے آپ سے کہتا ہے کہ مخالف نے مناظرے کی قوت سے تجھے مغالطے میں ڈالا ہے۔

جہاں تک عام آدمی کا تعلق ہے تو جب اسے کسی قسم کی مناظرہ بازی کے ذریعے حق سے پھیر دیا جائے تو اس قسم کے انداز سے اسے واپس لوٹایا جاسکتا ہے جب تک وہ گمراہی میں زیادہ پکانہ ہو گیا ہو اگر ان لوگوں کا تعصب بڑھ جائے تو ان سے ناامیدی ہو جاتی ہے کیونکہ تعصب، نفوس میں عقائد کی پختگی کا سبب ہے اور یہ برے علماء کی آفات میں سے ہے

کیونکہ وہ حق کے خلاف سخت تعصب سے کام لیتے ہیں اور اپنے مخالفین کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان کی طرف سے مقابلے اور جوابی کارروائی کا دعویٰ ہوتا ہے اور وہ باطل کی بہت زیادہ مدد کرتے ہیں اور ان پر جس بات کا اہتمام ہوتا ہے اس کو مضبوطی سے اختیار کرتے ہیں ان کی غرض مضبوط ہو جاتی ہے۔ اگر علماء کرام ان لوگوں کو علیحدگی میں نرمی، پیار اور نصیحت کے طور پر سمجھاتے، تعصب اور حقارت کی نظر سے کام نہ لیتے تو وہ اس مقصد میں کامیاب ہو جاتے۔ لیکن جب تک پیروی کرنے والے لوگ نہ ہوں جاہ و مرتبہ قائم نہیں ہو سکتا اور جب تک مخالفین سے تعصب اور ان پر لعن طعن نہ کیا جائے کوئی بھی پیچھے آنے کے لیے قائل نہیں ہوتا لہذا ان لوگوں نے تعصب کو عادت اور آلہ بنایا اور اس کا نام دین کی حفاظت اور مسلمانوں کی حمایت رکھ لینا درحقیقت اس میں مخلوق کی ہلاکت اور دلوں میں بدعت کی مضبوطی ہے۔

وہ اختلافات جو اس پچھلے دور میں پیدا ہوئے اور اس سلسلے میں تحریکات، تصنیفات اور مناظرے ظاہر ہوئے اور اسلاف کے زمانے میں ان کا نام و نشان بھی نہ تھا، ان کے پاس جانے سے اپنے آپ کو بچانا اور اس سے اس طرح پرہیز کرنا جیسے زہر قتل سے پرہیز کیا جاتا ہے کیونکہ یہ لا علاج مرض ہے یہی وہ بیماری ہے جس نے تمام فقہاء کو مقابلہ اور ایک دوسرے پر فخر کرتے ہیں مبتلا کر دیا ہے جیسا کہ عنقریب اس کی آفات اور ہلاکتوں کا ذکر آئے گا بعض اوقات اس قسم کا کلام اس کے قائل سے سنا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے لوگ جس چیز سے بے خبر ہوئے ہیں اس کے دشمن ہوتے ہیں۔ لہذا تم اس راستے پر نہ چلو، یہ بات تو باخبر آدمی کے پاس آتی ہے تم اس نصیحت کو اس شخص سے قبول کرو جس نے اس میں زندگی گزاری ہے۔ اور اس سلسلے میں پہلے لوگوں سے زیادہ کتابیں لکھیں تحقیق اور مناظرے کئے اور بیان کیا پھر اللہ تعالیٰ اس شخص کے دل میں ہدایت ڈال دیتا ہے اور اس چیز کے عیب پر اسے مطلع کر دیتا ہے چنانچہ وہ اسے چھوڑ کر اپنے نفس کی اصلاح میں مشغول ہو جاتا ہے تو نہیں اس شخص کا قول دھوکہ نہ دے جو کہتا ہے کہ فتویٰ شریعت کا ستون ہے اور اس کی علتوں کو اختلافی امور کے جانے بغیر معلوم نہیں کیا جاسکتا تو اسے، قول سے تمہیں مغالطہ نہ ہو کیوں کہ مذہب میں مذکور ہیں اور جو کچھ اس سے زائد ہے وہ محض جھگڑے ہیں ہمارے اسلاف اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی ان کو نہیں جانتے تھے حالانکہ وہ قادیانی کی علتوں کا علم دوسروں کی نسبت زیادہ رکھتے تھے بلکہ یہ بات تو علم مذہب میں غیر مفید ہونے کے ساتھ ساتھ ذوق فقہ کے لیے نقصان دہ اور فساد کا باعث ہے کیوں کہ جس شخص کے لیے مفتی کی زیر کی اور دانائی شاید ہوتی ہے جب فقہ میں اس کا ذوق صحیح ہو جاتا ہے تو اکثر معاملات میں اس کے لیے مناظرے کی شرائط پر چلنا ممکن نہیں ہوتا۔ تو جس شخص کی طبیعت مناظرانہ رسوم سے مانوس ہو گئی اس کا ذہن مناظرہ کے تقاضوں کی طرف جاتا ہے اور ذوق فقہ کو مانتے ہیں بزدل ہو جاتا ہے اور اس مناظرہ میں وہی شخص مشغول ہوتا ہے جسے شہرت اور مرتبہ کی خواہش ہوتی ہے اور وہ بہانہ یہ کرتا ہے کہ وہ مذہب کی علتیں تلاش کرتا ہے اس طرح زندگی ختم ہو جاتی ہے اور اس کی بہت علم مذہب کی طرف رخ نہیں کرتی۔ لہذا تم جنوں کے شیطانوں سے امن میں رہو اور

انسانی شیطانوں سے ڈور رہو کیونکہ انہوں نے گمراہ کرنے میں تھکاوٹ سے شیاطین جن کو آرام پہنچایا ہے۔
 خلاصہ کلام یہ ہے کہ عقل مند لوگوں کے نزدیک پندیرہ بات یہ ہے کہ تم اس جہاں میں تصور کرو کہ تمہارا نفس صرف اللہ
 تعالیٰ کے لیے تمہارے سامنے موت ہے، حاضری، حساب، بخت اور دوزخ ہے اور غور کرو کہ جو کچھ تمہارے سامنے
 ہے ان میں سے کونسی چیز تمہاری مددگار ہے اس کے سوا سب کچھ چھوڑ دو تم پر سلامتی ہو۔

کسی بزرگ نے خواب میں کسی عالم کو دیکھا تو اس سے پوچھا جن علوم میں تم مناظرے کرتے اور جھگڑتے تھے ان کے
 بارے میں کیا خبر ہے اس نے ہاتھ پھیلا کر اس پر پھونک ماری اور کہا کہ سب کچھ خاک ہو کر اڑ گیا اور مجھے تو صرف ان
 دو رکعتوں نے فائدہ دیا جو میں نے رات کے وقت ادا کی تھیں۔ حدیث شریف میں ہے: "جو کوئی بھل قوم ہدایت کے بعد
 گمراہی کی طرف نہیں جاتی مگر ان کا جھگڑا وہاں جاتا ہے" پھر آپ نے پڑھا۔

مَا صَدُّوْا لَكَ اِلَّا جَدًّا رَءِيْلٌ لَّهُمْ قَوْمٌ
 خَصْمُوْنَ۔ (۱)

یہ لوگ آپ کے لیے جھگڑا اللہ تعالیٰ کے ارشاد "اور
 وہ لوگ جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے"

کے مفہوم میں حدیث شریف میں آیا کہ اللہ تعالیٰ کے اس قول میں مناظرہ باز لوگوں کا ذکر ہے لہذا ان سے بچو۔ (۲)
 بعض بزرگوں نے فرمایا آخری زمانے میں ایک ایسی قوم ہوگی جن پر عمل کا دروازہ بند ہو جائے گا اور مناظرے کا دروازہ
 کھل جائے گا۔

بعض روایات میں ہے:

اِنَّكُمْ فِيْ زَمَانٍ اُلْهِمْتُمْ فِيْهِ الْعَمَلِ
 وَ سَيَاتِيْ قَوْمٌ يُّلْهِمُوْنَ الْجَدَلَ (۳)

تم اس زمانے میں ہو جس میں تمہیں عمل کا الہام ہوا عنقریب
 ایک زمانہ آئے گا کہ ان کے دلوں میں مناظرے کا شوق
 ڈال دیا جائے گا۔

اور ایک مشہور حدیث میں ہے آپ نے فرمایا
 اَبْغَضُ الْخَلْقِ اِلَى اللّٰهِ تَعَالٰى الْاَوْلَادُ الْخَصِمِ
 (۴)

اللہ تعالیٰ کے ہاں بدترین مخلوق وہ شخص ہے جو بہت زیادہ
 جھگڑا تو ہے۔

ایک اور حدیث میں ہے:-

(۱) قرآن مجید سورہ زُحُور آیت ۵۸، سنن ابن ماجہ ص ۶ باب اجتناب البدع والجدل۔

(۳) الاحادیث الصغیرة الموصلة ۱- (۲۷) مسند امام احمد بن حنبل جلد ۶ ص ۵۵

(۴) الاسرار المرقومہ ص ۱۹۹

جس قوم کو بولنے کی قوت دی گئی وہ عمل سے روک دی
گئی۔

مَا دَرَيْتُمْ قَوْمَ الْمَنْطِقِ إِلَّا مَنِعُوا
الْعَمَلَ (۱)
واللہ اعلم بالصواب۔



(۱) حضرت امام غزالی رحمہ اللہ وعظما مناظرہ کے مخالف نہیں البتہ ان کے نزدیک وہ واعظین یا مناظر قابل مذمت ہیں جو
دوسروں کو وعظ کرتے ہیں خود عمل سے بے نیاز ہیں نیز اُلٹے سیدھے واقعات اور اشعار کے ذریعے رقم بھرتے اور
نمائش کرتے ہیں یا اپنی شہرت کے لئے مناظرے بازی میں لگے رہتے ہیں اگر کوئی عالم لوگوں کو وعظ کرتا ہے اور خود بھی عمل کرتا ہے
یہ سب کھٹرت واقعات نہیں بیان کرتا یا کوئی عالم بد عقیدہ لوگوں کے دہل و فریب کو دور کرنے کے لیے مناظرہ کر کے لوگوں کو گمراہ ہونے
سے بچاتا ہے تو یہ کام اچھا ہے ۱۲ ہزاروی۔

چوتھا باب

علمِ خلافت کی طرف لوگوں کی توجہ کا سبب مناظرے اور مجادلے کے نقصانات اور شرائطِ جواز

جان لو! رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفائے راشدین جو راہِ ہدایت پر تھے خلافت کے منصب پر فائز ہوئے یہ حضرات ایسے حکمران تھے جو عالم باللہ تھے، احکامِ خداوندی کو سمجھنے والے اور مقدمات کے فیصلوں میں فتاویٰ کے ماہر اور مستقل تھے وہ دوسرے فقہاء سے بہت کم ہدایت تھے، اور وہ بھی ان واقعات میں جہاں مشورہ کی ضرورت ہوتی تھی۔ لہذا علماء کرامِ علمِ آخرت کے لیے فارغ تھے اور ان کا کوئی دوسرا مشغل نہ تھا وہ فتاویٰ اور مخلوق کے دنیوی مسائل کو ایک دوسرے پر ٹالتے تھے (خود فتویٰ نہیں دیتے تھے) اور وہ مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہتے تھے۔ جیسا کہ ان کی سیرتوں سے نقل کیا گیا ہے۔ جب ان کے بعد خلافت (حکومت) ایسے لوگوں تک پہنچی جو اس کے اہل نہ تھے اور نہ ہی وہ فتاویٰ اور احکام کے ماہر تھے تو انہیں فقہاء کرام کی مدد اور احکام کے اجراء میں ان سے مدد لینے کے لیے انہیں ہر وقت ساتھ رکھنے کی ضرورت پڑی۔

اس وقت تابعین میں سے ایسے علماء کرام موجود تھے جو پہلے طور طریقوں پر چلتے تھے اور دینِ خالص سے منہمک تھے وہ علمائے سلف کے نقش قدم پر چلتے تھے، انہیں جب بلا یا جانا تھا تو وہ بھاگتے تھے اور اعراض کرتے تھے لہذا حکمرانوں کو ضرورت محسوس ہوئی کہ وہ اصرار کر کے انہیں طلب کریں اور قضا اور حکومت کے دوسرے مناصب پر فائز کریں۔

اس زمانے کے لوگوں نے علماء کی عزت اور ان کے اعراض کے باوجود حکمرانوں کا ان کی طرف متوجہ ہونا دیکھا تو انہوں نے حکمرانوں کی طرف سے جاہ و مرتبہ حاصل کرنے کے لیے طلبِ علم کی طرف توجہ کی وہ علمِ فتاویٰ میں منہمک ہوئے اور پھر اپنے آپ کو حکمرانوں کے سامنے پیش کیا ان سے تعارف کروایا، نیز عہدے اور انعام کا مطالبہ کیا، چنانچہ ان میں سے کچھ تو محروم رہے لیکن بعض نے کامیابی حاصل کی، لیکن کامیابی حاصل کرنے والے بھی مانگنے کی رسوائی اور طفیلی ہونے کی ذلت سے تہ تیغ سکے۔ چنانچہ فقہاء کرام پہلے مطلوب ہوتے تھے اب طالب بن گئے۔ پہلے حکمرانوں سے منہ پھرنے کی وجہ سے معزز تھے اب ان کے پاس آنے کی وجہ سے ذلیل و رسوا ہو گئے۔ مگر جن علمائے دین کو اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں (سنجے کی) توفیق عطا فرمائی۔ چونکہ حکومتوں کو زیادہ فتاویٰ اور مقدمات کے فیصلوں کے علم کی زیادہ

ضرورت پڑتی تھی اس لئے اس دور میں ان دو علموں کی طرف زیادہ توجہ تھی۔

پھر امراد اور روسا کو قواعد عقائد کے مقالات سننے اور ان کے دلائل سننے کا شوق اور میلان ہوا چنانچہ حیب لوگوں کو معلوم ہوا کہ یہ لوگ علم کلام میں مناظرہ اور مجادلہ کی رغبت رکھتے ہیں تو وہ علم کلام کی طرف متوجہ ہو گئے اس میں بہت سی کتابیں لکھیں اور مناظرے کے طریقے مرتب کئے گفتگو میں دوسرے کی بات کو ٹوڑنے کے گونگا لے اور انہوں نے دعویٰ کیا کہ ان کی عرض دین اسلام اور سنت کی حفاظت تیز بدعت کا قلع ختم کرنا ہے۔ جیسا کہ ان سے پہلے لوگوں کا دعویٰ تھا کہ ہماری عرض دین کے فتاویٰ سیکھ کر مسلمانوں کے مسائل کا کفیل بنا ہے اور اس میں مخلوق پر شفقت اور ان کی خیر خواہی ہے۔ پھر ایسے حکمران ظاہر ہوئے جنہوں نے علم کلام میں غور و غوض اور مناظرہ کو اچھا نہ سمجھا کیونکہ اس کے ذریعے بے حد تعصب اور ایسے جھگڑے پیدا ہو گئے جن کی وجہ سے خون ریزی اور شہروں کی تباہی تک نوبت پہنچ گئی۔

لہذا اب ان کی توجہ فقہ میں مناظرہ کی طرف ہو گئی اور یہ کہ امام شافعی اور امام ابو حنیفہ رحمہما اللہ میں کس کا مذہب بہتر ہے لہذا لوگوں نے علم کلام اور فنون علم کو چھوڑ دیا اور خاص طور پر امام شافعی اور امام ابو حنیفہ کے درمیان اختلافی مسائل کی طرف مائل ہو گئے جب کہ امام مالک، سفیان ثوری اور امام احمد رحمہم اللہ کے ساتھ اختلاف کو نظر انداز کر دیا ان لوگوں نے دعویٰ کیا کہ ان کی عرض شریعت کی باریکیوں اور مذہب کی علتوں کو ثابت کرنا اور اصول فتاویٰ تیار کرنا ہے چنانچہ انہوں نے اس سلسلے میں بہت سی کتب تصنیف کیں اور اجتہادات کے نیز ان کتب میں طرح طرح کے مجادلات و مناظرات اور تصانیف کا ذکر کیا اور اب تک امام غزالی رحمہ اللہ کے دور تک وہ اسی ڈگر پر چل رہے ہیں اور ہم نہیں جانتے کہ ہمارے بعد کے زمانوں میں کیا صورت پیدا ہوگی (۱)

تو مناظروں اور اختلافات کی طرف متوجہ ہونے کا سبب صرف یہی تھا اور کچھ نہیں۔ اگر دنیا داروں کا میلان دوسرے ائمہ یا دوسرے علوم میں اختلاف کی طرف ہوتا تو یہ لوگ ادھر مائل ہو جاتے۔ اور وہ یہ دلیل پیش کرتے کہ وہ جس کام میں مشغول ہیں یہ علم دین ہے اور ان کا مقصد صرف اور صرف تمام جہانوں کے رب کا قرب حاصل کرنا ہے۔

یہ اس دھوکے کا بیان ہے جس کے ذریعے باور کرایا جاتا ہے کہ یہ مناظرے صحابہ کرام کے مشوروں اور

مناظرات کو صحابہ کرام کی مشاورت سے تشبیہ و تمثیل

اسلاف کے مذاکرات کی طرح ہیں۔

ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ لوگ، عوام کو آہستہ آہستہ اس بات کی طرف لے جا رہے ہیں کہ ان مناظروں سے ہماری

(۱) امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد تو صورت حال مزید بگڑ گئی اس وقت کم از کم فقہی مسائل کی طرف توجہ تھی اب مناظرہ باز حضرات کا میدان دوسرا ہے اور فقہ کا علم نہ ہونے کے برابر (العیاذ باللہ) ۱۲ ہزاروی

غرض، حق پر بحث کرنا ہے تاکہ وہ واضح ہو جائے۔ کیونکہ حق مطلوب ہے اور علم میں غور و فکر نہ کر کے آراء کا متفق ہونا مفید ہے، صحابہ کرام کے مشوروں میں بھی یہی بات تھی مثلاً انہوں نے دارا کی موجودگی میں بھائیوں کی (وراثت سے) محرومی، شراب نوشی کی حد، امام (حکمران) غلطی کرے تو اس پر تاوان ڈالنا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے خوف سے ایک عورت کا حمل ساقط ہو گیا تھا اور جیسے وراثت وغیرہ کے مسائل میں ان کے مشورے منقول ہیں اور جس طرح حضرت امام شافعی امام احمد، امام محمد بن حسن، امام مالک امام ابو یوسف اور دیگر ائمہ رحمہم اللہ سے منقول ہے۔

ان حضرات کے دھوکوں پر میری آئندہ کی گفتگو سے نہیں عنقریب اطلاع ہو جائے گی۔ (یعنی وہ اس بات کے ذریعے دھوکہ دیتے ہیں کہ) طلب حق پر ایک دوسرے کی مدد کرنا دین ہے (اور اس طرح وہ مناظروں کو دین قرار دیتے ہیں) لیکن مناظرہ کے لیے آٹھ شرائط اور علامات ہیں۔

جو مناظرہ حق کی تلاش کے لیے کیا جائے اس کے لیے درج ذیل آٹھ شرائط ہیں۔

طلب حق کے لیے مناظرہ کی شرائط

پہلی شرط۔ جو شخص فرض عین سے فارغ نہ ہو وہ مناظرہ میں مشغول نہ ہو کیونکہ یہ فرض کفایہ ہے اور جو شخص فرض کفایہ میں مشغول ہوتا ہے حالانکہ اس کے ذمہ فرض عین باقی ہے اور وہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس کا مقصد حق (کی تلاش) ہے تو وہ آدمی جھوٹا ہے اس کی مثال یہ ہے کہ ایک شخص خود نماز کو چھوڑ دیتا ہے اور کپڑوں کے حصول اور بننے میں مشغول ہو جاتا ہے اور کہتا ہے، میری غرض یہ ہے کہ میں اس شخص کے ستر کو ڈھانپوں جو برہنہ نماز پڑھتا ہے اور اس کے پاس کپڑا نہیں۔ ایسا بھی ہو بھی جاتا ہے اور یہ ممکن ہے جیسے ایک فقیہ گمان کرتا ہے کہ جن اختلافی مسائل میں بحث ہوتی ہے اگرچہ وہ نادر ہیں لیکن ان کا وقوع ممکن ہے جو لوگ مناظرے میں مشغول ہوتے ہیں وہ ایسی باتوں کو چھوڑ دیتے ہیں جن کے فرض عین ہونے پر سب کا اتفاق ہے اور جس شخص نے امانت فوراً واپس کرنا ہو اور وہ کھڑا ہو کر نماز شروع کر دے جو اللہ تعالیٰ کے قرب کا سب سے بڑا ذریعہ ہے تو ایسے شخص نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، تو کوئی شخص بھی عبادت کے سلسلے میں اس وقت تک فرمانبردار شمار نہیں ہوتا جب تک وہ اس میں وقت، شرائط اور ترتیب کی رعایت نہ کرے۔

دوسری شرط۔ مناظرہ کی نسبت کوئی دوسرا فرض کفایہ اہم نہ ہو کیونکہ جب کوئی شخص کسی اہم کو دیکھتے ہوئے اس کے علاوہ کام کرتا ہے تو اس عمل میں وہ گناہ گار شمار ہوتا ہے اس کی مثال یہ ہے کہ ایک آدمی دیکھ رہا ہے کہ پیاسے لوگوں کی ایک جماعت ہے اور وہ لوگ ہلاکت کے قریب ہیں اور لوگوں نے ان سے پہلو تہی کر لی ہے جب کہ یہ آدمی ان کو پانی پلا کر ان کی زندگی بچا سکتا ہے لیکن یہ پھینے لگانے کا طریقہ سیکھنا شروع کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ فرض کفایہ ہے اور اگر اس سے شہر خالی ہو گیا تو لوگ ہلاک ہو جائیں گے۔ اور جب اس سے کہا جائے کہ شہر میں پھینا لگانے والوں کی ایک

پوری جماعت موجود ہے اور وہ کافی ہے تو وہ کہتا ہے اس سے اس کام کا فرض کفایہ ہوتا ختم تو نہیں ہو گیا۔ تو جو شخص یہ عمل کرتا ہے اور اس کام کو چھوڑ دیتا ہے جو نہایت ضروری ہے یعنی مسلمانوں کی جماعت کو پانی نہ پلانے تو اس کا حال اس شخص کی طرح ہے جو مناظرے میں مشغول ہو جاتا ہے حالانکہ شہر میں کئی دوسرے فرض کفایہ ہیں جنہیں قائم کرنے والا کوئی دوسرا شخص نہیں ہے کہ مثلاً فتویٰ دینا ہے تو اسے قائم کرنے والی ایک جماعت موجود ہے جب کہ شہر میں کئی ایسے فرض کفایہ ہیں جنہیں چھوڑ دیا گیا اور فقہاء کرام اس طرف متوجہ نہیں ہیں ان میں سے زیادہ قریب طب ہے کیونکہ اکثر شہروں میں مسلمان ڈاکٹر دستیاب نہیں ہے کہ طبی امور میں اس کی گواہی شرعاً معتبر ہو لیکن کوئی بھی فقیہ اس عمل میں مشغول ہونے کے لیے تیار نہیں ہے اس طرح نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا بھی فرض کفایہ امور میں ہے ہیں اور بعض اوقات اپنی مجلس مناظرہ میں دیکھتا ہے کہ ایک شخص نے ریشم پہنا ہوا ہے یا ریشمی بچھونا بچھا ہوا ہے لیکن یہ خاموش رہتا ہے اور اس مسئلے میں مناظرہ کرتا ہے جو کبھی بھی وقوع پذیر نہیں ہوگا۔ اور اگر کبھی واقع ہو تو اسے قائم کرنے والی فقہاء کی ایک جماعت موجود ہوتی ہے۔ پھر وہ دعویٰ کرتا ہے کہ فرض کفایہ امور کے ذریعے وہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے۔ حالانکہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے "عرض کیا گیا یا رسول اللہ! امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو کب چھوڑ دیا جائے گا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

اِذَا ظَهَرَتِ الْمُدَاهَنَةُ فِي خِيَارِكُمْ
وَالْفَاحِشَةُ فِي شِرَارِكُمْ وَتَحَوَّلَ الْمَلِكُ
فِي صِغَارِكُمْ وَالْفِقْهُ فِي اِرَادِكُمْ (۱)

جب تم میں سے بہترین لوگوں میں مداہنت پیدا ہو جائے
گی، برے لوگوں میں بے حیائی پھیل جائے گی، حکومت
چھوٹی عمر کے لوگوں کے سپرد ہو جائے گی اور فقہ کینے
لوگوں کے سپرد ہو جائے گی،

تیسری شرط: مناظر مجتہد ہو جو اپنی رائے کے مطابق فتویٰ دے حضرت امام شافعی یا حضرت امام ابوحنیفہ رحمہما اللہ کے مذہب پر ہیں حتیٰ کہ اگر اس کے سامنے حق، حضرت امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کے مذہب کے موافق ظاہر ہو تو امام شافعی رحمہ اللہ کی رائے کو چھوڑ دے اور جو کچھ اس کے سامنے ظاہر ہو اس کے مطابق فتویٰ دے جیسے صحابہ کرام اور ائمہ دین کرتے تھے اور جس شخص کو اجتہاد کا مرتبہ حاصل نہ ہو جیسا کہ اس زمانے کے سب لوگوں کا حال ہے اور اس سے جو مسئلہ پوچھا جاتا ہے، وہ اپنے مذہب سے نقل کر کے جواب دیتا ہے اور اگر اس کے مذہب کی کمزوری ظاہر بھی ہو جائے تو وہ اپنے مذہب کو نہیں چھوڑ سکتا تو مناظرے کا کیا فائدہ ہے جب کہ اس کا مذہب بھی معلوم ہے اور وہ دوسرے مذہب پر فتویٰ بھی نہیں دے سکتا اور جوابات اس کے لیے مشکل ہو تو اس پر لازم ہے کہ کہے شاید میرے امام

(۱) سنن ابن ماجہ ص ۲۹۹ باب الفتن۔

مذہب کے پاس اس کا جواب ہو مجھے اصل شریعت میں اجتہاد کی صلاحیت حاصل نہیں اور اگر جس مسئلے میں بحث کرتا ہے اس میں اس کے امام کے دو قول یا دو صورتیں ہیں تو یہ بحث مناسب ہے کیونکہ بعض اوقات وہ ایک صورت کے مطابق فتویٰ دیتا ہے تو بحث سے یہ فائدہ ہوگا کہ دونوں میں سے ایک جانب اس کا میدان ہو جائے گا اور اس کا قوی ہونا معلوم ہو جائے گا، حالانکہ ایسے مسائل میں مناظرے نہیں ہوتے بلکہ بعض اوقات وہ مسئلہ چھوڑ دیا جاتا ہے جس میں دو صورتیں یا دو قول ہوں اور ایسا مسئلہ تلاش کیا جاتا ہے جس میں قطعاً اختلاف نہ ہو۔

چوتھی شرط۔ وہ صرف اسی مسئلے میں مناظرہ کرے جو واقع ہو چکا ہے یا عنقریب واقع ہوگا۔ کیونکہ صحابہ کرام کی مشاورت بھی تو اوقات کے بارے میں ہوتی تھی۔ یا جن مسائل کا وقوع ہوتا جیسے وراثت کے مسائل، اور ہم نہیں دیکھتے کہ مناظرین ان مسائل میں تحقیق کا اہتمام کرتے ہوں جن میں عام لوگ مبتلا ہیں اور ان کو شرعی حکم کی ضرورت ہے۔ بلکہ وہ ایسے مسائل ڈھونڈتے ہیں جن میں جھگڑے کی گنجائش زیادہ ہو چاہے کسی طرح بھی ہو اور بعض ان مسائل کو چھوڑ دیتے ہیں جو عام واقع ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ حدیث سے متعلق ہے یا اتفاقی مسئلہ ہے اور اختلافی مسائل سے نہیں ہے پس تعجب ہے کہ مقصد تو طلبِ حق ہے پھر وہ مسائل کو چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ حدیث سے متعلق ہے حالانکہ امرِ حق تو احادیث سے ہی حاصل ہوتا ہے یا یہ کہ یہ مسئلہ طویل نہیں اور ہم اس میں کلام کو طول دینا نہیں چاہتے، حالانکہ حق کے معاملے میں مقصود یہی ہوتا ہے کہ مختصر کلام کے ذریعے فوراً مطلب تک پہنچ جائیں نہ یہ کہ کلام کو طول دیا جائے۔

پانچویں شرط۔ تنہائی میں مناظرہ کرنا اس کے نزدیک امرِ زیادہ شاہوں کی مجلس کے مقابلے میں زیادہ پسندیدہ اور اہم ہو کیونکہ خلوت میں ذہن مجتمع ہوتا ہے اور اس طرح ذہن اور فکر کی صفائی زیادہ ہوتی ہے اور حق کو پایا جاسکتا ہے جب کہ لوگوں کے سامنے رہا کاری کے لازم متحرک ہو جاتے ہیں اور فریقین میں سے ہر ایک کو اپنی برتری کی حرص ہوتی ہے چاہے وہ حق پر ہو یا باطل پر۔ اور تم جانتے ہو کہ ان (مناظرین) کا اجتماع عوام کی خواہش رکھنا اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے نہیں ہوتا کیونکہ یہ لوگ ایک طویل عرصہ تک آپس میں تنہائی میں ملتے ہیں لیکن ایک دوسرے سے ان مسائل کے بارے میں کلام نہیں کرتے اور بعض اوقات اس سے سوال کیا جاتا ہے تو جواب نہیں دیتا اور جب کوئی منصب دار وہاں ہوتا ہے یا لوگوں کا اجتماع ہوتا ہے تو وہ تقریباً اپنی انفرادیت ثابت کرنے میں کوئی دقیقہ فرما کر گذرنا نہیں کرتا۔

چھٹی شرط۔ طالبِ حق اس شخص کی طرح ہو جس کی کوئی چیز کم ہو گئی ہو وہ اس بات میں فرق نہیں کرتا کہ گمشدہ چیز اس کے ہاتھوں ملے یا کسی معاون کے ذریعے۔ وہ اپنے ساتھی کو مددگار سمجھتا ہے مخالف نہیں سمجھتا۔ اگر وہ اسے اس کی غلطی پر آگاہ کرے اور اس کے سامنے حق کو واضح کرے تو یہ اس کا شکریہ ادا کرتا ہے جس طرح اگر وہ اپنی گمشدہ چیز کی تلاش میں ایک راستے پر چلے اور اس کا ساتھی بتائے کہ گمشدہ چیز

دوسرے راستے پر ہے تو وہ اس کا شکر یہ ادا کرتا ہے اس کی برائی بیان نہیں کرتا اس کی عزت کرتا ہے اور اس بابت پر خوشی کا اظہار کرتا ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے باہم مشورے اسی انداز میں ہوتے تھے۔

حتیٰ کہ ایک خاتون نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بات کو تسلیم نہ کیا اور انہیں صحیح بات کی خبر دی حالانکہ اس وقت آپ لوگوں کے اجتماع میں خطبہ دے رہے تھے۔ آپ نے فرمایا عورت نے صحیح کہا، مرد سے غلطی ہو گئی، ایک شخص نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک سوال کیا تو آپ نے اسے جواب دیا اس نے عرض کیا امیر المؤمنین! بات اس طرح نہیں ہے بلکہ اس طرح ہے۔ آپ نے فرمایا تم نے ٹھیک کہا مجھ سے خطا ہو گئی۔ اور ہر علم والے سے اور پر علم والا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ بات بتائی جو ان سے رہ گئی تھی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے فرمایا جب یہ عظیم عالم تم میں موجود ہے تو مجھ سے کسی بات کے بارے میں مت پوچھو۔ واقعہ یوں ہے کہ جب حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے ایک آدمی کے بارے میں پوچھا گیا جس نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کیا اور شہید ہو گیا انہوں نے فرمایا وہ جنت میں جائے گا اس وقت آپ امیر کو فرماتے تھے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور سائل سے فرمایا دوبارہ سوال کرو شاید امیر سمجھ نہیں پائے انہوں نے پھر سوال کیا حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے جواب دیا تو حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں کہتا ہوں کہ اگر وہ یوں قتل ہوا کہ حق پر تھا تب وہ جنت میں جائے گا، حضرت ابو موسیٰ نے فرمایا حق وہی ہے جو آپ نے فرمایا، نوطاب حق کے انصاف کا تقاضا یہی ہے اگر آج کے زمانے میں اس قسم کی بات کسی لونی فقہیہ کے سامنے ذکر کی جائے تو وہ اس کا انکار کرے گا اور اسے بہت بعید سمجھے گا، اور کہے گا یہ بات کہنے کی ضرورت نہیں کہ وہ حق تک پہنچا کیونکہ یہ بات تو ہر ایک کو معلوم ہے، تو آج کے زمانے کے مناظر کو دیکھو کہ جب اس کے مخالف کی زبان پر حق بات ظاہر ہوتی ہے تو اس کا چہرہ کیسے سپاہ ہو جاتا ہے اور اسے اس وجہ سے کس قدر شرمندگی ہوتی ہے اور وہ انکار کرنے کی انتہائی کوشش کرتا ہے اور جس کے ہاتھوں ذلیل ہوا عمر بھر اس کی برائی بیان کرتا ہے پھر وہ جیا نہیں کرتا کہ اپنے آپ کو صحابہ کرام سے تشبیہ دیتا ہے کہ وہ بھی ان کی طرح حق کی تلاش میں غور و فکر کے ذریعے نڈر گار ہے۔

ساتویں شرط۔ اگر مناظرہ میں شریک دوسرا فریق بحث مباحثہ میں ایک دلیل سے دوسری دلیل کی طرف اور ایک اعتراض سے دوسرے اعتراض کی طرف آگے تو اسے منع نہ کرے ہمارے اسلاف کے مناظرے اسی طرح ہوا کرتے تھے لہذا اس کے کلام سے جھگڑنے کے سلام میں تمام نئی دقیق باتیں جو اس کے حق میں ہوں یا مخالف خارج ہونی چاہیں جیسے وہ کہتا کہ مجھ پر اس بات کا ذکر لازم نہیں ہے یا یہ کہ یہ بات تمہاری پہلی بات کے خلاف ہے لہذا قبول نہیں ہے۔ کیونکہ حق کی طرف رجوع باطل کو توڑتا ہے اور اس کو قبول کرنا واجب سے اور تم دیکھتے ہو کہ یہ تمام مجالس ایک دوسرے

کی دلیل کو رد کرنے اور جھگڑوں پر ختم ہو جاتی ہیں حتیٰ کہ جب کوئی دلیل دینے والا کسی ایک اصل کی علت ٹھہرا کر قیاس کرتا ہے تو اسے کہا جاتا ہے اس پر کیا دلیل ہے کہ اصل میں اس حکم کی علت یہی ہے وہ کہتا ہے مجھے تو یہی معلوم ہوئی ہے اگر تیرے پاس اس سے زیادہ واضح اور بہتر علت ہے، تو اسے ذکر کرتا کہ میں اس میں غور کروں تو معترض اس بات پر ڈٹ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ جو کچھ تم نے ذکر کیا ہے اس میں کئی معانی ہیں لیکن میں نہیں بتاؤں گا کیونکہ یہ بات مجھ پر لازم نہیں۔ دلیل دینے والا کہتا ہے کہ تم اس کے علاوہ جس کو علت مانتے ہو اسے پیش کرو لیکن معترض اصرار کرتا ہے کہ پیش کرنا اس پر لازم نہیں۔ تو اس قسم کے سوالوں سے مجالس مناظرہ میں شور و غوغا رہتا ہے۔ اور وہ معترض بیچارہ اتنی بات نہیں سمجھتا کہ اس کا کہنا کہ مجھے یہ علت معلوم ہے لیکن میں ذکر نہیں کروں گا کیونکہ مجھ پر لازم نہیں یہ شریعت پر جھوٹا باندھنا ہے کیونکہ اگر اسے معنی معلوم نہیں بلکہ وہ محض مخالف کو عاجز کرنے کے لیے یہ دعویٰ کرتا ہے تو وہ فاسق کذاب ہے اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور اس کی ناراضگی کو دعوت دی کیونکہ اس نے علم کا دعویٰ کیا حالانکہ وہ اس سے خالی ہے اور اگر وہ اپنے دعویٰ میں سچا ہے تو شریعت کی معلوم بات کو چھپانے کی وجہ سے فاسق ہو گیا حالانکہ اس کے مسلمان بھائی نے اس سے پوچھا تھا تا کہ وہ اس کو سمجھ کر اس میں غور و فکر کرے اور اگر وہ علت قومی ہے تو وہ اس کی طرف رجوع کرے اور اگر کمزور ہے تو اس کے لیے اس کی کمزوری کو واضح کرے اور اسے جہالت کے اندھیرے سے علم کے نور کی طرف لے جائے اور اس بات میں کوئی اختلاف نہیں کہ علوم دین میں سے جو علم حاصل ہو اگر اس کے بارے میں پوچھا جائے تو جواب دینا ضروری ہو جاتا ہے، لہذا اس کا یہ کہنا کہ یہ جواب اس پر لازم نہیں یعنی مناظرہ بازی کی شریعت جسے ہم نے خواہشات اور عہد سازی کے طریقوں میں رغبت اور کلام کے ذریعے دوسروں کو نیچا دکھانے کے لیے بنایا ہے اس کے مطابق پھر اس سوال کا جواب مجھ پر لازم نہیں ورنہ شرعی حکم کے مطابق لازم ہے کیونکہ اس کے ذکر سے رکنے کی وجہ سے وہ کاذب ہے یا فاسق۔

تو ہمیں صحابہ کرام کی مشاورت اور اسلاف کے مذاکرات کو دیکھنا چاہیے کیا وہ اس طرح کے ہوتے تھے اور کہا کسی نے ایک دلیل سے دوسری دلیل کی طرف اور قیاس سے حدیث کی طرف اور حدیث سے قرآن پاک کی طرف جانے سے منع کیا ہے بلکہ ان تمام مناظرے اسی طرح کے ہوتے تھے یعنی جو کچھ ان کے دل میں آتا تھا وہ مجلس میں ذکر کر دیتے تھے اور وہ سب اس میں غور و فکر کرتے تھے۔

آٹھویں شرط۔ مناظرہ اس شخص سے کرے جو علم میں مشغول ہو اور اس سے جو کچھ حاصل ہونے کی توقع ہو اور اب غالباً یوں ہوتا ہے کہ وہ بڑے بڑے علماء کے ساتھ مناظرہ کرنے سے پرہیز کرتے ہیں کیونکہ انہیں ڈر ہوتا ہے کہ کہیں ان کی زبان پر حق بات نہ آجائے۔ لہذا وہ اپنے سے کم علم لوگوں کے ساتھ مناظرہ کرتے ہیں تاکہ ان میں باطل کو رواج نہ دے ان شرائط کے علاوہ بہت سی دقیق شرائط ہیں لیکن ان آٹھ شرائط سے تمہیں راہنمائی مل جائے گی کہ کون شخص اللہ تعالیٰ

کے لئے مناظرہ کرتا ہے اور کونسا آدمی دوسرے مقاصد کے لیے مناظرہ میں مصروف ہوتا ہے۔

حاصل کلام یہ ہے کہ جو شخص شیطان سے مناظرہ نہیں کرتا حالانکہ وہ اس کے دل پر مسلط ہے اور وہ اس کا بدترین دشمن ہے اور وہ اسے ہمیشہ ہلاکت کی طرف بلاتا ہے تو یہ شخص (شیطان کی بجائے) دوسرے لوگوں سے ان مسائل میں مناظرہ کرتا ہے جن میں مجتہد راہ صواب پاتا ہے یا صحیح اجتہاد والے کے ساتھ ثواب میں شریک ہوتا ہے تو ایسا مناظرہ شیطان کا کھلونا اور مخلصین کے لیے عبرت ہے۔ تو شیطان اس پر اسی لیے خوش ہوتا ہے کہ اس نے اسے آفات و مصائب کے ان اندھیروں میں غوطہ دیا جن کا ہم ذکر کریں گے اور تفصیل بیان کریں گے، ہم اللہ تعالیٰ سے اچھی مدد اور توفیق کا سوال کرتے ہیں۔

مناظرہ کی آفات اور ہلاکت خیزی

واضح ہو کہ جو مناظرہ حصول غلبہ، دوسروں کو لا جواب کر دینے، اپنے فضل و ثروت کو ظاہر کرنے، لوگوں کے سامنے نہ کھول کھول کر باتیں کرنے، فخر و تکبر نیز دوسروں کو ذلیل و رسوا کرنے کی غرض سے ہو وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمام بری عادات کا اور اللہ تعالیٰ کے دشمن شیطان کے نزدیک قابلِ تعریف ہے، باطنی برائیوں مثلاً تکبر، خود پسندی، حسد، بغض، پاکباز بننے اور مرتبہ وغیرہ کے ساتھ مناظرے کو وہی نسبت ہے

جو شراب کو ظاہری برائیوں مثلاً زنا، الزام تراشی، قتل، اور چوری وغیرہ کے ساتھ ہے۔ اور جس طرح وہ شخص جسے شراب نوشی اور بے حیائی کے باقی کاموں میں اختیار دیا جائے تو وہ شراب نوشی کو معمولی سمجھ کر اختیار کرتا ہے پھر وہ نئے کی حالت باقی بے حیائیوں کا بھی مرتکب ہو جاتا ہے اسی طرح جس آدمی پر دوسروں کو بچا دھانے اور مناظرہ میں غالب آئے کی خواہش غالب ہو اور وہ جاہ و مرتبہ کا طالب ہو تو معلوم ہوتا ہے کہ اس کے دل میں تمام خباثین پوشیدہ ہیں اور یہ تمام اخلاق مزومہ اس میں ہیجان پیدا کرتے ہیں۔

ان بری عادات کی مذمت میں قرآن پاک کی آیات اور احادیث شریفہ سے دلائل ہلاکت کے بیان میں آئیں گے لیکن فی الحال ہم اجتماعی طور پر ان عادات کا ذکر کرتے ہیں جو مناظرہ کی دہرے سے وجود میں آتی ہیں۔ ان میں سے ایک حدیث ہے۔

اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

حسد نیکوں کو اس طرح کھاتا ہے جس طرح آگ، لکڑی کو جلا دیتی ہے۔

الْحَسَدُ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ
الْحَطَبَ۔ (۱)

(۱) سنن ابن ماجہ ص ۲۲۰ باب الحمد۔

اور مناظرہ حمد سے خالی نہیں ہوتا کیونکہ بعض اوقات وہ غالب آتا ہے اور کبھی مغلوب ہوتا ہے۔ بعض اوقات اس کی تقریر کی تعریف کی جاتی ہے اور کبھی دوسرے شخص کی گفتگو کی تعریف ہوتی ہے تو جب تک دنیا میں ایک بھی ایسا شخص ہوگا کہ اس کے علم اور اجتہاد کی قوت کی وجہ سے اس کا ذکر کیا جائے گا یا اس کے خیال میں اس کا کلام اچھا اور فکر قوی ہوگی تو وہ ضرور حمد کرے گا اور اس سے نعمت کے زوال کو پسند کرے گا وہ چاہے گا کہ لوگ ظاہری اور باطنی طور پر اس سے پھر جائیں حمد ایک جلدی والی آگ ہے تو جو شخص اس میں مبتلا ہوا وہ دنیا میں عذاب میں مبتلا ہوگا اور آخرت کا عذاب تو بہت زیادہ سخت اور بڑا ہے، اسی لیے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا علم حاصل کرو جہاں سے ہی پاؤ لیکن فقہاء کے اقوال جو ایک دوسرے کے خلاف ہوں انہیں قبول نہ کرو کیونکہ وہ ایک دوسرے کے اسی طرح مخالف ہوتے ہیں جس طرح بارے میں بکرے ایک دوسرے کے دشمن ہوتے ہیں ان مہلکات میں سے ایک چیز تکبر اور لوگوں پر بلندی حاصل کرنا ہے۔

تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

مَنْ تَكَبَّرَ وَضَعَهُ اللَّهُ وَمَنْ تَوَاضَعَ رَفَعَهُ اللَّهُ (۱)

جس نے تکبر کیا اللہ تعالیٰ اسے پست کر دیتا ہے۔

نیز آپ نے اللہ تعالیٰ سے حکایت کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

وَالْعِظْمَةُ اِنْ اَرَىٰ وَالْكِبْرِيَاءُ رِدَاؤِي مِمَّنْ
تَارَعَنِي فِيهِمَا قَصَمْتُهُ (۲)

عظمت میری ازار ہے اور بڑائی میری چادر ہے لہذا جو شخص ان دونوں کے بارے میں مجھ سے لڑے گا میں

اسے توڑ دوں گا۔

✦ ✦ ✦

اور مناظرہ تکبر سے خالی نہیں ہوتا ہے مناظر اپنے ہم عصر اور مثل لوگوں پر تکبر کرتا ہے اور اپنی حیثیت سے بلند ہونا چاہتا ہے حتیٰ کہ وہ بیٹھنے کی جگہ پر لڑتے مرتے ہیں۔

بلند اور پست جگہ کے بارے میں ان کا جھگڑا ہوتا ہے مقام صدارت کے قریب اور دور ہونے پر تنگ راستے ہیں پیلے جانے پر لڑائی کرتے ہیں اور بعض اوقات ایک نبی اور مکار، دھوکے باز یہ دلیل دیتا ہے کہ وہ تو علم کی حفاظت چاہتا ہے اور مومن کو اپنے تذلیل سے منع کیا گیا ہے (۳)

چنانچہ وہ تواضع جسے اللہ تعالیٰ اور تمام انبیاء کرام نے قابل تعریف قرار دیا اسے ذلت سے تعبیر کرتا ہے اور وہ تکبر جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک برا ہے اسے دین کی عزت قرار دیتا ہے اس طرح وہ نام میں تبدیلی کرتا ہے اور مخلوق کو گمراہ کرنا چاہتا

(۱) کنز العمال جلد ۳ ص ۱۱۵ (۲) سنن ابن ماجہ ص ۳۱۸ باب البرکۃ من الکبر والتواضع۔

(۳) سنن ابن ماجہ ص ۲۹۹ ابواب الفتن۔

ہے جس طرح حکمت اور علم وغیرہ کے نام بدل دیئے گئے۔
ان خرابیوں میں سے ایک کینہ ہے۔ اور مناظر اس سے خالی نہیں ہوتا۔

جب کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

أَلَمْ يَكُنْ لَكُمْ لَيْسَ بِحَقْوٍ دِرًا

مومن کینہ پرور نہیں ہوتا،

اور کینے کی مذمت میں جو احادیث آئی ہیں وہ واضح ہیں۔ اور تم مناظر کو نہیں دیکھو گے کہ وہ اپنے کینے کو چھپانے پر قادر ہو جب کوئی شخص اس کے مخالفت کی بات پر سر ملتا ہے اور اس کے کلام پر خاموش رہتا ہے۔ اور اچھی طرح نہیں سنتا بلکہ مناظر جب یہ بات دیکھتا ہے تو دل میں کینہ چھپانے اور دل ہی دل میں اس کو بڑھانے پر مجبور ہو جاتا ہے زیادہ سے زیادہ ہی ہوتا ہے کہ وہ منافقت کرتے ہوئے چھپاتا ہے لیکن عالم طور پر یہ کینہ ظاہر بھی ہو جاتا ہے اور یہ اس سے کس طرح جدا ہو سکتا ہے جب کہ تمام سننے والوں کا اس کے کلام کو ترجیح دینے پر اتفاق کرنا منظور نہیں ہوتا نیز یہ کہ ہر حالت میں اسی کے اعتراضات و جوابات کو اچھا قرار دیا جائے بلکہ اگر فریق ثانی سے چھوٹی سی بات بھی ایسی صادر ہو جائے، جس کی وجہ سے اس کے کلام کی طرف توجہ کم ہو گئی تو اس کے دل میں زندگی بھر کے لیے کینہ عم جاتا ہے۔

ان خرابیوں میں سے ایک غیبت ہے اور اللہ تعالیٰ نے اسے (غیبت کو) مردار کھانے کے مشابہ قرار دیا ہے اور مناظر مردار کھانے کا عادی ہو جاتا ہے کیونکہ وہ اپنے مخالفت کے کلام کو دوسروں تک پہنچانے اور اس کی مذمت کرنے سے بچ نہیں سکتا زیادہ سے زیادہ یہ احتیاط کرے گا کہ اس کی جوابات بیان کرے گا تو اس میں سچ بولے گا۔ جھوٹ نہیں کہے گا لیکن اس کی وہ باتیں بیان کرے گا جو اس کے کلام میں نقصان اور کمزوری پر نیز اس کی فضیلت کی کمی پر دلالت کرتی ہوں اور یہ غیبت ہے۔ جہاں تک جھوٹ کا تعلق ہے تو وہ بہتان ہے۔ اسی طرح وہ اس بات پر قادر نہیں ہوتا کہ جو شخص اس کے کلام سے رُوگردانی کرے اور اس کے مخالفت کی بات سنے اور قبول کرے وہ اس کی بے عزتی نہ کرے بلکہ وہ تو اسے جاہل، احمق، کم فہم اور کند ذہن کہتا ہے۔

ان خرابیوں میں سے ایک اپنے نفس کی تعریف کرنا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

فَلَا تُذَكِّرُوا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ
اور اپنے نفسوں کی پاکیزگی بیان نہ کرو وہ اللہ پر ہنرگار
لوگوں کو جانتا ہے۔

کسی دانا سے پوچھا گیا قبیح سچ کیا ہے؟ اس نے کہا کسی شخص کا اپنی تعریف کرنا اور مناظر قوت، غلبہ، اور ہم عمر

لوگوں سے افضل ہونے کے ساتھ اپنے نفس کی تعریف کرتا ہے اور مناظرے کے دوران یہ بات ضرور کہتا ہے کہ میرے جیسے شخص پر اس قسم کی باتیں پوشیدہ نہیں ہیں، میں علوم میں ماہر ہوں اصول اور حفظ حدیث میں یکتا ہوں، اور اس کے علاوہ وہ باتیں کرتا ہے جن کے ساتھ تعریف کی جاتی ہے کبھی تو وہ شیخی کے طور پر ایسا کرتا ہے اور کبھی اپنے کلام کو رواج دینے کے لیے۔ اور یہ بات معلوم ہے کہ شیخی دکھانا اور اپنی تعریف کرنا دونوں باتیں شرعاً اور عقلاً ممنوع ہیں۔

ان خرابیوں میں سے ایک عیب جوئی اور لوگوں کی پوشیدہ باتیں تلاش کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔
وَلَا تَجَسَّسُوا - (۱)

”اور عیب مت ڈھونڈو“

اور مناظر دوسروں کی پوشیدہ باتیں تلاش کرنے اور مخالف کی عیب جوئی میں لگا رہتا ہے حتیٰ کہ جب اسے بتایا جاتا ہے کہ اس کے شہر میں فلاں مناظر آیا ہے تو وہ ایسے ادھی کو ڈھونڈتا ہے جو اس کے اندرونی حالات بتائے اور پوچھ پوچھ کر اس کی خرابیاں باہر لاتا ہے حتیٰ کہ ان کو اپنے لیے ذخیرہ بناتا ہے تاکہ ضرورت کے وقت اسے ذیل و رسوا اور شرمندہ کرے یہاں تک کہ وہ اس کے بچپن کے حالات اور بدن کے عیوب بھی معلوم کرتا ہے کہ شاید اس کی کسی لغزش یا عیب مثلاً گنجاپن وغیرہ پر مطلع ہو جائے پھر حجت مخالف کی طرف سے معمولی سا غلبہ بھی دیکھتا ہے تو اگر سنجیدہ ہے تو اس کا عیب گناہ بتاتا ہے۔ اور لوگ بھی اس کی بات کو پسند کرتے ہیں اور یہ نکتہ شیخی اور باریک بینی سے شمار ہوتا ہے اور اگر وہ مسخرہ پن پر خوش ہونے والا ہے تو اعلانیہ طور پر اسے ذلیل کرتا ہے جیسا کہ بڑے مغیر مناظرین میں سے ایک جماعت کا حال بتلایا گیا ہے۔

ان برائیوں میں سے ایک لوگوں کی برائیوں پر خوش ہونا اور ان کی خوشی پر سنجیدہ ہونا ہے حالانکہ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہیں کرتا جو اپنے لیے کرتا ہے تو یہ عمل مومنین کے اخلاق سے بعید ہے تو جو شخص بھی اپنی فضیلت جتا کر فخر و غرور کا طالب ہوتا ہے یقیناً وہ اس بات پر خوش ہوتا ہے جو اس کے ہم عصر اور برابر کے لوگوں کو بڑی لگتی ہے ان لوگوں کے درمیان، بعض اس طرح ہوتا ہے جیسے سوتوں (سوکنوں) میں ہوتا ہے جیسے ایک سوتل دوہری کو دور سے دیکھتی ہے تو کانپ اٹھتی ہے اور اس کا رنگ زرد ہو جاتا ہے تو تم مناظر کو بھی اسی طرح دیکھو گے جب وہ کسی مناظر کو دیکھتا ہے تو اس کا رنگ بدل جاتا ہے اور متفکر و پریشان ہو جاتا ہے گویا وہ کسی سرکش شیطان یا ضرورساں درندے کو دیکھ رہا ہے۔ تو وہ آفت و راحت جو علماء کی باہمی ملاقات کے وقت پیدا ہوتی ہے کہاں گئی؟۔ نیز وہ اخوت، باہمی مدد و رعنی و خوشی میں شرکت جو ان حضرات سے منقول ہے کہاں ہے حتیٰ کہ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا فضیلت و عقل والوں کے درمیان علم، قریب کا سبب ہے جو ان کو ملتا ہے۔

تو مجھے معلوم نہیں کہ ایک جماعت ان (امام شافعیؒ) کی اقتدار کا دعویٰ کیسے کر سکتی ہے جب کہ علم ان کے درمیان ایک قطعی عداوت کا ذریعہ بن گیا، تو کیا یہ تصور ہو سکتا ہے کہ غلبہ اور غرور و غرور کی طلب کے باوجود ان کے درمیان اُنس پیدا ہو سکر نہیں ہرگز نہیں، اس مناظرے کی اتنی برائی ہی تمہیں کافی ہے کہ تم منافقین کی عداوت اپنا لو اور موئن و متقی لوگوں کے اخلاق چھوڑ دو۔

ان خرابیوں میں سے ایک منافقت ہے اس کی مذمت میں شواہد پیش کرنے کی ضرورت نہیں یہ لوگ اس کے محتاج ہیں، کیونکہ جب یہ لوگ اپنے مخالفین، ان کے دوستوں اور جماعت کے آدمیوں سے ملتے ہیں تو زبان سے محبت کا اظہار کرتے ہیں اور ان کے مقام و مرتبہ کے اشتیاق کو ظاہر کرتے ہیں اور یہ بات گفتگو کرنے والا اور مخاطب بلکہ تمام سنتے والے جانتے ہیں کہ یہ بالکل جھوٹ اور منافقت ہے کیونکہ وہ زبان سے محبت کا اظہار کرتے ہیں لیکن دل میں بغض و عداوت ہوتی ہے۔ ہم اس سے اللہ بزرگ و برتر کی پناہ چاہتے ہیں۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

جب لوگ علم حاصل کریں اور عمل چھوڑ دیں، زبانوں سے محبت کا اظہار کریں اور دل میں عداوت ہو نیرشتہ داروں سے تعلقات منقطع کریں تو اس وقت وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہو جاتے ہیں وہ انہیں بہرہ اور اندھا کر دیتا ہے۔

إِذَا عَلِمَ النَّاسُ الْعِلْمَ وَتَرَكَوا الْعَمَلَ وَتَحَابَّوْا بِاللِّسَانِ وَتَبَاغَضُوا بِالْقُلُوبِ وَتَقَاطَعُوا فِي الدُّرُحَامِ، كَعَنَهُمُ اللَّهُ مِنْهُ ذَلِكَ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ (۱)

❖ ❖ ❖

اسے حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ نے روایت کیا اور تجربہ سے اس حدیث کی صحت واضح ہو گئی ہے۔ ان مذموم عادات میں سے ایک حق بات سے تکبر کرنا، اسے ناپسند کرنا اور اس میں جھگڑنے کی حرص ہے۔ حتیٰ کہ مناظرے کے نزدیک سب سے ناپسندیدہ چیز یہ ہے کہ اس کے مخالف کی زبان پر حق بات ظاہر ہو جائے اور جب ظاہر ہوتی ہے تو اس کے انکار کے لیے مکمل طور پر تیار ہو جاتا ہے اور اسے دور کرنے کے لیے دھوکہ بازی، کرا اور حیلہ گری میں حتیٰ الامکان کوشش کرتا ہے حتیٰ کہ اختلاف و جھگڑا اس کی طبیعت میں رچ بس جاتا ہے۔ اور وہ جو بھی بات سنتا ہے اس کی طبیعت اعتراض کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے یہاں تک کہ یہ بات قرآن پاک کے دلائل اور الفاظ شرعیہ کے بارے میں بھی اس کے دل پر غالب آجاتی ہے چنانچہ وہ ان میں سے بعض کو بعض کے مقابلے میں لاتا ہے۔ حالانکہ جھگڑا تو باطل کے مقابلے میں بھی ممنوع ہے کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باطل کے خلاف حق کے ساتھ نہ

لڑنے کو پسند فرمایا۔ آپ نے ارشاد فرمایا۔

مَنْ تَرَكَ الْمِرَاءَ وَهُوَ مُبْتَلًى بِنِيِّ اللَّهِ لَهُ
بَيْتَانِي رَيْضِ الْجَنَّةِ، وَمَنْ تَرَكَ الْمِرَاءَ
وَهُوَ مُحِقٌّ بِنِيِّ اللَّهِ لَهُ بَيْتَانِي أَعْلَى (۱)

جو شخص باطل کے لیے جھگڑا چھوڑ دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس
کے لیے جنت کے ایک کونے میں گھر بناتا ہے اور جو
آدمی حق پر ہونے کے باوجود بھی جھگڑا نہیں کرتا اس کے لیے
اللہ تعالیٰ سب سے اوپر والی جنت میں گھر بناتا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو برابر قرار دیا جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہیں اور جو حق کو جھٹلاتے ہیں۔
ارشاد خداوندی ہے:-

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا
أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ (۲)

اس شخص سے بڑھ کر کون ظالم ہے جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ
گھڑتا ہے یا جب اس کے پاس حق آئے تو اسے
جھٹلاتا ہے۔

اور ارشاد فرمایا۔

فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَّبَ
بِالصِّدْقِ إِذَا جَاءَهُ (۳)

اس سے بڑھ کر کون ظالم ہے جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ کہتا ہے
اور سچ کو جھٹلاتا ہے جب وہ اس کے پاس آتا ہے۔

ان خرابیوں میں سے ایک ریا کاری ہے، لوگوں کو دکھانا اور ان کے دلوں اور چہروں کو اپنی طرف پھرنے ہے۔ ریا کاری
وہ لاعلاج مرض ہے جو کبیر گناہوں میں سے بھی بڑے گناہوں کی دعوت دیتی ہے جیسا کہ ریا کاری کی بحث میں آئے گا۔ اور
مناظر کا مقصد مخلوق کے سامنے ظاہر ہونا اور ان کی زبانوں پر اپنی تعریف کو جاری کروانا ہوتا ہے۔

توبہ دس عادات جو باطنی برائیوں کی جڑ ہیں اور یہ ان خرابیوں کے علاوہ ہیں جو غیر سنجیدہ مناظرین میں پیدا ہوتی ہیں
مثلاً اس انداز میں جھگڑنا کہ دوسروں کو مارنا، تھپڑ رسید کرنا، چہرے پر مارنا، کپڑے پھاڑنا اور وارھی پکڑنا، والدین
اور اساتذہ کو گالی دینا، واضح الفاظ میں الزام لگانا پایا جاتا ہے۔

توبہ لوگ انسانیت کے دائرے سے خارج ہیں، ان میں سے جو اکابر اور عظیمند ہیں ان میں وہ دس خصالتیں ضرور
پائی جاتی ہیں البتہ بعض حضرات ان میں سے بعض خرابیوں سے محفوظ رہتے ہیں لیکن یہ اسی وقت ہوتا ہے جب اس کا مد مقابل
اس سے کم درجہ رکھتا ہو یا اس سے بلند مرتبہ ہو یا اس کے شہر اور اسبابِ معیشت سے دور ہو۔ لیکن جب ہم پلہ لوگوں

(۱) الترغیب والترہیب جلد اول ص ۱۳۱ الترہیب من المراد (۲) قرآن مجید سورہ عنکبوت آیت نمبر ۲۸

(۳) قرآن مجید سورہ زمر آیت نمبر ۳۲

سے مناظرہ ہو تو ان عادات سے خالی نہیں ہوتا۔

پھر ان دس خصلتوں سے دوسری دس بے ہودہ حرکات پیدا ہوتی ہیں ہم ان میں سے ہر ایک کو تفصیل سے ذکر کر کے کلام کو طول نہیں دیتے مثلاً ناک چڑھانا، غصہ کرنا، دشمنی رکھنا، طمع کرنا، مال اور مرتبہ کی طلب سے محبت کرنا تاکہ وہ غلبہ پانے اور فخر کرنے پر قادر ہو سکے، غرور، اکرط مالداروں اور حکمرانوں کی تعظیم، ان کے پاس آنا جانا، ان کے حرام مال میں سے لینا، گھوڑوں، سواروں اور ممنوع کپڑوں کے ساتھ زینت اختیار کرنا تکبر و غرور کے ذریعے دوسروں کو حقیر سمجھنا، بے مقصد باتوں میں مشغول رہنا اور زیادہ گفتگو کرنا، دل سے خشیت الہی، خوف خدا اور جذبہ رحم کا نکل جانا، اس پر غفلت کا غالب آجانا حتیٰ کہ ان میں سے نماز پڑھنے والے کو نماز میں یہ بھی معلوم نہیں ہوتا کہ کس قدر نماز پڑھی ہے قرآن پاک سے کیا پڑھا ہے اور کس کے ساتھ مناجات کر رہا ہے تمام عمر علوم میں مستغرق رہنے کے باوجود دل میں خشوع کی خبر تک نہیں۔ تو یہ وہ علوم ہیں جو اسے مناظرہ میں مدد دیتے ہیں لیکن آخرت میں کوئی نفع نہ دیں گے۔ کیونکہ یہ عمدہ عبارت، مسیح مقضیٰ الفاظ نادر و عجیب باتوں کا یاد ہونا وغیرہ بے شمار امور ہیں مناظرہ کرنے والے اس سلسلے میں اپنے اپنے درجات کے مطابق مختلف ہیں اور ان کے درجات بھی مختلف ہیں ان میں سے جو زیادہ دیندار اور بڑا عقلمند ہوتا ہے وہ بھی ان بڑی عادات سے خالی نہیں ہوتا زیادہ سے زیادہ یہ کہ وہ نفس پر کنٹرول کر کے ان باتوں کو پوشیدہ رکھتا ہے۔

یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ یہ رذیل عادات اس شخص کے ساتھ بھی رہتی ہیں جو وعظ و نصیحت میں مشغول رہتا ہے جبکہ اس کا مقصد یہ ہو کہ اس کو مقبولیت حاصل ہو اور مقام و مرتبہ اور عزت و جاہ کا طالب ہو۔ نیز جو شخص مذہب و فتاویٰ کے علم میں مشغول ہوتا ہے اس میں بھی یہ بڑی عادات پائی جاتی ہیں جب اس کا مقصد عمدہ قضا اور قبولیت اوقات اور ہم عصر لوگوں پر توقیت حاصل کرنا ہو۔

خلاصہ یہ ہے کہ یہ خصائل رذیلہ ہر اس شخص کے ساتھ ہوں گی جو علم کے ذریعے ثوابِ آخرت کے علاوہ تلاش کرتا ہے تو علم، عالم کو اسی طرح نہیں چھوڑتا بلکہ اسے ہمیشہ کی ہلاکت میں مبتلا کر دیتا ہے۔

اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَالِمٌ لَا يَنْفَعُهُ اللَّهُ بِعِلْمِهِ (۱)

ہوگا جسے اس کے علم نے نفع نہ دیا ہو۔

یہاں تو علم نے نفع کی بجائے نقصان دیا کاشن کہ وہ برابر برابر ہی نجات پالتا ہے،

خبردار! خبردار! علم کا خطرہ بہت بڑا ہے اور اس کا طالب، ہمیشہ کی بادشاہی اور دائمی نعمتوں کا طالب ہے تو لازماً

بادشاہی حاصل کرے گا یا ہلاک ہوگا۔ اور یہ اس شخص کی طرح ہے جو دنیوی سلطنت چاہتا ہے اگر اس مال حاصل نہ ہو سکے تو ذلت سے بچنے کی امید نہ کی جائے بلکہ وہ بہت زیادہ رُسوا ہوگا۔

اگر تم کہو کہ مناظرے کی اجازت دینے میں فائدہ ہے یعنی اس کے ذریعے لوگوں کو علم کی ترغیب دی جاتی ہے کیوں کہ ریاست کی محنت نہ ہو تو علوم مٹ جائیں گے۔ تو جو

ایک شبہ کا ازالہ

کچھ تم نے کہا ایک طرح سے سچ کہا لیکن یہ بے فائدہ ہے، کیونکہ جب تک سچے کو گنڈ بے اور پڑیوں سے کھلانے کی رغبت نہ دی جائے وہ مکتب میں دلچسپی نہیں لیتے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس میں رغبت محمود ہے۔ اور اگر محبت ریاست و عہدہ نہ ہو تو علم مٹ جائے گا اور اس میں اس بات پر بھی کوئی دلالت نہیں کہ حکومت چاہنے والا نجات پائے گا بلکہ وہ ان لوگوں میں شامل ہے جن کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:-

بے شک اللہ تعالیٰ اس دین کی مدد ایسے لوگوں سے بھی لیتا ہے جن کا کوئی اخلاق نہیں،

إِنَّ اللَّهَ لَيُؤَيِّدُ هَذَا الدِّينَ بِأَقْوَامٍ
لَا خَلْقَ لَهُمْ

پھر آپ نے فرمایا:-

بے شک اللہ تعالیٰ فاجر آدمی سے بھی اس دین کو تقویت دیتا ہے،

إِنَّ اللَّهَ لَيُؤَيِّدُ هَذَا الدِّينَ بِالرَّجُلِ الْفَاجِرِ
(۲)

تو طالب حکومت، ذاتی طور پر ہلاک ہو رہا ہے اور بعض اوقات اس کی وجہ سے دوسروں کی اصلاح ہو جاتی ہے اگر وہ انہیں ترک دنیا کی دعوت دے اور یہ اس شخص میں ہوتا ہے کہ جس کے ظاہری معاملات علماء سلف کے ظاہر کی طرح ہوتے ہیں لیکن وہ دل میں حصول مرتبہ کا قصد چھپائے ہوتا ہے۔ اس کی مثال وہ شیخ ہے جو خود جل جاتی ہے لیکن دوسروں کو روشنی پہنچاتی ہے۔ تو دوسروں کی اصلاح اس کی اپنی ہلاکت میں ہے اور اگر وہ دوسروں کو طلب دنیا کی دعوت دیتا ہے تو اس کی مثال اس جلا نے والی آگ کی طرح ہے جو خود بھی جلتی ہے اور دوسروں کو بھی جلا دیتی ہے۔

علماء میں قسم کے ہیں۔

اقسام علماء

ایک وہ جو خود بھی ہلاک ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی ہلاک کر دیتے ہیں یہ وہ علماء ہیں جو علانیہ طور پر دنیا طلب کرتے ہیں اور اس کی طرف متوجہ رہتے ہیں۔

(۱) حلیۃ الاولیاء جلد ۲ میں ۱۳

(۲) صحیح بخاری جلد اول ص ۴۳۱ باب ان اللہ یؤید۔

دوسرے وہ جو خود بھی سعادت مند ہیں اور دوسروں کو بھی خوش بخت بنا دیتے ہیں۔ یہ وہ علماء ہیں جو مخلوق کو ظاہر و باطن میں اللہ تعالیٰ کی طرف بلا تے ہیں۔

تیسری قسم کے علماء وہ ہیں جو اپنے آپ کو ہلاک کرتے اور دوسروں کی خوش بختی کا باعث ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو آخرت کی طرف بلا تے ہیں اور ظاہر میں دنیا کو چھوڑ بیٹھے ہیں لیکن اندرونی طور پر ان کا مقصد لوگوں میں مقبولیت حاصل کرنا اور جاہ و مرتبہ کی خواہش ہے۔

تو تم دیکھو کہ تم ان میں سے کس قسم کے علماء میں شامل ہو۔ اور تم کس کے لیے تیاری میں مشغول ہو اور یہ خیال مت کرو کہ اللہ تعالیٰ اپنے علم اور عمل کو قبول کرے گا جو خالصتاً اس کے لیے نہ ہو، ریابکاری کے بیان میں بلکہ مہلکات کی بحث میں اس قسم کی گفتگو ہوگی جو تم سے شک کو دور کر دے گی ان شاء اللہ تعالیٰ۔

پانچواں باب

متعلم و معلم کے آداب

متعلم رسیکھنے والے کی ظاہری آداب تو بہت زیادہ ہیں لیکن وہ دس جملوں میں منظم کر دیئے گئے ہیں۔
 پہلا ادب۔ سب سے پہلے اپنے نفس کو بری عادات اور مذموم اوصاف سے پاک کرنا ہے کیونکہ علم، دل کی عبادت اور باطن کی نماز اور باطنی طور پر اللہ تعالیٰ کا قرب ہے۔ تو جس طرح ظاہری اعضا کی عبادت نماز اس وقت تک درست نہیں ہوتی جب تک ظاہر کو حکمی اور حقیقی نجاستوں سے پاک نہ کر لیا جائے اس طرح اندر کی عبادت کی درستگی اور علم کے ذریعے دل کی اصلاح بھی تب ہی ہوگی جب دل کو بری عادات اور ناپاک خیالات سے پاک کر لیا جائے۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

بُئِيَ الرَّسُولُ مَعَ عَلَى النَّظَاقَةِ (۱)

دین کی بنیاد پاکیزگی پر ہے۔

اور یہ طہارت ظاہر و باطن دونوں کی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔

إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ (۲)

بے شک مشرک ناپاک ہیں۔

اس میں عقلمند لوگوں کو خبردار کیا ہے کہ طہارت اور نجاست صرف ظاہر پر موقوف ہیں جو اس کے ذریعے معلوم ہو جائے کیونکہ بعض اوقات مشرک کے کپڑے صاف ہوتے ہیں اور اس نے غسل بھی کیا ہوتا ہے لیکن پھر بھی اس کا باطن ناپاک ہوتا ہے یعنی اس کا دل ناپاک کیوں سے آلودہ ہوتا ہے نجاست اس چیز کا نام ہے جس سے پرہیز کیا جائے اور اس سے دوری اختیار کی جائے۔ اور قلبی نجاستوں سے پرہیز کرنا تو زیادہ ضروری ہے۔ کیونکہ فی الحال یہ محض نجاستیں ہیں اور بالآخر ہلاکت کا باعث ہوں گی اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔
 لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ (۳)

اور دل ایک گھر ہے جو فرشتوں کی منزل ان کے اثرات کا مرکز اور ان کے ٹھہرنے کا مقام ہے اور بری صفات مثلاً غصہ، شہوت، کینہ، حسد، تکبر، خوبندی وغیرہ بھونکنے والے کتے ہیں تو فرشتے کس طرح دل میں داخل ہوں

(۱) الاسرار المرفوعہ ص ۹۱ (۲) قرآن مجید سورہ آیت۔

(۳) صحیح بخاری جلد ۲ ص ۸۰ باب التواور۔

جب کہ یہ کتوں سے بھرا ہوا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ علم کا نور دل میں فرشتوں کے واسطے سے ڈالتا ہے۔
ارشاد خداوندی ہے:-

وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا
أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ
بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ (۱)

کسی انسان کے لائق نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے کلام
کرے مگر وحی کے ذریعے یا پردے کے پیچھے سے
یا رسولوں کو بھیجتا ہے تو جو کچھ چاہتا ہے اپنے حکم سے
وحی فرماتا ہے۔

تو اسی طرح علوم کی رحمت جو دلوں کی طرف بھیجی جاتی ہے وہ ان فرشتوں کے ذریعے آتی ہے جو اس پر مقرر ہیں۔
اور وہ پاک ہیں بڑی خصلتوں سے متبرک ہیں، وہ تو پاک جگہ ہی دیکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے جو خزانے ان کے
پاس ہیں ان کو بھی پاک صاف دل میں بھرتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ لفظ بیت (گھر) سے مراد دل ہے اور نکتے سے مراد
غصہ اور دیگر عادات مذمومہ ہیں لیکن میں یہ بات کہتا ہوں کہ یہ اس بات پر تشبیہ ہے۔ تو اس طرح ظاہر سے باطنی معنی
مراد لینے اور ظاہر کے ذکر سے باطنی امور پر آگاہی حاصل کرنا جب کہ ظاہر کو برقرار رکھا جائے ان دونوں باتوں میں فرق ہے
تو اس نکتہ کے ذریعے باطنی فرق کا عقیدہ الگ ہو گیا۔

کیونکہ عبرت پکڑنے کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ دوسرے آدمی کو کہا جائے اسے اس کے ساتھ مخصوص نہ سمجھے جسے
کوئی عقلمند آدمی دوسرے شخص کو مصیبت میں مبتلا دیکھے تو اس سے عبرت حاصل کرتا ہے کیوں کہ وہ جانتا ہے کہ وہ بھی
مصیبت کا نشانہ بن سکتا ہے۔ اور دنیا میں انقلاب ہوتا رہتا ہے لہذا دوسرے کے حالات سے خود عبرت حاصل کرنا
اور اپنی حالت سے اصل دنیا کا اندازہ لگانا عبرت محمودہ ہے تو تم بھی اس گھر سے جو مخلوق بنیاتی ہے دل کا اندازہ لگاؤ۔
جو اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا گھر ہے اور اس کتے سے جس کی مذمت عادت کی وجہ سے ہے صورت کی وجہ سے نہیں یعنی اس
میں درندگی اور نجاست ہے اس روح کا اندازہ لگاؤ جس میں درندگی پائی جاتی ہے۔

یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ جو دل غصے اور دنیا کی حرص سے بھرا ہوا ہے اس پر لڑنا جھگڑنا اور لوگوں کی ہتک عزت پر
مزے ہیں ہے معنوی طور پر کتنا ہے صورت کے لحاظ سے دل ہے تو نور بصیرت معانی کو دیکھتا ہے صورتوں کو نہیں اس
عالم میں صورتیں، معانی پر غالب ہیں اور معانی ان صورتوں میں چھپے ہوئے ہیں جب کہ آخرت میں صورتیں، معانی کی اتباع کریں
گی اور معانی غالب ہوں گے، اسی لیے ہر شخص کا حشر اس کی معنوی صورت پر ہوگا وہ شخص جو لوگوں کی عزت خراب کرتا ہے
اس کا حشر تشکاری کتے کی طرح ہوگا اور ان کے احوال پر حرص کرنے والے کا حشر ظالم بھیڑیے جیسا ہوگا، تکبر کرنے

(۱) قرآن مجید سورہ شوریٰ آیت ۵۱۔

والے کا حشر چیتے کی صورت میں اور حکومت کے طالب کا حشر شیر کی صورت میں ہوگا، اس سلسلے میں احادیث مبارکہ وارد ہیں اور بصیرت و بصارت کے حامل حضرات کے نزدیک اس پر عبرت شاہد ہے،

اگر تم کہوں کہ کتنے ہی طالب علم ہیں جو برسے اخلاق کے مالک ہیں لیکن انہوں نے علوم حاصل کئے، لیکن افسوس کہ وہ علم حقیقی سے جو آخرت میں نفع دے گا اور خوشنمختی کا باعث ہوگا اس سے کس قدر دور ہیں کیونکہ علم کا آغاز یہ ہے کہ طالب علم پر ظاہر ہو جائے کہ گناہ زہر قاتل ہیں اور ہلاک کرنے والے ہیں کیا تم نے کسی کو دیکھا ہے کہ وہ اس بات کو جانتے ہوئے کہ زہر قاتل ہے اسے استعمال کرے، جیل علم کو تم نے بھی لوگوں سے سنا ہے وہ ایک بات ہے جسے وہ ایک مرتبہ اپنی زبان پر لائے ہیں اور دوسری بار اپنے دلوں سے اسے رد کر دیتے ہیں حالانکہ اس کا علم سے کوئی تعلق نہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں۔ ”علم، کثرت روایات کا نام نہیں بلکہ علم ایک نور ہے جو دلوں میں ڈالا جاتا ہے۔“ بعض علماء نے فرمایا، ”علم تو خوفِ خدا کا نام ہے۔“

کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:-

إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ (۱)

بے شک اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے علماء ہی اس سے ڈرتے ہیں۔

کیونکہ علم کے سب سے زیادہ خاص نتائج کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ اسی لیے بعض محققین نے اس جملہ کا مفہوم یوں بیان کیا ہے۔

”ہم نے اللہ تعالیٰ کے غیر کئے لیے علم سیکھا لیکن علم نے غیر خدا کے لیے ہونے سے انکار کیا۔“

یعنی علم نے ہم سے کنارہ کشی کی اور ہمارے لیے حقیقت واضح نہ ہوتی بلکہ ہمیں فقط اس کی حدیث اور الفاظ حاصل تھے

اگر تم کہو کہ میں نے محقق فقہ علماء کی ایک جماعت دیکھی ہے جنہوں نے اصول و فروع میں شہرت حاصل کی اور وہ برسے

برسے ماہر علماء میں شمار ہوتے ہیں مگر ان کے اخلاق برسے ہیں وہ ان سے پاک نہ ہو سکے۔ تو اس کے جواب میں کہا جائے گا

کہ جب تم علوم کے مراتب اور علمِ آخرت کی معرفت حاصل کر لو گے تو تم پر ظاہر ہو جائے گا کہ وہ جس چیز میں مشغول ہیں وہ بطور

علم ان کو بہت کم نفع دیتا ہے ان کو فائدہ اس عمل سے ہو رہا ہے جو اللہ تعالیٰ کے لیے کرتے ہیں جب ان کا مقصد اللہ تعالیٰ

کا قرب حاصل کرنا ہو، اس سے پہلے میں نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے عنقریب اس سلسلے میں مزید بیان اور

وضاحت آئے گی۔ ان شاء اللہ تعالیٰ۔

دوسرا ادب:- دینی معاملات میں اس کی مشغولیت بہت کم ہو اور وہ اپنے رشتہ داروں اور وطن سے دور ہو

کیونکہ یہ تعلقات اسے مشغول رکھتے اور علم سے پھر دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے کسی آدمی میں زور دل نہیں رکھے۔ بعض اوقات سوچ منتشر ہو جاتی ہے تو حقائق کے دریافت کرنے میں کوتاہی ہو جاتی ہے اسی لیے کہا گیا ہے "علم تجھے اپنا بعض نہیں دے گا جب تک تو اسے اپنا سب کچھ نہ دے دے جب تو اسے اپنا سب کچھ دے دے گا تو تمہیں تھوڑا بہت علم ضرور ملے گا اور انسانی فکر جو مختلف امور میں بٹی رہتی ہے وہ اس نالی کی طرح ہے جس کا پانی بکھر گیا کچھ حصے کو زمین نے خشک کر دیا اور کچھ پانی ہوا میں چلا گیا لہذا اتنا پانی نہ ہو گا جو اکٹھا ہو کر کھیتی کو سیراب کرتا۔

قیس اور ادب۔ طالب علم کا تیسرا ادب یہ ہے کہ وہ علم پر تکبر نہ کرے اور اپنے استاد پر حکم نہ چلائے بلکہ اپنے کام کی نگاہ مکمل طور پر اس کے ہاتھ میں دے دے اور اس کی نصیحت پر اس طرح کان دھرے جس طرح ایک جاہل مریض شفیق اور ماہر ڈاکٹر کی ہدایت کو سنتا ہے اسے چاہیے کہ استاذ کے سامنے تواضع اختیار کرے اور اس کی خدمت کو ثواب اور عزت کا سبب جانے۔

حضرت شیعی فرماتے ہیں "حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے ایک آدمی کی نماز جنازہ پڑھی پھر ان کی چھ قریب لائی گئی تاکہ سوار ہوں تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما تشریف لے آئے انہوں نے اس کی رکاب پکڑ لی حضرت زید نے عرض کیا اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی اسے چھوڑیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا ہمیں علماء اور اکابرین کے ساتھ اسی طرح پیش آنے کا حکم دیا گیا ہے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے ان کے ہاتھوں کا بوسہ لیا اور فرمایا ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے ساتھ اسی طرح پیش آنے کا حکم دیا گیا ہے (۱)

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

لَيْسَ مِنْ اخْلَاقِ الْمُؤْمِنِ التَّمَكُّرُ لِاَقْبِي
حَلَبِ الْعِلْمِ (۲)

ایمان دار کے اخلاق سے خوشامد کرنا نہیں البتہ طلب علم کے لیے ایسا کر سکتا ہے

لہذا طالب علم کو استاذ سے تکبر نہیں کرنا چاہیے مثلاً یہ کہ مشہور و معروف علماء کے علاوہ کسی سے استفادہ کرنے میں نفرت کرے اور یہ عین حماقت ہے کیونکہ علم تو نجات اور سعادت کا سبب ہے تو جو شخص کسی ضرر رساں درند سے راہ فرار اختیار کرے تو وہ اس بات میں تمیز نہیں کرتا کہ بھاگنے کا طریقہ بتانے والا کوئی مشہور آدمی ہو یا گنہگار۔ اور اللہ تعالیٰ سے بے خبر لوگوں کے لیے آگ کی درندگی کا نقصان تمام درندوں کے نقصان سے زیادہ سخت ہے تو حکمت مومن کی گتہ میراث ہے جہاں بھی پائے اسے عینیت سمجھے، اور اس شخص کا احسان مند ہو جس نے اس کی طرف بلایا وہ جو بھی ہو اسی لئے کہا گیا ہے "علم کو اس نوجوان سے عداوت ہے جو تکبر کرتا ہے جس طرح بلند مکان سے سیلاب کو دشمنی ہوتی ہے تو

تواضع اور غور سے سننے کے بغیر علم حاصل نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:-

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرًا لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ
أَوْ لَفِيَ السَّمْعُ وَهُوَ شَهِيدٌ (۱)

بے شک اس میں نصیحت ہے اس شخص کے لیے جس کے
یہ دل ہے اور وہ دل کی حاضری کے ساتھ کان لگاتا ہے

اس کے دل والا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ علم کو سمجھنے کے قابل ہو پھر وہ اس وقت تک نہیں سمجھ سکتا جب تک
غور سے نہ سنے اور دل بھی حاضر نہ ہو تاکہ جو کچھ اسے بتایا جائے اسے اچھی طرح سے انگساری، شکر اور خوشی کے ساتھ
اس کا استقبال کرے اور احسان کو قبول کرے استاذ کے سامنے شاگردوں کو یوں رہنا چاہیے جیسے نرم زمین ہوتی ہے
جو ہوسلا دھار بارش کو جذب کر لیتی ہے اور اسے مکمل طور پر قبول کر لیتی ہے۔ بعض اوقات استاذ سے علم کا ایک طریقہ
بتاتا ہے تو وہ اسے اختیار کرتا ہے اور اپنی رائے کو چھوڑ دیتا ہے کیوں کہ مرشد کی خطا اس (شاگرد یا مرید) کی درست
رائے کے مقابلے میں زیادہ نفع دیتی ہے کیونکہ تجربہ سے ایسی باریک باتیں معلوم ہوتی ہیں جن کے سننے پر تعجب ہوتا ہے
حالانکہ اس کا نفع زیادہ ہوتا ہے کتنے ہی گرم مزاج مریدین ہیں کہ بعض اوقات ڈاکٹر ان کا علاج گرم دواؤں کے ساتھ
کرتا ہے تاکہ اس کی حرارت اتنی مضبوط ہو جائے کہ وہ علاج کا صدمہ برداشت کر سکے تو اس بات پر اسی شخص کو تعجب ہوتا
ہے جو فنِ علاج سے واقف نہیں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہما السلام کے واقعہ میں اس بات پر تنبیہ فرمائی
ہے جب حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا:-

إِنَّكَ لَنْ تَسْتَبِيحَ مَعِيَ صَبْرًا، وَكَيْفَ تَصْبِرُ
عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خَيْرًا - (۲)

بے شک آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے اور آپ
اس بات پر کیسے صبر کر سکتے ہیں جس کی آپ کو خبر نہیں۔

پھر انہوں نے ان پر خاموش رہنے اور بات ماننے کی پابندی لگادی، اور فرمایا:-
فَإِنْ أَسْأَلْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّىٰ أُحَدِّثَ
لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا - (۳)

اگر آپ میرے پیچھے آنا چاہتے ہیں تو کسی بات کے بارے
میں نہ پوچھنا جب تک میں خود آپ کے سامنے اس کا ذکر
نہ کروں۔

پھر وہ صبر نہ کر سکے اور بار بار ان کو ٹوکتے رہے حتیٰ کہ یہ بات ان کے درمیان جدائی کا باعث بن گئی۔
خلاصہ یہ کہ سرورہ طالب علم جو استاذ کی رائے کے مقابلے میں اپنی ذاتی رائے اور اختیار کو ترجیح دیتا ہے وہ محرومی
اور نقصان کا شکار رہتا ہے۔
اگر تم کہو کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:-

(۱) قرآن مجید سورۃ فرقان آیت ۳۷ (۲) قرآن مجید سورۃ کہف آیت ۶۷ (۳) قرآن مجید سورۃ فرقان آیت ۲۷

فَأَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿۱۱﴾ اہل ذکر سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے۔
تو پوچھنے کا حکم دیا گیا ہے۔

تو جان لو کہ باپ ہی ہے لیکن یہ اس صورت میں ہے جب استاذ، اسے پوچھنے کی اجازت دے کیونکہ جو چیز تمہاری سمجھ سے بالا ہو اس کے بارے میں پوچھنا مذموم ہے اسی لیے حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سوال کرنے سے منع کر دیا تھا مقصد یہ کہ اس کے وقت سے پہلے نہ پوچھو۔ تو معلم کو معلوم ہے کہ تم کس بات کے اہل ہو۔ اور اسے ظاہر کرنے کا کونسا وقت ہے اور جس چیز کے بیان کا وقت نہیں آتا ابھی اس کے بارے میں سوال کا وقت بھی نہیں آیا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا عالم کا حق یہ ہے کہ اس سے زیادہ سوالات نہ کئے جائیں اور جواب میں اس کی ہتک نہ کرو اور جب وہ تھک جائے تو اصرار نہ کرو۔ جب وہ اٹھنے لگے تو اس کے کپڑے نہ پکڑو اس کے راز مت تلاش کرو اس کے سامنے کسی کی غیبت نہ کرو اور نہ اس کی لغزش تلاش کرو اگر اس سے لغزش ہو جائے تو معذرت قبول کرو اور تم پر لازم ہے کہ اس کی عزت اور تعظیم کرو جب تک وہ دین خداوندی کی حفاظت کرتا ہے اس سے آگے نہ بڑھو اگر اسے کوئی حاجت ہو تو پوری قوم خدمت کے لیے آگے بڑھے۔

چوتھا ادب۔ ابتدا میں طالب علم لوگوں کے اختلاف میں غور و خوض کرنے سے احتراز کرے چاہے وہ علوم جن میں غور کر رہا ہے دنیوی ہو یا اخروی۔ کیوں کہ یہ بات اس کی عقل و ذہن کو حیران کر دے گی اس کی رائے، سست ہو جائے گی اور مسئلے کو پانے اور اس پر مطلع ہونے سے بالوسی پیدا ہوگی، بلکہ اس کو چاہیے کہ ایک عمدہ طریقہ جو استاذ کے ہاں بھی پسندیدہ ہو اس کا یقین کرے اس کے بعد دیگر مذاہب اور ان کے شبہات کو سنے اگر اس کے استاد کی ایک مستقل رائے نہ ہو بلکہ اس کی عادت مختلف مذاہب اور ان میں بحث کو نقل کرنا ہو تو اس سے بچے کیونکہ وہ ہدایت دینے کی نسبت زیادہ گمراہ کرتا ہے اندھا، اندھوں کی قیادت اور راہنمائی نہیں کر سکتا۔ اور جس شخص کی یہ حالت ہو وہ خود حیرت اور جہالت کے جنگلوں میں بھٹکتا پھرتا ہے۔ ابتدائی طالب علم کو شبہات سے روکنا ایسا ہی ہے جسے کسی نو مسلم کو کفار کے ساتھ میل جول سے منع کیا جاتا ہے۔

اور منہی طالب علم کو اختلافات میں غور کرنے کی دعوت دنیا ایسے ہی ہے جیسے مضبوط ایمان والے کو کفار کے پاس جانے کے لیے ترغیب دینا ہے (تاکہ ان کو دعوت اسلام دے) یہی وجہ ہے کہ کفار کے لشکر پر حملہ کرنے کے لیے کسی بزدل کو نہیں بلاتے بلکہ کسی شجاع و بہادر کو بلا یا جاتا ہے اس باریکی سے غفلت کی وجہ سے بعض کمزور لوگوں نے خیال کیا کہ جو معاملات مضبوط لوگوں سے منقول ہیں ان میں ان کی پیروی کرنا جائز ہے اور انہیں یہ معلوم نہ ہو سکا کہ قوی

لوگوں کا معاملہ کمزوروں کے معاملہ سے الگ ہے اس سلسلے میں بعض حضرات نے فرمایا "جس نے مجھے ابتداء میں دیکھا وہ دوست بن گیا اور جس نے مجھے انتہاء میں دیکھا وہ نزدیک ہو گیا۔ کیوں کہ آخر میں اعمال باطن کی طرف لوٹ جاتے ہیں اور ظاہری اعضاء فرائض سے علاوہ حرکات سے خاموش ہو جاتے ہیں اور دیکھنے والے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سستی اور بیکاری کی وجہ ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے۔

بلکہ یہ تو شہود و حضور میں دل کی نگرانی اور داعی ذکر کو اختیار کرتا ہے جو تمام اعمال سے افضل ہے اور ضعیف آدمی، قوی کی ظاہری حالت کو دیکھ کر اسے لغزش تصور کرتا ہے وہ اس شخص کی طرح عذر پیش کرتا ہے جو پانی کے ایک ٹوٹے میں تھوڑی سی نجاست ڈالتا ہے اور کہتا ہے کہ اس سے کئی گنا زیادہ نجاست سمندر میں ڈالی جاتی ہے اور سمندر تو ٹوٹے سے بہت بڑا ہے تو جو چیز سمندر کے لیے جائز ہے وہ ٹوٹے کے لیے زیادہ جائز ہوگی حالانکہ اس بیچارے کو معلوم نہیں کہ سمندر اپنی قوت کی وجہ سے نجاست کو پانی میں بدلتا ہے اور سمندر کے غلبہ کی وجہ سے نجاست بھی اس کی صفت اختیار کر لیتی ہے۔ جب کہ تھوڑی نجاست ٹوٹے پر غالب آتی ہے اور اسے بھی اپنی صفت پر لے آتی ہے، اسی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ عمل بھی جائز قرار دیا گیا جو دوسروں کے لیے جائز نہیں حتیٰ کہ آپ کے لیے بیک وقت نو بیویاں رکھنا جائزہ تھا۔ (۱)

کیونکہ عورتوں سے انصاف کرنے کے سلسلے میں آپ کو قوت حاصل تھی اگرچہ وہ زیادہ ہوں لیکن دوسرے لوگ تھوڑی عورتوں سے بھی انصاف نہیں کر سکتے بلکہ ان کے درمیان کا نقصان اس آدمی تک پہنچ جاتا ہے حتیٰ کہ وہ ان کی رضا جوئی میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی تک پہنچ جاتا ہے تو جو شخص فرشتوں کو لوہاروں پر قیاس کرنے سے وہ کہاں فلاح پاسکتا ہے

پانچواں ادب: طالب علم، علوم محمودہ میں سے کسی فن اور کسی نوع کو نہ چھوڑے بلکہ اس میں اس قدر غور کرے کہ اس مقصود اور علت غائیہ تک پہنچ جائے پھر اگر عمر و فاخرے تو اس میں جہارت حاصل کرے ورنہ اس سے اہم میں مشغول ہو جائے۔ اور اسے حاصل کرے اور باقی علوم میں سے بھی تھوڑا تھوڑا حاصل کرے کیونکہ علوم ایک دوسرے کے معاون اور آپس میں مربوط ہیں اور جو شخص فی الحال ان سے الگ رہتا ہے تو وہ جہالت کی وجہ سے اس علم سے عداوت رکھتا ہے کیونکہ آدمی جس چیز سے پیسے علم ہوتا ہے اس کا دشمن بن جاتا ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے

وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ قَالُوا تَوَلَّوْا هَذَا
إِفْكَ قَدِيمٌ (۲)

اور جب وہ اس کے ذریعے راہ پر نہ آئے تو عنقریب کہیں گے یہ تو قدیم جھوٹ ہے۔

کسی شاعر نے کہا ہے "جس مریض کا منہ کڑوا ہو تو وہ میٹھے پانی کو کڑوا سمجھتا ہے پس علوم کے مختلف درجات ہیں

(۱) صحیح بخاری جلد ۲ ص ۵۱، باب کثرة النساء (۲) قرآن مجید سورہ احقاف آیت ۱۱

یا تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جاتے ہیں یا اس سلوک میں کسی نہ کسی طرح مددگار ہوتے ہیں اور مقصود سے دوری یا قریبیت میں ہر علم کا ایک مقرر مقام ہے، ان علوم کو قائم کرنے والے ان کے محافظ ہیں جیسے جہاد میں اسلامی سرحدوں کے محافظ ہوتے ہیں۔ اور ہر ایک کے لیے ایک رتبہ ہے اور اسی درجہ کے مطابق ہر ایک کو آخرت میں ثواب حاصل ہوگا۔ جب کہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی رضا مقصود ہو۔

چھٹا ادب :- علوم کے کسی فن کو دقیقاً اختیار نہ دے بلکہ ترتیب کا لحاظ رکھے سب سے اہم کے ساتھ آغاز کرے کیونکہ عام طور پر عمر تمام علوم کے لیے کافی نہیں ہوتی لہذا احتیاط اسی میں ہے کہ ہر چیز میں سے عمدہ کو حاصل کرے اور اس میں سے تھوڑی پر قناعت کرے اور اس تھوڑے سے علم کے باعث جو فوٹ حاصل ہوئی ہے اسے اس علم کی تکمیل پر خرچ کرے جو تمام علوم سے زیادہ شرف کا حامل ہے اور وہ علم آخرت ہے یعنی علم معاملہ اور علم مکاشفہ علم معاملہ کی انتہا علم مکاشفہ ہے اور علم مکاشفہ کا انجام اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے اور اس سے میری مراد وہ عقائد نہیں جیسے عوام الناس نے باپ دادا سے وراثتاً پایا یا کسی سے زبانی سنا۔ اور نہ ہی طریقی کلام اور مجاہدہ مراد ہے جس کے ذریعے وہ مقابل کی دھوکہ بازی سے اپنے کلام کو محفوظ رکھتا ہے اور یہی مشکلمین کا مقصود ہوتا ہے لیکن ہمارا مقصود ایک قسم کا یقین ہے جو اس نور کا نتیجہ ہے جسے اللہ تعالیٰ اس بندے کے دل میں ڈالتا ہے جس نے مجاہدے کے ذریعے اپنے باطن کو خباثتوں سے پاک کر لیا ہو، حتیٰ کہ وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرتبہ ایمان کو پہنچ جاتا ہے اور یہ وہ رتبہ ہے کہ اگر ایسے تمام علماء کے ایمان کے ساتھ تو لاجائے، تو یہ بھاری ہو جائے (۱)

جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی گواہی دی ہے ہمارا نظریہ یہ بھی نہیں کہ عام لوگ جس کا اعتقاد رکھتے ہیں اور مشکلم جو جس بات کو مرتب کرتا ہے وہ بھی عام آدمی سے صرف صنعت کلام میں فوقیت رکھتا ہے اس کے فن کو کلام کہا جاتا ہے کہ حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی اور حضرت علی المرتضیٰ اور باقی صحابہ کرام اس سے عاجز تھے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ان پر اس وجہ سے فوقیت تھی بلکہ آپ کی فضیلت کا باعث وہ باطنی راز تھا جو آپ کے سینے میں بچا ہو گیا تھا۔ ان لوگوں پر تعجب ہے جو صاحب شریعت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قسم کی باتیں سنتے ہیں پھر اس سنی ہوتی بات کو معمولی سمجھتے اور خیال کرتے ہیں کہ یہ صوفیوں کی بیپورہ اور عقل کے خلاف باتیں ہیں تو آدمی کو چاہیے کہ اس بارے میں غور کرے کیونکہ اسی مقام پر اصل مال ضائع ہو جاتا ہے تو نہیں اس بھید کی معرفت کا حریص ہونا چاہیے جو فقہار و مشکلمین کی ہمت اور سرمایہ سے خارج ہے اور حیب تک چھے اس کی طلب پر حرص نہ ہو چھے اس کی راہ نہیں ملی سکتی۔

خلاصہ یہ ہے کہ بہترین علم بلکہ تمام علوم کا مقصد اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے وہ ایک ایسا سمندر ہے جس کی گہرائی معلوم

(۱) حدیث کے الفاظ یہ ہیں تَوَدَّ بَرِّتَ اِيْمَانِ ابِي بَكْرٍ اَيْمَانِ الْعَالَمِيْنَ مَرَجَّ وَالْكَامِلُ لِلْعَدِيِّ جُلْد ۴ ص ۱۵۱

نہیں اور اس میں سب اعلیٰ درجہ، انبیاء کرام کا مرتبہ سے پھر اولیاء کرام اور اس کے بعد وہ لوگ جو ان سے تعلق رکھتے ہیں ایک واقعہ میں منقول ہے کہ پہلے حکیموں میں سے دو حکیموں کی تصویر ایک مسجد میں دیکھی گئی، ایک ہاتھ میں کاغذ کا ایک ایک ٹکڑا تھا جس پر لکھا ہوا تھا۔ اگر تم مکمل طور پر نیکی کرو تو یہ گمان نہ کرو کہ تم نے کچھ نیکی کی ہے، جب تک اللہ تعالیٰ کی پہچان حاصل نہ ہو اور تمہیں معلوم نہ ہو جائے کہ وہی سبب الاسباب اور تمام اشیاء کو پیدا کرنے والا ہے اور دوسرے حکیم کے ہاتھ میں یوں لکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے سے پہلے میں پانی پیتا تھا لیکن پھر بھی پیاسا رہتا تھا یہاں تک کہ جب اس کی معرفت حاصل ہو گئی تو میں کوئی چیز پینے کے بغیر سیراب رہتا ہوں۔

ساتواں ادب :- جب تک پہلے فن کو پورا نہ کرے دوسرے فن میں غور و فکر نہ کرے کیونکہ علوم میں ایک لازمی ترتیب ہے ان میں سے بعض دوسرے بعض تک پہنچنے کا ذریعہ ہیں لہذا توفیق یافتہ وہی شخص ہے جو اس ترتیب و تدریج کی رعایت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے :-

الَّذِينَ اتَّيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ (۱)

جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کی مکاحفہ تلاوت کرتے ہیں۔

یعنی وہ کسی دوسرے فن کی طرف نہیں جاتے جب تک وہ علم و عمل کے اعتبار سے اس کو پختہ نہ کر لیں۔ لیکن اس کو چاہیے کہ وہ جس علم کا ارادہ کرتا ہے اس سے اوپر والے علم میں ترقی کی نیت کرے اگر کسی علم میں لوگوں کا اختلاف ہو یا اس میں کسی ایک یا زیادہ لوگوں سے خطا واقع ہو، یا وہ اپنے علم کے مطابق عمل نہ کرتے ہوں تو اس وجہ سے اس علم کو فاسد نہ سمجھنے، جیسے بعض لوگ معقولات اور فقیہی مسائل میں غور و فکر نہیں کرتے اور اس کی یہ وجہ بیان کرتے ہیں کہ اگر ان کی کوئی اصل ہوتی تو اس کے ماہرین کو حاصل ہوتی۔ معیار علم کے بیان میں ہم اس شبہ کا جواب لکھ چکے ہیں۔ اور ایک گروہ کو دیکھو گے کہ وہ طب کو اس وجہ سے باطل قرار دیتے ہیں کہ انہوں نے طبیعت میں کوئی غلطی دیکھی ہوتی ہے، بعض حضرات علم نجوم کو اس لئے صحیح قرار دیتے ہیں کہ بعض اوقات اتفاقاً کوئی بات صحیح ہو جاتی ہے جبکہ دوسرا گروہ اسے اس لیے باطل قرار دیتا ہے کہ اتفاقاً خطا واقع ہوئی۔ تو یہ لوگ غلطی پر ہیں بلکہ مناسب یہ ہے کہ کسی چیز کی ذاتی معرفت حاصل کی جائے کیونکہ ہر آدمی تمام علوم کو مکمل طور پر نہیں جان سکتا۔ اسی لیے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: حق کو لوگوں کے ذریعے نہ پہچانو بلکہ پہلے حق کی معرفت حاصل کرو، اہل حق کو جان لو گے،

آٹھواں ادب :- طالب علم اس سبب کو جان لے جس کے ذریعے سب سے بہتر علم کی پہچان حاصل کر لے اور کسی علم کا شرف و چیزوں کے باعث ہونا ہے،

ایک نتیجہ کے اعتبار سے اور دوسرا دلیل کی قوت و پختگی کی وجہ سے، جیسے علم دین اور علم طب ہے کیونکہ ان میں ایک کا نتیجہ ابدی زندگی کا حصول ہے اور دوسرے کا نتیجہ فانی زندگی ہے لہذا علم دین اشرف ہوگا اور جس طرح علم حساب و علم نجوم کا معاملہ ہے علم حساب اشرف ہے کیونکہ اس کی دلیل مضبوط اور قومی ہے اور اگر حساب کا علم طب سے مقابلہ کریں تو نتیجہ کے اعتبار سے علم طب اشرف ہوگا جب کہ دلیل کے حوالے سے حساب کو زیادہ اعزاز حاصل ہے اور نتیجہ کا لحاظ رکھنا زیادہ بہتر ہے، اسی لیے طب اشرف ہے اگرچہ اس کی اکثر باتیں انداز سے سے ہوتی ہیں۔ اس سے واضح ہو گیا کہ سب سے بہتر اور معزز علم، اللہ تعالیٰ اس کے فرشتوں، کتابوں اور اس کے رسولوں کا علم ہے نیز وہ علم جو ان علوم تک پہنچاتا ہے لہذا تم اس کے علاوہ میں رغبت سے بچو اور صرف اسی کی حرص کرو۔

نواں ادب۔ متعلم کافی الحال صرف یہ ارادہ ہونا چاہیے کہ وہ اپنے علم و فضل کے ساتھ اپنے باطن کو آراستہ کرے اور آخر میں اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو اور اللہ تعالیٰ کے فرشتوں اور مقربین میں سے اعلیٰ درجہ والوں کی ہمسائیگی حاصل ہو۔ وہ اس علم سے، حکومت، مال، مرتبہ، بیوقوفوں سے بحث مباحثہ، ہم عصر لوگوں پر فخر وغیرہ کا قصہ نہ کرے، اور جب اس کا مقصد، یہ قرب خداوندی کا حصول ہوگا تو وہ یقیناً اس چیز کو حاصل کرے گا جو اس کے مقصود کے زیادہ قریب ہے اور وہ علم آخرت ہے۔ لیکن اس کے باوجود وہ باقی علوم کو بھی حقارت کی نظر سے نہ دیکھے۔ یعنی علم فادائی اور علم نحو و لغت جو کتاب و سنت سے متعلق ہیں اور اس کے علاوہ جن کا ذکر ہم نے مقدمات اور مہتمات میں کیا ہے کہ یہ فرض کفایہ علم کی اقسام ہیں ہم نے علم آخرت کی تعریف میں جو اتنا زیادہ مبالغہ کیا ہے تو اس سے یہ مت سمجھنا کہ باقی علوم کی ہدایت کی جاری ہے جو لوگ ان علوم کے حامل ہیں وہ ان لوگوں کی مثل ہیں جو سرحدوں کی حفاظت کرتے اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں۔ ان میں سے کچھ لوگ لڑتے ہیں، بعض دشمن کا حملہ روکتے ہیں کچھ ان کو پانی پلاتے ہیں کچھ لوگ ان کے جانوروں کی حفاظت کرنے اور ان کی خدمت کرتے ہیں اور ان میں سے کوئی بھی ثواب سے محروم نہیں ہوگا۔

بشرطیکہ اس کا مقصد کلمہ حق کو بلند کرنا ہو غنیمتیں اکٹھا کرنا مقصود نہ ہو اسی طرح علماء کا مقام ہے۔
ارشاد خداوندی ہے۔

يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ
أَوْتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ۗ
اور ارشاد خداوندی ہے۔
مَنْ دَرَجَاتٍ عِنْدَ اللَّهِ (۲)

اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا درجہ بلند کرتا ہے جو تم میں سے
ایمان لائے اور جن لوگوں کو علم دیا ان کے مختلف درجات ہیں۔

اور ان لوگوں کے مختلف درجات ہیں۔

فضیلت ایک اضافی چیز ہے یعنی کوئی کسی وجہ سے اعلیٰ اور کسی وجہ سے دوسرے سے کم درجہ رکھتا ہے، جیسے بادشاہوں کی نسبت صرافوں کو کم درجہ دنیا اس بات پر دلالت نہیں کرتا کہ جب ان کو چاروب کش کے مقابلے میں لالہیں تو بھی حقیر ہوں گے۔

لہذا تمہیں یہ گمان نہیں کرنا چاہیے کہ جو شخص اعلیٰ درجہ سے کم درجہ رکھتا ہے اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں بلکہ سب سے اعلیٰ رتبہ انبیاء کرام کا ہے پھر اولیاء کرام کا اس کے بعد ان لوگوں کا جنہیں علم میں مضبوطی حاصل ہے پھر صالحین کا درجہ ان کے مراتب کے اعتبار سے ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ جو ایک درجے کے برابر بھی اچھا عمل کرے گا اس کا اجر دیکھ لے گا اور جو آدمی ایک درجے کے برابر بھی بُرا عمل کرے گا وہ بھی اس کا بدلہ پائے گا اور جو شخص علم سے اللہ تعالیٰ کی رضا کا قصد کرے وہ علم کوئی بھی ہو وہ شخص یقیناً نفع اور بلندی حاصل کرے گا۔

دسواں ادب:- مقصد کی طرف علم کی نسبت کا علم حاصل کرے تاکہ رفعت فریبہ کو بعیدہ پر اور جو مشکل سے اس کو غیر پر ترجیح دے "مہم" کا معنی (اہم نہیں بلکہ) وہ چیز ہے جو تمہیں فکر مند کر دے اور دنیا و آخرت میں تمہارا اپنا معاملہ ہی تمہیں متفکر کرتا ہے اور چونکہ دنیا کی لذتوں اور آخرت کی نعمتوں کو اکٹھا کرنا تمہارے لیے ممکن نہیں جیسا کہ قرآن پاک نے بیان کیا اور نور بصیرت بھی اس کا شاہد ہے جو آنکھ سے دیکھنے کی طرح ہے تو اہم وہ چیز ہے جو ہمیشہ ہمیشہ رہے اس وقت دنیا ایک منزل ہو جائے گی بدن سواری اور اعمال، مقصد تک پہنچنے کی ایک کوشش (اور اس کی طرف چلنا) ہے اور اللہ تعالیٰ کی ملاقات کے علاوہ کوئی مقصد نہیں اسی میں تمام نعمتیں ہیں اگرچہ اس دنیا میں بہت کم لوگ اس کی قدر کو جانتے ہیں۔

مراتبِ علوم | اللہ تعالیٰ کی ملاقات سے شرف پاب ہوئے اور اس کی زیارت کرنے یعنی وہ زیارت جس کی طلب انبیاء کرام علیہم السلام کو بھی تھی اور وہ اسے سمجھتے تھے وہ زیارت نہیں جس کی طرف عوام الناس اور شکلیں کا ذہن جاتا ہے اس کی طرف نسبت کے حوالے سے علوم کے تین درجے ہیں جسے تم ایک مثال کے ذریعے سمجھ سکتے ہو، وہ یہ کہ اگر کسی غلام سے کہا جائے کہ اگر توج کرے گا تو مجھے آزادی بھی ملے گی اور بادشاہی بھی، اور اگر توج کا سفر شروع کر دے اس کے لیے تیاری کرے لیکن کسی رکاوٹ کی وجہ سے وہاں نہ پہنچ سکے تو مجھے صرف آزادی ملے گی لیکن بادشاہی سے سرفراز نہیں ہوگا۔ تو اس شخص کو تین طرح کے کام پیش آئیں گے۔

(۱) اسباب کی تیاری کرنا مثلاً ادنیٰ خریدنا، رہائی کے لئے، مشک سینا اور کھانے کا سامان تیار کرنا۔

(۲) اپنے وطن سے جدا ہو کر منزل بہ منزل کعبۃ اللہ کی طرف چلنا۔

(۳) حج کے ارکان کو ترتیب سے ادا کرنے میں مشغول ہو جانا۔

پھر فارغ ہو کر، احرام سے نکلنے اور طواف و داخ کرنے کے بعد وہ آزادی اور حکمرانی کا مستحق ہو جائے گا اس کے لیے ہر مقام پر کچھ منازل ہیں یعنی سامان کی تیاری سے آخر تک۔ آغاز سفر سے اس کے اختتام تک اور ارکان حج کی ابتداء سے اس کی تکمیل تک تو ارکان حج کو کھل کرنے والا جس قدر مقصد کے قریب ہے اتنا قریب وہ شخص نہیں جس نے ابھی سامان کی تیاری شروع کی یا سفر شروع کیا ہے۔

پس علوم کی تین قسمیں ہیں۔ ایک قسم وہ ہے جو سامان سفر، سواری وغیرہ کی خرید و فروخت کے قائم مقام ہے یہ علم طب اور فقہ ہے بلکہ جو علوم دنیا میں انسانی جسم کی بہتری سے متعلق ہیں۔ وہ اس میں شامل ہیں۔ دوسری قسم راستے پر چلنے اور گھاٹیوں سے گزرنے کی مثل ہے مثلاً دل کو بری باتوں سے پاک کرنا اور ان بلند گھاٹیوں پر چڑھنا ہے جن سے پہلے اور پچھلے لوگ عاجز تھے سوائے ان لوگوں کے جن کو توفیق دی گئی تو سلوک طریقت کے علوم ہیں، ان کا حاصل کرنا اسی طرح ہے جس طرح راستے کے اطراف اور منازل کا علم حاصل کرنا ہے، تو جس طرح محض منازل اور راستوں کا علم کافی نہیں جب تک ان پر نہ چلے اسی طرح تہذیب اخلاق کا علم ہی کافی نہیں جب تک تہذیب کو اختیار نہ کرے۔ اگرچہ عادت کی تہذیب و درستگی علم کے بغیر نہیں ہوتی۔ علم کی تیسری قسم حج اور اس کے ارکان کے قائم مقام ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات، اس کے فرشتوں، اس کے افعال اور جو کچھ ہم نے مکاشفہ کے معانی کے ضمن میں لکھا ہے ان سب کو جانتا ہے اس مقام پر کامیابی اور سعادت حاصل ہوتی ہے اور اسے صرف وہی لوگ حاصل کر سکتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی معرفت رکھتے ہیں وہ اس کے مقرب ہیں اور انہیں اللہ تعالیٰ کے حواری (پڑوس) میں راجحہ اکرام اور جنت کی نعمتیں حاصل ہیں۔ لیکن جو لوگ کمال کے مرتبے سے ادھر ہی راہ گئے ان کے لیے نجات و سعادت ہے۔ جیسے ارشادِ خداوندی ہے۔

فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحٌ
وَرِيحَانٌ وَجَنَّةٌ نَعِيمٌ وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ
أَصْحَابِ الْيَمِينِ فَلَهُمْ أَصْحَابُ الْيَمِينِ^(۱)

اگر وہ مقربین سے ہے تو راحت اور جنت کی نعمتیں ہیں
اور اگر اصحابِ یمن سے ہے تو اصحابِ یمن کی طرف
سے آپ کو سلام پہنچے۔

اور جو شخص مقصد کی طرف متوجہ نہ ہو اور نہ اس کی طرف حرکت کرے یا اس کی طرف حرکت تو کرے لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل اور عبادت کے طور پر نہیں بلکہ کسی دنیوی حاجت کے لیے کرے تو وہ اصحابِ شمال (بائیں طرف والوں) میں سے اور گمراہوں میں سے ہے اس کے لیے کھوٹا ہوا پانی اور جہنم کی آگ ہے۔

جان لو کہ علماء و راہنما کے نزدیک یہی حق الیقین ہے یعنی انہوں نے اسے باطنی مشاہدہ سے پایا جو آنکھوں کے

مشاہدہ کی نسبت زیادہ مضبوط اور روشن ہے اور انہوں نے محض سن کر تقلید کرنے کی حد سے ترقی کر لی پس ان کی حالت اس شخص جیسی ہے جسے خبر دی گئی تو اس نے تحقیق کی پھر مشاہدہ کر کے حق الیقین تک پہنچ گیا جب کہ دوسروں لوگوں کی حالت اس شخص کی طرح ہے جس نے سن تصدیق اور ایمان کے ساتھ قبول کیا لیکن آنکھوں سے دیکھنا اور مشاہدہ کرنا نصیب نہیں ہوا تو سعادت، علم مکاشفہ کے بعد ہے اور علم مکاشفہ اس علم معاملہ سے آگے ہے جو طریق آخرت پر چلنے کا نام ہے، صفات کی گھاٹوں کو طے کرنا اور صفات مذمومہ کو مٹانے کے راستے پر چلنا علم صفات کے بعد ہوتا ہے علاج معالجہ کے طریقے اور اس پر چلنے کا علم بدن کی سلامتی کا علم حاصل ہونے کے بعد ہوتا ہے، بدن کی صحت و سلامتی کے اسباب کی تیاری باہم جمع ہونے اور ایک دوسرے کی مدد کرنے سے ہوتی ہے جس کے ذریعے لباس، طعام اور رہائش حاصل ہوتی ہے اور یہ کام بادشاہ سے متعلق ہے جب کہ لوگوں کو عدل و سیاست کے طور پر منظم کرنے کا قانون فقہیہ سے متعلق ہوتا ہے۔ جب کہ صحت کے اسباب طبیب کے ذہن میں ہوتے ہیں اور جس نے کہا کہ علم دو قسم کے ہیں، علم الایدان اور علم الاویان، اور اس سے فقہ کی طرف اشارہ کیا ہے تو اس کے ظاہری مروجہ علوم مراد لیئے ہیں علوم باطنی مراد نہیں لیتے۔

ایک شبہ کا ازالہ | اگر تم کہو کہ علم طب اور فقہ کو سواری اور کھانے پینے کے سامان کی تیاری سے کیوں تشبیہ دی ہے؟ تو تمہیں جان لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرنے والی چیز دل ہے بدن نہیں، اور دل سے میری مراد وہ گوشت نہیں جو محسوس ہوتا ہے بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کے رازوں میں سے ایک راز ہے جو جو اس میں نہیں آسکتا۔ وہ اللہ تعالیٰ کے لطائف میں سے ایک لطیفہ ہے جسے کبھی رُوح سے تعبیر کیا جاتا ہے اور کبھی نفس مطمئنہ سے، شریعت اسے دل سے تعبیر کرتی ہے کیونکہ اس بھید کی پہلی سواری یہی ہے، پھر اس کے واسطے سے پورا بدن اس لطیفہ کی سواری اور اکہ بن جاتا ہے اس راز پر وہ اٹھانا علم مکاشفہ سے متعلق ہے اور وہ قابل افتاء نہیں بلکہ اس کے ذکر کی اجازت ہی نہیں، اس کے بارے میں زیادہ سے زیادہ یہ بات کہنے کی اجازت ہے کہ وہ ایک جوہر نفیس اور در عزیز ہے ان اجسام محسوسہ سے اشرف ہے وہ ایک امر خداوندی ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:-

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي (۱)

اور وہ آپ سے رُوح کے بارے میں سوال کرتے ہیں
آپ فرمادیجئے رُوح میرے رب کے علم سے ہے
تمام مخلوق اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب ہے لیکن اس کی نسبت تمام اعضائے بدن کی نسبت سے اشرف و اعلیٰ ہے

اس اللہ تعالیٰ کے لیے پیدا کرنا اور حکم دینا ہے امر، پیدا کرنے سے اعلیٰ ہے اور یہ جوہر نفسہ جو اللہ تعالیٰ کی امانت کو اٹھانے والا ہے اور یوں وہ اس مرتبہ میں تمام آسمانوں، زمینوں اور پہاڑوں سے مقدم ہے۔ کیونکہ ان سب نے اس امانت کو اٹھانے سے انکار کر دیا تھا وہ (جوہر نفسہ) عالم امر سے ہے۔ اس سے یہ نہ سمجھا جائے کہ اسے قدیم قرار دیا جا رہا ہے کیونکہ ارواح کو قدیم قرار دینے والا مغرور اور جاہل ہے اور اسے معلوم نہیں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے پس اب ہم اس فن سے بیان کو روکتے ہیں کیونکہ وہ ہماری بحث سے خارج ہے۔ مقصود یہ ہے کہ یہی لطیفہ قرب خداوندی کے لیے کوشش کرتا ہے کیونکہ وہ امر خداوندی سے ہے وہ اسی کی طرف سے آتا ہے اور اُدھر ہی لوٹ کر جاتا ہے جہاں تک بدن کا تعلق ہے تو وہ اس کی سواری ہے جس پر وہ سوار ہوتا ہے اور اس کے واسطے سے چلتا ہے اللہ تعالیٰ کے راستے میں اس لطیفہ کے لیے بدن کی حیثیت راہ حج میں اونٹنی کی طرح ہے یا وہ مشکیزہ جس میں پانی بھرا ہوتا ہے اور بدن کو اس کی ضرورت ہوتی ہے۔

عرض یہ کہ جس علم کا مقصد بدن کی اصلاح ہو وہ سواری کی مصلحتوں میں داخل ہے اور یہ بات پوشیدہ نہیں کہ طب کا بھی یہی حال ہے۔

کیوں کہ انسان کو بعض اوقات بدنی صحت کی حفاظت کے لیے اس کی ضرورت ہوتی ہے اگر بالفرض صرف ایک انسان ہوتا تو اسے بھی اس کی ضرورت ہوتی فقہ، طب سے اس اعتبار سے جدا ہے کہ اگر کوئی انسان تنہا ہی ہوتا تو ممکن ہے اسے فقہ کی ضرورت نہ پڑتی لیکن اسے اس انداز پر پیدا کیا گیا ہے کہ وہ اکیلا اپنی زندگی نہیں گزار سکتا، کیوں کہ ایک شخص تنہا کھیتی باڑی اور روٹی پکانے کے ذریعے اپنا کھانا حاصل نہیں کر سکتا نہ وہ لباس اور رہائش کے سلسلے میں اکیلا کوشش کر سکتا ہے اور نہ تمام آلات تیار کر سکتا ہے لہذا وہ بل جُل کر رہنے اور ایک دوسرے کی مدد کرنے پر مجبور ہوئے، اور بعض اوقات، لوگ بل جُل کر رہتے پھر ان میں خواہشات پیدا ہوتی ہیں تو وہ اسباب شہوت میں کھینچا تانی کرتے چنانچہ ایک دوسرے سے جھگڑتے اور لڑتے پھر وہ اس لڑائی کے باعث ہلاک ہونے لگے یہ ہلاکت کا خارجی سبب تھا جس طرح اندرونی اخلاط کے باعث انسان ہلاک ہوتے ہیں تو طب کے ذریعے داخلی اخلاط کے درمیان اعتدال پیدا کیا جاتا ہے اور سیاست و عدل کے ذریعے ظاہری فساد کو دور کر کے اعتدال کی حفاظت کی جاتی ہے۔

لہذا اندرونی اخلاط کے اعتدال کے طریقے کا علم، علم طب ہے اور معاملات و افعال میں لوگوں کے معاملات کو اعتدال کے راستے پر رکھنے کا علم، علم فقہ کہلاتا ہے اور یہ دونوں اس بدن کی حفاظت کرنے میں جو سواری ہے لہذا جو شخص علم فقہ اور علم طب کے لیے مختص ہو جاتا ہے اور وہ مجاہدہ کے ذریعے اپنے نفس کی اصلاح نہیں کرتا تو وہ اس شخص کی طرح ہے جو صرف اونٹنی خریدتا ہے اس کے لیے گھاس خریدتا ہے نیز مشکیزہ خرید کر اسے تیار کرتا ہے لیکن حج کے راستے پر نہیں چلتا لہذا وہ شخص جو اپنی تمام زندگی ان دقیق کلمات میں گزار دیتا ہے جو فقہ کے مجاہدوں میں جاری ہوتے ہیں۔

تو وہ اس شخص کی طرح ہے جو اپنی زندگی ان اسباب میں گزار دیتا ہے جن کے ذریعے اس مشیکرے کو سینے کے لیے دہانگے کو مضبوط کیا جاتا جو ریشمیزہ (حج کے لیے تیار کیا جاتا ہے۔ ان فقہاء کرام کو ان لوگوں سے جو اصلاح قلب کے لیے راستے پر چلتے ہیں جو علم مکاشفہ تک پہنچاتا ہے، وہ نسبت سے جو مشیکرہ درست کرتے والوں کو حج کے راستے پر چلنے والوں یا اس کے ارکان کی ادائیگی کرنے والوں سے ہے تو پہلے اس بات پر غور کرو اور اس شخص کی طرف سے مفت نصیحت کو قبول کرو جو اس کام میں اکثر وقت گزار چکا ہے اور بہت محنت کے بعد اس تک پہنچا ہے۔ اور اس نے عام اور خاص لوگوں میں امتیاز کے لیے بڑی جرأت سے کام لیا ہے اور ان کی تقلید سے گریز کرتے ہوئے اپنی خواہش کو کچل دیا متعلم کے آداب کے سلسلے میں اتنی بات ہی کافی ہے۔

استاذ کے آداب | جاننا چاہیے کہ علم کے معاملے میں انسان کی چار حالتیں ہیں جیسے حصول مال میں ہوتی ہیں کیوں کہ مال دار شخص کے لیے ایک حالت مال کمانے کی ہے اس وقت وہ مکتب کھلاتا ہے دوسری حالت حاصل کئے ہوئے مال کو جمع کرنے کی ہوتی ہے اس وقت وہ مانگنے سے بے نیاز ہو جاتا ہے، تیسری حالت اپنے آپ پر مال کو خرچ کرنے کی حالت ہے اس وقت متوقع رافع حاصل کرنے والا ہوتا ہے جب کہ چوتھی حالت دوسروں پر خرچ کرنے کی حالت ہے اس وقت وہ سمجھی اور فضیلت والا شمار ہوتا ہے یہ سب سے بہتر حالت ہے۔

مال کی طرح علم کو بھی حاصل کیا جاتا ہے تو اس کی یہ حالت، طلب و اکتساب کی حالت ہوتی ہے جب علم حاصل کر لیتا ہے تو پوچھنے کی ضرورت باقی نہیں رہتی پھر اس حاصل کئے گئے علم میں غور و فکر کرتا ہے اور اس سے نفع اٹھاتا ہے اور ایک حالت دوسروں کو فائدہ پہنچانے کی ہے اور وہ سب سے اچھی حالت ہے لہذا جس نے علم حاصل کیا، پھر عمل کیا اور دوسروں کو سکھایا وہی شخص آسمانوں اور زمین کی سلطنت میں ایک عظیم انسان کہلاتا ہے۔ وہ سورج کی مثل ہے جو خود بھی روشن ہوتا ہے اور دوسروں کو بھی روشنی دیتا ہے اور کستوری کی طرح ہے جو خود بھی خوشبو ہے اور دوسروں کو بھی مسطر کرتی ہے اور وہ شخص جو علم حاصل کرتا ہے لیکن عمل نہیں کرتا وہ اس ریشم (یا کتاب) کی طرح ہے جو دوسروں کو فائدہ پہنچاتا ہے لیکن خود علم سے خالی ہے یا اس سان کی طرح ہے جو دوسرے اوزاروں کو تیز کرتا ہے لیکن خود نہیں کاٹتا۔ اور وہ اس سوئی کی طرح ہے جو دوسروں کے لیے تیار کرتی ہے لیکن خود تنگی رہتی ہے یا چراغ کی جی ہے جو دوسروں کو روشن کرتی ہے اور خود جلتی ہے۔ جیسے کہا گیا ہے۔

بے عمل عالم اس جی کی طرح ہے جو دوسروں کو روشن کرتی ہے اور خود جلتی رہتی ہے جب وہ تعلیم میں مشغول ہوتا ہے تو بہت بڑی ذمہ داری اٹھاتا ہے لہذا اسے چاہیے کہ اس کے آداب کو یاد رکھے۔

پہلا آداب: طلباء پر شفقت کرے اور انہوں نے اپنی اولاد کی طرح سمجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔

إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ مَثَلُ الْوَالِدِ لِوَالِدِهِ (۱)

میں تمہارے جیسے اس طرح ہوں جس طرح والد، اپنی
اولاد کے لیے ہوتا ہے۔

وہ انہیں آخرت کی آگ سے بچانے کا قصد کرے اور یہ بات ماں باپ کے اپنی اولاد کو دنیا کی آگ بچانے کے مقابلے
میں اہم ہے اسی لیے استاذ کا حق، ماں باپ کے حق سے بڑا ہے کیونکہ باپ موجودہ وجود اور فانی زندگی کا سبب
ہے اور استاذ باقی رہنے والی زندگی کا ذریعہ ہے اور اگر استاذ نہ ہوتا تو جو کچھ باپ سے حاصل کیا تھی وہ دائمی ہلاکت
کی طرف لے جاتا استاذ ہی ہے جو آخرت کی دائمی زندگی کا فائدہ پہنچاتا ہے اس سے مراد وہ استاذ ہے جو علوم آخرت
سکھاتا ہے یا دینی علوم، آخرت کی نیت سے سکھاتا ہے دنیا کے ارادے سے نہیں دینی مقاصد کے لئے سکھانا ہلاک
ہونا اور ہلاک کرنا ہے ہم اس سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتے ہیں تو جس طرح ایک شخص کے بیٹوں کا فرض ہے کہ وہ ایک
دوسرے سے محبت کریں اور مقاصد کے حصول میں ایک دوسرے سے تعاون کریں اسی طرح ایک استاذ کے شاگردوں
کا بھی فرض ہے کہ وہ ایک دوسرے سے محبت اور دوستی کا ثبوت دیں اور ایسا اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب
ان کا مقصد آخرت ہو اور اگر ان کا مقصد دنیا ہو تو ایک دوسرے سے حسد اور بغض پیدا ہوگا۔ کیونکہ علماء اور آخرت چاہنے
والے لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف سفر کرتے ہیں اور دنیا سے گزر کر اس کی طرف جانے والے ہیں زندگی کے سال اور
مہینے راستے کی منازل ہیں۔ اور جو مسافر شہروں کی طرف جاتے ہیں ان کے درمیان باہمی رفاقت ایک دوسرے سے
محبت اور دوستی کرنے کا سبب بنتی ہے۔ تو جو سفر فردوس اعلیٰ کی طرف ہو اس کے راستے میں رفیق کے ساتھ محبت
کیسے نہیں ہوگی جب کہ سعادت اخروی میں تنگی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آخرت سے تعلق رکھنے والوں کے درمیان
جھگڑا نہیں ہوتا بخلاف دنیا کی سعادت کے کیونکہ اس میں گنجائش نہیں ہوتی اسی لیے وہ جویم کی تنگی سے نہیں بچ سکتے
اور جو لوگ علوم کے ذریعے ریاست طلب کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے اس قول کا مصداق نہیں ہو سکتے۔

ارشاد خداوندی ہے:-

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ (۲)

بے شک مومن ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔

وہ اس آیت کے مضمون میں داخل ہیں:-

الْأَخِلَاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَالَّذِينَ
الْمُتَّقِينَ - (۳)

آج کے دوست اس دن ایک دوسرے کے دشمن ہوں
گئے سوائے پرہیزگار لوگوں کے۔

(۱) کنز العمال جلد ۹ ص ۱۲ - (۲) قرآن مجید سورہ حجرات آیت ۱۰

(۳) قرآن مجید سورہ زخرف آیت ۶

دوسرا ادب، استاذ کو چاہیے کہ وہ صاحبِ شریعت صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتدار کر کے علم کا فائدہ پہنچانے پر اجرت طلب نہ کرے اور نہ اس کے ذریعے کسی جزا اور شکرہ کا قصد کرے بلکہ صرف اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کے قرب حاصل کرنے کی نیت سے پڑھائے۔ اپنی طرف سے ان (طلباء) پر کوئی احسان خیال نہ کرے اگرچہ ان پر لازم ہے کہ وہ استاذ کے احسان مند ہوں اور یوں تصور کرے کہ مجھے ان کی وجہ سے فضیلت حاصل ہوئی کیونکہ انہوں نے اپنے دلوں کو تیار کیا کہ ان میں علوم کا بیج بوی کر اللہ تعالیٰ کے قریب کیا جائے یہ ایسے ہی جسے کوئی شخص تمہیں اپنی زمین بطور ادھار دیتا ہے کہ تم اس میں اپنے لیے کھیتی باڑی کرو تو تمہارا نفع، زمین والے کے نفع سے زیادہ ہوگا۔

لہذا شاگرد پر احسان رکھنے کا کیا مطلب؟ حالانکہ علم سکھانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے ہاں تمہارا ثواب، متعلم کے ثواب سے زیادہ ہے اگر شاگرد نہ ہوتا تو تمہیں یہ ثواب نہ ملتا لہذا تم صرف اللہ تعالیٰ سے اجر مانگو جیسے ارشاد باری تعالیٰ ہے۔
 وَإِن سَأَلْتُمُوهُ لَأَشْكُرْ عَلَيْهٖ مَا لَآ إِنۡ أَجْرِيۡ
 إِلَّا عَلَى اللّٰهِ (۱)

اور اسے میری قوم میں اس (تبلیغ) پر تم سے مال نہیں مانگتا میرا اجر تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔

کیونکہ مال اور جو کچھ دنیا میں ہے وہ بدن کا خادم ہے بدن نفس کی سواری ہے مخدوم، علم ہے کیونکہ اسی کی وجہ سے نفس کو شرف حاصل ہوا پس جو شخص علم کے ذریعے مال طلب کرتا ہے وہ اس آدمی کی طرح ہے جو اپنی جوتی کے نچلے حصے کو اپنے پیرے سے پونچھ کر صاف کرتا ہے اس نے خادم کو مخدوم اور مخدوم کو خادم بنا دیا۔ اور یہ کامل درجے کی تبدیلی ہے اور اس جیسا آدمی قیامت کے دن ہجر موتوں کے ساتھ اپنے رب کے سامنے سر جھکائے کھڑا ہوگا۔
 خالصہ یہ کہ فضیلت اور احسان استاذ کے لیے ہے تو دیکھو کہ دین کا معاملہ کس طرح ان کے پاس چلا گیا جن کا دعویٰ ہے کہ ان کے پاس جو کچھ علم فقہ و کلام اور ان کی یاد دوسرے علوم کی تدریس ہے اس سے ان کا مقصود اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا ہے وہ اپنا مال اور مقام خرچ کرتے ہیں اور بادشاہوں کی خدمت میں طرح طرح کی ذلت اٹھاتے ہیں تاکہ ان کو جاگیریں حاصل ہوں اور اگر وہ اس کو چھوڑ دین تو ان کو بھی چھوڑ دیا جائے اور ان کے پاس کوئی بھی نہ جائے پھر استاذ کو اپنے شاگرد سے توقع ہوتی ہے کہ وہ ہر مشکل میں اس کے کام آئے اس کے دوستوں کی مدد کرے اور اس کے دشمن سے دشمنی رکھے۔ اس کی حاجات کو پورا کرنے کے لیے مکر بستہ رہے اور اس کے مقاصد میں فرما تہر دار رہے پھر اگر وہ اس کے حق میں کوتاہی کرتا ہے تو استاذ کو اس پر غصہ آتا ہے اور وہ اس کا بہت بڑا دشمن بن جاتا ہے تو اس قسم کا عالم کتنا کمینہ ہے کہ اپنے نفس کے لیے اس درجہ پر راضی ہوتا ہے پھر اس پر خوش ہوتا ہے اور یہ بات کہتے ہوئے اسے جیسا نہیں آتا کہ تدریس سے میری غرض علم کو پھیلانا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو اور اس کے

دین کی مدد ہو تو تم ان نشانیوں کو دیکھو تاکہ وہ جو کہ دہی کی صورتوں پر تمہاری نظر رہے،

تیسرا ادب :- طالب علم کو نصیحت کرنا ترک نہ کرے اسے استحقاق سے پہلے رتبہ حاصل کرنے کی خواہش اور ظاہری علوم سے فراغت سے پہلے پوشیدہ علم میں مشغولیت سے منع کرے پھر اسے خبردار کرے کہ علوم حاصل کرتے کا مقصد اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا ہے حکومت کا حصول اور فخر و مہابات نہیں ہے۔ جس قدر ممکن ہو شروع ہی سے اس کے دل میں اس چیز کی خرابی کا تصور پکا کر دے کیونکہ فاجر عالم اصلاح کے مقابلے میں خرابی زیادہ پیدا کرتا ہے اگر اسے شاگرد کے دل کی حالت معلوم ہو جائے کہ وہ علم کو دنیا کے لیے حاصل کرتا ہے تو وہ اس علم کو دیکھے جسے وہ حاصل کر رہا ہے اگر وہ فقہی اختلاف، کلامی جھگڑوں اور احکام و مقدمات کے فتاویٰ سے متعلق ہے تو اسے اس سے روک دے کیوں کہ یہ علوم آخرت سے نہیں اور نہ یہ ان علوم سے ہیں جن کے بارے میں کیا گیا کہ ہم نے غیر خدا کے لیے علم حاصل کرنا چاہا لیکن علم نے اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کے لیے ہونے سے انکار کر دیا اور یہ علم تفسیر اور علم حدیث ہے نیز وہ علم آخرت سے جس میں اسلاف مشغول رہتے تھے، اخلاقِ نفس اور اس کی تہذیب کی کیفیت کو سچانا ہے تو جب طالب ان علوم کو دینی غرض کے لیے سیکھے تو استاذ کو چاہیے کہ اسے چھوڑ دے کیونکہ اس سے وعظا اور لوگوں کی پیروی کی لالچ پیدا ہوتی ہے۔ البتہ بعض اوقات تحصیل علم کے دوران یا آخر میں وہ خبردار ہو جاتا ہے کیونکہ اس میں ایسے علوم بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ کا خوف دلاتے ہیں، دنیا کی حقارت اور آخرت کی عظمت کو واضح کرتے ہیں تو ممکن ہے کہ آخر کار وہ اچھے راستے پر آجائے اور اس چیز سے نصیحت حاصل کرے جس کی دوسروں کو نصیحت کرتا ہے مقبولیت اور مرتبہ کی محبت اس دانے کی طرح ہے جسے جال کے گرد دانا ڈالا جاتا ہے تاکہ اس کے ذریعے پرندے شکار کرتے اللہ تعالیٰ نے بھی بندوں کے ساتھ یہی معاملہ فرمایا ہے اس نے شہوت کو پیدا کیا تاکہ اس کے ذریعے مخلوق، بقائے نسل تک پہنچے اسی طرح جان و مرتبہ کی محبت پیدا فرمائی تاکہ وہ علوم کو زندہ رکھنے کا سبب بنے اور یہ بات ان علوم میں متوقع ہے۔ لیکن بعض اختلافی مسائل، علم کلام کے جھگڑے اور فروعاتِ عجیبہ کی معرفت کے لیے مختص ہو جانا اور دیگر علوم کو چھوڑ دینا دل کی سختی، اللہ تعالیٰ سے غفلت، مگر ابی میں بڑھنے اور جاہ و مرتبہ کا باعث ہے البتہ جس کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے بچائے۔ یا اس کے ساتھ علوم دینیہ میں سے کوئی اور علم ملائے۔ اس پر تجربہ اور مشاہدہ جیسی کوئی دلیل نہیں پس دیکھو اور عبرت پکڑو اور چشم بصیرت کے ذریعہ بندوں اور شہروں میں اس کی تحقیق معلوم کرو اور اللہ تعالیٰ ہی سے مدد طلب کی جاتی ہے، حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ کو غمگین دیکھا گیا تو پوچھا گیا آپ کو کیا ہوا انہوں نے فرمایا ہم دنیا داروں کے لیے تجارت گاہ بن گئے ہیں ان میں سے ایک ہمارے ساتھ متعلق ہو جاتا ہے حتیٰ کہ جب علم حاصل کر لیتا ہے تو اسے قاضی یا حکمران یا منشی بنا دیا جاتا ہے۔

چوتھا ادب :- یہ ادب فن تعلیم میں نہایت دقیق ہے وہ یہ کہ طالب علم کو حتیٰ الامکان اشاروں کنایوں میں برائی

سے روکے، واضح الفاظ میں نہ کہے رحمت بھر سے طریقے سے روکے بھڑکنے کے طور پر نہیں کیونکہ بھڑک، ہیبت کے پرے کو دور کر دیتی ہے مخالفت کرنے پر جسرات کو پیدا کرتی ہے اور برائی پر اصرار کے لیے حریص بنا دیتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام اساتذہ کے سامنے آپ نے فرمایا:-

كُوْمُنِعَ النَّاسَ عَنْ قِتَابِ الْبَعْرِ لَفْتُوهُ وَقَالُوا
مَا نَهَيْدُ عَنْهُ إِلَّا وَفِيهِ شَيْءٌ

اگر لوگوں کو مینگنی توڑنے سے منع کر دیا جائے تو وہ اس کو توڑیں گے اور کہیں گے کہ ہمیں جو روکا گیا ہے تو ضرور

اس میں کوئی بات ہے۔

اس پر حضرت آدم رضی اللہ عنہما السلام کا واقعہ اور جس چیز سے انہیں منع کیا تھا، تمہیں آگاہ کرتا ہے تمہیں یہ قصہ محض کہانی کے طور پر یاد نہیں دایا بلکہ اس لیے کہ تم عبرت حاصل کرنے کے لیے اس سے آگاہ ہو جاؤ دوسری بات یہ ہے کہ صراحتاً تنبیہ نہ کرنے سے اچھے نفوس اور عمدہ ذہن اس کے معافی نکال لیتے ہیں اور مقصود کو حاصل کرنے کی خوشی انہیں علم میں رغبت دیتی ہے تاکہ معلوم ہو کہ یہ ان باتوں سے ہے جو اس کی سمجھ سے پوشیدہ ہیں۔

پانچواں ادب، کسی علم کے ذمہ دار استاذ کو چاہیے کہ وہ متعلم کے دل میں ان علوم کی برائی نہ ڈالے جو اس علم کے علاوہ ہیں جیسے لغت سکھانے والے استاذ کی عادت ہوتی ہے کہ وہ علم فقہ کی برائی بیان کرتا ہے اور فقہ کا استاذ علم حدیث و تفسیر کی برائی بیان کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ تو محض نقل و سماع اور بوڑھی عورتوں کا کام ہے عقل کا اس میں کوئی دخل نہیں، معلم کلام، علم فقہ سے نفرت دلاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ فروعی مسائل ہیں اور عورتوں کے جنس کے بارے میں گفتگو ہے۔ یہ علم کلام کو کیسے پہنچ سکتا ہے کیونکہ وہ نور حملن کی صفات کا ذکر ہے اساتذہ کی یہ عادات مذموم ہیں انہیں ان سے بچنا چاہیے بلکہ جو استاذ ایک علم کا کفیل ہوا ہے چاہیے کہ وہ طالب علم کو دوسرے علوم سیکھنے کا راستہ بھی دکھائے اور اگر وہ کئی علوم کا نگران ہے تو وہ اس بات کا خیال رکھے کہ طالب علم تدریجاً ایک درجہ سے دوسرے درجہ کی طرف ترقی کرتا جائے۔

چھٹا ادب، طالب کے ذہن کے مطابق اسے سمجھائے اسے وہ بات نہ بتائے جس تک اس کی عقل نہیں پہنچتی کیونکہ وہ اس سے نفرت کرنے لگے گا یا اس کی عقل کام کرنا چھوڑ دے گی اس سلسلے میں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے آپ نے فرمایا:-

نَحْنُ مَعَانِئِرُ الْاَنْبِيَاءِ اَمْرِنَا اَنْ نَسْتُرَ
النَّاسَ مَنَارِكُمْ وَتَكَلِّمَهُمْ

ہم گروہ انبیاء کو حکم دیا گیا ہے کہ ہم لوگوں کو ان کے مراتب پر رکھیں اور ان کی عقلوں کے مطابق ان سے

گفتگو کریں۔

عَلَى قَدْرٍ عُنْوَرٍ لِمَمْدَا

تو اس تا دہن شاگرد کے سامنے کوئی حقیقت اس وقت رکھے جب وہ جانتا ہو کہ وہ اسے سمجھ لے گا۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:-

مَا أَخَذُ بِحَدِيثِ قَوْمٍ مَا بَحْدِيثِ لَا تَبْلَغُهُ
عُقُولُهُمْ إِلَّا كَانَ فِتْنَةً عَلَى بَعْضِهِمْ ۝۱۳

تو شخص کسی قوم سے ایسی بات بیان کرتا ہے جس تک
ان کی عقول نہیں پہنچتیں تو وہ بعض کے لیے فتنے کا باعث
ہوتی ہے۔

حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے اپنے سینے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا: یہاں بہت سے علوم میں بشرطیکہ ان کو سمجھنے والا کوئی ہو، تو آپ نے سچ فرمایا نیک لوگوں کے دل بھیدوں کا قبرستان ہے لہذا عالم کو چاہیے کہ جو کچھ وہ جانتا ہے ہر ایک کو نہ بتائے۔ یہ اس صورت میں ہے جب شاگرد سمجھتا تو ہو لیکن وہ اس سے نفع اٹھانے کا اہل نہ ہو۔ تو جس بات کو وہ سمجھتا ہی نہ ہو اس کا کیا حال ہوگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا:-

لَا تَعْلَمُوا الْجَوَاهِرَ فَاَعْنَاقَ
الْخَنَازِيرِ (۳)

خنزیروں کے گلے میں موتیوں کا ہار نہ ڈالو تو بیشک حکمت
(علم) جو اہرات سے بہتر ہے اور جو اسے ناپسند کرتا ہے

وہ خنزیروں سے برا ہے۔

اسی لیے کہا گیا ہے کہ ہر شخص کو اس کی عقل کے پیمانے کے مطابق ناپو اور اس کی سمجھ کے ترازو کے مطابق تولو۔ تاکہ تم اس سے بچو اور وہ تم سے نفع حاصل کر لے ورنہ معیار کے مختلف ہونے کی وجہ سے انکار کرے گا۔ ایک عالم سے کوئی بات پوچھی گئی تو اس نے جواب نہ دیا پوچھنے والے نے کہا کیا آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سنا آپ نے فرمایا:-

مَنْ كَتَمَ عِلْمًا نَافِعًا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
مَلْجَمًا بِلِجَامٍ مِّنْ نَّارٍ (۴)

جس نے علم نافع کو چھپایا وہ قیامت کے دن اس
طرح آئے گا کہ اسے آگ کی لگام ڈالی گئی ہوگی۔

اس عالم نے جواب دیا لگام چھوڑ دو اور جاؤ اگر کوئی سمجھنے والا آیا اور میں نے علم کو چھپایا تو وہ مجھے لگام دے گا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:-

وَلَوْ قُوْنَا السَّفَهَاءَ اَمْوَالَكُمُ (۵)

نہ سمجھ لوگوں کو اپنے مال نہ دو۔

(۳) تاریخ بغداد، ج ۹ ص ۲۵۰

(۴) کنز العمال جلد ۳ ص ۱۱۱ (۲)

(۵) سنن ابن ماجہ ص ۲۳، ۲۴، باب من سئل عن علم فلتہ (۵) قرآن مجید سورۃ نساء آیت ۵

یہ اس بات پر تنبیہ ہے کہ جو شخص علم کو خراب کرے اور نقصان پہنچائے اس سے علم کو بچانا بہتر ہے۔ مستحق سے علم کو روکنا ظلم ہے لیکن غیر مستحق تک علم کو پہنچانا اس سے کم ظلم نہیں کسی شاعر نے کہا۔

ترجمہ: کیا ہیں جانوروں کو چرانے والے کے سامنے موتی پھیلا دوں اور بکریوں کے چرواہے کے خزانہ جمع ہو جائے وہ اپنی قدر و قیمت سے بے خبر ہونے کی وجہ سے اندھیرے میں چلے گئے تو ہیں جانوروں کو اس ر علم کا ہار پہنا کر روشن نہیں کر سکتا اگر اللہ تعالیٰ جو مہربان ہے، اپنے لطف و رحم سے مجھے ایسے لوگوں سے ملادے تو علوم و حکمت کے اہل ہوں تو میں اس کو پھیلاؤں گا تاکہ اس سے فائدہ پہنچایا جائے، اور میں ان لوگوں سے دوستی کروں گا ورنہ یہ میرے پاس محفوظ ہے کیونکہ جو شخص جہل کو علم کا عطیہ دیتا ہے وہ اسے ضائع کرتا ہے اور جو مستحق لوگوں سے روکتا ہے وہ ظلم کرتا ہے۔

ساتواں ادب:۔ اگر متعلم بھدار نہ ہو تو اسے ایسی موٹی اور واضح بات بتائے جو اس کے لائق ہے اور اسے یہ نہ بتائے کہ اس کے علاوہ باریک بات بھی ہے جو اس نے روک رکھی ہے (بتائی نہیں)

کیونکہ اس سے واضح بات کے بارے میں بھی اس کی رغبت کم ہو جائے گی اور اس کا ذہن پراگندہ ہو جائے گا اور وہ وہم کرے گا کہ استاذ نے مجھ سے کام لیا ہے اس لیے کہ میرا ذہن یہ خیال کرتا ہے کہ وہ ہر دقیق علم کا اہل ہے اور ہر شخص اللہ تعالیٰ سے اس بات پر راضی ہے کہ اس نے اسے عقل کامل عطا کی ہے اور جو شخص زیادہ بیوقوف اور کم عقل ہے وہ اپنی عقل کے کمال پر سب سے زیادہ خوش ہے، اس سے معلوم ہوا کہ عوام میں سے جو شخص شریعت کا پابند ہو اور اس کے دل میں اسلاف کے عقائد کسی تشبیہ و تاویل کے بغیر جم چکے ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا باطن اچھا ہو اور اس کی عقل اس سے زیادہ کو برداشت نہ کر سکتی ہو تو اسے اس کے اعتقاد کے بارے میں تشویش میں مبتلا نہیں کرنا چاہیے۔ بلکہ اسے اس کے کام میں مشغول چھوڑ دینا چاہیے کیونکہ اگر اسے ظاہری تاویلات بتائی جائیں تو وہ عوام کے درجے سے نکل جائے گا اور خاص لوگوں کے زمرے میں آنا مشکل ہوگا لہذا اس کے اور گناہوں کے درمیان جو رکاوٹ ہے وہ اٹھ جائے گی وہ سرکش شیطان بن کر اپنے آپ کو بھی اور دوسروں کو بھی ہلاک کرے گا بلکہ مناسب ہے کہ عوام کے ساتھ دقیق علوم کے حقائق پر بحث نہ کی جائے بلکہ ان سے صرف عبارات کے بارے میں گفتگو کی جائے وہ جن کاموں میں مصروف ہیں ان میں ایمان داری کی تاکید کی جائے اور ان کے دلوں کو جنت کی رغبت اور جہنم کے خوف سے بھر دیا جائے جیسے قرآن پاک نے بیان کیا ہے ان کے سامنے کسی شبہ کی حرکت نہ دی جائے۔

کیونکہ بعض اوقات اس کے دل میں شبہ پڑ جاتا ہے اور اسے حل کرنا مشکل ہو جاتا ہے لہذا وہ بدیختی کا شکار ہو کر ہلاک ہو جاتا ہے۔

خلاصہ یہ کہ عوام کے سامنے بحث کا دروازہ نہ کھولا جائے اس سے ان کے وہ کام معطل ہو کر رہ جائیں گے

جن کے ساتھ مخلوق کا نظام اور خاص لوگوں کی زندگی کا دوام قائم ہے۔

آٹھواں ادب :- استاذ کو اپنے علم کے مطابق عمل کرنا چاہیے تاکہ اس کا قول اس کے فعل کو نہ جھٹلائے اس لیے کہ علم باطنی آنکھوں سے اور عمل ظاہری آنکھوں سے معلوم ہوتا ہے اور ظاہری آنکھوں والے لوگ زیادہ ہیں اور جب اس کا عمل، علم کے خلاف ہوگا تو ہدایت نہیں ہو سکے گی اور ہر وہ شخص جو کوئی چیز کھاتا ہے اور لوگوں سے کہتا ہے کہ تم اسے نہ کھاؤ کیونکہ یہ زہرِ قاتل ہے تو لوگ اس کا مذاق اڑاتے اور اس پر تہمت لگاتے ہیں اور جس کام سے ان کو منع کیا گیا اس پر ان کی حرص زیادہ ہو جاتی ہے اور وہ کہتے ہیں اگر یہ چیز اچھی اور لذیذ نہ ہوتی تو استاذ محترم اسے کیوں اختیار کرتے ہدایت دینے والا استاذ، شاگردوں کے لحاظ سے اس طرح ہے جس طرح گلے کی نسبت نقش اور لکڑی کی نسبت سایہ ہوتا ہے تو جس چیز میں خود کوئی نقش نہیں اس کے ساتھ گارے میں کیسے نقش بنے گا اور جب لکڑی ٹیڑھی ہوگی تو سایہ کیسے سیدھا ہوگا۔ اسی لیے کسی شاعر نے اس مضمون کو یوں بیان کیا ہے "ایسے کام سے نہ روک جیسے تو خود کرتا ہے اگر تو ایسا کرے گا (روکے گا) تو تیرے لیے عار اور شرم کی بات ہے۔"

ارشاد خداوندی ہے :-

اَتَا مَسْرُورَانَ النَّاسِ بِالْبِرِّ وَتَشْمُونَ
اَنْفُسَكُمْ - (۱)

”کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو۔“

اسی لیے گناہ کا بوجھ جاہل کی نسبت عالم پر زیادہ ہوتا ہے کیونکہ اس کے پھسلنے سے ایک عالم پھسلتا ہے اور لوگ اس کی پیروی کرتے ہیں۔

حدیث شریف میں ہے :-

مَنْ سَنَّ سُنَّةَ سَيِّئَةٍ فَعَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ
مَنْ عَمِلَ بِهَا سَلَامٌ - (۲)

جس نے کوئی برا عمل جاری کیا اس پر اس کا گناہ بھی ہے اور عمل کرنے والوں کا بھی۔

اسی لیے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا :-

”دو آدمیوں نے میری کمر توڑ دی ہے ایک عالم جس نے اپنی عزت کھودی اور دوسرا جاہل جو زائد بن رہا ہے (۱) جاہل زائد بن کر لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے اور عالم از تکاب گناہ سے دھوکے میں مبتلا کرتا ہے۔“

(۱) قرآن مجید سورہ بقرہ آیت ۴۴ (۲) مستند امام احمد بن حنبل جلد ۲ ص ۲۵۷

(۳) مطلب یہ ہے کہ علم پر عمل ضروری ہے اور عبادت کے لیے علم حاصل کرنا لازمی ہے ۱۲ ہزار روپی

پھٹاباب

علم کی آفات نیز علمائے آخرت اور علماء سوں کی علامات

علم اور علماء کے فضائل کے بارے میں ہم نے احادیث نقل کی ہیں۔

اور بڑے علماء کے بارے میں سخت سزا کا ذکر آیا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کے دن انہیں تمام مخلوق سے زیادہ عذاب ہوگا اس لیے ان علامات کو جاننا بہت اہم کام جن کے ذریعے آخرت اور دنیا کے علماء کے درمیان فرق ہوتا ہے علمائے دنیا سے ہماری مراد علمائے سوں ہیں جن کا مقصود علم سے دنیا کی نعمتیں اور اہل دنیا کے ہاں جہاد و مرتبہ حاصل کرنا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:-

إِنَّ اسْتَدَّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَالِمٌ
كَمْ يَنْفَعُهُ اللَّهُ بِعِلْمِهِ (۱)

قیامت کے دن سب سے زیادہ عذاب اس عالم کو ہوگا جسے اللہ تعالیٰ نے اس کے علم سے نفع نہیں دیا۔
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی مروی ہے اپنے فرمایا:-
رَلَا يَكُونُ الْمَرْءُ عَالِمًا حَقًّا يَكُونُ
بِعِلْمِهِ عَامِلًا - (۲)

آپ نے مزید ارشاد فرمایا:-
الْعِلْمُ عِلْمَانِ: عِلْمٌ عَلَى اللِّسَانِ، فَذَلِكَ
حُجَّةٌ لِلَّهِ تَعَالَى عَلَى خَلْقِهِ وَعِلْمٌ فِي
الْقَلْبِ فَذَلِكَ الْعِلْمُ النَّافِعُ - (۳)

علم کی دو قسمیں ہیں ایک وہ علم ہے جو زبان پر ہوتا ہے یہ مخلوق پر اللہ تعالیٰ کی حجت ہے اور دوسرا وہ علم ہے جو دل میں ہوتا ہے یہ علم نافع ہے۔

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:-
يَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ عِبَادٌ جُهَالٌ وَعُلَمَاءٌ
قَسَانٌ - (۴)

آخری زمانے میں جاہل عبادت گزار اور فاسق علماء ہوں گے۔

(۱) کنز العمال ج ۱۰ ص ۲۰۸ (۲) کنز العمال ج ۱۰ ص ۱۹۲

(۳) کنز العمال ج ۱۰ ص ۱۸۲ (۴) کنز العمال ج ۱۴ ص ۲۲۲

آپ نے فرمایا:-

لَا تَتَعَلَّمُوا الْعِلْمَ لِنَبَاهُوبِ الْعُلَمَاءِ
وَلِتَمَارَوْا بِهِ السُّفَهَاءَ وَلِتَضْرِبُوا بِهِ وُجُوهُ
النَّاسِ إِلَيْكُمْ فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَهُوَ
فِي النَّارِ (۱)

علم اس لیے حاصل نہ کرو کہ اس کے ذریعے علماء پر
فخر کر دینا سمجھ لوگوں سے جھگڑا کرو اور لوگوں کو اپنی
طرف متوجہ کرو جس نے ایسا کیا وہ جہنم میں جائے
گا۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:-

مَنْ كَتَمَ عِلْمًا عِنْدَهُ الْجَمَّةُ اللَّهُ بِدِجَامِهِ
وَالنَّارِ (۲)

جس نے اس علم کو چھپایا جو اس کے پاس ہے اسے
آگ کی لگام ڈالی جائے گی۔

اور آپ نے فرمایا:-

لَوْ نَاهَن عَزَالَتِ الْجِبَالُ أَخْوَفَ عَلَيْكُمْ مِنَ
الدَّجَالِ -

مجھے تم پر دجال کی نسبت دوسری بات کا زیادہ خوف ہے
عرض کیا گیا وہ کیا ہے؟

آپ نے فرمایا:-

مِنَ الْأَثِمَةِ الْمُقْلِينَ (۳)

گمراہ کن ائمہ۔

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے -
مَنْ أَزَادَ عِلْمًا وَلَمْ يَزِدْهُ هِدًى لَمْ
يَزِدْهُ مِنَ اللَّهِ إِلَّا بَعْدًا - (۴)

جس شخص کا علم زیادہ ہوا اور ہدایت زیادہ نہ ہوئی وہ اللہ
تعالیٰ سے دُور ہوتا جائے گا۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا "جب تک تم آخر شب میں چلنے والوں کے لیے راستہ صاف کرتے رہو گے اور خود
حیرت زدہ لوگوں کے ساتھ کھڑے رہو گے۔ یہ اور اس کے علاوہ احادیث علم کے بہت بڑے خطرہ پر دلالت کرتی ہیں کیونکہ
عالم یا تو ہمیشہ کی ہلاکت میں چلا جاتا ہے یا ابدی سعادت حاصل کر لیتا ہے اور اگر علم میں غور کرنے سے سعادت نہیں پائے
گا تو سلامتی سے بھی محروم رہے گا۔

(۱) کنز العمال ج ۱۰ ص ۱۹۶ (۲) الغلل المتناہیہ جلد اول ص ۹۳

(۳) مسند امام احمد بن حنبل جلد ۵ ص ۱۴۵

(۴) کنز العمال ج ۱۰ ص ۱۹۳

صحابہ کرام اور اسلاف کے اقوال

حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا مجھے اس امت پر سب سے زیادہ خوف علم و ابے منافق کا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کوئی منافق، علم والا کیسے ہو سکتا ہے، آپ نے فرمایا "زبان کا عالم ہو گا جب کہ دل اور عمل کے اعتبار سے جاہل ہو گا۔"

حضرت حسن رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان لوگوں میں سے نہ ہونا جنہوں نے علماء سے علم اور حکماء کی طرافت کو جمع کر لیا اور عمل میں بیوقوف کی طرح ہیں ایک شخص نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے عرض کیا کہ میں علم حاصل کرنا چاہتا ہوں لیکن مجھے اس کے ضائع ہونے کا خوف ہے۔ انہوں نے فرمایا علم کو ضائع کرنے کے لیے اسے چھوڑنا ہی کافی ہے۔ حضرت ابراہیم بن عیینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا کہ سب سے زیادہ ندامت کس کو ہوتی ہے؟ انہوں نے فرمایا جہاں تک اس دنیا کا تعلق ہے تو اس شخص کو ندامت ہوتی ہے جو ایسے شخص سے نیکی کرتا ہے جو شکر یہ ادا نہیں کرتا اور موت کے وقت کوتاہی کرنے والے عالم کو ندامت ہوگی۔ حضرت خلیل بن احمد نے فرمایا مرد چارہ قسم کے ہوتے ہیں۔

(۱) جو آدمی جانتا ہے اور اسے معلوم ہے کہ وہ جانتا ہے تو یہ عالم ہے اس کی پیروی کرو۔

(۲) وہ جو علم رکھتا ہے لیکن اسے معلوم نہیں کہ اس کے پاس علم ہے یہ سویا ہوا ہے اس کو جگاؤ۔

(۳) وہ شخص جو نہیں جانتا اور اس کا خیال بھی یہی ہے کہ وہ نہیں جانتا یہ ہدایت کا طالب ہے اس کی رہنمائی کرو۔

(۴) وہ آدمی جو نہیں جانتا اور اسے یہ بھی معلوم نہیں کہ وہ نہیں جانتا تو یہ شخص جاہل ہے اس کو چھوڑ دو۔

حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں علم، عمل کو پکارتا ہے اگر وہ اس کی بات قبول کرے تو ٹھیک ہے ورنہ

علم چلا جاتا ہے حضرت ابن مبارک رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب تک آدمی علم کی طلب میں رہتا ہے وہ عالم ہوتا ہے اور جب وہ خیال کرتا ہے کہ وہ عالم ہے تو وہ جاہل بن جاتا ہے۔

حضرت فضیل بن عیاض رحمہ اللہ فرماتے ہیں "مجھے تین آدمیوں پر ترس آتا ہے کسی قوم کا معزز شخص ذلیل ہو جائے،

قوم کا مال دار شخص محتاج ہو جائے اور وہ عالم جس سے دنیا کھیلتی ہے" حضرت حسن رحمہ اللہ فرماتے ہیں "علماء کی سزا دل کا طلب کرنا ہے انہوں نے یوں پڑھا۔"

مجھے اس شخص پر تعجب ہے جو ہدایت دے کر گمراہی لیتا ہے اور جو آدمی دین کے بدلے دنیا حاصل کرتا ہے

اس پر تو زیادہ تعجب ہے اور ان دونوں سے بھی بڑھ کر اس پر تعجب ہے جو دوسروں کی دنیا کے لیے اپنے

دین کا سودا کرتا ہے وہ ان دونوں سے زیادہ تعجب چیز ہے۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :-

ان العالم کيعذب عذاباً يطيف به أهل النار استعظماً لشدّة عذابه - (۱)

اس سے مراد بد اعمال عالم سے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ نے فرمایا :-

يُوتَى بِالْعَالِمِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُلْقَى فِي النَّارِ فَنَدَقَ لِقُوتِهَا فَيَدُورُ بِهَا كَمَا يَدُورُ الْعِمَارُ بِالرَّحَى فَيَطِيفُ بِهِ أَهْلُ النَّارِ فَيَقُولُونَ مَا لَكَ؟ فَيَقُولُ: كُنْتُ آمُرًا بِالْخَيْرِ وَكَوَاتِبَةٍ، وَانْتَهَى عَنِ الشَّرِّ وَآيَةٌ (۲)

قیامت کے دن عالم کو لایا جائے گا اور اس کو آگ میں ڈالا جائے گا اس کی آستین باہر نکل آئیں گی تو وہ اس طرح چکر لگائے گا جسے گدھا چکی کے گرد گھومتا ہے اہل جہنم اس کے گرد چکر لگائیں گے اور پوچھیں گے تجھے کیا ہوا تو وہ کہے گا میں نیکی کا حکم دیتا تھا اور خود عمل نہیں کرتا تھا اور برائی سے روکتا تھا لیکن خود اس کا مرتکب ہوتا تھا۔

عالم کے گناہ پر اس کا عذاب اس لئے دوگنا ہے کہ اس نے علم کے باوجود گناہ کیا اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا :-

ان المنافقين في الدرك الأسفل من النار (۳)

بے شک منافق جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے۔

کیوں کہ انہوں نے جاننے کے بعد انکار کیا اور اللہ تعالیٰ سے یہودیوں کو عیسائیوں کے مقابلے میں زیادہ برا قرار دیا حالانکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد ثابت نہیں کی (۴) اور انہوں نے یہ نہیں کہا کہ وہ (خدا) تین میں سے تیسرا ہے لیکن انہوں نے معرفت حاصل ہونے کے بعد انکار کیا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا :-

يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ آبَاءَهُمْ - (۵)

وہ یہودی، ان کو حضور علیہ السلام کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح وہ اپنے بیٹوں کو کسی شک و شبہ کے بغیر پہچانتے ہیں۔

(۱) مستدراک احمد بن حنبل ج ۵ ص ۲۰۵ (۲) صحیح مسلم ج ۲ ص ۲۱۲ باب عقوبۃ من یامر بالمعروف -

(۳) قرآن مجید سورہ نساء آیت ۱۳۵

(۴) یہ بات صحیح نہیں کیونکہ یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانا قرآن پاک میں ہے در اور یہودیوں نے کہا کہ حضرت عزیر علیہ

السلام خدا کے بیٹے ہیں ۱۲ ہزاروی (۵) قرآن مجید سورہ انعام آیت ۲۰

اور ارشاد خیر از زری :-

فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ، فَلَعَبَنَهُ
اللَّهُ عَلَى الْكَافِرِينَ (۱)

اور جب ان کے پاس وہ چیز آگئی جسے وہ پہچانتے تھے تو انہوں نے اس کا انکار کیا پس کافروں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔

اللہ تعالیٰ نے بلعم بن باعور اور اس کے واقع میں فرمایا :-
وَإِنذُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَاسْلَخَ مِنْهَا ذَاتَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْعَاوِينَ -
(۲)

اور ان پر اس شخص کا واقعہ پڑھیں جسے ہم نے آیات دین تو وہ ان سے صاف نکل گیا پس شیطان اس کے پیچھے پڑا تو وہ گمراہوں میں سے ہو گیا۔

حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا :-

قَمَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ
يَلْهَثُ أَوْ تَنْزُكُهُ يَلْهَثُ (۳)

پس اس کی مثال کتے جیسی ہے اگر تم ان پر حملہ کرو تو زبان نکالتا ہے اور اگر چھوڑ دو تو بھی زبان نکالتا ہے۔

تو بدکار عالم کا بھی یہی حال ہے کیونکہ بلعم کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کا علم دیا گیا تو وہ شہوات میں پڑ گیا چنانچہ اسے کتے سے تشبیہ دی گئی۔ یعنی اسے حکمت ملے یا نہ، وہ خواہشات کی طرف ہانپتا ہے۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا لا بُر سے علماء کی مثال اس چٹان جیسی ہے نہر کے کنارے پر رکھ دی جائے نہ تو وہ خود پانی پیتی ہے اور نہ ہی پانی کو کھیتی تک جانے دیتی ہے نیز بر سے علماء کی مثال باغ کے پختہ نالے کی طرح ہے جس کے باہر چوٹیا ہے اور اندر بدبو ہے اور قبروں کی مثل ہے جن کا ظاہر پکا ہے اور اندر مردوں کی ہڈیاں ہیں۔

تو یہ احادیث اور آثار اس بات کو واضح کرتے ہیں کہ جو عالم دنیا دار ہے قیامت کے دن اس کا حال جاہل سے زیادہ برا ہوگا اور اسے عذاب بھی زیادہ ہوگا اور جو لوگ کامیاب اور مقرب ہوں گے وہ علماء کے آخرت میں ہیں۔

(۱) قرآن مجید سورہ بقرہ آیت ۸۹ (۲) قرآن مجید سورہ اعراف آیت نمبر ۱۷۵

(۳) قرآن مجید سورہ اعراف آیت نمبر ۱۷۵

(۲) بلعم بن باعور کا واقعہ مختصراً یوں ہے کہ یہ شخص بنی اسرائیل میں ایک زیادہ شخص تھا مستجاب الدعوات تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب قوم جبارین پر حملہ کا ارادہ کیا تو اس کی قوم نے اسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف اکسایا اور بددعا کا مطالبہ کیا یہ سلسلہ انکار کرتا رہا بالآخر انہوں نے مخالفت پیش کئے تو آواز ہو گیا چنانچہ وہ جو بھی بددعا کرتا زبان سے اس کی اپنی قوم کا نام نکلتا اور اس سے اسم اعظم بھی لے لیا گیا (تفصیل تفاسیر میں دیکھئے) ۱۲ ہزاروی۔

علمائے آخرت کی نشانیوں

ان میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ وہ اپنے علم کے ساتھ دنیا کو طلب نہ کرے کیوں کہ عالم کا سب سے چھوٹا درجہ یہ ہے کہ وہ دنیا کی حقارت، ہلکا پن، گدلا پن اور ناپائیداری نیز آخرت کی عظمت اور دوام اس کی نعمتوں کی صفائی اور اس کی سلطنت کی بڑائی کا شعور رکھتا ہو اور اسے معلوم ہو کہ یہ دونوں ایک دوسرے کی ضد میں اور دونوں دوسو کنوں کی طرح ہیں جب ایک کو راضی کر دے تو دوسری ناراض ہوگی یا ترازو کے دو پلڑوں کی طرح ہیں جب ایک بھاری ہوگا تو دوسرا ضرور ہلکا ہوگا، اور دو پیالوں کی طرح ہیں ان میں سے ایک بھرے گا تو دوسرا فارغ ہوگا ایک کو جتنا بھرو گے حتیٰ کہ اسے مکمل بھر دو تو دوسرا فارغ ہو جائے گا جو شخص دنیا کی حقارت، گدلا پن اور اس کی لذتوں کے تکالیف کے ساتھ ملے ہوئے کی پہچان نہیں رکھتا اور نہیں جانتا کہ جو دنیوی لذت کسی غلش کے بغیر ہوتی ہو وہ جلدی ختم ہو جاتی ہے اس شخص کی عقل خراب ہے کیوں کہ مشاہدہ اور تجربہ اس بات کی خبر دیتا ہے تو جو آدمی عقل مند نہ ہو وہ علماء میں سے کیسے ہو سکتا ہے اور جو آدمی امرِ آخرت کی عظمت اور اس کے دوام کو نہیں جانتا وہ کافر ہے اس کا ایمان سلب ہو گیا تو جس کے پاس ایمان ہی نہیں وہ علماء میں سے کیسے ہو گا۔

اور جو شخص نہیں جانتا کہ دنیا، آخرت کی ضد ہے اور ان دونوں کو جمع کرنا ایک بے فائدہ لالچ ہے وہ تمام انبیاء کرام کی شریعتوں سے جاہل ہے بلکہ قرآن پاک کے اول سے آخر تک کا منکر ہے تو وہ کس طرح علماء کی جماعت میں شمار ہوگا، اور جو آدمی ان سب باتوں کو جانتا ہو پھر بھی آخرت کو دنیا پر ترجیح نہ دے تو اس کی شہوت نے اسے تباہ کر دیا اور اس پر بدبختی غالب آگئی تو اس درجے کا آدمی علماء کے گروہ میں کیسے شمار کیا جائے۔

حضرت داؤد علیہ السلام کے واقعات میں ہے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ”جو شخص اپنی خواہش کو میری محبت پر ترجیح دیتا ہے میں اسے کم از کم یہ سزا دیتا ہوں کہ اسے اپنی مناجات کی لذت سے محروم کر دیتا ہوں اسے داؤد علیہ السلام! مجھ سے ایسے عالم کے بارے میں سوال نہ کرنا جسے دنیا نے نشے میں ڈال دیا وہ مجھے میری محبت کے راستے سے روک دے گا اور یہ لوگ میرے بندوں پر ڈاکہ ڈالنے والے ہیں اسے داؤد علیہ السلام! جب کسی کو میرا طالب دیکھو تو اس کے خادم بن جاؤ، اسے داؤد علیہ السلام! جو آدمی کسی بھانگے ہوئے کو میری طرف لے آتا ہے میں اسے باخبر لکھ دیتا ہوں اور جس کو میں باخبر لکھ دوں اسے کبھی بھی عذاب نہیں دوں گا“ اسی لیے حضرت حسن بصری رحمہ اللہ نے فرمایا ”علماء کی سزا دل کی موت ہے اور دل کی موت آخری عمل کے ذریعے دنیا طلب کرنا ہے“ اور اسی لیے حضرت یحییٰ بن معاذ رحمہ اللہ نے فرمایا ”جب علم و حکمت کے ذریعے دنیا طلب کی جائے تو اس کی قدر و قیمت جاتی رہتی ہے“ حضرت سعید بن مسیب رحمہ اللہ فرماتے ہیں ”جب تم کسی عالم کو دیکھو کہ وہ امرِ اولیٰ کے پاس آتا جاتا ہے تو وہ چور ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جب تم کسی عالم کو دیکھو کہ وہ دنیا سے محبت کرتا ہے تو سمجھ لو کہ تمہارے دین وہ تہمت زدہ ہے کیونکہ ہر محبت کرنے

والا اسی چیز میں مصروف رہتا ہے جس سے محبت کرتا ہے

حضرت مالک بن دینار رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں نے بعض گذشتہ کتابوں میں پڑھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب کوئی عالم دنیا سے محبت کرتا ہے تو میں اسے سب سے ہلکی سزا دیتا ہوں کہ اس کے دل سے مناجات کی لذت نکال دیتا ہوں۔ ایک شخص نے اپنے بھائی کو لکھا "مجھے علم دیا گیا ہے پس گناہوں کے اندھیرے سے اپنے علم کے نور کو نہ بجھانا۔ اس طرح تم اس دن اندھیرے میں رہو گے جس دن اہل علم اپنے علم کی روشنی میں چلیں گے"

حضرت یحییٰ بن معاذ رازی رحمہ اللہ علمائے دین سے یوں مخاطب ہوتے ہیں "اے علماء کرام! تمہارے محلات، قیصر (رومی بادشاہ) کے محلات اور تمہارے گھر کسری (ایرانی بادشاہ) کے گھر کی طرح ہیں تمہارے کپڑے محض ظاہری ہیں موزے جالوت کے موزوں جیسے سواریاں فاروقی، بزنن فرعونی گناہ دور جاہلیت جیسے اور تمہارے راستے شیطانی ہیں تو شریعت محمدیہ کہاں ہے۔ کسی شاعر نے کہا ہے۔

چرواہا، بکری کو بھیڑیے سے بچاتا ہے جب چرواہے ہی بھیڑیے بن جائیں تو پھر کیا ہوگا" ایک دوسرے شاعر نے کہا،

"اے قراد کے گروہ! اے شہر کے نمک، جب نمک ہی خراب ہو جائے تو وہ کس کو ٹھیک کرے گا" کسی عارف سے پوچھا گیا کہ کیا وہ شخص جسے گناہوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک حاصل ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کو نہیں پہچانتا انہوں نے فرمایا مجھے اس میں شک نہیں کہ جس شخص کے نزدیک دنیا کو آخرت پر ترجیح ہو، وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت نہیں رکھتا اور یہ شخص پہلے آدمی کی نسبت بہت ہلکا ہے اور یہ خیال نہ کرے کہ، علمائے آخرت کے ساتھ ملنے کے لیے ترک مال کافی ہے بلکہ مال کی نسبت عہدے کا ضرر زیادہ ہے۔ اسی وجہ سے حضرت بکر رحمہ اللہ نے فرمایا لفظ حدیثا رہم سے حدیث بیان کریں، دنیا کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے جب کسی آدمی سے لفظ "حدیثا" سنا تو وہ کہتا ہے مجھے جگہ دو۔ حضرت بشر بن حارث رحمہ اللہ نے کتابوں کے دس سے زائد بستے اور ٹوکڑے دفن کر دیئے تھے اور وہ فرماتے تھے کہ مجھے حدیث بیان کرنے کی خواہش پیدا ہوئی ہے اگر بیان حدیث کی خواہش ختم ہوگئی تو میں حدیث بیان کروں گا۔ انہوں نے اور دوسرے حضرات سے فرمایا جب تمہیں حدیث بیان کرنے کی خواہش پیدا ہو تو خاموش رہو پھر جب یہ خواہش نہ رہے تو بیان کرو۔ یہ اس لیے کہ تعلیم و ارشاد کے منصب کی لذت دنیا کی ہر نعمت کی لذت سے بڑی ہے لہذا جو آدمی خواہشات کی بات مانتا ہے وہ دنیا کے بیٹوں میں سے ہے اسی لیے حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ نے فرمایا، حدیث بیان کرنے کا فتنہ، اہل مال اور اولاد کے فتنہ سے زیادہ سخت ہے اور اس فتنہ کا خون کیسے نہ کیا جائے حالانکہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا۔

وَلَوْلَا اَنْ تَبْتَئَاكَ لَقَدْ كَدَدْتَ تَرْكُوكَ
اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے تو قریب تھا کہ آپ

إِيَّاهُمْ شَيْئًا قَلِيلًا۔ (۱)

ان کی طرف کچھ نہ کچھ مائل ہو جائے۔

حضرت سہیل رحمۃ اللہ فرماتے ہیں علم تمام دنیا ہے اور اس پر عمل آخرت ہے اور اخلاص کے بغیر تمام عمل بیکار ہے انہوں نے فرمایا علماء کے علاوہ تمام لوگ مردہ ہیں اور باعمل علماء کے علاوہ باقی تمام علماء نشتے کی حالت میں ہیں اور باعمل علماء تمام کے تمام دھوکے میں ہیں سوائے ان کے جو مخلص ہیں اور مخلصین خوف زدہ ہیں کہ نہ معلوم ان کا خاتمہ کیسے ہو، حضرت ابوسلیمان دارانی رحمہ اللہ نے فرمایا جب کوئی آدمی حدیث طلب کرے تاکہ نکاح کرے یا طلب معاش کے لیے سفر کرے تو وہ دنیا کی طرف مائل ہو گیا اس سے ان کی غرض یہ ہے کہ وہ اونچی اونچی سندیں طلب کرتا ہے یا وہ حدیث تلاش کرتا ہے جس کی طلب آخرت کے لیے ضرورت نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وہ شخص اپن علم میں سے کیسے ہو سکتا ہے جس کا سفر آخرت کی طرف ہو اور وہ دینی راستے کی طرف متوجہ ہو، اور وہ شخص کس طرح علماء میں شمار ہو سکتا ہے جو صرف اس لیے علم کی تلاش میں رہتا ہو کہ اس کے ذریعے دوسروں کا امتحان لے عمل کرنا مقصد نہیں۔ حضرت صالح بن کیسان بصری نے فرمایا میں نے بہت سے بزرگوں کو دیکھا کہ وہ بدکار عالم حدیث سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتے تھے، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

مَنْ طَلَبَ عِلْمًا مِمَّا يَبْتَغِي بِهِ وَجْهَ اللَّهِ
تَعَالَى لِيُصِيبَ بِهِ عَرَضًا مِنَ الدُّنْيَا لَمْ
يَجِدْ عَرْفَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔

جو شخص ایسا علم جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی رضا تلاش کی جاتی ہے، اس لیے حاصل کرتا ہے کہ اس کے سبب دنیا کا سامان پائے وہ قیامت کے دن جنت کی خوشبو نہیں پائے گا۔ (۲)

اللہ تعالیٰ نے علماء کو کے بارے میں فرمایا کہ وہ علم کے ذریعے دنیا کھاتے ہیں اور علمائے آخرت نختوع اور زہد والے ہوتے ہیں علماء کے دنیا کے بارے میں ارشاد خداوندی ہے:-

وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ آوَتُوا
الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَوَلَّوْا
تَكْفُرِيَّةً فَنبذوا وراء ظهورهم
وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا۔ (۳)

اور جب اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے وعدہ لیا جنہیں کتاب دی گئی تاکہ وہ اسے لوگوں کے سامنے بیان کریں اور اسے نہ چھپائیں تو انہوں نے اسے پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا اور اس کے ذریعے بہت کم قیمت حاصل کی۔

(۱) قرآن مجید سورہ الاسراء آیت ۷۴، (۲) سنن ابن ماجہ ص ۲۲ باب الانتفاع بالعلم۔

(۳) قرآن مجید سورہ آل عمران آیت ۷۵، ۱۸

اور علماءِ آخرت کے بارے میں ارشاد خداوندی ہے:-

وَأَنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ
وَمَا نُزِّلَ إِلَيْكُمْ وَمَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ
لِلَّهِ لَا يَشْتُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا
أُولَئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ
رَبِّهِمْ. (۱)

اور بے شک اہل کتاب میں سے وہ لوگ بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ
پر جو کچھ تمہاری طرف نازل کیا گیا اور جو کچھ ان کی طرف نازل
کیا گیا اس پر ایمان لاتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے لیے
بھکتے ہیں اور اس کی آیات کے بدلے تھوڑی قیمت نہیں
لیتے ان لوگوں کا اجر ان کے رب کے پاس ہے۔

بعض بزرگوں نے فرمایا "علماء کو انبیاء کرام کے گروہ میں اٹھایا جائے گا اور قاضیوں کو بادشاہوں کی جماعت میں
اٹھایا جائے گا اور ہر وہ فقیہ ان قاضیوں کے مفہوم میں شامل ہے جو اپنے علم سے دنیا کا قصد کرتا ہے۔

حضرت ابو درداد رضی اللہ عنہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا:-

أَوْحَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَى بَعْضِ الْأَنْبِيَاءِ: قُلْ
لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ لِيُغْفِرَ لَهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلِيَتَعَلَّمُونَ
لِيُغْفِرَ لَهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، وَيُطَلَّبُونَ الدُّنْيَا بِعَمَلِ
الْآخِرَةِ.

اللہ تعالیٰ نے بعض انبیاء کرام کی طرف وحی بھیجی جو لوگ
غیر دین کے لیے فقہ اور غیر عمل کے لیے علم حاصل کرتے
ہیں آخرت کے عمل کے ذریعے دنیا طلب کرتے ہیں لوگوں
کو دکھانے کے لیے بکری کی کھال پہنتے ہیں جب کہ

يَلْبَسُونَ لِلنَّاسِ مَسْوِكَ الْكِبَاشِ وَقُلُوبُهُمْ
كَقُلُوبِ الذِّئَابِ السِّنْتِهَةِ. أَحْلَى مِنَ
الْعَسَلِ، وَقُلُوبُهُمْ أَمْرٌ مِنَ الصَّبْرِ،
إِيَّايَ يُخَادِعُونَ، وَيُيَسْتَهْزِئُونَ: لَوْ تَحَنَّنَ
لَهُمْ فِتْنَةٌ تَذَرُ الْخَلِيمَ خَيْرَانًا. (۲)

ان کے دل بھٹیروں کے دلوں جیسے ہیں ان کی زبانیں
شہد سے زیادہ بیٹھی اور ان کے دل ابلا سے بھی زیادہ
کڑوے ہیں وہ مجھے دھوکہ دیتے ہیں اور میرا مسخر
اڑاتے ہیں آپ ان سے فرمادیں کہ میں انہیں اسے فتنہ میں
بتلا کروں گا جس میں ایک برہادر آدمی بھی خیران رہ جائے گا۔

حضرت صہاک نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا وہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:-

عَلَمَاءُ هَذِهِ الْأُمَّةِ رَجُلَانِ: رَجُلٌ آتَاهُ
اللَّهُ عِلْمًا فَبَدَّلَهُ لِلنَّاسِ وَكَمْ يَأْخُذُ
عَلَيْهِ طَمَعًا وَكَمْ يَشْتَرِيهِ ثَمَنًا، فَذَلِكَ
يُصَلِّي عَلَيْهِ طَيْرُ السَّمَاءِ وَحَيْثَانُ الْمَاءِ

اس امت کے علماء دو قسم کے (۱) آدمی ہیں ایک وہ شخص
جسے اللہ تعالیٰ نے علم دیا اور اس نے اسے لوگوں پر خرچ
کیا اس نے اس پر کوئی لالچ کی اور نہ اس کے بدلے
کوئی قیمت لی یہ وہ شخص ہے جس کے لیے آسمان کے

وَدَوَابِّ الْأَرْضِ وَالْكَرَامِ الْمَكْتُوبُونَ
يُقَدِّمُ عَلَى اللَّهِ عِزًّا وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
سَيِّدًا شَرِيفًا حَتَّى يُرَافِقَ الْمُرْسَلِينَ،
وَرَجُلٌ أَنَا لَا اللَّهُ عِلْمًا فِي الدُّنْيَا فَضَنَ
بِهِ عَلَى عِبَادِ اللَّهِ وَأَخَذَ عَلَيْهِ طَمَعًا
وَاشْتَرَى بِهِ تَمَنَّا، فَذَلِكَ يَأْتِي يَوْمَ
الْقِيَامَةِ مُبْجَمًا بِلِجَامٍ مِنْ نَارٍ يَتَادَى
مَنَادٍ عَلَى رُؤُوسِ الْخَلَائِقِ هَذَا فُلَانُ بْنُ
فُلَانٍ أَنَا اللَّهُ عِلْمًا فِي الدُّنْيَا فَضَنَ بِهِ
عَلَى عِبَادِهِ وَأَخَذَ عَلَيْهِ طَمَعًا وَاشْتَرَى بِهِ
تَمَنَّا، فَيُعَذَّبُ حَتَّى يُفْرَغَ مِنْ حِسَابِ
النَّاسِ - (۱)

پرنڈ سے ، پانی کی مچھلیاں ، زمین کے چار پائے اور کراٹا
کاتبین (فرشتے) رحمت کی رعایت گنتے ہیں۔ وہ عالم قیامت
کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک معزز سردار کی صورت
میں پیش کیا جائے گا حتیٰ کہ وہ رسل عظام کی رفاقت
اختیار کرے گا اور دوسرا وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ نے دنیا
میں علم عطا کیا لیکن اس نے بندگانِ خدا سے نخل کیا
اس پر طمع کیا اور قیمت وصول کی یہ عالم قیامت کے دن
اس طرح آئے گا کہ اسے آگ کی لگام ڈالی جائے گی اور
لوگوں کے سامنے ایک منادی اعلان کرے گا کہ یہ فلاں
بن فلاں ہے، اسے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں علم عطا کیا لیکن
اس نے اس کے بندوں سے نخل کیا لہٰذا اس علم کے
بدلے قیمت حاصل کی چنانچہ اسے عذاب دیا جائے گا۔

یہاں تک کہ لوگوں کے حساب سے فراغت ہو جائے۔

اس سے بھی زیادہ سخت یہ روایت ہے کہ ایک شخص حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت کیا کرتا تھا اس نے لوگوں کے
سامنے کہنا شروع کر دیا کہ مجھ سے اللہ تعالیٰ کے منتخب بندے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بیان فرمایا مجھ سے حضرت
موسیٰ علیہ السلام نے بیان کیا جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے نجات عطا فرمائی۔ مجھ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بیان کیا جن سے
اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا حتیٰ کہ وہ بہت مالدار ہو گیا اور اس کے پاس بہت زیادہ مال جمع ہو گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے
اسے نہ دیکھا تو اس کے بارے میں پوچھنے لگے لیکن اس کا سراغ نہ ملا حتیٰ کہ ایک دن ایک شخص آیا اور اس کے پاس
خنزیر تھا اور اس کے گلے میں سیاہ رسی ڈالی گئی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کیا تو فلاں کو جانتا ہے؟ اس
نے عرض کیا جی ہاں، وہ یہی خنزیر ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہِ خداوندی میں عرض کیا اے میرے رب میں
تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ اسے اصلی شکل پر لوٹا دے تاکہ میں اس سے پوچھوں کہ اسے کیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ
کی طرف وحی بھیجی کہ اگر آپ مجھے ان الفاظ و صفات کے ساتھ پکاریں جن کے ساتھ حضرت آدم علیہ السلام اور دیگر لوگوں نے
پکارا تو بھی میں آپ کو اس کے بارے میں جواب نہیں دوں گا لیکن جس سبب سے میں نے اسے اس کی شکل مسخ کی ہے

وہ بتا دیتا ہوں۔ وہ یہ کہ یہ شخص دین کے ذریعے دنیا حاصل کرتا تھا۔

اور اس سے بھی زیادہ سخت وہ روایت ہے جو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے موقوفاً اور مر فوعاً دونوں طرح

مروی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:-

مِنْ فِتْنَةِ الْعَالِمِ أَنْ يَكُونَ الْكَلَامُ
أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ سِتْمَاعٍ، وَفِي الْكَلَامِ تَمِيمٌ وَ
زِيَادَةٌ وَلَا يُؤْمَنُ عَلَى صَاحِبِهِ الْخَطَأُ وَ
فِي الصُّمْتِ سَلَامَةٌ وَعِلْمٌ، وَمِنَ الْعُلَمَاءِ
مَنْ يَكُونُ فِي عِلْمِهِ بِمَنْزِلَةِ السُّلْطَانِ إِنْ
رُدَّ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ عِلْمِهِ أَوْ تَهْوُونَ بِشَيْءٍ
مِنْ حَقِّهِ غَضِبَ قَدْ لِكَ فِي الدَّرَكِ الثَّانِي
مِنَ النَّارِ، وَمِنَ الْعُلَمَاءِ مَنْ يَجْعَلُ عِلْمَهُ
وَعَرَائِبَ حَدِيثِهِ لِأَهْلِ الشَّرَفِ وَالْيَسَارِ
وَلَا يَرَى أَهْلَ الْحَاجَةِ لَهُ أَهْلًا فَذَلِكَ
فِي الدَّرَكِ الثَّلَاثِ مِنَ النَّارِ، وَمِنَ الْعُلَمَاءِ
مَنْ يَنْصِبُ نَفْسَهُ لِلْفِتْنَةِ فَيُفْتِي بِالْخَطَأِ،
وَاللَّهُ تَعَالَى يُبْغِضُ الْمُتَكَلِّفِينَ قَدْ لِكَ فِي
الدَّرَكِ الرَّابِعِ مِنَ النَّارِ، وَمِنَ الْعُلَمَاءِ
مَنْ يَتَكَلَّمُ بِكَلِمَةِ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى
لِيُعْزِرَ بِهِ عِلْمَهُ قَدْ لِكَ فِي الدَّرَكِ
الْخَامِسِ مِنَ النَّارِ، وَمِنَ الْعُلَمَاءِ مَنْ
يَتَّخِذُ عِلْمَهُ مَرُودَةً وَبَلَاءً وَذِكْرًا فِي
النَّاسِ قَدْ لِكَ فِي الدَّرَكِ السَّادِسِ
مِنَ النَّارِ، وَمِنَ الْعُلَمَاءِ مَنْ يَسْتَفْرِزُ الزُّهْمَ
وَالْعُجْبَ فَإِنَّ وَعَظَّ عَنَفًا وَإِنْ وَعَظَّ أَيْفًا
قَدْ لِكَ فِي الدَّرَكِ السَّابِعِ مِنَ النَّارِ

عالم کے فتنے میں سے ہے کہ اسے سننے کی نسبت کلام
کرنا زیادہ پسند ہو حالانکہ تقریر میں بناوٹ اور زیادتی
ہو جاتی ہے اور اس سے غلطی کا ڈر رہتا ہے جب کہ خاموشی
میں سلامتی اور علم ہے۔ اور علماء میں سے ایسے لوگ بھی
ہیں جو اپنے علم کو جمع رکھتے ہیں اور وہ نہیں چاہتے کہ یہ
دوسروں کے پاس بھی پایا جائے تو ایسا عالم جہنم کے
سب سے نچلے گڑھے میں ہوگا، کوئی عالم اپنے علم میں باؤٹنا
کی طرح ہوتا ہے اگر اس کے علم کے بارے میں کوئی اعتراض
کیا جائے یا اس کے حق میں کچھ کوتاہی کی جائے تو اسے غصہ
آتا ہے ایسا عالم جہنم کے دوسرے گڑھے میں ہوگا، کوئی
عالم اس طرح کا ہوتا ہے کہ وہ اپنے علم اور عمدہ حدیثوں
کو معزز اور مال دار لوگوں کے لیے کر دیتا ہے اور ضرورت
مندوں کو اس کا اہل نہیں سمجھتا یہ شخص جہنم کے تیسرے
درجہ میں ہوگا، بعض عالم اپنے آپ کو فتویٰ دینے کے لیے
مقرر کر دیتے ہیں اور غلط فتویٰ دیتے ہیں اور اہل تقا لے
تکلف کرنے والوں کو ناپسند کرتا ہے تو ایسا عالم جہنم کے
چوتھے طبقہ میں ہوگا، بعض علماء یہود و نصاریٰ کا کلام
پیش کرتے ہیں تاکہ اس کے علم کی قدر ہو ایسا شخص
جہنم کے پانچویں طبقہ میں جائے گا کوئی عالم اپنے علم
کو لوگوں میں مروت فضیلت اور ذکر کا ذریعہ بناتا ہے
یہ جہنم کے چھٹے طبقہ میں ہوگا۔ بعض علماء کو تکبر اور خود
پسندی دھوکہ دیتی ہے، اگر خود وعظ کرے تو سختی کرتا ہے

اور اگر اسے نصیحت کی جائے تو ناک چرٹھاتا ہے شخص
جہنم کے ساتوں طبقہ میں ہوگا، تو اسے بھائی! تجھ پر خاموشی
لازم ہے اس طرح تم شیطان پر غالب آؤ گے، کسی
عجیب بات کے بغیر نہ منستا اور کسی مقصد کے بغیر باہر نہ جانا۔

فَعَلَيْكَ يَا أَخِي بِالصَّمْتِ فَبِهِ تَغْلِبُ
الشَّيْطَانَ، وَإِيَّاكَ أَنْ تَصْحَكَ مِنْ غَيْرِ
عَجَبٍ أَوْ تَمْشِيَ فِي غَيْرِ رَبِّ (۱)

ایک دوسری حدیث میں ہے :-

إِنَّ الْعَبْدَ لَيُشْرِكُهُ مِنَ الشَّنَاءِ مَا يَمْلَأُهُ
مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، عِنْدَ اللَّهِ جَنَاحٌ
بَعُوضَةٌ - (۲)

ایک شخص کے لیے تعریف اس قدر پھیلا دی جاتی ہے کہ
وہ مشرق و مغرب کے درمیان کو بھر دیتی ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ
کے ہاں وہ مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوتی۔

ایک روایت میں ہے کہ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ اپنی مجلس سے واپس ہونے لگے تو ایک خراسانی آدمی نے ایک
تھیلی پیش کی جس میں پانچ ہزار درہم اور بارہ کپڑے تھے۔ اور کہا اسے ابو سعید! یہ خرچ کے لیے ہیں اور یہ
پہننے کے کپڑے ہیں حضرت حسن رحمہ اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ تجھے معاف کرے اپنی رقم اور کپڑے لے جاؤ ہمیں اس کی ضرورت
نہیں ہے جو شخص میری طرح کی مجلس میں بیٹھے اور لوگوں سے اس قسم کی چیزیں قبول کرے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے یوں
ملاقات کرے گا کہ اس کا کوئی حصہ نہ ہوگا۔

حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے موقوفاً اور مرفوعاً روایت ہے فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :-
لَا تَجْلِسُوا عِنْدَ كُلِّ عَالِمٍ إِلَّا إِلَى عَالِمٍ
يَدْعُوكُمْ مِنْ خَمْسٍ إِلَى خَمْسٍ مِمَّا
السَّلَفُ إِلَى الْيَقِينِ وَمِنَ الرِّيَاءِ إِلَى
الْوَحْلَانِ وَمِنَ الرَّغْبَةِ إِلَى الزُّهْدِ
وَمِنَ الْكِبَرِ إِلَى التَّوَضُّعِ وَمِنَ الْعَدَاوَةِ
إِلَى النَّصِيحَةِ (۳)

ہر عالم کے پاس نہ بیٹھو، صرف اسی عالم کے پاس بیٹھو جو
تمہیں دس چیزوں کو چھوڑ کر دوسری دس چیزوں کی دعوت
دیتا ہے شک سے یقین کی طرف، ریاکاری سے اخلاص
کی طرف، دنیوی رغبت سے زہد کی طرف، تکبر سے عاجزی
کی طرف اور دشمنی سے خیر خواہی کی طرف بلاتا ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے :-

فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ قَالَ الَّذِينَ

پھر وہ (فازون) بن ٹھن کر قوم کی طرف نکلا تو جو لوگ

(۱) الموضوعات لابن جوزی جلد اول ص ۲۶۵ باب رقم من لم یعمل بالعلم (۲) الاسرار المرفوعة ص ۴۴

(۳) کنز العمال ج ۹ ص ۱۲۷

دینی زندگی چاہتے تھے، کہنے لگے کاش تمہارے لیے بھی اس کی مثل ہوتا جو قارون کو دیا گیا ہے شک یہ بہت بڑے حصے والا ہے اور جن کو علم دیا گیا تھا انہوں نے کہا تمہارے لیے ہلاکت ہو ایمان والوں کیلئے ثواب بہتر ہے۔

يُرِيدُونَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا يَلِيَّتْ لَنَا مِثْلَ
مَا اُوْتِيَ قَارُوْنُ اِنَّكَ لَذُوْ حِطِّ عَظِيْمٍ
وَقَالَ الَّذِيْنَ اُوْتُوْا الْعِلْمَ رَبِّكُمْ تُوَابٌ
اَللّٰهُ حَيْثُ لَمَنْ اَمَنَ لَهَا

تو اہل علم نے جان لیا کہ آخرت کو دنیا پر ترجیح دینی چاہیے۔
علماءِ آخرت کی علامات میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ اس کا عمل اس کے قول کے خلاف نہ ہو بلکہ جب تک وہ کسی بات پر خود عمل نہ کرتا ہو اس کا حکم نہ دے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:-

اِنَّا مُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنسَوْنَ اَلْفُسُكُوْ
كِيَا تَمْنِيْكَ كَا حَكْمٍ دِيْتِيْ هُوَا وَا رِيْنِيْ اَبْ كُوْ هُوَلْ حَاتِي
ہو۔ (۲)

اور ارشاد خداوندی ہے:-

كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللّٰهِ اَنْ تَقُوْلُوْا مَا لَا
تَفْعَلُوْنَ (۳)

اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بڑے غضب کا باعث ہے کہ
تم وہ بات کہو جو خود نہیں کرتے۔

اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کے واقعہ میں فرمایا:-

وَمَا اَرِيْدُ اَنْ اُخَالِفَكُمْ اِلٰى مَا اَنْهَاكُمْ
عَنْهُ۔ (۴)

میں جس بات سے تمہیں منع کرتا ہوں اس میں تمہاری مخالفت
کا ارادہ نہیں کرتا۔

نیز ارشاد باری تعالیٰ ہے

وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَيَعْلَمْكُمْ اللّٰهُ (۵)

ارشاد خداوندی ہے:-

وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَعْلَمُوْا۔ (۶)

نیز فرمایا:-

وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاسْمَعُوْا۔ (۷)

اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے فرمایا:-

(۱) قرآن مجید سورہ القصص آیت ۸۰ (۲) قرآن مجید سورہ بقرہ آیت نمبر ۴۴ (۳) قرآن مجید سورہ صفت آیت نمبر ۱۸

(۴) قرآن مجید سورہ آیت ۸۵ (۵) قرآن مجید سورہ بقرہ آیت ۲۸۳ (۶) قرآن مجید سورہ بقرہ آیت ۱۹۴ (۷) قرآن مجید سورہ آلہ آیت ۱۸

اسے ابن مریم اپنے نفس کو نصیحت کروا کر وہ نصیحت کو قبول کرے تو پھر لوگوں کو نصیحت کرو ورنہ مجھ سے چپا کرو۔
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:-

شب معراج میرا گذرا ایسے لوگوں پر پہا جن کے ہونٹ
آگ کی قینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے ہیں سے پوچھا
تم کون ہو؟ انہوں نے کہا ہم نیکی کا حکم دیتے تھے اور خود
نیکی نہیں کرتے تھے۔ اور برائی سے روکتے تھے حالانکہ
خود اس کے مرتکب ہوتے تھے۔

مَدْرَتٌ لَيْكُنَّ أُسْرَىٰ بِي بِأَقْوَامٍ تَقْرَعُ
شِقَامَهُمْ بِمَقَارِيضٍ مِّنْ نَّارٍ فَقُلْتُ مَتَىٰ
أَنْتُمْ فَقَالُوا لَنَا نَأْمُرُ بِالْخَيْرِ وَكُنَّا نَأْتِيهِ
وَتَتَلَّىٰ عَنِ الشُّرُونِ نَأْتِيهِ - (۱)

بیزاپ نے فرمایا:-

میری امت کی ہلاکت (کاباعت) بدکار عالم اور جاہل عابد
ہے اور بدترین لوگ بڑے علماء ہیں اور سب سے بہترین
لوگ بہترین علماء ہیں۔

هَلَاكُ أُمَّتِي عَالِمٌ فَاجِدٌ وَعَابِدٌ جَاهِلٌ
وَشَرُّ الشَّرَارِ شَرُّ الْعُلَمَاءِ وَخَيْرُ الْخَيْرِ
خَيْرُ الْعُلَمَاءِ - (۲)

حضرت اوزاعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں تاہوں نے کفار کے مردہ جسموں کی بدبو کی شکایت کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بتایا
کہ بڑے علماء کا دل اس سے زیادہ بدبو دار ہیں جس میں تم ہو۔
حضرت فضیل بن عیاض رحمہ اللہ فرماتے ہیں مجھے خبر ملی ہے کہ قیامت کے دن فاسق علماء کا حساب بت پرستوں سے
بھی پہلے ہوگا۔

حضرت ابو درداد رضی اللہ عنہ نے فرمایا: جو شخص علم نہیں رکھتا اس کے لیے ایک بار خرابی ہے اور جو عالم عمل
نہیں کرتا اس کے لیے سات بار خرابی ہے۔

حضرت شعبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: قیامت کے دن اہل جنت کا ایک طبقہ جہنمیوں کی ایک جماعت کی طرف جھانکے
گا اور وہ ان سے کہیں گے نیکی کا حکم دیتے تھے اور خود عمل نہیں کرتے تھے اور برائی سے روکتے تھے لیکن خود نہیں چھوڑتے
تھے۔ حضرت حاتم اصم رحمہ اللہ نے فرمایا قیامت کے دن اس عالم سے زیادہ حسرت کسی کو نہ ہوگا جس نے لوگوں کو
سکھایا اور انہوں نے عمل کیا لیکن خود اس نے عمل نہ کیا لہذا وہ اس عمل کے سبب کامیاب ہو گئے اور یہ ہلاک ہو گیا۔
حضرت مالک بن دینار رحمہ اللہ فرماتے ہیں: جب کوئی عالم اپنے علم پر عمل نہیں کرتا تو لوگوں کے دلوں سے اس

(۱) الترغیب والترہیب ج ۱ ص ۱۲۲ الترغیب من ان یعلم ولا یعمل بعلمہ۔

(۲) سنن الدارمی ج ۱ ص ۱۵۷

دعنا اس طرح پھیلتا ہے جیسے صاف دسیدھے پتھر سے قطرہ پھسل جاتا ہے، کسی شاعر نے کہا۔
 ”اے لوگوں کو دعا کرنے والے تم تو تمہی زور ہو کہوں کہ جو عیب ان میں بتائے ہو وہ خود کرتے ہو تم بہت کوشش سے
 اور زور لگا کر ان کو نصیحت کرتے ہو لیکن مجھے اپنی عمر کی قسم، ہلاکت خیز چیزیں تمہاری جانب آرہی ہیں تم دنیا اور اس کی
 طرف راغب لوگوں کو برا کہتے ہیں جب کہ خود دنیا میں ان سے زیادہ رغبت رکھتے ہو۔“
 ایک دوسرے شاعر نے کہا۔

ایسے کام سے نہ روکو جس کی مثل خود کرتے ہو اگر تم ایسا کرو گے تو یہ بڑے شرم کی بات ہے۔“
 حضرت ابراہیم ادھم رحمہ اللہ نے فرمایا ”میں مکہ مکرمہ میں ایک پتھر کے پاس سے گزرا اس پر لکھا ہوا تھا مجھے اُلٹ
 کر عبرت حاصل کرو، میں نے اُلٹا یا تو اس پر لکھا ہوا تھا تم اپنے علم پر عمل نہیں کرتے اور جو کچھ نہیں جانتے اس کی
 طلب میں ہو۔“

حضرت ابن سہاک نے فرمایا ”کتنے ہی لوگ، لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی یاد دلاتے ہیں لیکن خود اسے بھول جاتے ہیں کتنے
 ہی ڈرانے والے خود اللہ تعالیٰ پر جرات کرتے ہیں کتنے ہی لوگ دوسروں کو خداوند تعالیٰ کے قریب کرتے ہیں خود اس سے
 دور بھرتے ہیں کتنے ہی لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف بلا تے ہیں لیکن خود بھاگتے ہیں کتنے ہی لوگ اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت کرتے
 ہیں لیکن اس کی آیات سے علیحدہ رہتے ہیں۔“

حضرت ابراہیم بن ادھم رحمہ اللہ نے فرمایا ”ہم نے اپنے کلام کو عمدہ بتایا اور اس میں کوئی غلطی نہ کی لیکن اپنے اعمال
 میں غلطی کی اسے درست نہ کیا۔“ حضرت اوزاعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ”جب فصاحت و بلاغت آتی ہے شروع چلا جاتا ہے (۱)
 حضرت مکحول، حضرت عبدالرحمن بن غنم سے روایت کرتے ہیں انہوں نے فرمایا کہ مجھ سے دس صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے
 بیان کیا وہ فرماتے ہیں ہم مسجد قبا میں علم کے درس و تدریس میں مشغول تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے
 آپ نے فرمایا۔

تَعَلَّمُوا مَا سَمِعْتُمْ أَنْ تَعْلَمُوا فَلَنْ يَأْجُرَكُمْ
 حَتَّى تَعْمَلُوا (۲)

جو چاہو سیکھو لیکن اللہ تعالیٰ ہرگز تمہیں اجر نہیں دے
 گا جب تک عمل نہیں کرو گے۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ”جو شخص علم حاصل کرتا ہے لیکن اس پر عمل نہیں کرتا اس کی مثال اس عورت جیسی ہے

(۱) یعنی جب کوئی مقرر اپنی تقریر میں الفاظ کے اتار چڑھاؤ وغیرہ میں لگ جاتا ہے تو شروع ختم ہو جاتا ہے البتہ کسی شخص کو قدرتی طور

پر یہ بلکہ حاصل ہو تو وہ الگ بات ہے ۱۲ ہزاروی

(۲) کنز العمال ج ۱۰ ص ۱۲۲

جو چھپ کر زنا کا ارتکاب کرتی ہے پھر عالم ہو جاتی ہے اور اس کا حمل ظاہر ہو جاتا ہے تو وہ رسوا ہوتی ہے اسی طرح جو شخص اپنے علم کے مطابق عمل نہیں کرتا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے لوگوں کے سامنے رسوا فرمائے گا۔
حضرت معاذ رحمہ اللہ نے فرمایا "عالم کی لغزش سے ڈرو کیونکہ مخلوق کے نزدیک اس کی قدر و منزلت زیادہ ہے اور لوگ اس کی لغزش کے پیچھے چلتے ہیں۔"

حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا "جب کوئی عالم پھسلتا ہے تو اس کے تو اس کے پھسلنے سے مخلوق میں سے ایک جہاں پھسلتا ہے۔"

حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہی فرماتے ہیں "تین باتیں ایسی ہیں جن سے اہل زمانہ برباد ہو جاتے ہیں ان میں سے ایک عالم پھسلتا ہے۔"

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا جس میں دل کا مٹھاس کھارا ہو جائے گا اس وقت کسی عالم اور طالب علم کو اس کے علم سے نفع نہیں ہوگا علماء کے دل بنجر کھیت کی طرح ہو جائیں گے اس پر بارش ہوتی ہے لیکن مٹھاس پیدا نہیں ہوتی اور یہ اس وقت ہوگا جب علماء کے دل دنیا کی محبت کی طرف مائل ہو جائیں گے اور وہ اسے آخرت پر ترجیح دیں گے، اس وقت اللہ تعالیٰ دلوں سے حکمت کے پتھے نکال لے گا۔ اور ہدایت کے چراغ بجھا دے گا جب تو کسی عالم سے ملاقات کرے گا تو وہ کہے گا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے لیکن اس کے عمل سے گناہ ظاہر ہوگا اس دن زبانوں میں کس قدر چاشنی ہوگی لیکن دل خشک ہوں گے مجھے اس اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں یہ صرف اس لیے ہوگا کہ اساتذہ نے غیر خدا کے لیے سکھایا اور طلباء نے غیر خدا کے لیے سیکھا۔
تورات اور انجیل میں لکھا ہے "جو چیز نہیں جانتے اس کا علم اس وقت تک حاصل نہ کرو جب تک سیکھے ہوئے عمل نہ کرو۔"

حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا "تم اس زمانے میں سو کہ اس میں جو شخص علم کے دسویں حصہ پر عمل کو چھوڑ دے تو ہلاک ہوگا اور عنقریب وہ زمانہ آئے گا کہ (حاصل کردہ) علم کے دسویں حصہ پر بھی عمل کر لے تو نجات پائے گا۔ کیونکہ اس وقت جھوٹوں کی کثرت ہوگی جان لو کہ عالم کی مثال قاضی جیسی ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

القضاة ثلاثۃ، قاضٍ قَضَى بِالْحَقِّ وَهُوَ
يَعْلَمُ فَذَلِكَ فِي الْجَنَّةِ، وَقَاضٍ قَضَى
بِالْجَوْرِ وَهُوَ يَعْلَمُ أَوْ لَا يَعْلَمُ فَهُوَ فِي
النَّارِ، وَقَاضٍ قَضَى بغيرِ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ
فَهُوَ فِي النَّارِ۔ (۱)

قاضی تین قسم کے ہیں (۱) وہ قاضی جو اپنے علم کے مطابق حق کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے یہ جنت میں جائے گا (۲) وہ قاضی جو ظلم کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے وہ جہنم میں جائے گا جانتا ہو یا نہ، (۳) اور وہ قاضی جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف فیصلہ کرتا ہے وہ بھی جہنم میں جائے گا۔

(۱) المشدک للحاکم ج ۲ ص ۹۰ کتاب الاحکام۔

حضرت کعب رحمہ اللہ فرماتے ہیں آخری زمانے میں کچھ علماء ہوں گے جو لوگ کو دنیا سے بے رغبتی کا سبق دیں گے اور خود اس سے انک نہیں ہوں گے لوگوں کو خوفِ خدا کی تعلیم دیں گے خود نہیں ڈریں گے، لوگوں کو حکمرانوں کے پاس جانے سے منع کریں گے لیکن خود ان کے پاس جائیں گے، دنیا کو آخرت پر ترجیح دیں گے، اپنی زبانوں کی کماٹی کھائیں گے، امراء کے قریب ہوں گے، غریبوں کے قریب نہیں جائیں گے علم پر ایک دوسرے سے یوں لڑیں گے جس طرح عورتیں مردوں پر لڑتی ہیں اگر ان کا کوئی ساتھی کسی دوسرے عالم کے پاس جا کر بیٹھے گا تو وہ اس پر غصہ کریں گے یہ لوگ مشکبر اور اللہ تعالیٰ کے دشمن ہیں۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "بعض اوقات شیطان تمہیں علم کے ذریعے ہلاک کرتا ہے عرض کیا گیا، یا رسول اللہ! وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا وہ کہتا ہے علم طلب کرو اور حجت تک علم مکمل نہ ہو جائے عمل نہ کرو چنانچہ وہ ہمیشہ علم حاصل کرنے کے بارے میں کہتا رہتا ہے اور عمل کے معانی میں ہلاک کرتا ہے حتیٰ کہ موت آجاتی ہے اور وہ عمل نہیں کرتا" حضرت سری سقطی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ایک شخص جو ظاہری علوم پر بڑا حریص تھا عبادت کے لیے گوشہ نشین ہو گیا میں نے اس سے پوچھا تو اس نے کہا میں نے خواب میں کسی شخص کو دیکھا وہ کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ تجھے ضائع کر دے کب تک علم کو ضائع کرے گا میں نے کہا میں تو اس کی حفاظت کرتا ہوں اس نے کہا علم کی حفاظت عمل کے ساتھ ہوتی ہے چنانچہ میں نے (مزید) علم کی طلب چھوڑ کر عمل شروع کر دیا۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں علم، کثرتِ ذواہیات کا نام نہیں علم تو حیثیت الہیہ کا نام ہے، حضرت حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں "جو کچھ سیکھنا چاہو سیکھو لیکن اللہ تعالیٰ تمہیں اس وقت تک اجر عطا نہیں فرمائے گا جب تک عمل نہیں کرو گے۔ بیوقوفوں کا مقصد علمِ روایت ہے اور علماء کا مقصد اس علم کی پاسداری ہے، حضرت مالک رحمہ اللہ نے فرمایا "علم حاصل کرنا اچھی بات ہے اور اسے پھیلانا بھی اچھی بات ہے جب کہ نیت صحیح ہو لیکن دیکھا کرو کہ جو چیز صبح سے شام تک تمہارے ساتھ رہتی ہے اس پر کسی دوسری چیز کو ترجیح نہ دو" (یعنی عمل کرو) حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قرآن پاک اس لیے نازل ہوا کہ اس پر عمل کیا جائے تو تم نے اس کے درس کو بھی عمل سمجھ رکھا ہے عنقریب ایک ایسی قوم آئے گی جو اسے نیزے کی طرح سیدھتے کرے گی وہ تم میں سے بہتر لوگ نہیں ہوں گے۔ وہ عالم جو عمل نہیں کرتا وہ اس مرین کی طرح جو دوئی کی تعریف کرتا ہے اور اس بھوکے کی طرح ہے جو کھانوں کی لذتوں کی تعریف کرتا ہے لیکن وہ انہیں حاصل نہیں کرتا۔

اسی سلسلے میں ارشادِ خداوندی ہے۔

(۱) قوتِ القلوب جلد اول ص ۱۳۱ کتاب العلم۔

وَكَلَّمَ الْوَلَدَ مِمَّا تَصِفُونَ (۱)

اور تمہارے لیے اس چیز سے خرابی ہے جو تم بیان کرتے ہو۔
اور حدیث شریف میں ہے ”مجھے جن باتوں کا خوف ہے ان میں سے عالم کی لغزش اور منافق کا قرآن پاک میں جھگڑنا بھی ہے۔“

ان (علامہ آخرت کی علامات) میں سے ایک یہ ہے کہ اس کا ارادہ اس علم کو حاصل کرنا ہو جو آخرت میں نفع دیتا ہے اور عبادت میں رغبت پیدا کرتا ہے وہ ایسے علوم سے اجتناب کرے جن کا نفع کم ہے اور جھگڑا نیز بحث، مباحثہ زیادہ ہے جو شخص علم اعمال سے اعراض کرتا اور جھگڑوں میں مشغول رہتا ہے وہ اس بیماری کی طرح ہے جو بہت سی بیماریوں میں مبتلا ہو، اور ایسے تنگ وقت میں ماہر طبیب مل جائے جب اس کی ہلاکت کا خطرہ ہو تو وہ جڑی بوٹیوں اور دوائیوں کی خصوصیات اور طب کی عجیب و غریب باتوں کے بارے میں سوال شروع کر دے اور اس اہم بات کو چھوڑنے میں وہ جکڑا ہوا ہے۔ یہ محض بیوقوفی ہے۔

ایک روایت میں ہے کہ ایک شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور اس نے کہا مجھے علم کی عجیب و غریب باتیں بتائیے آپ نے اس سے فرمایا تم نے بنیادی علم کیا عمل کیا؟ اس نے پوچھا بنیادی علم کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کیا تم نے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کی ہے؟ اس نے عرض کیا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا تو نے اس کے حق (کی ادائیگی) میں کیا کیا؟ اس نے عرض کیا جو اللہ تعالیٰ نے چاہا۔ آپ نے فرمایا مجھے موت کی پہچان حاصل ہے اس نے کہا جی ہاں آپ نے فرمایا تو نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے، اس نے کہا جو کچھ اللہ تعالیٰ نے چاہا، آپ نے فرمایا جاؤ اور ان امور میں پختگی اختیار کرو پھر آنا ہم تجھے علم کی عجیب باتیں سکھائیں گے (۲) بلکہ متعلم کو چاہیے کہ وہ اس جنس سے ہو جس کے بارے میں حضرت شفیق یعنی رحمہ اللہ کے شاگرد حضرت حاتم رحمہ اللہ سے مروی ہے۔

حضرت شفیق نے ان سے پوچھا کہ تم میرے ساتھ کتنے سال رہے؟ انہوں نے عرض کیا تینتیس سال، فرمایا، اس عرصہ میں تم نے مجھ سے کیا سیکھا؟ انہوں نے عرض کیا آٹھ مسائل، حضرت شفیق نے فرمایا انا للہ وانا الیہ راجعون۔

میری عمر تیرے ساتھ گزر گئی اور تو نے صرف آٹھ مسائل سیکھے، انہوں نے عرض کیا اسے استاذ! میں نے اس کے علاوہ کچھ نہیں سیکھا اور میں جھوٹ بولنا پسند نہیں کرتا، انہوں نے فرمایا وہ آٹھ مسائل بیان کرو تاکہ میں سنوں۔ حضرت حاتم نے فرمایا میں نے اس مخلوق پر نظر کیا تو دیکھا کہ ہر شخص ایک محبوب، سے محبت کرتا ہے اور وہ اپنے

(۱) قرآن مجید سورہ انبیاء آیت ۱۸

محبوب کے ساتھ قبر تک جانا سے قبر تک پہنچنے کے بعد وہ اس سے جدا ہو جاتا ہے تو میں نے نیکیوں کو اپنا محبوب بنایا جب میں قبر میں جاؤں گا تو میرا محبوب میرے ساتھ داخل ہوگا حضرت شیفتن نے فرمایا بہت خوب اسے عالم! دوسری بات کونسی ہے؟

انہوں نے عرض کیا ہیں نے اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد گرامی میں نظر کی۔

وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى
النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ
الْمَأْوَىٰ (۱)

اور جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے
ڈرا اور اپنے نفس کو خواہش سے بچا یا جنت اس کا
ٹھکانا ہے،

مجھے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا قول حق ہے تو میں نے اپنے نفس کو خواہش سے دور رہنے کی عادت ڈال دی ہے حتیٰ کہ وہ اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری پر پکا ہو گیا ہے۔

تیسری بات یہ ہے کہ میں نے اس مخلوق میں نظر کی تو دیکھا کہ جس شخص کے پاس کوئی قیمتی چیز ہوتی ہے وہ اس کو بلند رکھتا اور اس کی حفاظت کرتا ہے پھر میں نے اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد گرامی کو دیکھا۔

مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ -
(۲)

جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا اور جو کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ باقی رہے گا۔

لہذا جب بھی میرے پاس کوئی قدر و قیمت والی چیز آتی ہے تو میں اسے اللہ تعالیٰ کی طرف پھیر دیتا ہوں تاکہ وہ اس کے پاس محفوظ رہے،

چوتھی بات یہ ہے کہ میں نے اس مخلوق پر نظر دوڑائی تو دیکھا کہ ان میں سے ہر ایک مال، عیب و نسب، اور شرف کی طرف لوٹتا ہے جب میں نے غور کیا تو دیکھا کہ یہ کوئی چیز نہیں پھر میں نے ارشاد خداوندی کو دیکھا۔

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ -
(۳)

بے شک اللہ تعالیٰ کے ہاں تم میں سے زیادہ معزز وہ شخص ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے۔

تو میں نے تقویٰ کو اختیار کیا تاکہ میں اللہ تعالیٰ کے ہاں معزز بن جاؤں۔

پانچواں مسئلہ یہ ہے کہ میں نے اس مخلوق میں نظر کی تو وہ ایک دوسرے پر لعن طعن کرتے ہیں اور اس کی بنیاد حسد ہے پھر میں نے اللہ تعالیٰ کا تعالیٰ کا ارشاد گرامی دیکھا ہے فرمایا۔

(۱) قرآن مجید سورہ نازعات آیت ۴۰ (۲) قرآن مجید سورہ نحل آیت ۹۶

(۳) قرآن مجید سورہ حجرات آیت ۱۳

تَحْنُ تَسْمُنَا بَيْنَهُمْ مَعِيَّةً لَّكُم فِي الْحَيَاةِ
 اَلدُّنْيَا (۱)

ہم نے دنیا کی زندگی میں ان کی روزی ان کے درمیان
 تقسیم کر دی ہے۔

تو میں نے حسد چھوڑ دیا اور مخلوق سے ابگ رہا اور مجھے معلوم ہو گیا کہ تقسیم تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو میں نے مخلوق
 کی دشمنی کو ترک کر دیا۔

چھٹی بات یہ ہے کہ میں نے اس مخلوق کو دیکھا کہ ان میں سے بعض، بعض پر زیادتی کرتے ہیں تو میں نے ارشاد
 خداوندی میں نظر کی فرمایا۔

اِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوْهُ عَدُوًّا (۲)

بے شک تمہارا دشمن ہے تو اسے اپنا دشمن سمجھو۔

لہذا میں نے صرف اسی سے دشمنی کی اور اس سے بچنے کی کوشش کرتا ہوں۔ کیونکہ اس بات پر اللہ تعالیٰ کی شہادت پائی
 جاتی ہے کہ وہ میرا دشمن ہے پس میں نے اس کے علاوہ مخلوق سے دشمنی کو چھوڑ دیا ہے۔

ساتویں بات یہ ہے کہ میں نے مخلوق کی طرف دیکھا تو ان میں سے ہر ایک کو یوں پایا کہ وہ روٹی کے اس ٹکڑے کی طلب
 میں اپنے نفس کو ذلیل کرتا ہے اور اس میں اس چیز کو داخل کرتا ہے جو اس کے لیے حلال نہیں۔ پھر میں نے اللہ تعالیٰ کے ارشاد
 گرامی میں نظر کی ارشاد خداوندی ہے:-

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْاَرْضِ اِلَّا عَلَيَّ اللهُ
 رِزْقُهَا (۳)

زمین میں کوئی بھی چار پائیہ نہیں مگر اس کا رزق اللہ تعالیٰ کے
 ذمہ کرم پر ہے۔

تو مجھے معلوم ہوا کہ میں بھی ان جاندار چیزوں میں سے ایک ہوں جن کا رزق اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے تو میں اس کام میں مشغول
 ہو گیا جو اللہ تعالیٰ کے لیے مجھ پر لازم ہے اور جو کچھ میرے لیے اس کے پاس ہے اس کو چھوڑ دیا۔

اٹھویں بات یہ ہے کہ میں نے اس مخلوق کی طرف نظر کی تو میں نے دیکھا کہ یہ تمام لوگ مخلوق پر بھروسہ کرتے ہیں کوئی زمین
 پر کوئی اپنی تجارت پر کوئی اپنی صفت پر اور کوئی اپنے بدن کی صحت پر بھروسہ کرتا ہے گویا ہر مخلوق، اپنی جیسی مخلوق پر توکل کرتی ہے
 پھر میں نے اللہ تعالیٰ کے ارشاد گرامی کی طرف رجوع کیا ارشاد خداوندی ہے:-

وَمَنْ يَتَّوَكَّلْ عَلَى اللهِ فَهُوَ حَسْبُهُ (۴)

اور جس نے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیا وہ اس کیلئے کافی ہے۔

حضرت شیخین نے فرمایا اے حاتم! اللہ تعالیٰ تجھے توفیق عطا فرمائے میں نے تورات، انجیل، زبور اور قرآن مجید کے علوم کو
 دیکھا تو خیر اور دیانت کی تمام اقسام کو یوں پایا کہ وہ ان آٹھ مسائل کے گرد گھومتے ہیں لہذا جس نے ان پر عمل کیا اس نے

(۱) قرآن مجید سورہ زمر آیت ۲۲ (۵) قرآن مجید سورہ قاطر آیت ۶

(۲) قرآن مجید سورہ ہود آیت ۶ (۳) قرآن مجید سورہ طلاق آیت ۳

چاروں کتابوں پر عمل کر لیا۔

تو اس طرح کے فن کو حاصل کرنے اور سمجھنے کا اہتمام علماء آخرت ہی کرتے ہیں جہاں تک علماء دنیا کا تعلق ہے تو وہ اس چیز میں مشغول ہوتے ہیں جس کے ذریعے مال اور مرتبہ کا حصول آسان ہو جائے، اور اس قسم کے علوم جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہم السلام کو بھیجا، ان کو چھوڑ دیتے ہیں حضرت صفاک بن مزاحم نے فرمایا میں نے ان اسلاف کو پایا کہ وہ ایک دوسرے کو تقویٰ سکھاتے تھے اور آج یہ لوگ کلام کے علاوہ کچھ نہیں سیکھے علمائے آخرت کی ایک علامت یہ ہے کہ وہ کھانے پینے میں آسائش، لباس میں زیب و زینت گھرنیو سامان اور مکان میں زیادہ حسن و خوبصورتی کی طرف مائل نہیں ہوتے، بلکہ ان تمام چیزوں میں میانہ روی اختیار کرتے ہیں۔ اور اس سلسلے میں پہلے بزرگوں کا طریقہ اختیار کرتے ہیں۔ اور کم از کم پراکتفا کرنے کی طرف متوجہ ہوتے ہیں جب بھی قلیل مقدار کی طرف ان کا میلان بڑھے گا اللہ تعالیٰ کا قرب زیادہ ہوگا۔ اور علمائے آخرت کے مرتبے کی طرف ترقی کرے گا۔ اس سلسلے میں حضرت ابو عبد اللہ خواص رحمہ اللہ کی حکایت شاہد ہے۔ وہ حضرت حاتم ام رحمہ اللہ کے شاگردوں میں سے تھے وہ فرماتے ہیں میں حضرت حاتم کے ہمراہ علاقہ رے کی طرف گیا ہمارے ساتھ تین سو بیس افراد تھے اور ہم حج کا ارادہ رکھتے تھے وہ سب کبیل پوش تھے نہ اس کے پاس توشہ دان تھا اور نہ کھانا، ہم ایک تاجر کے پاس اترے جو تنگ دست تھا لیکن مساکین سے محبت کرتا تھا اس نے اس رات ہماری ہمان نوازی کی جب دوسرا دن ہوا تو اس نے حضرت حاتم سے کہا آپ کی کچھ ضرورت ہو تو بتائیں کیوں کہ میں ایک فقیہ کی عبادت کے لیے جا رہا ہوں جو بیمار ہے۔ حضرت حاتم نے فرمایا بھائی پر سی فضیلت کا کام ہے اور فقیہ (عالم) کو دیکھنا عبادت ہے لہذا میں بھی تمہارے ساتھ جاتا ہوں جو شخص بیمار تھا وہ محمد بن مقاتل تھے جو رے کے قاضی تھے۔ جب ہم دروازے پر پہنچے تو دیکھا کہ ایک بلند اور خوبصورت محل ہے حضرت حاتم سوچ میں پڑ گئے اور فرمائے لگے ایک عالم کا دروازہ اس انداز کا؟ پھر انہیں اجازت دی گئی تو اندر داخل ہوئے تو کیا دیکھا کہ ایک خوبصورت اور نہایت کشادہ مکان ہے اور اس پر پردے لگے ہوئے ہیں، حضرت حاتم متفکر ہو گئے پھر اس مجلس کی طرف گئے جس میں وہ قاضی صاحب تھے تو دیکھا کہ ایک نرم پھوٹا ہے وہ اس پر آرام فرما رہی سہی طرف ایک غلام پنکھا لیے کھڑا ہے تاجر جو زیارت کے لیے آیا تھا سر کے پاس بیٹھا اور حال دریافت کرنے لگا۔ جب کہ حضرت حاتم اسی طرح کھڑے تھے۔ ابن مقاتل نے ان کی طرف اشارہ کیا کہ بیٹھ جائیں انہوں نے فرمایا میں نہیں بیٹھوں گا، اس نے پوچھا آپ کو کوئی کام ہے؟ فرمایا ہاں، کہا کیا ہے؟ فرمایا میں آپ سے ایک مسئلہ دریافت کرنا چاہتا ہوں۔

انہوں نے کہا پوچھئے، آپ نے فرمایا سیدھے ہو کر بیٹھ جائیں تاکہ میں آپ سے سوال کروں، وہ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے حضرت حاتم رحمہ اللہ نے فرمایا آپ نے یہ علم کہاں سے حاصل کیا ہے؟ انہوں نے کہا نہایت با اعتماد حضرات نے مجھ سے بیان کیا پوچھا انہوں نے کس سے حاصل کیا؟ کہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام سے، پوچھا صحابہ کرام

نے کس سے علم حاصل کیا؟، کہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، پوچھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس سے حاصل کیا؟
حضرت جبریل کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے حاصل کیا ہے،

حضرت حاتم رحمہ اللہ نے پوچھا کہ جو کچھ حضرت جبریل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہنچایا حضور علیہ السلام
سے صحابہ کرام تک اور صحابہ کرام نے ثقہ اور با اعتماد لوگوں تک پہنچایا اس میں آپ نے سنا ہے کہ جس شخص کا مکان
پنجا اور وسیع ہو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی قدر و منزلت زیادہ ہوگی؛ انہوں نے کہا نہیں پوچھا آپ نے کیا سنا ہے؟
میں نے یہ سنا ہے کہ جو شخص دنیا سے بے رغبتی اختیار کرے گا، آخرت میں رغبت کرے گا، مساکین سے محبت
کرے گا، آخرت کے لیے آگے بھیجے گا اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا مقام و مرتبہ ہوگا حضرت حاتم رحمہ اللہ نے پوچھا تو
آپ نے کس کی پیروی کی ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی؛ صحابہ کرام؛ صالحین کی؛ یافرعوں اور نمرود کی جس نے سب
سے پہلے چلے اور اینٹوں کا مکان بنایا۔ اسے علماء سوا ایک جاہل حریص اور دنیا سے رغبت کرنے والا جب تمہا سے
پیسے لوگوں کو اس حالت میں دیکھتا ہے تو کہتا ہے ایک عالم اس حالت میں ہے تو کیا میں اس سے بدتر نہیں اس
کے بعد حضرت حاتم وہاں سے چلے گئے اور ابن مقاتل کی بیماری بڑھ گئی ہو سکتا ابن مقاتل اور ان کے درمیان جو گفتگو
ہوئی تھی، اہل رس کو اس کا علم ہو گیا انہوں نے حضرت حاتم سے کہا کہ قرظین میں طنافسی کو اس سے زیادہ فراخی حاصل
ہے حضرت حاتم قصداً ادھر چلے پڑے جب اس کے پاس داخل ہوئے تو فرمایا اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے میں ایک عجمی شخص
ہوں دین کی ابتدائی باتیں اور نماز کی چابی یعنی وضو کے بارے میں سیکھنا چاہتا ہوں میں نماز کے لیے کیسے وضو کروں؟
انہوں نے کہا بہت بہتر پھر غلام سے کہا کہ پانی کا برتن لاؤ، وہ برتن لائے تو طنافسی نے پھڑک کر وضو کیا اور تین تین بار
طنافس کو دھویا۔ پھر کہا کہ اس طرح وضو کرو، حضرت حاتم نے فرمایا آپ اپنی جگہ ٹھہریں تاکہ میں آپ کے سامنے وضو کروں
میرا مقصد مضبوط ہو جائے۔ طنافسی کھڑے ہو گئے اور حاتم بیٹھ گئے وضو کیا اور بازوؤں کو چار چار بار دھویا۔ طنافسی
نے کہا اے فلاں تم نے فضول خرچی کی ہے، حضرت حاتم نے اس سے فرمایا کس چیز میں؟ کہا آپ نے اپنے بازوؤں
کو چار چار بار دھویا۔

حضرت حاتم نے فرمایا سبحان اللہ العظیم! میں نے ایک چلو پانی میں اسراف کیا اور تم نے ان تمام چیزوں کو جمع کر
کے بھی اسراف نہیں کیا طنافسی کو معلوم ہو گیا کہ ان کا مقصد یہ تھا، سیکھنا مقصود نہ تھا،

وہ گھر میں داخل ہو گئے اور چالیس دن تک لوگوں کی طرف باہر نہ آئے، جب حضرت حاتم بغداد پہنچے تو تمام اہل بغداد
ان کے پاس اکٹھے ہو گئے اور کہنے لگے اے ابو عبد الرحمن! آپ ایک عجمی شخص ہیں اور رک رک کر بات کرتے ہیں، مگر
آپ سے جو بھی کلام کرتا ہے اس کا منہ توڑ جواب دیتے ہیں انہوں نے فرمایا مجھے تین باتیں حاصل ہیں میں انہیں اپنے
مخالف کے سامنے ظاہر کرتا ہوں، جب میرا مخالف درست بات کرتا ہے تو میں خوش ہوتا ہوں، جب وہ غلطی کرتا ہے

تو میں غمگین ہو جاتا ہوں اور مخالف کے ساتھ جہالت کا سلوک کرنے سے اپنے نفس کو بچاتا ہوں یہ بات حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تک پہنچی تو انہوں نے فرمایا سبحان اللہ! وہ کتنے عقلمند شخص میں ہیں بھی ان کے پاس لے چلو جب ان کے پاس پہنچے تو امام احمد نے ان سے پوچھا اے ابو عبد الرحمن! دنیا سے سلامتی کس بات میں ہے؟ انہوں نے فرمایا اے ابو عبد اللہ! جب آپ میں چار خصلتیں نہ ہوں آپ دنیا سے نہیں بچ سکتے۔

(۱) لوگوں کی جہالت سے درگزر کرو۔

(۲) ان کے ساتھ جہالت سے پیش نہ آؤ،

(۳) ان کو کچھ دو۔

(۴) اور ان کے مال سے مایوس رہو، جب تمہاری یہ حالت ہوگی تو دنیا سے بچ جاؤ گے،

پھر حضرت حاتم مدینہ منورہ چلے گئے اہل مدینہ نے آپ کا استقبال کیا۔

آپ نے فرمایا اے قوم! یہ کونسا شہر ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ طیبہ ہے، فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا محل کہاں ہے جہاں میں نماز پڑھوں؟ انہوں نے عرض کیا آپ کا تو کوئی محل نہ تھا آپ کا خانہ اقدس زمین کے بالکل قریب تھا بہت بلند نہ تھا۔ فرمایا صحابہ کرام کے محلات کہاں ہیں؟ انہوں نے عرض کیا ان کے بھی محلات نہیں تھے ان کے گھر بھی زمین سے ملے ہوئے پشت تھے۔

حضرت حاتم نے فرمایا اے قوم پھر تو یہ فرعون کا شہر ہے۔ چنانچہ لوگ آپ کو بپڑ کر بادشاہ کے پاس لے گئے اور کہا کہ یہ ایک عجیب شخص ہے اور کہتا ہے کہ یہ فرعون کا شہر ہے۔ حاکم نے پوچھا ایسا کیوں ہے؟

حضرت حاتم نے فرمایا مجھ پر جلدی نہ کیجئے میں ایک عجیب مسافر آدمی ہوں میں شہر میں داخل ہوا تو پوچھا یہ کس کا شہر ہے؟ انہوں نے کہا یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر مدینہ طیبہ ہے میں نے پوچھا آپ کا محل کہاں ہے؟ پھر آپ نے تمام واقعہ سنایا، اس کے بعد فرمایا اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے:-

كَلَّمْنَاكَ فِي رَسُولِ اللَّهِ اَسْوَدًا
حَسَنَةً
تمہارے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں
بہترین نمونہ ہے۔

تم نے کس نمونے کو اختیار کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا یا فرعون کا جس نے سب سے پہلے چونے اور اینٹوں کی عمارت بنائی چنانچہ وہ آپ سے الگ ہو گئے اور آپ کو چھوڑ دیا تو یہ حضرت حاتم اصم رحمہ اللہ کا واقعہ ہے اکابر اسلام کی سکتہ عالی اور زینت ترک کرنے کے بارے میں اپنے مقام پر ذکر ہو گا جو اس بات پر شاہد ہے۔

مباح چیزوں سے پچنا تقویٰ ہے | اس سلسلے میں تحقیق یہ ہے کہ مباح چیزوں سے زینت اختیار کرنا حرام نہیں لیکن ان چیزوں میں پڑھانے سے ان سے محبت ہو جاتی ہے حتیٰ کہ ان کو

چھوڑنا مشکل ہو جاتا ہے اور ہمیشہ کے لیے مزین رہنا اس وقت تک ممکن نہیں جب تک اس کے اسباب حاصل نہ ہوں اور ان کے حصول کے لیے عام طور پر گناہ کا ارتکاب ہو جاتا ہے مثلاً منافقت، لوگوں کی (جائز و ناجائز میں) رعایت کرنا یا کاری اور اس کے علاوہ دیگر ممنوع امور میں۔

لہذا احتیاط یہی ہے کہ اس سے اجتناب کیا جائے کیونکہ جو شخص دنیا داری میں مشغول ہوتا ہے وہ اس سے قطعاً بچ نہیں سکتا۔ اگر اس میں مشغولیت کے باوجود سلامتی حاصل ہوتی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ترک دنیا کے بارے میں مبالغہ نہ فرماتے حتیٰ کہ آپ نے وہ قمیص اتا ردی جس میں نقش و نگار تھے (۱) اور خطبہ کے دوران سونے کی انگوٹھی بھی اتار دی (۲) اس کے علاوہ روایات ہیں جن کا بیان عنقریب آئے گا۔ (۳)

ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ سحیحی بن یزید نوفلی نے حضرت مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اولین و آخرین میں رحمت ہو، یہ خط سحیحی بن یزید بن عبد الملک کی طرف سے حضرت مالک بن انس رحمہ اللہ کی طرف ہے۔ حمد و ثناء کے بعد مجھے خبر پہنچی ہے کہ آپ باریک پٹے پہنتے ہیں اور چھاتی کھاتے ہیں نرم مسند پر بیٹھتے ہیں آپ کے دروازے پر دربان بھی ہے، حالانکہ آپ مجلس علم میں تشرف فرماتے ہیں۔

لوگ آپ کے پاس آتے ہیں انہوں نے آپ کو اپنا امام تسلیم کیا ہے اور آپ کے کلام کو پسند کرتے ہیں تو مالک! اللہ تعالیٰ سے ڈریں تو اضع اختیار کریں میں نے آپ کو نصیحت بھرا خط لکھا ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو علم نہیں۔ والسلام، حضرت امام مالک نے ان کی طرف لکھا۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت محمد مصطفیٰ (اور) آپ کی آل و اصحاب پر رحمت و سلام ہو اب بعد۔ مجھے آپ کا مکتوب گرامی موصول ہوا میرے لیے یہ خط نصیحت، شفقت اور ادب کا ذریعہ ہے اللہ تعالیٰ آپ کو تقویٰ کے نفع سے مالا مال فرمائے اور اس نصیحت کا اچھا صلہ عطا فرمائے۔ میں اللہ تعالیٰ سے توفیق کا سوال کرتا ہوں،

(۱) صحیح بخاری جلد ۲ ص ۱۶۵ کتاب اللباس (۲) صحیح مسلم جلد ۲ ص ۱۹۶ کتاب اللباس۔

(۳) چونکہ گذشتہ تحریر سے معلوم ہوا تھا کہ اچھا لباس یا مکان وغیرہ اختیار کرنا حرام ہے اس لیے وضاحت کی گئی کہ جائز طریقے

پر زیب و زینت جائز ہے البتہ پچنا بہتر ہے ۱۲ ہزاروی۔

نیکی کرنے اور برائی سے بچنے کی قوت صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے حاصل ہوتی ہے۔ آپ نے جو ذکر فرمایا اگر میں پتلی روٹی (چپاتی) کھاتا ہوں اور باریک کپڑے پہنتا ہوں دروازے پر دربان بھی ہے اور نرم چھونے پر بیٹھتا ہوں ہم ایسا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے سختی طلب کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا "آپ فرمادیجئے کس نے اس زینت کو حرام کیا جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی ہے اور پاکیزہ رزق" اور بے شک میں جانتا ہوں کہ اس کو اپنانے کی بجائے چھوڑنا بہتر ہے آپ ہمیں ضرور لکھتے رہا کریں ہم بھی آپ سے خط و کتابت جاری رکھیں گے۔ والسلام۔

تو حضرت امام مالک رحمہ اللہ کا انصاف ملاحظہ کیجئے انہوں نے اعتراف کیا کہ اس کو اختیار کرنے کی بجائے چھوڑنا بہتر ہے اور فتویٰ دیا کہ یہ جائز ہے۔ تو انہوں نے دونوں باتیں سچ فرمائی ہیں۔
تو حضرت امام مالک رحمہ اللہ جیسے لوگ جو اس منصب پر فائز ہیں انہوں نے اس نصیحت کو قبول کرنے اور اعتراف کرنے میں انصاف سے کام لیا تو انہوں نے مباح کی حدود کو جانتے پر اپنے نفس کو مضبوط فرمایا تاکہ وہ انہیں منافقت دکھاوے اور مکروہ امور کی طرف تجاوز کی راہ پر نہ لے جائے لیکن دوسرے لوگ اس پر قادر نہیں لہذا مباح چیزوں کے ساتھ لذت حاصل کرنے کی طرف مائل ہونے میں بہت بڑا خطرہ ہے اور یہ چیز اللہ تعالیٰ کے خوف و خشیت سے بچ رہے جب کہ علمائے ربانیہ کا خاصہ خشیت ہے۔

اور خشیت کی خاصیت یہ ہے کہ وہ اس جگہ سے بھی دور رکھتی ہے جہاں خطرات کا خدشہ ہو۔
علمائے آخرت کی علامات میں سے ایک علامت یہ ہے کہ وہ حکمرانوں سے دور ہے اور جب تک ان سے فرار کا راستہ ملتا ہے ان کے پاس ہرگز نہ جائے بلکہ ان کے ساتھ میل جول سے بچتا ہے اگرچہ وہ اس کے پاس جائیں۔ کیونکہ دنیا بیٹھی اور تروتازہ ہے اور اس کی لگام بادشاہوں کے ہاتھ میں ہے۔ اور جو آدمی ان سے میل جول رکھتا ہے وہ ان کی خوشنودی حاصل کرنے اور ان کے دل کو اپنی طرف مائل کرنے کے سلسلے میں تکلفات سے خالی نہیں ہوتا حالانکہ وہ عام طور پر ظالم ہوتے ہیں، لہذا ہر دین دار پر لازم ہے کہ ان پر اعتراض کرے اور ان کے مظالم کو ظاہر کرے ان کے دل کو تنگ کرے اور ان کے عمل کی برائی بیان کرے۔ لیکن جو شخص ان کے پاس جاتا ہے وہ یا تو ان کے بناؤ و سنگار کو دیکھتا ہے اور اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو حقیر سمجھتا ہے۔

یا ان پر تنقید کرنے سے خاموش ہو جاتا ہے لہذا وہ منافقت کا مرتکب ہوتا ہے یا ان کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے بڑے تکلف کلام کرتا ہے اور ان کی حالت کی تحسین کرتا ہے اور یہ واضح جھوٹ ہے۔ یا اسے لالچ ہوگی کہ بادشاہوں کی دنیا سے کچھ حاصل کرے اور یہ حرام ہے حلال و حرام کے بیان میں آئے گا کہ بادشاہوں سے کیا کہنا جائز ہے اور کون کون سے عطیات و انعامات لینا جائز ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ ان کے ساتھ میل جول برائیوں کی چابی ہے جب کہ

علماء آخرت کا طریقہ احتیاط ہے۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:-

مَنْ بَدَّ اجْفَا وَمَنْ اتَّبَعَ الصَّدَّ غَفَلَ وَمَنْ
اتَى السُّلْطَانَ اقْتَنَى (۱)

جو شخص دیہات میں رہائش رکھتا ہے اس نے ظلم کیا، جس
نے شکار کا پیچھا کیا وہ غافل ہوا اور جو شخص بادشاہ کے پاس
گیا وہ فتنے میں مبتلا ہوا۔ (۲)

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:-

سَيَكُونُ عَلَيْكُمْ أَمْرَاءُ تَعْرِفُونَ مِنْهُمْ
وَتُكِدُّونَ، فَمَنْ أَنْكَرَ فَقَدْ بَدَّى وَمَنْ
كَدَرَ فَقَدْ سَلِمَ، وَلَكِنْ مَنْ رَضِيَ وَتَابَعَ
أَبَدَّ اللَّهُ تَعَالَى، قِيلَ: أَفَلَا نَقَاتْلَهُمْ
قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا صَلُّوا»

عنقریب تم پر کچھ لوگ حکمرانی کریں گے تم ان سے اچھے کام بھی
دیکھو گے اور برے بھی، تو جس نے ان کا انکار کیا وہ بری
الذمہ ہو گیا اور جس نے (دل سے) ناپسند کیا وہ بھی بچ گیا
لیکن جو شخص راضی ہوا اور ران کی، اتباع کی اللہ تعالیٰ اسے
اپنی رحمت سے دور رکھے گا۔ عرض کیا گیا کیا ہم ان سے
لڑائی نہ کریں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں جب
”تک وہ نماز پڑھیں“

(۳)

حضرت سیفان فرماتے ہیں ”جہنم میں ایک وادی ہے اس وہ صرف وہ قاری حضرات رہیں گے جو امر اور کی ملاقات اور
زیارت کے لیے جاتے ہیں“ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ”قتنے کی جگہوں سے بچو“ پوچھا گیا وہ کونسی جگہیں ہیں؟
فرمایا ”امر اور کے دروازے ہیں“

تم میں سے ایک شخص کسی حکمران کے پاس جاتا ہے اور اس کے جھوٹ کو سچ قرار دیتا ہے اور ایسی ایسی باتیں
کہتا ہے جو اس میں پانی نہیں جائیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:-

عَلَّمَكَ كَرَامَ اللَّهِ تَعَالَى كَيْفَ بَدَّ عَلَى عِظَامِ كَيْفَ اتَّقَدَّرَ
هِيَ جَبَّ تَكَّ حِكْمَانِ مِنْ مِيلِ جَوْلٍ نَهْ رَكْبِي جَبَّ وَهْ

الْعُلَمَاءُ أَمْنَاءُ أَرْسَلِ عَلَيَّ عِبَادَ اللَّهِ تَعَالَى
مَا لَمْ يَخَالَطُوا السُّلْطَانَ، فَاذَا فَعَلُوا

(۱) مستند امام احمد بن حنبل جلد اول ص ۲۵۰

(۲) دیہات میں علم کے مواقع اور مراکز کم ہوتے ہیں اس لیے انسان جمالت کا شکار ہو جاتا ہے، شکار کا پیچھا کرتے کرتے ممکن ہے
نماز بھی یاد نہ رہے اور وہ اس سے غافل ہو جائے اور بادشاہوں کے پاس جانے کے جو نقصانات ہیں وہ اوپر بیان ہو چکے ہیں

۱۲ ہزاروی۔ (۳) مستند امام احمد بن حنبل جلد اول ص ۲۵۰

ذَلِكَ فَقَدْ خَافُوا الرَّسُلَ فَاحْذَرُوهُمْ
وَاعْتَزِلُوهُمْ۔ (۱)

ایسا کریں تو انہوں نے رسولوں سے خیانت کی پس ان سے
بچو اور الگ رہو۔

اس حدیث کو حضرت انس رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔

حضرت امش سے کہا گیا کہ آپ نے اپنے شاگردوں کی کثرت کے باعث علم کو زندہ رکھا انہوں نے فرمایا جلدی نہ کرو،
حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے تہائی حصہ تو پختہ ہونے سے پہلے مر جاتے ہیں، دوسری تہائی، بادشاہوں کے دروازوں
سے چھٹ جاتے ہیں اور وہ مخلوق میں سے بڑے لوگ ہیں اور باقی تیسری تہائی میں صرف کھوڑے ہی قلاح پائیں گے۔
اسی لیے حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ نے فرمایا ”جب تم کسی عالم کو امیر اور کے پاس آنا جانا دیکھو تو اس سے بچو، وہ چور
ہے۔ حضرت اوزاعی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس اس عالم سے بری چیز کوئی نہیں جو کسی حکمران سے ملاقات کرتا
ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

بَشَرًا مِّنَ الْعُلَمَاءِ الَّذِينَ يَأْتُونَ الْأُمَرَاءَ

بدترین علماء وہ ہیں جو امراء کے پاس جاتے ہیں اور بہترین

وَحَيَاءُ الْأُمَرَاءِ الَّذِينَ يَأْتُونَ الْعُلَمَاءَ (۲)

امراء وہ ہیں جو علماء کے پاس جاتے ہیں۔

حضرت کمول دمشقی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ”جس نے قرآن پاک سیکھا اور دین کی سمجھ حاصل کی پھر خوشامد اور لالچ کے طور
پر حکمران کی مجلس اختیار کی وہ اپنے گناہوں کے برابر جہنم میں غوطے کھائے گا۔

حضرت سمون فرماتے ہیں وہ عالم کتنا برا ہے کہ جب کوئی اس کے پاس جائے تو اسے نہ پائے اس کے بارے میں
پوچھا جائے تو بتایا جائے کہ وہ حکمران کے پاس ہے۔ وہ فرماتے ہیں میں سنا کرتا تھا کہا جاتا تھا کہ جب کسی عالم کو دیکھو کہ وہ دنیا
سے محبت کرتا ہے تو اسے دین کے معاملے میں تہمت زدہ جالو بختی کہ میں نے اس بات کا تجربہ کیا کہ جب میں حاکم کے
پاس جاتا ہوں تو باہر نکلنے کے بعد نفس کا محاسبہ کرتا ہوں تو اس میں بہت دوری جانتا ہوں حالانکہ تم دیکھتے ہو کہ میں اس
سے ملاقات کے وقت کس قدر سختی اور درستی سے پیش آتا ہوں اور اس کی خواہشات کی بہت زیادہ مخالفت کرتا ہوں اور
میں چاہتا ہوں کہ اس کے پاس جانے سے بچ جاؤں پھر میں اس سے کوئی چیز لیتا بھی نہیں ہوں نہ اس کے ہاں پانی کا ایک
گھونٹ پیتا ہوں پھر فرمایا۔

ہمارے زمانے کے علماء بنی اسرائیل کے علماء سے بڑے ہیں وہ انہیں ایسی باتیں بتاتے ہیں جن میں رخصت (آسانی)
ہو اور ان کی مرضی کے مطابق ہو، اگر وہ انہیں ان کی خرابیوں پر آگاہ کریں اور ان سے نجات کی باتیں بتائیں تو حکمران انہیں گراں
جانیں اور ان کا اپنے پاس آنا پسند کریں حالانکہ یہ بات ان کے رب کے پاس نجات کا باعث ہے۔

(۱) کنز العمال جلد ۱۰ ص ۱۸۳ (۲) العن الثنا بیہ جلد اول ص ۱۳۲

حضرت حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں تم سے پہلے لوگوں میں ایک شخص تھا وہ اسلام میں سبقت رکھتا تھا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی تھا حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان کی مراد حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے ہے۔ وہ فرماتے ہیں وہ بادشاہوں کے پاس نہیں جاتے تھے بلکہ ان سے نفرت کرتے تھے ان کے بیٹوں نے عرض کیا کہ بادشاہ کے پاس وہ لوگ جاتے ہیں جو صحابیت اور اسلام میں مقدم ہونے کے اعتبار سے آپ کی مثل نہیں ہیں اگر آپ بھی ان کے پاس جائیں تو کیا حرج ہے؟

انہوں نے فرمایا اسے میرے بیٹے! کیا میں اس مردار (دنیا) کے پاس جاؤں جیسے ایک قوم نے گھیر رکھا ہے اللہ تعالیٰ کی قسم! جب تک ہو سکا میں ان کے ساتھ شریک نہیں ہوں گا۔ انہوں نے عرض کیا ابا جان! اس طرح تو ہم کمزور ہو کر ہلاک ہو جائیں گے انہوں نے فرمایا اسے بیٹے! میں ایک لاعز مومن کی صورت میں فوت ہونے کو موٹے منافق کی صورت میں مرنے پر ترجیح دیتا ہوں۔

حضرت حسن فرماتے ہیں اللہ کی قسم! وہ جیت گئے ہیں کیونکہ یہ بات معلوم ہے کہ مٹی گوشت اور موٹاپے کو کھا جاتی ہے ایمان کو نہیں کھا سکتی۔ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جو آدمی حکمران کے پاس جاتا ہے وہ منافق سے کسی طرح بھی بچ نہیں سکتا۔ اور منافقت ایمان کی ضد ہے۔

حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ نے حضرت سلمہ سے فرمایا اے سلمہ! بادشاہوں کے دروازے آیا جانا نہ کرو۔ تم ان کی دنیا سے اس وقت تک کچھ نہیں پاسکتے جب تک وہ تمہارے دین میں سے اچھی باتیں نہ لے لیں (یعنی اپنا دین کھو بیٹھو گے) اور علماء کرام کے لیے یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے، اور شیطان کے لیے ان پر ایک سخت ذریعہ ہے بالخصوص جن کا انداز گفتگو اچھا اور کلام شیریں ہو کیونکہ شیطان مسلسل اس کے دل میں ڈالتا رہتا ہے کہ تمہارے وہاں جانے اور انہیں وعظ کرنے سے وہ ظلم سے باز آجائیں گے اور احکام شریعت جاری کریں گے حتیٰ کہ اس کے تصور میں وہاں جانا دین کا حصہ بن جاتا ہے پھر جب وہ داخل ہوتا ہے تو جلد ہی کلام میں نرمی اور منافقت کا طریقہ اختیار کرتا ہے اس کی تعریف اور خوشامد میں لگ جاتا ہے اور اس میں دین کی ہلاکت سے کہا جاتا تھا کہ علماء کرام جب علم حاصل کر لیتے تھے تو عمل کرتے تھے جب عمل کرتے تو اسی میں مشغول رہتے اور جب مشغول ہوئے تو گناہ ہو جاتے تھے جب گناہ ہوئے تو تلاش کئے جاتے تھے جب ان کو طلب کیا جاتا تو بھاگ جاتے تھے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے حضرت حسن رحمہ اللہ کو لکھا حمد و صلوات کے بعد آپ مجھے کچھ ایسے لوگ بتائیں جن میں اللہ تعالیٰ کے حکم پر مدد لوں۔

انہوں نے (جواب میں) لکھا "جہاں تک اہل دین کا تعلق ہے تو وہ آپ کے پاس نہیں آئیں گے اور اہل دنیا سے آپ کو عرض نہیں تاہم آپ معزز افراد کو اپنے ساتھ رکھیں وہ اپنے شرف کو خیانت کی میل سے محفوظ رکھتے ہیں۔ یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے بارے میں ہے حالانکہ وہ اپنے زمانے کے بہت بڑے زاہد تھے جب

اہل دین کو اس قسم کے بادشاہوں سے دُور رہنا بھی شرط ہے تو دوسروں کی طلب اور ان سے میل جول کس طرح صحیح ہوگا۔ ہمارے اسلاف مثلاً حضرت حسن بصری، سفیان ثوری، ابن مبارک حضرت فضیل، حضرت ابراہیم بن ادھم اور حضرت یوسف بن اسباط رحمہم اللہ مکرمہ اور شام کے علماء دنیا کے بارے میں دوئیب بتایا کرتے تھے ایک دنیا کی طرف ان کا میلان اور دوسرا حکمرانوں سے میل جول۔

علمِ آخرت کی علامات میں سے ایک یہ ہے کہ فتویٰ دینے میں جلدی نہ کرے بلکہ توقف کرے اور چھٹکارا حاصل کرنے کا راستہ تلاش کرے اور اگر اس سے ایسا مسئلہ پوچھا گیا جسے وہ قرآن پاک یا حدیث کی نص یا اجماع یا قیاس کے ذریعے یقینی طور پر جانتا ہے تو فتویٰ دے۔

اور اگر ایسا مسئلہ پوچھا جائے جس میں اسے شک ہے تو کہہ دے کہ میں نہیں جانتا اگر ایسا مسئلہ پوچھا جائے جسے اپنے اجتہاد اور انداز سے صحیح طور پر حل کر سکتا ہے تو بھی احتیاط کرے اپنے آپ کو بچائے اور دوسروں کے حوالے کر دے بشرطیکہ دوسرا اس قابل ہو احتیاط یہی ہے کیونکہ اجتہاد کے خطرات کو اپنے گلے میں ڈالنا بہت بڑی بات ہے اور حدیث شریف میں ہے۔

الْعِلْمُ تَلَاثَةٌ: كِتَابٌ نَاطِقٌ، وَسِتَّةٌ
قَائِمَةٌ، وَلَا أُدْرِي۔ (۱)

حضرت شعبی فرماتے ہیں "میں نہیں جانتا" کے الفاظ نصف علم ہیں اور جو شخص نہیں جانتا وہ رضائے خداوندی کے لیے خاموش رہے تو مسئلہ بتانے والے سے اس کا ثواب کم نہ ہوگا۔ کیونکہ جہالت کا اعتراف نفس پر سخت گراں ہوتا ہے صحابہ کرام اور بعد والے اکابر اسلاف کا یہی طریقہ تھا۔

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے جب کوئی شرعی حکم پوچھا جاتا تو آپ فرماتے اس حکمران کے پاس جاؤ جس نے لوگوں کے معاملات کی ذمہ داری اٹھائی ہے یہ بھی اس کے گلے میں ڈال دو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہے جو شخص لوگوں کے ہر استغناء پر فتویٰ دیتا ہے وہ مجنون ہے انہوں نے فرمایا عالم کی ڈھال "میں نہیں جانتا" کے الفاظ ہیں۔ کیونکہ اگر وہ اس میں غلطی کرتا ہے تو اس کے لیے ہلاکت ہے۔

حضرت ابراہیم بن ادھم رحمہ اللہ نے فرمایا اس عالم سے بڑھ کر شیطان پر کوئی بھی سخت نہیں جو بعض علم بیان کرتا ہے اور بعض کے بارے میں خاموشی اختیار کرتا ہے شیطان کہتا ہے اس کی طرف دیکھو اس کی خاموشی مجھ پر اس کے کلام

(۱) میں نہیں جانتا یعنی جو مسئلہ معلوم نہ ہو اس کے بارے میں یہ کہنا چاہیے کہ میں نہیں جانتا، ۱۲ ہزاروی

(۲) کثر العمال جلد ۱۰ ص ۱۳۲

سے زیادہ سخت ہے۔ بعض اکابر نے ابدال کی تعریف یوں کی ہے کہ ان کا کھانا فاخر کے وقت (نہیند غلبہ کے وقت) اور کلام ضرورت کے تحت ہوتی ہے یعنی جب تک ان سے سوال نہ کیا جائے وہ کلام نہیں کرتے۔

اور جب ان سے پوچھا جائے اور ایسے لوگ موجود ہوں جو اس سلسلے میں کفایت کرتے ہوں (جو اب دے سکتے ہوں) تو یہ خاموش رہتے ہیں اگر مجبور ہو جائیں تو جواب دیتے ہیں، یہ حضرات سوال سے پہلے خود بخود کلام کرنے کو کلام کی پوشیدہ خواہش قرار دیتے تھے۔

حضرت علی المرتضیٰ اور حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہما ایک آدمی کے پاس سے گزرے جو لوگوں سے کلام کر رہا تھا تو انہوں نے فرمایا یہ کتنا ہے مجھے پہچانو۔ بعض اکابر نے فرمایا عالم وہ ہے جس سے کوئی مسئلہ پوچھا جائے تو گویا اس کی دائرہ نکال لی گئی حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے تھے تم ہمیں ایک پل بنایا چاہتے ہو تاکہ ہمارے ذریعے جہنم کو عبور کرو۔ حضرت ابو حفص نیشاپوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں عالم وہ ہے جسے سوال کے وقت اس بات کا ڈر ہو کہ قیامت کے دن اس سے پوچھا جائے گا کہ تم نے کہاں سے جواب دیا؟ حضرت ابراہیم سلمی رحمہ اللہ سے جب کوئی مسئلہ پوچھا جاتا تو وہ رو پڑتے اور فرماتے کیا تمہیں میرے سوا کوئی نہیں ملا کہ تمہیں میری ضرورت پر لگی حضرت ابو العالیہ ریاحی حضرت ابراہیم بن ادہم اور حضرت سفیان ثوری رحمہم اللہ و تین یا چند افراد کے سامنے گفتگو فرماتے تھے جب زیادہ ہوتے تو وہ واپس چلے جاتے۔

مَا أَدْرِي أَعْدِيٌّ لِي أَمْ لَا، وَمَا أَدْرِي
أَتَّبِعُ مَلْعُونٌ أَمْ لَا، وَمَا أَدْرِي ذُو الْقُرْبَيْنِ
نَجِيٌّ أَمْ لَا۔ (۱)

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے معلوم نہیں حضرت
عزیر علیہ السلام نبی ہیں یا نہیں مجھے یہ بھی معلوم نہیں کہ تبع ملعون
ہے یا نہیں اور میں یہ بھی نہیں جانتا کہ ذوالقربین نبی ہیں یا نہیں (۲)

اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ زمین کا کونسا ٹکڑا اچھا ہے اور کون سا برا؟ آپ نے فرمایا مجھے معلوم نہیں حتیٰ کہ حضرت جبریل علیہ السلام اترے تو آپ نے ان سے پوچھا انہوں نے عرض کیا میں نہیں جانتا حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بتایا کہ بہترین جگہ مساجد اور بڑی جگہیں بازار ہیں۔ (۳)

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے دس مسائل پوچھے جاتے تو آپ ایک مسئلے کا جواب دیتے اور نو کے بارے

(۱) مستدرک للحاکم جلد اول ص ۳۶ تبع ذوالقربین اکانا نہیں۔

(۲) نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے "لا ادری" کے الفاظ استعمال فرمائے جس کا مطلب یہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے بتائے بغیر اپنے آپ نہیں جانتا اللہ تعالیٰ کے بتائے سے جانتا ہوں، یہی اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے ۱۲ ہزاروی۔

(۳) مجمع الرواۃ جلد ۲ ص ۶ باب فضل المساجد۔

میں خاموش رہتے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نو مسائل کا جواب دیتے اور ایک کے بارے میں خاموش رہتے۔ فقہاء کرام میں سے بعض ایسے تھے جو "اورى" (میں جانتا ہوں) کے مقابلے "لا اورى" (میں نہیں جانتا) زیادہ کہتے تھے۔ ان میں حضرت سفیان ثوری، مالک بن انس، احمد بن حنبل، فضیل بن عیاض اور لیث بن حارث رحمہم اللہ بھی شامل ہیں۔

حضرت عبدالرحمن بن ابی یعلیٰ رحمہ اللہ نے فرمایا میں نے اس مسجد میں ایک سو بیس صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو پایا تو ان میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہ تھا جس سے کسی حدیث یا شرعی مسئلے کا حل پوچھا جاتا تو وہ دوسرے کی طرف نہ لوٹانا پسند کرتا ہو جو اس مسئلے کے حل کے لیے کافی ہوتا۔ دوسری روایت کے مطابق جب ان میں سے کسی ایک کے سامنے کوئی مسئلہ پیش کیا جاتا تو دوسرے کی طرف پھیر دیتا وہ کسی اور کی طرف حتیٰ کہ لوٹ کر پہلے کی طرف آجاتا۔ ایک روایت میں ہے کہ اصحاب صفہ رضی اللہ عنہم میں سے کسی ایک کے پاس ایک جھنا ہوا سر تھفہ کے طور پر بھینجا گیا وہ سخت مشکل میں تھے لیکن انہوں نے دوسرے کو دے دیا اس نے تیسرے کو اسی طرح ان کے درمیان چکر کاٹتا رہا حتیٰ کہ پہلے کے پاس آ گیا۔

تو دیکھئے آج علماء کرام کا معاملہ کس طرح بدل گیا ہے جس چیز سے بھاگنا چاہیے تھا وہ ان کی مطلوب بن گئی اور جو چیز مطلوب تھی اس سے بھاگا جاتا ہے فتویٰ دینے سے بچنا اچھا ہے اس پر وہ سند روایت گواہ ہے جو بعض اکابر سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں فتویٰ صرف تین آدمی دیتے ہیں حکمران، اس کا نائب اور تکلف سے معفی بننے والا۔ بعض اکابر نے فرمایا کہ صحابہ کرام چار باتوں یعنی حکمرانی، وصیت، امانت اور فتویٰ سے بچتے تھے (۱)۔

ان میں سے بعض نے فرمایا کہ جس کے پاس علم کم ہوتا وہ فتویٰ دینے میں جلدی کرتا اور جو زیادہ پرہیزگار ہوتا وہ اپنے آپ سے فتویٰ کو بہت زیادہ دور کرنے والا ہوتا تھا، صحابہ کرام اور تابعین عظام پانچ کاموں میں زیادہ مشغول ہوتے تھے، قرآن پاک پڑھنا، مساجد کو آباد رکھنا اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا۔ اور یہ اس لیے کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ نے فرمایا:

كُلُّ كَلَامٍ ابْنِ آدَمَ عَلَيْهِ لَوْلَا أَنَّهُ
تَلَاثَةٌ: أَمْرٌ بِمَعْرُوفٍ، أَوْ نَهْيٌ عَنِ مَنكَرٍ
انسان کی ہر گفتگو اس کے لیے مفید نہیں ہوتی البتہ تین باتیں
نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا یا اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا

(۱) فتویٰ دینا منع نہیں بلکہ احتیاط ضروری ہے کہ کہیں غلط فتویٰ نہ دیا جائے اور جب دیگر علماء کرام موجود ہوں تو احتیاط کا تقاضا ہے کہ دوسروں کی طرف پھیر دیا جائے وصیت کا مطلب ہے کسی مرنے والے کے معاملات کی ذمہ داری اٹھانا اس کو

وصی کہتے ہیں ۱۲ ہزاروی۔

(فائدہ مند ہے)

أَوْ ذَكَرَ اللَّهُ تَعَالَى - (۱)

اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:-

ان کی اکثر مشادرت میں بھلائی نہیں البتہ جو شخص صدقہ
کا حکم دے یا نیکی کا حکم کرے یا لوگوں کے درمیان صلح
کروائے

وَأَخَيْرٌ فِي كَثِيرٍ مِّنْ نَّبَوَاتِهِمُ الْإِمَامُ
أَمْرٌ بِصِدْقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ
بَيْنَ النَّاسِ - (۲)

کسی عالم نے ایک مجتہد کو کوثر میں خواب میں دیکھا تو پوچھا تم جو فتویٰ دیتے تھے اور اپنی رائے سے کام لیتے تھے اس
کے بارے میں کیا دیکھا اس نے ناگواری کا اظہار کیا اور منہ پھیر لیا اور کہا کہ ہم نے اسے کچھ بھی نہیں پایا۔ اور ہمیں اس کا
انجام اچھا معلوم نہیں ہوا۔

حضرت ابن حصین فرماتے ہیں کہ ان لوگوں میں سے ایک آدمی فتویٰ دیتا ہے حالانکہ یہ مسئلہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ
عنه کے سامنے پیش ہوتا تو آپ اس کے لیے اہل بدر کو جمع فرماتے۔ تو ضرورت کے علاوہ خاموشی اختیار کرنا ہمیشہ سے
علاوہ کا طریقہ رہا ہے۔

ایک حدیث شریف میں ہے:-

جب تم کسی آدمی کو دیکھو کہ اسے خاموشی اور زہد عطا
ہوا ہے تو اس کے قریب ہو جاؤ کیوں کہ اسے حکمت کی
تلقین کی جاتی ہے،

إِذَا رَأَيْتُمُ الرَّجُلَ قَدَّ أَدْرَقَ صَمْتًا
وَزُهْدًا فَاقْتَرِبُوا مِنْهُ فَإِنَّهُ يُفَقِّهُ
الْحِكْمَةَ - (۳)

کہا گیا ہے کہ عالم یا تو عوام کا عالم ہو گا اور وہ مفتی ہے یہ لوگ بادشاہوں کے ساتھی ہیں یا عالم خاص ہو گا وہ توحید اور قلبی امور
کا عالم ہوتا ہے ایسے لوگ علیحدہ اور تنہا رہتے ہیں۔

کہا جاتا تھا کہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ وجہ کی مثل تھے جس سے ہر شخص چٹو بھرتا ہے۔

حضرت بشر بن حارت بیٹھے اور ڈھانچے ہوئے کنوپی کی طرح تھے اس کا ارادہ ایک کے بعد دوسرا کرتا ہے اور وہ لوگ
کہا کرتے تھے کہ فلاں عالم ہے اور فلاں مسکلم ہے، فلاں زیادہ کلام کرتا ہے اور فلاں عمل زیادہ کرتا ہے۔

حضرت ابوسلیمان نے فرمایا مد معرفت، کلام کی نسبت، سکوت کے زیادہ قریب ہے۔ کہا گیا ہے کہ جب علم زیادہ
ہو جائے تو کلام کم ہو جاتا ہے اور جب کلام زیادہ ہو جائے تو علم کم ہو جاتا ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ

(۱) سنن ابن ماجہ ص ۲۹۵ باب کف اللسان فی الفتنہ (۲) قرآن مجید سورہ النسا آیت ۱۱۴

(۳) سنن ابن ماجہ ص ۱۱۱ باب الزهد فی الدنیا۔

نے حضرت ابودرداء رضی اللہ عنہ کو لکھا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے درمیان مواخات (بھائی چارہ) قائم فرمایا تھا ان (انہوں نے لکھا)

اسے بھائی! مجھے خبر ملی ہے کہ آپ طبیب بن کر مریضوں کا علاج کرتے ہیں۔ تو دیکھیں اگر آپ طبیب ہیں تو اس سلسلے میں کلام کریں آپ کے کلام میں شفاء ہوگی اور اگر آپ بشکلف طبیب ہو گئے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے ڈریں کسی مسلمان کو ہلاک نہ کریں اس کے بعد جب حضرت ابودرداء رضی اللہ عنہ سے سوال کیا جاتا تو آپ توقف فرماتے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے جب کوئی مسئلہ پوچھا جاتا تو فرماتے ہمارے آقا حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے پوچھیں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے کوئی سوال کیا جاتا تو فرماتے حضرت حارثہ بن زید سے پوچھو، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ سے پوچھو۔ ایک حکایت ہے کہ حضرت حسن بصری کی موجودگی میں ایک صحابی نے میں احادیث روایت کیں جب ان کی تفسیر پوچھی گئی تو فرمایا میں صرف روایت کا علم رکھتا ہوں حضرت حسن رحمہ اللہ نے ایک ایک حدیث کی وضاحت فرمائی تو حاضرین ان کی اس تفسیر اور حافظہ سے حیران رہ گئے ان صحابی نے کنکریوں کی ایک مٹھی لے کر ان لوگوں پر باری اور فرمایا مجھ سے علم کے بارے میں پوچھتے ہو حالانکہ یہ عظیم عالم موجود ہے۔ علمائے آخرت کی علامات میں سے ایک علامت یہ ہے کہ وہ باطنی علم دل کی حفاظت، طریق آخرت کی معرفت اور سلوک کا زیادہ اہتمام کرے اور مجاہدہ و مراقبہ کے ذریعے ان امور کی حقیقت واضح ہونے کے سلسلے میں سچی امید رکھے۔ کیوں کہ مجاہدہ، مشاہدہ تک پہنچاتا ہے اور قلبی علوم کی باریکیوں سے دل سے حکمت کے چشے پھوٹتے ہیں جہاں تک کتب اور تعلیم کا تعلق ہے تو وہ اس سلسلے میں کافی نہیں ہیں بلکہ مجاہدہ، مراقبہ اور ظاہری و باطنی اعمال سے وہ حکمت حاصل ہوتی ہے جو شمار سے باہر ہے۔ اور خلوت میں دل کی حاضری کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے بیٹھنے سے فکر میں صفائی پیدا ہوتی ہے اور ماسوی اللہ سے تعلق ٹوٹ جاتا ہے یہ کشف کا منبع اور الہام کی چابی ہے۔ کتنے ہی طالب علم میں جنہوں نے طویل عرصہ علم حاصل کیا لیکن جو کلمہ سنا تھا اس لیے آگے نہیں بڑھ سکے اور کتنے ہی ایسے ہیں جو حصول علم کا اہتمام کم کرتے ہیں لیکن عمل زیادہ کرتے ہیں اور دل کی نگرانی (مراقبہ) کرتے ہیں ان پر اللہ تعالیٰ حکمت کی وہ باریکیاں کھول دیتا ہے جس پر عقل مند لوگوں کی عقل ذگ رہ جاتی ہے، اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:-

مَنْ عَمِلَ بِمَا عَلِمَ وَكَرِهَ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا لَمْ يَعْلَمْ - (۱۲)

جس نے سیکھے ہوئے پر عمل کیا اللہ تعالیٰ اسے وہ علم عطا فرمادیتا ہے جو اس کو حاصل نہ تھا۔

گذشتہ کتب میں سے کسی کتاب میں ہے "اسے سچی اسرائیل ایہ نہ کہو کہ علم آسمان پر اسے زمین پر کون اتارے گا

(۱) صحیح بخاری جلد اول ص ۵۶۱ کیف اتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بہ اصحابہ - (۲) حلیۃ الاولیاء جلد اول ص ۵ ترجمہ احمد بن ابی الحواری۔

یا وہ زمین کی تہ میں ہے اسے ادھر کون لائے گا۔ نہ یہ کہ وہ سمندر کے اس طرف ہے کون سمندر کو عبور کر کے لائے گا علم تمہارے دلوں میں رکھ دیا گیا ہے، میرے سامنے رُوحِ دلوں کے آداب اختیار کرو میرے ساتھ صدیقین کے اخلاق برتو میں تمہارے دلوں میں علم کو ظاہر کر دوں گا حتیٰ کہ وہ تمہیں ڈھانپ لے گا۔

حضرت سہیل بن عبداللہ تستری رحمہ اللہ نے فرمایا دنیا سے علماء، عابد اور زہاد لوگ چلے گئے اور ان لوگوں کے دلوں پر نائے پڑے ہوئے ہیں صرف صدیقین اور شہداء کے دل کھلے ہیں، پھر انہوں نے آیت کریمہ تلاوت فرمائی :-
وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ۔ اور اس اللہ تعالیٰ کے پاس غیب کی چابیاں اور اسے من

(۱) وہی جانتا ہے (۲)

اگر یہ بات نہ ہوتی کہ اہل قلب کے دل کا ادراک باطنی نور سے ظاہر پرچاکم ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہ فرماتے۔
اُسْتَقْتِ قَلْبِكَ وَاِنْ اَفْتُوْكَ وَاَفْتُوْكَ
وَاَفْتُوْكَ (۳)
اپنے دل سے پوچھو اگرچہ لوگ تمہیں فتویٰ دیں رآخری جملہ
یہن بار فرمایا

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے نقل کرتے ہوئے فرمایا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے :-

لَا يَزَالُ الْعَبْدُ يَتَرَبَّأَىٰ إِلَىٰ مَا تَوَافَلَ حَتَّىٰ
أَحْبَبَهُ، فَإِذَا أَحْبَبْتَهُ كُنْتَ سَمْعَهُ الَّذِي
يَسْمَعُ بِهِ۔ (۴)

بندہ نوافل کے ذریعے مسلسل میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے
حتیٰ کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں جب میں اس محبت
کرتا ہوں تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا
ہے۔ رآخر تک حدیث (یعنی اس کے جسم میں اللہ تعالیٰ

روحانی قوت پیدا کر دیتا ہے مترجم ۲

تو قرآن پاک سے کتنے ہی باریک معانی ہیں جو ان لوگوں کے دلوں پر نازل ہوتے ہیں جو ذکر و فکر کے لیے علمیگی اختیار
کرتے ہیں ان معانی سے کتبِ تفاسیر خالی ہیں، اور نہ ہی بڑے بڑے مفسرین کو ان پر اطلاع ہوئی ہے جب یہ بات کسی
مردِ مراقبہ کرنے والے پر ظاہر ہوئی اور اس نے مفسرین کے سامنے پیش کی تو انہوں نے اس کی تحسین فرمائی۔ اور جان
یا کہ یہ پاک دلوں کی آگاہی، اور ان بلند ہمتوں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے جو اس کی طرف متوجہ ہیں علومِ مکاشفہ، علوم

(۱) قرآن مجید سورہ انعام آیت ۵۹

(۲) یعنی دوسروں کو اس کے بتائے بغیر علم نہیں ہوتا البتہ اس کے بتانے سے انبیاء کرام اور اولیاء عظام کو بھی یہ علم حاصل ہو

جاتا ہے اس پر قرآن پاک کی دیگر آیات اور احادیث دلالت کرتی ہیں ۱۲ ہزاروی

(۳) مستدام احمد بن حنبل جلد ۱ ص ۲۸۱ الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ (۴) صحیح بخاری جلد ۲ ص ۹۶۲ باب التواضع۔

معاملہ کے اسرار اور قلبی خطرات کی باریکیوں کا یہی معاملہ ہے ان میں سے ہر علم ایک سمندر ہے جس کی گہرائی کا ادراک نہیں ہو سکتا اس میں ہر طالب اپنے مفہوم حصے اور جس قدر حسن عمل کی توفیق عطا ہوئی ہے اس کے مطابق غوطہ لگاتا ہے۔

ان علماء کے اوصاف میں ایک طویل حدیث کے ضمن میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں۔ دل برتن ہیں اور ان میں سے بہترین وہ ہیں جن میں بھلائی موجود ہے اور لوگ تین قسم کے ہیں (۱) عالم ربانی (۲) نجات کے طور پر سیکھنے والا طالب علم (۳) اور کینے اور بیوقوف لوگ جو ہر بلائے والے کے پیچھے چلے جاتے ہیں۔ ہوا کا ہر جھونکا انہیں ادھر ادھر لے جاتا ہے وہ نور علم سے روشنی حاصل نہیں کرتے نہ مضبوط سہارا لیتے ہیں علم، مال سے بہتر ہے کیونکہ علم تیری حفاظت کرتا ہے اور تو مال کی حفاظت کرتا ہے علم خرچ کرنے سے بڑھتا ہے جب کہ مال خرچ کرنے سے کم ہو جاتا ہے علم ایک ایسا راستہ ہے جسے اختیار کیا جاتا ہے اس کے ذریعے تو زندگی میں اطاعت کمائی جاتی ہے اور وفات کے بعد ذکر خیر ہے۔ علم حاکم ہے اور مال محکوم، مال چلا جائے تو اس کا نفع بھی چلا جاتا ہے مال جمع کر لے والے سب مر گئے لیکن علماء زندہ ہیں جب تک زمانہ باقی ہے۔ پھر آپ نے ایک لمبا سانس لیا پھر سینے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا یہاں بہت زیادہ علم ہے کاش کوئی اسے لینے والا ہوتا لیکن میں ایسا طالب پانا ہوں جس پر اعتماد نہیں وہ آہ دین کو طلب دنیا کے لیے استعمال کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے نعمتوں کے ذریعے اس کے اولیاء پر زبانِ طعن دراز کرتا ہے اور لوگوں پر حجت بازی کرتا ہے یا وہ اہل حق کے سامنے جھکتا ہے لیکن شروع ہی سے شک اس کے دل میں جم جاتا ہے نہ اسے کوئی بصیرت ہے نہ اسے یا وہ لذات کا حرص اور طلب شہوت کا بندہ ہے یا وہ اپنی خواہش کے تابع ہو کر مال جمع کرتے میں معرور ہے وہ چرنے والے جانوروں کے زیادہ مشابہ نہیں یا اللہ! اس طرح علم ختم ہو جائے گا جب اس کے حاکمیں مرجائیں گے بلکہ اللہ تعالیٰ کی زمین ایسے لوگوں سے خالی نہ ہوگی جو اللہ تعالیٰ کے لیے حجت قائم کرنے والے ہیں یا تو وہ ظاہر واضح ہوں گے یا خوف زدہ مغلوب ہوں گے تاکہ اللہ تعالیٰ کی حجتیں اور دلائل باطل نہ ہو جائیں وہ جو بہت کم اور گنتی کے لوگ ہیں وہ کہاں ہیں؟ ان کی قدر و منزلت بہت زیادہ ہے ان کے وجود (باطاہر) مفقود ہیں لیکن دونوں میں ان کی تصویریں موجود ہیں ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنے دلائل کی حفاظت فرماتا ہے تاکہ وہ ان دلائل کو بعد والوں کے حوالے کریں اور اپنے جیسے لوگوں کے دلوں میں ڈال دیں۔ علم نے انہیں حقیقت امر تک پہنچا دیا چنانچہ وہ روح یقین سے جا ملے۔ جسے دولت مند مشکل جانتے تھے انہوں نے اسے آسان پایا اور غافل لوگ جس سے وحشت کرتے تھے اس سے انہوں نے انس پیدا کر دیا دنیا میں وہ ایسے بدلوں کے ساتھ ہیں جن کی روحیں محلِ اعلیٰ سے متعلق ہیں مخلوق خداوندی میں سے وہ اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں اس کی زمین میں امانت دار اور نائبین ہیں اور اس کے دین کی طرف بلائے والے ہیں پھر آپ رو پڑے اور فرمایا مجھے ان کے دیدار کا شوق ہے۔ تو آپ نے آخر میں جو کچھ بیان فرمایا یہ علمائے آخرت کا وصف ہے اور یہ وہ علم ہے جس کا اکثر حصہ محل اور دماغی مجاہدہ سے حاصل ہوتا ہے ان علماء کے اوصاف میں سے ایک یہ ہے کہ یقین کو مضبوط کرنے کی طرف ان کی توجہ

بہت زیادہ ہو، کیونکہ یقین دین کا اصل مال ہے۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:-

الْيَقِينُ الْوَيْمَانُ كُلُّهُ (۱)

یقین مکمل طور پر ایمان ہے۔

لہذا علم یقین کا سیکھنا ضروری ہے یعنی اس کی ابتدا سیکھے۔ پھر دل کے لیے اس کا راستہ کھل جائے گا اسی لیے

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:-

تَعَلَّمُوا الْيَقِينَ (۲)

یقین کا علم حاصل کرو۔

اس کا مطلب یہ ہے کہ یقین والوں کے پاس بیٹھو اور ان سے علم یقین کی سماعت کرو اور ہمیشہ ان کی پیروی کرو

تاکہ ان کی طرح تمہارا یقین بھی مضبوط ہو جائے تھوڑا یقین، زیادہ عمل سے بہتر ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دو آدمیوں

کے بارے میں پوچھا گیا ایک کا یقین اچھا تھا گناہ زیادہ تھے، دوسرے کا یقین کم تھا لیکن عمل میں زیادہ کوشش کرتا تھا۔ آپ

نے فرمایا:-

مَا مِنْ آدَمِيٍّ إِلَّا وَكَهُ ذُنُوبٍ - اس کوئی شخص نہیں جس کے کچھ نہ کچھ گناہ نہ ہوں (انبیاء

کرام مستثنیٰ ہیں)

(۳)

لیکن جس کو قوت عقلیہ حاصل ہو اور یقین اس کی عادت ہو اسے گناہ نقصان نہیں دیتے کیوں کہ وہ جب بھی گناہ کرے گا

توبہ کرے گا، بخشش طلب کرے گا اور نادم ہوگا تو یہ اس کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا اور کچھ نہ سچ جائے گا جس کے

ذریعے وہ جنت میں داخل ہوگا۔

اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:-

إِنَّ مِنْ أَقَلِّ مَا أُوتِيْتُمْ الْيَقِينَ وَعِدِيْمَةَ

الصَّبْرِ وَمَنْ أُعْطِيَ حَقَّهُ مِنْهُمَا لَمْ يَبَالِ

مَا فَاتَهُ مِنْ قِيَامِ اللَّيْلِ وَصِيَامِ

الْمَنَاهِ (۴)

کم از کم جو چیز تمہیں دی گئی ہے وہ یقین ہے اور صبر

پر سبب شگلی ہے جس آدمی کو ان دونوں میں سے حصہ ملا اگر

اس سے بات کا قیام اور دن کا روزہ فوت ہو جائے

تو کوئی پرواہ نہیں۔

حضرت نعمان علیہ السلام کی اپنے بیٹے کو وصیت میں یہ بات بھی تھی کہ اے بیٹے! یقین کے بغیر عمل کی طاقت حاصل

نہیں ہوتی۔ اور آدمی اپنے یقین کی مقدار کے مطابق عمل کرتا ہے اور عمل میں کوتاہی اسی وقت ہوتی ہے جب یقین میں کمی

(۱) العلل المتناہیۃ جلد ۲ ص ۲۳۱ (۲) حلیۃ الاولیاء ج ۶ ص ۹۵ ترجمہ تئیرین زبید۔

(۳) المطالب العالیہ ج ۳ ص ۱۵ (۴) قوت القلوب جلد اول ص ۱۹۲ شرح مقام الصبر و وصف الصابین

آجاتی ہے۔

حضرت یحییٰ بن معاذ رحمہ اللہ فرماتے ہیں بے شک توحید کے لیے نور اور شرک کے لیے آگ سے شرک کی آگ
مشرکین کی نیکیوں کو اس قدر نہیں جلاتی جتنا نور توحید موحیدین کے گناہوں کو جلا دیتا ہے اور اس سے ان کی مراد یقین
ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے کئی مقامات پر یقین کرنے والوں کے ذکر کی طرف اشارہ کیا ہے جو اس بات پر دلالت
ہے کہ نیکیوں اور سعادتوں کے لیے یقین رابطہ ہے اگر تم کہو کہ یقین کا کیا مطلب ہے؛ اسی طرح اس کی قوت اور
ضعف کا مفہوم کیا ہے؛ تو سب سے پہلے اسے سمجھنا اور پھر اس کی طلب اور سیکھنے میں مشغول ہونا ضروری ہے
کیونکہ جس کی صورت سمجھ نہ آئے اس کی طلب ممکن نہیں۔

توجان لولا لفظ یقین مشترک ہے دونوں فریق (فقہاء اور متکلمین) دو مختلف معانی پر اس کا اطلاق کرتے ہیں
مناظرہ باز اور متکلمین اس سے عدم شک مراد لیتے ہیں کیونکہ نفس کا کسی چیز کی تصدیق کی طرف میلان ہو تو اس کے چار
مقامات ہیں۔

۱۔ تصدیق و تکذیب برابر ہوا سے شک سے تعبیر کیا جاتا ہے جس طرح تم سے کسی معین شخص کے بارے میں پوچھا جائے
کہ اللہ تعالیٰ اسے عذاب دے گا یا نہیں؛ اور تم اس کے حال سے واقف نہ ہو تو تم اس کے بارے میں نفی یا اثبات
میں فیصلہ کرنے کی طرف مائل نہیں ہو گے بلکہ تمہارے نزدیک دونوں باتوں کا امکان برابر ہوگا اسے شک کہتے ہیں۔

۲۔ تمہارا نفس شعوری طور پر کسی ایک بات کی طرف مائل ہو لیکن اس کے مخالف مفہوم کا امکان بھی ہو، لیکن یہ امکان
پہلے مفہوم کی تزییح میں رکاوٹ نہ بنتا ہو، جیسا کہ تم ایک شخص کو جانتے کہ وہ متقی اور صالح ہے اور وہ اسی حالت پر مر گیا۔
اب تم سے پوچھا جائے کہ کیا اسے عذاب ہوگا؟ تو تمہارا دل عذاب ہونے کی نسبت عذاب نہ ہونے کی طرف زیادہ
مائل ہوگا کیونکہ نیکی کی علامات ظاہر ہیں اس کے باوجود تم اس کے باطن میں کوئی ایسا امر مان سکتے ہو جو عذاب کا باعث
ہو، تو یہ جواز اس میدان کے موافق ہے لیکن اس مفہوم کی تزییح کو ختم نہیں کر سکتا۔ اس حالت کو ظن کہتے ہیں۔

۳۔ نفس کسی چیز کی تصدیق کی طرف ایسا میلان رکھتا ہو کہ وہ نفس پر غالب آجائے اور دل میں کوئی دوسرا خیال نہ آئے
اور اگر کوئی دوسرا خیال آئے تو نفس اسے قبول کرنے سے انکار کر دے لیکن اس تصدیق کے ساتھ معرفت حقیقی نہ
ہو کیوں کہ اگر یہ شخص اچھی طرح غور کرے اور تشکیک کی طرف متوجہ ہو تو اس میں گنجائش ہوتی ہے تو یہ وہ اعتقاد ہے جو
یقین کے قریب ہے۔ تمام شرعی مسائل میں عوام کا اعتقاد یہی ہے کیونکہ محض سننے سے یہ ان کے دلوں میں راسخ ہو گیا حتیٰ کہ
ہر فرقہ اپنے مذہب کی صحت کا یقین رکھتا ہے اور اپنے امام و پیشوا کو صحیح سمجھتا ہے اگر ان میں سے کسی کے سامنے اس
کے امام کی خطا کا امکان بھی بیان کیا جائے تو اس کو قبول کرنے سے بھاگتا ہے۔

(۴)۔ حقیقی معرفت جو ایسی برہان کے ذریعے حاصل ہوتی ہے جس میں کوئی شک نہیں اور نہ شک کا تصور کیا جاسکتا ہے

زحمت اور اس کا امکان دونوں ممتنع ہوں تو ان حضرات کے نزدیک اسے یقین کہتے ہیں۔
 اس کی مثال یہ ہے کہ جب کسی عاقل سے کہا جائے کہ کیا ایسی چیز کا وجود ہے جو قدیم ہے تو اس کے لیے فوری طور پر کسی غور و فکر کے بغیر تصدیق کرنا ممکن نہیں کیونکہ قدیم غیر محسوس ہے وہ سورج اور چاند کی طرح نہیں کہ ان کے وجود کی تصدیق (آنکھ کی) جس کے ذریعے ہوتی ہے، اور کسی قیام ازلی چیز کے وجود کا علم ضروری (بدیہی) بھی نہیں جیسے اس بات کا علم کہ دو ایک سے زیادہ ہوتے ہیں۔ بلکہ اس بات کے علم کی طرح بھی نہیں کہ سبب کے بغیر کسی حادث کا پیدا ہونا محال ہے یہ بھی بدیہی بات ہے (کسی سوچ و بچار کے بغیر سمجھ میں آتی ہے) تو عقل سلیم کا تقاضا ہے کہ وہ قدیم چیز کے وجود کی تصدیق سوچ و بچار کے بغیر نہ کرے۔ پھر بعض لوگ یہ بات سنتے ہیں اور اس سماعت پر ہی پکی تصدیق کر دیتے ہیں اور اس پر ڈٹ جاتے۔ یہ اعتقاد ہے، اور یہ عوام الناس کی حالت ہے اور کچھ لوگ دلیل کے ساتھ تصدیق کرتے ہیں مثلاً یوں کہا جائے کہ اگر کوئی وجود قدیم نہیں تو تمام موجودات حادث ہوں گے، اور اگر تمام حادث ہیں تو کسی سبب کے بغیر حادث ہیں یا ان میں سے کچھ کسی سبب کے بغیر حادث ہیں اور یہ محال ہے اور محال تک پہنچانے والی چیز بھی محال ہوتی ہے تو عقلی طور پر کسی قدیم وجود کی تصدیق ضروری ہوگئی۔ کیونکہ (موجودات کی) تین اقسام ہو سکتی ہیں یا تو تمام موجودات قدیم ہوں یا تمام حادث ہوں یا بعض قدیم اور بعض حادث ہوں۔ تمام موجودات کا حادث ہونا محال ہے کیونکہ اس سے لازم آتا ہے کہ وہ کسی سبب کے بغیر پیدا ہو لہذا تیسری یا پہلی قسم ثابت ہوگی جو علم اس طریقے پر حاصل ہو وہ ان حضرات کے نزدیک یقینی ہوتا ہے۔

چاہئے وہ غور و فکر سے حاصل ہو جیسا کہ ہم نے ذکر کیا جو اس کے ذریعے حاصل ہو یا عقل سلیم کے ذریعے جیسے اس بات کا علم کہ حادث کا وجود کسی سبب کے بغیر محال ہے یا تو اتر کے ساتھ ثابت ہو جیسے مکہ مکرمہ کا علم، تجربہ کے ذریعے ہو۔
 جیسے اس بات کا علم کہ پکا ہوا ستھونیا (ایک بیل سے نکلنے والا دو دھاریہ بیل تین چار گریبی لمبی ہوتی ہے) دست آور ہے یا کسی دلیل کے ذریعے علم حاصل ہو جیسا کہ ہم نے ذکر کیا تو ان حضرات کے نزدیک یہ لفظ (یقین) عدم شک کے وقت بولا جاتا ہے اور جس علم میں شک نہ ہو اسے ان حضرات کے نزدیک یقین کیا جاتا ہے اس بنیاد پر یقین کو قوی یا ضعیف نہیں کہہ سکتے کیوں کہ نفی شک میں کوئی تفاوت نہیں ہوتا۔

دوسری اصطلاح یہ فقہاء کرام، صوفیاء و عظام اور اکثر علماء کرام کی اصطلاح ہے، وہ یہ ہے کہ اس میں جواز یا شک کی طرف دھیان نہ دیا جائے بلکہ عقل پر اس کے غلبہ کو دیکھا جائے۔ یہاں تک کہ کہا جاتا ہے فلاں آدمی کا فوت پر یقین کچھ کمزور ہے حالانکہ اس میں شک نہیں اور کہا جاتا ہے کہ رزق حاصل ہونے پر فلاں کا یقین قوی ہے اس کے باوجود ہو سکتا ہے اسے رزق نہ ملے۔ تو بعض اوقات نفس کسی چیز کی تصدیق کی طرف مائل ہوتا ہے اور یہ بات اس کے دل پر غالب ہو جاتی ہے حتیٰ کہ کسی امر کو جائز قرار دینے یا منع کرنے کے سلسلے میں یہی نفس پر کنٹرول کرتی اور حکم چلاتی ہے تو اس کا نام یقین ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ موت کے یقینی ہونے اور شک نہ ہونے میں سب لوگ مشترک ہیں لیکن ان میں سے بعض اس کی طرف توجہ

نہیں کرتے اور نہ اس کی تیاری کی طرف متوجہ ہوتے ہیں گویا کہ انہیں اس کا یقین ہی نہیں۔ لیکن ان میں سے بعض وہ ہیں جن کے دل پر اس (موت کے تصور) نے قبضہ کر رکھا ہے یہاں تک کہ ان کی تمام ہمت اس کی تیاری پر خرچ ہوتی ہے اور اس میں غیر کے لیے کوئی گنجائش نہیں رہتی اسی حالت کو قوت یقین کہتے ہیں لہذا اس اصطلاح کی بنیاد پر یقین کو ضعیف اور قوی کہا جاسکتا ہے۔ ہم نے جو یہ کہا ہے کہ علمائے آخرت کو اپنی توجہ یقین کے پختہ کرنے کی طرف مبذول کرنی چاہیے تو ہمارے نزدیک یہ دونوں مفہوم مراد ہیں یعنی شک کی نفی پھر نفس پر یقین کو مسلط کرنا تاکہ نفس پر اسی یقین کا غلبہ ہو وہی حکم اور تصرف کرے۔

جب تم نے یہ بات سمجھ لی تو تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے قول کا مطلب یہ ہے کہ یقین تین اقسام میں تقسیم ہوتا ہے قوت وضعف، کثرت و قلت، خفاء و ظہور،۔ قوت وضعف میں اس کی تقسیم دوسری اصطلاح کی بنیاد پر ہوتی ہے اور یہ دل پر غلبہ اور کنٹرول کے حوالے سے ہے۔

قوت وضعف کے اعتبار سے یقین کے معانی کے درجات بہت زیادہ ہیں اور موت کی تیاری کے سلسلے میں لوگوں میں یقین کا تفاوت بھی اسی اعتبار سے ہے پوشیدہ اور ظاہر ہونے کے اعتبار سے یقین میں تفاوت پہلی اصطلاح کے مطابق ہے اور اس کا بھی انکار نہیں کیا جاسکتا اور جس صورت میں جواز کا امکان آتا ہے تو اس کا بھی انکار نہیں کیا جاسکتا ہے اس سے دوسری اصطلاح مراد ہے۔ جس صورت میں شک کی نفی ہوتی ہے اس کا بھی انکار نہیں ہو سکتا مثلاً تم مکہ مکرمہ کی تصدیق اور باغ فدک کی تصدیق میں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وجود اور حضرت یوشع علیہ السلام کے وجود کی تصدیق میں فرق پاتے ہو لیکن اس کے باوجود دونوں باتوں میں شک نہیں ہو سکتا کیونکہ دونوں تواتر سے ثابت ہیں، لیکن تم دیکھتے ہو کہ تمہارے دل میں ایک، دوسرے کی نسبت زیادہ روشن اور واضح ہے، کیوں کہ ایک میں سبب زیادہ قوی ہے اور وہ خیر دینے والوں کی کثرت ہے اسی طرح جو نظریات معروف و لائل سے ثابت ہیں ان میں بھی دیکھنے والا فرق محسوس کرتا ہے۔

کیونکہ جن بات کے ظہور پر ایک دلیل ہو وہ اس کے برابر نہیں ہو سکتی جس پر بے شمار دلائل ہوں باوجودیکہ شک کی نفی میں دونوں برابر ہیں۔ یہ وہ بات کہ جو شکلیں کتب اور سماع کے ذریعے علم حاصل کرتے ہیں وہ اس کے منکر ہیں۔ اور وہ احوال کے اختلاف کی طرف رجوع نہیں کرتے یقین کی قلت و کثرت، متعلقات یقین کی کثرت کی وجہ سے ہوتی ہے جیسے کہا جاتا ہے کہ فلاں شخص، فلاں سے زیادہ علم رکھتا ہے یعنی اس کی معلومات زیادہ ہیں اسی لیے کبھی ایک عالم تمام شرعی مسائل میں قوی یقین کا حامل ہوتا ہے اور کبھی بعض مسائل میں اس کا یقین قوی ہوتا ہے۔

اگر تم کہو کہ میں یقین اور اس کی قوت وضعف، کثرت و قلت اور ظہور و خفاء کو سمجھ گیا ہوں کہ اس کا مطلب شک کی نفی ہے۔ یا دل پر اس کا کنٹرول اور غلبہ ہے لیکن یقین کے متعلقات اور جاری ہونے کی جگہوں سے کیا مراد ہے

اور کس چیز میں یقین طلب کیا جاتا ہے کیونکہ جب تک مجھے اس بات کا علم نہ ہو کہ یقین کس بات میں طلب کیا جاتا ہے میں اس کی طلب پر قادر نہیں ہو سکتا۔

تو جان لو کہ انبیاء کرام علیہم السلام اول سے آخر تک جو کچھ بھی لائے ہیں وہ یقین کے جاری ہونے کی جگہ ہیں، کیوں یقین معرفت مخصوصہ کا نام ہے اور اس کے متعلقات وہ معلومات ہیں جن کے ساتھ شریعت وارد ہوئی ہے لہذا ان کا احاطہ کرنے کی حرص نہیں کی جاسکتی البتہ میں بعض کی طرف اشارہ کروں گا جو ان سب کی اصل ہیں۔

ان میں سے ایک توحید ہے۔ اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ وہ تمام اشیاء کو مسبب الاسباب کی طرف سے سمجھے اور وسائل کی طرف متوجہ نہ ہو بلکہ وسائل تو خود مسخر ہیں ان کا ذاتی فیصلہ یا حکم نہیں چلتا۔ اس بات کی تصدیق کرنے والا یقین کرنے والا ہے اور اگر دل میں ایمان و یقین ہو اور شک کا امکان بھی نہ رہے تو وہ دو معنوں میں سے ایک کے اعتبار سے یقین کرنے والا ہوگا۔ اور اگر دل میں ایمان کے ساتھ ساتھ یقین کا اس طرح غلبہ ہو جائے کہ وسائل پر غصے یا ان پر راضی ہونا اور ان کا شکریہ ادا کرنا زائل ہو جائے بلکہ وہ اپنے دل میں وسائل کے بارے میں وہی خیال کرے جو انعام دینے والے کے دستخط کے وقت ہاتھ اور قلم کا مقام ہے تو وہ ظلم اور ہاتھ کا شکریہ ادا نہیں کرتا اور نہ اسے ان پر غصہ آتا ہے بلکہ وہ ان دونوں کو ایسا کہ سمجھتا ہے جو اس کے قابو میں دیئے گئے ہیں نیز انہیں ایک واسطہ سمجھتا ہے۔ تو یہ دوسرے معنی کے اعتبار سے موقن (یقین کرنے والا) شمار ہوتا ہے۔ اور یہ افضل ہے یہ پہلے یقین کا نتیجہ، روح اور فائدہ ہے۔

اور یہ جب بات ثابت ہو جائے کہ سورج، چاند، ستارے، جمادات نباتات، حیوانات بلکہ تمام مخلوق اسی طرح اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہے جس طرح قلم، کاتب کے ہاتھ میں مسخر ہے، اور قدرت ازلی ہی سب کی بنیاد اور منبع ہے اس وقت اس کے دل پر ٹوکھل، رونا اور تسلیم کا غلبہ ہو جاتا ہے اور یہ ایسا مومن موقن ہوتا ہے جو غضب، کینے، حسد اور برے اخلاق سے پاک ہو جاتا ہے تو یہ یقین کا ایک دروازہ ہے۔

اس بات پر سختہ یقین رکھنا کہ ہمارا رزق اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے ارشاد خداوندی ہے۔

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا (۱)

اور زمین میں کوئی چلنے والی چیز نہیں مگر اس کا رزق اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے۔

اور اس بات پر یقین رکھنا کہ وہ رزق اس کے پاس آئے گا اور جو کچھ اس کے مقدر ہیں ہے منقریب اس تک پہنچے گا۔ اور جب یہ بات اس کے دل پر غائب ہو جائے گی تو وہ اچھی طریقے پر طلب کرے گا نہ اس کی حرص زیادہ ہوگی اور نہ ہی اسے اس کے فوت ہونے پر افسوس ہوگا۔ یہ یقین بھی کچھ عبادات اور اچھے اخلاق کا فائدہ دیتا ہے۔

یقین کے متعلقات ہیں سے ایک یہ ہے کہ اس کے دل میں یہ عقیدہ پکا ہو کہ

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، وَمَنْ
يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ (۱)

جو شخص ایک ذرہ کے برابر نیکی کرتا ہے وہ اسے دیکھ لے
گا۔ اور جو آدمی ایک ذرہ کے برابر بُرائی کرتا ہے وہ بھی

راسن کا انجام اسی دیکھ لے گا۔

ۛ ۛ ۛ

یعنی اسے ثواب اور عذاب کا یقین ہو یہاں تک کہ وہ نیکیوں کی ثواب کی طرف نسبت کو اس طرح سمجھے جس طرح روٹی کی شکم سیری سے نسبت ہے اور گناہ کو عذاب سے وہ نسبت ہے جو زہر اور سانپوں کی ہلاکت کے ساتھ ہے تو جس طرح وہ شکم سیری کے لیے روٹی حاصل کرنے کی حرص رکھتا ہے اور قلیل و کثیر کی حفاظت کرتا ہے اسی طرح وہ نیکیوں پر حرص ہونا چاہیے وہ کم ہوں یا زیادہ اور جس طرح وہ زہر سے بچتا ہے چاہے کم ہو یا زیادہ ایسی طرح وہ تھوڑے اور زیادہ چھوٹے اور بڑے تمام گناہوں سے پرہیز کرے پہلے معنی کے اعتبار سے یقین عام مومنوں میں پایا جاتا ہے لیکن دوسرے معنی کے اعتبار سے یہ مقررین کے ساتھ خاص ہے اس یقین کا فائدہ یہ ہے کہ انسان حرکات و سکنات اور خطرات کو اچھی طرح نظر میں رکھتا ہے اور جب یقین غالب ہوتا ہے تو وہ گناہوں سے بہت زیادہ پرہیز کرتا ہے۔

یقین کے متعلقات ہیں سے ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تیری ہر حالت پر مطلع ہے وہ تیرے دل و سوسوں اور خفیہ خطرات کو دیکھ رہا ہے پہلی اصطلاح کے مطابق ہر مومن اس بات کا یقین رکھتا ہے یعنی اس میں شک نہیں کرتا۔ لیکن دوسرا معنی جو مقصود ہے اور وہی عزیز ہے یہ صدیقین کے ساتھ خاص ہے اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان تنہائی میں بھی اپنے تمام امور میں با ادب رہے۔ جیسے وہ شخص جو بہت بڑے بادشاہ کے سامنے بیٹھا ہو اور وہ اسے دیکھ رہا ہو، وہ مسلسل گردن جھکائے اپنے تمام اعمال میں ادب کا مظاہرہ کرنے والا ہوتا ہے۔ اور جو حرکت ادب کے خلاف ہو اس سے اجتراز کرتا ہے وہ ظاہری اعمال کی طرح باطنی اعمال کی بھی فکر کرتا ہے کیوں کہ یہ بات ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے باطن پر بھی اسی طرح مطلع ہے جس طرح اسے اس کے ظاہر پر اطلاع ہے پس وہ اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے باطن کی آبادی، اس کی پاکیزگی اور تزیین میں جس قدر مبالغہ کرتا ہے اس قدر اپنے ظاہر کو لوگوں کے لیے مزین نہیں کرتا۔ یقین کا یہ مقام حیا، خوف، انکساری، عابدی مسکت خضوع اور عہد اخلاق پیدا کرتا ہے۔

اور یہ اچھے اخلاق سے کئی قسم کی بلند مرتبہ طاقتوں کا موجب ہیں۔ تو ان تمام امور میں سے ہر کام میں یقین ایک درخت کی طرح ہے اور یہ اخلاق دل میں اس درخت سے نکلنے والی شاخوں کی طرح ہیں اور ان اخلاق سے نکلتے والے یہ اعمال اور عبادات ان پھلوں اور شگوفوں کی طرح ہیں جو ان ٹہنیوں سے پھوٹتے ہیں۔

(۱) قرآن مجید سورہ زلزال آیت ۷، ۸

تو یقین اصل اور زیادہ ہے اور اس کے متعلقات اور اس سے منسوب اور ہماری اس گنتی سے بھی زیادہ ہیں، نجات نجات دینے والے امور کے بیان میں ان کا ذکر آگے گا انشاء اللہ۔ فی الحال اس لفظ کے معنی میں اتنی مقدار کافی ہے۔ عالم آخرت کی علامات میں سے یہ بھی ہے کہ وہ ٹھگیں رہے، انکساری کے ساتھ سر جھکائے خاموش رہے اس کے رہے، لباس، سیرت، حرکت و سکون، بولنے اور خاموش رہنے سے اس کی خشیت کا پتہ چلے۔ اسے دیکھنے والا دیا ایسے شخص کو دیکھ رہا ہے جس کے دیکھنے سے خدا یاد آ جاتا ہے، اس کی صورت، اس کی عمل کی دلیل ہو اور اس کا ماہر، باطن کی پہچان کے لیے کافی ہو علمائے آخرت، سکون اور تواضع میں اپنی پیشانیوں سے سچانے جاتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ جو سب سے بہتر لباس پہناتا ہے وہ باوقار فروتنی کا لباس ہے یہ انبیاء کرام کا لباس ہے صالحین، صدیقین و علماء، خاض طور پر اسی میں ملہوس ہیں۔

لیکن زیادہ گفتگو کرنا اور گنتیوں میں تکلیف برتنے ہوئے فصاحت کا اظہار کرنا، ہر وقت ہنسنے رہنا، حرکات اور گفتگو میں زبی پیدا کرنا یہ تکبر کی علامات ہیں۔ بے خوف اور غافل رہنا اللہ تعالیٰ کے بہت بڑے عذاب اور سخت ناراضگی کا عبت ہے۔ یہ دنیا دار لوگوں کا طریقہ ہے جو اللہ تعالیٰ سے غافل ہیں علماء کرام کا طریقہ نہیں اور یہ اس لیے کہ علماء کی جن قسمیں ہیں جیسے حضرت سہیل تستری رحمہ اللہ نے فرمایا ایک وہ جو اللہ تعالیٰ کے امر کو جاننے والا ہوتا اس کے ایام کو نہیں جانا، یہ علماء جلال و حرام کے بارے میں فتویٰ دیتے ہیں اس علم سے سخت خدا پیدا نہیں ہوتا دوسری قسم کے علماء وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کا علم رکھتے ہیں اس کے اوامر و ایام کا علم نہیں رکھتے یہ عام مومن ہیں تیری قسم میں وہ علماء کرام شامل ہیں جو اللہ تعالیٰ اس کے امر اور ایام کا علم رکھتے ہیں یہ صدیقین ہیں۔

ان لوگوں پر خشیت اور خشوع غالب ہوتا ہے ایام اللہ سے پوشیدہ سزائیں اور باطنی نعمتیں مراد ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ نے پہلے اور پچھلے لوگوں کو مرحمت فرمائی ہیں۔ جس آدمی کا علم اس چیز کا احاطہ کر لے اس سے خون عظیم اور خشوع ظاہر ہوگا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا "علم حاصل کرو، اور علم کے لیے وقار اور بردباری سیکھو، جن سے تم سیکھتے ہیں ان کے لیے تواضع اختیار کرو اور جو تم سے سیکھتے ہیں وہ تمہارے لیے تواضع اختیار کریں، تنکبر علماء میں سے نہ ہو جانا کہ تمہارا علم، تمہاری جہالت کے برابر بھی نہ ہو۔"

کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے کو علم دیتا ہے تو اس کے ہاتھ بردباری، تواضع حسن اخلاق اور نرمی بھی عطا فرماتا ہے یہ علم نافع ہے۔

ایک روایت میں ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے علم، زہد، تواضع اور حسن خلق عطا فرمایا وہ متقین کا امام ہے، حدیث شریف میں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

إِنَّ مِنْ أُمَّتِي قَوْمًا يَنْجُوْنَ جَهَنَّمَ مِنْ

میری امت کے اچھے لوگوں میں سے ایک طبقہ وہ ہے کہ

سَمِعَهُ رَحْمَةً اللّٰهِ، وَيَبْكُونَ سِرًّا مِّنْ
خَوْفِ عَذَابِهِ، اَبَدًا اِنَّهُمْ فِي الْاَرْضِ
وَقُلُوبُهُمْ فِي السَّمَاءِ اَرْوَاهُمْ فِي الدُّنْيَا
وَعَقُولُهُمْ فِي الْاٰخِرَةِ، يَتَمَشَّوْنَ بِالسُّكَيْنَةِ
وَيَنْفَرُ بَوْنٌ بِالْوَسِيْلَةِ (۱)

وہ اللہ تعالیٰ کی وسیع رحمت کے باعث ظاہرًا مانتے ہیں
(خوش ہوتے ہیں) اور اس کے عذاب کے خوف سے
چھپ کر روتے ہیں ان کے جسم زمین پر ہیں اور ان کے دل آسمان
پر ہیں، ان کی ارواح دنیا میں ہیں اور ان کی عقل آخرت میں،
وہ وقار کے ساتھ چلتے ہیں اور وسیلے کے ساتھ قرب
خداوندی حاصل کرتے ہیں۔

حضرت حسن فرماتے ہیں بردباری، علم کا وزیر ہے، نرمی اس کا پاپ اور تواضع اس کا لباس ہے۔

حضرت بشر بن حارث فرماتے ہیں جس نے علم کے ذریعے حکومت تلاش کی تو اللہ تعالیٰ کا تقرب اس سے بعض رکھتا ہے
اسرائیلی روایات میں ہے کہ ایک حکیم نے حکمت کے بارے میں تین سو ساٹھ کتابیں لکھیں حتیٰ کہ حکیم کے نام سے موصوف ہو گیا،
اللہ تعالیٰ نے ان زمانے کے نبی کی طرف وحی بھیجی کہ فلاں آدمی سے فرما دیں تم زمین بھر خرچ کر دو لیکن کسی چیز کے ساتھ میری
رضا جوئی کی اہمیت نہ کرو تو میں تمہارے اس خرچ سے کچھ بھی قبول نہیں کروں گا۔ پناچہ وہ شخص پشیمان ہوا یہ کام چھوڑ دیا اور
عام لوگوں میں گھل مل گیا بازاروں میں چلنے لگا، بنی اسرائیل کے ساتھ کھانے پینے لگا اور اپنے نفس میں عاجزی کو اختیار کیا
اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ آپ اس سے فرمادیں کہ اب تجھے میری رضا کی توفیق حاصل ہوتی۔

حضرت اوزاعی، حضرت بلال بن سعد سے نقل کرتے ہیں وہ فرماتے تھے کہ تم میں کوئی ایک کسی سپاہی کو دیکھتا ہے تو
اس سے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنا چاہتا ہے لیکن وہ دنیا دار عماد کو دیکھتا ہے جو لوگوں کے لیے بناوٹ سے کام لیتے ہیں اور اقدار
کا شوق رکھتے ہیں تو ان کو براہین سمجھا حالانکہ سپاہی کے مقابلے میں ان کو برا سمجھنا زیادہ مناسب ہے۔

ایک روایت میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا گیا۔

یا رسول اللہ! کونسا عمل افضل ہے؟ آپ نے فرمایا عام
کاموں سے بچنا، اور تمہاری زبان ہر وقت اللہ تعالیٰ کے ذکر
سے تر رہنی چاہیے۔ پوچھا گیا کونسے ساتھی بہتر ہیں؟
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا ساتھی کہ جب تو
اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے تو وہ تیری مدد کرے اور اگر تو بھول
جائے تو وہ تجھے یاد دلائے۔ عرض کیا گیا کونسا ساتھی

يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَيُّ الْعَمَلِ اَفْضَلُ؟ قَالَ
اجْتِنَابُ الْمَحَارِمِ، وَتَذِكْرُ اللّٰهِ تَعَالَى قِيْلَ: فَاَيُّ
الْاَصْحَابِ خَيْرٌ؟ قَالَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ: صَاحِبٌ اِنْ ذَكَرْتَ اللّٰهَ اَعَانَكَ
وَإِنْ نَسِيْتَهُ ذَكَرَكَ قِيْلَ: فَاَيُّ الْاَصْحَابِ

میرا ہے آپ نے فرمایا جب تو اللہ تعالیٰ کا ذکر بھول جائے
تو وہ تجھے یاد نہ دلائے اور جب تجھے یاد ہو تو وہ تیری
مدرت کرے۔ عرض کیا گیا، کون شخص زیادہ علم رکھتا ہے؟ آپ
نے فرمایا جو اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ ڈرتا ہے، عرض کیا
گیا ہمیں بتائیے کہ ہم میں سے کون لوگ اچھے ہیں تاکہ ہم ان
کی مجلس اختیار کریں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ
لوگ جن کو دیکھنے سے خدا یاد آجائے۔ عرض کیا گیا کون لوگ
بڑے ہیں؟ آپ نے بارگاہ خداوندی میں عرض کیا یا اللہ!
بخش دے۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ! ہمیں بتائیے۔
فرمایا علماء جب خراب ہو جائیں (۱)۔ (تو وہ بڑے لوگ ہیں)

تَسْرُّ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صَاحِبٌ
إِنْ نَسِيتَ لَمْ يَذْكُرْكَ، وَإِنْ ذَكَرْتَ
لَمْ يُعِينِكَ، قِيلَ: فَأَيُّ النَّاسِ أَعْلَمُ؟ قَالَ:
أَشَدُّهُمْ لِلَّهِ حَشِيَّةً قِيلَ: فَأَخْبَرْنَا
بِخِيَارِنَا نَجَّالِسَهُمْ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ: الَّذِينَ إِذَا رُوُوا ذَكَرَ اللَّهُ قِيلَ: فَأَيُّ
النَّاسِ شَرُّ؟ قَالَ: اللَّهُمَّ غَفِرًا. قَالُوا
أَخْبَرْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: الْعُلَمَاءُ
إِذَا فَسَدُوا - (۱)

قیامت کے دن وہ لوگ زیادہ امن میں ہوں گے جو
دنیا میں زیادہ فکر کرتے ہیں اور آخرت میں زیادہ خوش وہ
لوگ ہوں گے جو دنیا میں زیادہ روتے ہیں آخرت میں
وہ لوگ زیادہ خوش ہوں گے جو دنیا میں بہت زیادہ
نغمین رہتے ہیں۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:-
وَإِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ أَمَانًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَكْثَرُ
هُمْ فِكْرًا فِي الدُّنْيَا، وَأَكْثَرَ النَّاسِ ضِحْكًَا
فِي الْآخِرَةِ أَكْثَرُهُمْ بَكَاءً فِي الدُّنْيَا، وَأَشَدُّ
النَّاسِ فَرَحًا فِي الْآخِرَةِ أَطْوَلُهُمْ
حُزْنًَا فِي الدُّنْيَا - (۲)

حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے اپنے خطبہ میں فرمایا یہ میرا ذمہ ہے اور میں اس بات کا ضامن ہوں کہ تقویٰ کی موجودگی
میں کسی قوم کی (عمل کی) کھینچی خشک نہیں ہوگی اور ہدایت کی صورت میں اس کی جڑ پیاہنی نہ ہوگی لوگوں میں سے زیادہ جاہل
وہ شخص ہے جو اپنی قدر نہیں پہچانتا، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے ناپسندیدہ شخص وہ ہے جو ہر جگہ سے علم جمع کر کے
فتنے کی تاریکیوں میں شب خون مارے اس جیسے رزق لوگوں نے اس کا نام رکھا ہوا ہے حالانکہ وہ ایک دن بھی علم میں
جمع سالم زندگی نہیں گزارتا۔ صبح سویرے ہی وہ زیادہ جمع کرتا ہے اس میں جو کم ہے اور کفایت کرتا ہے وہ اس سے بہتر
ہے۔

(۱) کتاب الزهد والرفائق ص ۱۰۱

نوٹ اس حدیث کے الفاظ مختلف مقامات سے لئے گئے ہیں ۱۲ ہزاروی

(۲) تہذیب الغالیین ص ۱۰۱ باب التفکر

جو زیادہ سے اور بے کار ہے۔ جب وہ بدبودار پانی پی کر سیراب ہوتا ہے اور بے فائدہ امور کی کثرت کرتا ہے تو لوگوں کا معلم بن کر بیٹھ جاتا ہے تاکہ جو امور دوسروں پر مشتبہ ہیں وہ انہیں حل کرے۔ اور جب اس کے سامنے کوئی مبہم بات آتی ہے تو اس کے لئے اپنی رائے سے ایک لغویاں بنا لیتا ہے، وہ شہادت کو دور کرنے میں مگڑی کے جالے میں ہونے کی طرح ہے وہ نہیں جانتا کہ اس نے خطا کی یا ٹھیک کہا، بہت سی جہالتوں کا سوار ہے اور بے عقلی کی بے تکلی باتیں کرتا ہے جو کہ نہیں جانتا اس سے عذر پیش نہیں کرتا تاکہ سچ جائے اور نہ علم کو مضبوطی سے پکڑتا ہے کہ غنیمت پائے خون (ناحق) بھی اس سے ہوتے ہیں اس کے فیصلے سے زنا حامل ہو جاتا ہے، اس کے سامنے جو سوال پیش ہوا اس کا جواب نہیں دے سکتا۔ اور جو کچھ اسے سونپا جائے اس کا وہ اہل نہیں ہے وہ لوگ ہیں جن کے لیے سزائیں ہیں اور زندگی بھران پر رونا اور نوحہ کرنا جائز ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا جب تم علم بنو تو خاموش رہو اسے بیورہ باتوں میں نہ ملاؤ کیوں کہ دل اس کو قبول نہیں کرتے بعض بزرگوں نے فرمایا جب عالم ہنستا ہے تو وہ علم کی کلی کرتا ہے، اور کہا گیا ہے کہ اگر استاذ میں تین باتیں ہوں تو ان کے ذریعے متعلم پر نعمت کامل ہو جاتی ہے،

(۱) صبر (۲) تواضع (۳) اچھے اخلاق۔ اور جب متعلم میں تین باتیں ہوں تو ان کے ذریعے معلم پر نعمت کامل ہو جاتی ہے۔
(۱) عقل (۲) ادب (۳) اور اچھی سمجھ۔ خلاصہ یہ ہے کہ قرآن پاک میں جن اخلاق کا ذکر آیا ہے علماء آخرت ان سے لگ نہیں ہو سکتے۔ کیوں کہ وہ قرآن پاک کو عمل کے لیے سیکھتے ہیں حکومت حاصل کرنے کے لیے نہیں۔

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا ہم نے ایک زمانہ گزارا ہے ہم میں سے ہر ایک کو قرآن سے پہلے ایمان دیا جاتا جب قرآن پاک کی کوئی سورت نازل ہوتی تو اس کے حلال و حرام، اوامر اور نواہی کو سیکھ لیتا۔ اور اس میں جہاں توقف کرنا مناسب ہوتا اس کا علم بھی حاصل کر لیتا اور میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا ان میں سے ایک کو ایمان سے پہلے قرآن ملتا ہے تو وہ سورہ فاتحہ سے آخر تک پڑھتا ہے۔ اسے معلوم نہیں کہ اس میں کس کام کا امر ہے اور کس سے روکا گیا ہے، اور کہاں توقف کرنا چاہیے وہ اسے ناکارہ کھجوروں کی طرح بکھیرتا ہے ایک دوسری روایت میں اس جیسا مفہوم منقول ہے۔
اور ہم اصحاب رسول کو قرآن مجید سے پہلے ایمان دیا گیا جب کہ تمہارے بعد کچھ ایسے لوگ آئیں گے جنہیں ایمان سے پہلے قرآن دیا جائے گا،

وہ اس کے حروف کو قائم رکھیں گے اور اس کی حدود و حقوق کو ضائع کر دیں گے وہ کہیں گے ہم نے پڑھا تو کون ہم سے بڑا فاری ہے اور ہم نے سیکھا تو ہم سے بڑا عالم کون ہے، ان کا حصہ اسی قدر ہے، اور بعض روایات میں یوں ہے کہ وہ اس راست کے بڑے لوگ ہیں۔

کہا گیا کہ پانچ اخلاق جو قرآن پاک کی پانچ آیات سے سمجھے جاتے ہیں علمائے آخرت کی علامات ہیں سے ہیں۔
خشیت، خشوع، تواضع، حسن اخلاق اور آخرت کو دنیا پر ترجیح دینا یعنی زہد۔

خشیت اس آیت سے ثابت ہوتی ہے۔
 إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ (۱)

» بے شک اللہ تعالیٰ سے اس کے بندوں میں سے
 علماء ہی ڈرتے ہیں «

شروع اس آیت سے سمجھا جاتا ہے۔
 خَا شِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا
 قَلِيلًا (۲)

» وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے لئے جھکنے والے ہیں اس کی آیات
 کے بدلے قھوڑی قیمت نہیں لیتے «

تواضع کا اس آیت سے پتہ چلتا ہے۔

وَ اخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ (۳)

اور اپنے پہلوؤں کو مومنوں کے لیے جھکا دیں «

حسن اخلاق اس آیت سے ثابت ہے۔

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ (۴)

اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ان کے لیے نرم دل ہو گئے «

زہد کا مفہوم اس آیت سے معلوم ہوتا ہے۔

وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيَلَكُمْ ثَوَابُ

اور جن لوگوں کو علم دیا گیا وہ کہتے ہیں تمہارے لیے ہلاکت ہو
 اللہ تعالیٰ کی طرف سے ثواب اس شخص کے لیے بہتر ہے جو
 ایمان لایا اور اس نے اچھے کام کئے۔

اللَّهِ خَيْرٌ لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ - (۵)

جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی۔

اور جس آدمی کو اللہ تعالیٰ ہدایت دینا چاہتا ہے اس کے
 سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔

فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ

لِلدِّينِ (۶)

عرض کیا گیا، یہ کھولنا کیسا ہے؟ آپ نے فرمایا جب دل میں نور ڈالا جاتا ہے تو اس کے لیے سینہ کھل جاتا ہے اور
 کشادہ ہو جاتا ہے،

عرض کیا گیا کہ کیا اس کی کوئی نشانی ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں دھوکہ کے گھر (دنیا) سے دور رہنا
 اور دائمی گھر کی طرف رجوع کرنا اور موت کے آنے سے پہلے اس کے لیے تیاری کرنا (۷)

(۱) قرآن مجید سورہ فاطر آیت ۲۸ (۲) قرآن مجید سورہ آل عمران آیت ۱۹۹ -

(۳) قرآن مجید سورہ حجر آیت ۸۸ (۴) قرآن مجید سورہ آل عمران ۱۵۹ -

(۵) قرآن مجید سورہ قصص آیت ۸۰ (۶) قرآن مجید سورہ انعام آیت ۱۲۵ (۷) المستدرک للحاکم جلد ۴ ص ۳۱۱ کتاب الرقاق -

علمائے آخرت کی علامات میں سے ایک علامت یہ ہے کہ اس کی اکثر بحث علم الاعمال اور ان چیزوں کے بارے میں ہو جو چیزیں اعمال کو فاسد کرتی دل کو پریشانی کرتی و سوسے پیدا کرتی اور شر بھیلاتی ہیں کیوں کہ دین کی اصل برائی سے بچنا ہے۔

اسی لئے کہا گیا ہے کہ بدی کو محض بدی ہونے کی وجہ سے نہیں بلکہ اس سے بچنے کے لیے بچان، اور جو آدمی برائی کو نہیں بچاتا وہ اس میں پڑ جاتا ہے۔ نیز وہ اعمال جو فعلی ہیں وہ آسانی میں ان میں سے عظیم بلکہ اعلیٰ دل اور زبان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے اور نشان تو ان چیزوں کو بچاتے میں ہے جو دل کو خراب اور پریشان کرتی ہیں اس کے شعبے زیادہ اور فروغ زیادہ ہیں، اور آخرت کے راستے پر چلنے میں ان کی زیادہ ضرورت پڑتی ہے اور عام لوگ اس میں مبتلا ہیں جہاں تک دنیا دار علماء کا تعلق ہے تو وہ حکومت اور فیصلوں کی نادر تقریبات کے پیچھے پڑتے ہیں اور ایسی صورتوں میں گھرنے میں مشقت برداشت کرتے ہیں جو کئی زمانوں تک وقوع پذیر نہ ہوں اور اگر ہوں بھی تو ان کے لیے نہیں بلکہ دوسروں کے لیے ہوں اور جب وہ واقع ہوں تو ان کے بتانے والے بے شمار لوگ موجود ہوں۔

اور وہ ان باتوں کو چھوڑ دیتے ہیں جو ہر دم ان کے ساتھ ہیں اور رات کی گھڑیوں اور دن کے اطراف میں بار بار ان کے دلوں، دوسروں اور اعمال میں واقع ہوتی ہیں، اور وہ شخص نیک بنتی سے کس قدر دور ہے جو دوسرے کی نادر مہم کے بدلے اپنی اس جہم کا سودا کرتا ہے جو اسے لازم ہے اور یوں وہ اللہ تعالیٰ کے قرب پر مخلوق کے قرب کو ترجیح دیتا ہے، اسے اس بات کی غرض ہوتی ہے کہ اہل دنیا میں سے باطل پرست اسے فاضل محقق اور باریک مسائل کا عالم کہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے یہ بدلہ ملتا ہے کہ اسے دنیا میں مخلوق کی طرف سے قبولیت کا نفع حاصل نہیں ہوتا بلکہ مصائب زمانہ سے اس کی زندگی بکتر ہو جاتی ہے۔ پھر قیامت کے دن مفلس ہو کر آئے گا اور جب عمل کرنے والوں کا نفع، اور مقربین کی کامیابی دیکھے گا تو کہتے افسوس ملتا ہوگا۔ یہی واضح نقصان ہے۔

حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کا کلام، انبیاء کرام کے کلام سے زیادہ مشابہ تھا، اور ان کی سیرت، صحابہ کرام کی سیرت سے بہت زیادہ ملتی جلتی تھی۔ ان کے بارے میں اس بات پر اتفاق ہے ان کا عام وعظ دلوں کے خطرات، فساد اعمال، نفس کے دوسروں اور نفسانی خواہشات کی پوشیدہ دقیق صفات کے بارے میں ہوتا تھا، ان سے پوچھا گیا کہ اسے ابو سعید! آپ ایسی گفتگو کرتے ہیں جو آپ کے علاوہ کسی سے سنی نہیں گئی آپ نے یہ کہاں سے حاصل کی فرمایا حضرت حدیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ سے، حضرت حدیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا ہم دیکھتے ہیں کہ آپ ایسا کلام کرتے ہیں جو کسی دوسرے صحابی سے نہیں سنا جاتا آپ نے اسے کہاں سے حاصل کیا انہوں نے فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے خصوصی طور پر عطا فرمایا ہے،

دوسرے صحابہ کرام بھلائی کے بارے میں پوچھتے تھے میں برائی کے بارے میں سوال کرتا تھا۔ میں اس بات کا

خوف رکھتا تھا کہ کہیں برائی میں نہ پڑ جاؤں۔ اور میں جانتا تھا کہ بھلائی کا علم مجھ سے سبقت نہیں کر سکتا (یعنی مجھے حاصل ہو جائے گا) میں جانتا تھا کہ جو شخص برائی کی پہچان نہیں رکھتا وہ نیکی کو بھی پہچان نہیں سکتا،

دوسری حدیث کے الفاظ اس طرح ہیں کہ صحابہ کرام عرض کرتے تھے یا رسول اللہ! فلاں کو کیا ہوا کہ وہ فلاں فلاں عمل کرتا ہے۔ وہ آپ سے فضائل اعمال کے بارے میں پوچھتے تھے اور میں کہتا تھا یا رسول اللہ! فلاں فلاں عمل کو کونسی چیز خراب کرتی ہے جب آپ نے مجھے اعمال کی آفات سے متعلق سوال کرتے دیکھا تو مجھے اس علم کے ساتھ خاص (روایہ ۱)

حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ منافقین کے بارے میں معلومات کے ساتھ بھی خاص تھے نفاق، اس کے اسباب و رفتوں کی باریکیوں سے متعلق علم کی معرفت میں آپ کا انفرادی مقام تھا۔ حضرت عمر فاروق حضرت عثمان غنی اور دیگر یہ سب القدر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ان سے عام و خاص فتوں کے بارے میں پوچھتے تھے۔ اور منافقین کے بارے میں بھی پوچھتے تھے، آپ ان کو بتاتے کہ اتنے منافق باقی رہ گئے ہیں لیکن ان کے نام نہیں بتاتے تھے۔

حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ان سے اپنے بارے میں بھی پوچھتے تھے کہ کیا ان میں منافقت ہے؟ تو وہ ان کی برأت کا اظہار کرتے تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو جب کسی کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے بلایا جاتا تھا تو آپ دیکھتے اگر حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ وہاں موجود ہوتے تو نماز جنازہ پڑھانے ورنہ چھوڑ دیتے آپ کو صاحب سیر (رازدان) کہا جاتا تھا۔ مقامات، قلب اور احوال پر توجہ رکھنا علمائے آخرت کا طریقہ ہے کیوں کہ قرب الہی کی طرف سعی کرنے والا دل ہی تو ہے، اب یہ فن نادر و نایاب ہو گیا اب اگر کوئی عالم اس میں سے کسی چیز کے درپے ہوتا ہے تو لوگوں کو تعجب ہوتا ہے اور وہ سے بعید جانتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ یہ تو واعظین کا کلام کو مزین کرنا ہے تحقیق کہاں ہے۔ ان کے نزدیک تحقیق تو صرف جھگڑے کی باتوں (مناظروں) میں ہے کسی شاعر نے سچ کہا ہے۔

راتے مختلف ہیں لیکن حق کا بلاستہ ایک ہی ہے اور اس راستے پر چلنے والے بھی یکساں و منفرد ہوتے ہیں نہ ان کو کوئی جاتا ہے اور نہ ان کے مقاصد کا کوئی پتہ چلتا ہے وہ آرام میں ہیں اور وہ اس راستے کا قصد کر کے چلتے ہیں جس سے لوگ غافل ہیں کیونکہ لوگوں کی اکثریت حق کے راستے سے غافل ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ اکثر لوگ آسان بات اور اس چیز کی طرف میلان رکھتے ہیں جو ان کی طبیعتوں کے موافق ہو، کیوں کہ حق سزا دہن والا ہے اس سے واقفیت حاصل کرنا مشکل اور اس کا پانا نہایت سخت ہے اور اس کا راستہ خصوصاً دل کی صفات کی معرفت اور اسے بری عادت سے پاک کرنا بہت مشکل ہے، یہ تو ہمیشہ جانکنی کی حالت ہوتی ہے اور جو شخص اس

کے درپے ہوتا ہے وہ درائی پینے والے کی طرح ہوتا ہے جو شفاء کی امید پر درائی کی کڑواہٹ پر صبر کرتا ہے یا وہ اس شخص کی طرح ہے جو زندگی بھر روزہ رکھتا اور تکالیف برداشت کرتا ہے تاکہ وہ مرنے پر عید منائے۔ پس ایسے طریقے کی طرف رغبت کیسے ہو سکتی ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ بصرہ میں ایک سو حضرات وعظ و تذکیر کرنے والے تھے لیکن علم یقین احوال قلوب اور باطنی صفات پر گفتگو کرنے والے صرف تین آدمی تھے، ان میں سے ایک حضرت ہبل قسری، دوسرے صبیحی اور تیسرے حضرت عبدالرحیم تھے۔ ان لوگوں کے پاس ایسے شمار لوگ بیٹھتے تھے اور ان (بزرگوں کے پاس ٹھوٹے سے لوگ ہوتے تھے بہت کم دس (کی تعداد) سے تجاوز کرتے کیوں کہ نفیس اور عمدہ چیز کے اہل خاص لوگ ہوتے ہیں اور جو کچھ عوام کو دیا جاتا ہے وہ آسان ہوتا ہے۔

علماء آخرت کی علامات میں سے ایک یہ ہے کہ علوم پر ان کا اعتماد بطور بصیرت اور دل کی صفائی کے ساتھ ہو، صحیفوں اور کتابوں پر اعتماد نہ ہو، اور نہ اس بات کی تقلید پر جو دوسرے سے سُن رکھی ہو، تقلید تو صرف صاحب شریعت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے (۱)

یعنی آپ کے حکم اور اقوال پر عمل کیا جائے، صحابہ کرام کی تقلید بھی اسی انداز میں کرے کہ ان کے افعال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سماعت پر دلالت کرتے ہیں پھر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال کو قبول کرتے ہوئے آپ کی تقلید کرے تو اس کے اسرار سمجھنے پر حریص بن جائے۔ کیوں کہ مقلد یہ کام اس لیے کر رہا ہے کہ صاحب شریعت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا ہے اور آپ کے فعل میں ضرور کوئی راز ہوگا۔ لہذا اعمال و اقوال کے اسرار خوب تلاش کرے کیوں کہ اگر وہ سنی ہوئی بات کو یاد کرنے پر ہی اکتفا کرے تو علم کا برتن ہو جائے گا عالم نہیں ہوگا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے فلاں شخص، علم کے برتنوں میں سے ہے، لہذا جب تک وہ حکمتوں اور اسرار پر مطلع نہ ہو بلکہ صرف حفظ ہی اس کا کام ہو تو اسے عالم نہیں کہتے۔ جو شخص اپنے دل سے پردے کو ہٹا دیتا ہے اور نور ہدایت سے منور ہوتا ہے تو اس کی اتباع اور تقلید کی جاتی ہے لہذا اسے (اس درجہ میں) کسی دوسرے کی تقلید نہیں کرنی چاہیے۔ اسی لیے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ ہر شخص کے علم سے کچھ لیا جاتا ہے اور کچھ چھوڑا جاتا ہے (۲)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فقہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے اور قرأت حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ

(۱) امام عزالی رحمہ اللہ اس تقلید کی مخالفت نہیں فرما رہے جو فقہ میں ائمہ دین کی تقلید ہوتی ہے کیونکہ بڑے بڑے بزرگ مقلد ہو گئے ہیں درحقیقت یہ تقلید بھی سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کیونکہ ائمہ کی فقہ قرآن و سنت سے حاصل کر رہے ہیں بلکہ یہ تیار ہے ہیں کہ خود علم حاصل کیا جائے گو یا حصول علم کی ترغیب ہے ۱۲ ہزار وی۔

(۲) المعجم الکبیر للطبرانی جلد ۱ ص ۲۳۹

سے سیکھی تھی پھر انہوں نے فقہ اور قرأت میں ان دونوں سے اختلاف بھی کیا۔

بعض بزرگوں نے فرمایا جو کچھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے وہ ہمارے سر آنکھوں پر (قبول ہے) اور جو کچھ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے منقول ہے ہم اس سے کچھ لیں گے اور کچھ چھوڑ دیں گے اور جو کچھ تابعین سے ہم تک پہنچا ہے تو وہ بھی آدمی ہیں اور ہم بھی۔

صحابہ کرام کو اس لیے فضیلت دی گئی کہ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات مبارکہ کے قرائن کا مشاہدہ کیا اور جو امور قرائن سے معلوم ہوئے ان کے ساتھ ان (صحابہ کرام) کے دل متعلق تھے وہ لوگ اسی لیے راہ راست پر تھے کیوں کہ روایت اور عبارت میں مشاہدہ کا دخل نہیں ہوتا ان پر نور نبوت کا فیضان اس قدر تھا کہ وہ اکثر خطا سے محفوظ رہتے تھے۔ اور جب دوسرے سے سنی ہوئی بات پر اعتماد کرنا ناپذیرہ تقلید ہے تو کتب اور تصانیف پر اعتماد اس سے بھی بعید ہے۔ بلکہ یہ کتب اور تصانیف بعد میں وجود میں آئیں صحابہ کرام کے زمانے اور تابعین کے ابتدائی دور میں نہیں تھیں یہ ہجرت کے ایک سو بیس سال بعد اس وقت جب تمام صحابہ کرام اور جلیل القدر تابعین انتقال کر چکے تھے مثلاً حضرت سفید بن مسیب حسن بصری اور دیگر اکابر تابعین کے وصال کے بعد تالیف ہوئی ہیں بلکہ پہلے لوگ تو احادیث لکھنا اور کتب تصنیف کرنا ناپذیرہ خیال کرتے تھے تاکہ لوگ ان احادیث کے حفظ، قرآن پاک اور اس میں غور و فکر اور اس کے سمجھنے سے غافل ہو کر ان (تصانیف) میں ہی مشغول نہ ہو جائیں۔ انہوں نے فرمایا اس طرح یاد کرو جس طرح ہم یاد کرتے تھے اسی لیے حضرت ابو بکر صدیق اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے قرآن پاک کو ایک مصحف میں جمع کرنا مناسب نہ سمجھا، اور انہوں نے فرمایا کہ ہم وہ کام کیسے کریں جسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا۔ انہیں اس بات کا خدشہ تھا کہ لوگ کہیں مصاحف پر بھروسہ نہ کر بیٹھیں۔ انہوں نے فرمایا کہ قرآن پاک کو اسی طرح چھوڑ دیا جائے کہ لوگ ایک دوسرے سے تلقین اور پڑھانے کے ذریعے حاصل کریں۔ تاکہ ان کا یہی شغل اور مقصود رہے حتیٰ کہ حضرت عمر فاروق اور بعض دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے قرآن پاک لکھنے کا مشورہ دیا اس خوف سے کہ کہیں لوگ سستی اور عدم تعاون کی وجہ سے اسے چھوڑ نہ دیں اور اس بات سے بچتے ہوئے کہ کہیں اس میں جھگڑا نہ ہو جائے اور کوئی ایسی اصل نہ ملے کہ متشابہات میں کسی کلمے یا قرات کے سلسلے میں اس کی طرف رجوع کیا جاسکے تو اس کے لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا سینہ کھل گیا چنانچہ آپ نے ایک مصحف میں قرآن پاک کو جمع کر دیا۔

حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ موطا امام مالک کی تصنیف کے سلسلے میں حضرت امام مالک پر اعتراض کیا کرتے تھے اور فرماتے تھے انہوں نے وہ کام شروع کیا جو صحابہ کرام نے بھی نہیں کیا تھا، کہا گیا کہ اسلام میں سب سے پہلی کتاب جو تصنیف ہوئی وہ ابن جریج کی کتاب ہے جس میں آثار اور وہ تفاسیر ہیں جو حضرت عطاء، حضرت مجاہد اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے دوسرے شاگردوں سے منقول ہیں یہ کتاب

کہ مکرمہ میں تصنیف ہوئی پھر یمن میں معمر بن راشد صنعانی کی کتاب تصنیف ہوئی جس میں وہ روایات ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہیں پھر مدینہ طیبہ میں حضرت امام مالک بن انس رحمہ اللہ کی موطا اور اس کے بعد حضرت سفیان ثوری کی جامع تصنیف ہوئی۔

پھر پچھلی صدی میں علم کلام میں کتابیں لکھی گئیں۔ اور جنگ و جدل اور مقالات کو باطل کرنے میں غور و خوض ہونے لگا اس کے بعد لوگ اس کی طرف نیز قصہ گوئی اور وعظ کی طرف مائل ہوئے۔ اس زمانے میں علم یقین مٹنے لگا۔ اس کے بعد صفات نفس اور شیطان کے مکر و فریب کے بارے میں دریافت کرنا ایک عجیب بات ہو گئی۔ سوائے چند لوگوں کے باقی سب نے اس سے منہ پھیر دیا اور اب منکلم جھگڑا کرنے والے عالم کہلانے لگا وہ قصہ گو جو مستمع بخارا سے اپنے کلام کو مزین کرتا تھا وہ بھی عالم شمار ہونے لگا۔ کیونکہ عوام ہی ان کو سننے والے ہوتے ہیں، اور انہیں حقیقتِ علم اور اس کے غیر میں تمیز نہیں ہوتی،

نیز صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے حالات زندگی بھی ان کے سامنے نہیں تھے کہ وہ ان کے نسبت سے فرق معلوم کرنے تو ایسے لوگوں پر علماء کا نام جاری ہو گیا اور پہلوں سے پھلوں تک یہ لقب منقل ہوتا رہا۔ آخرت کا علم لپیٹ دیا گیا اور سوائے خاص افراد کے باقی لوگوں نے علم اور کلام کے درمیان فرق پوشیدہ ہو گیا جب ان سے پوچھا جاتا کہ فلاں کے پاس زیادہ علم ہے یا فلاں کے پاس؟

تو کہتے فلاں کے پاس علم زیادہ ہے اور فلاں، کلام میں اس سے بڑھا ہوا ہے خواص لوگ علم، اور کلام پر قدرت کے درمیان فرق کتنے تھے گذشتہ صدیوں میں اسی طرح دین کمزور ہوتا پیدا کیا تو اب اس زمانے کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ اور اب معاملہ یہاں تک پہنچ گیا ہے کہ اگر کوئی کلام وغیرہ کا انکار کرے تو اسے پاگل کہا جاتا ہے لہذا زیادہ بہتر یہی ہے کہ انسان اپنی ذاتی اصلاح میں مشغول ہو جائے اور خاموشی اختیار کرے۔

عالمِ آخرت کی ایک علامت یہ ہے کہ وہ بدعات سے بہت زیادہ اجتناب کرے اگرچہ اس پر تمام لوگوں نے اتفاق کر لیا ہو صحابہ کرام کے بعد لوگوں کے بدعات پر اتفاق سے دھوکہ نہ کھائے بلکہ صحابہ کرام کے حالات اور ان کی سیرت و اعمال کی دریافت میں حریص ہو نیز معلوم کرے کہ ان کی ہمت کن باتوں میں معروف تھی۔ کیا وہ تدریس، تصنیف، مناظرہ، قضا، حکمرانی، اوقات اور وصیتوں کی تولیت، بیٹیوں کا مال کھانے، بادشاہوں سے ملاقات میں مصروف رہتے تھے یا خوفِ خدا، اندوہ و غم، تفکر، مجاہدہ، ظاہر و باطن کی نگرانی، چھوٹے اور بڑے گناہوں سے اجتناب، نفس کی خفیہ خواہشات اور شیطان کے مکر و فریب کی دریافت وغیرہ علوم باطن میں مصروف رہتے تھے۔

اور قطعی طور پر یہ بات بھی جان لو کہ اس زمانے میں زیادہ علم والا اور حق کے قریب وہی شخص ہے جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے زیادہ مشابہ اور بزرگوں کے راستے کا زیادہ علم رکھتا ہے کیوں کہ دین ان ہی لوگوں سے لیا گیا ہے اسی لیے

حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے جب عرض کیا گیا کہ آپ نے فلاں کی مخالفت کی ہے تو آپ نے فرمایا ہم نے اس دین کی پیروی کی ہے۔ عرض یہ ہے کہ اگر تم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے لوگوں کی موافقت کر رہے ہو تو اپنے زمانے کے لوگوں کی مخالفت کی پرواہ نہ کرو کیونکہ لوگوں نے اپنی طبیعتوں کے میدان کے مطابق ایک رائے قائم کر لی ہے اور ان کا نفس اس اعتراض کو برداشت نہیں کرتا کہ یہ طریقہ جنت سے محرومی کا باعث ہے تو وہ اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ اس کے سوا جنت کا کوئی راستہ نہیں۔ اسی لیے حضرت حسن بصری رحمہ اللہ نے فرمایا۔

اسلام میں دو نئے آدمی پیدا ہو گئے۔ ایک وہ شخص جو بری رائے رکھتا ہے اور اس کا خیال ہے کہ جنت اسی کو ملے گی جس کی رائے اس کے موافق ہوگی۔ اور دوسرا مال دار جو دنیا کا پجاری ہے اسی کے لیے اسے غصہ آتا ہے اسی کے لیے راضی ہوتا ہے اور اسی کو طلب کرتا ہے ان دونوں کو جہنم کے طرف چھوڑ دو ایک آدمی اس دنیا میں دو آدمیوں کے درمیان صحیح کرتا ہے ایک مالدار ہے جو اسے اپنی دنیا کی طرف بلاتا ہے دوسرا خواہش کا پجاری ہے جو اسے اپنی خواہش کی دعوت دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اسے ان دونوں سے بچایا۔

یہ اپنے نیک بزرگوں کا مشاق ہے ان کے افعال کے بارے میں پوچھتا ہے ان کے نشانات پر چلتا ہے اور جبر عظیم کا طالب ہے تم بھی اسی طرح ہو جاؤ۔

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے موقوفاً اور مسنداً مروی ہے انہوں نے فرمایا وہ دو چیزیں ہیں ایک کلام ہے اور دوسری سیرت، بہترین کلام، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور بہترین سیرت، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے سنو! بدعات سے بچو، بے شک سب سے بڑے امور بدعات ہیں۔

اور سیر (خلاف سنت) نیا کام بدعت ہے اور ہر بدعت (خلاف سنت کام) گمراہی ہے، سنو! اپنی عمر کو زیادہ طویل نہ سمجھو تمہارے سخت ہو جائیں گے سزا جو رکھ آئے والا ہے وہ آئے گا اور قریب ہے اور جو بید ہے وہ آئے والا نہیں۔ (۱)

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبہ مبارک میں ہے (اپنے فرمایا)

طُوبَى لِمَنْ لَعَنَ شَعْلَهُ عَيْبَةً عَنْ عِيُوبِ النَّاسِ
وَأَنْقَى مِنْ مَالِهِ كَتَبَهُ مِنْ غَيْرِ مَعْصِيَةٍ،
وَخَالَطَ أَهْلَ الْفِقْهِ وَالْحِكْمِ وَجَانِبَ
أَهْلِ الزَّلِيلِ وَالْمَعْصِيَةِ، طُوبَى لِمَنْ ذَلَّ

اس شخص کے لیے خوشخبری ہے جسے اس کے عیوب
پر نظر نے دوسروں کی عیب جوئی سے پھیر دیا جس
نے ایسے مال سے خرچ کیا جو کسی گناہ کے بغیر لکھا، اس
نے اہل فقہ و حکمت کے ہاتھ میل جول رکھا، ٹھکنے والے

فِي نَفْسِهِ وَحَسَنَتْ خَلِيقَتَهُ، وَرَكَعَتْ
 مَسِيرَتًا، وَعَدَلَ عَنِ النَّاسِ سَبْرًا، طَرِيقًا
 لِمَنْ عَمِلَ بِعِلْمِهِ وَأَنْفَقَ الْفَضْلَ مِنْ
 مَالِهِ وَأَمْسَكَ الْفَضْلَ مِنْ قَوْلِهِ، وَوَسَّعَتْهُ
 السَّنَةُ وَلَمَّعَتْهَا إِلَى بَدْعَةٍ - (۱)

اور گناہ کے مرتکب لوگوں سے الگ رہا اس شخص کے لیے
 خوشخبری ہے جس نے تواضع اختیار کی تو اچھی عادات کو اپنایا
 اپنے باطن کی اصلاح کی اور لوگوں کو اپنے شر سے بچایا، اسی
 شخص کے لیے خوشخبری ہے جس نے اپنے علم پر عمل کیا اپنا
 (ضرورت سے) زائد مال خرچ کیا اور اپنے زائد قول کو
 بچا کر رکھا سنت نے اسے اپنے تک محدود کرایا اور بدعت
 تک نہ جانے دیا۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے تھے آخری زمانے میں اچھی سیرت کثرت اعمال سے بہتر ہوگی، اور فرمایا کہ تم
 ایسے زمانے میں ہو کہ اس میں اچھے لوگ (نیک) امور میں جلدی کرتے ہیں، اور عنقریب اپنا زمانہ آئے گا کہ اس دور کا اچھا
 آدمی کثرت شہادت کی وجہ سے توقف کرے گا، اور واقعی انہوں نے سچ فرمایا اس زمانے میں جو شخص توقف نہیں کرتا
 اور عام لوگوں کی موافقت کرتا ہے اور جن امور میں وہ مشغول ہیں انہی میں مشغول ہوتا ہے تو وہ ان کی طرح تباہ و برباد ہوگا۔
 حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس پر تعجب سے کہ تمہارے دور کی نیکی گذشتہ زمانے کی بڑائی تھی اور تمہارے
 زمانے کی بڑائی آنے والے زمانے میں نیکی بن جائے گی۔ اور تم جب تک حق کی پہچان رکھو گے بھلائی پر رہو گے اور
 تمہارے دور کا عالم حق نہیں چھپائے گا۔

انہوں نے سچ فرمایا اس زمانے کی اکثر نیکیاں صحابہ کرام کے زمانے میں منکرات شمار ہوتی تھیں ہمارے زمانے
 میں مساجد کی زینت اور انہیں آراستہ کرنا اور عمارتوں کے باریک کاموں میں بہت زیادہ مال خرچ کرنا اور ان میں قیمتی پتھروں
 بچھانا نیکی تصور کیا جاتا ہے حالانکہ اس دور میں مسجد میں چٹائی بچھانا بھی بدعت شمار ہوتا تھا اور کہا گیا کہ یہ حجاج بن یوسف
 کی بدعات سے ہے پہلے لوگ اپنے اور مٹی کے درمیان بہت کم رکاوٹ ڈالتے تھے۔ اسی طرح رفیق مسائل پر جھگڑنا اور
 مناظرے کرنا اس زمانے کے بڑے بڑے علوم میں شمار ہوتا ہے اور ان لوگوں کا خیال ہے کہ یہ قرب خداوندی کا بہت
 بڑی ذریعہ اور عظیم عبادت ہے۔ حالانکہ پہلے زمانے میں یہ منکرات میں شمار ہوتا تھا قرآن پاک اور اذان میں سخن کرنا بھی
 انہی بدعات سے ہے یعنی عمدے بچے میں پڑھنا، پاکیزگی میں مبالغہ کرنا اور طہارت میں وسوسہ کرنا بھی اسی بدعت سے ہے
 کپڑوں کی نجاست کے بارے میں اسباب بعیدہ فرض کئے جاتے ہیں حالانکہ خوراک کے حلال و حرام ہونے کے سلسلے
 میں سستی برتی جاتی ہے۔ اور اس قسم کی دوسری باتیں ہیں۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے سچ فرمایا جب ارشاد فرمایا کہ تم اس زمانے میں ہو جس میں خواہش علم کے تابع ہے اور عقرب ایسا زمانہ اُسے گا جس میں علم، خواہش کے تابع ہو جائے گا۔

حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے تھے ان لوگوں نے علم کو چھوڑ دیا اور عجیب و غریب باتوں میں مشغول ہو گئے ان میں علم کس قدر کم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی مدد فرمائے والا ہے۔

حضرت امام مالک بن انس رحمہ اللہ فرماتے ہیں گذشتہ زمانے کے لوگ ان امور کے بارے میں نہیں پوچھتے تھے جس طرح آج کل لوگ پوچھتے ہیں اور علماء کرام بھی یہ نہیں کہتے تھے کہ یہ حرام ہے اور یہ حلال۔ بلکہ میں نے ان کو یوں پایا کہ وہ فرماتے تھے یہ مستحب ہے اور یہ مکروہ۔ مطلب یہ ہے کہ وہ کرامت اور استحباب کی باریکیوں کو دیکھتے تھے کیونکہ حرام کی برائی تو واضح ہے، حضرت ہشام بن عروہ رضی اللہ عنہ فرماتے تھے ان لوگوں سے ان بدعات کے بارے میں نہ پوچھو جو انہوں نے گھڑی میں کیونکہ انہوں نے اس کا جواب تیار کر رکھا ہے ان سے سنت کے بارے میں پوچھو کیوں کہ یہ اسے نہیں جانتے۔

حضرت ابو سلیمان دارانی فرماتے تھے جس شخص کے دل میں کوئی اچھی بات ڈالی گئی وہ اس پر اس وقت تک عمل نہ کرے جب تک اس کے مطابق حدیث سے سن نہ لے۔ پھر جب اس کے دل میں پیدا ہونے والی بات کے موافق ہو تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ انہوں نے یہ بات اس لیے فرمائی کہ جو نئی آراء آتی ہیں وہ کانوں کو کھٹکھٹاتی اور دلوں سے معلق ہو جاتی ہیں اور بعض اوقات دل کی صفائی مشکوک ہوتی ہے اس وجہ سے وہ باطل کو حق سمجھنے لگتا ہے لہذا احتیاط کا تقاضا ہے کہ روایات کی شہادت سے اس کو ظاہر کہا جائے یہی وجہ ہے کہ جب مروان نے عید کی نماز کے موقع پر عید گاہ میں منبر رکھا تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اٹھ کھڑے ہوئے اور فرمایا اسے مروان یہ کیا بدعت ہے؟ اس نے کہا یہ بدعت نہیں بلکہ یہ تمہارے معلومات کے مقابلے میں بہتر ہے کیونکہ لوگ زیادہ ہو گئے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ ان سب تک آواز پہنچے، حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ کی قسم! جو میرے علم کے مطابق تم کبھی بھی اچھا کام نہیں کرو گے، اور قسم سچا! میں آج کے دن تمہارے پیچھے نماز نہیں پڑھوں گا انہوں نے یہ اعتراض اس لیے کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عید اور نماز استسقاء کے خطبہ میں کمان پالاٹھی پر ٹیک لگاتے تھے۔ منبر پر نہیں۔ (۱)

مشہور حدیث میں ہے۔

مَنْ أَحَدَتْ فِي دِينِنَا مَا كَيْسَ وَشَهْرٌ
فَهُوَ دَرْسٌ - (۲)

”جس نے ہمارے دین میں ایسا کام جاری کیا جو دین سے نہیں تو وہ کام مردود ہے“

(۱) مجمع الزوائد جلد ۲ ص ۱۹۹ باب السلاج فی العید (۲) مسند احمد بن حنبل ج ۶ ص ۲۱۹

ایک دوسری روایت میں ہے۔

مَنْ عَشَّ أُمَّتِي فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ
وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ
وَمَا عَشَّ أُمَّتَكَ؟ قَالَ أَنْ يُبْتَدِعَ بِدَعَاةٍ
يُحِبُّهَا النَّاسُ عَلَيْهَا (۱)

جس نے میری امت سے دھوکہ کیا اس پر اللہ تعالیٰ،
اس کے فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہے عرض کیا گیا یا
رسول اللہ! امت کے ساتھ دھوکہ دیا کھوٹا کیا ہے
آپ نے فرمایا وہ یہ کہ کوئی بدعت جاری کرے لوگوں کو اس
کی ترغیب دینا۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

إِنَّ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مَلَكًا يُنَادِي كُلَّ يَوْمٍ
مَنْ خَالَفَ سُنَّةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ لَمْ تَنْلُهُ شَفَاعَتُهُ (۲)

اللہ تعالیٰ کا ایک فرشتہ ہر دن پکارتا ہے جس نے رسول
اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت کی اسے آپ
کی شفاعت سے حصہ نہیں ملے گا۔

دین میں ایسی بدعت جاری کرنے والا جو سنت کے مخالف ہو وہ شخص گناہ کرنے والے کے مقابلے میں اس طرح
ہے جیسے کسی بادشاہ کی حکومت کو بد کرنے میں اس کی نافرمانی کرنے والے مقابلے میں وہ شخص ہے جو کسی مقررہ خدمت میں
اس کی نافرمانی کرتا ہے کیونکہ اس کی معافی ہو سکتی ہے لیکن جو شخص حکومت کو بد کرنے کی کوشش کرتا ہے اس کے لیے
معافی نہیں۔

بعض علماء نے فرمایا کہ جس مسئلے میں اسلاف نے گفتگو کی ہے اس میں خاموشی اختیار کرنا ظلم ہے اور جس میں انہوں
نے خاموشی اختیار کی اس میں گفتگو کرنا تکلف ہے۔ ایک دوسرے عالم نے فرمایا حتی بات گراں ہے جس نے اس
سے تجاوز کیا وہ ظالم ہے اور جس نے اس میں کوتاہی کی وہ عاجز ہے، اور جس نے اس پر توقف کیا وہ کفایت کرتا ہے
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا درمیانے راستے کو لازم پکڑو جس کی طرف بلند جانے والا لوٹ آئے اور چھپے رہنے والا
اس کی طرف بلندی اختیار کرے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا گمراہ لوگ اپنے دلوں میں گمراہی کی علامت محسوس کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد
فرماتا ہے ان لوگوں کو چھوڑ دو جنہوں نے اپنے دین کو کھیل کود بنا لیا ہے۔

(۱) کنز العمال - ج ۱ ص ۲۲۱-۲۲۲

(۲) قوت القلوب - ج ۱ ص ۱۴۴ باب تفضیل علم الایمان والیقین۔

ارشاد خداوندی ہے :-

اَقْمِنُ زَيْنًا كَمَا سُوِّبَ بِحَمَلِهِ قَرَأًا حَسَنًا ۝
 ”تو کیا وہ شخص جسے اس کا برا عمل اچھا لگتا ہے تو وہ
 اسے اچھا سمجھتا ہے۔“

تو صحابہ کرام کے بعد جو بھی نیا عمل شروع ہوا اور وہ ضرورت و حاجت سے زائد ہے تو وہ لہو و لعب سے ہے۔
 ابلیس لعین کے بارے میں حکایت ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے زمانے میں اس نے اپنے لشکر کو ادھر ادھر پھیلانا
 جب وہ پریشان حال تھکے ماندے واپس آئے تو اس نے پوچھا نہیں کیا ہوا؟ انہوں نے کہا ہم نے ان لوگوں کی طرح نہیں
 رکھا ہمیں ان سے سوائے تھکاوٹ کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا اس نے کہا تم ان پر قابو نہیں پاسکتے انہوں نے اپنے نبی صلی
 اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی ہے اور اپنے رب کی طرف سے نزول قرآن کا مشاہدہ کیا ہے البتہ ان کے بعد کچھ لوگ
 آئیں گے جن سے تمہاری حاجت پوری ہوگی، جب تابعین کا زمانہ آیا تو اس نے اپنے لشکروں کو ادھر ادھر بھیجا، وہ
 شکستہ حال واپس آئے اور کہا کہ ہم نے ان سے زیادہ تعجب خیز لوگ نہیں دیکھے ہم ان کے گناہوں کے سبب کچھ نہ کچھ
 حصہ حاصل کر لیں گے جب شام کا وقت ہوا تو انہوں نے (تابعین) سے اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب شروع کر دی تو اللہ تعالیٰ
 نے ان کی برائیوں کو نیکیوں میں بدل دیا۔

شیطان نے کہا تم ان سے بھی کچھ حاصل نہیں کر سکتے کیونکہ ان کا عقیدہ توحید صحیح ہے اور یہ اپنے نبی کی سنت پر چلتے
 ہیں۔ البتہ ان کے بعد کچھ لوگ آئیں گے ان سے تمہاری آنکھوں کو ٹھنڈک حاصل ہوگی۔ تم ان کے ساتھ کھیلنا، اور ان کی خواہشات
 کی نگام پکڑ کر جہاں چاہے سے جانا وہ بخشش طلب کریں گے تو ان کی بخشش نہیں ہوگی اور وہ توبہ بھی نہیں کریں گے کہ
 اللہ تعالیٰ ان کی برائیوں کو نیکیوں میں بدل دے راوی فرماتے ہیں۔

پہلی صدی کے بعد ایک قوم آئی تو اس نے شیطان نے ان میں خواہشات پھیلادیں اور بدعات کو ان کے لیے مزین
 کر دیا چنانچہ انہوں نے ان کو حلال سمجھا اور دین بنا لیا وہ ان سے اللہ تعالیٰ کی بخشش نہیں مانگتے اور توبہ کرتے ہیں لہذا ان
 پر دشمن (شیطان) غالب ہو گئے اب وہ جہاں چاہتے ہیں انہیں لے جاتے ہیں۔

اگر تم کہو کہ اس قائل کو کہاں سے معلوم کہ ابلیس نے یہ بات کہی ہے حالانکہ اس نے نہ تو ابلیس کو دیکھا اور نہ
 ہی اس سے گفتگو کی۔

تو جان لو کہ اہل دل پر ملکوت (بادشاہی) کے راز منکشف ہوتے ہیں کبھی بطور ابہام ان کے دل میں ڈالے جاتے ہیں
 اور انہیں معلوم تک نہیں ہوتا کبھی سچے خواب کے ذریعے اور کبھی بیداری میں ان کے معانی مثالوں کے مشاہدے کے

(۱) قرآن مجید سورہ فاطر آیت نمبر ۱۷

ذریعے واضح کئے جاتے ہیں جیسا کہ خواب میں ہوتا ہے اور یہ سب اعلیٰ درجہ سے اور یہ نبوت کا بلند درجہ ہے جیسے سچا خواب نبوت کا چھبالیسواں حصہ ہے۔

تو تمہیں اس علم کے انکار سے بچنا چاہیے جو تیری ناقص عقل کی حد سے پار ہو گیا اس سلسلے میں مہارت کا دعویٰ کرنے والے علماء بھی ہلاک ہو گئے جن کا خیال تھا کہ انہوں نے عقلی علوم کا احاطہ کر لیا ہے۔

تو جو عقل اولیاء کرام کے بارے میں ایسے امور کا انکار کرے اس سے جہالت بہتر ہے جو شخص اولیاء کرام کے بارے میں ایسی باتوں کا انکار کرتا ہے اس پر انبیاء کرام کا انکار بھی لازم آتا ہے۔ اور وہ دین سے مکمل طور پر نکل جاتا ہے بعض عارفین نے فرمایا: ”ابدال (اعلیٰ درجہ کے اولیاء کرام) زمین کے مختلف حصوں میں پھیلے ہوئے ہیں اور وہ عام لوگوں کی نگاہوں سے پوشیدہ ہیں۔ کیوں کہ وہ علمائے وقت کی طرف نظر نہیں کر سکتے اس لئے کہ ان کے نزدیک یہ علماء اللہ تعالیٰ سے بے علم ہیں جب کہ وہ اپنے اور جاہل لوگوں کے نزدیک علماء ہیں۔“

حضرت سہیل تستری رحمہ اللہ نے فرمایا: ”سب سے بڑا گناہ جہالت سے بے خبر رہنا، عام لوگوں کی طرف دیکھنا، اور غافل لوگوں کا کلام سنتا ہے، جو عالم دنیا میں مشغول رہتا ہے اس کی بات سننا مناسب نہیں بلکہ اس کی ہر بات پر اسے تہمت زدہ جانتا چاہیے کیوں کہ ہر شخص اپنی پسندیدہ چیز میں مشغول رہتا ہے اور جو کچھ اس کے محبوب کے موافق نہ ہو اسے رد کر دیتا ہے۔“

اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا ہے:-

ادرا اس کی فرما تبرداری نہ کرو جس کے دل کو ہم نے اپنے
ذکر سے غافل کر دیا اور وہ اپنی خواہش کے پیچھے چلا اور اس
کا معاملہ ظلم و زیادتی پر مبنی ہے۔

وَلَوْ نَطَّعُ مَنْ آغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ دِكْرِنَا
وَاتَّبَعَهُ هَوَاكَ وَكَانَ أَمْرًا قَرْطًا

(۱)

گناہ گار عوام ان لوگوں سے زیادہ خوش نخت ہیں جو دین کے راستے سے بے خبر ہیں حالانکہ ان کا دعویٰ ہے کہ وہ علماء میں شمار ہوتے ہیں۔ کیونکہ عام گناہ گار آدمی اپنی کوتاہی کا اقرار کر کے بخشش مانگتا اور توبہ کرتا ہے اور یہ جاہل، علم کا مدعی ہے اور یہ ان علوم میں مشغول ہے جو طریق آخرت کی بجائے حصول دنیا کا وسیلہ ہیں لہذا نہ تو وہ توبہ کرتا ہے اور ہی بخشش مانگتا ہے بلکہ وہ مرتے دم تک اسی حالت میں رہتا ہے۔

پس جب یہ بات اکثر لوگوں پر غالب ہے سوائے ان لوگوں کے جن کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ فرمایا اور ان کی اصلاح کی امید نہ رہی تو دیندار محتاط آدمی کے لیے سلامتی اسی میں ہے کہ وہ ان لوگوں سے الگ تھلگ رہے، جیسا کہ کتاب العزائم

تہائی کے بیان) میں آئے گا۔ ان شاء اللہ تعالیٰ۔

اسی لیے حضرت یوسف بن اسباط نے حدیث مرعشی کو لکھا۔

تمہارا اس شخص کے بارے میں کیا خیال ہے جو اس حالت میں رہ گیا کہ اسے کوئی ایسا شخص نہیں ملتا جو اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا یوں ذکر کرے کہ وہ اس ذکر سے گناہ گار اور نڈا کرہ سے نافرمان نہ ہو گا اور یہ اس لیے فرمایا کہ انہیں کوئی اس کا اہل نہیں ملتا تھا۔

اور واقعی انہوں نے سچ فرمایا، کیوں کہ لوگوں سے میل جول، غیبت کرنے یا غیبت سننے یا بڑی بات سننے سے خالی نہیں۔ انسان کی بہترین حالت یہ ہے کہ وہ علم سے دوسروں کو فائدہ پہنچائے یا خود فائدہ حاصل کرے۔ اور اگر یہ مسکین پور کرتا اور اس بات کو جانتا کہ اس کا فائدہ پہنچانا یا پارکاری کے شائبہ اور مال و ریاست حاصل کرنے کی طلب سے خالی نہیں تو اسے معلوم ہو جاتا کہ فائدہ حاصل کرنے والا بھی اسے طلب دنیا کے آلہ اور برائی کے لیے وسیلہ بنا رہا ہے لہذا وہ اس سلسلے میں اس کا مددگار ہے اور اس کے لیے اسباب مہیا کرتا ہے جیسے کوئی شخص ڈاکوؤں پر تلوار بچتا ہے تو علم تلوار کی طرح ہے بھلائی کے لیے اس کو بہتر بنانا ایسے ہے جیسے جہاد کے لیے تلوار کو درست کیا جاتا ہے اسی لیے یہ بات جائز نہیں کہ وہ اس شخص پر تلوار بیچے جس کے بارے میں علامات اور فرائض سے معلوم ہو کہ وہ ڈاکوؤں کی مدد کرنا چاہتا ہے۔

یہ علمائے آخرت کی علامات میں سے بارہ علامتیں ہیں ان میں سے ہر ایک، پہلے علماء کرام کے اخلاق کی جامع ہے تو خود میں سے ایک شخص ہو جائے تو ان صفات سے موصوف ہو یا اپنی کوتاہی کا اعتراف و اقرار کرے تیسری صورت والا نہ بننا ورنہ تم دھوکے سے دنیا کے آلہ کو دین سمجھنے لگو گے اور جھوٹوں کی عادات کو علمائے راسخین کی سیرت سمجھ بیٹھو گے اور اس طرح تم اپنی جہالت اور انکار کے باعث ہلاک ہونے والے اور یا یوس لوگوں کی جماعت میں شامل ہو جاؤ گے ہم شیطان کے دھوکے سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتے ہیں اسی کے باعث عام لوگ ہلاک ہوئے ہم بارگاہ خداوندی میں دست بدعا ہیں کہ وہ ہمیں ان لوگوں میں کرے جنہیں دنیا کی زندگی دھوکہ نہیں دیتی اور نہ ہی وہ ذات خداوندی کے بارے میں کسی دھوکے میں مبتلا ہوتے ہیں۔

سوالوں کا باب

عقل، اس کی عظمت، حقیقت اور اقسام

جان لو! اس کے اظہار میں کسی تکلف کی ضرورت نہیں بالخصوص جب کہ علم کی فضیلت، عقل کے سبب سے ظاہر ہے عقل علم کا منبع جائے طلوع اور بنیاد ہے عقل کے ساتھ علم کی نسبت اس طرح ہے جس طرح پھل کو درخت سے روشنی کو سورج سے اور نگاہ کو آنکھ سے نسبت ہے۔ تو وہ چیز جو دنیا اور آخرت میں سعادت کا وسیع ہے وہ کیسے معظّم و مشرف نہ ہوگی۔ اور اس میں کیسے شک کیا جاسکتا ہے حالانکہ جانور سوچ بوجھ کی کمی کی وجہ سے عقل سے شرماتا اور دبتا ہے یہاں تک کہ بڑے جسم والا سخت نقصان دہ اور رعب و دیر سے میں زیادہ مضبوط جانور جب انسان کی صورت دیکھتا ہے تو اس سے بھاگتا اور ڈرتا ہے کیوں کہ وہ اپنے اوپر انسان کی برتری کو سمجھتا ہے اور اس کی وجہ مختلف چیزوں کے ادراک کے ساتھ انسان کا خاص ہونا ہے۔

اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

الْشَّيْخُ فِي قَوْمِهِ كَالنَّبِيِّ فِي
أُمَّتِهِ (۱)

عمر زیدہ شخص اپنی قوم میں ایسے ہوتا ہے جیسے نبی اپنی امت میں ہوتا ہے۔

اور یہ بات مال کی کثرت، اس شخص کے بڑھاپے اور قوت کی زیادتی کی وجہ سے نہیں ہوتی بلکہ اس کی وجہ اس کا وہ تجربہ ہے جو اس کی عقل کا نتیجہ ہے اسی لیے ترکی، کرد (ایک قبیلہ) اور عرب کے اجداد وہ تمام لوگ جو جانوروں کی طرح شمار ہوتے ہیں فطری طور پر بزرگوں کی عزت کرتے ہیں اسی لیے جب بہت سے مخالفین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کا ارادہ کیا اور ان کی نگاہیں آپ کی طرف اٹھیں، انہیں آپ کے رُخ تاباں کی زیارت کا سر نہ لگا تو وہ مصیبت زدہ ہو گئے اور انہوں نے آپ کے رُخ انور پر نور نبوت کو چمکنا ہوا دیکھا اگرچہ نور نبوت آپ کے اندر پوشیدہ تھا جس طرح عقل پوشیدہ ہوتی ہے۔

تو عقل کی عظمت ایک بدیہی بات ہے ہم تو اس کی عظمت کے سلسلے میں وارد احادیث اور آیات کا ذکر کرنا چاہتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے اس کا نام نور رکھا ارشاد خداوندی ہے :-

آیات کریمہ :-

اللہ نور السموات والأرض مثل نور
گمشکا (۱)

اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کو روشن کرنے والا ہے اس کے نور کی مثال ایک طاق کی ہے۔

علم جو عقل سے حاصل ہوتا ہے اسے روح، وحی اور زندگی قرار دیا۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے :-

وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا - (۲)

اور اسی طرح ہم نے اپنے حکم سے آپ کی طرف ایک روح کی وحی بھیجی۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے :-

أَوَمِنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِيَمِّ فِي النَّاسِ - (۳)

تو کیا وہ جو مردہ تھا پس ہم نے اسے زندہ کیا اور اس کے لیے ایک نور بنایا جس کے ساتھ وہ چلتا ہے اس جیسا ہے جو اندھیروں میں ہے)

اور جب اللہ تعالیٰ نے روشنی اور اندھیرے کا ذکر کیا تو اس سے علم اور جہالت مراد لی۔

ارشاد خداوندی ہے :-

يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ - (۳)

وہ (اللہ تعالیٰ) انہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالتا ہے۔

احادیث مبارکہ :-

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا :-
يَأْتِيهَا النَّاسُ أَعْقَلُوا عَنْ نَبِيِّكُمْ وَتَوَاصَوْا بِالْعَقْلِ تَعْرِفُوا مَا أَمَرْتُم بِهِ وَمَا نَهَيْتُمْ عَنْهُ، وَاعْلَمُوا أَنَّهُ يُنَجِّدُكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ الْعَاقِلَ مَنْ أَطَاعَ اللَّهَ

اے لوگو! اپنے رب کی پہچان حاصل کرو اور ایک دوسرے کو عقل رکھے استعمال کی تلقین کرو اللہ تعالیٰ نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا اور جن امور سے روکا ان کی پہچان حاصل کر لو گے جان لو کہ عقل ہی تمہیں

۱۔ قرآن مجید سورہ نور آیت ۳۵ (۲) قرآن مجید سورہ شوریٰ آیت ۵۲

(۳) قرآن مجید سورہ انعام آیت ۱۲۲۔ (۴) قرآن مجید سورہ بقرہ آیت ۱۶

تمہارے رب کے قریب کرتی ہے اور جان لو کہ عقلمند وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کرتا ہے اگرچہ اس کی شکل و صورت اچھی نہ ہو، پتھر سمجھا جاتا ہو، ظاہری مرتبہ بھی نہ ہو اور اس کی حالت بھی پرگندہ ہو، اور جاہل وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے اگرچہ دیکھنے میں خوبصورت ہو اس کا مقام و مرتبہ بلند شمار ہوتا ہے خوش حال، نصیح و بلیغ اور بہت باتی ہو، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں نافرمان لوگوں کی نسبت بندر اور خنزیر زیادہ عقلمند ہیں اور تمہیں اس بات کا دھوکہ نہیں ہونا چاہیے کہ دنیا والے تمہاری تعظیم کرتے ہیں وہ تو خود نقصان اٹھانے والوں میں سے ہیں۔

وَإِنْ كَانَ دَمِيمًا الْمُنْظَرِ حَقِيرًا الْخَطَرِ
دَقِ الْمُنْزَلَةَ رَتْ الْهَيْئَةَ وَإِنَّ الْجَاهِدَ
مَنْ عَصَى اللَّهَ تَعَالَى وَإِنْ كَانَ جَمِيلَ
الْمُنْظَرِ عَظِيمًا الْخَطَرِ شَرِيفًا الْمُنْزَلَةَ
حَسَنَ الْهَيْئَةَ فَصَبِيحًا تَطَوُّقًا، فَالْفِرْدَةَ
وَالْحَنَازِيرَ عَقْلٌ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى مِمَّنْ
عَصَاهُ، وَلَا تَغْتَرَّ بِتَعْظِيمِ أَهْلِ الدُّنْيَا
إِيَّاكُمْ فَإِنَّهُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ (۱)

اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:-
أَوَّلَ مَا خَلَقَ اللَّهُ الْعَقْلَ فَقَالَ لَسَ
أَقْبَلُ فَأَقْبَلَ ثُمَّ قَالَ لَسَ أَدْبِدُ
فَادْبَرْتُ ثُمَّ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَعِزَّتِي
وَجَلَدِي مَا خَلَقْتُ خَلْقًا أَكْرَمَ
عَلَيَّ مِنْكَ، بَلَى اخُذْ وَبَلَى
أُعْطِي وَبَلَى أَثِيْبُ وَبَلَى
أَعَاقِبُ (۲)

اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے عقل کو پیدا فرمایا پھر اس سے
فرمایا آگے بڑھو، وہ آگے بڑھی پھر فرمایا پیچھے ہٹ جا وہ
پیچھے کی طرف ہٹ گئی پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:-
مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم! میں نے کوئی ایسی مخلوق پیدا
نہیں کی جو میرے نزدیک تجھ سے بڑھ کر معزز ہو، میں تیرے
سبب سے پکڑوں گا، تیری وجہ سے عطا کروں گا تیرے
سبب سے ثواب دوں گا اور تیری وجہ سے ہی عذاب
دوں گا۔

اگر تم کہو کہ اگر یہ عقل عرض ہے (جو دوسروں کے ساتھ قائم ہوتی ہے ذاتی طور پر نہیں) تو یہ جسموں سے پہلے کیسے پیدا
کی گئی اور اگر وہ جو میرے (جو خود بخود قائم ہو) تو یہ کیسا جو میرے جو ذاتی طور پر قائم ہے لیکن وہ کسی مکان میں نہیں۔ تو جان
لو کہ یہ بات علم مکاشفہ سے متعلق ہے، علم معالجہ کے ساتھ اس کا ذکر مناسب نہیں اور اس وقت ہماری غرض علوم معالجہ
کا ذکر ہے۔

سَمِعْتُمْ قَوْلَ الْفُجَّارِ فِي الشَّارِ كَوْنًا
تَسْمَعُ أَوْ نَعَقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ
ہے کیا تم نے نہیں سنا کہ گناہ گار لوگ جہنم میں کہیں گے
کاش کہ ہم سنتے یا سمجھتے تو جہنمیوں میں سے نہ ہوتے۔

الستعیر - (۱)

حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں مروی ہے انہوں نے حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ سے پوچھا تم لوگوں میں
سرداری کس چیز کی ہے؟ انہوں نے فرمایا عقل کی، فرمایا تم نے سچ کہا میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اسی طرح
پوچھا تھا جس طرح آپ سے پوچھا تو آپ نے بھی یہی جواب دیا اور پھر فرمایا کہ میں نے حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھا
سرداری کہا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا عقل ہے۔ (۲)

حضرت براد بن عازب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سوال کئے
گئے تو آپ نے فرمایا۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ كُلَّ شَيْءٍ مَطِيَّةٌ وَمَطِيَّةٌ
الْمَرْءِ الْعَقْلُ وَأَحْسَنُكُمْ دَلْوَةً
وَمَعْرِفَةٌ بِالْحُجَّةِ أَفْضَلُكُمْ
عَقْلًا - (۳)

اسے لوگو! بے شک ہر چیز کی ایک سواری ہوتی ہے اور
انسان کی سواری عقل ہے تم میں سے راہنمائی اور حجت
کی پہچان کے حوالے سے سب سے اچھا شخص وہ ہے
جو عقل کے اعتبار سے افضل ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ فرماتے ہیں جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد سے واپس تشریف
لائے تو صحابہ کرام کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ فلاں شخص، فلاں سے زیادہ بہادر ہے اور فلاں آدمی زیادہ تجربہ کار ہے جب تک
فلاں تجربہ کار نہ ہو جائے۔ اور اس قسم کی دوسری باتیں کرتے لگے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں اس بات
کا علم نہیں۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ! پھر کس طرح ہے؟ آپ نے فرمایا انہوں نے اس عقل کے مطابق جہاد کیا جو اللہ
تعالیٰ نے ان کے لیے مقدر فرمائی تھی اور ان کی مدد اور نیت ان کی عقلوں کے مطابق تھی پس ان لوگوں کو مختلف درجات
حاصل ہوئے اور جب قیامت کا دن ہوگا تو وہ اپنی نیتوں اور عقلوں کے اندازے کے مطابق مراتب حاصل کریں گے (۴)
حضرت براد رضی اللہ عنہ سے مروی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

جَدَّ الْمَلَائِكَةَ وَأَجْتَهَدُوا فِي
طَاعَةِ اللَّهِ سُجُودًا وَتَعَالَى بِالْعَقْلِ
فرشتوں نے عقل کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں
خوب کوشش کی اور انسانوں میں سے مومنوں نے اپنی

(۱) المطالب العالیہ جلد ۳ ص ۱۷ (۲) المطالب العالیہ جلد ۳ ص ۱۶

(۳) المطالب العالیہ جلد ۳ ص ۱۸ (۴) المطالب العالیہ جلد ۳ ص ۱۸

اپنی عقلوں کے مطابق کوشش کی تو اللہ تعالیٰ کی زیادہ
فرمانبرداری کرنے والا وہ شخص ہے جو عقل میں سب
سے بڑھ کر ہے۔

وَجَدَ الْمُؤْمِنُونَ مِنْ بَنِي آدَمَ عَلَى قَدَرٍ
عُقُولِهِمْ فَأَعْمَلَهُمْ لِبِطَاعَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ
أَوْفَرَهُمْ عَقْلًا۔ (۱)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے فرماتی ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ!
دنیا میں لوگوں کو ایک دوسرے پر برتری کیسے حاصل ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا "عقل کے ذریعے" میں نے عرض
کیا اور آخرت میں؟ آپ نے فرمایا "عقل کی وجہ سے" میں نے پوچھا کیا ان کو اعمال کے حساب سے بدلہ نہیں دیا جائے گا؟
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ! جس قدر ان کو اللہ تعالیٰ نے عقل عطا کی ہے وہ اسی کے مطابق عمل
کرتے ہیں، تو جس قدر عقل عطا ہوئی اس کے مطابق عمل کرتے ہیں اور جس قدر عمل کریں گے اس کے مطابق ان کو
بدلہ دیا جائے گا۔ (۲)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔
ہر چیز کا کوئی آلہ اور سامان ہوتا ہے اور بے شک مومن
کا آلہ عقل ہے اور ہر چیز کی سواری ہوتی ہے اور انسان
کی سواری عقل ہے، ہر چیز کا ایک ستون (سہارا)
ہوتا ہے اور دین کا ستون عقل ہے ہر قوم کی ایک انتہا
ہے اور بندوں کی انتہا عقل ہے ہر قوم کا ایک داعی
زبانے والا ہے اور عبادت گزار لوگوں کی داعی عقل
ہے تاجر کی پونجی ہوتی ہے اور مجتہدین کی پونجی عقل ہے
ہر گھر والوں کا ایک منتظم ہوتا ہے اور صدیقین کے گھروں
کا منتظم عقل ہے ہر غیر آباد جگہ کو آباد کیا جاتا ہے اور آخرت
کی آبادی عقل ہے ہر شخص کا کوئی خلف ہوتا ہے جس کی طرف
اس کی نسبت ہوتی ہے اور اس کے ذریعے اس کا ذکر
ہوتا ہے اور صدیقین جو کچھ چھوڑ کر جاتے ہیں جس کی طرف

لِكُلِّ شَيْءٍ آتَةٌ وَوَعْدَةٌ، وَإِنَّ آتَةَ الْمُؤْمِنِ
الْعَقْلُ، وَبِكُلِّ شَيْءٍ مِطْيَةٌ وَمِطْيَةُ الْمُدْرِ
الْعَقْلُ، وَبِكُلِّ شَيْءٍ دِرْعَامَةٌ وَدِرْعَامَةُ الدِّينِ
الْعَقْلُ، وَبِكُلِّ قَوْمٍ غَايَةٌ وَغَايَةُ الْعِبَادِ
الْعَقْلُ، وَبِكُلِّ قَوْمٍ دَاعٍ وَدَاعِي الْعَابِدِينَ
الْعَقْلُ، وَبِكُلِّ تاجرٍ بِنَاعَةٌ وَبِنَاعَةُ
الْمُجْتَهِدِينَ الْعَقْلُ، وَبِكُلِّ أَهْلِ بَيْتٍ
قِيَمٌ وَقِيَمٌ بِنَوْتِ الصِّدِّيقِينَ الْعَقْلُ،
وَكَلِّ خَرَابٍ عِمَارَةٌ وَعِمَارَةُ الْآخِرَةِ
الْعَقْلُ، وَكَلِّ أَمْرٍ عَقِبٌ يَنْسَبُ
إِلَيْهِ وَيُذَكَّرُ بِهِ وَعَقِبُ الصِّدِّيقِينَ
الَّذِي يُنْسَبُونَ إِلَيْهِ وَيُذَكَّرُونَ بِهِ

(۱) المطالب العالیہ جلد ۳ ص ۱۶

(۲) المطالب العالیہ جلد ۳ ص ۱۶

الْعَقْلُ، وَكُلِّ سَفَرٍ فَسَطَاطٌ وَنَسَطَاطٌ الْمُؤْمِنِينَ
الْعَقْلُ۔

وہ فسوب ہوتے ہیں اور جن کے ذریعے ان کا ذکر ہوتا
ہے وہ عقل ہے ہر سفر کے لیے ایک خیمہ ہوتا ہے اور
مومنوں کا خیمہ عقل ہے۔

(۱)

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :-

إِنَّ أَحَبَّ الْمُؤْمِنِينَ إِلَى اللَّهِ عَذَّوَجَلَّ مَنْ
نَصَبَ فِي طَاعَةِ اللَّهِ عَذَّوَجَلَّ وَنَصَحَ لِعِبَادِهِ
وَكَمَلَ عَقْلُهُ وَنَصَحَ نَفْسَهُ فَأَبْصَرَ
وَعَمِلَ بِهِ أَيَّامَ حَيَاتِهِ فَأَفْلَحَ
وَأَنْجَحَ۔ (۲)

اللہ تعالیٰ کے ہاں پتمندہ ترین مومن وہ شخص ہے جو
اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کے لیے تیار رہتا ہے اس کے
بندوں کی خیر خواہی کرتا ہے اور اس کی عقل کامل ہوتی ہے
وہ اپنا بھی خیر خواہ ہوتا ہے چنانچہ اپنی زندگی کے دنوں
میں اس (عقل) کے ذریعے عمل کرتا اور فلاح پاتا ہے۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :-

اتَّمَسُّكُمْ عَقْلًا أَشَدُّكُمْ لِلَّهِ تَعَالَى
خَوْفًا وَأَحْسَنُكُمْ فِيمَا أَمَرَكُمْ بِهِ وَنَهَى
عَنْهُ نَظْرًا، وَإِنْ كَانَ أَقْدَكُمُ
تَطَوُّعًا۔ (۳)

تم میں سے اس شخص کی عقل مکمل سے جو جو اللہ تعالیٰ سے
سب سے زیادہ ڈرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے اوامر و نواہی
پر اس کی نظر زیادہ ہوتی ہے اگرچہ عقل پڑھنے میں تم سے
کمتر ہے۔

جان لیجئے کہ عقل کی تعریف اور حقیقت کے بارے میں لوگوں کا اختلاف
ہے اور اکثر لوگوں کو معلوم نہ ہو سکا کہ یہ نام (عقل) مختلف معانی پر

عقل کی حقیقت اور اس کی اقسام

بول جاتا ہے یہی ان کے درمیان اختلاف کا سبب ہے۔

اس سلسلے میں حق بات جو پوشیدگی کو دور کرتی ہے یہ ہے کہ لفظ عقل مشترک ہے اور چار معنوں پر بولا جاتا ہے
جیسے لفظ "عین" وغیرہ الفاظ مختلف معانی کے لیے استعمال ہوتے ہیں لہذا تمام اقسام کے لیے ایک تعریف تلاش کرنا مناسب
ہیں بلکہ اس کی ہر قسم کی وضاحت کی جائے۔
پہلا معنی :-

(۱) المطالب العالیہ جلد ۳ ص ۱۶

(۲) الفردوس بماثور الخطاب جلد اول ص ۳۶۶

(۳) تاریخ بغداد جلد ۳ ص ۴۰ ترجمہ موسیٰ بن عبداللہ۔

یہ وہ وصف ہے جس کے ذریعے انسان، تمام جانوروں سے ممتاز ہوتا ہے اور اسی کے ذریعے اس میں نظری علم کی قبولیت کی استعداد پیدا ہوتی ہے اور وہ پوشیدہ فکری صنعتوں کی تدبیر کرتا ہے، حارث بن اسد جاسی نے عقل کی تعریف کرتے ہوئے یہی معنی مراد لیا ہے۔ انہوں نے کیا۔

یہ ایک ایسی فطری قوت ہے جس کے ذریعے علوم نظریہ کا ادراک کیا جاتا ہے گویا یہ ایک نور ہے جو دل میں ڈالا جاتا ہے اور اسی کے ذریعے وہ (دل) اشیاء کے ادراک کے لیے تیار ہوتا ہے جس شخص نے اس بات کا انکار کیا اور عقل کو صرف علوم ضروریہ (بدیہیہ) کی طرف لوٹایا اس نے انصاف نہیں کیا کیونکہ علوم سے غافل اور سوئے ہوئے شخص کو عقل مند اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کو یہ قوت حاصل ہے باوجودیکہ علوم مفقود ہیں۔

جس طرح زندگی ایک قوت ہے جس کے ذریعے جسم اختیاری حرکات اور حسی ادراکات کے لیے تیار ہوتا ہے اسی طرح عقل بھی ایک فطری قدرت ہے جس کے ذریعے بعض حیوانات نظری علوم کے قابل ہو جاتے ہیں اور اگر اس فطری قوت اور حسی ادراکات میں انسان اور گدھے کے درمیان مساوات مان کر کہا جائے کہ ان دونوں کے درمیان کوئی فرق نہیں صرف یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنی عادت مبارکہ کے مطابق انسان میں علوم کو پیدا کرتا ہے جب کہ گدھے اور دوسرے جانوروں میں پیدا نہیں کرتا تو یہ کہنا بھی جائز ہو گا کہ گدھے اور جمادات (پتھر وغیرہ) کی زندگی برابر ہے اور یہ بھی کہا جائے گا کہ ان کے درمیان کوئی فرق نہیں البتہ یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنی عادت مبارکہ کے مطابق گدھے میں مخصوص حرکات پیدا کرتا ہے اگر گدھے کو بے جان پتھر تصور کیا جائے تو یہ کہنا لازمی ہو گا کہ اس سے جو حرکت نظر آتی ہے اللہ تعالیٰ اسے اسی دکھائی دینے والی ترتیب سے پیدا کرنے پر قادر ہے۔

تو جیسے یہ بات کہنا ضروری ہے کہ گدھے کا حرکات میں جمادات سے ممتاز ہونا اس قوت کی بنیاد پر ہے جس کے ساتھ وہ مخصوص ہے اور وہ زندگی ہے اسی طرح انسان بھی علوم نظریہ میں حیوانات سے ایک خاص قوت کے ذریعے ممتاز ہوتا ہے اور وہ عقل ہے، اور یہ پیشہ کی طرح ہے جو صورتوں اور رنگوں کو دکھانے میں ایک صفت کے ذریعے دوسرے اجسام سے جدا ہے اور وہ صفت اس کا صاف شفاف اور روشن ہونا ہے۔ اسی طرح آنکھ اپنی صفات اور شکل کے اعتبار سے جو اسے دیکھنے کے قابل کرتی ہیں، پیشانی سے ممتاز ہے تو اس قوت کی علوم کی طرف نسبت ایسے ہی ہے جیسے آنکھ کی دیکھنے کی طرف ہے، اور علوم کی وضاحت کے سلسلے میں قرآن و شریعت کی اس قوت کی طرف نسبت اس طرح ہے جیسے سورج کی روشنی کو آنکھوں کے نور سے نسبت ہوتی ہے۔ تو اس طرح اس قوت کو سمجھنا چاہیے۔

دوسرا معنی :-

(عقل سے مراد) وہ علوم ہیں جو سمجھ دار سچے کی ذات میں پائے جاتے ہیں کہ وہ جائزہ چیزوں کو جائز اور محال چیزوں کو محال سمجھتا ہے۔ مثلاً وہ جانتا ہے دو، ایک سے زیادہ ہوتے ہیں اور ایک شخص ایک ہی وقت میں دو جگہوں میں نہیں

ہو سکتا بعض مشکلیں نے جو عقل کی تعریف کرتے ہوئے مندرجہ ذیل بات کہی ہے تو ان کا مطلب بھی یہی ہے وہ فرماتے ہیں "عقل بعض بدیہی علوم ہیں جسے جائز چیزوں کے جواز اور محال اشیا کے محال ہونے کا علم ہے یہ بھی فی نفسہ صحیح تعریف ہے کیونکہ یہ علوم موجود ہیں اور انہیں عقل کہنا بھی ظاہر ہے البتہ اس قوت کا انکار کرنا اور یوں کہنا کہ صرف پر علوم بدیہی ہی موجود ہیں، یہ فاسد خیال ہے۔

تیسرا معنی :-

وہ علوم جو حالات کی تبدیلی سے تجربہ کی بنیاد پر حاصل ہوں کیوں کہ جس شخص کو تجربات، سمجھداری اور مذاہب، مہذب بنا دیں (اس کے بارے میں) کہا جاتا ہے کہ وہ عادت میں عقل مند ہے اور جو آدمی اس صفت سے موصوف نہ ہو تو کہا جاتا ہے یہ شخص کند ذہن نا تجربہ کار اور جاہل ہے تو یہ علوم کی ایک اور قسم ہے جسے عقل کہا جاتا ہے۔

چوتھا معنی :-

یہ قوت اس حد کو پہنچ جائے کہ معاملات کے انجام کی پہچان حاصل ہو جائے اور وہ شہوت جو فوری لذت کی طرف بلاتی ہے اسے نیست و نابود کر دے جب یہ قوت حاصل ہو جائے تو اس آدمی کو عقلمند کہا جاتا ہے۔ کیونکہ اس کا کسی چیز کی طرف بڑھنا اور اس سے رکنا انجام پر نظر کے مطابق ہوتا ہے فوری شہوت کی وجہ سے نہیں۔ اور یہ بھی انسان کے ان خواص میں سے ہے جس کی وجہ سے وہ تمام حیوانات سے ممتاز ہوتا ہے۔

تو پہلا مفہوم بنیاد اور منبع ہے دوسرا اس کی فرع ہے جو اس کے زیادہ قریب سے تیسرا معنی پہلے اور دوسرے کی فرع ہے کیوں کہ فطری قوت اور علوم ضروریہ کی بنیاد پر تجرباتی علوم حاصل ہوتے ہیں اور چوتھا معنی آخری نتیجہ ہے اور یہی انتہائی مقصود ہے، پہلے دو، فطری اور طبعی طور پر حاصل ہوتے ہیں جب کہ دوسرے دو عمل اور اکتساب سے حاصل ہوتے ہیں اسی لیے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا :-

"میں نے عقل کو دو صورتوں میں دیکھا ایک فطری اور دوسری سنی ہوئی اور سنی ہوئی اس وقت تک فائدہ نہیں دی جب تک فطری عقل موجود نہ ہو جیسے سورج کی روشنی اس وقت تک فائدہ نہیں دیتی جب تک آنکھوں کی روشنی نہ ہو"

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد گرامی سے عقل کی پہلی قسم مراد ہے آپ نے فرمایا :-
 مَا خَلَقَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ خَلْقًا أَكْرَمَ عَلَيْكَ
 اللَّهُ تَعَالَى نَعَى كَوْنِي أَيْسَى مَخْلُوقٍ يَبْدَأُ فِيهِ فِرَائِي جَوَائِسِ كَيْ
 تَزِيدُكَ عَقْلًا مِنْ زَيْدٍ مَعْرُورٍ هُوَ - (۱)

اور دوسری قسم کی طرف اس حدیث میں اشارہ فرمایا۔

جب لوگوں مختلف قسم کی نیکیوں اور اعمال صالحہ کے ذریعے قرب حاصل کریں تو تو اپنی عقل کے ذریعے قرب حاصل کر۔

إِذَا تَقَرَّبْتَ النَّاسَ بِأَبْوَابِ الْبِرِّ وَالْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ تَقَرَّبْتَ إِلَى

بِعَقْلِكَ - (۱)

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو دردا اور رضی اللہ عنہ سے جو کچھ فرمایا اس سے بھی یہی مراد ہے آپ نے فرمایا (اسے ابو دردا اور) اپنی عقل (سمجھداری) میں اضافہ کر اللہ تعالیٰ کے ہاں زیادہ مقرب بن جائے گا انہوں نے عرض کیا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں میں ایسا کس طرح کر سکتا ہوں؟

آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے حرام کردہ کاموں سے بچ اور اس کے فرائض کو ادا کر عقلمند ہو جائے گا، اچھے اعمال کو اختیار کر دنیا میں تیری بلندی اور عزت میں اضافہ ہوگا اور قیامت کے دن تجھے اپنے رب کا قرب اور عزت حاصل ہوگی۔ (۲)

حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق، حضرت ابی بن کعب اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ! لوگوں میں سے زیادہ علم والا کون ہے؟ آپ نے فرمایا وہ جو عقلمند ہے۔ انہوں نے عرض کیا کون شخص زیادہ عبادت گزار ہے؟ فرمایا جو عاقل ہے انہوں نے عرض کیا سب سے زیادہ فضیلت والا کون ہے؟ آپ نے فرمایا جو عقل مند ہے، انہوں نے عرض کیا وہ شخص جس کی باطنی صفات مکمل ہوں فصاحت ظاہر ہو اس کا ہاتھ سخی ہو اور مقام عظیم کا مالک ہو وہ عقل مند ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سب دنیوی زندگی کا سامان ہے اور آخرت پر ہنر گزار لوگوں کے لیے ہے (۳) تو عقل مند وہ ہے جو متقی ہے اگرچہ دنیا میں ربطا ہر ذلیل و رسوا ہو ایک دوسری حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

بے شک عقل مند وہ شخص ہے جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا

إِنَّمَا الْعَاقِلُ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَصَدَّقَ

اس کے رسولوں کی تصدیق کی اور اس کی فرمانبرداری کی۔

رُسُلَهُ وَعَمِلَ بِطَاعَتِهِ (۴)

اور مناسب ہے کہ اصل نام لغت اور استعمال کے اعتبار سے ہو اور علوم پر اس کا اطلاق اس وجہ ہو کہ وہ اس کے ثمرات و نتائج ہیں جیسے کسی چیز کی پہچان اس کے نتیجہ اور اثر سے ہوتی ہے کہ جانتا ہے کہ علم خشیت الہی

کا نام ہے اور عالم وہ ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہو کیونکہ خشیت، علم کا نتیجہ ہے تو اس (عقلی) قوت کے غیر پر اس (عقل) کا اطلاق مجازاً ہوگا لیکن لغت سے بحث کرنا مفید نہیں ہے بلکہ مقصود یہ ہے کہ یہ چاروں اقسام موجود ہیں اور یہ نام (عقل) ان سب پر بولا جاتا ہے اور پہلی قسم کے علاوہ کسی کے وجود میں کوئی اختلاف نہیں اور صحیح یہ ہے کہ تمام پائی جاتی ہیں اور یہی اصل ہیں جب کہ علوم گویا کہ فطرتاً اس قوت عقلیہ میں ضمناً پائے جاتے ہیں لیکن وجود میں اس وقت ظاہر ہوتے ہیں جب کوئی ایسا سبب جاری ہو جو ان کو وجود کی طرف نکالے یہاں تک کہ یہ علوم کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو باہر سے وارد ہوئی ہے اور گویا وہ اس قوت عقلیہ میں موجود تھے اب ظاہر ہو گئے۔ اس کی مثال زمین میں پانی کا موجود ہونا ہے جو کواں کھودنے سے ظاہر ہوتا ہے جمع ہوتا ہے اور قوتِ حسیہ کے ذریعے ممتاز ہوتا ہے یہ بات نہیں کہ اس کی طرف کسی نئی چیز کو لایا گیا ہے۔

اسی طرح بادام میں ہر وہ غن اور گلاب میں عرقِ گلاب ہوتا ہے اسی سلسلے میں ارشادِ خداوندی ہے۔
 وَ اِذْ اَخَذْنَا مِنْ بَنِي اٰدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ
 ذُرِّيَّتَهُمْ وَاَشْهَدَهُمْ عَلٰى اَنْفُسِهِمْ
 اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوْا بَلٰى (۱)

اور جب آپ نے زب سے اولادِ آدم کی پشت سے ان کی نسل کو نکالا اور انہیں خود ان پر گواہ بنایا (اور فرمایا) کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے عرض کیا ہاں کیوں نہیں تو ہمارا رب ہے۔

اس سے مراد ان کے نفوس کا اقرار ہے زبانوں کا اقرار نہیں کیونکہ زبانوں کے اقرار کے اعتبار سے اقرار کرنے والے اور منکر ہیں ان کی تقسیم اس وقت ہوئی جب ان کی زبانوں اور اشکال کو پیدا کیا گیا۔
 یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔

وَلٰٓئِن سَاَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُوْلُنَّ
 اللہ (۲)

اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ ان کو کس نے پیدا کیا تو وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے (پیدا کیا)۔
 اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ان کے احوال کا اعتبار کیا جائے تو اس پر ان کے نفوس اور باطن گواہی دیں گے۔
 ارشادِ خداوندی ہے۔

فِطْرَةَ اللّٰهِ الَّتِيْ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا۔
 یہ (اسلام) اللہ تعالیٰ کی فطرت ہے جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا۔ (۳)

(۱) قرآن مجید سورہ اعراف آیت ۱۷۲ (۲) قرآن مجید سورہ زخرف آیت ۹

(۳) قرآن مجید سورہ روم آیت ۳۰

یعنی ہر شخص کو ایمان باللہ پر پیدا کیا گیا بلکہ ہر چیز کو ماہیت کی معرفت پر پیدا کیا گیا مطلب یہ ہے کہ گویا اس کے اندر یہ
نت رکھی گئی ہے کیونکہ اس کی استعداد ادراک کے قریب ہے۔

پھر جب فطرتاً نفوس میں ایمان کو رکھا گیا ہے تو اس اعتبار سے لوگوں کی دو قسمیں ہیں۔

۱۔ وہ لوگ جنہوں نے منہ پھیرا اور (اللہ تعالیٰ کو) بھلا دیا اور یہ کفار ہیں۔

۲۔ وہ شخص جس نے اپنے خیال کو دوڑاتا ہو یا یاد کیا تو یہ اس شخص کی طرح ہے جو گواہ بنا پھر غفلت کی وجہ سے اسے
بھلا دیا اور اس کے بعد سے یاد آ گیا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا :-

لَعَلَّكُمْ تَتَذَكَّرُونَ (۱)

تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔

اور فرمایا :-

اور چاہیے کہ عقل مند نصیحت پکڑیں۔

وَلْيَتَذَكَّرُوا آلَ الْاُولَآئِكَ (۲)

اور ارشاد خداوندی ہے :-

اللہ تعالیٰ کے اس انعام کو یاد کرو جو اس نے تمہیں عطا فرمایا
اور اس کے اس وعدہ کو جو اس نے تم سے لیا۔

وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَمِثَاقَهُ الَّذِي دَاخَلَكُمْ بِهِ (۳)

نیز ارشاد فرمایا :-

اور بے شک ہم قرآن پاک کو نصیحت کے لیے آسمان کر
دیا تو کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا۔

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِيَذْكُرْتَهُ
مِنْ مَّذَكَّرٍ (۴)

اور اس طریقے کو نڈکر (یاد آنا) کہنا کوئی تعجب خیز بات نہیں۔

گویا یاد آنے کی دو صورتیں ہیں ایک یہ کہ وہ اس صورت کو یاد کرے جس کا وجود اس کے دل میں حاضر ہے لیکن پائے
لے کے بعد غائب ہو گیا اور دوسرا یہ کہ وہ اس صورت کو یاد کرے جو فطرت کے ضمن میں وہاں پائی جاتی ہے،

اور یہ حقائق دیکھنے والے کو فوراً بصیرت سے نظر آئے ہیں لیکن اس شخص پر بھاری ہوتے ہیں جس کا تکیہ تقلید اور
ساعت ہو کشف اور دیکھنا نہ ہو اسی لیے تم اس کو دیکھو گے کہ وہ اس قسم کی آیات میں دیوانہ پن اختیار کرتا ہے اور تذکر

نفس کے اقرار کے سلسلے میں دور از کار تاویلات کرتا ہے نیز احادیث اور آیات کے سلسلے میں اس کے ذہن میں
اس طرح کے خیالات پیدا ہوتے ہیں کہ یہ ایک دوسرے کے خلاف ہیں بلکہ بعض اوقات یہ بات اس پر غالب آجاتی ہے

(۱) قرآن مجید سورہ ابراہیم آیت ۲۵ (۲) قرآن مجید سورہ ص آیت ۲۹

(۳) قرآن مجید سورہ مائدہ آیت ۷ (۴) قرآن مجید سورہ قمر آیت ۱۷

وہ ان کی طرف تھارت کی نظر سے دیکھتا ہے اور اسے حقیر سمجھتا ہے۔ اس کی مثال اس نابینا شخص جیسی ہے جو کسی گھر میں داخل ہوتا ہے اور گھر میں ترتیب سے رکھے ہوئے برتنوں کی وجہ سے گر جاتا ہے تو کہتا ہے کیا وجہ ہے کہ ان برتنوں کو اسے سے اٹھا کر ان کی جگہ پر نہیں رکھا جاتا تو اسے کہا جاتا ہے کہ یہ اپنی جگہ پر ہیں تمہاری آنکھوں میں خرابی ہے۔

اسی طرح بصیرت کی خرابی بھی اس کی طرح ہوتی ہے بلکہ اس سے زیادہ بڑی ہوتی ہے کیونکہ نفس سوار اور جسم سوار کی طرح ہے اور سوار کا اندھا ہونا سواری کے اندھا پن سے زیادہ نقصان دہ ہوتا ہے۔

باطنی بصیرت کے ظاہری بصیرت کے مشابہ ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:-

مَا كَذَّبَ الْفُؤَادَ مَا رَأَىٰ (۱)

دل نے جو کچھ دیکھا اسے غلط نہیں سمجھا۔

ارشاد خداوند ہے:-

اسی طرح ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آسمانوں اور زمینوں کی پوشیدہ حکومتیں دکھاتے ہیں۔

وَكَذَٰلِكَ نُزَيِّرُ اِبْرٰهِيْمَ مَلَكُوْتِ السَّمٰوٰتِ
وَالْاَرْضِ - (۲)

اور اس کی ضد کو اندھا پن قرار دیا ارشاد فرمایا:-

بے شک آنکھیں اندھی نہیں ہوتیں بلکہ وہ دل اندھے ہوتے ہیں جو سینوں میں ہیں۔

فَاِنَّهَا لَا تَعْمَىٰ الْاَبْصَارُ وَّلٰكِنْ تَعْمَىٰ
الْقُلُوْبُ الَّتِي فِي الصُّدُوْرِ - (۳)

اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:-

جو شخص اس دنیا میں رول کا اندھا رہا وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا اور راستے سے بہت بھٹکا ہوا۔

مَنْ كَانَ فِي هٰذِهِ اَعْمٰی فَهُوَ فِي
الْآخِرَةِ اَعْمٰی وَاَضَلُّ سَبِيْلًا - (۴)

یہ امور انبیاء کرام کے لیے، واضح کئے گئے ان میں سے بعض کا تعلق ظاہری نگاہ سے اور بعض کا دل کی بصیرت سے ہے اور ان سب کو رویت (دیکھنا) کہا گیا ہے۔

غصہ کلام یہ ہے کہ جس شخص کی باطنی نگاہ کا بل نہ ہو اسے دین سے صرف پھلکے اور مثالیں حاصل ہوتی ہیں دین کا مغز اور حقائق حاصل نہیں ہوتے تو یہ اقسام ہیں جن پر عقل کا لفظ بولا جاتا ہے۔

عقل میں تفاوت (فرق) کے سلسلے میں بھی لوگوں نے اختلاف کیا ہے لیکن جن لوگوں کا علم کم ہے ان

عقل کے اعتبار سے انسانی نفوس میں تفاوت

(۱) قرآن مجید سورہ النجم آیت ۱۱ (۲) قرآن مجید سورہ انعام آیت ۶

(۳) قرآن مجید سورہ حج آیت ۴۶ (۴) قرآن مجید سورہ اسراء آیت ۶۲

کا کلام نقل کرنے کا کیا فائدہ ہے بلکہ سب سے بہتر اور اہم بات واضح حق کی طرف جلدی کرنا ہے اس سلسلے میں واضح حق ہے کہ کہا جائے کہ دوسری قسم جو جائز امور کے جواز اور محال باتوں کے محال ہونے سے متعلق ضروری علم ہے، کے علاوہ عقل کا تفاوت چاروں قسموں میں داخل ہے کیوں کہ جو شخص یہ بات جانتا ہے کہ دو، ایک سے زیادہ ہوتے ہیں وہ یقیناً یہ بات بھی جانتا ہے کہ ایک جسم (بیک وقت) دو جگہوں پر نہیں ہو سکتا نیز ایک ہی چیز قدیم بھی اور حادث بھی نہیں ہو سکتی۔ اور اس طرح کی دیگر مثالیں ہیں نیز وہ امور جن کا ادراک کسی شک کے بغیر ٹھیک ٹھیک ہوتا ہے لیکن تین اقسام میں تفاوت پایا جاتا ہے۔

جہاں تک چوتھی قسم کا تعلق ہے تو وہ خواہشات کو ختم کرنے کے لیے قوت کا حاصل ہونا ہے اور اس سلسلے میں لوگوں کے درمیان تفاوت پوشیدہ نہیں ہے بلکہ ایک شخص کی مختلف حالتوں میں بھی فرق ہوتا ہے اور یہ فرق کبھی خواہش میں فرق کے باعث ہوتا ہے کیونکہ عقل مند شخص بعض اوقات بعض خواہشات کو چھوڑنے پر قادر ہوتا ہے اور بعض کو نہیں چھوڑ سکتا۔ لیکن اس کا چھوڑنا مشکل نہیں ہوتا۔

نوجوان آدمی کبھی زنا کو چھوڑنے سے عاجز ہوتا ہے لیکن جب بڑا ہو جاتا ہے اور اس کی عقل مکمل ہو جاتی ہے تو وہ اس پر قادر ہو جاتا ہے۔ جب کہ ریا کاری اور اقتدار کی خواہش بڑھاپے کی وجہ سے کم نہیں ہوتی بلکہ بڑھ جاتی ہے، کبھی اس کا سبب اس علم کا تفاوت ہوتا ہے جو اس شہوت کی خرابی سے روکنا ہے۔ اسی لیے طبیب بعض نقصان دہ کھانوں سے بچنے پر قادر ہوتا ہے لیکن بعض اوقات وہ شخص جو طبیب نہیں ہے عقل میں اس (طبیب) کے برابر ہونے کے باوجود اس پر قادر نہیں ہوتا اگرچہ وہ یقین رکھتا ہے کہ یہ نقصان دہ ہے لیکن چونکہ طبیب کا علم زیادہ مکمل ہوتا ہے اس لیے اس کا خوف بھی زیادہ ہوتا ہے پس خوف خواہشات کے قلع قمع کے لیے عقل کا لشکر اور سامان جہاد ہے اسی طرح ایک عالم گناہوں کے ترک پر جاہل سے زیادہ قادر ہوتا ہے کیوں کہ وہ گناہوں کے نقصانات کا علم رکھتا ہے اس سے میری مراد عالم حقیقی ہے محض سبز لباس پہننے اور بیہودہ گفتگو کرنے والے لوگ مراد نہیں اگر خواہش کے اعتبار سے تفاوت ہو تو وہ عقل کا تفاوت نہیں ہوگا اور اگر وہ علم کی وجہ سے ہے تو ہم نے اس قسم کے علم کا نام عقل بھی رکھا ہے۔ کیونکہ وہ قوت عقلیہ کو مضبوط کرتا ہے پس اس چیز میں فرق ہوگا جس کی طرف یہ نام لوٹے گا اور بعض اوقات صرف قوت عقلیہ میں فرق ہوگا جس کی طرف یہ نام لوٹے گا اور بعض اوقات صرف قوت عقلیہ میں فرق کی وجہ سے تفاوت ہوتا ہے جب یہ قوت مضبوط ہوگی تو وہ یقیناً شہوت کو زیادہ ختم کرنے والی ہوگی۔

تیسری قسم جو تجرباتی علوم سے متعلق ہے اس میں لوگوں کا مختلف ہونا ناقابل انکار ہے کیونکہ وہ بات تک زیادہ پہنچنے اور جلد از جلد اس کو پانے کے اعتبار سے مختلف ہیں اور اس کا سبب یا تو عقلی قوت میں فرق ہوتا ہے یا تجربہ میں فرق اس کا باعث بنتا ہے پہلی بات یعنی قوت عقلیہ اصل ہے اور اس کے اعتبار سے انسانوں میں تفاوت کا انکار نہیں ہو سکتا

کیوں کہ وہ ایک نور ہے جو نفس پر چمکتا ہے اور اس کی صبح طلوع ہوتی ہے اس کے چمکنے کا آغاز اس وقت ہوتا ہے جب وہ رجبہ اشیا میں (تیز کرنے کی عمر کو پہنچ جاتا ہے پھر وہ مسلسل بڑھتا ہے اور اس میں اضافہ ہوتا رہتا ہے اور یہ خفیہ طور پر تدریجاً بڑھتا ہے یہاں تک کہ یہ (نور) چالیس سال کی عمر کے قریب کامل ہو جاتا ہے۔ یہ صبح کی روشنی کی طرح ہوتا ہے کیونکہ وہ شروع میں اس قدر مخفی ہوتی ہے کہ اس کا ادراک مشکل ہوتا ہے پھر وہ تدریجاً بڑھتی ہے یہاں تک کہ سورج کی ٹیکہ کے طلوع ہونے کے ساتھ مکمل ہو جاتی ہے۔

نور بصیرت میں فرق، آنکھوں کی روشنی میں فرق کی طرح ہے کمزور بینائی والے اور تیز بینائی والے کے درمیان فرق محسوس ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو تدریجاً پیدا کرنے کا طریقہ جاری فرمایا ہے حتیٰ کہ شہوانی قوت بچے کے بالغ ہونے ہی اس میں اچانک اور یکدم ظاہر نہیں ہوتی بلکہ تھوڑی تھوڑی تدریجاً ظاہر ہوتی ہے اسی طرح تمام قوتیں اور صفات تدریجاً ظاہر ہوتی ہیں۔ اور جو شخص اس قوت میں لوگوں کے درمیان تفاوت کا انکار کرتا ہے تو گویا وہ عقلی قوت سے خالی ہے۔ اور جو آدمی یہ خیال کرے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل مبارک کسی دیہاتی اور جنگلوں میں رہتے والے اٹھ لوگوں کی عقل کی طرح ہے تو وہ کسی دیہاتی سے بھی زیادہ خبیث ہے وہ قوت تھلیہ میں تفاوت کا کیسے انکار کر سکتا ہے کیونکہ اگر یہ فرق نہ ہوتا تو علوم کے سمجھنے میں لوگوں کے مختلف درجات نہ ہوتے اور کند ذہن اور ذہین میں ان کی تقسیم نہ ہوتی، کند ذہن ہوتا ہے جو سمجھانے سے بھی نہیں سمجھتا حتیٰ کہ استاذ کو اس پر بہت زیادہ محنت کرنا پڑتی ہے اور ذہین وہ ہوتا ہے جو اپنی اشارات سے سمجھاتا ہے اسی طرح بعض لوگ کامل ہونے میں جن کو تعلیم دینے بغیر بھی ان سے حقائق امور سامنے آتے ہیں۔

جیسے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

عَلَىٰ نُوْرٍ (۱)

اور یہ انبیاء کرام علیہم السلام ہیں کیونکہ سیکھنے اور سننے کے بغیر بھی ان کے باطن میں نہایت باریک اور پوشیدہ امور روشن ہو جاتے ہیں اور اسے الہام کہا جاتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد گرامی میں یہی بات بیان ہوئی ہے آپ نے فرمایا:-

إِنَّ رُوحَ الْقُدْسِ نَفْسٌ فِي رُوحِي

أَحْبَبْتُ مَنْ أَحْبَبْتِ فَإِنَّكَ مُفَارِقَةٌ

وَعِشْ مَا شِئْتِ فَإِنَّكَ مَبْتُتٌ وَأَعْمَلٌ

بے شک حضرت جبریل علیہ السلام نے میرے دل میں یہ

بات ڈالی کہ جس سے محبت کرتا چاہتے ہیں محبت کریں

کیونکہ آپ اس سے جدا ہونے والے ہیں اور جب

مَا شِئْتَ فَإِنَّكَ مَجْدِي بِي سَلَا

تک زندہ رہنا چاہتے ہیں، رہیں یا آخر آپ انتقال فرمانے والے ہیں اور جو چاہیں عمل کریں آپ اس کا اجر ملے گا۔

اور فرشتوں کی طرف سے نبیوں کو اس طرح کی خبر دینا وحی صریح کے خلاف ہے جو کان کے ذریعے سنی جاتی ہے اور آنکھوں سے فرشتے کو دیکھا جاتا ہے اسکا بیسے اس کو دل میں ڈالنے سے تعبیر کیا ہے۔ وحی کے درجات بہت زیادہ ہیں اور ان میں بحث کرنا علم معاملہ کے لائق نہیں بلکہ اس کا تعلق علم فکاشفہ سے ہے۔

اور تمہیں یہ خیال نہیں کرنا چاہیے کہ وحی کے درجات، منصب وحی کو دعوت دیتے ہیں کیونکہ ممکن ہے طیب، بیمار و صحت کے درجات سکھا دے اور عالم، کسی فاسق کو عدالت کے درجات کی تسلیم دے اگرچہ وہ خود اس سے خالی ہو۔ لہذا علم اور چیز ہے اور کسی چیز کو معلوم کرنا دوسری بات ہر وہ شخص جو نبوت اور ولایت کی پہچان رکھتا ہو نبی یا ولی ہیں ہو سکتا اور نہ ہی تقویٰ پر مہر گاری اور ان کی بارکیوں کو جاننے والا متقی ہو سکتا ہے۔

لوگوں کی تقسیم یوں ہے کہ ایک وہ شخص ہے جو ذاتی طور پر آگاہ ہوتا اور سمجھتا ہے دوسرا وہ شخص ہے جو کسی کے آگاہ کرنے اور سکھانے کے بغیر نہیں سمجھتا اور تیسری قسم ان لوگوں کی ہے جنہیں تعلیم و تنبیہ بھی فائدہ نہیں دیتی جس طرح زمین کی مختلف صورتیں ہیں بعض جگہ پانی جمع ہوتا ہے اور اس قدر طاقت درہنہ ہوتا ہے کہ وہ خود بخود چشموں کی صورت میں پھوٹ نکلتا ہے۔ اور بعض مقامات پر کنواں کھودنے کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ تالیوں کی طرف نکلے اور بعض جگہوں پر کھودنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا اور وہ خشک جگہ ہوتی ہے۔ اور یہ اس لیے ہے کہ صفات کے اعتبار سے زمین کے جواہر مختلف ہیں۔ اسی طرح قوت عقلیہ کے اعتبار سے انسانی نفوس بھی مختلف ہیں نقلی دلائل کے اعتبار سے عقل کے مختلف ہونے پر یہ حدیث دلالت کرتی ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا یہ ایک طویل حدیث ہے اس کے آخر میں عرش کی عظمت بیان کی گئی ہے۔

فرشتوں نے کہا "اے ہمارے رب! کیا تو نے عرش سے بڑی چیز بھی پیدا کی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا "ہاں وہ عقل ہے" انہوں نے پوچھا اس کی قدر و منزلت کیا ہے؟ فرمایا چھوڑو! اس کے علم کا احاطہ نہیں کیا جاسکتا کیا تمہیں ریت کی گنتی کا علم ہے انہوں نے عرض کیا نہیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میں نے ریت کی گنتی کی طرح عقل کو مختلف قسموں میں پیدا کیا بعض لوگوں کو ایک دانہ دیا گیا کچھ کو دو دانے دیئے گئے ان میں سے بعض کو تین اور چار اور بعض کو ایک فرق (ایک پیمانہ جس میں آٹھ تیسیر غلہ ہوتا ہے) اور بعض کو ایک دست (ساتھ صد غلہ) اور بعض کو اس سے بھی زیادہ دیا گیا۔ (۲)

اگر تم کہو کہ خود ساختہ صوفی جو عقل اور معقول کا انکار کرتے ہیں ان کا کیا حال ہے؟ تو جان لو کہ لوگوں نے علمی جھگڑوں

اور ایک دوسرے پر اعتراضات اور الزامات کے ذریعے مناظرے کا نام عقل رکھ لیا ہے اور یہ فنِ کلام ہے اور لوگ ان کو یہ بات بتانے پر قادر نہ ہوئے کہ تم نے نام رکھنے میں غلطی کی ہے کیوں کہ جب یہ نام ان کی زبانوں پر جاری اور دلوں میں پکا ہو گیا تو اب ان کے دلوں سے نہیں نکل سکتا لہذا انہوں نے عقل اور معقول کی مذمت کی اور ان کے نزدیک اس سے وہی مراد ہے جہاں تک باطنی نور بصیرت کا تعلق ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اس کے رسولوں کی صداقت کی پہچان حاصل ہوتی ہے تو اس کی مذمت کا تصور کیسے ہو سکتا ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی تعریف فرمائی ہے اگر اس کی مذمت کی جائے تو پھر کس چیز کی تعریف کی جائے گی جب شریعت قابل تعریف ہے تو شریعت کی صحت کا علم کیسے حاصل ہوگا۔

اگر اس عقل کے ذریعے معلوم ہو جو خود مذموم ہے اور اس پر یقین نہیں کیا جا سکتا تو شریعت بھی مذموم ہوگی اس شخص کی طرف توجہ نہ کی جائے جو کہتا ہے کہ اس کا ادراک یقین کی آنکھ اور نور ایمان سے ہوتا ہے عقل کے ذریعے نہیں کیونکہ ہم بھی عقل سے عین یقین اور نور ایمان ہی مراد لیتے ہیں اور یہ باطنی صفت ہے جس کے ذریعے انسان، جانوروں سے ممتاز ہوتا ہے حتیٰ کہ وہ اس کے ذریعے ہر چیز کی حقیقت کو پالتا ہے۔

اس قسم کے اکثر مغالطے ان لوگوں کی جہالت کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں جو حقائق کو الفاظ کے ذریعے تلاش کرتے ہیں تو مغالطے میں پڑتے ہیں کیوں کہ الفاظ میں لوگوں کی اصطلاحات مغالطوں کا شکار ہیں۔ عقل کے بیان میں اس قدر کافی۔ اور اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔

اللہ تعالیٰ کی حمد و احسان سے علم کا بیان مکمل ہوا۔ ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور زمین و آسمان کے ہر منتخب بندے پر رحمت ہو اس کے بعد قواعد عقائد کا بیان ہوگا۔ ان شاء اللہ تعالیٰ۔ اول و آخر اللہ وحدہ لا شریک کے لیے حمد ہے۔

قواعد عقائد کا بیان

اس میں چار فضول ہیں :-

پہلی فصل :

کلمہ شہادت جو اسلام کی بنیادوں میں سے ایک ہے کے بارے میں اہل سنت و جماعت کا عقیدہ

تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو پیدا کرنے والا اور دوبارہ لوٹانے والا ہے بزرگی والے عرش کا مالک اور سخت پکڑ والا ہے، اپنے منتخب بندوں کو راہ ہدایت اور رسید سے مسک کی طرف راہنمائی کرنے والا ہے، توحید کی شہادت کے بعد تک و شبہ کی اندھیروں سے ان کے حفاظت کے ذریعے ان پر انعام فرماتا ہے ان کو اپنے منتخب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور کرم و محترم صحابہ کرام کے نشانات پر چلانا ہے اپنی ذات اور افعال کو اچھے اوصاف کے ساتھ ان پر روشن کرتا ہے کہ ان کا ادراک صرف وہی شخص کر سکتا ہے جو اس طرف توجہ کرتا اور حاضر رہتا ہے وہ ان کو اپنی ذات گرامی کی معرفت عطا فرماتا ہے کہ وہ ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں، یکتا ہے اس کی کوئی مثل نہیں، بے مثال ہے اس کا کوئی مقابل نہیں، تنہا ہے اس کا کوئی شریک نہیں، وہ واحد و قدیم ہے اس سے پہلے کوئی نہیں وہ ہمیشہ سے ہے اس کی ابتدا نہیں، اس کا وجود ہمیشہ رہے گا اس کا آخر نہیں دائمی ہے اس کی انتہاء نہیں، قائم ہے اس کے لیے اختتام نہیں ہمیشہ کے لیے ہے اس کے لیے ٹوٹنا نہیں وہ بزرگانہ صفات سے موصوف ہے اور رہے گا، مدتوں اور زمانوں کے گزر جانے سے اس کے لیے ختم ہونا اور جدا ہونا نہیں ہے بلکہ وہی اول و آخر ہے، ظاہر و باطن ہے اور وہ ہر چیز کو جانتے والا ہے۔

تشریح خلاقیت

وہ نہ جسم صوری ہے نہ جوہر ہے جو کسی خدا اور مقدار میں اس کے وہ جسموں کی مثل نہیں نہ اندازہ کرنے میں اور نہ تقسیم کو قبول کرنے میں، نہ وہ جوہر ہے اور نہ اس میں کوئی جوہر آسکتا ہے نہ وہ عرض ہے اور نہ اس پر اعتراض آسکتے ہیں بلکہ وہ کسی موجود کی مثل نہیں اور نہ کوئی موجود اس کی مثل ہے کوئی چیز اس کی مثل نہیں اور وہ بھی کسی چیز کی مثل نہیں نہ وہ مقدار میں آتا ہے نہ کنارے اس کا احاطہ کر سکتے ہیں اور نہ وہ جہات کے احاطہ میں آتا ہے، زمین و آسمان اس کو گھیر نہیں سکتے اور اس نے عرش پر استواء فرمایا جس طرح اس نے ارشاد فرمایا اور اس طریقے پر جس کی مراد ہے وہ ایسا استواء ہے جو چھوٹے قرار پکڑنے، ٹھہرنے، داخل ہونے اور

منقل ہونے سے پاک ہے۔ عرش اسے نہیں اٹھاتا بلکہ عرش اور اس کو اٹھانے والے اس کی قدرت کے ساتھ اٹھائے گئے ہیں وہ اس کے قبضہ میں بند ہیں وہ عرش اور آسمان کے اوپر ہے اور وہ تخت اثری تک کی ہر چیز سے اوپر ہے یہ بلندی ایسی نہیں جس کی وجہ سے وہ عرش و آسمان کے قریب ہے اور زمین اور تخت اثری سے دُور ہے بلکہ وہ عرش اور آسمان سے درجات کے اعتبار سے بلند ہے جیسے وہ زمین اور اثری سے باعتبار درجات کے بلند ہے اس کے باوجود وہ ہر چیز کے قریب ہے وہ بندے کی شہ رگ سے بھی زیادہ اس کے قریب ہے ہر چیز اس کے ساتھ ہے کیوں کہ اس کا قرب، جسموں کے قرب کی طرح نہیں ہے جیسے اس کی ذات، ذوات اجسام کی مثل نہیں وہ کسی چیز میں حلول نہیں کرتا اور نہ کوئی چیز اس میں حلول کرتی ہے وہ اس بات سے بلند ہے کہ کوئی مکان اس کو گھیرے جس کی طرح وہ زمانے کے دائرے میں محدود ہونے سے پاک ہے بلکہ وہ تو زبان و مکان کی تخلیق سے پہلے ہی موجود تھا اور وہ اب بھی پہلے کی طرح ہے وہ اپنی صفات کے ساتھ مخلوق سے ممتاز ہے اس کی ذات میں کوئی دوسرا نہیں اور وہ کسی دوسری ذات میں نہیں وہ تبدیلی اور انتقال سے پاک ہے حادثات اور عوارضات اس پر وارد نہیں ہوتے بلکہ وہ ہمیشہ بزرگی کے ساتھ مصف اور زوال سے منزه رہتا ہے وہ اپنی صفات کمالیہ میں مزید کمال حاصل کرنے سے بے نیاز ہے اس کی ذات عقل کے اعتبار سے بھی معلوم و موجود ہے قیامت کے دن نیک لوگ اس کے فضل و کرم اور مہربانی سے آنکھوں کے ساتھ اس کی زیارت کریں گے اس کے جمال اقدس کو آنکھوں کے ساتھ دیکھنے سے اس کی نعمتوں کی تکمیل ہوگی۔

بلاشبہ اللہ تعالیٰ زندہ قادر ہے، جبار و غالب ہے اسے کوئی اور عاجزی لاحق نہیں ہوتی نہ اسے اونگھ اور نیند آتی ہے اور نہ اس کے لیے فنا اور موت ہے وہ بادشاہی اور ملکوت کا مالک اور عزت و جبروت والا ہے وہ غالب ہے، پیدا کرنا اور حکم دنیا اسی کے اختیار میں ہے تمام آسمان اس کے قابو میں ہیں اور تمام مخلوق بھی اس کے کنٹرول میں ہے پیدا کرنے اور ایجاد میں وہ یکتا ہے کسی چیز کو ابتدائی وجود دینے اور کسی نمونہ کے بغیر پیدا کرنے میں وہ ایک ہے اس نے مخلوق اور ان کے اعمال کو پیدا کیا ان کے رزق اور رزق قوت کا تعین کیا کوئی بھی چیز اس کے قابو سے باہر نہیں جاسکتی معاملات میں تصرفات اس کی قدرت سے باہر نہیں نکل سکتے نہ اس کی مقدرات (جو چیزیں اس کی قدرت کے تحت داخل ہیں) کا شمار ہے اور نہ ہی اس کی معلومات کی انتہا ہے۔

علم
وہ تمام معلومات کا عالم ہے زمین کی تہ سے لے کر آسمانوں کی بلندی تک جو کچھ جاری ہے سب کو گھیرنے والا ہے وہ ایسا عالم ہے کہ اس کے علم سے زمین و آسمان کا کوئی ذرہ باہر نہیں جاسکتا بلکہ وہ سخت ازاد طبری رات میں صاف چٹان پر چلتے والی سیاہ چوٹی کے چلنے کی آواز کو بھی جانتا ہے وہ فضا میں ایک ذرے کی حرکت

کو بھی جانتا ہے وہ پوشیدہ امور کو جانتا ہے وہ دلوں کے دوسوں اور خطرات اور پوشیدہ باتوں کا علم رکھتا ہے اس کا علم قدیم ازلی ہے اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اس علم کے ساتھ موصوف رہا ہے اس کا علم جدید نہیں اور نہ ہی وہ اس کی ذات میں آنے کی وجہ سے حاصل ہوا ہے۔

ارادہ وہ کائنات کا ارادہ فرمانے والا اور نوپیداہ امور کی تدبیر فرمانے والا ہے ملک و ملکوت میں تھوڑی یا زیادہ، چھوٹی یا بڑی، خیر یا شر، نفع یا نقصان، زیادتی یا کمی اطاعت یا عصیان ہر چیز اسی کے فیصلے اور قدرت نیز حکمت و مشیت سے پیدا ہوتی ہے جس چیز کو چاہتا ہے وہ ہو جاتی ہے اور جسے نہیں چاہتا وہ نہیں ہوتی اس کی مشیت سے پلک کا جھپکنا اور دل کا خیال باہر نہیں نکل سکتا وہی ابتدا پر پیدا کرنے اور پھر (قیامت کے دن) لوٹانے والا ہے جو چاہتا ہے کرتا ہے اس کے حکم کو کوئی ٹال نہیں سکتا اس کے فیصلے کو کوئی پیچھے نہیں کر سکتا ہے اس کی نافرمانی سے اس کی توفیق و رحمت کے بغیر بچنا ممکن نہیں اس کی عبادت کی قوت بھی اس کی مشیت و ارادہ سے حاصل ہوتی ہے۔

اگر تمام انسان، جن، فرشتے اور شیطان دنیا میں کسی ذرہ کو حرکت دینے پر اتفاق کر لیں یا اسے ٹھہرا دیں تو اللہ تعالیٰ کے ارادہ اور مشیت کے بغیر وہ اس سے عاجز رہ جائیں گے، اس کا ارادہ دیگر صفات کے ساتھ اس کی ذات میں قائم ہے وہ ہمیشہ سے اس سے موصوف ہے اس نے ازل میں اشیاء کے وجود کا ان کے اوقات پر (ظہور کا) ارادہ فرمایا چنانچہ اس کے ازلی ارادے کے مطابق ہر چیز کسی تقدم و تاخیر کے بغیر اپنے وقت پر ظاہر ہوئی۔ بلکہ کسی تغیر و تبدیل کے بغیر اس کے علم و ارادہ کے مطابق واقع ہوئی اس نے امور کی تدبیر، ترتیب، افکار اور تاخیر وقت کے بغیر فرمائی اسی لیے اسے کوئی ایک کام دوسرے کام سے غائل نہیں کرتا۔

سماعت و بصارت اللہ تعالیٰ سمیع و بصیر ہے وہ سنا اور دیکھتا ہے اس کی سماعت سے کوئی سنی جانے والی چیز باہر نہیں جاتی اگرچہ وہ مخفی ہو۔ اور باریک سے باریک چیز بھی اس کی نظر سے مخفی نہیں رہتی اس کی سماعت میں دُوری رکاوٹ نہیں بنتی نہ اندھیرا اس کے دیکھنے کو دُور کر سکتا ہے، وہ آنکھوں کے پتلیوں اور پلکوں کے بغیر دیکھتا ہے اور کانوں اور سوراخ کے بغیر سنا ہے جیسے وہ دل کے بغیر جانتا ہے اور کسی عضو کے بغیر کھڑتا ہے اور کسی آلہ کے بغیر پیدا کرتا ہے کیونکہ اس کی صفات مخلوق کی صفات جیسی نہیں ہیں جیسے اس کی ذات مخلوق کی ذات کی طرح نہیں ہے۔

کلام اللہ تعالیٰ کلام فرمانے والا، حکم دینے والا اور منع کرنے والا ہے اس کا کلام ازلی قدیم اور اس کی ذات کے ساتھ قائم ہے جو کلام مخلوق کے مشابہ نہیں ہے وہ آواز کے ساتھ نہیں ہوتا جو ہوا کے کھینچنے یا اجسام کی حرکت سے پیدا ہوتی ہے وہ کلام ہونٹوں کے بند ہونے یا زبان کی حرکت سے پیدا نہیں ہوتا قرآن پاک، تورات انجیل اور زبور اس کی کتب میں جو اس نے اپنے رسولوں علیہم السلام پر نازل کی ہیں قرآن پاک زبانوں سے پڑھا جاتا، مصاحف میں

لکھا جاتا اور دلوں میں محفوظ ہوتا ہے اس کے باوجود یہ رکلام) قدیم ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ قائم ہے دلوں اور اوراق کی طرف منتقل ہونے کے باوجود وہ اس (ذات باری تعالیٰ) سے جدا نہیں ہوتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا کلام آواز اور حرف کے بغیر سنا جس طرح نیکو کار لوگ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی زیارت یوں کریں گے کہ نہ تو وہ جو ہر (جو خود قائم ہو) ہو گا اور نہ عرض (جو دوسری چیز کے ہاتھ قائم ہوتا ہے) جب وہ ان صفات سے متصف ہے تو وہ حیات، قدرت، علم، ارادہ، سماعت، بصارت اور کلام کی وصیہ سے زندہ، عالم، قادر، ارادہ کرنے والا، سننے والا، دیکھنے والا، اور کلام کرنے والا ہے، محض ذات کی وصیہ سے نہیں۔

افعال

اللہ تعالیٰ کے سوا جو کچھ موجود ہے وہ اس کے فعل سے پیدا ہوا اور اس کے عدل کا فیضان ہے وہ نہایت اچھے طریقے پر، حد درجہ کامل و تمام اور نہایت درست پیدا ہوا۔ وہ اپنے افعال میں صاحبِ حکمت ہے، اپنے فیصلوں میں انصاف کرنے والا ہے لیکن اس کے عدل کو بندوں کے عدل پر قیاس نہیں کیا جاسکتا کیوں کہ بندے سے ظلم کا تصور بھی ہو سکتا کہ وہ دوسرے کی ملک میں تصرف کرے لیکن اللہ تعالیٰ کے بارے میں ظلم کا تصور بھی نہیں ہو سکتا کیوں کہ اس کے علاوہ کوئی مالک نہیں کہ اس (خداوند تعالیٰ) کا تصرف ظلم بن جائے۔ اس کے سوا جو کچھ ہے چاہے وہ انسان اور جن ہوں، فرشتے ہوں یا شیطان، آسمان وزمین ہو یا حیوانات، نباتات و جمادات ہوں یا جو ہر و عرض اس چیز کا ادراک ہونا ہو یا وہ محسوسات میں سے ہو سب کچھ حادث بنے جسے وہ اپنی قدرت کے ساتھ عدم سے وجود میں لایا ہے اور اس کے بعد کہ وہ کچھ نہیں تھا اسے پیدا کیا۔ ازل میں صرف وہی ذات تھی اس کے ساتھ کوئی دوسرا نہ تھا اس کے بعد اس نے اپنی قدرت کے اظہار اور اپنے سابقہ ارادے کو ثابت کرنے کے لیے مخلوق کو پیدا کیا اور اس لیے بھی کہ ازل میں اس کی بات ہو چکی تھی اس لیے نہیں کہ وہ اس (مخلوق) کا حاجت مند ہے۔

اس نے مخلوق کو پیدا کرنے کے اور اس کو مکلف بنا کر احسان فرمایا یہ عمل اس پر واجب نہ تھا اس نے العالم سے نوازا اور صلاح کی لیکن یہ بات اس پر لازم نہ تھی وہی فضل و احسان کرنے والا اور نعمت عطا کرنے والا ہے کیوں کہ وہ اپنے بندوں کو طرح طرح کے عذاب میں مبتلا کرنے پر قادر تھا وہ انہیں مختلف قسم کی تکالیف و مصائب میں مبتلا کر سکتا تھا اور اگر وہ ایسا کرتا تو اس کی طرف سے عدل ہوتا نہ تو یہ بات قبیح ہوتی اور نہ ظلم لیکن بلند و بالا ذات اپنے کرم اور وعدے کے مطابق اپنے مومن بندوں کو ان کی عبادت پر ثواب عطا فرماتا ہے اس لیے نہیں کہ وہ اس کے مستحق ہیں اور یہ بات اللہ تعالیٰ پر لازم ہے کیوں کہ اس پر کسی کے لیے کوئی بات واجب نہیں اور نہ اس سے ظلم متصور ہے کسی کا اس پر کوئی حق نہیں بلکہ اس نے مخلوق پر اپنا حق عبادت کی صورت میں انبیاء کرام علیہم السلام کی مبارک نہ بانوں کے واسطے سے لازم کیا جس عقل کی وصیہ سے نہیں، بلکہ اس نے رسل عظام کو بھیجا اور واضح معجزات کے ذریعے ان کی سچائی کو ظاہر کیا، انہوں نے اس کے امر و نہی اور وعدہ و وعید کو لوگوں تک پہنچایا پس جو کچھ انبیاء کرام لائے ہیں لوگوں پر اس

کی تصدیق واجب ہے۔

اس نے کسی سے نہ پڑھے ہوئے قریشی نبی
حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی رسالت

کلمہ شہادت کے دوسرے حصہ رسالت کا مفہوم

کے ساتھ بھیجا جو تمام عرب و عجم اور جن دانش کے لیے کفایت کرتی ہے پس اس نے آپ کی شریعت کے ذریعے سابقہ
شریعتوں کو منسوخ کر دیا سوائے ان باتوں کے جن کو باقی رکھا، سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء کرام پر فضیلت
عطا فرمائی اور آپ کو تمام انسانوں کا سردار بنایا۔ اور شہادت تو حید یعنی لا الہ الا اللہ کو اس وقت تک قبول نہ فرمایا جب
تک اس کے ساتھ شہادت رسالت یعنی ”محمد رسول اللہ“ ملا ہوا نہ ہو۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیوی اور آخری امور کے بارے میں جو کچھ بتایا اس سب کی تصدیق امت پر لازم فرمائی ہے
میز کسی شخص کا ایمان اس وقت تک قبول نہیں ہوگا جب تک وہ اس بات پر ایمان نہ لائے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
موت کے بعد کے بارے میں بتائی ہے ان باتوں میں سے پہلی بات منکر نکیر کا سوال کرنا ہے یہ دونوں فرشتے، ڈراؤنی انسان
شکل میں ہیں وہ بندے کو قبر میں سیدھا بٹھا دیتے ہیں اور وہ بندہ اس وقت رُوح اور جسم کے ساتھ ہوتا ہے وہ اس سے
توحید و رسالت کے بارے میں پوچھتے ہیں اور کہتے ہیں تیرا رب کون ہے؟ تیرا دین کیا ہے؟ اور تیرے نبی صلی اللہ علیہ

وسلم کون ہیں؟ (۱)

وہ دونوں قبر کی آزمائش ہیں اور ان کا پوچھنا موت کے بعد پہلی آزمائش ہے عذابِ قبر پر ایمان لائے اور یہ کہ وہ سچی ہے۔
نیز رُوح و جسم پر اس کی منشاء کے مطابق حکم اس کا عدل سے میزان (ترازو) پر ایمان لائے جو دو ہتھیلیوں اور زبان والا
ہوگا وہ آسمانوں اور زمین کے طبقات جتنا بڑا ہوگا اللہ تعالیٰ کی قدرت سے اس میں اعمال کا وزن ہوگا اس دن باٹ ذرے اور
رائی کے دانے کے برابر ہوگا تا کہ مکمل طور پر انصاف ہو نیکیوں کے اعمال نامے نور کے پلڑے ہیں اچھی صورت میں رکھے جائیں
گے تو جس قدر اللہ تعالیٰ کے ہاں ان نیکیوں کے درجات ہوں گے فضلِ خداوندی سے اسی قدر بڑا بھاری ہوگا جب کہ
برائیوں کے کتب کو اندھیرے پلڑے میں نہایت قبیح صورت میں ڈالا جائے گا تو اللہ تعالیٰ کے عدل سے میزان ہلکا ہو جائے
گا۔ اس بات پر بھی ایمان لانا ضروری ہے کہ پل صراطِ حق ہے وہ پل جہنم کی پشت پر کھینچا گیا ہے وہ تلوار سے زیادہ تیز اور
بال سے زیادہ باریک ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس پر کافروں کے قدم پھیل گئے، تو وہ جہنم بھی گر جائیں گے جب کہ بفضلہ
تعالیٰ اس پر مومنوں کے قدم ٹھہرے رہیں گے تو انہیں قرار دالے گھر کی طرف سے جایا جائے گا۔ اس حوض پر بھی ایمان
لانا ضروری ہے جس پر مسلمان گزریں گے یہ حضور علیہ السلام کا حوض کہلاتا ہے مومن لوگ جنت میں داخل ہونے سے پہلے اور

(۱) جامع سنن ترمذی جلد اول ص ۱۷۳، ۱۷۴، ۱۷۵، ۱۷۶، ۱۷۷، ۱۷۸، ۱۷۹، ۱۸۰، ۱۸۱، ۱۸۲، ۱۸۳، ۱۸۴، ۱۸۵، ۱۸۶، ۱۸۷، ۱۸۸، ۱۸۹، ۱۹۰، ۱۹۱، ۱۹۲، ۱۹۳، ۱۹۴، ۱۹۵، ۱۹۶، ۱۹۷، ۱۹۸، ۱۹۹، ۲۰۰، ۲۰۱، ۲۰۲، ۲۰۳، ۲۰۴، ۲۰۵، ۲۰۶، ۲۰۷، ۲۰۸، ۲۰۹، ۲۱۰، ۲۱۱، ۲۱۲، ۲۱۳، ۲۱۴، ۲۱۵، ۲۱۶، ۲۱۷، ۲۱۸، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۳، ۲۲۴، ۲۲۵، ۲۲۶، ۲۲۷، ۲۲۸، ۲۲۹، ۲۳۰، ۲۳۱، ۲۳۲، ۲۳۳، ۲۳۴، ۲۳۵، ۲۳۶، ۲۳۷، ۲۳۸، ۲۳۹، ۲۴۰، ۲۴۱، ۲۴۲، ۲۴۳، ۲۴۴، ۲۴۵، ۲۴۶، ۲۴۷، ۲۴۸، ۲۴۹، ۲۵۰، ۲۵۱، ۲۵۲، ۲۵۳، ۲۵۴، ۲۵۵، ۲۵۶، ۲۵۷، ۲۵۸، ۲۵۹، ۲۶۰، ۲۶۱، ۲۶۲، ۲۶۳، ۲۶۴، ۲۶۵، ۲۶۶، ۲۶۷، ۲۶۸، ۲۶۹، ۲۷۰، ۲۷۱، ۲۷۲، ۲۷۳، ۲۷۴، ۲۷۵، ۲۷۶، ۲۷۷، ۲۷۸، ۲۷۹، ۲۸۰، ۲۸۱، ۲۸۲، ۲۸۳، ۲۸۴، ۲۸۵، ۲۸۶، ۲۸۷، ۲۸۸، ۲۸۹، ۲۹۰، ۲۹۱، ۲۹۲، ۲۹۳، ۲۹۴، ۲۹۵، ۲۹۶، ۲۹۷، ۲۹۸، ۲۹۹، ۳۰۰، ۳۰۱، ۳۰۲، ۳۰۳، ۳۰۴، ۳۰۵، ۳۰۶، ۳۰۷، ۳۰۸، ۳۰۹، ۳۱۰، ۳۱۱، ۳۱۲، ۳۱۳، ۳۱۴، ۳۱۵، ۳۱۶، ۳۱۷، ۳۱۸، ۳۱۹، ۳۲۰، ۳۲۱، ۳۲۲، ۳۲۳، ۳۲۴، ۳۲۵، ۳۲۶، ۳۲۷، ۳۲۸، ۳۲۹، ۳۳۰، ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۳، ۳۳۴، ۳۳۵، ۳۳۶، ۳۳۷، ۳۳۸، ۳۳۹، ۳۴۰، ۳۴۱، ۳۴۲، ۳۴۳، ۳۴۴، ۳۴۵، ۳۴۶، ۳۴۷، ۳۴۸، ۳۴۹، ۳۵۰، ۳۵۱، ۳۵۲، ۳۵۳، ۳۵۴، ۳۵۵، ۳۵۶، ۳۵۷، ۳۵۸، ۳۵۹، ۳۶۰، ۳۶۱، ۳۶۲، ۳۶۳، ۳۶۴، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۶۷، ۳۶۸، ۳۶۹، ۳۷۰، ۳۷۱، ۳۷۲، ۳۷۳، ۳۷۴، ۳۷۵، ۳۷۶، ۳۷۷، ۳۷۸، ۳۷۹، ۳۸۰، ۳۸۱، ۳۸۲، ۳۸۳، ۳۸۴، ۳۸۵، ۳۸۶، ۳۸۷، ۳۸۸، ۳۸۹، ۳۹۰، ۳۹۱، ۳۹۲، ۳۹۳، ۳۹۴، ۳۹۵، ۳۹۶، ۳۹۷، ۳۹۸، ۳۹۹، ۴۰۰، ۴۰۱، ۴۰۲، ۴۰۳، ۴۰۴، ۴۰۵، ۴۰۶، ۴۰۷، ۴۰۸، ۴۰۹، ۴۱۰، ۴۱۱، ۴۱۲، ۴۱۳، ۴۱۴، ۴۱۵، ۴۱۶، ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۱۹، ۴۲۰، ۴۲۱، ۴۲۲، ۴۲۳، ۴۲۴، ۴۲۵، ۴۲۶، ۴۲۷، ۴۲۸، ۴۲۹، ۴۳۰، ۴۳۱، ۴۳۲، ۴۳۳، ۴۳۴، ۴۳۵، ۴۳۶، ۴۳۷، ۴۳۸، ۴۳۹، ۴۴۰، ۴۴۱، ۴۴۲، ۴۴۳، ۴۴۴، ۴۴۵، ۴۴۶، ۴۴۷، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۰، ۴۵۱، ۴۵۲، ۴۵۳، ۴۵۴، ۴۵۵، ۴۵۶، ۴۵۷، ۴۵۸، ۴۵۹، ۴۶۰، ۴۶۱، ۴۶۲، ۴۶۳، ۴۶۴، ۴۶۵، ۴۶۶، ۴۶۷، ۴۶۸، ۴۶۹، ۴۷۰، ۴۷۱، ۴۷۲، ۴۷۳، ۴۷۴، ۴۷۵، ۴۷۶، ۴۷۷، ۴۷۸، ۴۷۹، ۴۸۰، ۴۸۱، ۴۸۲، ۴۸۳، ۴۸۴، ۴۸۵، ۴۸۶، ۴۸۷، ۴۸۸، ۴۸۹، ۴۹۰، ۴۹۱، ۴۹۲، ۴۹۳، ۴۹۴، ۴۹۵، ۴۹۶، ۴۹۷، ۴۹۸، ۴۹۹، ۵۰۰، ۵۰۱، ۵۰۲، ۵۰۳، ۵۰۴، ۵۰۵، ۵۰۶، ۵۰۷، ۵۰۸، ۵۰۹، ۵۱۰، ۵۱۱، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۵۱۵، ۵۱۶، ۵۱۷، ۵۱۸، ۵۱۹، ۵۲۰، ۵۲۱، ۵۲۲، ۵۲۳، ۵۲۴، ۵۲۵، ۵۲۶، ۵۲۷، ۵۲۸، ۵۲۹، ۵۳۰، ۵۳۱، ۵۳۲، ۵۳۳، ۵۳۴، ۵۳۵، ۵۳۶، ۵۳۷، ۵۳۸، ۵۳۹، ۵۴۰، ۵۴۱، ۵۴۲، ۵۴۳، ۵۴۴، ۵۴۵، ۵۴۶، ۵۴۷، ۵۴۸، ۵۴۹، ۵۵۰، ۵۵۱، ۵۵۲، ۵۵۳، ۵۵۴، ۵۵۵، ۵۵۶، ۵۵۷، ۵۵۸، ۵۵۹، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۲، ۵۶۳، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶، ۵۶۷، ۵۶۸، ۵۶۹، ۵۷۰، ۵۷۱، ۵۷۲، ۵۷۳، ۵۷۴، ۵۷۵، ۵۷۶، ۵۷۷، ۵۷۸، ۵۷۹، ۵۸۰، ۵۸۱، ۵۸۲، ۵۸۳، ۵۸۴، ۵۸۵، ۵۸۶، ۵۸۷، ۵۸۸، ۵۸۹، ۵۹۰، ۵۹۱، ۵۹۲، ۵۹۳، ۵۹۴، ۵۹۵، ۵۹۶، ۵۹۷، ۵۹۸، ۵۹۹، ۶۰۰، ۶۰۱، ۶۰۲، ۶۰۳، ۶۰۴، ۶۰۵، ۶۰۶، ۶۰۷، ۶۰۸، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۱۱، ۶۱۲، ۶۱۳، ۶۱۴، ۶۱۵، ۶۱۶، ۶۱۷، ۶۱۸، ۶۱۹، ۶۲۰، ۶۲۱، ۶۲۲، ۶۲۳، ۶۲۴، ۶۲۵، ۶۲۶، ۶۲۷، ۶۲۸، ۶۲۹، ۶۳۰، ۶۳۱، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۳۴، ۶۳۵، ۶۳۶، ۶۳۷، ۶۳۸، ۶۳۹، ۶۴۰، ۶۴۱، ۶۴۲، ۶۴۳، ۶۴۴، ۶۴۵، ۶۴۶، ۶۴۷، ۶۴۸، ۶۴۹، ۶۵۰، ۶۵۱، ۶۵۲، ۶۵۳، ۶۵۴، ۶۵۵، ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۵۸، ۶۵۹، ۶۶۰، ۶۶۱، ۶۶۲، ۶۶۳، ۶۶۴، ۶۶۵، ۶۶۶، ۶۶۷، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۰، ۶۷۱، ۶۷۲، ۶۷۳، ۶۷۴، ۶۷۵، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۸، ۶۷۹، ۶۸۰، ۶۸۱، ۶۸۲، ۶۸۳، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۸۶، ۶۸۷، ۶۸۸، ۶۸۹، ۶۹۰، ۶۹۱، ۶۹۲، ۶۹۳، ۶۹۴، ۶۹۵، ۶۹۶، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹، ۷۰۰، ۷۰۱، ۷۰۲، ۷۰۳، ۷۰۴، ۷۰۵، ۷۰۶، ۷۰۷، ۷۰۸، ۷۰۹، ۷۱۰، ۷۱۱، ۷۱۲، ۷۱۳، ۷۱۴، ۷۱۵، ۷۱۶، ۷۱۷، ۷۱۸، ۷۱۹، ۷۲۰، ۷۲۱، ۷۲۲، ۷۲۳، ۷۲۴، ۷۲۵، ۷۲۶، ۷۲۷، ۷۲۸، ۷۲۹، ۷۳۰، ۷۳۱، ۷۳۲، ۷۳۳، ۷۳۴، ۷۳۵، ۷۳۶، ۷۳۷، ۷۳۸، ۷۳۹، ۷۴۰، ۷۴۱، ۷۴۲، ۷۴۳، ۷۴۴، ۷۴۵، ۷۴۶، ۷۴۷، ۷۴۸، ۷۴۹، ۷۵۰، ۷۵۱، ۷۵۲، ۷۵۳، ۷۵۴، ۷۵۵، ۷۵۶، ۷۵۷، ۷۵۸، ۷۵۹، ۷۶۰، ۷۶۱، ۷۶۲، ۷۶۳، ۷۶۴، ۷۶۵، ۷۶۶، ۷۶۷، ۷۶۸، ۷۶۹، ۷۷۰، ۷۷۱، ۷۷۲، ۷۷۳، ۷۷۴، ۷۷۵، ۷۷۶، ۷۷۷، ۷۷۸، ۷۷۹، ۷۸۰، ۷۸۱، ۷۸۲، ۷۸۳، ۷۸۴، ۷۸۵، ۷۸۶، ۷۸۷، ۷۸۸، ۷۸۹، ۷۹۰، ۷۹۱، ۷۹۲، ۷۹۳، ۷۹۴، ۷۹۵، ۷۹۶، ۷۹۷، ۷۹۸، ۷۹۹، ۸۰۰، ۸۰۱، ۸۰۲، ۸۰۳، ۸۰۴، ۸۰۵، ۸۰۶، ۸۰۷، ۸۰۸، ۸۰۹، ۸۱۰، ۸۱۱، ۸۱۲، ۸۱۳، ۸۱۴، ۸۱۵، ۸۱۶، ۸۱۷، ۸۱۸، ۸۱۹، ۸۲۰، ۸۲۱، ۸۲۲، ۸۲۳، ۸۲۴، ۸۲۵، ۸۲۶، ۸۲۷، ۸۲۸، ۸۲۹، ۸۳۰، ۸۳۱، ۸۳۲، ۸۳۳، ۸۳۴، ۸۳۵، ۸۳۶، ۸۳۷، ۸۳۸، ۸۳۹، ۸۴۰، ۸۴۱، ۸۴۲، ۸۴۳، ۸۴۴، ۸۴۵، ۸۴۶، ۸۴۷، ۸۴۸، ۸۴۹، ۸۵۰، ۸۵۱، ۸۵۲، ۸۵۳، ۸۵۴، ۸۵۵، ۸۵۶، ۸۵۷، ۸۵۸، ۸۵۹، ۸۶۰، ۸۶۱، ۸۶۲، ۸۶۳، ۸۶۴، ۸۶۵، ۸۶۶، ۸۶۷، ۸۶۸، ۸۶۹، ۸۷۰، ۸۷۱، ۸۷۲، ۸۷۳، ۸۷۴، ۸۷۵، ۸۷۶، ۸۷۷، ۸۷۸، ۸۷۹، ۸۸۰، ۸۸۱، ۸۸۲، ۸۸۳، ۸۸۴، ۸۸۵، ۸۸۶، ۸۸۷، ۸۸۸، ۸۸۹، ۸۹۰، ۸۹۱، ۸۹۲، ۸۹۳، ۸۹۴، ۸۹۵، ۸۹۶، ۸۹۷، ۸۹۸، ۸۹۹، ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۰۲، ۹۰۳، ۹۰۴، ۹۰۵، ۹۰۶، ۹۰۷، ۹۰۸، ۹۰۹، ۹۱۰، ۹۱۱، ۹۱۲، ۹۱۳، ۹۱۴، ۹۱۵، ۹۱۶، ۹۱۷، ۹۱۸، ۹۱۹، ۹۲۰، ۹۲۱، ۹۲۲، ۹۲۳، ۹۲۴، ۹۲۵، ۹۲۶، ۹۲۷، ۹۲۸، ۹۲۹، ۹۳۰، ۹۳۱، ۹۳۲، ۹۳۳، ۹۳۴، ۹۳۵، ۹۳۶، ۹۳۷، ۹۳۸، ۹۳۹، ۹۴۰، ۹۴۱، ۹۴۲، ۹۴۳، ۹۴۴، ۹۴۵، ۹۴۶، ۹۴۷، ۹۴۸، ۹۴۹، ۹۵۰، ۹۵۱، ۹۵۲، ۹۵۳، ۹۵۴، ۹۵۵، ۹۵۶، ۹۵۷، ۹۵۸، ۹۵۹، ۹۶۰، ۹۶۱، ۹۶۲، ۹۶۳، ۹۶۴، ۹۶۵، ۹۶۶، ۹۶۷، ۹۶۸، ۹۶۹، ۹۷۰، ۹۷۱، ۹۷۲، ۹۷۳، ۹۷۴، ۹۷۵، ۹۷۶، ۹۷۷، ۹۷۸، ۹۷۹، ۹۸۰، ۹۸۱، ۹۸۲، ۹۸۳، ۹۸۴، ۹۸۵، ۹۸۶، ۹۸۷، ۹۸۸، ۹۸۹، ۹۹۰، ۹۹۱، ۹۹۲، ۹۹۳، ۹۹۴، ۹۹۵، ۹۹۶، ۹۹۷، ۹۹۸، ۹۹۹، ۱۰۰۰، ۱۰۰۱، ۱۰۰۲، ۱۰۰۳، ۱۰۰۴، ۱۰۰۵، ۱۰۰۶، ۱۰۰۷، ۱۰۰۸، ۱۰۰۹، ۱۰۱۰، ۱۰۱۱، ۱۰۱۲، ۱۰۱۳، ۱۰۱۴، ۱۰۱۵، ۱۰۱۶، ۱۰۱۷، ۱۰۱۸، ۱۰۱۹، ۱۰۲۰، ۱۰۲۱، ۱۰۲۲، ۱۰۲۳، ۱۰۲۴، ۱۰۲۵، ۱۰۲۶، ۱۰۲۷، ۱۰۲۸، ۱۰۲۹، ۱۰۳۰، ۱۰۳۱، ۱۰۳۲، ۱۰۳۳، ۱۰۳۴، ۱۰۳۵، ۱۰۳۶، ۱۰۳۷، ۱۰۳۸، ۱۰۳۹، ۱۰۴۰، ۱۰۴۱، ۱۰۴۲، ۱۰۴۳، ۱۰۴۴، ۱۰۴۵، ۱۰۴۶، ۱۰۴۷، ۱۰۴۸، ۱۰۴۹، ۱۰۵۰، ۱۰۵۱، ۱۰۵۲، ۱۰۵۳، ۱۰۵۴، ۱۰۵۵، ۱۰۵۶، ۱۰۵۷، ۱۰۵۸، ۱۰۵۹، ۱۰۶۰، ۱۰۶۱، ۱۰۶۲، ۱۰۶۳، ۱۰۶۴، ۱۰۶۵، ۱۰۶۶، ۱۰۶۷، ۱۰۶۸، ۱۰۶۹، ۱۰۷۰، ۱۰۷۱، ۱۰۷۲، ۱۰۷۳، ۱۰۷۴، ۱۰۷۵، ۱۰۷۶، ۱۰۷۷، ۱۰۷۸، ۱۰۷۹، ۱۰۸۰، ۱۰۸۱، ۱۰۸۲، ۱۰۸۳، ۱۰۸۴، ۱۰۸۵، ۱۰۸۶، ۱۰۸۷، ۱۰۸۸، ۱۰۸۹، ۱۰۹۰، ۱۰۹۱، ۱۰۹۲، ۱۰۹۳، ۱۰۹۴، ۱۰۹۵، ۱۰۹۶، ۱۰۹۷، ۱۰۹۸، ۱۰۹۹، ۱۱۰۰، ۱۱۰۱، ۱۱۰۲، ۱۱۰۳، ۱۱۰۴، ۱۱۰۵، ۱۱۰۶، ۱۱۰۷، ۱۱۰۸، ۱۱۰۹، ۱۱۱۰، ۱۱۱۱، ۱۱۱۲، ۱۱۱۳، ۱۱۱۴، ۱۱۱۵، ۱۱۱۶، ۱۱۱۷، ۱۱۱۸، ۱۱۱۹، ۱۱۲۰، ۱۱۲۱، ۱۱۲۲، ۱۱۲۳، ۱۱۲۴، ۱۱۲۵، ۱۱۲۶، ۱۱۲۷، ۱۱۲۸، ۱۱۲۹، ۱۱۳۰، ۱۱۳۱، ۱۱۳۲، ۱۱۳۳، ۱۱۳۴، ۱۱۳۵، ۱۱۳۶، ۱۱۳۷، ۱۱۳۸، ۱۱۳۹، ۱۱۴۰، ۱۱۴۱، ۱۱۴۲، ۱۱۴۳، ۱۱۴۴، ۱۱۴۵، ۱۱۴۶، ۱۱۴۷، ۱۱۴۸، ۱۱۴۹، ۱۱۵۰، ۱۱۵۱، ۱۱۵۲، ۱۱۵۳، ۱۱۵۴، ۱۱۵۵، ۱۱۵۶، ۱۱۵۷، ۱۱۵۸، ۱۱۵۹، ۱۱۶۰، ۱۱۶۱، ۱۱۶۲، ۱۱۶۳، ۱۱۶۴، ۱۱۶۵، ۱۱۶۶، ۱۱۶۷، ۱۱۶۸، ۱۱۶۹، ۱۱۷۰، ۱۱۷۱، ۱۱۷۲، ۱۱۷۳، ۱۱۷۴، ۱۱۷۵، ۱۱۷۶، ۱۱۷۷، ۱۱۷۸، ۱۱۷۹، ۱۱۸۰، ۱۱۸۱، ۱۱۸۲، ۱۱۸۳، ۱۱۸۴، ۱۱۸۵، ۱۱۸۶، ۱۱۸۷، ۱۱۸۸، ۱۱۸۹، ۱۱۹۰، ۱۱۹۱، ۱۱۹۲، ۱۱۹۳، ۱۱۹۴، ۱۱۹۵، ۱۱۹۶، ۱۱۹۷، ۱۱۹۸، ۱۱۹۹، ۱۲۰۰، ۱۲۰۱، ۱۲۰۲، ۱۲۰۳، ۱۲۰۴، ۱۲۰۵، ۱۲۰۶، ۱۲۰۷، ۱۲۰۸، ۱۲۰۹، ۱۲۱۰، ۱۲۱۱، ۱۲۱۲، ۱۲۱۳، ۱۲۱۴، ۱۲۱۵، ۱۲۱۶، ۱۲۱۷، ۱۲۱۸، ۱۲۱۹، ۱۲۲۰، ۱۲۲۱، ۱۲۲۲، ۱۲۲۳، ۱۲۲۴، ۱۲۲۵، ۱۲۲۶، ۱۲۲۷، ۱۲۲۸، ۱۲۲۹، ۱۲۳۰، ۱۲۳۱، ۱۲۳۲، ۱۲۳۳، ۱۲۳۴، ۱۲۳۵، ۱۲۳۶، ۱۲۳۷، ۱۲۳۸، ۱۲۳۹، ۱۲۴۰، ۱۲۴۱، ۱۲۴۲، ۱۲۴۳، ۱۲۴۴، ۱۲۴۵، ۱۲۴۶، ۱۲۴۷، ۱۲۴۸، ۱۲۴۹، ۱۲۵۰، ۱۲۵۱، ۱۲۵۲، ۱۲۵۳، ۱۲۵۴، ۱۲۵۵، ۱۲۵۶، ۱۲۵۷، ۱۲۵۸، ۱۲۵۹، ۱۲۶۰، ۱۲۶۱، ۱۲۶۲، ۱۲۶۳، ۱۲۶۴، ۱۲۶۵، ۱۲۶۶، ۱۲۶۷، ۱۲۶۸، ۱۲۶۹، ۱۲۷۰، ۱۲۷۱، ۱۲۷۲، ۱۲۷۳، ۱۲۷۴، ۱۲۷۵، ۱۲۷۶، ۱۲۷۷، ۱۲۷۸، ۱۲۷۹، ۱۲۸۰، ۱۲۸۱، ۱۲۸۲، ۱۲۸۳، ۱۲۸۴، ۱۲۸۵، ۱۲۸۶، ۱۲۸۷، ۱۲۸۸، ۱۲۸۹، ۱۲۹۰، ۱۲۹۱، ۱۲۹۲، ۱۲۹۳، ۱۲۹۴، ۱۲۹۵، ۱۲۹۶، ۱۲۹۷، ۱۲۹۸، ۱۲۹۹، ۱۳۰۰، ۱۳۰۱، ۱۳۰۲، ۱۳۰۳، ۱۳۰۴، ۱۳۰۵، ۱۳۰۶، ۱۳۰۷، ۱۳۰۸، ۱۳۰۹، ۱۳۱۰، ۱۳۱۱، ۱۳۱۲، ۱۳۱۳، ۱۳۱۴، ۱۳۱۵، ۱۳۱۶، ۱۳۱۷، ۱۳۱۸، ۱۳۱۹، ۱۳۲۰، ۱۳۲۱، ۱۳۲۲، ۱۳۲۳، ۱۳۲۴، ۱۳۲۵، ۱۳۲۶، ۱۳۲۷، ۱۳۲۸، ۱۳۲۹، ۱۳۳۰، ۱۳۳۱، ۱۳۳۲، ۱۳۳۳، ۱۳۳۴، ۱۳۳۵، ۱۳۳۶، ۱۳۳۷، ۱۳۳۸، ۱۳۳۹، ۱۳۴۰، ۱۳۴۱، ۱۳۴۲، ۱۳۴۳، ۱۳۴۴، ۱۳۴۵، ۱۳۴۶، ۱۳۴۷، ۱۳۴۸، ۱۳۴۹، ۱۳۵۰، ۱۳۵۱، ۱۳۵۲، ۱۳۵۳، ۱۳۵۴، ۱۳۵۵، ۱۳۵۶، ۱۳۵۷، ۱۳۵۸، ۱۳۵۹، ۱۳۶۰، ۱۳۶۱، ۱۳۶۲، ۱۳۶۳، ۱۳۶۴، ۱۳۶۵، ۱۳۶۶، ۱۳۶۷، ۱۳۶۸، ۱۳۶۹، ۱۳۷۰، ۱۳۷۱، ۱۳۷۲، ۱۳۷۳، ۱۳۷۴، ۱۳۷۵، ۱۳۷۶، ۱۳۷۷، ۱۳۷۸، ۱۳۷۹، ۱۳۸۰، ۱۳۸۱، ۱۳۸۲، ۱۳۸۳، ۱۳۸۴، ۱۳۸۵، ۱۳۸۶، ۱۳۸۷، ۱۳۸۸، ۱۳۸۹، ۱۳۹۰، ۱۳۹۱، ۱۳۹۲، ۱۳۹۳، ۱۳۹۴، ۱۳۹۵، ۱۳۹۶، ۱۳۹۷، ۱۳۹۸، ۱۳۹۹، ۱۴۰۰، ۱۴۰۱، ۱۴۰۲، ۱۴۰۳، ۱۴۰۴، ۱۴۰۵، ۱۴۰۶، ۱۴۰۷، ۱۴۰۸، ۱۴۰۹، ۱۴۱۰، ۱۴۱۱، ۱۴۱۲، ۱۴۱۳، ۱۴۱۴، ۱۴۱۵، ۱۴۱۶، ۱۴۱۷، ۱۴۱۸، ۱۴۱۹، ۱۴۲۰، ۱۴۲۱، ۱۴۲۲، ۱۴۲۳، ۱۴۲۴، ۱۴۲۵، ۱۴۲۶، ۱۴۲۷، ۱۴۲۸، ۱۴۲۹، ۱۴۳۰، ۱۴۳۱، ۱۴۳۲، ۱۴۳۳، ۱۴۳۴، ۱۴۳۵، ۱۴۳۶، ۱۴۳۷، ۱۴۳۸، ۱۴۳۹، ۱۴۴۰، ۱۴۴۱، ۱۴۴۲، ۱۴۴۳، ۱۴۴۴، ۱۴۴۵، ۱۴۴۶، ۱۴۴۷، ۱۴۴۸، ۱۴۴۹، ۱۴۵۰، ۱۴

پہلے صراط سے گزرنے کے بعد، اس سے پیش گئے جو شخص اس سے ایک گھونٹ پی لے گا وہ اس کے بعد کبھی بھی پیاسا نہیں ہوگا اس کی پوڑائی ایک مہینے کی مسافت ہے اس کا پانی دو درہ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا اس کے پیالے ستاروں کی تعداد سے بھی زیادہ ہوں گے۔ اس میں دو پرنائے ہیں جو کوش سے اس میں گرتے ہیں۔

یعنی جنت سے اگر اس حوض میں گرتے ہیں مترجم۔ حساب و کتاب پر ایمان لانا ضروری ہے اور یہ اعتقاد رکھنا کہ حساب نہیں پوچھ گچھ اور درگزر کے حوالے سے لوگ مختلف ہیں وہ لوگ بھی ہیں جو کسی حساب کے بغیر جنت میں داخل ہوں گے اور یہ مقربین میں اللہ تعالیٰ جس نبی سے چاہیے گا تبلیغ رسالت کے بارے میں پوچھے گا اور جن کافر سے چاہے گا رسولوں کو جھٹلانے کے بارے میں سوال کرے گا، بدعتی لوگوں سے سنت کے بارے میں سوال ہوگا اور مسلمانوں سے اعمال کے بارے میں پوچھے گا۔

اس بات پر بھی ایمان لائے کہ اللہ تعالیٰ توحید پر ایمان لانے والوں کو سزا کے بعد جہنم سے نکالے گا حتیٰ کہ فضل خداوندی سے جہنم میں کوئی ٹوٹا بھی نہیں رہے گا کوئی ٹوٹا جہنم میں ہمیشہ نہیں رہے گا۔

اس بات پر بھی ایمان لائے کہ انبیاء کرام شفاعت کریں گے پھر علماء اس کے بعد شہداء اور پھر مومنین اپنے اپنے مرتبہ اور مقام کے اعتبار سے شفاعت کریں گے اور جو مومن کسی سفارش کرنے والے کے بغیر رہ جائے گا اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اسے جہنم سے نکالے گا پس جہنم میں کوئی مومن بھی باقی نہیں رہے گا حتیٰ کہ جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا وہ بھی باہر نکل جائے گا۔ صحابہ کرام کی فضیلت اور ان کی ترتیب پر بھی ایمان لائے اور یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ فضیلت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے پھر حضرت عمر فاروق اس کے بعد حضرت عثمان اور پھر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہم افضل ہیں تمام صحابہ کرام کے بارے میں اچھا عقیدہ رکھے اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف کی ہے تمام صحابہ کرام کی اسی طرح تعریف کرے۔

یہ تمام باتیں احادیث میں آئی ہیں اور صحابہ کرام کے اقوال بھی ان پر دلالت کرتے ہیں جو شخص یقین کے ساتھ ان تمام باتوں پر اعتقاد رکھے وہ اہل حق اور اہل سنت سے ہے وہ گمراہ فرقہ اور بدعتی جماعت سے الگ ہے ہم کمال یقین اور دین میں اچھی طرح ثابت قدمی کا اپنے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں وہ اپنی رحمت سے نوازے وہ سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے، ہمارے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ہر مختار بندے پر سلام ہو۔

تدریجاً رہنمائی کرنے کی وجہ اور اعتقاد کے درجہ

جان لین کہ ہم نے جو کچھ عقیدے کے بارے میں ذکر کیا ہے وہ بچے کی ابتدائی تربیت میں اس کے سامنے رکھا جائے۔ وہ اسے اس طرح یاد کرے کہ بڑا ہونے کے بعد تھوڑا تھوڑا کر کے اس کا مفہوم واضح ہوتا ہے شروع میں وہ یاد کرے پھر سمجھے گا پھر عقیدہ اور یقین رکھے گا پھر اس کی تصدیق کرے گا۔ اور یہ بات بچے کو کسی دلیل کے بغیر حاصل ہوتی ہے یہ اللہ تعالیٰ نے فضل و کرم سے ہے کہ وہ ابتدائی مراحل تربیت میں انسان کے دل کو کسی حجت اور دلیل کے بغیر ایمان کے لیے کھول دیتا ہے۔ اس بات کا انکار کیسے کیا جاسکتا ہے جب کہ عوام کے تمام عقائد محض تلقین اور تقلید حاصل پر مبنی ہوتے ہیں ہاں جو عقیدہ محض تقلید سے حاصل ہوتا ہے وہ ابتدا میں کسی نہ کسی ضعف سے خالی نہیں ہوتا یعنی اگر اس کے خلاف بات آجائے تو وہ زوال کو دل کرتا ہے لہذا بچے اور عوام آدمی کے دل میں اسے پکا کرنا اور ثابت کر دینا ضروری ہے۔

تاکہ وہ مضبوط ہو جائے اور اس میں تزلزل نہ ہو۔ لیکن اس کی تقویت اور اثبات کا طریقہ کلام و مناظرہ کانن جانا نہیں بلکہ وہ قرآن پاک کی تلاوت و تفسیر نیز حدیث پڑھنے اور اس کے معانی میں مشغول ہونا ہے۔

نیز وہ عبادات کے وظائف میں مشغول ہو پس قرآن پاک کے دلائل اور حجت جب اس کے کان میں پڑے گی تو اس عقیدہ ہمیشہ مضبوط ہوگا۔

اور بعض اوقات اس پر حاویث اور ان کے فوائد سے شواہد وار دہوتے ہیں کبھی کبھی اس پر عبادات اور ان کے وظائف کی روشنی پھیلتی ہے اور بعض اوقات صالحین کو دیکھنا اور ان کی مجلس اختیار کرتا ہے بالخصوص جب ان کی باتیں سنا کر اور ان کی شکل و صورت کو دیکھتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں اور اس کے لیے خشوع و خضوع کا اظہار کرتے ہیں تو یہ بات بھی اس پر اثر انداز ہوتی ہے پس پہلی بار کی تلقین سینے میں بیج ڈالنے کی طرح ہے اور یہ اسباب کھینتی کو سیرا بنانے اور اس کی دیکھ بھال کی طرح ہیں۔ یہاں تک کہ وہ بیج بڑھتا ہے مضبوط ہوتا اور ایک ایسے پاکیزہ درخت کی طرح بلند ہوتا ہے جو راسخ ہوتا ہے اس کی جڑ قائم اور ٹہنیاں آسمان میں ہیں اور چاہیے کہ اس بچے کے کان کو مناظرانہ گفتگو سے بہت زیادہ بچائے کیونکہ یہ مناظرانہ گفتگو تربیت کے مقابلہ میں اس کے ذہن کو زیادہ خراب کرے گی نیز اصلاح کی نسبت فساد زیادہ پیدا کرے گی بلکہ جھگڑے والی باتوں سے اس کو تقویت دینا ایسا ہے جسے کوئی شخص لوہے کے تھوڑے سے درخت کو گوڑے تاکہ وہ مضبوط ہو لیکن وہ تو ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے بلکہ بعض اوقات تو وہ ٹوٹ پھوٹ کر خراب ہو جاتا ہے اور عام طور پر ایسا ہی ہوتا ہے اس سلسلے میں بطور بیان مشاہدہ کفایت کرتا ہے اور یہ واضح دلیل ہے۔

عوام میں سے نیک اور متقی لوگوں کے عقیدے کا مقابلہ مناظرین اور کلامی لوگوں کے عقیدے سے کیا جائے تو تم دیکھو گے کہ عام آدمی کا عقیدہ قائم رہنے میں بلند طیلے کی طرح سے جسے آفات اور بھلیاں حرکت نہیں دے سکتیں جب کہ مناظر و متکلم جو حفاظت کرنے والا ہے اس کا عقیدہ مناظرانہ گفتگو کی تقیسات کی وجہ سے اس دھاگے کی طرح ہے جو فضا میں لٹکا ہوا ہوا کبھی اسے اوہر لے جاتی ہے اور کبھی اُدھر۔

لیکن جو آدمی ان سے کسی عقیدے کی دلیل سنتا ہے تو بطور تقلید اسے قبول کر لیتا ہے جیسے وہ نفس عقیدہ کو تنقیداً حاصل کرتا ہے کیونکہ دلیل سیکھنے اور مدلول سیکھنے میں کوئی فرق نہیں۔ پس دوسرے کو دلیل بتانا اور چیز ہے جب کہ دلیل سے استدلال کرنا دوسری بات ہے اور وہ اس سے دور ہے۔

پھر جب بچے کی اس عقیدے پر تربیت کی جائے تو دنیا کا مال کمانے میں مشغول ہونے کی وجہ سے اس کے لیے کوئی دوسرا دروازہ نہیں کھلے گا۔ لیکن وہ اہل حق کا عقیدہ اپنانے کی وجہ سے آخرت میں (عذاب سے) محفوظ رہے گا کیونکہ شریعت نے عرب کے اُجداد لوگوں کو ان عقائد کے ظاہر کو اپنانے کے ساتھ یقینی تصدیق سے زیادہ کا مکلف نہیں بنایا۔ جہاں تک بحث و تمحیص اور دلائل کو منظم کرنے کا تعلق ہے تو وہ قطعاً اس کا مکلف نہیں۔ اور اگر وہ آخرت کے راستے پر چلنے والوں میں شامل ہونا چاہیے اور توفیق اس کی مددگار ہو یہاں تک کہ وہ عمل میں مشغول ہو جائے تقویٰ کو اختیار کرے اور نفس کو خواہشات سے روکے ریاضت و مجاہدہ میں مشغول ہو تو اس کے لیے ہدایت کے دروازے کھلتے ہیں جو نور الہی کے ساتھ اس عقیدہ کے مخالفین سے منکشف ہوتے ہیں وہ نور الہی جو مجاہدہ کے سبب اس کے دل میں ڈالا جاتا ہے اور یہ وعدہ خداوندی کا ایفاد ہے۔

اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:-

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ
سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ۔

(۱)

اور وہ لوگ جو ہمارے راستے میں مجاہدہ کرتے ہیں ہم

انہیں اپنے راستوں کی راہنمائی کرتے ہیں اور بے شک

وہ نیکو کار لوگوں کے ساتھ ہوں گے۔

یہی نفس جو ہر ہے جو صدیقین اور مقررین کے ایمان کی غایت ہے اور وہ راز جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے

سینے میں رکھا گیا جب آپ کو مخلوق (یا سوائے انبیاء کرام کے) ہر فضیلت دی گئی، اسی کی طرف اشارہ ہے اس راز بلکہ ان

تمام رازوں کے درجات ہیں جو اللہ تعالیٰ کے غیر ہے (پختے ہوئے) نفاقت و طہارت حاصل کرنے کی وجہ سے مجاہدہ

اور باطنی درجات کے مطابق ہوتے ہیں تیز نوریقین سے روشن ہونے سے حاصل ہوتے ہیں اور یہ تفاوت اسی طرح ہے

جس طرح طب، فقہ اور باقی علوم کے اعتبار سے لوگوں میں فرق ہوتا ہے کیوں کہ یہ اختلاف، اجتہاد میں تفاوت نیز عقلمندی اور دانائی کے اعتبار سے فطرت میں تفاوت کی وجہ سے ہوتا ہے اور جس طرح یہ علمی درجات بے انتہا ہیں اسی طرح اسرار کے یہ درجات بھی بے شمار ہیں۔

سوال :-

اگر تم کہو کہ کیا علم کلام و مناظرہ کا حصول ستاروں کے علم کی طرح ہے یا مباح ہے یا مستحب ؟

جواب :-

تو اس کا جواب یہ ہے کہ لوگوں نے اس سلسلے میں مختلف انداز میں غلو کیا اور حد سے تجاوز کیا ہے کوئی کہتا ہے کہ یہ بدعت و حرام ہے اور اگر بندہ مشرک کے علاوہ گناہوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے تو یہ اس سے بہتر ہے کہ وہ علم کلام کے ذریعے ملاقات کرے بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ واجب اور فرض ہے یا تو فرض کفایہ ہے یا فرض عین۔ تیسری بہترین عمل اور قرب خداوندی کا اعلیٰ ذریعہ ہے کیونکہ اس سے علم توحید ثابت ہوتا ہے اور یہ علم دین کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ حضرت امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام سفیان ثوری اور تمام گذشتہ محدثین علیہم الرحمہ نے اسے حرام قرار دیا ہے حضرت ابن عبدالاعلیٰ فرماتے ہیں جن دن حضرت امام شافعی رحمہ اللہ کا "حفص فرد" نامی معتزلی کلامی سے مناظرہ ہوا تو حضرت امام شافعی نے فرمایا کہ اگر بندہ اللہ تعالیٰ سے یوں ملے کہ وہ مشرک کے علاوہ تمام گناہوں کا ترک ہے تو یہ اس بات سے بہتر ہے کہ وہ علم کلام میں سے کسی چیز کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے فرماتے ہیں میں نے حفص سے وہ کلام سنا ہے جسے میں بیان نہیں کر سکتا وہ مزید فرماتے ہیں کہ مجھے اہل کلام سے ایسی بات کی اطلاع ملی ہے جس کا مجھے بالکل گمان نہ تھا اور اگر بندہ ہر اس بات میں مبتلا ہو جس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے تو یہ، علم کلام میں غور و فکر کرنے سے بہتر ہے۔ کراہی نے حضرت امام شافعی رحمہ اللہ سے نقل کیا کہ آپ سے علم کلام سے متعلق کوئی بات پوچھی گئی تو آپ کو غصہ آیا آپ نے فرمایا "حفص فرد" اور اس کے ساتھیوں سے پوچھو اللہ تعالیٰ انہیں ذلیل کرے،

حضرت امام شافعی رحمہ اللہ بخیر ہوئے تو حفص فرد آپ کے پاس آیا اور پوچھا میں کون ہوں؟ آپ نے فرمایا تو حفص فرد ہے اللہ تعالیٰ تیری حفاظت و رعایت نہ فرمائے یہاں تک کہ تو اپنے اس عمل سے توبہ کرے جس میں تو مبتلا ہے آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اگر لوگوں کو معلوم ہوتا کہ علم کلام میں کس قدر خواہشات پوشیدہ ہیں تو وہ اس سے اس طرح بھاگتے جس طرح شیر بھاگتے ہیں آپ نے فرمایا جب تم کسی آدمی کو یہ کہتے ہوئے سنو کہ اسم، مسمیٰ ہے یا غیر مسمیٰ تو گواہی دو کہ وہ کلامی شخص ہے اور اس کا کوئی دین نہیں۔

زرعفرانی نے کہا حضرت امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اہل کلام کے بارے میں میرا فیصلہ یہ ہے کہ انہیں لاٹھی سے مارا جائے اور قبیلوں اور خاندانوں میں پھیرا جائے اور کہا جائے کہ جو لوگ کتاب و سنت کو چھوڑ کر علم کلام میں مصروف

ہوتے ہیں ان کی سزا یہی ہے۔

حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے فرمایا علم کلام سے تعلق رکھنے والا کبھی بھی فلاح نہیں پاسکتا اور جب بھی تم کسی شخص کو دیکھو کہ وہ کلام میں غور و فکر کرتا ہے تو اس کے دل میں ضرور فساد ہوگا۔ انہوں نے کلام کی مذمت میں مبالغہ سے کام لیا حتیٰ کہ حارث محاسبی کو ان کے زہد و تقویٰ کے باوجود چھوڑ دیا کیوں کہ انہوں نے بدعتوں کے رد میں ایک کتاب لکھی تھی آپ نے فرمایا تیرے لیے خرابی ہو گی تم نے پہلے ان کی بدعات ذکر کر کے پھر ان کا رد نہیں کیا؟ کیا تو اپنی تصنیف کے ذریعے لوگوں کو بدعت کے مطالعہ اور ان شبہات میں غور و فکر کی ترغیب نہیں دے رہا اور اس طرح تو ان کو اپنی رائے پیش کرنے اور اس پر بحث کی دعوت دے رہا ہے۔ حضرت امام احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں علماء کلام زندقہ (بے دین) ہیں۔

حضرت امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر علم کلام والے کے مقابلے میں زیادہ تیز شخص آجائے تو کیا وہ اپنے لیے ہر روز ایک نیا دین ایجاد کرے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ لڑنے والوں کے اقوال ایک دوسرے کے خلاف ہوتے ہیں۔ امام مالک رحمہ اللہ ہی نے فرمایا بدعتی اور خواہش پرست کی گواہی قبول نہیں آپ کے بعض شاگردوں نے ان کے قول کا مطلب یوں بیان کیا ہے کہ خواہشات والوں سے ان کی مراد اہل کلام ہیں وہ جس مذہب پر بھی ہوں۔

حضرت امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے فرمایا جس نے کلام کے ذریعے علم کو طلب کیا وہ بے دین ہو گیا۔
حضرت حسن بصری رحمہ اللہ نے فرمایا اہل ہوا و خواہش والوں کے ساتھ نہ مناظرہ کرو نہ اس کے پاس بیٹھو اور نہ ہی ان کی گفتگو سنو۔ پہلے محدثین اس بات پر متفق ہیں ان کی طرف سے اس کے خلاف جو سخت اقوال منقول ہیں وہ بے شمار ہیں وہ فرماتے ہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم دوسرے لوگوں کی نسبت حقائق کی زیادہ پہچان رکھنے والے اور ترتیب الفاظ میں زیادہ فصیح تھے لیکن اس کے باوجود انہوں نے اس کلام کو اس سے پیدا ہونے والے شرک و جہ سے چھوڑا اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

هَلَكَ الْمُتَنَطِّعُونَ هَلَكَ الْمُتَنَطِّعُونَ
هَلَكَ الْمُتَنَطِّعُونَ۔ (۱)
جو لوگ سخت و کلام مناظرہ بازی میں زیادہ پڑے
ہیں وہ ہلاک ہوئے (تین بار فرمایا)

ان حضرات نے اس بات سے بھی استدلال کیا ہے کہ اگر یہ (کلام) دین سے ہوا تو یہ ان اہم امور سے ہوتا جن کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، طریقہ سکھایا، ان امور اور ان کے حاصل کرنے والوں کی تعریف فرمائی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے استنجا وکی تعلیم دی (۲)

(۱) صحیح مسلم جلد ۲ ص ۳۳۹ (۲) صحیح مسلم جلد اول ص ۱۳۰ باب الاستنجاہ۔

علم فرائض کی طرف بلایا اور اسے لوگوں کی تعریف فرمائی (۱)
لیکن آپ نے تقدیر میں بحث کو منع فرمایا اور ارشاد فرمایا:-

تقدیر میں بحث سے اجتناب کرو۔
اَمْسِكُوا عَنِ الْقَدْرِ (۲)

صحابہ کرام ہمیشہ اسی پر عمل پیرا رہے اور استاذ سے آگے بڑھنا سرکشی اور علم ہے وہ حضرات استاد اور پیشوا
تھے اور ہم ان کے پیروکار اور شاگرد ہیں۔

دوسرا گروہ یوں استدلال کرتا ہے کہ اگر کلام سے منع لفظ جو ہر عرض اور اس طرح کی دوسری غیر مالہ اس
اصطلاحات میں جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے دور میں معروف نہ تھیں تو بات آسان ہے۔ کیونکہ ہر علم میں سمجھانے کے
لیے اصطلاحات ایجاد ہوتی ہیں جیسے حدیث، تفسیر اور فقہ وغیرہ جیسے قیاس کی اصطلاحات نقض، کسر، ترکیب، تعدیہ
اور فساد وضع وغیرہ اگر ان لوگوں پر پیش کی جائیں تو وہ انہیں نہ سمجھتے تو مقصود صحیح ہر دلالت کے لیے عبارت نکالنا کوئی
اصطلاح بنانا، ایسے ہی ہے جیسے مباح (جائز) کام کے لیے نئی شکل پر برتن بنانا۔

اگر معنی کے اعتبار سے غرابی ہو تو ہماری مراد صرف یہ ہے کہ ہم عالم کے حادث ہونے اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت
اور صفات کو شریعت کے مطابق پہچاننے کے لیے دلیل حاصل کریں تو دلیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی معرفت کیسے حرام
ہوگی۔

اور اگر علم کلام اس لیے منع ہے کہ اس کی وجہ سے افتراق، تعصب اور عداوت و نفرت پیدا ہوتی ہے تو یقیناً یہ
حرام ہوگا۔ اور اس سے بچنا ضروری ہوگا جس طرح علم حدیث، تفسیر اور فقہ کی وجہ سے تکبر، خود پسندی، ریاکاری اور
حکومت طلبی کی خواہش پیدا ہو تو وہ حرام ہے اور اس سے بچنا ضروری ہے لیکن اس وجہ سے کہ علم ان (غرابوں) تک پہنچاتا
ہے علم کو چھوڑنا صحیح نہیں اور کس طرح علم کلام کے ذریعے دلیل تک پہنچا اور اس میں بحث کرنا منع ہوگا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ
نے ارشاد فرمایا:-

اپنی دلیل لاؤ۔

هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ۔

اور ارشاد خداوندی ہے:-

تاکہ جن نے ہلاک ہونا ہے وہ دلیل دیکھ کر ہلاک ہو اور

لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيِيَ

(۱) جامع ترمذی جلد اول ص ۳۰۴ باب ما جاء في تعليم الفرائض۔

(۲) المطالب العالیہ جلد ۳ ص ۷۹

(۳) قرآن مجید سورہ بقرہ آیت نمبر ۱۱۱

جس نے زندہ رہنا ہے وہ بھی دلیل کی بنیاد پر زندہ رہے۔

تمہارے پاس اس پر کوئی دلیل نہیں۔

آپ فرمادیں (مقصود تک) پہنچنے والی دلیل اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔

کیا آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ان کے رب کے بارے میں جھگڑا کیا۔

پس وہ کافر مبہوت (حیران) ہو کر رہ گیا۔

اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کے بارے میں یہ بات تعریف کے طور پر فرمائی کہ انہوں نے اپنے مخالف (مخرد) کے سامنے دلائل پیش کئے اس سے بحث کی اور اسے خاموش کر دیا۔

اور یہ ہماری دلیل ہے جو ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا کی۔

مَنْ حَتَّىٰ عَنْ بَيِّنَةٍ (۱)

اور ارشاد باری تعالیٰ ہے:-

إِنَّ عِنْدَ كُمْ مِنْ سُلْطَانٍ بَيِّنًا (۲)

سلطان سے مراد حجت و دلیل ہے۔

اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:-

قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ (۳)

(۳)

نیز ارشاد خداوندی ہے:-

الْمُتَرَالِي الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي

رَبِّهِ (۴)

یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:-

فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ (۵)

اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:-

وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ

عَلَىٰ قَوْمِهِ (۶)

ارشاد خداوندی ہے۔

(۱) قرآن مجید سورہ انفال آیت نمبر ۴۲

(۲) قرآن مجید سورہ یونس آیت ۶۸

(۳) قرآن مجید سورہ النعام آیت ۱۴۹

(۴) قرآن مجید سورہ بقرہ آیت ۲۵۸

(۵) قرآن مجید سورہ بقرہ آیت ۲۵۸

(۶) قرآن مجید سورہ النعام آیت نمبر ۸۳

انہوں نے کہا اسے نوح علیہ السلام! بے شک آپ نے ہم سے جھگڑا کیا اور بہت زیادہ جھگڑے۔

قَالُوا يَا نُوحُ قَدْ جَادَلْتَنَا فَاكْثَرْتَ
جِدَانَنَا۔ (۱)

اور فرعون کے قصے میں فرمایا:-

وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ أَوْلُو جِدْمِكَ
بِشَيْءٍ مِّمَّنْ مَبِينٍ (تک) (۲)

غلامہ کلام یہ ہے کہ قرآن مجید میں اول سے آخر تک کفار کے خلاف دلائل ہیں تو حید کے بارے میں منکلمین کی بہترین دلیل یہ ہے ارشاد خداوندی ہے۔

اگر ان دونوں (زمین و آسمان) میں اللہ تعالیٰ کے سوا معبود ہوتے تو ان کا نظام بگڑ جاتا۔

لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ
لَفَسَدَتَا۔ (۳)

اور اگر تمہیں اس کلام میں شک ہو جو ہم نے اپنے خاص بندے پر نازل کیا تو اس کی مثل کوئی سورت سے آؤ۔

اور نبوت کے بارے میں بہترین دلیل یہ ہے۔
وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ
عَبْدِنَا فَاتْلُوا سُوْرَةَ مِّنْ مِّثْلِهِ (۴)

آپ فرما دیجئے اسے (مخلوق کو) وہی زندہ کرے گا جس نے اسے پہلی مرتبہ پیدا فرمایا۔

قیامت کے دن زندہ ہونے پر یوں دلیل دی۔
قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ
(۵)

اس کے علاوہ بھی آیات و دلائل ہیں۔
انبیاء کرام ہمیشہ منکرین کے خلاف دلائل دیتے رہے اور ان سے مجادلہ کرتے رہے۔
ارشاد باری تعالیٰ ہے:-

وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ۔ (۶)

اور ان (کفار) سے نہایت اچھے طریقے سے مجادلہ کیجئے۔

(۱) قرآن مجید سورہ ہود آیت نمبر ۳۲

(۲) قرآن مجید سورہ شعراء آیت نمبر ۳۰

(۳) قرآن مجید سورہ انبیاء آیت نمبر ۲۲

(۴) قرآن مجید سورہ بقرہ آیت نمبر ۲۳

(۵) قرآن مجید سورہ یسین آیت ۶۹، (۶) قرآن مجید سورہ نحل آیت ۱۲۵۔

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی منکرین کے خلاف دلائل پیش کرتے اور ان سے مجادلہ کرتے ہے لیکن ان کا یہ عمل ضرورت کے وقت ہوتا تھا اور ان کے دور میں اس کی بہت کم ضرورت پڑتی تھی۔

بدعتیوں کو سب سے پہلے مجادلہ کے طریقے پر جس شخصیت نے دعوتِ حق دی وہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ ہیں جب آپ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کو خارجیوں کی طرف بھیجا تو انہوں نے ان سے گفتگو کرتے ہوئے فرمایا ”تمہیں اپنے امام کی کونسی بات اچھی نہیں لگی؟“

انہوں نے جواب دیا کہ انہوں نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے جنگِ لڑی لیکن نہ تو کوئی قیدی بنایا اور نہ ہی مال غنیمت حاصل کیا انہوں نے فرمایا یہ تو کفار کے ساتھ لڑائی کی بات ہے بتاؤ اگر جنگ جمل میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا قید کر لی جائیں اور وہ تم میں سے کسی کے حصے میں آئیں تو کیا تم ان سے وہ بات حلال سمجھتے جو اپنی مملوکہ سے حلال جانتے ہو حالانکہ وہ تمہاری ماں ہیں اور یہ نص قرآنی سے ثابت ہے۔ انہوں نے جواب دیا نہیں تو اس طرح ان کے اس مجادلہ (دلائل دینے) سے ذمہ دار (خارجیوں) نے اطاعت قبول کی۔

منقول ہے کہ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ نے ایک منکر تقدیر سے مناظرہ کیا تو وہ انکار تقدیر کے عقیدے سے تائب ہو گیا۔

حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے تقدیر کے منکر سے مناظرہ کیا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے یزید بن عمر سے ایمان کے بارے میں مناظرہ کیا حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر تم کہو کہ میں مومن ہوں تو تم ضرور کہو گے کہ میں جنت میں جاؤں گا۔ یزید بن عمر نے کہا اتنے صحابی رسول (علیہ السلام رضی اللہ عنہ) یہ آپ کی لغزش ہے کہا ایمان یہ نہیں کہ تم اللہ تعالیٰ، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں، قیامت کے دن زندہ ہونے اور میزان پر ایمان لاؤ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، اور ہم گناہ گار میں اگر ہمیں معلوم ہو کہ ہمارے گناہ بخش دیئے جائیں گے تو یہ بھی جان لیں گے کہ ہم جنت میں جائیں گے اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں لیکن ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم اہل جنت سے ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا تم نے سچ کہا اللہ کی قسم! میری خطا تھی۔ تو یوں کہنا چاہیے کہ اس سلسلے میں وہ کم غور کرتے تھے زیادہ نہیں، تھوڑی دیر کرتے تھے زیادہ وقت نہیں وہ ضرورت کے وقت غور کرتے تھے وہ اسے تصنیف و تدریس اور پیشہ کا درجہ نہیں دیتے تھے تو کہا جاسکتا ہے کہ ان کا زیادہ غور نہ کرنا اس وجہ سے تھا کہ انہیں ضرورت کم پڑتی تھی کیوں کہ اس زمانے میں بدعات ظاہر نہیں ہوتی تھیں اور وہ زیادہ دیر بحث اس لیے نہیں کرتے تھے کہ ان کا مقصد مخالفت کو خاموش کرانا سے معترف بنانا، حق کو واضح کرنا اور شبہ کو زائل کرنا تھا اگر مخالفت کا اعتراض یا اصرار طول پکڑتا تو ان کا الزام بھی طوالت اختیار کرتا وہ اس کام کو شروع کرنے کے بعد حاجت کا اندازہ کسی ترازو یا دو ستر سے پیمانے کے ساتھ نہیں نکالتے تھے اس سلسلے میں ان کے تدریس و تصنیف کے پیچھے نہ پڑنے کا جو مسئلہ ہے توفیق، تفسیر اور حدیث میں بھی ان کا یہی

طریقہ تھا۔ تو اگر فقہ میں تصنیف و تالیف اور ایسی صورتیں بنانا جو شانہ و نادر واقع ہوتی ہیں، اس مقصد کے لیے جائز ہیں کہ جس دن یہ بات واقع ہوگی، کام آئیں گی اگرچہ نادر ہوں اور زکاوت ذہنی حاصل ہوگی تو ہم بھی مجادلہ اسی لیے ترتیب دیتے ہیں کہ جب کوئی شبہ پیدا ہو یا کوئی بدعتی جوش میں آئے یا زکاوت ذہنی و فکری حاصل ہو تو کام آئے یا اس لیے کہ دلائل جمع ہوں اور ضرورت کے وقت غور و فکر کی بجائے فوری طور پر پیش کئے جائیں جیسے کوئی شخص لڑائی سے پہلے جنگ کے دن کے لیے اسلحہ تیار کرتا ہے۔ تو یہ دونوں طرف کے لوگوں کے دلائل ممکنہ طریقے پر ذکر کئے گئے۔

اگر تم کہو کہ تمہارے نزدیک مختار قول کہا ہے؟ تو جان لو کہ اس میں حق یہ ہے کہ ہر حالت میں اس کی خدمت کرنے یا ہر صورت میں اس کی تعریف کرنے کا قائل ہونا غلطی ہے بلکہ اس میں تفصیل ضروری ہے۔

مختار قول

تو پہلی بات اس طرح جانو کہ کوئی چیز بعض اوقات ذاتی طور پر حرام ہوتی ہے جس طرح شراب اور مردار «ذاتی طور پر» کے الفاظ سے میری (مصنف کی) مراد یہ ہے کہ حرام ہونے کی علت خود اس کی ذات میں پائی جاتی ہے اور وہ نشہ دینا (شراب میں) اور اپنے آپ مر جانا ہے (مردار میں) اس کے بارے میں جب ہم سے پوچھا جائے گا تو ہم مطلقاً حرام کا قول کریں گے۔ اور حالت اضطرار میں مردار کے حلال ہونے کو پیش نظر نہیں رکھیں گے یا اس بات کو نہیں دیکھیں گے کہ اگر رقمہ گلے میں اٹک جائے اور وہ اسے اتارنے کے لیے شراب کے سوا کچھ نہ پائے تو اس کا گھونٹ بھرنا جائز ہو جاتا ہے۔

یا کوئی چیز اپنے غیر کی وجہ سے حرام ہوتی ہے مثلاً ایک مسلمان بھائی نے زمین دن کے اختیار کے ساتھ سودا کیا تو اس کے سودے پر سودا کرنا اذان جمعہ کے وقت خرید و فروخت کرنا، گارا کھانا تو یہ اس لیے حرام ہے کہ اس میں ضرر ہے اور اس کی تقسیم یوں ہوتی ہے کہ اگر اس کا قبیل و کثیر نقصان دے تو اس کی حرمت کا قول بلا تفصیل ہوگا جس طرح زہر کم ہو یا زیادہ نقصان دیتا ہے اور اگر اس کی زیادہ مقدار نقصان دے تو مطلقاً حلال ہونے کا قول کہا جائے گا جیسے شہید، کیونکہ اس کی زیادہ مقدار گرم مزاج والے آدمی کے لیے مضر ہے اور جیسے کچھ کھانا ہے، کچھ کھانے اور شراب نوشی کو مطلقاً حرام کہنا شہید کو حلال سمجھنا اکثر حالات کے اعتبار سے ہے تو اگر کسی چیز میں حالات مختلف ہوں تو زیادہ بہتر اور شک و شبہ سے دور بات یہ ہے کہ اسے تفصیل سے بیان کیا جائے۔

پس ہم علم کلام کی طرف لوٹتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس میں نفع بھی ہے اور نقصان بھی تو جب وہ نفع دے تو اس نفع کے اعتبار سے یہ جائز، مستحب اور واجب ہوگا یعنی جیسے حالات ہوں گے اسی قسم کا حکم ہوگا۔ اور جب اس سے نقصان ہو تو اس کے نقصان کا اعتبار کرتے ہوئے حرام ہوگا، جہاں تک اس کے نقصانات کا تعلق ہے تو وہ شبہات کا پیدا ہونا اور عقائد کو یوں حرکت دینا ہے کہ ان سے یقین اور پختگی زائل ہو جائے اور یہ بات بالکل شروع میں واقع ہو جاتی ہے اور دلیل کے ساتھ دوبارہ اس کی طرف آنا مشکوک ہے۔ اس سلسلے میں لوگ مختلف ہیں یہ صحیح

عقیدہ میں نقصان ہے۔

اس کا دوسرا نقصان یہ ہے کہ اس سے اہل بدعت کے بدعات پر اپنی اعتقادات مضبوط ہو جاتے ہیں اور سینے میں یوں جم جاتے ہیں کہ ان بدعات کی طرف ہی دعوت ہوتی ہے اور ان پر ہی اصرار ہوتا ہے لیکن یہ نقصان اس تعصب کی وجہ سے ہوتا ہے جو جھگڑے سے پیدا ہوتا ہے اسی لیے تم دیکھو گے کہ عام بدعتی کا عقیدہ ترمیمی کے ساتھ جلدی زائل ہو سکتا ہے البتہ یہ کہ وہ ایسے شہر میں پروان چڑھے جہاں جھگڑے اور تعصب زیادہ ہو (تو مشکل ہے) اگر پہلے اور پچھلے سب جمع ہو جائیں تو وہ اس کے سینے سے بدعت کو نکال نہیں سکتے بلکہ خواہش، تعصب، مناظرہ کرنے والوں کی دشمنی اور مخالفین سے نفرت کا جذبہ اس کے دل پر قبضہ کر لیتا ہے اور اسے حق کے ادراک سے روک دیتا ہے حتیٰ کہ اگر اسے کہا جائے کہ تمہارا کیا خیال ہے اگر اللہ تعالیٰ تجھ سے یہ پردہ دور کر دے اور واضح طور پر تمہیں بتا دے کہ حق تیرے مخالف کی جانب ہے تو وہ اس بات کو بھی ناپسند کرے گا کیوں کہ اسے اس بات کا ڈر ہوتا ہے کہ اس سے اس کا مخالف خوش ہو جائے گا تو یہ بہت تباہ کن بیماری ہے جو شہروں اور بندوں میں پھیل گئی ہے اور یہ ایک قسم کا فساد ہے جسے مناظر بازوں نے تعصب کی وجہ سے پھیلایا ہے تو یہ علم کلام کا نقصان ہے۔

اس (علم کلام) کے نفع کے بارے میں گمان کیا جاتا ہے کہ اس سے حقائق واضح ہوتے ہیں اور ان کی ماہیت کی پہچان حاصل ہوتی ہے لیکن افسوس! علم کلام سے یہ بہترین مقصد حاصل نہیں ہوتا۔ اور شاید اس سے کشف و معرفت کی بجائے دیوانگی اور گمراہی زیادہ ہوتی ہے۔ اگر کسی محدث یا کٹر مذہبی شخص سے تم یہ بات سنو تو تمہارے دل میں خیال پیدا ہوگا کہ لوگ اس چیز کے دشمن ہوتے ہیں جس کا علم نہیں رکھتے۔ لہذا تم یہ بات اس شخص سے سنو رانام غزالی اپنی طرف اشارہ فرما رہے ہیں) جس نے علم کلام میں خوب مہارت حاصل کی مسکلمین کے انتہائی درجہ تک پہنچا اور کلام سے متعلق دیگر علوم میں بھی خوب غور و فکر کیا لیکن پھر اسے چھوڑ دیا اور یہی معلوم ہوا کہ اس طریقے سے حقائق کی معرفت کا راستہ بند ہے۔

مجھے اپنی عمر کی قسم! بعض امور کی وضاحت اور معرفت علم کلام سے جدا نہیں ہے لیکن یہ بات بہت نادر ہے اور یہ ایسے ظاہر امور میں ہے جو فن کلام میں غور کئے بغیر واضح ہو جاتے ہیں لہذا اس کا فائدہ صرف ایک ہے وہ یہ کہ ہم نے جس عقیدے کا ذکر کیا ہے عوام کے لیے اس کی حفاظت ہوتی ہے اور وہ اہل بدعت کے مختلف جھگڑوں سے پیدا ہونے والے شکوک و شبہات سے محفوظ ہو جاتا ہے۔

کیونکہ عام آدمی کمزور ہوتا ہے تو بدعتی کا جہل (جھگڑا) اس پر غالب آ جاتا ہے اگرچہ اس کی بات ناسد ہوتی ہے اور فاسد کا فاسد سے مقابلہ اس کو دور کر دیتا ہے۔ اور لوگ اسی عقیدہ کو اپنانے میں جس کا ہم نے ذکر کیا ہے کیونکہ شریعت میں یہی آیا ہے اور اسی میں ان کی دینوی اور دینی بھلائی ہے۔

پہلے بزرگوں کا بھی اسی پر جمنا ہے اور علماء اہل بدعت کی چال بازیوں سے اسے عوام کے لیے محفوظ رکھنے

کے ذمہ دار ہیں جس طرح بادشاہ ان کے احوال کو ظالموں اور غاصبوں کی ٹوٹ کھوٹ سے بچانے کے ذمہ دار اور پابند ہیں تو جب اس علم کے نقصان اور نفع کا علم حاصل ہو گیا تو چاہیے کہ علماء و ماہر طبیب کا طریقہ اختیار کریں کہ وہ پھر خطرہ والی کو اس کی ضرورت کے مقام پر استعمال کرتے ہیں اور یہ ضرورت کے وقت اور حاجت کے مطابق ہوتا ہے۔

اس کی تفصیل یہ ہے کہ عوام جو مختلف صنعتوں اور پیشوں میں مصروف ہیں ضروری ہے کہ ان کو ان کے اس صحیح عقیدے پر چھوڑا جائے جس کا ہم نے ذکر کیا ہے۔ کیونکہ انہیں علم کلام سکھانا ان کے حق میں محض نقصان کا باعث ہے اس لیے کہ بعض اوقات وہ شک میں پڑجاتے ہیں اور ان کا عقیدہ متزلزل ہو جاتا ہے اور اس کے بعد اصلاح ناممکن ہو جاتی ہے جہاں تک ان عوام کا تعلق ہے جو بدعات پر مبنی عقیدے کے حامل ہیں تو انہیں نرمی کے ساتھ نرم گفتگو جو نفس کو جھکانے والی اور دل میں موثر ہو کے ذریعے دعوت دی جائے۔ کیونکہ مشکلمین کی شرط کے مطابق بدل (جھگڑے) کی نسبت زیادہ نفع بخش ہے کیونکہ عام آدمی جب اسے سنتا ہے تو وہ یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ یہ مناظرانہ انداز ہے جسے مشکلم نے سیکھا ہے تاکہ وہ لوگوں کو آہستہ آہستہ اپنے عقیدے کی طرف لے جائے۔ اگر وہ جواب سے عاجز ہو گا تو فرض کرے گا کہ اس کے ہم مذہب مناظرین اس کا رد کر سکتے ہوں گے تو ایسے شخص اور پہلے شخص کے ساتھ مناظرہ بازی حرام ہے اسی طرح جو شخص شک میں پڑا ہوا ہو اس سے بھی مناظرہ کرنا حرام ہے۔ کیونکہ نرمی اور وعظ کے ذریعے اس کی بدعتی عقائدی کا ازالہ ضروری ہے نیز ایسے دلائل استعمال کئے جائیں جو قریب کرنے والے اور مقبول ہوں اور کلام کی گہرائی سے دور ہوں۔

مناظرہ بازی کی انتہا تک پہنچنا ایک جگہ نفع دیتا ہے اور وہ یہ ہے کہ فرض کر لیا جائے کہ ایک عام آدمی نے کسی مناظرہ کی سماعت کی بنیاد پر بدعت کا عقیدہ اختیار کیا ہے لہذا جب اس کے مقابلے میں اسی قسم کی مناظرانہ گفتگو لائی جائے تو صحیح عقیدہ کی طرف لوٹ آئے گا۔ اور یہ اس شخص کے حق میں ہے جس کے بارے میں معلوم ہو کہ وہ وعظ اور عام ڈرانے والے دلائل پر قناعت نہیں کرتا بلکہ اسے مناظرہ سے انس ہے تو یہ ایسی حالت کو پہنچ گیا ہے کہ اسے مناظرانہ دعوائی سفار دے سکتی ہے لہذا اس کے لیے یہ راستہ اختیار کرنا جائز ہے۔ جن شہروں میں بدعات کم ہیں اور وہاں مذہبی اختلاف نہیں ہیں وہاں صرف اسی اعتقاد پر اکتفا کیا جائے جو ہم نے ذکر کیا ہے دلائل کو نہ چھیڑ جائے بلکہ شبہات کے واقع ہونے کا انتظار کیا جائے اگر وہ واقع ہو تو ضرورت کے مطابق کلام کا لم ذکر کرے اور اگر بدعات عام ہوں اور بچوں کے دھوکے میں پڑنے کا خطرہ ہو تو اس بات میں کوئی حرج نہیں کہ انہیں اس قدر سکھایا جائے جو ہم نے اپنے رسالہ قدس میں ذکر کئے ہیں تاکہ اہل بدعت کے مجادلوں کی تاثیر کو دور کرنے کا سبب ہو سکے اگر وہ مجادلات واقع ہوں یہ مختصر مقدار ہے اور ہم نے اس کے مختصر ہونے کی وجہ سے اسے اس کتاب میں ذکر کیا ہے۔

اور اگر اس متبدي میں سمجھداری پائی جاتی ہو اور اپنی ذکاوت کی وجہ سے سوال کے مقام سے آگاہ ہو سکتا ہو یا اس کے دل میں کوئی شبہ پیدا ہوا تو وہ علت جس سے سچا جاسیے تھا، ظاہر ہو گئی اور اسی طرح بیماری بھی واضح ہو گئی لہذا اس مقدار سے آگے بڑھ کر اس کی طرف جانا جو ہم نے اپنی کتاب "الاقتصاد فی الاعتقاد" میں ذکر کی ہے، جائز ہے اور وہ تقریباً پچاس اوراق ہیں اس میں قواعد عقائد کے علاوہ مشکلمین کے دیگر مباحث مذکور نہیں ہیں۔ اگر اسے یہ کفایت کرے تو ٹھیک ہے ورنہ بیماری پرانی ہو گئی اور غالب آگئی اور مرض بڑھ گیا لہذا معالج حتی الامکان نرمی سے کام لے اور اس کے بارے اللہ تعالیٰ کے فیصلے کا انتظار کرے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی تنبیہ کے ذریعے اس کے سامنے حق واضح ہو جائے۔ یا جب تک اس کے لیے مقرر ہے وہ شکوک و شبہات کی وادی میں بھٹکتا پھرے کیونکہ اس کتاب (الاقتصاد فی الاعتقاد) اور اس جیسی دوسری کتابوں میں جس قدر مذکور ہے اس سے نفع کی امید کی جا سکتی ہے۔

جو علم کلام اس نفع سے خارج ہے اس کی دو قسمیں ہیں (ایک یہ کہ) اعتقادی قواعد کے علاوہ بحث کی جائے جیسے اعتمادات (اسباب و علل) موجودات، اور، اثبات و نفی وغیرہ میں بحث کرنا تیز رویت کے بارے میں غور کرنا کہ کیا کوئی اس کی ضد ہے جسے رکاوٹ کا نام دیا جائے یا نا بنیائیں کا؟

اگر ایسا ہے تو کیا وہ ایک ہے جو ہر ایسی چیز سے رکاوٹ ہے جو دکھائی نہیں دیتی یا وہ چیزیں جن کا دیکھنا ممکن ہے ان کی تعداد کے مطابق انگ انگ رکاوٹ ہے اس قسم دوسری باطل باتیں اس نفع سے خارج ہیں۔ اور دوسری قسم یہ ہے کہ ان قواعد کے علاوہ امور میں ان دلائل کی زیادہ تقریر اور بہت زیادہ سوال و جواب کرنا ہے یہ بھی انتہا ہے جو اس شخص کو جو اس مقدار پر اکتفا نہیں کرتا زیادہ گمراہ کرتی اور جاہل بناتی ہے اور کئی کلام ایسے ہیں جن کو طول دینے اور لمبی تقریر کرنے سے انسان زیادہ ڈوبتا ہے۔

اگر کوئی شخص کہے کہ اور اکات اور اعتمادات کی حکمتوں میں بحث کرنے سے دل کے تیز ہونے کا فائدہ ہوتا ہے اور دل دین کا آلہ ہے جیسے تلوار جہاد کا آلہ ہوتی ہے لہذا اسے تیز کرنے میں کوئی حرج نہیں تو ایسے شخص کا قول اسی طرح ہے جیسے کوئی کہے کہ شطرنج کھیلنے سے دل میں تیزی آتی ہے اور وہ بھی دین سے ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کیونکہ دل علوم شرعیہ سے تیز ہوتا ہے اور ان علوم میں کوئی درجہ نہیں ہوتا اور ان علوم میں کس قدر مذموم ہیں اور کس قدر قابل تعریف؟ یہ تم جان چکے ہو، نیز یہ بھی معلوم ہو گیا ہے کہ کس حالت میں یہ قابل مذمت ہیں اور کونسی حالت میں قابل تعریف، کون آدمی اس سے نفع اٹھاتا ہے اور کسے نقصان پہنچتا ہے۔

اگر تم کہو کہ جب تم نے اہل بدعت کا جواب دینے کے لیے اس کی ضرورت کو تسلیم کر لیا ہے اور اب بدعات پھیل گئی ہیں اور ان میں عام لوگ مبتلا ہیں اور اس کی شدید ضرورت ہے لہذا اس علم کو قائم کرنا فرض کفایہ علوم میں سے

ہو جیسے احوال اور دوسرے حقوق کی حفاظت کا نظام قائم کرنے کے لیے عہدہ قضا اور تولیت وغیرہ ضروری ہیں اور جب تک علماء کرام اس علم کلام کو پھیلانے، اس کی تدریس اور اس میں بحث مباحثہ میں مشغول نہیں ہوں گے اسے دوام حاصل نہیں ہو سکتا۔ اور اگر اسے مکمل طور پر چھوڑ دیا جائے تو یہ مٹ جائے گا۔ اور اہل بدعت کے شبہات کو حل کرنے کے لیے محض فطری و طبعی صلاحیتیں کافی نہیں جب تک وہ ان کا جواب نہ سیکھے،

لہذا اس کی تدریس اور اس میں بحث بھی فرض کفایہ علوم سے ہو۔ صحابہ کرام کے زمانے کی بات اور ہے کیوں اس دور میں اس کی ضرورت نہ تھی تو جان لوجہ بات یہ ہے کہ ہر شہر میں اس علم کو قائم کرنے والا کوئی نہ کوئی شخص ہونا چاہیے جو مستقل طور پر اہل بدعت کے ان شبہات کا ازالہ کرے جو اس شہر میں پھیلے ہوں اور یہ تعلیم کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ لیکن یہ بات بھی مناسب نہیں کہ فقہ اور تفسیر کی طرح اس کی تدریس کو عام کر دیا جائے یہ دوا کی طرح ہے اور فقہ غذا کی طرح غذا کے نقصان سے بچنا ممکن نہیں جب کہ دوائی کے نقصان سے بچنا ضروری ہے جیسا کہ ہم نے اس کے نقصانات کا ذکر کیا ہے۔

پس وہ عالم جو اس علم کی تعلیم سے وہ تین خصلتوں سے موصوف ہو۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو علم کے لیے وقف کر دے اور اس کی حرص بھی رکھتا ہو کیوں کہ جو شخص کسی کام میں مصروف ہوگا اسے اس کی تکمیل اور شکوک جب پیش ہوں تو ان کے ازالے سے اس کا پیشہ مانع ہوگا۔

دوسری بات یہ ہے کہ وہ ذکی، ہوشیار اور فصیح ہو کیونکہ جو شخص کند ذہن ہو اس کی سمجھ غیر نافع ہے جو شک دیر سے سمجھتا ہے اس دلائل قائدہ مند نہیں، لہذا اس کے بارے میں ڈر ہوتا ہے کہ کلام اسے نقصان پہنچائے اور اس سے کسی نفع کی امید نہ ہوگی۔

تیسری بات یہ ہے کہ اس کی طبیعت، اصلاح، دیانت اور تقویٰ کی حامل ہو اور اس پر خواہشات غالب نہ ہوں کیونکہ فاسق آدمی معمولی سے شبہ کی وجہ سے بھی دین کو چھوڑ بیٹھا ہے یہ بات اس سے رکاوٹ کو دور کر دے گی اور اس کے اور خواہشات کے درمیان جو پردہ ہے وہ اٹھ جائے گا۔

تو یہ شبہ کو دور کرنے کی حرص نہیں کرے گا بلکہ اسے غنیمت سمجھے گا تاکہ وہ ذمہ داری کی مشقتوں سے چھوٹ جائے لہذا اس قسم کا آدمی طالب علم کی اصلاح کی بجائے اسے زیادہ خراب کر دے گا۔

جب تم لے ان تقسیموں کو جان لیا تو تیسرے لیے یہ بات واضح ہو گئی کہ علم کلام میں یہ قابل تعریف دلیل قرآن پاک کے ان دلائل کی جنس سے ہے جو ایسے لطیف کلمات سے حاصل ہوتے ہیں جن سے دلوں میں تاثیر پیدا ہوتی ہے وہ نفوس کو جھکا دیتے ہیں وہ ایسی تعلیمات اور باریک باتیں نہ ہوں جن کو اکثر لوگ سمجھ نہ سکیں۔ اور اگر سمجھ لیں تو ان کا اعتقاد ہو کہ یہ اس کا شعبہ اور فن ہے جسے اس نے دھوکہ دہی کے لیے سیکھا ہے تو جب وہ شخص اس کا

مقابلے میں آئے گا جو اس فن میں اس کا ہم پلہ ہے تو وہ اس کا مقابلہ کرے گا۔
 اور تم یہ بات معلوم کر چکے ہو کہ حضرت امام شافعیؒ اور بیت سے اسلاف نے اس (علم کلام) میں غور و فکر کرنے
 اور اس کے لیے محقق ہونے سے منع فرمایا ہے کیوں کہ اس میں وہ نقصان ہے جس پر ہم نے متنبہ کیا ہے اور جو کچھ
 حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے بارے میں منقول ہے کہ انہوں نے خوارج سے مناظرہ کیا اور حضرت علی المرتضیٰ
 رضی اللہ عنہ نے منکر تقدیر سے مناظرہ کیا اور اس کے علاوہ جو کچھ منقول ہے وہ ظاہر اور واضح کلام کے ساتھ
 اور ضرورت کے وقت تھا اور یہ بہر حال میں قابلِ تعریف ہے ہاں کبھی حاجت کی کثرت و قلت کے اعتبار سے زماں
 میں اختلاف ہوتا ہے تو اس اعتبار سے حکم کے مختلف ہونے میں کوئی بعید بات نہیں۔

یہ اس عقیدے کا حکم ہے جو مخلوق نے اپنایا ہے اور اس کی حفاظت کے طریقے کا بیان ہے جہاں تک
 شیعہ کے ازالے، حقائق کے انکشاف اور اشیاء کی باہت کو پہچاننے کا تعلق ہے یا ان اسرار کو پانے کا مسئلہ
 ہے جو جن کی ترجمانی اس عقیدے کے ظاہری الفاظ کرتے ہیں تو یہ دروازہ کوئی مجاہدہ کرنے والا ہی کھول سکتا ہے جو
 شہوات کو ختم کرے گا، کلیتاً اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو اور مجاہدات کی خرابیوں سے پاک فکر کو ہمیشہ کے لیے اختیار کرے
 اور یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے جسے وہ اس شخص کو عطا کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقدر ہمت کے مطابق اس
 کی خوشبوؤں کے دریچے ہوتا ہے اور اسے اسی قدر ملت ہے جس قدر اس کا محل (دل) قبول کرتا ہے اور جس قدر قلبی
 طہارت حاصل ہوتی ہے یہ وہ سمندر ہے جس کی گہرائی کو پایا نہیں جاسکتا اور اس کے کنارے تک پہنچ نہیں سکتا۔

سوال :-

یہ کلام اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ ان علوم کی کچھ باتیں ظاہر ہیں اور کچھ پوشیدہ، بعض واضح ہیں جو
 ابتداء ہی ظاہر ہو جاتی ہیں اور بعض محض ہیں یہاں تک کہ وہ مجاہدے، ریاضت اور طلبِ کامل پاکیزہ فکر اور ایسے باطن
 کے ذریعے واضح ہوتی ہیں جو مطلوب کے سوا دنیا کے تمام مشاغل سے خالی ہو۔ اور یہ مخالفتِ شریعت کے قریب ہے کیونکہ
 شریعت میں ظاہر و باطن، پوشیدہ و علانیہ کی تمیز نہیں بلکہ اس میں ظاہر و باطن اور پوشیدہ و علانیہ ایک ہی ہیں۔

جواب :-

جان لو کہ کوئی بھی صاحبِ بصیرت اس بات کا انکار نہیں کرتا کہ یہ علوم خفی و علی باتوں میں تقسیم ہوتے ہیں اس سے
 وہی لوگ انکار کرتے ہیں جن کی سمجھ میں کوتاہی ہے انہوں نے بچپن میں ایک بات کو حاصل کیا پھر وہ اس پر پکے ہو گئے
 لہذا وہ بلند یوں کی انتہا کی طرف ترقی نہیں کرتے اور نہ ہی وہ علماء کرام اور اولیاء عظام کے مقام کی طرف جاتے ہیں، اور یہ
 بات دلائل شرعیہ سے واضح ہے۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :-

اِنَّ يَلْقَٰنِ نَٰهَارًا وَّ بَٰطِنًا وَّ حَدًّا وَّ مَطْلَعًا۔ (۱)

بے شک قرآن پاک کا ظاہر بھی ہے اور باطن بھی، اس کی حد بھی ہے اور جائے آغاز بھی۔

حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے اپنے سینہ مبارک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا۔

”بے شک اس مقام پر بہت زیادہ علوم میں کاشش ان کو حاصل کرنے والا مل جاتا۔“

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:-

نَحْنُ مَعَاشِرُ الْأَنْبِيَاءِ أَمْرًا أَنْ نَكَلِمَ النَّاسَ عَلَى قَدْرِ عَقْدٍ لِيهِمْ۔ (۲)

ہم گروہ انبیاء کو حکم دیا گیا ہے کہ ہم لوگوں سے ان کی عقول کے مطابق کلام کریں۔

جو شخص کسی قوم کے سامنے ایسی بات بیان کرتا ہے جس تک ان کی عقل نہیں پہنچتی تو وہ ان لوگوں کے لیے فتنے کا باعث ہے۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:-

مَا حَدَّثْتُ أَحَدًا قَوْمًا بِحَدِيثٍ لَمْ يَلْقَ عَقُولَهُمْ إِلَّا كَانَ فِتْنَةً عَلَيْهِمْ۔ (۳)

اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:-

اور ہم ان سوالوں کو لوگوں کے لئے بیان کرتے ہیں اور انہیں صرف علماء سمجھ سکتے ہیں۔

وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يُعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ۔ (۴)

بے شک علم پوشیدہ خزانوں کی طرح ہیں انہیں وہی لوگ جانتے ہیں جو ذات خداوندی کا علم رکھتے ہیں۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:-

إِنَّ مِنَ الْعِلْمِ لَهَيْئَةَ الْمَكُونِ لَا يَعْلَمُ إِلَّا الْعَالِمُونَ بِاللَّهِ تَعَالَى۔ (۵)

ہم نے یہ حدیث رکھل، علم کے بیان میں ذکر کی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:-

(۱) الاحسان بترتيب صحيح للبحان جلد اول ص ۲۲۳

(۲)

(۳)

(۴) قرآن مجید سورہ عبکوت آیت ۲۳

(۵)

لَوْ تَعْلَمُونَ مَا آعَلَمُ لَضَحِكُمْ قَلِيلًا وَ
لَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا - (۱)

جو کچھ میں جانتا ہوں اگر تمہیں اس کا علم ہو جائے تو تم
تھوڑا ہنسو اور زریاں روؤ۔

اگر یہ ایسا راز نہ ہوتا جیسے ظاہر کرنے سے اس لئے منع کیا گیا کہ ان کی سمجھ اس کے ادراک سے قاصر تھی یا کسی
اور وجہ سے (ظاہر نہیں فرمایا) تو آپ اسے ان کے سامنے کیوں بیان نہ فرماتے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر حضور
علیہ السلام اسے ان کے سامنے بیان فرماتے تو وہ آپ کی تصدیق کرتے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اس آیت کے سلسلے میں فرمایا اگر میں اس کی تفسیر ذکر کرتا تو تم مجھے سنگسار
کر دیتے آیت کریمہ یہ ہے۔

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ
الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الْأَنْزُورُ فِيهِنَّ (۲)

اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے سات آسمانوں اور ان کی
مثل زمینوں کو پیدا فرمایا حکم ان کے درمیان اترتا ہے۔

ایک روایت میں ہے آپ نے فرمایا (اگر میں اس کی تفسیر ذکر کرتا تو) تم مجھے کافر کہتے۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے (علم کے) دو برتن
یاد کئے ایک تو میں نے ظاہر و منکر کر دیا لیکن دوسرا وہ ہے کہ اگر میں اسے ظاہر کروں تو یہ گردن کٹ جائے۔
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

مَا فَضَلَكُمْ أَبُو بَكْرٍ بَكْرًا وَخَاتَمُ حَبِيبٍ
وَرَأَى صَلَواتِي وَلَكِنْ لَيْسَ وَقَدْ
بَيَّنَّدُ رِيحًا - (۳)

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو تم پر زیادہ روزوں اور
نمازوں کی وصیہ سے فضیلت حاصل نہیں بلکہ وہ اس
راز کی وصیہ سے افضل ہیں جو ان کے سینے میں جاگزیں ہے۔

اور اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ راز قواعد دین سے متعلق تھا اس سے خارج نہیں تھا اور جو چیز قواعد دین
سے ہو وہ اپنے ظاہر کے اعتبار سے دوسرے صحابہ کرام پر مخفی نہ تھا۔
حضرت سہل تستری رحمہ اللہ نے فرمایا۔

”عالم کے لیے تین قسم کے علم ہیں (۱) علم ظاہر جسے وہ اہل ظاہر تک پہنچاتا ہے (۲) علم باطن جو صرف اہل باطن تک
پہنچایا جا سکتا ہے (۳) وہ علم جو اللہ تعالیٰ اور اس عالم کے درمیان ہوتا ہے وہ اسے کسی کے سامنے ظاہر نہیں کرتا۔

(۱) کنز العمال جلد ۱۱ ص ۱۲۷

(۲) قرآن مجید سورہ طلاق آیت ۱۲

(۳)

بعض عارفین نے فرمایا ”ربوبیت کے راز کو ظاہر کرنا کفر ہے“
 ان میں سے بعض نے فرمایا ”ربوبیت کا ایک راز ہے اگر اسے ظاہر کیا جائے تو نبوت باطل ہو جائے اور نبوت
 کے لیے ایک راز ہے اگر اسے ظاہر کیا جائے تو علم باطل ہو جائے۔ اور علمائے ربانیہ کے لیے راز ہے اگر وہ اسے
 ظاہر کریں تو احکام باطل ہو جائیں اگر اس قائل نے ضعیف لوگوں کے حق میں بطلان نبوت کا قول نہیں کیا تو جو کچھ اس نے
 ذکر کیا وہ صحیح نہیں کیونکہ ضعیف لوگوں کی سمجھ ناقص ہوتی ہے، بلکہ صحیح بات یہ ہے کہ اس میں کوئی تناقض (تضاد) نہیں کیونکہ
 کامل وہ شخص ہے جس کی معرفت کا نور، اس کی پرہیزگاری کے نور سمجھا نہیں سکتا۔ اور پرہیزگاری کا قیام نبوت (سے) ہے۔
 سوال :-

ان آیات و روایات کی تاویلات کی جاتی ہیں پس آپ ہمارے لیے بیان کریں کہ ظاہر و باطن کے اختلاف کی کیفیت
 کیا ہے کیونکہ اگر باطن ظاہر کے خلاف ہو تو اس میں شریعت کو باطل کرنا ہے اور کسی شخص کے اس قول کا یہی مطلب ہے اس
 نے کہا حقیقت، شریعت کے خلاف ہے یہ قول کفر ہے کیونکہ شریعت ظاہر سے عبارت ہے اور حقیقت سے مراد باطن
 ہے، اور اگر وہ ظاہر کے خلاف نہ ہو تو ٹھیک ہے، تو اس سے تقسیم ختم ہو جائے گی اور شریعت کا کوئی ایسا راز
 نہ ہو گا جسے ظاہر نہ کیا جاسکے۔ بلکہ پوشیدہ اور ظاہر ایک ہی ہو گا۔
 جواب :-

جان لو کہ یہ سوال ایک بڑے امر کو حرکت دیتا ہے اور علوم مکاشفہ کی طرف لے جاتا ہے اور علم معاملہ کے مقصود سے
 نکلتا ہے۔ حالانکہ اس کتاب کی عرض وہی (علم المعاملہ) ہے۔
 جن عقائد کا ہم نے ذکر کیا ہے وہ اعمالِ قلوب سے ہیں اور ہم دل کی گہرائیوں سے انہیں قبول کرنے اور ان کی
 تصدیق پر مامور ہیں یہ مقصد نہیں کہ ان کے ذریعے ان کے حقائق کو ظاہر کریں مخلوق میں کسی کو اس بات کا مکلف نہیں
 بنایا گیا۔ اگر یہ اعمال نہ ہوتے تو ہم انہیں اس کتاب میں نہ لاتے اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ یہ ظاہر دل کا عمل ہیں باطن کا
 نہیں تو ہم انہیں کتاب کے پہلے حصے میں نہ لاتے، کشف حقیقی تو دل اور اس کے باطنی راز کی صفت ہے۔
 لیکن جب بحث سے یہ خیال پیدا ہوتا ہو کہ ظاہر، باطن کے خلاف تو اس کو حل کرنے کے لیے ایک مختصر کلام کی
 ضرورت ہے تو کسی نے کہا کہ حقیقت شریعت کے یا باطن، ظاہر کے خلاف ہے تو یہ شخص ایمان کی نسبت کفر کے
 زیادہ قریب ہے، بلکہ وہ اسرار جو مقررین لوگوں کے لیے خاص ہیں وہ ان کو پالیتے ہیں اور اکثر لوگ ان کے علم میں
 ان کے ساتھ شریک نہیں ہوتے اور یہ حضرات ان کے سامنے ان کو ظاہر کرنے سے باز رہتے ہیں۔ ان اسرار کی
 پانچ قسمیں ہیں۔

پہلی قسم : کوئی چیز ذاتی طور پر بہت دقیق ہو اور اکثر لوگوں کی سمجھ اس کو سمجھنے سے قاصر ہو اس کو صرف خواص

لوگ پاسکتے ہیں اور ان پر لازم ہے کہ وہ غیر اہل کے سامنے ظاہر نہ کریں چونکہ ان کی سمجھ اس کو سمجھنے سے قاصر ہے لہذا یہ بات ان کے لیے کسی فتنہ کی باعث ہوگی۔ نیز ان پر لازم ہے کہ روح کے راز کو بھی چھپا کر رکھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بیان سے احتراز فرمایا (۱)

اسی سے ہے۔ کیونکہ اس کی حقیقت سے لوگوں کی سمجھ قاصر ہے نیز اس کی حقیقت تک وہم کی رسائی میں بھی کمزوری ہے۔

تمہارا یہ خیال نہیں ہونا چاہیے کہ یہ راز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے بھی ظاہر نہیں ہوا کیونکہ جو شخص روح کو نہیں جانتا وہ اپنے نفس کو بھی نہیں جانتا اور جو آدمی اپنے نفس کی پہچان نہیں رکھتا وہ اپنے رب سبحانہ تعالیٰ کو کس طرح پہچانے گا۔ اور یہ بات بعید نہیں کہ یہ راز بعض اولیاء اور علماء کے سامنے واضح ہو جائے اگرچہ وہ نبی نہیں ہیں لیکن وہ آداب شریعت سے مزین ہیں اور جس بات سے شریعت میں خاموشی ہے یہ اس سے خاموش رہتے ہیں۔

بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں جو پوشیدہ باتیں ہیں جن کے ادراک سے اکثر لوگ قاصر ہیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے وہی باتیں ذکر کی ہیں جو ظاہر میں سمجھ میں آتی ہیں جیسے علم اور قدرت وغیرہ یہاں تک کہ مخلوق نے ایک مناسب طریقے پر اسے سمجھا یعنی اپنے علم و قدرت کے ساتھ اسے مشابہ سمجھتے ہوئے معلوم کیا کیوں کہ انہیں بھی کچھ اوصاف حاصل ہیں جن میں سے بعض کا نام علم اور قدرت ہے تو وہ ان صفات میں ایک قسم کی مشابہت خیال کرتے ہیں۔

اور اگر ایسی صفات ذکر فرماتے جن کے مشابہ مخلوق کے پاس کوئی صفات نہیں تو وہ انہیں نہ سمجھ سکتے بلکہ اگر کسی بچے یا عینین (نامرد) کے سامنے جماع کی لذت کا ذکر کیا جائے تو وہ اسے کسی کھائی جانے والی چیز کی لذت کے مشابہ خیال کرے اس کی حقیقت کو سمجھ نہیں سکے گا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت و علم اور مخلوق کے علم اور قدرت کے درمیان فرق جماع اور کھانے کی لذت کے درمیان پائے جانے والے فرق سے زیادہ ہے۔

خلاصہ کلام یہ ہے کہ انسان صرف اپنی ذات یا ذاتی صفات جو اس وقت حاضر ہیں یا جو اس سے پہلے تھیں، کا ادراک کر سکتا ہے پھر اس پر قیاس کر کے دوسری چیز کو سمجھتا ہے۔

پھر وہ کبھی اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ شرف و کمال کے اعتبار سے اس کی صفات اور اللہ تعالیٰ کی صفات میں فرق ہے تو انسان کے بس میں صرف یہی بات ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے وہ بات ثابت کرے جو اس کی ذات کے لیے ثابت ہے مثلاً فعل، علم اور قدرت وغیرہ صفات، پھر وہ اس بات کی تصدیق کرے کہ وہ زیادہ کابل اور اشرق ہے تو اس کی زیادہ سے زیادہ رسائی اپنی ذات تک ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو صفات خاص نہیں ان تک نہیں

اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

لَوْ أَحْصَيْتُمْ شَاءَ عَالَمِكُمْ أَنْتَ كَمَا
أَنْتَ عَلَى كَفَيْكَ (۱)

اے اللہ! میں تیری شہادت کا احاطہ نہیں کر سکتا تو اسی طرح
ہے جس طرح تو نے خود اپنی تعریف فرمائی ہے۔

اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں جو کچھ معلوم کرتا ہوں اسے بیان نہیں کر سکتا بلکہ یہ اس کی حقیقت کے ادراک سے عاجز
ہونے کا اعتراف ہے۔ اسی لیے بعض (عارفین) نے فرمایا۔

» اللہ تعالیٰ کی حقیقت کو صرف وہی (اللہ ہی) جانتا ہے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا » اس ذات
کے لیے تعریف ہے جس نے مخلوق کے لیے اپنی معرفت کی طرف راستہ نہیں بنایا البتہ اسے اپنی معرفت سے عجز کا راستہ
دکھایا ہے۔ ہم اس طریقے پر کلام کی لگام کو پکڑتے ہیں اور اصل غرض کی طرف لوٹتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ پویشیدہ
امور میں سے ایک قسم وہ ہے جس کے ادراک سے (انسانوں کی) سمجھ عاجز ہے اور انہی میں سے روح بھی ہے
اور کچھ صفات خداوندی بھی ہیں اور شاید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد گرامی میں اسی بات کی طرف اشارہ ہے

آپ نے فرمایا۔

إِنَّ لِلَّهِ سُبْحَانَ سُبْحَانَ حِجَابًا مِنْ
نُورٍ لَوْ كَشَفْنَا لَوَحَّرْنَا سُبْحَانَ
وَجْهِهِ كُلِّ مَنْ أَدْرَكَهُ بَصْرًا۔ (۲)

بے شک اللہ تعالیٰ کے ستر پر دے نور کے ہیں اگر وہ
ان کو کھول دے تو اس کی ذات کے انوار ہر اس
چیز کو جلا دیں جو اس کے سامنے آئے۔

دوسری قسم :-

یہ وہ مخفی امور ہیں جن کے ذکر سے انبیاء کرام اور صدیقین کو روکا گیا ہے یہ ذاتی طور پر سمجھ میں آنے والے امور ہیں
اور سمجھ ان سے قاصر نہیں ہے لیکن ان کا ذکر اکثر سننے والوں کو نقصان پہنچاتا ہے۔
البتہ انبیاء کرام اور صدیقین کو نقصان نہیں دیتا تقدیر کا راز جسے ظاہر کرنے سے اہل علم کو منع کیا گیا وہ اسی قسم سے
ہے تو یہ بات (سمجھ سے) بعید نہیں کہ بعض حقائق کا ذکر بعض مخلوق کو نقصان دیتا ہے جیسے سورج کی روشنی چمکا دڑوں کی
آنکھوں کو نقصان پہنچاتی ہے اور گلاب کی خوشبو گبریے (کالا کیرا) کو گوبر میں ہوتا ہے) کو نقصان دیتی ہے۔
اور یہ بات کیسے سمجھ سے باہر ہو سکتی ہے جب کہ ہم کہتے ہیں کہ کفر، زنا، گناہ اور تمام برائیاں اللہ تعالیٰ کی قضا و قدر،
ارادے اور مشیت کے ساتھ ہیں اور ذاتی طور پر یہ بات حق ہے لیکن اس کا استنباط بعض لوگوں کے لیے نقصان دہ ہے۔

(۱) مسند امام احمد بن حنبل جلد ۶ ص ۵۸

(۲) الدر المنثور جلد اول ص ۹۳۔

کیوں کہ ان کو وہم ہوگا کہ یہ بات بے عقلی پر دلالت کرتی ہے اور حکمت کے خلاف ہے بلکہ قبیح بات اور ظلم برضامندی ہے ابن رواندی اور اس قسم کے دوسرے ذلیل لوگ اسی قسم کی باتوں سے بے دین ہونگے اسی طرح تقدیر کا راز ہے کیونکہ اگر اسے ظاہر کر دیا جائے تو اکثر لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے عجز کا وہم ہوگا کیوں کہ وہ اس بات کو سمجھنے سے قاصر ہیں جس سے یہ وہم زائل ہو جائے۔

اگر کوئی شخص کہے کہ اگر قیامت کے وقت کا ذکر کیا جائے کہ وہ ایک ہزار سال بعد یا اس سے کچھ عرصہ بعد یا اس سے پہلے قائم ہوگی تو یہ بات سمجھ میں آنے والی ہے لیکن بندوں کی بھلائی کے پیش نظر اور نقصان کے خوف سے اس کا ذکر نہیں کیا کیونکہ ہو سکتا ہے اس تک وقت زیادہ ہو تو وہ دیر سے واقع ہوگی اور جب لوگ عذاب کے وقت میں تاخیر سمجھیں گے تو وہ لا پرواہی برتیں گے اور شاید اللہ تعالیٰ کے علم میں وہ قریب ہو اور اس کا ذکر کیا جائے تو خوف زیادہ ہو جائے گا اور لوگ اعمال سے منہ پھیریں گے اور یوں دنیا کا نظام خراب ہو جائے گا پس اگر یہ معنی صحیح ہو اور یہ دہ بن جائے تو یہ تیسری قسم کی مثال ہوگی۔

تیسری قسم :-

کوئی چیز اس طریقے پر ہو کہ اگر اس کو صراحتاً ذکر کیا جائے تو وہ سمجھ میں آجائے اور اس (بیان) میں نقصان بھی نہیں ہوتا لیکن اسے کنایتاً اور اشارۃً بیان کیا جاتا ہے تاکہ وہ دھیان سے سننے والے کے دل میں واقع ہو جائے اور اس کی مصلحت یہی ہے کہ وہ اس کے دل میں زیادہ اثر انداز ہو جیسے اگر کوئی شخص کہے "میں نے فلاں کو دیکھا کہ وہ خنزیروں کی گردنوں میں موتیوں کا ہار ڈال رہا تھا" تو اس نے کنایتاً اس بات کو بیان کیا کہ فلاں نے علم و حکمت کو ایسے لوگوں تک پہنچایا جو اس کے اہل نہ تھے۔

سننے والے کی سمجھ بعض اوقات اس کے ظاہر الفاظ تک پہنچتی ہے لیکن محقق جب غور کرتا ہے اور اسے معلوم ہے کہ اس شخص کے پاس موتی نہیں اور نہ وہاں خنزیر ہیں تو وہ اندرونی بات اور راز کو سمجھ جاتا ہے تو اس سلسلے میں لوگوں میں فرق ہے۔ (کسی شاعر نے کہا) دو آدمی میں ایک درزی ہے اور دوسرا جو لاہا ہے یہ دونوں آسمان بالا پر ایک دوسرے کے مقابلے میں ہیں ان میں سے ایک بدبخت کا لباس بننا ہے اور دوسرا نیکو کار کے کپڑے سیتا ہے۔

اس شاعر نے خوش بختی و بدبختی کے آسمانی سبب کو دو کاریگروں سے تعبیر کیا ہے اس قسم کا مطلب یہ ہے کہ مفہوم کو اس صورت میں بیان کیا جائے جس میں عین معنی یا اس کی مثل پائی جائے۔ اسی قسم سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی ہے اپنے فرمایا :-

إِنَّ الْمَسْجِدَ كَيْتَرُورِي مِنَ التَّخَامَةِ
بے شک مسجد ریٹھ سے ایسے سکڑتی ہے جیسے چڑا

کَمَا تَنْزَوِي الْجِلْدِ وَالْعَلَى النَّارِ - (۱) آگ پر سکر جانا ہے۔
 حالانکہ تم دیکھتے ہو کہ مسجد کی جگہ ریٹھ سے نہیں سکر تھی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مسجد کی رُوح معظم ہے اور اس میں ریٹھ پھینکنا اس کی توہین ہے اور یہ اس کی مسجدیت کے خلاف ہے جس طرح آگ چمڑے کے اجزا کے خلاف ہے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے۔

أَمَّا يَخْشَى الَّذِي يَرْفَعُ رَأْسَهُ قَبْلَ الْإِمَامِ - کیا وہ شخص جو (سجد سے یا رکوع سے) اپنا سر امام سے
 أَنْ يَحْوَلَ اللَّهُ رَأْسَهُ رَأْسَ حِمَارٍ - پہلے اٹھاتا ہے وہ اس بات سے نہیں ڈرتا کہ اللہ تعالیٰ
 اس کے سر کو گدھے کے سر کی طرح کر دے۔ (۲)

اور یہ بات صورتاً نہ کبھی ہوئی ہے اور نہ ہوگی لیکن معنوی اعتبار سے ہوتی ہے یعنی شکل و صورت کے اعتبار سے اس کا سر حقیقتاً گدھے کے سر جیسا نہیں ہوگا بلکہ خاصیت کے اعتبار سے ہوگا اور وہ بددماغ اور بیوقوف ہوتا ہے تو جو شخص نے امام سے پہلے اپنا سر اٹھایا تو گند ذہن اور بیوقوف ہونے کے اعتبار سے اس کا سر گدھے کے سر جیسا ہوگا اور یہی مقصود ہے وہ شکل جو معنوں کا سانچہ (قالب) ہوتی ہے مراد نہیں ہے، کیونکہ یہ انتہائی درجہ کی بیوقوفی ہے کہ اقتدا بھی کرے اور امام سے آگے بھی بڑھے یہ دونوں باتیں ایک دوسرے کی تقیض اور ضد ہیں۔

یہ بات کہ یہ راز ظاہر کے حالات ہے یا تو دلیل عقلی سے معلوم ہوتی ہے یا دلیل شرعی سے، عقلی دلیل کی صورت یہ ہے کہ اسے ظاہر پر معمول کرنا ممکن نہیں ہوتا جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے:-

قَلْبُ الْمُؤْمِنِ بَيْنَ أَصَابِعِ الرَّحْمَنِ (۳) مومن کا دل، اللہ تعالیٰ کی انگلیوں میں سے دو انگلیوں کے درمیان ہے۔

کیوں کہ اگر ہم مومن کے دل کا جائزہ لیں تو اس میں انگلیاں نہیں پائیں گے، تو معلوم ہوا کہ یہ قدرت سے کنایہ ہے جو انگلیوں کا راز اور ان کی مخفی رُوح ہے اور قدرت کو انگلیوں کے ساتھ بطور کنایہ بیان فرمایا کیوں کہ اس طرح اس کی مکمل قدرت سمجھ میں زیادہ آتی ہے اسی طرح ایک دوسری مثال میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کو کنایتاً بیان کیا گیا ارشاد خداوندی ہے:-

إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَا أَن نَعْمَلَهُ

جب ہم کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں تو اسے کہتے ہیں ہو

(۱) احکام القرآن للقرطبی جلد ۱۲ ص ۲۶۶ تحت آیت «وَأَذِ بِرَفْعِ أِبْرَاهِيمَ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ»

(۲) صحیح بخاری جلد اول ص ۹۶ باب من رفع رأسه قبل الإمام۔

(۳) مسند امام احمد بن حنبل جلد ۲ ص ۱۷۳۔

نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ۝

جاتو وہ ہوجاتی ہے۔

تو ظاہر آئیہ بات ناممکن ہے کیوں کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ”کن“ اگر کسی چیز کے وجود سے پہلے اسے خطاب ہے تو یہ محال ہے کیوں کہ معدوم چیز جب تک وجود میں نہ آئے خطاب کو سمجھ نہیں سکتی اور اگر وجود میں آنے کے بعد خطاب ہے تو وہ اب وجود میں آنے سے مستغنی ہے لیکن جب یہ کنایہ انتہائی قدرت کو سمجھانے میں زیادہ مؤثر تھا تو اس کی طرف رجوع کیا۔

شرعی دلیل کے ساتھ اس کا ادراک یوں ہے کہ اسے ظاہر پر محمول کرنا ممکن ہو، لیکن روایت میں ہے کہ اس سے غیر ظاہر مراد ہے جیسے اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کی تفسیر میں وارد ہوا۔

أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ اَوْدِيَةٌ

اس نے آسمان سے پانی اتارا تو اس کے مطابق وادیاں

جاری ہو گئیں۔

بِقَدَرِهَا۔ (۲)

یہاں پانی سے مراد قرآن پاک ہے اور وادیوں سے دل مراد ہیں جن میں سے بعض زیادہ چیز کو اٹھالیتے ہیں بعض کم چیز کو اور بعض کچھ بھی نہیں اٹھاتے، جھاگ، کفر اور منافقت کی مثال ہے اگرچہ وہ ظاہر ہوتی اور پانی کے اوپر تیرتی ہے لیکن وہ باقی نہیں رہتی، ہدایت وہ چیز ہے جو باقی بھی رہتی ہے اور نفع بھی دیتی ہے۔ اس (تیسری) قسم میں ایک جماعت نے تاویل کر کے جو کچھ آخرت میں میزان اور پیل صراط وغیرہ واقع ہوں گے، مراد لیے لیکن یہ تاویل بدعت ہے کیونکہ یہ روایت کے طریقے پر مشقول نہیں ہے اور اسے ظاہر پر محمول کرنا محال بھی نہیں ہے لہذا اسے ظاہر پر محمول کیا جائے گا۔

چوتھی قسم :-

انسان کسی چیز کو بیکارگی سمجھے پھر تحقیق اور ذوق کے ساتھ اس کی تفصیل کا ادراک کرے یعنی وہ چیز اس کا حال بن جائے اور اسے لازم ہو جائے تو دونوں علموں میں فرق ہو جائے گا۔ پہلا پھلکے کی طرح اور دوسرا مغز کی طرح ہوگا، پہلا ظاہر اور دوسرا باطن کی مثل ہوگا اور یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص اندھیرے میں یا دور سے کسی شخص کو دیکھتا ہے تو اسے ایک قسم کا علم حاصل ہو جاتا ہے پھر جب اسے قریب سے دیکھتا ہے یا اندھیرا چھٹ جانے کے بعد دیکھتا ہے تو ان دونوں میں فرق محسوس کرتا ہے حالانکہ دوسرا (علم) پہلے کی ضد نہیں بلکہ اسی کی تکمیل ہے۔ اسی طرح علم، ایمان اور تصدیق ہے کیونکہ بعض اوقات انسان، عشق، مرض اور موت کے وجود کی تصدیق ان کے وقوع سے پہلے کرتا ہے لیکن ان کے وقوع کے بعد جو کچھ ثابت ہوتا ہے وقوع سے پہلے کی نسبت زیادہ مکمل ہوتا ہے بلکہ انسان کے لیے شہوت، عشق اور تمام حالات

(۱) قرآن مجید، سورہ نحل آیت ۴۰

(۲) قرآن مجید، سورہ رعد آیت ۱۷

یہ تین حالتیں ہیں جو ایک دوسرے سے مختلف ہیں اور ہر ایک کا ادراک بھی مختلف ہے

(۱) اس کے واقع ہونے سے پہلے اس کی تصدیق کرنا۔

(۲) وقوع کے وقت تصدیق کرنا۔

(۳) اس کے ختم ہونے کے بعد تصدیق کرنا۔

مثلاً اگر تم بھوک کے جانے کے بعد ادراک کرو تو یہ ادراک و تحقق اس کے نکلنے ہو گا جو بھوک کے زوال سے پہلے ہوا۔ اسی طرح علوم دین میں سے بعض کا ذوق ہو جانا ہے تو یہ اس سے پہلے والے کی طرف نسبت کرتے ہوئے باطن کی طرح ہوتا ہے، بیمار کے لیے صحت کے علم اور تندرست کو صحت کے علم میں فرق ہے تو ان چار اقسام میں مخلوق میں فرق ہے لیکن ان میں کوئی ایسی باطنی بات نہیں جو ظاہر کے خلاف ہو بلکہ وہ اسے پورا اور مکمل کرتی ہے جیسے مغز، پوست کو مکمل کرتا ہے۔

پانچویں قسم:-

حال کی زبان کو مقال کی زبان سے تعبیر کیا جائے تو کم فہم آدمی ظاہر پر آگاہ ہوتا ہے اور اسے بولنا خیال کرتا ہے جب کہ حقائق کی بصیرت رکھنے والا اس میں پائے جانے والے راز کو پالیتا ہے پر کسی شخص کے اس قول کی طرح ہے کہ دیوار نے کیل سے کہا تو مجھے کیوں چھاڑتی ہے؟ اس نے کہا جو مجھے لوٹتا ہے اس سے پوچھو اس نے مجھے نہیں چھوڑا اور اس پتھر کو دیکھو جو میرے پیچھے ہے تو یہ زبان حال کو زبان قال سے تعبیر کرتا ہے۔ اسی سے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

ثُمَّ اسْتَوَىٰ اِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ
فَقَالَ لَهَا وَنَاكِضِي اَنْفِيسَا طَوْعًا
وَكَرْهًا فَانْتَائِيْنَا طَائِعِيْنَ۔
پھر اس نے آسمان کا قصد فرمایا اور وہ دھواں تھا اس
سے اور زمین سے فرمایا تم دونوں خوشی اور ناخوشی سے
آؤ تو ان دونوں نے عرض کیا ہم اطاعت گزار ہو کر
آئے۔

(۱)

تو جس آدمی کی سمجھ کام نہیں کرتی وہ اس بات کا حاجت مند ہو گا کہ ان دونوں کے لیے یوں تصور کیا جائے کہ ان کے لیے زندگی اور عقل ہے نیز خطاب کو سمجھتا ہے اور ایسا خطاب فرض کیا جائے جس میں آواز اور حرف ہوں آسمان اور زمین اسے سن کر حرف اور آواز کے ساتھ کہیں کہ ہم اطاعت گزار ہو کر حاضر ہوئے۔
جب صاحب بصیرت جانتا ہے کہ یہ زبان حال ہے اور یہ اس بات کی خبر ہے کہ وہ دونوں لازماً مستحضر ہیں اور تسخیر کے لیے مجبور ہیں۔

(۱) قرآن مجید، سورہ فصلت آیت ۱۱

اسی سے اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے۔

كِرَانَ مِنْ شَجَرٍ اِذَا يَسْتَنْصُرُ
بِحَمْدِهِ (۱)

ہر چیز اللہ تعالیٰ کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کرتی ہے۔

تو کند ذہن آدمی اس بات کا محتاج ہو گا کہ وہ عبادت کے لیے زندگی عقل، آواز اور حروف کے ساتھ بولنا فرض کرے یہاں تک کہ وہ چیز سبحن اللہ کہے تاکہ اس کی تسبیح متحقق ہو، لیکن سمجھدار آدمی جانتا ہے کہ اس سے زبان کے ساتھ بولنا مراد نہیں بلکہ وہ اپنے وجود کے ساتھ ہی تسبیح کرتے ہیں ذاتی طور پر اللہ تعالیٰ کی تقدیس بیان کرتے اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی دیتے ہیں جیسے کہا گیا۔ ”ہر چیز میں اس (اللہ تعالیٰ) کے لیے نشانی ہے جو اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ وہ ایک ہے“

اور جیسے کہا جاتا ہے کہ یہ مضبوط صنعت اپنے صانع کے حُسن تدبیر اور کمال علم کی گواہی دیتی ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ زبان سے گواہی دیتی ہے بلکہ اس کا وجود اور حالت ہی اس پر گواہ ہے۔ اور اسی طرح ہر چیز ذاتی طور پر اپنے وجود کی محتاج ہے جو اسے ایجاد کرتا، باقی رکھتا، اس کے اوصاف کو ہمیشہ قائم رکھتا اور مختلف حالتوں میں اسے بدلتا رہتا ہے۔ تو وہ اپنی حاجت کے تحت اپنے خالق کی تقدیس پر گواہی میں ارباب بصیرت کو ان کی گواہی کا ادراک ہوتا ہے ان لوگوں کو نہیں جو صرف ظاہر نہ قناعت کئے بیٹھے ہیں اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔

وَالَّذِينَ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ
لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں پاتے۔

اور جو لوگ سمجھ کے اعتبار سے قاصر ہیں وہ بالکل سمجھ نہیں سکتے لیکن مقررین اور مضبوط علم والے لوگ اس کی گہرائی اور کمال کو نہیں سمجھ سکتے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی تقدیس اور تسبیح پر ہر چیز کے لیے مختلف شہادتیں ہیں اور ہر ایک اپنی عقل اور بصیرت کے مطابق ان کا ادراک کرتا ہے۔

اور ان شہادتوں کی تعداد علم معاملہ کے لائق نہیں یہ فن بھی ان فنون میں سے ہے جس کے علم میں ظاہر نہیں اور اصحاب بصیرت میں فرق ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ باطن، ظاہر سے جدا چیز ہے۔

اس مقام پر ارباب مقامات کے لیے حد سے بڑھا ہوا راستہ بھی ہے اور درمیانہ بھی، بعض حد سے اس قدر بڑھ گئے کہ انہوں نے تمام ظاہر الفاظ اور دلائل یا اکثر کو بدل ڈالا حتیٰ کہ انہوں نے مندرجہ ذیل ارشادات خداوندی منکر تکبیر کے سوالات و جوابات میزان، پل صراط، حساب اور جنتیوں اور دوزخیوں کے درمیان مناظروں کو بدل کر

(۱) قرآن مجید، سورہ بنی اسرائیل آیت ۴۴

(۲) قرآن مجید، سورہ بنی اسرائیل آیت ۴۴

یہ خیال کیا کہ یہ سب کچھ زبان حال سے ہوگا۔ (جن آیات کو ظاہر سے پھیرا وہ یہ ہیں۔)
 وَكَلِمَاتٍ يُدَبِّرُونَهَا وَشَهَادَاتٍ مُّجْتَمِعَةٍ
 اور ان کے ہاتھ ہم سے کلام کریں گے اور ان کے پاؤں
 گواہی دیں گے۔ (۱)

ارشاد خداوندی ہے۔

وَقَالُوا اجْعَلْ لَنَا شَهِدًا لِّمَن
 عَلَيْنَا قَالُوا أَنْطَقْنَا اللَّهَ الَّذِي أَنْطَقَ
 كُلَّ شَيْءٍ - (۲)

وہ اپنے چمڑوں سے کہیں گے کہ تم نے ہمارے خلاف
 گواہی کیوں دی وہ کہیں گے ہمیں اس اللہ نے گفتگو
 کا حکم دیا جو ہر چیز سے گفتگو کرتا ہے۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ وَمِمَّا رَزَقَكُمُ
 اللَّهُ - (۳)

(جہنمی، جنتیوں سے کہیں گے) ہمیں پانی عطا کرو یا
 اس رزق میں کچھ دو جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا فرمایا۔

اور دوسروں نے اس بات کو بالکل بند کرنے کے لیے غلو سے کام لیا ان میں سے حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ بھی
 ہیں حتیٰ کہ انہوں نے ”کُنْ فَيَكُونُ“ کی تاویل سے بھی روک دیا ان کا خیال ہے کہ یہ حرف اور آواز کے ساتھ خطاب ہے جو
 اشیاء کی تباد کے مطابق ہر وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ظاہر ہوتا ہے۔

حتیٰ کہ ان کے بعض شاگردوں سے سنا کہ انہوں نے تین الفاظ کے علاوہ، تاویل کا دروازہ بالکل بند کر دیا ہے۔
 ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی ہے۔

الْحَجَرُ الْأَسْوَدُ يَمِينُ اللَّهِ فِي أَرْضِهِ (۴)
 نیز آپ کا ارشاد گرامی ہے۔

قَلْبُ الْمُؤْمِنِ بَيْنَ إِصْبَعَيْنِ مِنْ
 أَصَابِعِ الرَّحْمَنِ - (۵)

مومن کا دل اللہ تعالیٰ کی انگلیوں میں سے دو انگلیوں
 کے درمیان ہے۔

(۱) قرآن مجید، سورہ یسین آیت ۶۵

(۲) قرآن مجید سورہ فصلت آیت ۲۱

(۳) قرآن مجید سورہ اسراف آیت ۵۰

(۴) کنز العمال جلد ۱۲ ص ۲۱۷

(۵) کنز العمال جلد ۱۲ ص ۲۱۷

اور آپ ہی کا ارشاد ہے :-
 اِنِّیْ لَا جِدُّ لِنَفْسِ الرَّحْمٰنِ مِنْ جَانِبِ
 اَلْیَمٰنِ - (۱)

میں رحمن کی خوشبوداری میں طرف پاتا ہوں۔

ارباب ظاہر بھی تاویل کے بند کرنے کی طرف مائل ہوئے ہیں۔

حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے بارے میں یہ خیال کیا جاسکتا ہے کہ وہ جانتے تھے کہ "استواء" سے مراد قرار پکڑنا نہیں ہے، اور نزول سے جسمانی طور پر اتنا مراد نہیں لیکن انہوں نے اس دروازے کو بند کرنے کے لئے تاویل سے منع فرمایا نیز انہوں نے مخلوق کی اصلاح کا لحاظ کیا کیونکہ جب دروازہ کھل جائے گا تو شکاوت زیادہ ہو جائے گا اور معاملہ کنٹرول سے باہر ہو جائے گا، درمیانی حد سے بڑھ جائے گا کیونکہ جو چیز اعتدال سے بڑھ جائے اسے کنٹرول نہیں کیا جاسکتا لہذا اس قسم کی تشبیہ میں کوئی حرج نہیں۔

اس بات میں اسلاف کی سیرت گواہ ہے وہ کہتے تھے امور کو اسی طرح رہنے دو جس طرح آئے ہیں حتیٰ کہ جب امام مالک رحمہ اللہ سے استواء کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا استواء معلوم ہے لیکن اس کی کیفیت مجھوں نے اس پر ایمان لانا واجب اور اس کے بارے میں پوچھنا بدعت ہے۔
 ایک گروہ راہ اعتدال کی طرف گیا ہے انہوں نے ہر اس چیز کی تاویل کا دروازہ کھولا جو صفات خداوندی سے متعلق ہے۔

اور جو کچھ آخرت سے متعلق ہے اسے چھوڑ دیا اور اس کی تاویل سے روکا یہ اشعری ہیں (۱)۔

معتزلہ نے اس پر اضافہ کیا حتیٰ کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے روایت (دیکھنا) کی تاویل کی، اس کے سمیع و بصیر ہونے نیز معراج کی تاویل کی۔ اور انہوں نے گمان کیا کہ معراج شریف جسم کے ساتھ نہیں تھا، انہوں نے عذاب قبر میزان پل صراط اور آخرت کے تمام احکام کی تاویل کی لیکن انہوں نے جہنم کے (دوبارہ) اٹھنے، جنت، اس کے کھانوں، خوشبوؤں، نکاح اور تمام محسوس لذتوں کا اقرار کیا اسی طرح جہنم کا اقرار کیا اور یہ کہ وہ محسوس جسم پر مشتمل ہے اور ایسی آگ ہے جو چھڑوں کو جلا دے گی اور چربیوں کو پگھلا دے گی۔

فلاسفان سے بھی بڑھ گئے انہوں نے آخرت میں وارد ہونے والی ہر بات کی تاویل کی اور اسے عقلی و روحانی تکالیف نیز عقلی لذتیں قرار دیا۔ انہوں نے جہنم کے اٹھنے کا انکار کیا جب کہ نفسوں کے باقی رہنے کا اقرار کیا اور کہا کہ

(۱) کنز العمال جلد ۱۲ ص ۲۱۷

(۲) حضرت امام ابو الحسن اشعری رحمہ اللہ کے پیروکار اشعری یا اشاعرہ کہتے ہیں ۱۲ ہزاروی۔

ان نفوس کو ایسا عذاب ہو گا یا ایسی نعمتوں سے نوازا جائے گا جن کا حواس سے ادراک نہیں ہو سکتا یہی لوگ حد سے بڑھنے والے ہیں۔

اس نکل چھٹی اور حنبلیوں کے باسکل جمہور کے درمیان حد اعتدال نہایت باریک ہے جس پر وہی لوگ مطلع ہو سکتے ہیں جن کو توفیق خداوندی حاصل ہے، وہ امور کو نور الہی کے ذریعے معلوم کرتے ہیں، سننے کے ذریعے نہیں۔ پھر جب ان امور کے اسرار اپنی حقیقت کے ساتھ منکشف ہوتے ہیں تو وہ سماعت اور اس کے لیے وارد ہونے والے الفاظ کو دیکھتے ہیں۔ ان میں سے جو اس نور یقین کے مشابہ ہوتے ہیں جن کا انہوں نے مشاہدہ کیا تو وہ اسے برقرار رکھتے ہیں اور جو اس کے خلاف ہو اس کی تاویل کرتے ہیں لیکن جو شخص ان امور کو محض سماعت سے حاصل کرتا ہے تو اس سلسلے میں وثاقت قدم نہیں رہتا اور نہ ہی اس کا کوئی متعین موقف ہوتا ہے جو شخص محض سماعت پر اکتفا کرتا ہے اس کے لیے حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا مقام ہے۔

اور اب چونکہ حد اعتدال کو خوب واضح کرنا علم مکاشفہ میں داخل ہے اور اس میں گفتگو زیادہ ہے لہذا ہم اس میں غور و فکر نہیں کرتے غرض تو اس بات کو بیان کرنا ہے کہ باطن، ظاہر کے موافق ہے اس کا مخالف نہیں تو ان پانچ اقسام سے بہت سے امور واضح ہو گئے۔

اور جب ہمارے خیال کے مطابق عام لوگوں کے لیے عقیدے کے بیان میں اتنا ہی کافی ہے جو ہم لکھ چکے ہیں اور پہلے درجہ میں اس سے زیادہ کے مکلف نہیں ہیں البتہ یہ کہ اہل بدعت کے پھیل جانے سے تشویش کا ڈر ہو تو دوسرے درجے کی طرف ترقی ہوگی جس میں مختصر اور روشن دلائل ہوں لیکن گہرائی نہ ہو پس ہم اس کتاب میں ان روشن دلائل کا ذکر کرتے ہیں اور صرف اسی پر اکتفا کرتے ہیں جو ہم نے قدس والوں کو لکھا اور ہم نے اس کا نام "الرسالۃ القدسیہ فی قواعد العقائد" رکھا یہ اس کتاب کی تیسری فصل میں بیان کرتے ہیں۔

تیسری فصل:

قواعد عقائد

عقیدے کے روشن دلائل کے بارے میں اس کتاب قواعد العقائد کا بیان جو ہم نے قدس میں لکھی۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم

تمام تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے سنت کو انوار یقین کے ساتھ ممتاز کیا اور اہل حق کو دین کی بنیادی باتوں کی طرف رہنمائی کے ساتھ تزیین دی، ان کو طیر طیرے راستے والوں کی کجی اور بے دین لوگوں کی مگرہی سے دور رکھا، انہیں

تمام رسولوں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتدار کی توفیق عطا فرمائی اور صحابہ کرام کی پیروی کی توفیق بخشی نیز ان کے بے سلف صالحین کے پیچھے چلنا آسان کر دیا حتیٰ کہ انہوں نے عقل کے مقتضی امور کو مضبوطی کے ساتھ پکڑا۔

نیز انہوں نے پہلے لوگوں کی سیرت اور ان کے عقائد کو واضح راستے کے ذریعے اختیار کیا چنانچہ انہوں نے عقل کے نتائج اور شریعت منقولہ کے فیصلوں کو قبولیت میں جمع کیا اور انہوں نے جان لیا کہ جس کلمہ طیبہ "لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ" کا پڑھنا ہمارے لیے ضروری ٹھہرا ہے اس وقت تک اس کا کوئی فائدہ نہیں جب تک وہ ان اصول کو نہ جان لیں جن پر کلمہ شہادت کا دار و مدار ہے۔

اور وہ اس بات کو جان لیں کہ کلمہ طیبہ اختصار کے باوجود اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کی صفات، صدق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ثابت کرتا ہے۔ اور انہیں یہ بھی معلوم ہو جائے کہ ایمان کی بنیاد چار ارکان پر ہے اور ان میں سے ہر رکن کے تحت دس اصول ہیں۔

پہلا رکن :-

پہلا رکن اللہ تعالیٰ کی ذات کو پہچاننے کے بارے میں ہے اور اس کا دار و مدار دس اصول پر ہے وہ یہ کہ اس کے وجود قدیم ہونے، باقی ہونے، جوہر، جسم اور عرض نہ ہونے کا علم ہونے اور نیز وہ ذات کسی جہت کے ساتھ خاص نہیں اور نہ وہ کسی مقام پر ٹھہرا ہوا ہے (قیامت کے دن) اس کی زیارت ہوگی اور وہ ایک ہے۔

دوسرا رکن :-

دوسرا رکن اس کی صفات سے متعلق ہے اور یہ بھی دس اصول پر مشتمل ہے۔ اس بات کا علم (اور یقین) ہونا چاہیے کہ وہ زندہ، عالم، قادر، ارادہ کرنے والا، سننے والا، دیکھنے والا، کلام کرنے والا ہے جو اسے حوادث کا محل بننے سے پاک ہے، اس کا کلام، علم اور ارادہ قدیم ہے۔

تیسرا رکن :-

تیسرا رکن اس کے افعال کے بارے میں ہے اس کا دار و مدار بھی دس اصول پر ہے وہ یہ کہ بندوں کے افعال اللہ تعالیٰ کے پیدا کردہ ہیں بندے محض کسب کرتے ہیں۔

نیز یہ اللہ تعالیٰ کی مراد میں وہ پیدا کرنے اور بنانے کی فضیلت سے متصف ہے وہ طاقت سے زیادہ تکلیف دینے کا اختیار رکھتا ہے اسے حق ہے کہ کسی بے گناہ کو ایذا دے کسی نیکو کار کو رعایت دینا اس پر واجب نہیں نیز جو کچھ واجب ہے شریعت کی وہب سے ہے (عقل سے نہیں) اس کا انبیاء کرام کو بھیجا جائز ہے نیز ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت جائز حق ہے اور معجزات کے ساتھ اسے تائید حاصل ہے۔

چوتھا رکن :-

چوتھا رکن ان باتوں سے متعلق ہے جو سننے سے تعلق رکھتی ہیں اور یہ بھی دس اصول پر مشتمل ہے۔ حشر و نشر، منکر
میر کے سوالات، عذابِ قبر میزان، پل صراط کو ثابت ماننا، جنت و جہنم کو مخلوق تسلیم کرنا، امامت کے احکام نیز ترتیب
ملاقات کے مطابق صحابہ کرام کی فضیلت کو تسلیم کرنا اور امامت کی شرائط کو ماننا ہے۔

تفصیل :-

ارکانِ ایمان میں سے پہلا رکن اللہ تعالیٰ کی معرفت کے بارے میں ہے اور یہ کہ وہ ایک ہے اس رکن کے تحت دس
مسلک ہیں۔

پہلا اصل :-

پہلی چیز جس کے ذریعے انوار کی روشنی حاصل ہوتی ہے اور معتبر طریقے پر چلتا ہے یہ وہ راستہ ہے جس کی طرف
ان پاک نے راہنمائی کی ہے۔ پس اللہ تعالیٰ کے بیان کے بعد کوئی بیان نہیں۔

ارشاد خداوندی ہے :-

کیا ہم نے زمین کو سمجھنا نہیں بنایا پہاڑوں کو رکھیں اور تمہیں
جوڑ جوڑا بنایا تمہاری نیند کو باعث آرام اور رات کو لباس
بنایا دن کو روزگار کے لیے بنایا اور تمہارے اوپر سات
مضبوط طبق بنائے ہم نے ایک نہایت روشن چراغ
بنایا اور ہم نے بادلوں سے موسلا دھار بارش برساتی تا
کہ اس کے ساتھ اناج اور سبزی اگائیں نیز گھنے
باغ۔

أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا، وَالْجِبَالَ
أَوْتَادًا، وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، وَجَعَلْنَا
لَكُمْ لَيْلًا سُبَاتًا، وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، وَبَيْنَنَا
وَبَيْنَكُمْ سُبْحَاتٍ، وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَنَجَّاجًا،
وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً ثَجَّاجًا،
لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا، وَجَنَّاتٍ

الْأَنْفَاقِ۔ (۱)

نیز ارشاد فرمایا :-

بے شک رات اور دن کے پیدا کرنے میں رات اور دن
کی گردش میں سمندروں میں چلنے والے جہازوں میں جو
لوگوں کو جو نفع پہنچاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے آسمان سے
جو پانی اتارا اور اس سے زمین کو مردہ ہونے کے بعد

إِنِّي فِي حَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ
اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفَلَكَ الَّتِي تَجْرِي فِي
الْبَحْرِ يَمَّا يَنْفَعُ النَّاسَ، وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ
مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَاءٍ فَأَخْيَارًا بِدِ الْاَرْضِ

زندہ کیا اور اس پر ہر قسم کے جانوروں کو پھیلایا اور ہواؤں کے بدلنے میں نیز آسمان و زمین کے درمیان مسخر بادلوں میں عقلمند لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں۔

بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَتَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ ذَابَّةٍ وَنَضْرِبُ
الرِّيحَ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ
وَالْأَرْضِ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ۔ (۱۸)

نیز فرمایا :-

کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سات آسمانوں کو تزیین کرنا اور ان میں چاند کو روشن بنایا اور سورج کو روشن چراغ، اور اللہ نے تم کو زمین سے عجیب طریقے پر پیدا کیا پھر اسی میں بوٹائے گا اور پھر دوبارہ نکالے گا۔

الْمَتَرَكِيفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا
وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسُ
سِرَاجًا، وَاللَّهُ أُنْتَبَهُ مِنَ الْأَرْضِ
بَنَاتًا تَمُوعِدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ
إِخْرَاجًا۔ (۱۷)

اور ارشاد خداوندی ہے :-

بھلے دیکھو جو بارہ مزیہ تم نکالنے ہو کیا تم اسے پیدا کرتے ہو یا ہم خالق ہیں۔

أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ، أَلَا أَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ
نَحْنُ الْخَالِقُونَ۔ (۱۳)

جس شخص کے پاس کچھ بھی عقل ہے جب وہ ان آیات کے مضمون پر تھوڑا سا بھی غور کرتا ہے زمین اور آسمانوں میں اللہ تعالیٰ کی عجیب و غریب مخلوق نیز حیوان اور سبزیوں کی تعجب خیز فطرت پر نظر دوڑاتا ہے تو اس پر یہ بات پوشیدہ نہیں رہتی کہ یہ عجیب معاملہ اور مضبوط ترتیب کسی ایسے صانع سے بے نیاز نہیں ہو سکتی جو اس کی تدبیر فرماتا ہے اور ایسا تا عمل ہے جو اس کو مضبوط کرتا اور اس کا اندازہ کرتا ہے بلکہ قریب ہے کہ نفوس کی فطرت اس بات کی گواہی دے کہ یہ اس کی تسخیر کے تابع اور اس کی تدبیر کے مطابق بدلتا رہتا ہے۔

اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا :-

کیا اللہ تعالیٰ کے بارے میں شک ہے جو آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے۔

أَفِي اللَّهِ شَكٌّ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ
وَالْأَرْضِ۔ (۱۲)

اسی لیے انبیاء کرام علیہم السلام کو بھیجا گیا کہ وہ مخلوق کو توحید کی دعوت دیں اور وہ "لا الہ الا اللہ" پڑھیں انہیں

(۱) قرآن مجید سورہ بقرہ آیت ۱۶۲

(۲) قرآن مجید سورہ نوح آیت ۱۸ تا ۱۹

(۳) قرآن مجید سورہ الواقعة ۵۹ تا ۶۳، قرآن مجید سورہ ابراہیم، آیت ۱۰

بات کہنے کا حکم نہیں دیا گیا کہ ہمارے لیے اور خدا ہے اور باقی جہاں کے لیے دوسرا خدا۔ بے شک ان کی ابتداء نشوونما
عین جوانی کے اندر بھی ان کی فطرت عقل میں یہ بات رکھ دی گئی ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔

وَلَيْتِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ
لَيَقُوْلَنَّ اللّٰهُ - (۱)

اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمانوں اور زمین کو کس
نے پیدا کیا تو وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے۔

نیز فرمان خداوندی ہے۔

فَاَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّیْنِ حَنِیْفًا فِطْرَةَ
اللّٰهِ الَّتِیْ فِطَرَ النَّاسَ عَلَیْهَا لَا تَبْدِیْلَ
لِخَلْقِ اللّٰهِ ذٰلِكَ الدِّیْنُ الْقَیْمُ - (۲)

پس آپ اپنا رخ یکسوئی سے دین اسلام کی طرف کریں
اللہ تعالیٰ کے دین کو مضبوطی سے پکڑو جس کے مطابق
اس نے لوگوں کو پیدا کیا اللہ کی تخلیق میں کوئی رد و بدل
نہیں ہی سیدھا دین ہے۔

تو اب انسانی فطرت اور قرآنی شواہد میں ایسی بات ہے جو دلیل قائم کرنے سے بے نیاز کر دیتی ہے لیکن ہم تاکید کے
ریا اور مناظرہ کرنے والے علماء کی اقتدا کرتے ہوئے کہتے ہیں۔

یہ بات بدیہی (واضح) ہے کہ کوئی بھی حادثہ چیز اپنے پیدا ہونے میں کسی پیدا کرنے والے سبب سے بے نیاز نہیں
اور عالم حادثہ ہے لہذا وہ اپنے وجود کے لیے کسی سبب سے بے نیاز نہیں ہو سکتا ہمارا یہ کہنا کہ کوئی بھی حادثہ چیز اپنے وجود
کے سلسلے میں کسی سبب سے بے نیاز نہیں یہ روشن اور واضح بات ہے کیونکہ ہر حادثہ کسی ایسے وقت کے ساتھ خاص ہے
مگر عقلاً اس کی تقسیم و تاخیر جائز ہے تو اس کا پہلے یا بعد میں ہونے کی بجائے اپنے وقت سے مختص ہونا کسی خاص کرنے والے
کا محتاج ہے۔ اور ہمارا یہ کہنا کہ عالم حادثہ ہے تو اس کی دلیل یہ ہے کہ اجسام عالم حرکت و سکون سے خالی نہیں ہو سکتے
اور یہ دونوں (حرکت و سکون) حادثہ ہیں اور جو چیز کسی حادثہ سے خالی نہ ہو وہ بھی حادثہ ہوتی ہے تو اس دلیل میں تین
مخبرے ہیں۔

(۱) اجسام، حرکت و سکون سے خالی نہیں ہوتے اور یہ بات واضح ہے اور لازماً ماننا پڑتی ہے اس میں کسی غور و فکر کی ضرورت
نہیں کیوں کہ جو شخص کسی ایسے جسم کو مانتا ہے جو نہ تو ساکن ہوتا اور نہ ہی متحرک، تو ایسا شخص جنابت کے سواری پر سوار ہے
اور عقل کے راستے سے ہٹا ہوا ہے۔

(۲) ہمارا قول کہ حرکت و سکون دونوں حادثہ ہیں تو ان کا ایک دوسرے کے پیچھے آنا اور ایک کا دوسرے کے بعد

(۱) قرآن مجید سورہ لقمان آیت ۲۵

(۲) قرآن مجید سورہ روم آیت ۳۰

پایا جانا اس بات پر دلالت کرتا ہے اور یہ بات تمام اجسام میں دیکھی جاسکتی ہے چاہے وہ اجسام مشاہدہ میں ہوں یا نہ، تو جو چیز ساکن ہوتی ہے عقل اس کی حرکت کو جائز قرار دیتی ہے اور جو چیز متحرک ہوتی ہے عقلاً اس کا ساکن ہونا جائز ہے تو جو حالت بھی طاری ہوگی وہ طاری ہونے کی وجہ سے حادث ہوگی، اور اس سے پہلے والی حالت معدوم ہونے کی وجہ سے حادث ٹھہرے گی کیونکہ اگر اس کا قدیم ہونا ثابت ہو جائے تو اس کا عدم محال ہوگا، صانع جو بلند مرتبہ اور مقدس ذات ہے کے بقا کی بحث میں اس کا بیان اور دلیل آئے گی۔

(۳) ہمارا قول ہے کہ جو چیز حوادث سے خالی نہ ہو وہ خود بھی حادث ہوتی ہے اس کی دلیل یہ ہے کہ اگر ایسا نہ ہوتا تو ہر حادث سے پہلے کچھ حادث چیزیں ہوتیں جن کی ابتداء نہ ہوتی اور اگر یہ تمام حوادث ختم نہ ہوں تو اس حاضر حادث کے وجود کی نوبت نہ آتی اور جس چیز کی انتہا نہ ہو اس کا ختم ہونا محال ہے، اور اگر آسمان کے لیے ایسے دورے (چکر) ہوں جن کی کوئی انتہا نہیں تو ان کی تعداد جفت ہوگی، بطاق، یا جفت و طاق دونوں، یا جفت بھی نہ ہوگی اور طاق بھی نہیں، جوڑا اور طاق دونوں کا اکٹھا پایا جانا محال ہے اسی طرح جفت اور طاق دونوں کا نہ ہونا بھی محال ہے کیوں کہ یہ نفی اور اثبات کو جمع کرنا ہے اس لیے کہ ان میں سے ایک کا اثبات، دوسرے کی نفی ہے اور ایک کی نفی دوسرے کا اثبات ہے اور یہ بھی محال ہے کہ وہ جوڑا جوڑا ہوں کیوں کہ جوڑے میں ایک کا اضافہ کیا جائے تو وہ طاق بن جاتا ہے تو ایک اسے کیسے بدلے گا جب کہ اس کی کوئی انتہا نہیں اس کا طاق ہونا بھی محال ہے کیونکہ طاق ایک کے ساتھ جوڑا بن جاتا ہے تو ایک اسے کیسے بدلے گا جب کہ اس کی کوئی انتہا نہیں۔ اور یہ بھی محال ہے کہ وہ جفت اور طاق دونوں میں ہے کچھ بھی نہ ہو کیونکہ اس کے لیے انتہا ہے، اس سے معلوم ہوا کہ عالم حوادث سے خالی نہیں لہذا وہ خود حادث سے اور جب اس کا حدوث ثابت ہوا تو اس کا کسی محدث پیدا کرنے والے کا محتاج ہونا بدیہی اور واضح بات ہے۔

دوسرا اصل :-

اس بات کو جاننا کہ اللہ تعالیٰ قدیم ہے وہ ہمیشہ سے ہے ازلی ہے اس کے وجود سے پہلے کچھ نہیں بلکہ وہ ہر چیز سے پہلے ہے وہ ہر مردہ اور زندہ سے پہلے ہے اس کی دلیل یہ ہے کہ اگر وہ حادث ہوتا اور قدیم نہ ہوتا تو وہ بھی کسی پیدا کرنے والے کا محتاج ہوتا اور پھر اسے پیدا کرنے والا کسی دوسرے محدث کا محتاج ہوتا تو یہ ایک ایسا تسلسل ہوتا جس کی کوئی انتہا نہیں اور جو چیز تسلسل والی ہوتی ہے وہ حاصل نہیں ہو سکتی اور یہی ہمارا مطلوب ہے کہ ہم اسے عالم کو بنانے والا، اس کا آغاز کرنے والا، پیدا کرنے والے اس کا محدث اور موجد کہتے ہیں۔

تیسرا اصل :-

اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ وہ ازلی ہونے کے ساتھ ساتھ ابدی بھی ہے اس کے بعد کسی کا وجود نہیں وہ ہی اول و آخر اور ظاہر و باطن ہے کیوں کہ جس کا قدیم ہونا ثابت ہو وہ معدوم نہیں ہو سکتا۔

اس کی دلیل یہ ہے کہ اگر وہ معدوم ہو جائے تو ذاتی طور پر معدوم ہوگا یا کسی معدوم کرنے والے کی وجہ سے ہوگا جو اس کی ضد ہے اور جس کے بارے میں یہ تصور ہو کہ وہ ذاتی طور پر دائمی ہے اگر اس کا معدوم ہونا جائز ہو تو یہ بھی جائز ہوگا کہ وہ وجود میں بھی آجائے۔ تو جس طرح وجود کا ظاہر ہونا کسی سبب کا محتاج ہے اسی طرح عدم کا پایا جانا بھی کسی سبب کا محتاج ہوتا ہے اور یہ بات باطل ہے کہ وہ کسی مقابل معدوم کرنے والے کی وجہ سے معدوم ہو۔ کیونکہ اگر یہ معدوم کرنے والا قدیم ہو تو اس کی موجودگی میں اس کا وجود کیسے قدیم ہو گیا حالانکہ پہلے دو ضابطوں کے مطابق اس (اللہ تعالیٰ) کا وجود اور قدیم ہونا ظاہر ہو چکا ہے تو اس کا وجود قدیم کیسے ہو سکتا ہے جب کہ اس کے ساتھ اس کی ضد ہو۔ اور اگر معدوم کرنے والی مخالف چیز حادث ہو تو یہ بات محال ہے کیونکہ یہ حادث جو قدیم کی ضد ہے وہ اس (قدیم) کے وجود کو دور کرنے میں قدیم سے اولیٰ نہیں ہے کہ قدیم اس کے وجود کو ختم نہ کرے (اور یہ اس کے وجود کو دور کرنے) بلکہ ختم کرنے سے دور کرنا آسان ہے اور قدیم، حادث کے مقابلے میں زیادہ مضبوط اور اولیٰ ہے۔

چوتھا اصل :-

اس بات کو جاننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہر شے کو وہ کسی جگہ میں آسکے بلکہ وہ جگہ کی مناسبت سے بلند اور پاک ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ ہر جوہر کسی جگہ میں ہوتا ہے اور وہ اپنے مقام کے ساتھ خاص ہوتا ہے پس وہ دو حال سے خالی نہ ہوگا وہاں ساکن ہو گا یا وہاں سے حرکت کر جائے گا پس وہ حرکت و سکون سے خالی نہ ہو اور وہ دونوں حادث ہیں اور جو وجود کسی حادث سے خالی نہ ہو وہ خود بھی حادث ہوتا ہے اور اگر اسے ایسا جوہر تصور کیا جائے جو کسی مکان میں ہے لیکن قدیم ہے تو عالم کے تمام جوہر قدیم ماننا ہوں گے۔ اور اگر کوئی شخص ایسے جوہر کہے لیکن کسی جگہ میں نہ مانے تو وہ لفظ کے اعتبار سے غلطی پر ہوگا، معنوی اعتبار سے نہیں (۱)

پانچواں اصل :-

اللہ تعالیٰ کے لیے جسم نہیں جو جوہر سے مرکب ہوتا ہے کیونکہ جسم اس چیز کو کہتے ہیں جو جوہر سے مرکب ہو اور جب اس کا ایسا جوہر ہونا باطل ہو گیا جو کسی جگہ میں آسکتا ہو تو اس کا جسم ہونا بھی باطل ہو گیا کیونکہ ہر جسم کسی مکان سے مختص اور جوہر سے مرکب ہوتا ہے لہذا جوہر کا پھٹنے اور جڑ جانے حرکت و سکون اور شکل و مقدار سے خالی ہونا محال ہے اور یہ حدوت کی علامات ہیں، اور اگر یہ عقیدہ رکھا جائے کہ عالم کو بنانے والا، جسم رکھتا ہے تو جائز ہوگا کہ سورج اور چاند

(۱) یعنی جوہر کے دو مفہوم ہیں ایک یہ کہ وہ خود بخود قائم ہے اپنے قیام کے لیے کسی دوسرے کا محتاج نہیں اس معنی کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ پر جوہر کا لفظ صادق آسکتا ہے دوسرا معنی یہ ہے کہ وہ کسی جگہ میں پایا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ جگہ سے پاک ہے لہذا اس پر اس لفظ کا اطلاق کرنا جائز نہیں ۱۲ ہزاروی۔

بلکہ کسی دوسرے جسم کو بھی معبود مان لیا جائے، اور اگر کوئی شخص جرات کر کے یوں کہے کہ اللہ تعالیٰ جسم ہے لیکن جو اس سے مرکب نہیں تو یہ الفاظ میں غلطی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جسم کی نفی بھی ہو جائے گی۔

چھٹا اصل :-

اس بات کو جاننا کہ اللہ تعالیٰ عرض نہیں جو کسی جسم کے ساتھ قائم ہو یا کسی جگہ میں حلول کئے ہوئے ہو کیونکہ عرض وہ ہوتا ہے جو کسی جسم میں داخل ہو پس ہر جسم یقیناً حادث ہے اور اسے وجود میں لانے والا اس سے پہلے موجود تھا تو وہ کس طرح کسی جسم میں آسکتا ہے حالانکہ ازل میں صرف وہی ذات تھی اس کے ساتھ کوئی دوسرا نہ تھا پھر اس کے بعد اس نے جسم اور اعراض کو پیدا فرمایا نیز وہ عالم ہے قدرت رکھنے والا، ارادہ کرنے والا خالق ہے جیسا کہ اس کا بیان آئے گا، اور یہ اوصاف اعراض کے لیے محال ہیں بلکہ یہ تو صرف اسی ذات کے لیے معقول ہیں جو ذاتی طور پر قائم ہے اور مستقل بالذات ہے اور ان سے معلوم ہوا کہ وہ موجود ہے اور اپنی ذات کے ساتھ قائم ہے وہ نہ جو ہر ہے نہ جسم اور نہ ہی عرض، جب کہ تمام عالم جو ہر، عرض اور جسم ہے تو یوں وہ کسی چیز کے مشابہ نہیں اور نہ کوئی چیز اس کے مشابہ ہے بلکہ وہ خود زندہ ہے دوسروں کو قائم رکھتا ہے اس کی مثل کوئی چیز نہیں اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خالق اپنی مخلوق کے، قادر اپنی مقدر کے اور مصور اپنی تصویر کے مشابہ ہو جب کہ تمام اجسام اور اعراض اس کی مخلوق اور مصنوع ہیں۔

لہذا اسے کسی چیز کی مثل یا مشابہ کہنا غلط ہے۔

ساتواں اصل :-

اس بات کا علم ہو کہ اللہ تعالیٰ کسی جہت کے ساتھ خاص ہونے سے پاک ہے کیوں کہ جہت اوپر، نیچے، دائیں، بائیں، آگے یا پیچھے کو کہتے ہیں اور اس نے انسانی تخلیق کے واسطے سے ان جہات کو پیدا فرمایا کیونکہ اس نے انسان کے لیے، دو کنارے پیدا فرمائے ان میں سے ایک کے ساتھ زمین پر ٹیک لگانا ہے اور اسے پاؤں کہتے ہیں، اور دوسرا اس کے مقابلہ ہے جسے سر کہا جاتا ہے پس جو جہت سر کی طرف ہے اس کو فوقی (اوپر والی جہت) کہتے ہیں اور جو جہت پاؤں سے ملی ہوئی ہے اسے اسفل (نیچے) کہتے ہیں حتیٰ کہ اگر حیوانی اُٹھی ہو کر چھت کی نچلی جانب چلے تو اس کی جہت فوق بدل جاتی ہے اس کے حق میں فوق، نچلی طرف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے دو ہاتھ بنائے ان میں سے ایک، دوسرے کی نسبت عام طور پر زیادہ مضبوط ہوتا ہے پس زیادہ مضبوط کو یمن اور اس کے مقابل کے لیے شمال کا نام دیا گیا ہے تو جو جہت دائیں ہاتھ سے ملی ہوئی ہے وہ یمن (دائیں) کہلاتی ہے اور دوسری جہت کو شمال کہتے ہیں۔ اور اس کے لیے دو طریق بنائے ہیں ان میں سے ایک کو دیکھنا اور اس کی طرف چلنا ہے تو جن طرف کو جا رہا ہے اسے قدام (آگے) کہتے ہیں اور اس کی مقابل جہت کو خلف (پیچھے) کہا جاتا ہے تو جہات انسان کے پیدا ہونے کے ساتھ پیدا ہوئی ہیں اور اگر انسان اس شکل پر پیدا نہ ہوتا بلکہ گیند کی شکل میں گول پیدا ہوتا تو ان جہات

کا وجود بالکل نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ ازل میں کس طرح جہات سے مختص ہو گا جب کہ جہات تو پیدا (حادث) ہیں یا وہ اب کس طرح جہات کے ساتھ خاص ہو سکتا ہے جب کہ مخلوق کو پیدا کرتے وقت اس کے لئے اوپر کی جہت نہ تھی اور وہ اس بات سے پاک ہے کہ اس کے لیے اوپر کی جہت ہو کیونکہ سر سے پاک ہے۔ اور اوپر والی جہت وہ ہوتی ہے جو سر کی جانب ہوتی ہے۔

یہ عالم کی تخلیق اس کی نچلی جانب ہوگی تو اس کے لیے نیچے والی جہت کا ہونا بھی محال ہے کیونکہ اس کے لیے پاؤں کا ہونا محال ہے اور تخت (نچلی جانب) اسے کہتے ہیں جو پاؤں کی طرف ہو۔ یہ تمام باتیں عقلاً محال ہیں۔ اور اگر اسے کسی جہت کے ساتھ خاص کیا جائے تو وہ جو اہر کی طرح جگہ کے ساتھ خاص ہو گا یا جس طرح عرض، جو سر کے ساتھ خاص ہوتا ہے جب کہ یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ اس کا جو سر یا عرض ہونا محال ہے۔ پس اس کا کسی جہت کے ساتھ خاص ہونا بھی محال ہو گا۔ اور اگر جہت سے ان دو کے علاوہ کوئی معنی مراد لیا جائے تو وہ لفظاً غلط ہو گا یعنی اس کو جہت نہیں کہیں گے، اگرچہ معنی صحیح ہو۔ نیز اگر وہ عالم سے اوپر ہوتا تو اس کے مقابل ہوتا اور جو چیز کسی چیز کے مقابل (معاذی) ہو وہ اس کی مثل ہوگی یا اس سے چھوٹی یا بڑی ہوگی اور یہ تمام صورتیں کسی مقدار کی محتاج ہوتی ہیں جب کہ اللہ تعالیٰ جو خالق، واحد اور تدبیر فرمانے والا ہے وہ اس سے بلند و بالا ہے۔

جہاں تک سوال کے وقت آسمان کی طرف ہاتھ اٹھانے کا تعلق ہے تو وہ اس لیے ہے کہ وہی دعا ازالہ شبہ کی جہت و قبلہ ہے نیز اس میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ جس ذات سے دعا مانگی جا رہی ہے وہ جلال اور کبر بانی کی صفت سے موصوف ہے کیوں کہ بلندی والی جہت بزرگی اور بلندی پر دلالت کرتی ہے کیونکہ وہ ذات اپنے غلبہ اور قہر کے اعتبار سے سب سے بلند ہے۔

آٹھواں اصل :-

اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا عرش پر استواء اسی معنی کے اعتبار سے ہے جو اللہ تعالیٰ کی مراد ہے اور وہ ایسا معنی ہے جو اس کی بڑائی کے منافی نہیں اور نہ اس میں خدوٹ اور فنا کی علاقوں کا کوئی دخل ہے اسی طرح آسمانوں کی طرف استواء جس کا آیت کریمہ میں ذکر ہے اس سے بھی وہی معنی مراد ہے آیت کریمہ ہے۔

پھر اس نے آسمان کی طرف استواء فرمایا اور وہ دھواں
تھا۔

اور یہ بھی قہر اور غلبے کے اعتبار سے ہے جیسے کسی شاعر نے کہا ہے۔

» بشر نے عراق پر غلبہ حاصل کیا لیکن نہ تلوار استعمال کی اور نہ خون بہایا۔
اہل حق اس تاویل کی طرف مجبور ہیں جیسے اہل باطل اس آیت کی تاویل پر مجبور ہوئے۔
ارشادِ خداوندی ہے:-

رَهُوَ مَعَكُمْ اَيْنَمَا كُنْتُمْ - (۱)

اور وہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں بھی ہو۔

اس آیت میں معیت کو بالاتفاق احاطہ اور علم پر محمول کیا گیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث شریفہ کو قدرت اور غلبے پر محمول کیا گیا۔

قَلْبُ الْمُؤْمِنِينَ بَيْنَ اَصْبَاحٍ
الرَّحْمٰنِ - (۲)

مؤمن کا دل اللہ تعالیٰ کی انگلیوں میں سے دو انگلیوں کے درمیان ہے۔

نیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی درج ذیل حدیث کو عزت و آرام پر محمول کیا گیا۔
آپ نے فرمایا:-

الحَجَرُ الاسْوَدُ لِمَيِّنِ اللّٰهِ فِي اَرْضِهِ (۳) حجرِ اسود، اللہ تعالیٰ کی زمین میں اس کا داہنا ہاتھ ہے۔
کیوں کہ اگر اسے اپنے ظاہر پر چھوڑ دیا جائے تو اس سے محال لازم آئے گا اسی طرح اگر استواء سے فرار پکڑتا اور ٹھہر جانا مراد لیا جائے تو فرار پکڑنے والا جسم ہوگا جو عرش کو چھو رہا ہو گا یا تو وہ اس عرش کی مثل ہوگا، اس سے پڑایا چھوٹا ہوگا اور یہ بات محال ہے اور جو چیز محال کی طرف لے جائے وہ خود بھی محال ہوتی ہے۔
نواں اصل :-

اس بات کو جانتا ہے کہ اگرچہ اللہ تعالیٰ صورت اور مقدار سے پاک ہے جہات اور کناروں سے منزہ ہے لیکن قیامت کے دن آنکھوں سے دیکھا جائے گا۔ کیوں کہ ارشادِ خداوندی ہے:-

وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاطِرَةٌ اِلَىٰ كِبْهٰ
نَاظِرَةٌ - (۴)

اس دن کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے۔

لیکن دنیا میں اسے دیکھا نہیں جاسکتا کیوں کہ ارشادِ خداوندی ہے۔

(۱) قرآن مجید، سورہ حدید آیت ۴

(۲) سند امام احمد بن حنبل جلد ۲ ص ۱۰۲-

(۳) کنز العمال جلد ۱۲ ص ۲۱۰

(۴) قرآن مجید سورہ القیامہ آیت ۲۳

آنکھیں اس کا ادراک نہیں کر سکتیں جب کہ وہ آنکھوں کو گھیرے ہوئے ہے۔

لَا تَدْرِكُهُ الْاَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ
الْاَبْصَارَ (۱)

اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خطاب فرماتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔

آپ مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکیں گے۔

كُنْ تَرَانِي - (۲)

تو تباہی کس طرح معتزلہ کو اللہ تعالیٰ کی صفات کی پہچان ہوگئی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پتہ نہ چلا اور کس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کا سوال کیا جب پر (ان کے بقول) یہ محال ہے اور جس چیز کا انبیاء کرام علیہم السلام

کو علم نہ ہو اس سے کلمہ ذہن اور خواہشات کے بیماری اہل بدعت بدرجہ اولیٰ اجاہل ہیں، (۳) اور آخرت میں دیدار خداوندی سے متعلق آیت کریمہ کو ظاہر پر پاس لیے محمول کہا جاتا ہے کہ یہ دیکھنا محال تک نہیں

پہنچائے گا کیوں کہ دیکھنا ایک قسم کا کشف اور علم ہے،

البتہ یہ علم سے زیادہ واضح ہے تو جب علم کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہو سکتا ہے اور وہ کسی جہت سے خاص نہیں تو کسی جہت کے بغیر دیکھنے کا تعلق ہو سکتا ہے اور جس طرح اللہ تعالیٰ کا مخلوق کو دیکھنا جائز ہے حالانکہ وہ ان کے مقابلے میں نہیں ہے تو یہ بھی جائز ہے کہ مخلوق مقابلے میں ہونے کے بغیر اس کی زیارت سے مشرف ہو، اور جس طرح اسے کسی کیفیت و صورت کے بغیر معلوم کیا جاسکتا ہے اسی طرح اسے دیکھنا بھی جائز ہے۔

دسواں اصل :-

اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں تھا ہے اس کا کوئی مثل نہیں وہ پیدا کرنے اور ایجاد کرنے میں منفرد اور مختار ہے اس کا کوئی مثل نہیں جو اس کا ہم پلہ ہو اور نہ کوئی اس کا مقابل ہے جو اس سے جھگڑے یا دشمنی کرے اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد گرامی ہے۔

لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا -
اگر زمین و آسمان میں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور معبود بھی ہوتے
تو ان دونوں کا نظام خراب ہو جاتا۔ (۴)

(۱) قرآن مجید سورہ النعام آیت ۱۰۱

(۲) قرآن مجید سورہ اعراف آیت ۱۴۴

(۳) اس کا مطلب یہ ہے کہ معتزلہ روایت باری تعالیٰ کو ناممکن سمجھتے ہیں اگر یہ ناممکن اور محال ہوتی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کا کیوں سوال کرتے لہذا معتزلہ کی بات غلط ہے ۱۰ ہزاروی۔

(۴) قرآن مجید سورہ انبیاء آیت ۲۲

اس کا بیان یہ ہے کہ اگر دو خدا ہوتے اور ان میں سے ایک کسی کام کا ارادہ کرتا تو دوسرا اگر اس کی مدد پر مجبور ہوتا تو دوسرا مغلوب و عاجز ہوتا، اور قادر معبود نہ ہوتا اور اگر اس کی مخالفت و بدافعت پر قادر ہوتا تو دوسرا مضبوط اور غالب ہوتا اور پہلا ضعیف اور عاجز ہوتا اور قادر معبود نہ ہوتا۔

دوسرا رکن : اللہ تعالیٰ کی صفات کا علم اور یہ بھی دس اصول پر مشتمل ہے۔

پہلا اصل :-

اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ کہ جہان کو بنانے والا قادر ہے اور اس کا ذکر اس آیت میں ہے۔

وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (۱)

اور وہ (اللہ تعالیٰ) ہر چیز پر قادر ہے :

وہ اس بات میں سچا ہے کیونکہ عالم اپنی صنعت میں مضبوط اور پیدائش میں ترتیب کے ساتھ ہے اور جو آدمی کسی ریشمی کپڑے کو دیکھے کہ اس کی بناوٹ نہایت اچھی ہے اور اس پر پیل پوٹے بھی عمدہ ہیں پھر یہ خیال کرے کہ یہ کسی مردہ نے بنائے ہیں جسے کوئی طاقت حاصل نہیں یا ایسے انسان نے بنایا جسے کوئی طاقت حاصل نہیں تو ایسا شخص قوتِ عقل سے محروم ہے اور غبی اور جاہل قسم کے لوگوں میں داخل ہے۔

دوسرا اصل :-

اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تمام موجودات کو جانتا ہے اور تمام مخلوق کو گھیرے ہوئے ہے زمین و آسمان کا ایک ذرہ بھی اس کے علم سے باہر نہیں وہ اپنے اس قول میں سچا ہے کہ۔

وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (۲)

اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔

اور اس نے اس بات کی سچائی کی طرف اس آیت کے ذریعے براہنمائی فرمائی۔

أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ۔ (۳)

کیا وہ نہیں جانتا جس نے پیدا کیا حالانکہ وہ بڑا باریک بین

خبر رکھنے والا ہے۔

اس نے مخلوق کے ذریعے اس بات کو جاننے کی طرف تمہاری راہنمائی فرمائی کہ خلقت کی لطافت اور صنعت کا ترتیب سے مزین ہونا اگرچہ چھوٹی سی چیزیں ہو اس بات پر دلالت ہے کہ بنانے والا ترتیب کی کیفیت کو جانتا ہے تو جو کچھ اللہ تعالیٰ نے

(۱) قرآن مجید سورہ تغابن آیت ۱

(۲) قرآن مجید سورہ انعام آیت ۱۰۱

(۳) قرآن مجید سورہ ملک آیت ۱۴

کیا ہدایت اور تعریف میں ہی اعتبار ہے۔

تیسرا اصل :-

اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ وہ زندہ ہے کیوں کہ جس کا علم اور قدرت ثابت ہو وہ لازماً زندہ ہوتا ہے اور اگر کوئی ایسی ذات تصور کی جائے جو قادر، عالم، فاعل اور تدبیر کرنے والی ہے لیکن زندہ نہیں تو یہ بھی جائز ہوگا کہ حیوانات کی حرکت و سکون کے وقت ان کی زندگی میں شک کیا جائے۔ بلکہ صنعت و حرفت والے لوگوں کی زندگی بھی مشکوک ہوگی اور یہ خیال جہالتوں اور گمراہیوں کے گہرے سمندر میں غوطہ لگانا ہے۔

چوتھا اصل :-

اس بات کا علم ہو کہ اللہ تعالیٰ اپنے افعال کا ارادہ فرماتا ہے پس ہر موجود اس کی مشیت کی طرف منسوب ہے اور اس کے ارادے سے صادر ہوتی ہے پس وہ ابتداءً پیدا کرنے والا اور لوٹانے والا ہے۔ اور جس چیز کا ارادہ فرماتا ہے اسے عمل میں لاتا ہے اور وہ کیسے ارادہ کرنے والا نہیں ہوگا جب کہ جو فعل اس سے صادر ہوتا ہے ممکن ہے اس سے اس کی ضد بھی صادر ہو اور جس چیز کی ضد نہیں تو ممکن ہے کہ یہ اس سے پہلے پائید میں صادر ہو جب کہ قدرت دونوں ضدوں اور وقتوں سے ایک طرح کی مناسبت رکھتی ہے لہذا ارادہ ضروری ہے جو قدرت کو ان دو مقدر چیزوں میں سے ایک کی طرف پھیر دے۔ اور اگر معلوم چیز کی ارادہ کے ساتھ تخصیص کا علم ضروری نہ ہو اور یوں کہا جائے کہ یہ اس وقت پائی گئی جس کا پہلے سے علم ہے تو اس کا قدرت سے بے نیاز ہونا بھی جائز ہوگا اور کہا جاسکے گا کہ یہ کسی قدرت کے بغیر خود میں آتی ہے کیوں کہ اس کا اس وقت میں پایا جانا پہلے سے علم میں تھا۔

پانچواں اصل :-

اس بات کا علم ہو کہ وہ سننے دیکھنے والا ہے اس کی نگاہ سے دل کے خطرات اور وہم و فکر کی مخفی باتیں بھی پوشیدہ نہیں ہیں رات کی تاریکی میں سخت پتھر پر چلنے والی سیاہ چوٹی کی آواز بھی اس کی سماعت سے بچ نہیں سکتی اور وہ کیسے سمیع بعیر نہیں ہوگا جب کہ سماعت و بصارت کمال سے نقص نہیں اور کس طرح مخلوق اپنے خالق سے زیادہ کمال ہو سکتی ہے اور مصنوع اپنے بنانے والے سے کس طرح زیادہ اور مکمل ہو سکتا ہے اور کس طرح تقسیم انصاف پر مبنی ہوگی جب خالق کی ذات میں کمی ہو اور اس کی تخلیق و صنعت کمال ہو اور حضرت ابراہیم کی وہ دلیل کیسے صحیح ہوگی جو آپ نے اپنے چچکے خلاف پیش کی جب وہ جہالت و گمراہی کی وجہ سے بتوں کی پوجا کرتا تھا آپ نے اس سے فرمایا :-

تم اس چیز کی پوجا کیوں کرتے ہو جو نہ سنتا ہے نہ دیکھتا ہے
اور نہ تمہیں کچھ فائدہ پہنچا سکتا ہے۔

لَمْ تَعْبُدُوا مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يَبْصُرُ وَلَا يُعْذِبُ

عَنْكَ شَيْئًا رَا

اگر یہ بات اس (آزر) کے معبود میں ہو جاتی، تو آپ کی دلیل باطل ہو جاتی اور اللہ تعالیٰ کا یہ قول صحیح نہ ہوتا۔

وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ
عَلَىٰ قَوْمِهِ - (۱۱)
اور یہ ہماری دلیل ہے جو ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام
کو ان کی قوم کے خلاف عطا فرمائی۔

تو جس طرح کسی عضو کے بغیر اس کا فاعل ہونا اور دل و دماغ کے بغیر عالم ہونا معقول ہے اسی طرح آنکھ کی پتلی کے بغیر
اس کا بصیر اور کان کے بغیر سمیع ہونا بھی عقل کے مطابق ہے کیونکہ ان دونوں باتوں میں فرق نہیں۔
پہٹا اصل :-

اللہ تعالیٰ کلام کے ذریعے نیکلم ہے اور یہ ایک وصف ہے جو اس کی ذات کے ساتھ آواز اور حرف کے بغیر قائم ہے
بلکہ اس کا کلام کسی اور کے کلام کی طرح نہیں ہے جس طرح اس کا وجود، دوسروں کے وجود کے مشابہ نہیں اور کلام درحقیقت
کلام نفسی ہے آواز کو حروف کی شکل اس پر دلالت کے لیے دی گئی ہے۔ جس طرح بعض اوقات اس کلام پر انسانی حرکتیں
اور اشارے دلالت کرتے ہیں اور یہ بات کس طرح بعض غبی لوگوں پر مشتبہ ہو گئی حالانکہ یہ، جاہل شعراء پر مشتبہ نہیں ہوتی چنانچہ
ان میں سے کسی شاعر نے کہا۔

بے شک کلام تو دل میں ہے زبان کو دل پر دلیل بتایا گیا ہے۔

اور جس کی عقل و سمجھ اسے اس بات کے کہنے سے نہ روکے کہ ”میرا زبان حادث ہے لیکن اس پر جو کچھ میری قدرت
حادثہ کی وجہ سے ظاہر ہوتا ہے وہ قدیم ہے“ تو تو اس کی عقل سے طمع ختم کر دے اور اس کے ساتھ گفتگو سے اپنی زبان
کو روک دے اور جسے یہ بات سمجھ نہ آئے کہ قدیم وہ ہوتا ہے جس سے پہلے کوئی چیز نہ ہو اور تمہارے قول بسم اللہ میں باتیں
سے پہلے ہے تو وہ سین جو باطن کے بعد ہے قدیم نہ ہوگی تو ایسے شخص کی طرف توجہ سے اپنے دل کو پاک رکھ، بعض بندوں
کو (مطلب تک پہنچنے سے) دور رکھنے میں اللہ تعالیٰ کا کوئی راز ہے۔

اور جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا اور جو آدمی اس بات کو (عقل سے) دور جانتا
ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دنیا میں آواز و حرف کے بغیر کلام سنا، تو وہ اس بات کا بھی انکار کر دے کہ قیامت
کے دن وہ ایک موجود کو دیکھے گا جو کسی اور رنگ کے بغیر ہوگا اور اگر اس کی عقل اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ وہ ایسے
وجود کو دیکھے گا جو رنگ، جسم، انداز سے اور مقدار سے پاک ہے حالانکہ ابھی تک اس نے ایسی کوئی چیز نہیں دیکھی
تو سننے کی قوت میں بھی اسی بات کو سمجھنا چاہیے جسے اس نے دیکھنے کی قوت میں سمجھا ہے اور اگر وہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ
ہی علم کے ساتھ تمام موجودات کو جانتا ہے تو اسے ایک صفت کو بھی سمجھنا چاہیے جس کے ذریعے وہ تمام کلام کرتا ہے

جس پر عبارات دلالت کرتی ہیں اور اگر اس بات کی سمجھ آتی ہے کہ ساتوں آسمان اور جنت و دوزخ ایک چھوٹے سے ورق میں لکھے جاتے ہیں ذرے کے برابر دل میں محفوظ ہو سکتے ہیں اور یہ سب کچھ آنکھ کے چھوٹے سے ڈھیلے کے ذریعے دکھائی دیتے ہیں حالانکہ آسمان، زمین، جنت اور دوزخ آنکھ کی پتلی، ورق اور دل میں نہیں اترتے تو اسے یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ کلام زبان کے ذریعے پڑھا جاتا ہے، دلوں میں محفوظ اور مصحف میں لکھا جاتا ہے لیکن کلام ذاتی ان میں نہیں آتا کیوں کہ اگر لکھنے سے اللہ تعالیٰ کا کلام ذاتی طور پر کاغذ میں آجائے تو اللہ تعالیٰ کا نام لکھنے سے اس کی ذات بھی ورق پر آنی چاہیے اسی طرح آگ کا لفظ لکھنے سے آگ بھی کاغذ پر آجائے تو وہ جل جائے۔

ساتواں اصل :

اللہ تعالیٰ کا کلام اس کی ذات سے قائم اور قدیم ہے اسی طرح اس کی دوسری صفات بھی ہیں کیونکہ اس کا حوادث کے لیے محل ہونا محال ہے کیونکہ حوادث تبدیل ہوتے رہتے ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرح اس کی صفات کے لیے بھی قدیم ہونا واجب ہے لہذا ان میں تبدیلی نہیں آسکتی اور نہ اس ذات میں کوئی حادث چیز آسکتی ہے بلکہ وہ ہمیشہ سے قابلِ تعریف صفات سے موصوف ہے اور ہمیشہ ہمیشہ اسی طرح حالات کے تغیر سے پاک رہے گا کیونکہ جو حوادث کا محل ہو وہ ان سے خالی نہیں رہ سکتا اور جو حوادث سے خالی نہ ہو وہ خود حادث ہوتا ہے اجسام اس لیے حادث ہیں کہ ان میں تبدیلی آتی رہتی ہے اور ان کے اوصاف بدلتے رہتے ہیں تو ان کا تعلق ان کے تبدیلی کو قبول کرنے میں ان کے ساتھ کس طرح شریک ہو سکتا ہے پس اس بات پر مناسب ہے کہ اس کا کلام قدیم ہو اور اس کی ذات کے ساتھ قائم ہو حادث وہ آذاریں ہیں جو اس کلام پر دلالت کرتی ہیں اور جس طرح یہ بات سمجھ آتی ہے کہ بچے کی پیدائش سے پہلے باپ بچے کے لیے ننھیں علم کی طلب اور ارادہ رکھتا ہے یہاں تک کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اور سمجھ دار ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہ علم پیدا کر دیتا ہے جس کی طلب اس کے باپ کے دل میں موجود تھی تو وہ اس طلب پر مامور ہو جاتا ہے جو اس کے باپ کے ساتھ قائم تھی اور جب تک وہ لڑکا اس کی معرفت حاصل نہیں کر لیتا، اس امر کا وجود باقی رہتا ہے تو اسی طرح اس طلب کی سمجھ بھی آتی چاہیے جس پر یہ آیت دلالت کرتی ہے۔

آپ اپنے نعلین اتار دیں۔

فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ (۱)

اور یہ طلب اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ قائم ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے وجود کے بعد مخاطب ہوئے یعنی جب ان میں اس طلب کی معرفت پیدائی گئی اور انہوں نے اس قدیم کلام کو سنا۔

آٹھواں اصل :

(۱) قرآن مجید سورہ طہ آیت ۱۲

بے شک اس کا علم قدیم ہے پس وہ ازل سے اپنی ذات و صفات اور اس مخلوق کا علم رکھتا ہے جسے وہ پیدا کرتا ہے۔

جب کوئی نئی مخلوق پیدا ہوتی ہے تو اس کے لیے اس کا نیا علم پیدا نہیں ہوتا بلکہ وہ علم ازل کے ساتھ ہی اس کے لیے واضح ہو جاتی ہے اس لیے کہ اگر ہمارے لیے زید کے طلوع آفتاب کے وقت آنے کا علم پیدا ہو جائے تو سورج نکلنے تک یہ علم مقرر رہے گا اور جب سورج طلوع ہوگا تو زید کا آنا کسی نئے علم کے بغیر اسی پہلے علم کے ساتھ معلوم ہو جائے گا تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کے علم کا قدیم ہونا سمجھنا چاہیے۔

نواں اصل :-

بے شک اس کا ارادہ قدیم ہے اور وہ ازل میں ان حوادث سے متعلق ہے جو اپنے وقت میں اس علم ازل کے مطابق وجود میں آتے ہیں کیونکہ اگر ارادہ حادث ہوتا تو وہ حوادث کا محل ٹھہرتا اور اگر وہ ارادہ کسی دوسری ذات میں پیدا ہوتا تو وہ (اللہ تعالیٰ) اس کا ارادہ کرنے والا نہ ہوتا جیسا کہ تم ایسی حرکت کے ساتھ متحرک نہیں ہو سکتے جو تمہاری ذات میں نہ پائی جاتی ہو۔ اور یہ بات کس طرح تصور کی جاسکتی ہے اس طرح تو اس ارادہ کا پیدا ہونا کسی دوسرے ارادے کا محتاج ہوگا اسی طرح دوسرا ارادہ بھی محتاج ہوگا اور یہ بات کسی کنارے تک نہیں پہنچے گی۔ اور اگر یہ بات جائز ہو کہ ارادہ کسی ارادے کے بغیر پیدا ہوتا ہے تو جائز ہوگا کہ عالم بھی کسی ارادے کے بغیر پیدا ہو (حالانکہ ایسا نہیں)۔

دسواں اصل :-

اللہ تعالیٰ علم کے ساتھ عالم زندگی کے ساتھ زندگی، قدرت کے ساتھ قادر ارادے کے ساتھ ارادہ کرنے والا، کلام کے ساتھ متکلم، سماعت کے ساتھ سمیع اور بصارت کے ساتھ بصیر ہے اور اس کے یہ اوصاف انہی صفات قدیمہ سے ہیں لہذا کسی شخص کا یہ کہنا کہ وہ علم کے بغیر عالم ہے ایسا ہی ہے کہ کوئی شخص کہے کہ فلاں مال کے بغیر غنی علم کے بغیر یا معلوم کے بغیر عالم ہے حالانکہ علم، معلوم اور عالم ایک دوسرے کو اسی طرح لازم ہیں جیسے قتل، مقتول اور قاتل باہم لازم و ملزوم ہیں اور جس طرح قتل اور مقتول کے بغیر قاتل کا تصور نہیں ہو سکتا اور مقتول کا تصور قاتل اور قتل کے بغیر نہیں ہو سکتا اسی طرح عالم کا علم کے بغیر اور علم کا معلوم کے بغیر تصور نہیں ہو سکتا بلکہ عقلی طور پر یہ تینوں ایک دوسرے کو لازم ہیں وہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے تو جو شخص عالم کو علم سے جدا سمجھے اسے چاہیے کہ اسے معلوم سے بھی جدا سمجھے نیز علم کو عالم سے بھی الگ سمجھے کیونکہ ان اوصاف میں کوئی فرق نہیں۔

تیسرا کہن :- یہ اللہ تعالیٰ کے افعال سے متعلق ہے اور اس میں بھی دس اصول ہیں۔

پہلا اصل :-

اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ اس عالم میں جو کچھ پیدا ہوتا ہے وہ اس کے فعل تخلیق اور بنانے سے ہے اس

کے سوا اس (مخلوق) کا کوئی خالق نہیں اور نہ ہی اس کے بغیر کوئی محدث پیدا کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ نے مخلوق اور ان کی صنعت کو پیدا کیا نیز ان کی طاقت اور حرکت کو ایجاد فرمایا پس اس کے بندوں کے تمام افعال اسی کی مخلوق ہیں اور اس کی قدرت سے متعلق ہیں۔ اس کی تصدیق اس ارشاد ربانی ہی ہے :-

اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ (۱)

اور ارشاد خداوندی ہے :-

وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ (۲)

اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں اور تمہارے اعمال کو پیدا کیا۔

بیزارشاد فرمایا۔

گفتگو آہستہ کر دیا بلند وہ سینے کی باتوں کو جانتا ہے کیا وہ جس نے پیدا کیا، نہیں جانتا حالانکہ وہ نہایت لطیف اور خبر رکھنے والا ہے۔

وَأَسْرَأُ تَوَلَّىٰكُمْ وَاجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ (۳)

اس نے بندوں کو ان کے اقوال، افعال اور قلبی اسرار اور پوشیدہ باتوں میں بھی پرہیز کا حکم دیا کیونکہ وہ ان کے افعال کی جگہوں کو بھی جانتا ہے اور اس علم پر تخلیق سے استدلال کیا اور وہ بندوں کے قتل، کا خالق کیسے نہیں ہوگا حالانکہ اس کی قدرت کامل ہے اس میں کوئی کمی نہیں اور یہ بندوں کے بدنوں کی حرکتوں سے متعلق ہے اور حرکتیں ایک جیسی ہی اور ان کے ساتھ قدرت کا تعلق ذاتی طور پر ہے تو کسی وجہ سے اس کا تعلق بعض حرکات کے ساتھ ہوگا اور بعض کے ساتھ نہیں ہوگا حالانکہ حرکات ایک جیسی ہیں یا کوئی حیوان کسی طرح اپنے کام کو پیدا کرنے میں مستقل ہوگا حالانکہ بکڑی اور شہد کی نکستی اور دیگر حیوانات سے نہایت لطیف صنعتیں صادر ہوتی ہیں اور ان سے عقل رنگ رہ جاتی ہے۔

تو تمام ارباب کے رب کے بغیر وہ کس طرح خود بخود اسے بنا لیتی ہے حالانکہ جو عمل اس سے صادر ہو رہا ہے وہ اس کی تفصیل کو نہیں جانتی چھوڑے چھوڑے مخلوقات عاجز ہے جب کہ آسمانوں اور زمین کا حاکم، اوپر اور نیچے کا تہا بادشاہ ہے۔

دوسرا اصل :-

بندوں کی حرکات کو صرف اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے اس سے یہ بات لازم نہیں آتی کہ بطور کسب وہ افعال بندوں کی طاقت میں نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے طاقت اور جو کچھ طاقت میں ہے دونوں کو پیدا کیا اختیار اور مختار دونوں کو پیدا فرمایا۔

(۱) قرآن مجید سورہ رعد آیت ۱۶

(۲) قرآن مجید سورہ صافات آیت ۹۸

(۳) قرآن مجید سورہ ملک آیت ۱۳، ۱۴

طاقت، بندے کا وصف ہے اور اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے اس کا کسب نہیں ہے حرکت کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا اور بندے کی صفت اور کسب بتایا یہ اس کی قدرت میں ہے جو اس کا وصف ہے حرکت کی ایک اور صنعت کی طرف نسبت ہے جسے قدرت کہا جاتا ہے اور اسی نسبت کے اعتبار سے اسے کسب کہا جاتا ہے یہ محض جبر و مجبور کرنا، کیسے ہوگا حالانکہ وہ اختیاری اور اضطراری حرکت میں فرق ضرور سمجھتا ہے یا یہ بندے کی تخلیق کیسے ہو سکتی ہے حالانکہ اسے کسب کی ہوئی حرکت کے اجزاء اور ان کی تعداد کا تفصیلی علم نہیں ہے جب دونوں طرفیں باطل ہو گئیں تو اعتقاد میں اعتدال باقی رہ گیا وہ یہ کہ تخلیق کے اعتبار سے یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے مقدر ہیں اور بندے کی قدرت میں دوسری جہت سے آتے ہیں جسے اکتساب کہا جاتا ہے اور قدرت کے مقدر سے متعلق ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ وہ صرف اختراع پیدا کرنا ہی ہو کیونکہ ازل میں اللہ تعالیٰ کی قدرت اس عالم سے متعلق تھی لیکن اس وقت اس کی اختراع حاصل نہ تھی اور اختراع کے وقت اس کے ساتھ ایک دوسرے قسم کا تعلق پیدا ہوا ہے اس سے ظاہر ہوا کہ قدرت کا تعلق مقدر چیز کے حصول کے ساتھ خاص نہیں۔

تیسرا اصل :-

بندے کا فعل اگرچہ اس کا کسب ہے لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی مراد ہونے سے خارج نہیں ہو سکتا لہذا ملک و ملکوت میں آنکھ کا چھپکنا، دل کی توجہ یا آنکھ کا متوجہ ہونا اللہ تعالیٰ کی قضاء و قدرت ارادے اور مشیت کے ساتھ ہوتا ہے شر اور خیر، نفع و نقصان، اسلام اور کفر، عرفان و انکار، کامیابی و ناکامی مگر اسی و ہدایت، فرمانبرداری و نافرمانی، شرک و ایمان اسی کی طرف سے ہے اس کے فیصلے کو کوئی رد نہیں کر سکتا، نہ کوئی اس کے حکم کو ٹال سکتا ہے جسے چاہے گمراہ کرے اور جسے چاہے ہدایت دے وہ جو کچھ کرتا ہے اس کے بارے میں اس سے پوچھا نہیں جائے گا حالانکہ لوگوں سے سوال ہوگا اس پر امت کا یہ متفق علیہ قول دلالت کرتا ہے کہ جو کچھ وہ چاہتا ہے ہو جاتا ہے اور جو کچھ نہیں چاہتا نہیں ہوتا۔

ارشاد خداوندی ہے :-

وَكُوشِنًا لَا تَيْنَاكُلُ نَفْسٍ
هُدَاهَا رَا

دیتے۔

عقلی طور پر اس پر دلیل یہ ہے کہ گناہ اور جرائم کو اگرچہ اللہ تعالیٰ ناپسند فرماتا ہے اور وہ ان کا ارادہ نہیں کرتا اور یہ دشمن یعنی شیطان بعین کے ارادے کے مطابق جاری ہوتے ہیں حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ کا دشمن ہے اور جو کچھ دشمن کے ارادے کے مطابق جاری ہوتا ہے وہ امور اللہ تعالیٰ کے ارادے کے موافق جاری ہونے والے امور سے زیادہ ہیں تو بتائیے کوئی مسلمان اس بات کو کس طرح جائز سمجھے گا کہ اس جبار بادشاہ کو جو عزت و جلال والا ہے، ایسے رتبے کی طرف لوٹا جائے

جائے کہ اگر کسی بستی کے سردار کو اس کی طرف لوٹایا جائے تو وہ بھی اس سے نفرت کرے یعنی اگر اس گاؤں میں اس کا کوئی دشمن ہو اور اس کے مقابلے میں اس کے ارادے سے کام زیادہ ہوتا ہے تو وہ سردار اس ریاست سے ہاٹھ اٹھائے گا اور مخلوق پر گناہوں کا غلبہ رہتا ہے اور اہل بدعت کے نزدیک یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے ارادے کے خلاف ظاہر ہوتا ہے تو یہ نہایت درجے کی کمزوری اور عاجزی ہے (یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے عجز ثابت ہو رہا ہے)

اللہ تعالیٰ جو سب کا رب ہے ظالموں کے اس قول سے بہت بلند ہے پھر جب یہ بات ثابت ہے کہ بندوں کے افعال اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں تو اس کی مراد ہونا بھی صحیح ہوگا۔

اگر کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ جس چیز کا ارادہ فرماتا ہے اس سے منع کیسے کرتا ہے اور جس کا ارادہ نہیں کرتا اس کا حکم کیسے دیتا ہے؟ تو ہم کہتے ہیں حکم، ارادے کا غیر ہے اسی لیے جب کوئی مالک اپنے غلام کو مارتا ہے اور بادشاہ اسے اس پر تہنید کرتا ہے اور وہ بادشاہ کے سامنے غلام کی سرکشی کی شکایت کرتا تو سلطان اسے جھٹلا دیتا ہے چنانچہ وہ اپنی دلیل کو ظاہر کرنے کے لیے کسی کام کا حکم دینا چاہتا ہے تاکہ وہ اس کے سامنے مخالفت کرے تو وہ اسے کہتا ہے کہ بادشاہ کے سامنے اس سواری پر زین باندھ دو تو وہ اسے ایسی بات کا حکم دے رہا ہے جس کی تعمیل اس کا مقصود نہیں اور اگر وہ اسے حکم نہ دیتا تو بادشاہ کے سامنے اس کا عذر صحیح قرار نہ پاتا اور اگر وہ غلام سے تعمیل کا ارادہ کرے تو اپنے نفس کی ہلاکت کا ارادہ ہوگا اور یہ محال ہے۔

چوتھا اصل :-

اللہ تعالیٰ تخلیق و ایجاد اور مکلف بنانے کے ذریعے فضل و احسان فرماتے والا ہے حالانکہ پیدا کرنا اور مکلف بنانا اس پر واجب نہیں معتزلہ کہتے ہیں یہ بات اس پر واجب ہے کیونکہ اس میں بندوں کی بھلائی ہے، لیکن یہ بات محال ہے کیونکہ وہ واجب کرنے والا، حکم دینے والا اور منع کرنے والا ہے تو وہ ایجاب اور لزوم و خطاب کا ہدف کیسے ہو سکتا ہے واجب سے دو باتوں میں سے ایک بات مراد ہوتی ہے یا وہ عمل کرنا جس کے چھوڑنے میں آئندہ نقصان ہے جیسے کہا جاتا ہے کہ بندے پر اللہ تعالیٰ کی اطاعت واجب ہے تاکہ وہ اسے آخرت میں آگ کا عذاب نہ دے یا فوری نقصان کا خطرہ ہے جیسے کہا جاتا ہے پیاسے پر پانی پینا واجب ہے تاکہ وہ مرتے سے بچ جائے، یا اس سے مراد وہ امر ہے جس کا عدم محال تک پہنچانا ہے جیسے کہا جاتا ہے معلوم کا وجود واجب ہے کیونکہ اس کا عدم محال تک پہنچانا ہے یعنی علم، جہالت بن جانا ہے اب اگر ہمارے مخالف کی مراد یہ ہے کہ پہلے معنی کے اعتبار سے تخلیق اللہ تعالیٰ پر واجب ہے تو اس نے اللہ تعالیٰ کو نقصان کو نشانہ بنایا اگر وہ سزا معنی مراد ہے تو وہ مسلم ہے کیوں کہ علم ہونے کے بعد معلوم کا وجود ضروری ہے اور اگر تمہارا معنی مراد ہے تو اس کا کوئی مفہوم نہیں اور یہ کہنا کہ بندوں کی مصلحت کے لیے واجب ہے تو یہ بات فاسد ہے کیونکہ جب بندوں کی بھلائی کو چھوڑنے سے اسے نقصان نہیں ہوگا تو اب اس کے حق میں وجوب کا کوئی مطلب نہ ہوگا، پھر بندوں کی بھلائی

کا تقاضا تو یہ تھا کہ انہیں جنت میں پیدا کرنا اب جب کہ آزمائشوں کی جگہ پیدا کیا پھر ان کو خطاؤں کا ہدف بنایا پھر عذاب کے خطرے اور حساب و پشیمانی کا خوف دلایا تو کون عقل مند اس کو قابل رشک سمجھے گا۔

پانچواں اصل :

اللہ تعالیٰ کے لیے جائز ہے کہ وہ مخلوق کو ان کی طاقت سے زیادہ تکلیف دے اس میں معتزلہ کا اختلاف ہے، اگر ایسا کرنا جائز نہ ہوتا تو اسے دور کرنے کی دیکھیے صحیح ہوتی حالانکہ لوگ اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں اور کہتے ہیں۔

رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْنَا مَا لَا طَاقَةَ
لَنَا بِهِ (۱) یا اللہ! ہم پر وہ بوجھ نہ ڈالنا جس کی ہمیں طاقت
نہیں۔

اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی کہ ابو جہل آپ کی تصدیق نہیں کرے گا پھر آپ کو حکم دیا کہ آپ اسے تمام اقوال کی تصدیق کا حکم دیں اور ان اقوال میں ایک قول یہ بھی تھا کہ وہ آپ کی تصدیق نہیں کرے گا۔ تو وہ اس قول کی تصدیق کرتا ہے "کہ وہ تصدیق نہیں کرے گا" اس بات کا وجود محال ہے۔

چھٹا اصل :-

اللہ تعالیٰ کسی سابق جرم اور آنے والے ثواب کے بغیر بھی مخلوق کو درد اور عذاب پہنچا سکتا ہے معتزلہ کا اس مسئلے میں اختلاف ہے۔ (سہاری دلیل یہ ہے کہ) وہ اپنی ہلک میں تصرف کر سکتا ہے اور اس بات کا تصور نہیں ہو سکتا کہ اس کا تصرف اس کی ہلک سے تجاوز کر جائے اور ظلم کا مطلب یہ ہے کہ غیر کی اجازت کے بغیر اس کی ہلک میں تصرف کیا جائے اور یہ اللہ تعالیٰ پر محال ہے۔ کیونکہ اس کے مقابلے میں کسی کی ہلک ہی نہیں کہ اس کا تصرف ظلم قرار پائے اور اس پر دلیل اس عمل کا پایا جانا ہے لہذا جانوروں کو ذبح کرنا انہیں تکلیف پہنچانا ہے اور انسانوں کی طرف سے انہیں طرح طرح کے عذاب میں مبتلا کیا جانا ہے حالانکہ ان سے کوئی جرم صادر نہیں ہوا۔

ازالہ شبہ :

اگر کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ جانوروں کو زندہ کر کے جن قدر انہوں نے تکالیف اٹھائی ہوگی ان کا بدلہ دے گا اور یہ بات اللہ تعالیٰ پر واجب ہے۔ تو ہم کہتے ہیں جو شخص یہ عقیدہ رکھتا ہو کہ جس چوٹی کو روندنا گیا اور پھر کو مسلا گیا انہیں ان اذیتوں کا بدلہ دینے کے لیے زندہ کرنا اللہ تعالیٰ پر واجب ہے، تو ایسا شخص شریعت و عقل سے خارج ہوگا اس لیے کہ کہا جائے گا اگر ثواب اور عیش کا واجب ہونا اس لیے ہے کہ اس کے چھوڑنے سے (اللہ تعالیٰ کے لیے) ضرر ہے تو یہ بات محال ہے اور اگر کوئی دوسرا مقصد ہے تو یہ بات گزر چکی ہے کہ وہ غیر مفہوم ہے کیونکہ وہ واجب کے مذکورہ معانی سے خارج ہے۔

اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے اس پر زیادہ نیک بندوں کی رعایت واجب نہیں جیسا کہ ہم نے ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ پر کوئی چیز واجب نہیں بلکہ اس کے حق میں وجوب عقل کے خلاف ہے کیونکہ اس سے اس کے افعال کے بارے میں باز پرس نہیں ہوگی جب کہ لوگوں سے پوچھ گچھ ہوگی، بتائیے اگر ہم معتزلی کے سامنے یہ مسئلہ رکھیں تو وہ اپنے اس قول کا کیا جواب دے گا کہ اللہ تعالیٰ پر زیادہ نیک کرنے والے کی رعایت واجب ہے مسئلہ یہ ہے کہ فرض کریں آخرت میں ایک بچے اور بالغ کے کے درمیان مناظرہ ہو جاتا ہے اور وہ دونوں حالت اسلام میں فوت ہوئے اللہ تعالیٰ بالغ کے درجات بڑھا دیتا ہے اور اسے بچے پر فضیلت دیتا ہے کیونکہ اس نے بالغ ہونے کے بعد ایمان اور اطاعت کی مشقت برداشت کی اور معتزلی کے نزدیک یہ فضیلت واجب ہے اگر بچہ پوچھے اسے رب! تو نے اسے مجھ سے زیادہ مرتبہ کیوں عطا کیا اور اللہ تعالیٰ جواب دے اس لیے کہ یہ بالغ ہوا اور اس نے عبارات میں کوشش کی، اب بچہ کہے کہ تو نے مجھے بچپن میں موت دے دی تھی پر واجب تھا کہ مجھے زندہ رکھتا حتیٰ کہ میں بالغ ہو کر محنت کرنا تو نے اس کو زیادہ عمر دی اور اب فضیلت عطا فرمائی اس لیے تو نے انصاف نہیں کیا،

اللہ تعالیٰ اس کا جواب یوں دے کہ میں جانتا تھا اگر تو بالغ ہو گیا تو شرک کرے گا یا میری نافرمانی کرے گا تو تیرے لیے بچپن میں فوت ہو جانا بہتر تھا معتزل کے نزدیک اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ عذر پیش کیا جائے گا اب اگر جہنم کے طبقہ میں سے کافر بولیں اور کہیں اسے رب! کیا تجھے معلوم نہ تھا کہ ہم بالغ ہو کر شرک کریں گے تو تو نے ہمیں بچپن میں موت کیوں نہیں دی ہم مسلمان بچے کے مقام سے کم پر ہی راضی ہو جاتے۔ تو اس کا کیا جواب ہوگا تو اس صورت میں کیا اس بات پر یقین رکھنا لازمی نہیں کہ امور الہیہ اتنی جدالیت کی وجہ سے معتزلہ کے ترازو میں تولنے سے بلند ہیں۔

ازالہ شبہ :-

اگر کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ نیک بندوں کی رعایت پر قادر ہونے کے باوجود بعض اوقات ان پر اسباب عذاب مسلط کر دیتا ہے اور یہ بات قبیح ہے حکمت کے لائق نہیں۔
 تو ہم کہتے ہیں قبیح وہ چیز ہوتی ہے جو غرض کے موافق نہ ہو حتیٰ کہ ایک چیز کسی شخص کے نزدیک قبیح ہوتی ہے اور اس کے غیر کے نزدیک اچھی ہوتی ہے کیونکہ وہ ایک کے غرض کے موافق ہوتی ہے دوسرے کے لیے نہیں۔ حتیٰ کہ ایک آدمی کے رشتہ دار اس کے قتل کو قبیح سمجھتے ہیں لیکن اس کے دشمن اسے اچھا سمجھتے ہیں۔ اگر قبیح سے مراد یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی غرض کے موافق نہ ہو تو یہ مجال ہے کیونکہ وہ غرض سے پاک ہے پس اس سے قبیح بات کا تصور نہ ہوگا جس طرح اس سے ظلم کا تصور نہیں کیا جاسکتا کیونکہ اس سے غیر کی ملک میں تصرف کا تصور نہیں ہوتا اور اگر قبیح سے مراد یہ ہے کہ وہ دوسروں کی غرض کے موافق نہ ہو تو ہم نے یہ کیوں کہا کہ وہ اس کے لیے مجال ہے؟ یہ تو محض ایک خواہش ہے جس کے

خلاف وہ بات گواہی دیتی ہے جو ہم نے اہل جہنم سے مناظرہ کے بارے میں ذکر کی۔ پھر حکیم کا معنی ہے وہ ذات جو اشیاء کے خالق کو جانتی ہو اور اپنے ارادے کے مطابق اس کے فعل پر قادر ہو تو یہ بات کس طرح نیکو کار کی رعایت کو واجب کرے گی جب کہ ہمارے ہاں حکیم (دانا) وہ شخص ہوتا ہے جو اچھے لوگوں کی رعایت اپنی ذات کے لیے کرتا ہے تاکہ اس کے ذریعے دنیا میں تعریف اور آخرت میں ثواب حاصل کرے یا اس کے ذریعے اپنے آپ سے آفت کو دور کرے اور یہ تمام باتیں اللہ تعالیٰ کے لیے محال ہیں۔

آٹھواں اصل :

اللہ تعالیٰ کی پہچان اور اطاعت اس کے واجب کرنے اور شریعت کی وجہ سے واجب ہے عقل کے ذریعے نہیں اس میں معتزلہ کا اختلاف ہے

(ہماری دلیل یہ ہے کہ عقل اگرچہ اطاعت کو واجب کرتی ہے لیکن اس بات سے خالی نہیں کہ وہ کسی فائدہ کے بغیر واجب کرے گی، تو یہ محال ہے، کیونکہ عقل کسی بے فائدہ کام کو واجب نہیں کرتی یا کسی فائدہ سے اور غرض کے لیے واجب کرے گی تو یہ دو حال سے خالی نہیں یہ غرض معبود کی طرف لوٹے گی اور یہ اللہ تعالیٰ کے حق میں محال ہے کیونکہ وہ اعراض و فوائد سے پاک ہے بلکہ اس کے حق میں کفر و ایمان اور اطاعت و نافرمانی سب برابر ہیں یا اس کا تعلق بندے کی غرض سے ہو گا اور یہ بھی محال ہے کیونکہ فی الحال اس کی کوئی غرض نہیں بلکہ وہ اطاعت کی وجہ سے اپنے آپ کو تمکاتا اور خواہشات سے دور رہتا ہے۔ اور آخرت میں ثواب اور عذاب کے علاوہ کچھ نہیں اور کہاں سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نافرمانی اور اطاعت دونوں پر ثواب عطا فرمائے گا اور سزا نہیں دے گا حالانکہ اس کے حق میں اطاعت و عصیان برابر ہیں کیونکہ اس کا کسی ایک کی طرف میلان نہیں اور نہ ہی ان میں سے کوئی ایک اس کے ساتھ خاص ہے یہ امتیاز شریعت کے ذریعے معلوم ہوتا ہے جس شخص نے خالق و مخلوق کو ایک دوسرے پر قیاس کرتے ہوئے یہ موقف اختیار کیا وہ جھٹک گیا کیونکہ مخلوق شکر یہ اور انکار ہی فرق کرتی ہے اس لیے کہ ان میں سے ایک پر آدمی خوش ہوتا ہے اور لذت محسوس کرتا ہے دوسرے پر نہیں۔

ازالہ شبہ :

اگر کہا جائے کہ جب اطاعت میں غور و فکر اور اس کی معرفت شریعت کی وجہ سے ہے اور شریعت اس وقت تک حاصل نہیں ہوتی جب تک مکلف اس میں غور و فکر نہ کرے تو جب کوئی مکلف اپنے نبی سے کہے کہ عقل مجھ پر غور و فکر واجب نہیں کرتی اور میرے ہاں شریعت، غور و فکر کے بعد ثابت نہیں ہوتی اور میں خود نظر پر جرات نہیں کرتا تو یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لا جواب کر دے۔

ہم کہتے ہیں اس شخص کا یہ قول اسی طرح ہے کہ کوئی شخص کسی جگہ پر کھڑا ہو اور کوئی اسے کہے کہ تمہارے پیچھے ضرر رساں درندہ ہے اگر تو اپنی جگہ سے نہیں ہٹے گا تو وہ تجھے کھالے گا اور اگر تو پیچھے کی طرف متوجہ ہو کر دیکھے گا تو میرے پیچ کو

پہچان لے گا۔ تو جو شخص کھڑا ہے وہ کہے جب تک میں پیچھے نہ دیکھوں تیرا سچ ثابت نہیں ہوگا اور میں پیچھے مڑ کر نہیں دیکھوں گا۔ جب تک تمہارا سچ ثابت نہ ہو جائے تو یہ بات اس قائل کی بیوقوفی پر دلالت کرتی ہے اور وہ اپنے آپ کو ہلاکت کا نشانہ بنائے گا جب کہ راہنمائی کرنے والے کا کوئی نقصان نہیں ہوگا اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہارے پیچھے موت ہے اور دو سر جانب ضرر رساں درندے اور جاننے والی آگ ہے اگر تم اس سے نہیں بچو گے اور میرے معجزات کے ذریعے میری صداقت کو نہیں پہچانو گے تو ہلاک ہو جاؤ گے۔ تو جس نے توجہ کی اس نے پہچان لیا اور سچاؤ اختیار کر کے نجات حاصل کر لی اور جس نے توجہ نہ کی اور ڈٹا رہا وہ ہلاک اور تباہ و برباد ہوا۔ اور اگر سارے لوگ ہلاک ہو جائیں تو میرا کچھ بھی نقصان نہیں ہوگا۔ مجھ پر تو واضح انداز میں رسپیام (پہنچا دینا ہے۔ تو شریعت بتاتی ہے کہ مرنے کے بعد ہلاک کرنے والے درندوں سے پالان پڑے گا اور عقل شریعت کے کلام کو سمجھنے کا فائدہ دیتی ہے اور جو کچھ شریعت بتاتی ہے مستقبل میں اس کے ہونے کی خبر دیتی ہے اور طبیعت نقصان سے بچنے کی تزیین دیتی ہے۔ اور کسی چیز کے واجب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا چھوڑنا باعث ضرر ہے، اور شریعت کے واجب کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ متوقع نقصان کی پہچان کراتی ہے کیوں کہ عقل یہ بات نہیں بتاتی کہ خواہشات کے پیچھے چلنے سے موت کے بعد ضرر پہنچے گا اور شریعت و عقل اور دجوب کے سلسلے میں ان کی تاثیر کا یہ مفہوم ہے کہ اگر حکم خداوندی کے چھوڑنے پر عذاب کا ڈر نہ ہوتا تو دجوب ثابت نہ ہوتا کیوں کہ واجب کا یہی معنی ہے کہ جس کے چھوڑنے سے آخرت میں نقصان ہو۔

نواں اصل :-

انبیاء کرام علیہم السلام کی بعثت محال نہیں ہے اس میں براہمہ فرقہ کا اختلاف ہے (۱) وہ کہتے ہیں اس بعثت کا کوئی فائدہ نہیں کیوں کہ عقل ان سے بے نیاز کر دیتی ہے (رہم کہتے ہیں کہ) عقل ان افعال کی طرف راہنمائی نہیں کرتی جو آخرت میں باعث نجات ہوں گے جیسے وہ ان ادویات کی طرف راہنمائی نہیں کرتی جو صحت کے لیے مفید ہوں تو مخلوق کو انبیاء کرام کی اسی طرح ضرورت ہے جس طرح انہیں ڈاکٹروں کی ضرورت ہے لیکن ڈاکٹر کی سچائی تجربہ سے نبی کی صداقت معجزہ کے ذریعے معلوم ہوتی ہے۔

دسواں اصل :-

بلاشبہ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر بھیجا آپ پہلی شریعتوں یعنی یہود و نصاریٰ اور ستارہ پرستوں کے دین کو منسوخ کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ نے ظاہری معجزات اور روشن دلائل کے ساتھ آپ کی تائید فرمائی

(۱) یہ حکماء ہند کا ایک گروہ ہے اور وہ اپنے آپ کو دین ابراہیمی پر سمجھتے ہیں۔ (الاتحاد جلد ۲ ص ۱۹۶) ۱۲

جیسے چاند کا پھٹ جانا، کنکریوں کا تیسرے کرنا (۱۲) جانوروں کا بولنا اور آپ کی مبارک انگلیوں سے پانی کا جاری ہونا (۱۳) آپ کے ظاہر معجزات ہیں سے قرآن پاک ہے جس کے ذریعے آپ نے کفار عرب کو چیلنج کیا تو وہ باوجود فصاحت و بلاغت کے (مقابلہ کرنے کی بجائے) آپ کو قید کرنے، ٹوٹے، شہید کرنے اور جلاوطن پر کرنے پرتل گئے جیسے اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں بتایا۔ وہ قرآن پاک کی مثل لانے اور اس کا مقابلہ کرنے پر قادر نہ ہوئے کیونکہ انسان کے بس میں نہیں کہ وہ قرآن پاک کی فصاحت اور ترتیب کو جمع کر سکے (اس کے ساتھ ساتھ اس میں پہلے لوگوں کی خبریں بھی ہیں حالانکہ آپ کسی سے پڑھے ہوئے نہیں تھے اور نہ ہی کتب کے ساتھ آپ کا تعلق تھا۔ پھر یہ کہ آپ نے غیب کی خبریں دیں جو مستقبل میں سچ ثابت ہوئیں۔

جیسے ارشاد خداوندی ہے۔

اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو تم امن و امان کے ساتھ ضرور مسجد حرام میں داخل ہو گے سرور کو منڈوانے یا بال ترشوانے ہو گے۔

لَتَدْخُلَنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ
اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّفِينَ ذُرُوسِكُمْ
مُقَصِّرِينَ (۴)

اور جیسے فرمایا:-

قرب کی زمین میں رومی مغلوب کر دیئے گئے اور وہ مغلوب ہونے کے بعد آئندہ چند برسوں میں ضرور غالب آئیں گے۔ رسولوں کی صداقت پر معجزے کی دلالت کی وجہ یہ ہے کہ جس بات سے انسان عاجز ہو وہ صرف اللہ تعالیٰ کا فعل ہوتا ہے تو جوں جوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بطور معجزہ پیش کیا تو گویا وہ اللہ تعالیٰ کے اس قول کی طرح ہوا کہ آپ نے سچ کہا۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص بادشاہ کے سامنے کھڑا ہوا اور اس کی رعایا کے سامنے دعویٰ کرے کہ اسے بادشاہ نے ان کی طرف بھیجا ہے تو جیسا کہ بادشاہ سے کہے کہ اگر تم سچے ہو تو اپنے مرتبہ اپنے تخت پر کھڑے ہو جاؤ اور اپنی عادت کے خلاف بیٹھو چنانچہ بادشاہ اسی طرح کہے تو اس سے حاضرین کو اس بات کا واضح علم حاصل ہو گا کہ گویا بادشاہ نے

(۱) صحیح بخاری کتاب تفسیر جلد ۲ ص ۲۲، سورہ ۵۲

(۲) تاریخ ابن عساکر تیسع الصحافی پدہ جلد ۲ ص ۱۵۸

(۳) سنن الدارمی جلد اول ص ۲۲ باب اکرام اللہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم من تفسیر الماد

(۴) قرآن مجید سورہ فتح آیت ۲۴

(۵) قرآن مجید، سورہ روم آیت ۲

اس کی صداقت کی تصدیق کر دی۔

چوتھا رکن:

سماعی باتیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خبروں کی تصدیق یہ بھی دس اصول پر مشتمل ہے۔

پہلا اصل:

حشر و نشر کا ذکر شریعت میں آیا ہے اور یہ حق ہے ان کی تصدیق واجب ہے کیونکہ عقلاً یہ ممکن ہے۔ اور اس کا مطلب فنا کرنے کے بعد دوبارہ اٹھانا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہے جیسے پہلی مرتبہ پیدا کرنا ہے۔

اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ
قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ -
وہ کہتا ہے کون ہڈیوں کو زندہ کر سکتا ہے جب کہ وہ پوٹید
ہو گئیں آپ فرما دیجئے وہی ان کو زندہ کرے جس نے
انہیں پہلی بار پیدا کیا تھا۔ (۱)

تو ابتداء کے ساتھ اعادہ پر استدلال فرمایا۔ نیز ارشاد خداوندی ہے۔

مَا خَلَقْنَاكُمْ وَإِلَّا نَعْتَدُكُمْ مِرَّةً وَكُنْتُمْ
نَفْسٍ وَاحِدَةً - (۲)
تمہاری پیدائش اور (قیامت کے دن) اٹھنا ایک نفس
کی طرح ہے۔

اعادہ (لوٹانا) دوسری بار ابتداء کرنا ہے تو پہلی ابتداء کی طرح یہ بھی ممکن ہے۔

دوسرا اصل:

منکر تکبیر کا سوال

اس کے بارے میں احادیث آئی ہیں لہذا اس کی تصدیق واجب ہے کیونکہ یہ ممکن ہے اس لیے کہ اس کا تقاضا صرف اتنا ہے کہ زندگی کو اس جزو کی طرف لوٹایا جائے جس کے ذریعے خطاب کو سمجھا جاتا ہے اور یہ بات فی نفسہ ممکن ہے۔ اور اس بات کے ذریعے اسے رد نہیں کیا جاسکتا کہ میت کے اجزاء کو حالت سکون میں ہوتا ہے لیکن اپنے باطن کے ساتھ تکالیف اولذات کا ادراک کرتا ہے جس کا اثر بیداری کے بعد بھی محسوس ہوتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل علیہ السلام کا کلام سنتے اور انہیں دیکھتے تھے لیکن لوگ آپ کے گرد ہوتے وہ نہ سنتے تھے اور نہ دیکھتے تھے اور انہیں اس کے علم سے

(۱) قرآن مجید سورہ یسین ۷۸، ۷۹

(۲) قرآن مجید سورہ لقمان آیت ۲۸

انسانی حاصل ہوتا جتنا وہ چاہتا (۱) تو جب ان کے لئے فرشتوں کو دیکھنا اور سینا نہیں رکھا تھا تو انہیں حضرت جبریل علیہ السلام کا ادراک نہیں ہوتا تھا۔

تیسرا اصل :-

عذابِ قبر

عذابِ قبر کے بارے میں شریعت نے بیان کیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :-

وہ آگ جس پر وہ صبح و شام پیش کئے جاتے ہیں اور جس دن
قیامت قائم ہوگی حکم ہوگا کہ فرعونوں کو سخت عذاب میں
داخل کرو۔

أَشَدَّ الْعَذَابِ - (۲)

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلاف (بزرگوں) کا عذابِ قبر سے پناہ مانگنا مشہور ہے اور یہ ممکن بھی ہے لہذا اس کی تصدیق واجب ہے، میت کے اجزاء کا درندوں کے پیوں اور پرندوں کے پوٹوں میں متفرق ہونا اس سے مانع نہیں ہے کیونکہ حیوان کے مخصوص اجزاء کو محسوس ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ ان اجزاء میں احساس پیدا فرمادے۔

چوتھا اصل :-

میزان

میزان حق ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے :-

اور ہم قیامت کے دن عدل والے ترازو قائم کریں گے

وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ (۳)

اور ارشاد خداوندی ہے۔

تو جو اعمال کا وزن بھاری ہوگا وہی لوگ فلاح پائیں گے
اور جن کے اعمال تول میں ہلکے ہوں پس وہی ہیں جنہوں نے
اپنی جان کو نقصان میں ڈالا۔

فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ

سُمُّوا الْمَقْلُوحُونَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ

فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ (۴)

(۱) مسلم شریف باب طیب عرق النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہی فرشتہ انسانی شکل میں آتا ہے

اور جو کچھ کہتا ہے میں یاد کرتا رہتا ہوں صحیح مسلم اردو جلد ۶ ص ۹۱، مطبوعہ فرید بکسٹال

(۲) قرآن مجید سورہ مؤمن آیت ۲۶ (۳) قرآن مجید، سورہ انبیاء آیت ۲۷

(۴) قرآن مجید سورہ مؤمنون آیت ۱۰۲-۱۰۳

اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ درجات اعمال کے مطابق نامہ اعمال میں وزن پیدا کر دے گا تو بندوں کے اعمال کی مقدار خود بندوں کو معلوم ہو جائے گی حتیٰ کہ عذاب کی صورت میں عدل اور معافی نیز دو گنا ثواب دینے کی صورت میں اس کا فضل ان پر ظاہر ہو جائے گا۔

پانچواں اصل :-

پہل صراط

یہ ایک پہل ہے جو جہنم کی پشت پر بچھایا گیا ہے بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہے اللہ تعالیٰ ارشاد

فرماتا ہے۔

قَاهِدٌ وَمُهْمَلٌ إِلَىٰ صِرَاطٍ الْجَحِيمِ وَقَفْوَهُمْ
ان سب کو دوزخ کی طرف ہانکو اور انہیں ٹھہراؤ ان سے
پوچھا جائے گا۔ (۱)

اور یہ بھی ممکن ہے پس اس کی تصدیق واجب ہے کیوں کہ جو ذات پرندوں کو ہوا میں اڑانے پر قادر ہے وہ انسان کو پہل صراط پر چلانے پر بھی قادر ہے۔

چھٹا اصل :-

جنت و دوزخ

جنت و دوزخ پیدا کر دیئے گئے ہیں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے :

وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ
اور اپنے رب کی بخشش حاصل کرنے میں جلدی کرو اور اس
جنت کی طرف (دوڑو) جس کی چوڑائی میں تمام آسمانوں و زمین
سما جائیں وہ متقی لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔

لِلْمُتَّقِينَ۔ (۲)

ساتواں اصل :-

خلافت و امامت

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امام حق حضرت ابو بکر صدیق پھر حضرت عمر فاروق پھر حضرت عثمان غنی اور پھر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہم ہیں۔ امام کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی نص قطعی نہیں آئی کیوں کہ اگر ایسا ہوتا تو مختلف شہروں میں لشکروں پر آپ نے جو حاکم یا امیر مقرر فرمائے تھے یہ ان سے بھی زیادہ ظاہر اور واضح ہوتا

(۱) قرآن مجید سورہ انبیاء آیت ۷۷

(۲) قرآن مجید سورہ آل عمران آیت ۱۲۲

اور پوشیدہ نہ رہتا کیوں کہ وہ پوشیدہ نہیں رہے تو یہ کیسے پوشیدہ رہ گیا۔ اور اگر یہ بات ظاہر تھی تو کیسے مٹ گئی اور ہم تک نہ پہنچی۔

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، صحابہ کرام کے انتخاب اور بیعت کی وجہ سے امام ہوئے اور اگر کسی دوسرے صحابی کے لیے نص ثابت کی جائے تو تمام صحابہ کرام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کا الزام آئے گا اور یہ اجماع کو توڑنا ہوگا۔ اس بات کو کہ اس سلسلے میں نص ہے، رافضیوں نے گھڑا ہے اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ تمام صحابہ کرام پاک ہیں اور قابل تعریف بھی۔ جیسے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف فرمائی ہے۔

حضرت معاویہ اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہما کے درمیان جو اختلاف ہوا وہ اجتہاد پر مبنی تھا حضرت معاویہ کی طرف سے امامت کا جھگڑا نہ تھا کیونکہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا خیال تھا کہ چونکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے قاتلین کے قبائل بھی زیادہ ہیں اور وہ لشکر میں بھی شامل ہیں لہذا ان قاتلین کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے رشتہ داروں کے ہونے کی بنا پر خلافت کے ابتدائی دور میں ہی اس میں خلل کا باعث ہوگا۔ لہذا آپ نے تاخیر کو زیادہ بہتر سمجھا۔ اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا خیال تھا کہ ان لوگوں کے اتنے بڑے جرم کے باوجود اس معاملے میں تاخیر انہیں اللہ کے خلاف ترغیب دینے کے مترادف ہے اور اس سے خون ریزی ہوگی جلیل القدر علماء کرام نے فرمایا کہ ہر مجتہد کی رائے صحیح ہوتی ہے لیکن دوسرے حضرات نے فرمایا ایک کی بات درست ہوتی ہے اور کسی بھی اہل علم نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی سوچ کو غلط قرار نہیں دیا۔

اٹھواں اصل :-

صحابہ کرام کی فضیلت اور اس کی ترتیب

صحابہ کرام کی فضیلت ان کی خلافت کی ترتیب کے مطابق ہے کیونکہ حقیقی فضیلت وہ ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کے ہاں فضیلت ہو اور اس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی مطلع نہیں ہو سکتا تمام صحابہ کرام کی تعریف میں بہت سی آیات اور احادیث آئی ہیں فضیلت کی باریکیوں اور اس کی ترتیب کو وہی لوگ جانتے تھے جنہوں نے وحی اور نزولِ قرآن کا شاہدہ کیا وہ احوال کے قرائن اور فضیلت کی باریکیوں سے یہ بات معلوم کرتے تھے اگر وہ لوگ اس بات کو نہ سمجھتے تو خلافت کو اس طرح ترتیب نہ دیتے کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے معاملے میں کسی ملامت گر کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے تھے اور کوئی قوت انہیں حق سے پھیر نہیں سکتی تھی۔

نواں اصل :-

شرائط امامت

اسلام اور مکلف ہونے کے بعد امامت کی شرائط پانچ ہیں، مرد ہونا، متقی ہونا، عالم ہونا، (اور حکومت پر) قادر ہونا

اور قریش میں سے ہونا، کیوں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا۔

اُمّہ قریش سے ہوں گے۔

اَزْوَاجٍ مِّنَ الْقُرَيْشِ (۱)

اگر ان صفات کے حاملین کئی ہوں تو جس کے ہاتھ پر زیادہ لوگ بیعت کریں۔ اور جو اکثریت کا مخالف ہوگا وہ باغی ہوگا اسے حق کے سامنے جھکنے پر مجبور کرنا واجب ہے۔

دسواں اصل :-

خوفِ فتنہ کے وقت انفرادی امامت

جو آدمی امامت کے درپے ہے اگر اس میں تقویٰ اور علم نہ پایا جاتا ہو اور اس کو معزول کرنے میں فتنہ پیدا ہوتا ہو اور اسے دور کرنے کی طاقت نہ ہو تو ہم اس کی امامت کے انعقاد کا حکم دیں گے کیونکہ یہ دو حال سے خالی نہیں یا تبدیلی کی وجہ فتنہ پیدا کریں گے اور اس صورت میں مسلمانوں کو جو نقصان ہوگا وہ اس نقصان سے زیادہ ہوگا جو امامت کی شرائط میں کمی کی وجہ سے ہوگا اور یہ شرائط مصلحت کے لیے زیادہ کی گئی ہیں۔

لہذا ان اضافی شرائط کی وجہ سے اصل مصلحت کو ختم نہیں کیا جائے گا۔ جیسے کوئی شخص ایک محل بنانے کے لیے پورے شہر کو تباہ کر دے یا یہ کہ ہم ملک کو امام سے خالی رکھنے کا فیصلہ کریں اور تمام مقدمات میں یگاڑ پیدا ہو جائے اور یہ محال ہے اور ہم ضرورت کی وجہ سے اہل بیعت کے فیصلوں کو نافذ قرار دیتے ہیں۔ تو حاجت اور ضرورت کے وقت امامت کی صحت کا فیصلہ کیسے نہیں کریں گے۔

تو یہ چار ارکان جو چالیس اصول پر مشتمل ہیں، یہ عقائد کے قواعد ہیں جو شخص ان پر عقیدہ رکھتا ہے وہ اہل سنت کے موافق ہے اور بدعتیوں کے خلاف ہے اللہ تعالیٰ اپنی توفیق سے ہمیں سیدھے راستے پر رکھے اور اپنے احسان، وسیع کرم اور فضل سے حق اور اس کی تحقیق کی طرف ہماری راہنمائی فرمائے۔ ہمارے سردار حضرت محمد مصطفیٰ (صلی اللہ علیہ وسلم) آپ کی آواز اور ہر منتخب بندے پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو۔

چوتھی فصل :-

قواعد عقائد

ایمان، اسلام، ان کے درمیان اتصال و انفصال نیز ان میں کمی زیادتی اور اس میں اسلاف کے استثناء کا بیان۔ اس میں تین مسائل ہیں۔

پہلا مسئلہ :-

اس میں اختلاف ہے کہ کیا اسلام ہی ایمان ہے یا یہ کوئی دوسری چیز ہے اور اگر اس کا غیر ہے تو کیا وہ اس سے الگ ہے اس کے علاوہ بھی پایا جاتا ہے یا اس کے ساتھ اس کا ربط ہے اور یہ لازم ملزوم ہیں تو کہا گیا ہے کہ یہ دونوں ایک ہیں بعض نے کہا یہ دو چیزیں جو باہم متصل نہیں ہیں۔

یہ بھی کہا گیا کہ یہ دونوں الگ الگ ہیں لیکن ایک دوسرے سے مربوط ہیں اب طالب کی تہ اس مسئلے میں بہت طویل اور سخت باعث اضطراب کلام کی ہے اب ہم بے فائدہ تفسیر کی طرف متوجہ ہوئے بغیر حق بات کو واضح طور پر لاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ اس میں تین پہاٹ ہیں۔

۱۔ دونوں لفظوں کا لغوی معنی کیا ہے۔

۲۔ شریعت میں ان دونوں سے کیا مراد ہے۔

۳۔ دنیا اور آخرت میں ان دونوں کا حکم کیا ہے۔

لہذا پہلی بحث لغوی، دوسری تفسیری اور تیسری فقہی شرعی بحث ہے۔

لغوی بحث:

اس میں حق بات یہ ہے کہ ایمان، تصدیق کا نام ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے۔

وَمَا آنتَ لِمُؤْمِنٍ لَّنَا (۱) اور آپ ہماری تصدیق کرنے والے نہیں ہیں

اور اسلام ماننے اور دل سے قبول کرے اور جھک جانے نیز سرکشی انکار اور عناد کو چھوڑنے کا نام ہے تصدیق کا محل خاص ہے اور وہ دل ہے زبان اس کی ترجمان ہے ماننا عام ہے دل، زبان اور دیگر اعضاء سب کے ساتھ ہوتا ہے ہر قلبی تصدیق، مان لینا، اور انکار کو چھوڑ دینا ہے اسی طرح زبان سے اعتراف ہے، اور اعضاء کے ذریعے فرمانبرداری کرنا اور جھک جانا بھی اسی طرح ہے تو لغوی اعتبار سے اسلام میں عموم ہے اور ایمان خاص ہے اور اسلام کا سب سے اچھا جزو ایمان ہے پس ہر تصدیق تسلیم (ماننا) ہے لیکن ہر تسلیم، تصدیق نہیں ہے۔

شرعی بحث:

اس میں حق بات یہ ہے کہ شریعت میں یہ دونوں مترادف (معمی) بھی آئے ہیں اور اختلاف کے طریقے پر بھی ذکر کیا گیا ہے نیز ایک دوسرے میں داخل ہونے کا بھی ذکر ہے۔

جہاں تک ان کے مترادف ہونے کا تعلق ہے تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے۔

فَاخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ تو ہم نے اس میں سے مومنوں کو نکالا تو ہم نے وہاں

(۱) قرآن مجید، سورہ یوسف آیت ۱۷

مسلمانوں کے علاوہ کسی کا گھر نہ پایا۔

فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ (۱)
اور یہ بات بالاتفاق ثابت ہے کہ وہاں ایک ہی گھر تھا۔

اور ارشاد خداوندی ہے۔

اے میری قوم! اگر تم اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو تو اسی
پر توکل کرو اگر تم مسلمان ہو۔

يَا قَوْمِ اِنْ كُنْتُمْ اَنْتُمْ بِاللّٰهِ فَعَلَيْهِ
تَوَكَّلُوْا اِنْ كُنْتُمْ مُّسْلِمِيْنَ (۲)

اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

بِنِي اِسْلَامٍ عَلٰى خَمْسِيْنَ (۳)

اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے۔
اور ایک مرتبہ حضور علیہ السلام سے ایمان کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے ان ہی پانچ باتوں کے ساتھ جواب دیا (کلمہ
شہادت، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج) جہاں تک ان میں اختلاف کا تعلق ہے تو ارشاد خداوندی ہے۔

قَالَتِ الْاَعْرَابُ اَمْ نَأْتِيْكُمْ تَمِيْمًا
وَلٰكِنْ قَوْلُوْا اَسْلَمْنَا۔ (۴)

اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ظاہر تسلیم کیا، تو یہاں ایمان سے فقط تصدیق اور اسلام سے ظاہری طور پر نہ بان
اور اعضاء سے ماننا مراد ہے اور حدیث جبریل علیہ السلام میں ہے۔ جب انہوں نے ایمان کے بارے میں سوال کیا تو نبی اکرم
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

اَنْ تُوْمِنَ بِاللّٰهِ وَرِسَالَتِهِ وَرِسَالَتِهِ
وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَالتَّبَعِثِ بَعْدَ الْمَوْتِ
وَبِالْحِسَابِ وَبِالْقَدْرِ خَيْرٍ وَشَرٍّ (۵)

تم اللہ تعالیٰ اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے
رسولوں آخرت کے دن مرنے کے بعد زندہ ہونے کے حساب
اور خیر و شر کی تقدیر پر ایمان لاؤ۔
پھر انہوں نے اسلام کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے پانچ باتوں کے ساتھ جواب دیا تو اسلام کو قول و عمل کے
ساتھ ظاہر تسلیم سے تعبیر فرمایا۔

(۱) قرآن مجید سورہ ذاریات آیت ۳۵، ۳۶

(۲) قرآن مجید سورہ یونس آیت ۱۲۴

(۳) صحیح بخاری کتاب الایمان جلد اول ص ۵

(۴) قرآن مجید سورہ حجرات آیت ۱۲

(۵) مشکوٰۃ المصابیح کتاب الایمان ص ۱۱

حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی ایک روایت میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو کچھ عطیہ عنایت فرمایا اور دوسرے کو نہ دیا حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) آپ نے فلاں کو چھوڑ دیا اور عطا نہ فرمایا حالانکہ وہ مومن ہے آپ نے فرمایا یا مسلمان ہے، انہوں نے پھر وہی بات کہی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی جواب دیا (۱)

جہاں تک ان کے ایک دوسرے میں شامل ہونے کا تعلق ہے تو ایک روایت میں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کونسا عمل افضل ہے؟ آپ نے فرمایا "اسلام" سوال ہوا کون سا اسلام افضل ہے! آپ نے فرمایا "ایمان" (۲) تو یہ حدیث ان کے درمیان اختلاف اور ایک دوسرے میں شامل ہونے کی دلیل ہے لغوی اعتبار سے یہ استتعال سب سے اچھا ہے۔ کیونکہ ایمان بھی ایک عمل ہے اور وہ سب سے افضل عمل ہے، اور اسلام تسلیم کرنے کا نام ہے چاہے وہ دل سے ہو، زبان سے یا اعضا کے ساتھ ہو۔ اور ان میں سے افضل تسلیم دل سے ماننا ہے یہ تصدیق ہے جسے ایمان کہا جاتا ہے اور مکمل طور پر تراوت ماننے کی صورت میں لعنت میں مجازی معنی ماننا پڑے گا۔

اختلاف کی صورت یہ ہے کہ ایمان کو فقط تصدیق قلبی سے تعبیر کیا جائے اور یہ لعنت کے موافق ہے اور اسلام ظاہری طور پر پانے کا نام ہے اور یہ بھی لعنت کے موافق ہے کیونکہ تسلیم کے بعض مقامات کو بھی تسلیم ہی کہا جاتا ہے۔

لہذا اس نام (تسلیم) کے حصول کے لئے معنی کا عموم شرط نہیں کہ جہاں جہاں یہ معنی ممکن ہے ان سب مقامات پر تسلیم ہو تو اسے تسلیم کہیں گے (ایسا نہیں ہے) جس طرح کوئی شخص کسی دوسرے آدمی کے جسم کے بعض حصے کو ہاتھ لگاتے تو اسے بھی چھونے والا کہا جاتا ہے اگرچہ وہ تمام بدن کو نہ چھوئے تو اگر کوئی شخص زبانی تسلیم کے مطابق دل سے تسلیم نہ بھی کرے تو بھی اس کا ظاہری طور پر ماننا اسلام کہلائے گا۔

اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد گرامی کا یہی مطلب ہے ارشاد فرمایا۔

قَالَتِ الْاَعْرَابُ اَمَّا قُلُّ لَمْ تُؤْمِنُوْا
ذٰلِكُمْ قَوْلُوْا اَسْلَمْنَا (۳)

یہاں تو نے کہا ہم ایمان لائے آپ فرمادیجئے تم ایمان نہیں لائے بلکہ یوں کہو کہ ہم اسلام لائے ہیں۔ اسی طرح حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا "اَسْلَمْنَا" بھی اسی پر محمول ہے کیونکہ ان میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی گئی اور اختلاف سے مراد دونوں کے معنی کا ایک دوسرے سے جدا

(۱) مستد امام احمد بن حنبل جلد اول ص ۱۶۶

(۲) مستد امام احمد بن حنبل جلد ۲ ص ۱۱۲

(۳) قرآن مجید سورہ حجرات آیت ۱۴

ہونا ہے تداخل لغوی اعتبار سے بھی ایمان کے موافق ہے وہ یوں کہ دل سے تسلیم کرنا اور قول و عمل سب اسلام سے مراد ہوں اور ایمان اسلام میں داخل ہونے والے امور میں سے بعض یعنی قلبی تصدیق کا نام ہے اور تداخل سے ہماری مراد یہ ہے وہ ایمان خصوصی معنی اور اسلام عمومی معنی کے اعتبار سے لغت کے موافق ہے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے افضل اسلام کے بارے میں سوال کے جواب میں ایمان کا ذکر اسی بنیاد پر فرمایا تھا کیونکہ آپ نے ایمان کو اسلام کا ایک خاص حصہ قرار دے کر اس میں داخل کر دیا۔

اور اسے تراویف کے طور پر استعمال کرنا یعنی دل سے تسلیم کرنے اور ظاہری عمل دونوں کو اسلام قرار دیا جائے کیونکہ یہ سب کچھ تسلیم کرنا ہے اور ایمان کا بھی یہی حال ہے اب اسلام کے عام ہونے کی وجہ سے ایمان میں خصوصی تصرف ہوگا اور ظاہر کو اس میں داخل کرنا ہوگا اور یہ جائز ہے کیونکہ قول و عمل کے ساتھ ظاہری تسلیم باطنی تصدیق کا نتیجہ ہے اور بعض اوقات درخت کا نام لیتے ہیں لیکن چشم پوشی کے طور پر اس سے درخت ہے پھل مراد ہوتا ہے تو اس قدر عموم کی وجہ سے وہ اسلام کے نام کے مترادف اور مطابق ہے نہ اس پر کوئی اضافہ ہوگا اور نہ کمی، اللہ تعالیٰ کے ارشاد گرامی کا بھی یہی مطلب ہے۔

فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ (۱)

پس ہم نے اس (بیت) میں صرف مسلمان کا گھر پایا۔

تیسری بحث :

حکم شرعی

اسلام اور ایمان کے دو حکم ہیں ایک اخروی اور دوسرا دنیوی، اخروی حکم، جہنم سے دور رکھنا اور ہمیشہ جہنم میں رہنے سے بچانا ہے۔

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :

جس آدمی کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا وہ جہنم سے نکل آئے گا۔

يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِّنْ اِيْمَانٍ - (۲)

اس بات میں اختلاف ہے کہ یہ حکم کس پر مرتب ہوگا یعنی ایمان کیا ہے کسی نے کہا وہ محض دل کا یقین ہے کسی نے کہا دل کا یقین اور زبان کی شہادت ہے کسی نے کہا دل سے کسی نے تیسری بات یعنی اعضا کے ساتھ عمل کا بھی اضافہ کیا۔ ہم اس پر دے کو دقت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جس شخص میں یہ تینوں باتیں جمع ہوں تو اس میں کوئی اختلاف نہیں

(۱) قرآن مجید سورہ ذاریات آیت ۲۶

(۲) مجمع بخاری کتاب الایمان جلد اول ص ۸

کہ اس کا ٹھکانہ جنت ہے اور یہ ایک درجہ ہے دوسرا درجہ یہ ہے کہ دو باتیں اور تیسری کا کچھ حصہ پایا جائے۔ یعنی دل کا یقین، زبان کا قول اور بعض اعمال پائے جائیں لیکن یہ شخص گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو یا کچھ کبیرہ گناہ کرتا ہو اس کے پاس میں معتزلہ نے کہا ہے کہ یہ شخص اس وجہ سے ایمان سے خارج ہو گیا لیکن کفر میں داخل نہیں ہوا بلکہ اس کا نام فاسق ہے اور وہ دو منزلوں کے درمیان تیسری منزل پر ہے۔ اور یہ شخص ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ لیکن یہ عقیدہ باطل ہے جسے ہم ذکر کریں گے تیسرا درجہ یہ ہے کہ دل سے تصدیق اور زبان سے شہادت پائی جائے لیکن اعضاء سے اعمال صالحہ نہ پائے جائیں اس کے حکم میں اختلاف ہے ابو طالب ملی نے کہا ہے کہ اعضاء سے عمل کرنا ایمان کا حصہ ہے اور اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا انہوں نے اس پر اجماع کا دعویٰ کیا ہے اور ایسے دلائل سے استدلال کیا ہے جو ان کے مطلب کے خلاف معلوم ہوتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ - (۱)

وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کئے۔

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عمل، ایمان کے بعد ہے، نفس ایمان سے نہیں ہے ورنہ عمل کا ذکر تکرار کے حکم میں ہو گا۔ اور تعجب ہے کہ انہوں نے اس سلسلے میں اجماع کا دعویٰ کیا اور اس کے باوجود حضور علیہ السلام کا یہ قول نقل کرتے ہیں آپ نے فرمایا۔

لَا يَكْفُرُ إِذَا بَعَدَ جَحْوَرًا لِمَا اقْتَرَبَ بِهِ -
(۲)

وہ کافر نہیں ہوتا جس بات کا اقرار کیا ہے اس کے انکار کے بعد۔

اور معتزلہ کے اس عقیدے کے گناہ کبیرہ کا ارتکاب ہمیشہ جہنم میں رہے گا، کا وہ رد کرتے ہیں حالانکہ اس بات کا قائل نہ ہو معتزلہ کا قائل ہے، کیونکہ اس سے کہا جاتا ہے کہ جو شخص دل سے تصدیق کرے اور زبان سے اقرار کرے اسی وقت مرجائے (یعنی عمل نہ کر سکے) تو کیا وہ جنت میں جائے گا؟ تو وہ ضرور کہے گا ہاں، اس سے واضح ہوتا ہے کہ ایمان، عمل کے بغیر ہوتا ہے تو ہم اس میں اضافہ کرتے ہوتے ہیں کہ اگر وہ شخص زندہ رہتا یہاں تک کہ اس کو ایک نماز کا وقت ملتا اور وہ اسے چھوڑ دیتا پھر مرجایا یا زنا کا ارتکاب کر کے مرجاتا، تو کیا وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا اگر وہ کہے کہ جی ہاں تو معتزلہ کی مراد بھی یہی ہے اگر کہے کہ جی ہاں تو یہ اس بات کی وضاحت ہے کہ عمل نفس ایمان کا رکن نہیں، نہ اس کے وجود کے لیے شرط ہے اور نہ ہی جنت کے استحقاق کا سبب ہے۔ اور اگر کہے تیسری مراد یہ ہے کہ وہ ایک طویل عرصہ تک

(۱) قرآن مجید سورہ بقرہ آیت ۱۸

(۲) مجمع الزوائد جلد اول ص ۱۰۶ باب لا یفکر احد

زندہ رہے اور نماز نہ پڑھے اور نہ ہی کوئی شرعی عمل کرے (تو جہنم میں ہمیشہ رہے گا) تو ہم کہیں گے یہ مدت کتنی ہوگی؟ اور وہ عبادات کس مقدار میں ہوں گی جن کے چھوڑنے سے ایمان باطل ہو جاتا ہے اور وہ کتنے گناہ کبیرہ ہوں گے جن کے ارتکاب سے ایمان باطل ہو جاتا ہے اور وہ کتنے گناہ کبیرہ ہوں گے جن کے ارتکاب سے ایمان باطل ہو جاتا ہے تو اس سلسلے میں نہ کوئی مقدار مقرر ہو سکتی ہے اور نہ ہی کوئی شخص اس طرف گیا ہے۔

چوتھا درجہ یہ ہے کہ دل میں تصدیق موجود ہو اور وہ زبان سے اقرار کرنے اور اعمال میں مشغول ہونے سے پہلے انتقال کر جائے تو کیا ہم کہیں گے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مومن ہو کر فوت ہوا ہے تو اس سلسلے میں اختلافات ہے جن لوگوں نے تکمیل ایمان کے لیے زبان سے شہادت کی شرط رکھی ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ ایمان سے پہلے فوت ہوا۔ اور یہ نظریہ فاسد ہے۔ کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ
مِنْ شَيْءٍ مِّنَ الْإِيمَانِ (۱)

جس آدمی کے دل میں ذرہ بھر بھی ایمان ہوگا وہ جہنم سے نکل آئے گا۔

اور اس شخص کا دل ایمان سے بھرا پڑا ہے تو کس طرح یہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ اور حدیث جبریل میں صرف اللہ تعالیٰ اس کے رسولوں اس کے فرشتوں، کتابوں اور آخرت پر ایمان کی شرط رکھی گئی ہے جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے۔ پانچواں درجہ یہ ہے کہ وہ دل سے تصدیق کرتا ہے اور زندگی کی اتنی مہلت مل جاتی ہے کہ وہ زبان سے کلمہ شہادت کہہ سکے اور وہ اس کے وجوب کو بھی جانتا ہے لیکن نہیں کہتا تو اس بات کا احتمال ہے کہ وہ کلمہ شہادت سے اسی طرح ترک رہا ہو جس طرح نماز نہیں پڑھنا تو یہ مومن ہے لیکن جہنم میں ہمیشہ نہیں رہے گا۔ ایمان محض تصدیق سے زبان، ترجمان ایمان ہے تو زبانی شہادت سے پہلے ایمان مکمل ہونا چاہیے تاکہ زبان اس کی ترجمانی کر سکے یہی زیادہ ظاہر بات ہے۔ کیونکہ معافی کی پیروی کے علاوہ کوئی سند نہیں اور لغوی اعتبار سے ایمان قلبی تصدیق کا نام ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

”جو شخص ذرہ بھر بھی ایمان رکھتا ہے وہ جہنم سے نکل جائے گا“

اور زبانی شہادت کے وجوب کے باوجود جو آدمی اس شہادت سے خاموش رہے اس کے دل سے ایمان نہیں نکلتا جس طرح واجب عمل نہ کرنے کی وجہ سے وہ ایمان سے خارج نہیں ہوگا۔

کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ زبان سے کہنا کہ کلمہ شہادت دل کی خیر نہیں بلکہ انشاء ہے، ایک دوسرا عقیدہ ہے اور شہادت و التزام کی ابتداء ہے۔ لیکن پہلی بات زیادہ ظاہر ہے۔ اس سلسلے میں مرتبہ فرقہ نے حد سے تجاوز کیا ہے وہ

(۱) صحیح بخاری جلد اول ص ۸ کتاب الایمان

(۲) مرتبہ بارہ فرقوں میں تقسیم میں تفصیل کیلئے غنیۃ الطالبین (رحمہ) مگراہ فرقوں کا بیان جز اول ص ۹۰

کہتے ہیں یہ شخص جہنم میں بالکل داخل نہیں ہوگا اور کہتے ہیں مومن اگر صیغہ گناہ کا مرتکب ہو جہنم میں نہیں جائے گا۔ غنقریب ہم ان کے قول کا بطلان بیان کریں گے چھٹا درجہ یہ ہے کہ وہ زبان سے "واللہ الا اللہ محمد رسول اللہ" پڑھے لیکن دل سے تصدیق نہ کرے تو اس میں ہمیں شک نہیں ہے کہ کفار کے لئے اخروی حکم اور ایسا شخص ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ اور اس میں بھی شک نہیں کہ وہ دنیوی حکم میں جس کا تعلق بادشاہوں اور حکمرانوں سے ہے، مسلمان سمجھا جائے گا کیونکہ اس کے دل پر اطلاع نہیں ہو سکتی اور ہم پر لازم ہے کہ جو کچھ اس نے زبان سے کہا اسی کو اس کے دل میں بھی سمجھیں ہمیں تیسری بات میں شک ہے یعنی وہ دنیوی حکم جو اس کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ہے وہ یہ کہ اگر اس حالت میں اس کا کوئی قریبی رشتہ دار مسلمان فوت ہو جائے پھر وہ دل سے تصدیق کرے اس کے بعد فتویٰ حاصل کرے اور کہے کہ میں اس شخص کی موت کے وقت دل سے تصدیق کرنے والا نہ تھا اور وراثت میرے قبضہ میں ہے تو کیا دیا تا یہ میرے لیے حلال ہے یا اس نے کسی مسلمان عورت سے نکاح کیا پھر اس نے دل سے تصدیق کی تو کیا دوبارہ نکاح کرنا ضروری ہوگا، یہ قابل غور ہے۔

تو اس بات کا احتمال ہے کہ کہا جائے دنیا کے اعمال کا ظاہری و باطنی دار و مدار ظاہری بات پر ہے اور یہ بھی احتمال ہے کہ کہا جائے دوسروں کے لیے ظاہر پر دار و مدار ہے کیونکہ دوسروں کے لئے اس کا باطنی حال ظاہر نہیں ہے جبکہ خود اس کے لیے اس کا باطن اس کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ظاہر ہے۔ لیکن زیادہ بہتر بات یہ ہے اور اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے کہ اس کے لیے یہ وراثت جائز نہ ہوگی اور اس پر دوبارہ نکاح کرنا بھی لازم ہوگا اسی لیے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کسی مرنے والے منافق کی نماز جنازہ میں نہیں جاتے تھے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اس بات کا اندازہ انہی سے لگاتے تھے اور جس جنازہ میں وہ نہ جائیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نہیں جاتے تھے اور نماز دنیا میں ظاہری فعل ہے اگرچہ عبادت سے ہے اور حرام سے بچنا بھی ان امور سے ہے جو نماز کی طرح اللہ تعالیٰ کے لیے واجب ہیں کیونکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا۔

هَلَبٌ كَسِبَ الْحَدَلَ فَرِيضَةٌ بَعْدَ
الْفَرِيضَةِ
حلال (رزق) تلاش کرنا فریضہ (نماز) کے بعد فرض ہے۔

اور یہ بات ہمارے اس قول کے خلاف نہیں کہ وراثت اسلام کا حکم ہے اور اسلام تسلیم کر لینے کا نام ہے، بلکہ مکمل طور پر تسلیم کرنا وہ ہے جو ظاہر و باطن کو شامل ہو۔ یہ فقہی ظنی بحثیں ہیں جو ظاہری الفاظ، عمومی دلائل اور قیاسوں پر مبنی ہیں لہذا جو شخص علوم میں قاصر ہے وہ یہ خیال نہ کرے کہ اس میں قطعیت مطلوب ہے جیسے فن کلام میں یہ طریقہ راجح ہو گیا کہ اس میں

طبیعت کو تلاش کیا جاتا ہے پس جو شخص علوم میں عادات اور رسوم کی طرف نظر کرتا ہے اسے فلاح نہیں ہوتی۔
 اگر تم کہو کہ معتزلہ اور مرجئہ کا شبہ کیا ہے اور ان کے قول کے باطل ہونے پر کیا
 دلیل ہے؟ تو میں کہتا ہوں وہ قرآن پاک کے عموم سے شبہ پیدا کرتے ہیں۔

شبہات اور ان کا ازالہ

مرجئہ کا شبہ: مرجئہ کہتے ہیں کوئی مومن جہنم میں داخل نہیں ہوگا اگرچہ وہ تمام گناہوں کا مرتکب ہو۔

کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے۔

فَمَنْ يُؤْمِنْ بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا
 وَلَا رَهَقًا۔ (۱)

پس جو کوئی اپنے رب پر ایمان لائے تو اسے نہ کسی تکلیف
 کا خوف ہے نہ زیادتی کا۔

اور ارشاد خداوندی ہے۔

وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ أُولَٰئِكَ
 هُمُ الصَّادِقُونَ (۲)

وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے
 وہی سچے لوگ ہیں۔

اور ارشاد خداوندی ہے۔

كَلَّمَا لَقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهُمَا
 أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ قَالُوا بَلَىٰ قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ
 فَكَذَّبْنَا بِرَبِّنَا سَاءَ مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِن
 نَذِيرٍ (۳)

جب کوئی بڑی جماعت اس جہنم میں ڈالی جائے گی
 تو اس کا دار و عمران سے پوچھے گا کیا تمہارے پاس
 ڈرانے والا نہیں آیا تھا کہیں گے کیوں نہیں ہمارے
 پاس ڈرانے والے آئے مگر ہم نے انہیں جھٹلایا اور کہا
 اللہ تعالیٰ نے کچھ نازل نہیں کیا۔

تو اس میں "کَلَّمَا لَقِيَ فِيهَا فَوْجٌ" عام ہے تو مناسب ہے کہ جسے بھی جہنم میں ڈالا جائے وہ جھٹلانے والا ہو۔
 اور ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

لَا يَسْأَلُهَا إِلَّا أَلَوْ شَقِيَ الَّذِي كَذَّبَ
 وَتَوَلَّىٰ (۴)

اس جہنم میں وہی بد نعت داخل ہوگا جس نے جھٹلایا اور پھر
 گیا۔

(۱) قرآن مجید سورہ جن آیت ۱۳

(۲) قرآن مجید سورہ حدید آیت ۱۹

(۳) قرآن مجید سورہ ملک آیت ۸-۹

(۴) قرآن مجید سورہ العیل آیت ۱۶

یہ صبر بھی ہے اثبات بھی اور نفی بھی۔

اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

مَنْ جَاءَنَا بِالْحَسَنَةِ ذَكَوْ خَيْرٍ مِنْهَا دَهْمًا

مَنْ قَزَعِ يَوْمَئِذٍ الصُّونَ لَأَ

تو ایمان تمام نیکیوں کی بنیاد ہے۔

اور ارشاد خداوندی ہے:

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (۲)

اور ارشاد فرمایا:

إِنَّا لَنُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا (۳)

بے شک ہم اچھے کام کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے۔

لیکن ان لوگوں کے لیے اس میں کوئی دلیل نہیں کیونکہ ان آیات میں جہاں ایمان کا ذکر کیا وہاں عمل کے ساتھ ایمان مراد

ہے اس لیے کہ ہم بیان کر چکے ہیں کہ کبھی ایمان کا لفظ بولا جاتا ہے اور اس سے اسلام مراد ہوتا ہے اور وہ دل، زبان

اور اعمال کی موافقت ہے، اور اس معنی پر بہت سی احادیث و دلالت کرتی ہیں جن میں گناہ گاروں کے لیے سزا اور سزا کی مقدار

کا ذکر ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے: ”وہ شخص بھی جہنم سے نکلے گا جس کے دل میں ذرا برابر ایمان

ہوگا“ یہ حدیث گزر چکی ہے، توجیب تک وہ داخل نہیں ہوگا کیسے نکلے گا۔

اور قرآن پاک میں ارشاد خداوندی ہے

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغْنِيكَ بِهٖ وَيُغْنِي

مَادُونِ ذٰلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ۔

بے شک اللہ تعالیٰ اس بات کو نہیں بخشنے گا کہ اس کے

ساتھ شریک ٹھہرایا جائے اور اس کے علاوہ کو بخش

دے گا۔

(۴)

تو مشیت کے ساتھ استنار کہ جسے چاہے بخش دے، پر تقسیم پر دلالت ہے کہ جسے نہیں چاہے گا نہیں بخشنے گا۔

اور ارشاد خداوندی ہے:

(۱) قرآن مجید سورہ نمل آیت ۸۹

(۲) قرآن مجید سورہ بقرہ آیت ۱۹۵

(۳) قرآن مجید سورہ کہف آیت ۳۰

(۴) قرآن مجید سورہ نساء آیت ۴۸

اور جو شخص اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے اس کے لیے جہنم ہے وہ لوگ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔

رَمَنْ يَعْصِ اِلٰهَهُ وَرَسُولَهُ فَاِنَّ لَهُ مَسَارًا
جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا۔

(۱)

تو اسے کفر کے ساتھ خاص کرنا ہٹ دھرمی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔

سنو ایسے شک نظام ہمیشہ کے عذاب میں ہوں گے۔

اَلَّذِيْنَ الظَّالِمِيْنَ فِيْ عَذَابٍ مُّقْتَدِرٍ (۲)

اور ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

اور جو آدمی برائی کا مرتکب ہوں انہیں منہ کے بل آگ میں ڈالا جائے گا۔

وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكَيْتٌ وَّجْوهُهُمْ

فِي النَّارِ (۳)

تو یہ آیات ہیں جن میں عمومی حکم ہے اور یہ ان آیات کے مقابلے میں ہیں جن سے انہوں نے عموم ثابت کیا تھا اور تخصیص و تاویل کی دونوں طرف ضرورت ہے۔ کیونکہ احادیث مبارکہ میں واضح طور پر آیا ہے گناہ گاروں کو عذاب ہوگا۔ بلکہ اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد گرامی اس سلسلے میں واضح ہے کہ یہ سب کے لیے ہے کیونکہ کوئی بھی مومن گناہ کے ارتکاب سے خالی نہیں۔ ارشاد خداوندی ہے:

اور ہر ایک نے اس میں داخل ہوتا ہے۔

قَرٰنٌ مِّنْكُمْ اِلٰهًا وَّارِدُهَا (۴)

اور ارشاد خداوندی ہے۔

اس (جہنم) میں وہی شخص داخل ہوگا جو نہایت بدبخت ہے اس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا۔

لَا يَصْلٰهَا اِلَّا الَّذِيْ كَذَّبَ
وَتَوَلٰى (۵)

تو اس سے مخصوص جماعت مراد ہے یا "اشقی" سے کوئی خاص معین آدمی مراد ہے۔

اور ارشاد خداوندی ہے!

جب اس جہنم میں کوئی بڑی جماعت ڈالی جائے گی تو جہنم کا داروغہ ان سے پوچھے گا۔

كَلِمًا اَلْقٰى فِيْهَا تَوَجَّهَ سَاَلَهُمْ۔

(۶)

(۱) قرآن مجید سورہ جن آیت ۲۳ (۲) قرآن مجید سورہ شوریٰ آیت ۲۵

(۳) قرآن مجید سورہ نمل آیت ۹۰ (۴) قرآن مجید سورہ مریم آیت ۱

(۵) قرآن مجید سورہ اللیل آیت ۱۵-۱۶

(۶) قرآن مجید سورہ ملک آیت ۸

سے کفار کی فوج مراد ہے اور عالم کو مخصوص بنانا کوئی بعید بات نہیں اس آیت کی بنیاد پر امام اشعری اور متکلمین کی ایک جماعت کے عموم کے صیغوں کا انکار کیا ہے اور یہ الفاظ اس سلسلے میں کسی قرینے کے محتاج ہیں جو ان کے معنی پر دلالت کرتے۔

معتزلہ کا شبہ :

ارشاد خداوندی ہے :

وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ
صَالِحَاتٍ مَّا اهْتَدَىٰ (۱)

اور ارشاد خداوندی ہے :

وَالْعَصْرَ إِنَّ
الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ (۲)

اور ارشاد خداوندی ہے :

وَأَن مِّنكُمْ أُولَٰءِ وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ
حَتْمًا مَّقْضِيًّا (۳)

پھر ارشاد فرمایا :

ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا (۴)

اور ارشاد خداوندی ہے ۔

وَمَن يَعِضْ لِسَانَهُ
نَارَ جَهَنَّمَ (۵)

تو ان تمام آیات میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کے ساتھ عمل کا ذکر کیا ہے۔

اور ارشاد باری تعالیٰ ہے ۔

بے شک میں اسے شخص دوں گا جس نے توبہ کی ایمان لایا
اور اچھے عمل کئے پھر ہدایت پائی ۔

اور زمانے کی قسم بے شک انسان نقصان میں ہے مگر وہ
لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کئے ۔

اور ہر ایک نے اس جہنم میں جانا ہے یہ تمہارے رب
کا حتمی فیصلہ ہے ۔

پھر ہم متقی لوگوں کو نجات دیں گے ۔

جو شخص اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے
بے شک اس کے لیے جہنم ہے ۔

(۱) قرآن مجید سورہ طہ آیت نمبر ۱۴

(۲) قرآن مجید سورہ العصر آیت نمبر ۳

(۳) قرآن مجید سورہ مریم آیت نمبر ۶۱

(۴) قرآن مجید سورہ مریم آیت نمبر ۶۱

(۵) قرآن مجید سورہ جن آیت نمبر ۲۲

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءُ لَهٗ جَهَنَّمُ
خَالِدًا فِيهَا ۗ (۱)

جو شخص کسی مؤمن کو جان بوجھ کر قتل کرے اس کا بدلہ جہنم ہے۔

ان عمومی آیات میں بھی شخصیں ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔
وَيَغْفِرْ مَا دُونِ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ (۲)

اور وہ اس (مشرک) کے علاوہ کو جس کے لیے چاہے بخش دے۔

تو شرک کے علاوہ گناہوں کی بخشش میں اس کی مشیت باقی رہنی چاہیے اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم سے وہ آدمی بھی نکل جائے گا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا۔
اور ارشاد خداوندی ہے:

إِنَّا لَنُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا (۳)

ہم اچھے کام کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے۔
تو ایمان اور تمام عبادتوں کا اجر ایک گناہ کی وجہ سے کیسے ضائع ہو جائے گا۔
ارشاد خداوندی

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا ۗ
(۴)

جو شخص کسی مؤمن کو جان بوجھ کر قتل کرے وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا!

اس کا مطلب یہ ہے کہ مقتول کو اس کے ایمان کی وجہ سے قتل کرے اس طرح قاتل کافر ہو جاتا ہے اور ہمیشہ جہنم میں رہے گا ہر قاتل مراد نہیں ۱۲ ہزارویں

اس قسم کے سبب پر احادیث آئی ہیں۔

ایک سوال کا جواب!

اگر تم کہو کہ اس سے معلوم ہوا مذہب مختار یہ ہے کہ ایمان میں اعمال کا دخل نہیں حالانکہ بزرگوں کا قول معروف ہے کہ ایمان، تصدیق، قول اور عمل کا نام ہے تو اس کا کیا مطلب ہے۔

ہم کہتے ہیں کہ عمل کو ایمان سے شمار کرنا کوئی خلاف عقل بات نہیں کیونکہ یہ (عمل) اسے مکمل کرتا ہے جیسے کہا جاتا ہے سر

(۱) قرآن مجید سورہ نساء آیت ۹۲

(۲) قرآن مجید سورہ نساء آیت ۴۸

(۳) قرآن مجید سورہ کہف آیت ۳۰

(۴) قرآن مجید سورہ نساء آیت نمبر ۹۳

اور ہاتھ انسان سے ہیں حالانکہ یہ معلوم ہے کہ اگر سر نہ ہو تو وہ انسان نہیں کہلائے گا ہاتھ کٹے ہونے کی وجہ سے وہ انسان ہونے سے نہیں نکل سکتا اسی طرح کہا جاتا ہے کہ تسبیحات اور تکبیرات نماز سے ہیں اگرچہ ان کے نہ ہونے سے نماز باطل نہیں ہوتی تو دل سے ایمان ایسے ہی ہے جیسے انسان کے لیے سر ہوتا اس لئے کہ اس کے نہ ہونے سے ایمان نہیں پایا جاتا اور باقی عبادتوں کے دوسرے اعضاء کی طرح ہیں جن میں سے بعض دوسرے اعضاء سے اعلیٰ نہیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

لَا يَزِيَّتِي النَّارُ حَيْثُ يَزِيَّتِي وَهِيَ
مُؤْمِنٌ رَا
زانی جب زنا کرتا ہے تو وہ مومن نہیں ہوتا۔

اور صحابہ کرام کا عقیدہ، معتزلہ کے عقیدے کی طرح نہ تھا کہ زنا کی وجہ سے آدمی کا ایمان ختم ہو جاتا ہے بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کامل ایمان کے ساتھ سچا مومن نہیں ہوتا۔ جیسے وہ شخص جس کے اعضاء کٹے ہوئے ہوں اور وہ عاجز ہو تو کہا جائے کہ یہ انسان نہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حقیقت انسانیت اسے حاصل ہے لیکن اس کے بعد جو کمال انسانیت ہے وہ اسے حاصل نہیں۔

اگر تم کہو کہ اسلاف اس بات پر متفق تھے کہ ایمان کم اور زیادہ ہوتا ہے عبادت کے ذریعے زیادہ ہوتا اور گناہ کی وجہ سے کم ہوتا ہے تو جب ایمان صرف تصدیق کا نام ہے تو اس میں کمی زیادتی کا تصور نہیں ہو سکتا تو میں کہتا ہوں کہ ہمارے اسلاف را حدیث کے گواہ اور عادل تھے اور کمی کے لیے بھی ان کے قول سے روگردانی جائز نہیں لہذا انہوں نے جو کچھ ذکر کیا وہ سچی ہے اس کے سمجھنے میں غور کرنا چاہیے۔ اس میں اس بات پر دلیل ہے کہ عمل، ایمان کے اجزاء اور اس کے ارکان سے نہیں بلکہ وہ ایک زائد چیز ہے زائد بھی موجود ہے اور ناقص بھی اور کوئی چیز ذاتی طور پر نہیں بڑھتی لہذا یہ کہنا جائز نہیں کہ انسان اپنے سر کی وجہ سے بڑھ جاتا ہے بلکہ کہا جاتا ہے کہ اس میں وارٹھی یا موٹاپے کی وجہ سے اضافہ ہوا اور یہ کہنا بھی صحیح نہیں کہ رکوع اور سجدے کی وجہ نماز میں اضافہ ہوتا ہے بلکہ آداب و سنن کی وجہ سے اضافہ ہوتا ہے تو اس بات کی تصریح ہے کہ ایمان کے لیے ایک وجود ہے پھر اس کے بعد زیادتی اور کمی کی وجہ سے اس کے حالت بدلتی ہے۔

سوال :- اگر تم کہو کہ اعتراض باقی ہے کہ تصدیق کیسے زیادہ اور کم ہوتی ہے حالانکہ وہ ایک ہی خصلت ہے۔
جواب :- میں کہتا ہوں جب ہم منافقت ترک کر دیں اور کسی کے ثور و شعب کی پرواہ نہ کریں اور پروردہ اٹھادیں تو اشکال ختم ہو جائے گا تو میں کہتا ہوں کہ ایمان اسم مشترک ہے اور یہ تین طرح استعمال ہوتا ہے۔
(۱) یہ تصدیق قلبی پر یوں بولا جاتا ہے کہ وہ محض تقلید ہوتی ہے کسی قسم کی وضاحت یا انشراح صدر نہیں ہوتا یہ عوام کا

ایمان ہے بلکہ خواص کو چھوڑ کر باقی تمام مخلوق کا ایمان اسی طرح ہوتا ہے۔ یہ عقیدہ قلبی یقین ہوتا ہے جو کبھی مضبوط اور سخت ہو جاتا اور کبھی کمزور ہوتا اور ڈھیلا پڑ جاتا ہے جیسے دھاگے کی گرہ ہوتی اور یہ بات خلات تپاس نہیں اسے یہودی پر تپاس کیسے کہ وہ اپنے عقیدے میں مضبوط ہوتا ہے کسی خوف اور ڈر کے ذریعے اسے چھینا نہیں جاسکتا کسی جیلے، وعظ اور تحقیق و دلائل کے ذریعے بھی ایسا نہیں کر سکتے اسی طرح عیسائی اور بدعتی لوگ میں اور ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ معمولی کلام کے ذریعے انہیں شک میں ڈالا جاسکتا ہے اور ادنیٰ جیلے یا خوف زدہ کرنے کے ذریعے اسے اپنے عقیدے سے نیچے اتار سکتے ہیں اس کے باوجود پہلے قسم کے لوگوں کی طرح اسے بھی اپنے عقیدے میں شک نہیں ہوتا لیکن سختگی میں ان دونوں کے درمیان فرق ہے یہ بات سچے عقیدے میں بھی موجود ہے عمل اسی ارادے کو بڑھانے اور زیادہ کرنے میں موثر ہوتا ہے جس طرح درختوں کو پانی و نیان کی نشوونما میں موثر ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔

فَزَادَتْهُمْ اِيْمَانًا - (۱)

پس ان کے ایمان بڑھ گئے۔

اور ارشاد فرمایا:

لِيَزِدُوا اِيْمَانًا مَعَ اِيْمَانِهِمْ - (۲)

تاکہ ان کے ایمان میں اضافہ ہو جائے۔

اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے بعض روایات میں آیا ہے۔

اَلْاِيْمَانُ يَزِيْدُ وَيَنْقُصُ - (۳)

ایمان بڑھتا اور گھٹتا رہتا ہے۔

اور یہ ایمان کی کمی اور زیادتی (دل میں عبادت کی تاثیر کے اعتبار سے ہوتی ہے اور اس بات کا ادراک اسی شخص کو ہوتا ہے جو عبادت کی مصروفیت کے وقت جب اس کا دل صرف اسی طرف متوجہ ہو اور عبادت میں کوتاہی کے وقت میں تقابل کرے تو اسے فرق معلوم ہو جاتا ہے کہ پہلی حالت میں ایمان کی مضبوطی اس طرح ہوگی کہ اگر کوئی شخص اس کو شک میں ڈالنا چاہے تو ایسا نہیں کر سکے گا۔

بلکہ جو شخص یم پر رحمت کا اقتدار رکھتا ہو جب اپنے عقیدے کے مطابق عمل کرتے ہوئے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرے اور اس کے ساتھ شفقت کا سلوک کرے تو اپنے باطن سے رحمت کی تاکید پائے گا اور اس عمل سے یہ رحمت بڑھ جائے گی اسی طرح جو شخص تواضع پر عقیدہ رکھتا ہے جب اس کے مطابق عمل کرے یا دوسرے کے سامنے عاجزی کا باطن ظاہر کرے تو عمل کی وجہ سے اپنے دل میں تواضع کی زیادتی محسوس کرے گا۔ تمام قلبی صفات ہیں جن کے

(۱) قرآن مجید سورہ توبہ آیت ۱۲۴

(۲) قرآن مجید سورہ فتح آیت ۴

(۳) تاریخ ابن عساکر جلد ۳ ص ۶۰ ترجمہ حارث بن سلم

باعث اعضا سے عمل صادر ہوتا ہے پھر اعمال کا اثر ان صفات پر پڑتا ہے تو وہ انہیں پکا کر دیتا اور بڑھاتا ہے یہ بحث نجات دینے والے اور ہلاک کرنے والے امور کے بیان میں آئے گی۔

جہاں باطن کا ظاہر کے ساتھ تعلق اور عقائد و قلوب کے اعمال کا ذکر ہو گا۔ یہ ملک کے عالم ملکوت کے ساتھ تعلق کی جنس سے ہے ملک سے عالم ظاہر مراد ہے جس کا ادراک حواس کے ساتھ ہوتا ہے اور ملکوت عالم غیب سے جس کا ادراک نور بصیرت سے ہوتا ہے دل عالم ملکوت سے ہے جب کہ اعضاء اور ان کے اعمال کا تعلق عالم ملک سے ہے ان دونوں عالموں کے درمیان اتنا باریک فرق ہے کہ بعض لوگوں نے انہیں ایک ہی خیال کیا اور دوسرے لوگوں کا خیال ہے کہ ظاہری عالم کے سوا کچھ نہیں اور وہ یہی محسوس اجسام ہیں اور جن تے دونوں عالموں اور ان کے الگ الگ ہونے کا ادراک کیا تو اس رابطہ کو اس شعر میں بیان کیا گیا۔

شیشہ اور شراب اپنی رقت (صفائی) باعث ایک دوسرے کے مشابہ ہو گئے گو یا شراب ہے پیالہ نہیں یا پیالہ ہے شراب نہیں۔

اب ہم مقصود کی طرف لوٹتے ہیں کیونکہ یہ عالم، علم معاملہ سے خارج ہے لیکن دونوں عالموں کے درمیان بھی اتصال و ارتباط ہے اسی لیے تم دیکھتے ہو کہ علوم بمکاشفہ ہر گھڑی علوم معاملہ کی طرف مائل ہوتے ہیں حتیٰ کہ بڑی شدت کے ساتھ اس سے الگ ہوتے ہیں تو اس اطلاق کے اعتبار سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اسی لیے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا "ایمان ایک سفید نشان کی طرح ظاہر ہوتا ہے جب بتدریج نیک اعمال کرتا ہے تو یہ نشان بڑھ کر زیادہ ہو جاتا ہے یہاں تک کہ تمام دل روشن ہو جاتا ہے اور منافقت ایک سیاہ نشان کی طرح ظاہر ہوتی ہے جب وہ اللہ تعالیٰ کی حرمت کو توڑتا ہے تو یہ بڑھ کر پورے دل کو سیاہ کر دیتی ہے پھر اس پر مہر لگا دی جاتی ہے یہ "ختم" مہر ہے۔

پھر آپ نے یہ آیت پڑھی۔

كَلَّا رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ (۱)

(۲) دوسرا اطلاق یہ ہے کہ اس سے تصدیق اور عمل دونوں مراد ہوں جیسے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ایمان کے ستر سے زیادہ دروازے ہیں۔

اَلْاِيْمَانُ بِنُحْ وَ سَبْعُوْنَ بَابًا (۲)

اور جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

لَوْ يَدْرِي الذَّانِقِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ - (۳)

زانی، زنا کے وقت (کامل) مومن نہیں ہوتا۔

(۱) قرآن مجید سورہ مطفقین آیت ۱۴ (۲) صحیح مسلم جلد اول ص ۱۰۶ کتاب الایمان۔

(۳) صحیح بخاری جلد ۲ ص ۱۰۶ کتاب النہایین۔

جب لفظ ایمان کے مقتضی میں عمل داخل ہو جائے تو اس کی زیادتی اور نقصان کا ڈر نہیں ہوتا اور کیا وہ ایمان جو محض تصدیق کا نام ہے زیادتی کو قبول کرتا ہے؟ تو یہ محل نظریات ہے، اور ہم نے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ وہ بھی اس میں موثر ہے۔

(۳) تیسرا اطلاق یہ ہے کہ اس سے ایسی یقینی تصدیق مراد جو جس میں کشف اور انشراح صدر ہوتا ہے اور نور بصیرت کے ساتھ مشاہدہ پایا جاتا ہے اور یہ قسم زیادتی کو قبول کرتے سے زیادہ دُور ہے لیکن میں کہتا ہوں کہ وہ امر یقینی جس میں شک نہیں اس میں بھی نفس کا اطمینان مختلف ہوتا ہے مثلاً ”دو، ایک سے زیادہ ہوتے ہیں“ میں جس قدر اطمینان ہے اس قدر اس بات میں نہیں کہ ”عالم مصنوع حادث ہے“

اگرچہ دونوں باتیں شک سے پاک ہیں۔ تو یقینی امور و مناہت اور اطمینان کے درجات میں مختلف ہوتے ہیں ہم نے یہ بات، کتاب العلم میں علمائے آخرت کی علامات کے ضمن میں یقین سے متعلق فصل میں ذکر کی ہے۔ اب اسے لوٹانے کی ضرورت نہیں تو ان تینوں معانی کے اعتبار سے واضح ہو گیا کہ جو کچھ ان اسماں نے ایمان کی زیادتی اور کمی کے بارے میں فرمایا ہے وہ سچی ہے اور وہ کس طرح سچی نہیں ہوگا جب کہ احادیث میں آیا ہے کہ جس شخص کے دل میں ایک ذرہ کے برابر ایمان ہوگا وہ جہنم سے نکل جائے گا اور بعض احادیث میں دینار کے برابر ایمان کا ذکر ہے (۱) تو اگر دل میں تفاوت نہ ہو تو اس مقدار کا کیا مطلب رہ جاتا ہے۔

سوال :- اسلاف کے قول ”میں ان شاء اللہ مومن ہوں“ کا کیا مطلب ہے
حالات کا استناد شک ہوتا ہے اور ایمان میں شک کفر ہے۔

ایمان کے اقرار میں استثناء

اور وہ سب حضرات ایمان کے جواب میں قطعیت سے باز رہتے اور پرہیز کرتے تھے حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ نے فرمایا: ”جو شخص کہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے ہاں مومن ہوں تو وہ جھوٹوں میں سے ہے اور جو کہے کہ میں سچا مومن ہوں تو یہ کہنا بدعت ہے، تو وہ کس طرح جھوٹا ہوگا حالانکہ وہ جانتا ہے کہ وہ ذاتی طور پر مومن ہے تو جو آدمی فی نفسہ مومن ہو وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی مومن ہوتا ہے جیسے کوئی شخص طویل القامت اور سخی ہو اور اس بات کو جانتا بھی ہو تو وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی اسی طرح ہوتا ہے اسی طرح وہ شخص جو خوش، نکلین، سننے والا اور دیکھنے والا ہوتا ہے (اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی اسی طرح ہوتا ہے) اور اگر کسی شخص کو کہا جائے کہ کیا تو حیوان ہے؟ تو وہ یہ جواب دینا پسند نہیں کرے گا کہ ان شاء اللہ میں حیوان ہوں۔ اور جب حضرت سفیان رحمہ اللہ نے یہ بات فرمائی تو ان سے پوچھا گیا آپ کیا فرماتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ ہم اللہ تعالیٰ پر اور جو کچھ ہماری طرف اتارا گیا اس پر ایمان لائے تو اس بات میں کہ ہم اللہ تعالیٰ پر اور جو کچھ ہماری طرف اتارا گیا اس

پرایمان لائے اور اس بات کہ میں مومن ہوں کیا فرق ہے حضرت حسن سے پوچھا گیا کیا آپ مومن ہیں؟ انہوں نے فرمایا ان شاء اللہ پوچھا گیا اسے ابو سعید! ایمان میں استثناء کیوں کر رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا۔ مجھے خوت آتا ہے کہ میں ہاں کہہ دوں اور اللہ تعالیٰ فرمائے اسے حسن! تو نے جھوٹ بولا ہے اور مجھ پر کلمہ (عذاب) ثابت ہو جائے وہ فرمایا کرتے تھے کہ میں اس بات سے بے خوت نہیں ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے بعض ایسے اعمال پر مطلع ہو۔ جنہیں وہ ناپ نہ کرتا ہے تو وہ مجھ پر ناراض ہو جائے اور فرمائے چلا جا میں تیرے کسی عمل کو قبول نہیں کرتا تو میں یہی موقع عمل کرتا ہوں حضرت ابراہیم اہم رحمہ اللہ نے فرمایا جب تم سے پوچھا جائے کہ کیا تم مومن ہو؟ تو تم کہو "لا الہ الا اللہ" ایک مرتبہ فرمایا یوں کہو کہ مجھے اپنے ایمان میں شک نہیں اور تیسرا سوال بدعت ہے حضرت علقمہ سے پوچھا گیا کیا آپ مومن ہیں؟ انہوں نے فرمایا میں امید رکھتا ہوں انشاء اللہ حضرت سوری فرماتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں لیکن یہ نہیں جانتے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے نزدیک کیا ہیں۔ تو اس استثناء کا کیا مطلب ہے؟

جواب :-

یہ استثناء صحیح ہے اور اس کی چار وجہیں ہیں دو وجہوں کی نسبت شک کی طرف ہے اصل ایمان کی طرف نہیں البتہ اس کے خاتمے اور کمال کے ساتھ تعلق ہے، اور دو وجہوں کی شک کی طرف نسبت نہیں۔

پہلی وجہ :-

یہ شک کی طرف منسوب نہیں ہے بلکہ اس بات کے خوت سے ہے احتراز کیا جاتا ہے کہ خود اپنے نفس کی پاکیزگی بیان نہ کرے۔

اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے :

فَلَا تَزُكُّواَ اَنْفُسَكُمْ (۱)

اپنی پاکیزگی بیان نہ کرو۔

اور فرمایا :-

اَلَمْ تَرَ اَنَّ الَّذِيْنَ يَنْزُكُوْنَ اَنْفُسَهُمْ (۲)

کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنی پاکیزگی خود بیان کرتے ہیں۔

اور ارشاد خداوندی ہے :

اَنْظُرْ كَيْفَ يَفْتَرُوْنَ عَلٰى اللّٰهِ الْكُذِبَ (۳)

دیکھئے کس طرح اللہ تعالیٰ پر جھوٹ گھڑتے ہیں۔

(۱) قرآن مجید سورہ نجم آیت ۲۲

(۲) قرآن مجید سورہ نسا آیت ۲۹ (۳) قرآن مجید سورہ نسا آیت ۱۳

کسی دانا سے پوچھا گیا سچ کیا ہے؟ اس نے جواب دیا انسان کا اپنی تعریف کرنا۔ اور ایمان بزرگی کی اعلیٰ صفات میں سے ہے اور اس پر یقین سے بات کرنا مطلق پاکیزگی بیان کرنا ہے اور استثناء کا صیغہ گو یا عرف سے منتقل کیا گیا ہے جسے کسی انسان سے پوچھا جائے آپ طیب یا فقیہ یا مفسر ہیں؟ تو وہ کہے گا ہاں انشاء اللہ۔ تو یہ تشکیک کی جگہ میں نہیں ہے۔ بلکہ اپنے نفس کو ذاتی پاکیزگی کے بیان سے نکالنا ہے تو یہ صیغہ تردید اور نفس خیر کو کمزور کرنے کے لیے ہے یعنی خبر سے جو بات لازم آتی ہے اسے کمزور کرنا ہے اور وہ اپنا ترکہ ہے، اس تاویل کے مطابق اگر کسی برے وصف کے بارے میں سوال کیا جائے تو استثناء بہتر نہیں ہے۔

دوسری وجہ:

ہر حال میں اللہ تعالیٰ کے ذکر سے لو لگانا اور تمام امور کو مشیت خداوندی کی طرف پھیرنا اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی طریقہ سکھایا۔

ارشاد خداوندی ہے:

وَلَا تَقُولَنَّ لِيْ اِنِّيْ فَاعِلٌ ذٰلِكَ غَدًا
اِنَّ اَنْ يَّشَاءَ اللّٰهُ - (۱)

کسی کام کے بارے میں یہ نہ کہیں کہ میں اسے کل کروں گا
مگر انشاء اللہ کہیں۔

پھر اس بات کو غیر مشکوک امور تک محدود نہیں رکھا بلکہ فرمایا:

لَقَدْ خَلَقْنَا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ
اٰمِنِيْنَ مَخْلِقِيْنَ رِءُوسِكُمْ وَمَقْصِرِيْنَ -
والے یا بال کھوانے والے۔ (۲)

تم ضرور مسجد حرام میں داخل ہو گے اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا
اس حال میں کہ امن والے ہو گے اپنے سروں کو منڈانے

حالانکہ اللہ تعالیٰ کو علم تھا کہ وہ ضرور داخل ہوں گے اور یہی اس کی مشیت تھی لیکن مقصود اس بات کی تعلیم دینا تھا
تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو خبر بھی دیتے چاہے وہ معلوم ہوتی یا مشکوک، اس میں یہی طریقہ اختیار فرماتے
حتیٰ کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان میں داخل ہوئے تو فرمایا۔

اَسَلَمْتُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِيْنَ وَاَنَا اِنْ
شَاءَ اللّٰهُ بِكُمْ لَاحِقُوْنَ - (۳)

اے مومنوں کے گھر والو! تم پر سلامتی ہو اگر اللہ تعالیٰ
نے چاہا تو ہم بھی تمہارے ساتھ ملنے والے ہیں۔

(۱) قرآن مجید سورہ کہف آیت نمبر ۲۳

(۲) قرآن مجید سورہ فتح آیت ۲۷

(۳) صحیح مسلم کتاب الجنائز جلد اول ص ۳۱۲

حالانکہ ان کے ساتھ ملنے میں کوئی شک نہیں لیکن ادب کا تقاضا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے اور امور کا اسی سے ربط قائم کیا جائے اور یہ صیغہ اس بات پر دلالت کرتا ہے حتیٰ کہ عرف میں یہ رغبت اور تمنا کے اظہار کے لیے استعمال ہوتا ہے جب تم سے کہا جائے کہ فلاں شخص جلدی مر جائے گا تو تم کہتے ہو ان شاء اللہ تو اس سے تمہاری رغبت معلوم ہوتی ہے شک معلوم نہیں ہوتا۔ اور جب تم سے کہا جائے فلاں شخص کی بیماری جلد ختم ہو جائے گی اور وہ صبح ہو جائے گا تو تم لفظ ان شاء اللہ کہتے ہو یعنی یہ بھی رغبت کا اظہار ہے۔ تو یہ کلمہ شک سے رغبت کی طرف پھیر دیا گیا تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف پھیر دیا گیا بات جس قسم کی بھی ہو۔

تیسری وجہ:

یہ شک کی طرف منسوب ہے اور اس کا معنی ہے میں ان شاء اللہ یقیناً مومن ہوں کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے چند لوگوں کو خاص کر کے ہوئے ارشاد فرمایا۔

أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا۔ (۲)

وہ لوگ سچے مومن ہیں۔

تو اس کی دو قسمیں ہو گئیں اور یہ کمال ایمان میں شک کی طرف لوٹتا ہے اصل ایمان کی طرف نہیں اور یہ شخص کو اپنے ایمان کے کمال میں شک ہوتا ہے اور یہ کفر نہیں اور کمال ایمان میں شک دو وجہ سے صحیح ہے۔

(۱) منافقت، ایمان کے کمال کو زائل کر دیتی ہے اور یہ پوشیدہ بات ہے اس سے برأت ثابت نہیں ہو سکتی۔

(۲) ایمان نیک اعمال سے مکمل ہوتا ہے اور کمال طور پر ان اعمال کے وجود کا علم نہیں ہوتا۔

عمل کے بارے میں ارشاد خداوندی ہے۔

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ

ثُمَّ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ

وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ

الصَّادِقُونَ۔ (۳)

تو شک اس صدق میں ہوتا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

تو ہمیں اوصاف کی شرح بیان فرمائی جیسے ویرہ پورا کرنا اور مشکل پر صبر کرنا۔
پھر فرمایا :-

یہی لوگ سچے ہیں۔

أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا (۱)

اور ارشاد خداوندی ہے۔

اللہ تعالیٰ تم میں سے ایمان والوں اور ان لوگوں کے
درجات بلند کرتا ہے جنہیں علم دیا گیا ہے۔

يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ
أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ (۲)

اور ارشاد فرمایا :-

تم میں سے جن لوگوں نے فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا اور
جہاد کیا وہ برابر نہیں۔

لَوْ سَبَّحْتُمْ مِنْكُمْ مَنْ انْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ
وَقَاتَلَ (۳)

اور فرمایا :-

وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مختلف درجات والے ہیں۔

هُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ اللَّهِ (۴)

ایمان برہنہ ہے اور اس کا لباس تقویٰ ہے۔

نَبِيٌّ أَكْرَمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفَرًا
أَوْ يَمَانٍ عَرَبِيًّا وَكِبَاسَةَ التَّقْوَى (۵)

اور فرمایا :-

ایمان کے ستر سے زیادہ دروازے ہیں جن میں سے
کترین دروازہ راستے سے تکلیف وہ چیز کو مٹانا ہے
تو یہ (آیات و احادیث) کمال ایمان کے اعمال کے ساتھ تعلق پر دلالت کرتی ہیں۔ ایمان، نفاق اور شرک خفی
سے برأت کے ساتھ بھی مرلوبط ہے۔

أَوْ يَمَانٍ يَضَعُ وَسَبْعُونَ بَابًا أَوْ نَاهَا
إِمَاطَةَ الْوَدْيِ عَنِ الطَّرِيقِ (۶)

نَبِيٌّ أَكْرَمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفَرًا
أَوْ يَمَانٍ عَرَبِيًّا وَكِبَاسَةَ التَّقْوَى (۵)

(۱) قرآن مجید سورہ بقرہ آیت نمبر ۱۷۷

(۲) قرآن مجید سورہ مجادلہ آیت نمبر ۱۰

(۳) قرآن مجید سورہ حدید آیت نمبر ۱۰

(۴) قرآن مجید سورہ آل عمران آیت نمبر ۱۶۳

(۵) صحیح مسلم جلد اول ص ۷۷ کتاب الایمان

(۶)

أَرْبَعٌ مَنْ لَكَ فِيهِ فَهُوَ مُنَافِقٌ ذَا الصُّ
وَأِنْ صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُؤْمِنٌ مِّنْ
إِذَا حَدَّثَ كَذِبًا وَإِذَا وَعَدَ خَلَفَ
وَإِذَا أُوْتِيَ مَخَانًا وَإِذَا خَاصَمَ فَجَدَّ (۱)

بعض روایات میں ہے۔

«إِذَا عَاهَدَ غَدَرَ» (۲)

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے۔

الْقُلُوبُ أَرْبَعَةٌ قَلْبٌ أَجْرَدٌ وَفِيهِ سِرٌّ
يُزْهِرُ فَذَلِكَ قَلْبُ الْمُؤْمِنِ وَقَلْبٌ مُّصَفَّحٌ
فِيهِ إِيمَانٌ وَنِفَاقٌ فَمَثَلُ الْوَيْمَانِ فِيهِ
كَمَثَلِ الْبِقْلَةِ يَمُدُّهَا الْمَاءُ الْعَذْبُ وَمَثَلُ
الْمُنَافِقِ فِيهِ كَمَثَلِ الْقُرْحِ يَمُدُّهَا
النَّقِيحُ وَالصِّدِّيقُ قَائِي الْمَادَتَيْنِ غَلَبَ
عَلَيْهِ حَكَمَ لَهُ بِهَا - (۳)

دوسری حدیث میں «غَلَبَتْ عَلَيْهِ ذَهَبَتْ بِهِ»

اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

«أَكْثَرُ مُنَافِقِي هَذِهِ الْأُمَّةِ قُرَآءُهَا» (۴)

جس آدمی میں چار خصلتیں ہوں وہ خالص منافق ہے اگرچہ روزہ
رکھے اور نماز پڑھے اور کہے کہ میں مومن ہوں جب بات
کرے تو جھوٹ بولے جب وعدہ کرے تو خلاف ورزی
کرے جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت
اور جب جھگڑے تو گال گلوچ کرے۔

جب معاہدہ کرتے تو اسے توڑ دے۔

دل چار قسم کے ہیں ایک صلاب دل جس میں روشن
چراغ ہے یہ مومن کا دل ہے اور دوسرا دوزخ والا
ہے اس میں ایمان بھی ہے اور منافقت بھی ایمان کی مثال
اس سبزی جیسی ہے جیسے میٹھا پانی بڑھاتا ہے اور منافق
کی مثال اس زخم کی ہے جو پیٹ کو بڑھا دیتا ہے جو مادہ
غالب ہوگا اس کا حکم نافذ ہو جائے گا۔

جو بھی اس غالب ہوگا اسے لے جائے گا۔

اس امت کے اکثر منافق قاری ہیں۔

(ف) یہاں قرآن سے مراد وہ عالم ہیں جو اپنی ذات سے تہمت کو دور کرنے کے لیے علم حاصل کرتے ہیں اور جو کچھ کہتے
ہیں اس پر ان کا عقیدہ نہیں ہوتا جیسے وہابی دیوبندی لوگ قرآن و حدیث سے سہرا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قصائل

(۱) صحیح مسلم جلد اول ص ۶ کتاب الایمان

(۲) مستدراہم احمد بن حنبل جلد ۲ ص ۱۸۹

(۳) مستدراہم احمد بن حنبل جلد ۳ ص ۱۷

(۴) مستدراہم احمد بن حنبل جلد ۴ ص ۱۵۵

سکھتے ہیں اور پھر انکار کر دیتے ہیں۔ تو ایسے علماء کو مناقق کہا گیا ہے ۱۲ (ہزاروی)

ایک حدیث شریف میں ہے:

أَلْتَرِكَ أَخْفَىٰ فِي أُمَّتِي مِنْ ذَنْبِ النَّمْلِ عَلَى الصَّفَا۔ (۱)

میری امت میں شرک چوٹی کی صف پر چلنے سے بھی زیادہ پوشیدہ ہے۔

حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص کوئی بات کہتا تو وہ مرتے دم تک منافق ہی رہتا تھا اور میں تم سے ایک دن میں، دس بار وہی بات سنتا ہوں (۲) بعض علماء نے فرمایا مناقق کے زیادہ قریب وہ شخص ہے جس کا خیال ہے کہ وہ منافقت سے پاک ہے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے تھے، "نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے آج کل مناقق زیادہ ہیں" ان دنوں وہ چھپاتے تھے اور آج کل ظاہر کرتے ہیں تو یہ منافقت ایمان کی سچائی اور کمال کے منافی ہے اور یہ پوشیدہ ہے جو آدمی سے ڈرتا ہے وہ اس سے سب سے زیادہ دور رہنے والا ہے، اور جو سمجھتا ہے کہ میں اس سے پاک ہوں وہ اس کے زیادہ قریب ہے۔ حضرت جن بصری رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ لوگ کہتے ہیں آج کل منافقت نہیں انہوں نے فرمایا اسے بھائی! اگر مناقق ہلاک ہو گئے تو تمہیں راستوں سے وحشت ہونے لگے انہوں نے ہی یا کسی دوسرے بزرگ نے فرمایا اگر منافقین کے ساتھ دم لگ جائیں تو ہم اپنے پاؤں کے ساتھ زمین پر نہ چل سکیں۔ یہ کثرت کی طرف اشارہ ہے (۱)

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے سنا ایک شخص اشارتاً حجاج پر طعن کر رہا تھا آپ نے فرمایا کیا اگر تو وہاں حاضر ہوتا اور یہ بات سنا تو اس کے بارے میں گفتگو کرتا اس نے کہا نہیں آپ نے فرمایا ہم عہد رسالت میں اس بات کو منافقت شمار کرتے تھے۔ (۳)

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

مَنْ كَانَ ذَا لِسَانَيْنِ فِي الدُّنْيَا جَعَلَهُ اللَّهُ ذَا لِسَانَيْنِ فِي الْآخِرَةِ۔ (۴)

جو شخص اس دنیا میں دو زبانوں والا (مناقق) ہو گا اللہ تعالیٰ اسے آخرت میں بھی دو زبانوں والا بنا کے گا۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا:

(۱) مجمع الزوائد جلد ۱۰ ص ۲۲۳

(۲) مصنف ابن ابی شیبہ جلد ۱۵ ص ۴۵

(۳) قوت القلوب جلد ۲ ص ۱۳۴ ذکر الاشہار فی الایمان

(۴) مجمع الزوائد جلد ۸ ص ۵۵ باب ذی الوجہین ولسانین

شَرَّ النَّاسِ ذُو أَلْوَجْهَيْنِ الَّذِي يُبَايِعُ هُوَ لَا
بِوَجْهِ وَبِأَقْبِ هُوَ لَا بِوَجْهِ -

سب سے بُرا شخص وہ ہے جو دو چہروں والا ہے ان
کے پاس ایک چہرے کے ساتھ آتا ہے اور ان کے پاس
دوسرے چہرے سے جاتا ہے۔

(۱)

حضرت حسن بصری رحمہ اللہ سے کہا گیا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں ہم منافقت سے نہیں ڈرتے تو انہوں نے فرمایا اللہ کی قسم! اگر
مجھے معلوم ہو کہ میں منافقت سے پاک ہوں تو بات مجھے سونے سے بھری ہوئی زمین سے زیادہ پند ہے اور حضرت حسن
ہی فرماتے ہیں زبان اور دل، پوشیدہ اور ظاہر نیز داخل و خارج کے درمیان اختلاف، منافقت سے ہے۔
ایک شخص نے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے عرض کیا کہ میں منافق بننے سے خوف زدہ ہوں تو انہوں نے فرمایا اگر تو منافق
ہوتا تو منافقت سے نہ ڈرتا کیونکہ منافق، منافقت سے بے خوف ہوتا ہے،

حضرت ابن ابی عمیر کہتے ہیں میں نے ایک سو تیس اور ایک روایت میں ہے ایک سو چالیس صحابہ کرام سے
مناقات کی وہ سب کے سب منافقت سے ڈرتے تھے۔

ایک روایت میں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی ایک جماعت کے درمیان تشریف فرما تھے انہوں نے
ایک شخص کا ذکر کیا اور اس کی بہت زیادہ تعریف کی وہ اسی حالت میں تھے کہ ایک شخص آیا اس کے چہرے سے
وضو کے پانی کے قطرے گر رہے تھے اس نے پناہ جوتا ہاتھ میں لٹکار رکھا تھا اور اس کی آنکھوں کے درمیان
سجدے کا نشان تھا انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ! یہی وہ شخص ہے جس کا ہم نے ذکر کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا میں اس شخص کے چہرے پر سیاہ شیطانی داغ دیکھتا ہوں وہ شخص حاضر ہوا یہاں تک کہ سلام کر کے صحابہ کرام
کے ساتھ بیٹھ گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تجھے قسم دے کر پوچھتا ہوں کیا جب تو ان لوگوں کے پاس آیا تو
تیرے دل میں یہ خیال نہیں آیا کہ ان میں سے کوئی بھی تجھ سے بہتر نہیں؟ اس نے کہا جی ہاں (۲)

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں دعا مانگی:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَغْفِرُكَ لِمَا عَلِمْتُ

وَلِمَا لَمْ أَعْلَمْ - (۳)

اے اللہ! میں تجھ سے اس چیز کی بھی بخش مانگتا

ہوں جسے میں جانتا ہوں اور اس کی بھی جسے میں نہیں جانتا۔

آپ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ! آپ کو بھی خوف ہے؟ آپ نے فرمایا مجھے کونسی چیز بے خوف کرے گی جبکہ

(۱) صحیح بخاری جلد اول ص ۴۹۶ باب المناقب

(۲) قوت القلوب جلد ۲ ص ۱۳۱ ذکر الاستغفار فی الایمان

(۳) " " " " " " (۳)

دل اللہ تعالیٰ کی دو انگلیوں جیسا اس کے شایانِ شان ہے) کے درمیان ہیں وہ جیسے چاہے بدل دے۔ (۱)

اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

وَبَدَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ
اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ کچھ ظاہر ہوا
جس کا انہیں گمان بھی نہ تھا۔ (۲)

اس کی تفسیر میں کہا گیا ہے کہ انہوں نے کچھ اعمال نیکی سمجھ کر کئے لیکن اس کے ہاں وہ بُرائیاں تھیں۔ حضرت
سری سقطی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر کوئی شخص کسی باغ میں داخل ہو جائے جس میں ہر قسم کے درخت ہوں اور ان پر ہر قسم کے
پہنڈے ہوں اور ہر پرندہ اپنی زبان میں اس سے مخاطب ہو اور کہے اسے اللہ کے ولی! تجھ پر سلامتی ہو اور اس پر
اس کا نفس ٹھہر جائے (یعنی تکبر میں آجائے) تو وہ ان کے ہاتھوں گرفتار ہوگا۔

تو یہ احادیث اور اقوال سمجھے جاتے ہیں کہ منافقت کی باریکیوں اور شرک خفی کی وجہ سے معاملہ خطرناک ہے
اور اس سے بے خوف نہیں ہو سکتا حتیٰ کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے اپنے بارے
میں پوچھتے تھے اور یہ کہ کیا وہ منافقین میں تو شمار نہیں ہوتے، حضرت ابوسلیمان دروانی فرماتے ہیں میں نے بعض امراء
سے ایک بات سنی تو انکار کا ارادہ کیا تو مجھے ڈر ہوا کہ کہیں میرے قتل کا حکم نہ دے دیا جائے لیکن مجھے موت کا
خوف نہیں تھا۔ البتہ مجھے اس بات کا ڈر تھا کہ کہیں میری روح نکلتے وقت میرے دل کو مخلوق کے لیے مزین نہ کر
دیا جائے تو میں اس بات سے رک گیا۔ تو یہ منافقت حقیقت ایمان، اس کی سچائی، کمال اور صفائی کے خلاف
ہے اصل ایمان کے خلاف نہیں۔

اقسام نفاق:

نفاق کی دو قسمیں ہیں:-

ایک قسم وہ ہے جو دین سے نکال کر کفار سے ملا دیتی ہے اور ہمیشہ جہنم میں رہنے والوں کے راستے پر چلاتی ہے۔
دوسری قسم وہ ہے جو منافق کو ایک خاص مدت تک جہنم میں پہنچاتی ہے۔ یا اعلیٰ درجے کے لوگوں کے درجات
کو کم کر دیتی ہے اور انہیں صدیقین کے رتبہ سے گرا دیتی ہے اور یہ مشکوک ہے اسی لیے اس سے استنار اچھی بات
ہے اس منافقت کی اصل یہ ہے کہ ظاہر و باطن میں تفاوت ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر، خود پسندی اور اس
قسم کے دوسرے امور سے صرف صدیقین ہی خالی ہوتے ہیں۔

(۱) قوت القلوب جلد ۲ ص ۱۳۸ ذکر الاستنار فی ایمان

(۲) قرآن مجید سورہ زمر آیت ۷۴

چوتھی وجہ:

یہ بھی شک کی طرف منسوب ہوتی ہے اور اس کا تعلق خاتمہ کے خوف سے ہے کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ موت کے وقت اس کا ایمان سلامت رہے گا یا نہیں، اگر اس کا خاتمہ کفر پر ہوتا ہے تو تمام سابقہ اعمال ضائع ہو گئے کیوں کہ وہ خاتمے کی سلامتی پر موقوف ہیں اگر کسی شخص سے چاشت کے وقت روزے کے صحیح ہونے کے بارے میں پوچھا جائے تو وہ کہے گا میں قطعی طور پر روزہ دار ہوں اور اس کے بعد اگر وہ دن کے دوران روزہ توڑ دے تو اس کا بھوٹ واضح ہو جائے گا کیوں کہ روزے کی درستگی کا دار و مدار دن کے آخر میں سورج غروب ہوتے وقت تک باقی رہنے پر ہے تو جس طرح روزے کے پورے ہونے کا وقت دن ہے اسی طرح ایمان کے صحیح ہونے کی تکمیل کے لیے پوری زندگی کا وقت مقرر ہے اور آخری وقت سے پہلے اسے صحیح قرار دینا استعجاب (سہمی حالت) کی بنیاد پر ہے اور اس میں شک ہے، انجام کا خوف باقی ہے اسی لیے اکثر خوف خدا دے اس بنیاد پر ہوتے تھے کہ گذشتہ کا انجام اور مشیت ازلیہ اسی وقت ظاہر ہو گئی جب وہ چیز ظاہر ہو گی جس کی بنیاد پر فیصلہ ہے اور اس پر کسی انسان کو اطلاع نہیں تو خاتمہ کا خوف ازلی فیصلے کے سبقت کرنے کے خوف کی طرح ہے۔ بعض اوقات فی الحال مشیت سابقہ کے خلاف ظاہر ہوتا ہے تو کسے معلوم ہے کہ وہ ان لوگوں میں سے ہے جن کے لیے بھلائی سبقت کر گئی۔

اللہ تعالیٰ کے ارشادِ گرامی:

وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ (۱) اور موت کی بہوشی حق کے ساتھ آئی۔

تو اس حق سے مراد سبقت کرنے والا ازلی کلمہ ہے جو اس وقت ظاہر ہوتا ہے۔ بعض بزرگوں نے فرمایا اعمال کے خاتمہ کا وزن کیا جائے گا۔ حضرت ابو دردا اور رضی اللہ عنہ اللہ تعالیٰ کی قسم کھایا کرتے تھے کہ جو شخص بھی ایمان کے چھین جانے سے بے خوف ہو گا اس کا ایمان چھین جائے گا۔

کہا گیا ہے کہ کچھ گناہ ایسے ہیں جن کی سزا براخاتمہ ہے ہم اس سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتے ہیں کہا گیا ہے کہ یہ گناہ ولایت اور کرامت کا جھوٹا دعویٰ کرنا ہے۔

بعض عارفین نے فرمایا اگر مجھے مکان کے دروازے پر شہادت ملنا نصیب ہو اور حجرے کے دروازے پر توحید پر موت حاصل ہو تو میں توحید کی حالت میں حجرے کے دروازے پر موت کو اختیار کروں گا کیونکہ مجھے معلوم نہیں جو بی کے دروازے تک میرے دل میں توحید کے بارے میں کیا تبدیلی واقع ہو جائے۔

ان میں سے بعض حضرت نے فرمایا کہ اگر میں کسی کو پچاس سال توحید پر دیکھوں پھر میرے اور اس کے درمیان ایک

(۱) قرآن مجید سورہ حق آیت ۱۹

ستون حائل ہو جائے اور وہ مرجائے تو میں توجید پر اس کی موت کا فیصلہ نہیں کروں گا۔
 حدیث شریف میں ہے جو شخص کہے کہ میں مومن ہوں تو وہ کافر ہے اور جو کہے کہ میں عالم ہوں تو وہ جاہل ہے۔ (۱)

ارشاد خداوندی :-

وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا (۲) اور تیرے رب کا کلمہ سچ اور انصاف میں پورا ہو گیا۔
 اس آیت کے بارے میں کہا گیا کہ جو ایمان پر فوت ہوا اس کے لیے صدق اور جو شرک پر مرے اس کے لیے انصاف کا لفظ استعمال ہوا اور ارشاد خداوندی ہے:

وَاللَّهُ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ - (۳) اور انجام کار اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔

توجہ شک اس درجہ کا ہو تو استثناء واجب ہوگی کہ ایمان اس چیز کا نام ہے جو جنت میں فائدہ پہنچائے جیسے روزہ وہ ہے جو ذمہ داری سے فارغ کر دے اور جو روزہ غروب آفتاب سے پہلے فارغ کر دے وہ بری الذمہ نہیں کرتا لہذا وہ روزے کی تعریف سے نکل جائے گا ایمان کا بھی یہی معاملہ ہے۔

بلکہ اس بنیاد پر یہ بات بھی نامناسب نہیں کہ اگر گزشتہ روزے کے بارے میں پوچھا جائے جب کہ وہ فارغ ہو چکا ہو اور کہا جائے کہ کل تم نے روزہ رکھا تھا تو وہ کہے گا ہاں انشاء اللہ تعالیٰ، کیوں کہ حقیقی روزہ وہی ہے جو مقبول ہو اور مقبول روزہ اس سے پوشیدہ ہے اس سے صرف اللہ تعالیٰ آگاہ ہے تو اس اعتبار سے تمام اچھے کاموں میں ان شاء اللہ کہنا بہتر ہے، اور یہ قبولیت میں تک ہوگا کیونکہ عمل کی صحت کی تمام ظاہر شرائط کو پورا کرنے کے بعد خفیہ امور قبولیت کے قول سے مافع ہیں۔ کیونکہ ان پر وہی ذات مطلع ہے جو سب کارب ہے، لہذا یہ شک اچھا ہے تو ایمان کے بارے میں جواب دیتے ہوئے ان شاء اللہ کہنے کی یہ وجہ ہے اس کے ساتھ کتاب قواعد عقائد اختتام پذیر ہو گئی۔

اللہ تعالیٰ کی حمد کے ساتھ باب مکمل ہوا ہمارے سردار حضرت محمد مصطفیٰ پر اور آپ کے صدقے تمام مختار بندوں پر

رحمت نازل ہو۔

(۱) المقامد الحسنة تحت صفة الیم ص ۲۲۲

(۲) قرآن مجید سورہ انعام آیت ۱۵

(۳) قرآن مجید سورہ حج آیت ۱۴

اسرار طہارت کا بیان

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ !

تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے اپنے بندوں پر مہربانی فرماتے ہوئے انہیں پاکیزگی کا حکم دیا اور ان کے باطن کو پاک کرنے کے لیے ان کے دلوں پر انوار و لطافت (مہربانیوں) کا فیضان جاری کیا اور ان کے ظاہر کو پاک کرنے کے لیے پانی نبایا جو پتلا اور سینے والا ہے اور رحمت کاملہ نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو جنوں نے نذر ہدایت کے ساتھ عالم کے اطراف و اکناف کو گھیرا ہوا ہے اور آپ کی پاکیزہ آل پر ایسی رحمت ہو جس کی برکات تون کے دن ہمیں نجات دلائیں نیز چارے اور ہر آفت کے درمیان ڈھال کا کام دیں۔

حمد و صلوة کے بعد۔۔۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

سَبَّيْ اِلٰهٍ سَلَّمَ عَلٰی النَّظَافَةِ (۱)

اسلام کی بنیاد پاکیزگی ہے۔

نیز آپ نے فرمایا:

مِفْتَاحُ الصَّلٰوةِ الطُّهُورُ (۲)

نماز کی چابی پاکیزگی ہے۔

اور ارشاد خداوندی ہے۔

فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّوْنَ اَنْ يَّتَطَهَّرُوْا وَاللّٰهُ

اس (سجدتبار) میں کچھ مرد ہیں جو خوب پاک ہونا چاہتے ہیں

يُّحِبُّ الْمَطَهَّرِيْنَ (۳)

اور اللہ تعالیٰ خوب پاک ہونے والوں کو پسند کرتا ہے۔

اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

الطُّهُورُ نِصْفُ الْاِيْمَانِ (۴)

پاکیزگی نصف ایمان ہے۔

(۱) الاسرار المرفوعة ص ۹۱ حدیث ۳۲۱

(۲) مسند امام احمد بن حنبل جلد اول ص ۱۲۳ روایت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ

(۳) قرآن مجید سورہ توبہ آیت ۱۰۸۔

(۴) مسند امام احمد بن حنبل جلد ۲ ص ۲۹۰ روایت بنی سلم

اور ارشاد خداوندی ہے: مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَئِنْ يُرِيدُ لَيُطَهِّرَكُمْ (۱)

اللہ تعالیٰ تمہیں کسی حرج میں ڈالنا نہیں چاہتا بلکہ وہ تمہیں پاک کرنا چاہتا ہے۔

تو ان روایات کے ظاہر سے اہل بصیرت نے معلوم کیا کہ باطن کو پاک کرنا سب سے اہم بات ہے کیونکہ حضور علیہ السلام کے ارشاد گرامی ”پاکیزگی نصف ایمان ہے“ سے یہ بات مراد لینا صحیح نہیں کہ ظاہر کو پانی وغیرہ ڈال کر پاک کیا جائے اور باطن کو دیران رکھا جائے اور اس میں تجاشتیں اور گندگیاں باقی رہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔

مراتب طہارت؛

طہارت کے چار مرتبے ہیں:

۱- ظاہر کو ناپاکیوں، نجاستوں اور پانچانے وغیرہ سے پاک کرنا۔

۲- اعضاء کو جرائم اور گناہ سے پاک رکھنا۔

۳- دل کو اخلاق مذمومہ اور ناپسندہ خصلتوں سے پاک رکھنا۔

۴- باطن کو اللہ کے غیر سے پاک رکھنا۔ اور یہ انبیاء کرام اور صدیقین کی طہارت ہے ہر مرتبہ میں طہارت اس عمل کا نصف ہے جس میں وہ پائی جاتی ہے۔

مثلاً باطنی عمل میں انتہائی مقصود یہ ہے کہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی جلالت و عظمت منکشف ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کی معرفت سے دل اس وقت تک حقیقتاً معمور نہیں ہو سکتا جب تک غیر خدا کو حج نہ کر جائے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

قُلْ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ (۲)

آپ فرما دیجئے اللہ ہے پھر ان کو ان کی بیودگیوں میں کھیلتا ہوا چھوڑ دیں۔

کیونکہ یہ دونوں (اللہ تعالیٰ کی معرفت اور غیر خدا کی طرف توجہ) ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے اور اللہ تعالیٰ نے کسی شخص کے اندر دو دل نہیں رکھے۔

اور اللہ تعالیٰ نے کسی شخص کے اندر دو دل نہیں رکھے۔ وَمَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِيْ جَوْفِهِ (۳)

۱- قرآن مجید سورہ مائدہ آیت ۶

۲- قرآن مجید سورہ انعام آیت ۹۱

۳- قرآن مجید سورہ احزاب آیت ۴

جہاں تک دل کے عمل کا تعلق ہے تو اس مقصدِ مشہی یہ ہے کہ اسے اچھے اخلاق، اور مشروع عقائد سے آباد کیا جائے اور وہ اس وقت تک ان سے منصف نہیں سکتا جب تک ان کے مخالف امور سے پاکیزگی حاصل نہ کر لے اور وہ بڑے عقائد اور ناپسند خصالتیں میں تو اس کا پاک کرنا دو حصوں میں سے ایک کو پاک کرنا ہے اور وہ پہلا حصہ ہے جو دوسرے کے لیے شرط ہے۔ تو اس معنی کے اعتبار سے پاکیزگی ایمان کا نصف ہے اسی طرح اعضاء کو ممنوعات سے پاک رکھنا دو میں سے ایک حصہ ہے اور یہ پہلا حصہ ہے جو دوسرے کے لیے شرط ہے تو اس کی پاکیزگی دو میں سے پہلا حصہ ہے اور عبادت کے ذریعے اعضاء کو معمور رکھنا دوسرا حصہ ہے اور یہ ایمانی مقامات ہیں اور ہر مقام کا ایک طبقہ ہے اور کوئی بندہ بلند طبقہ تک اس وقت تک نہیں پہنچ سکتا جب تک وہ نچلے طبقہ سے تجاوز نہ کرے پس مذموم صفات سے باطن کو صاف کر کے اچھی عادت کے ساتھ عبادت کرنے تک اس وقت تک رسائی نہیں ہو سکتی جب تک وہ دل کو بڑی عادت سے پاک کرنے اور اچھے اخلاق سے آباد کرنے سے فارغ نہ ہو جائے۔ اور جو آدمی اعضاء کو ممنوعات سے پاک کرنے اور عبادت کے ساتھ معمور کرنے سے فارغ نہ ہو وہ اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا۔ تو حیب مطلوب معزز و مشرف ہو تو اس کا راستہ مشکل اور لمبا ہوتا ہے نیز گھاٹیاں زیادہ ہوتی ہیں لہذا یہ خیال نہ کیا جائے کہ یہ بات محض آرزو اور آسانی سے حاصل ہو جائے گی۔ ہاں جو شخص ان طبقات کے درمیان تفاوت سے اندھا ہو تو وہ طہارت کے مراتب سے صرف آخری درجہ کو سمجھ سکتا ہے جو مطلوب مغز کی نسبت آخری ظاہری چھلکا ہے تو وہ اس میں بہت غور کرتا ہے اور اس کے طریقوں میں مبالغہ کرتا ہے اس طرح وہ اپنا تمام وقت استنجا کی طرف سے دھونے، ظاہر کو پاک کرنے اور بہت بہنے والے پانی کی تلاش میں گزار دیتا ہے کیونکہ وہ اپنے دوسرے اور عقلی خیالات سے یہی سمجھتا ہے کہ طہارت جو شریف اور مقصود ہے وہ یہی ہے وہ اسلاف کی سیرت سے ناواقف ہے وہ اپنی تمام فکر اور بہت کو دل کی پاکیزگی میں لگا دیتے تھے اور ظاہری امور میں اول کی نسبت) اتنی کوشش نہیں کرتے تھے حتیٰ کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اتنے بڑے منصب کے باوجود ایک عیسائی عورت کے گھر سے وضو فرمایا اور حتیٰ کہ وہ چربی اور کھانے کے بعد ہاتھ نہیں دھوتے تھے بلکہ وہ انہی انگلیوں کو اپنے قدموں کے نچلے حصے سے پونچھ لیتے تھے۔ اور اشد ثمان لایک بوٹی جو صفائی کے لیے صابن کا کام دیتی ہے اس کے ساتھ ہاتھوں کو دھونا بدعت سمجھتے تھے۔ وہ مساجد میں رنگی زمین پر نماز پڑھتے تھے اور راستوں میں شگے پاؤں چلتے تھے اور ان میں سے جو شخص اپنے اور زمین کے درمیان کسی بچھوتے کو رکاوٹ نہیں بناتا تھا وہ ان کے اکابر میں شمار ہوتا تھا اور وہ استنجا کرتے وقت پتھروں پر اکتفا کرتے تھے (پانی استعمال نہیں کرتے تھے) حضرت ابوہریرہ اور دیگر اصحاب صفہ رضی اللہ عنہم نے فرمایا:

ہم جھنا ہوا گوشت کھاتے پھر نماز کھڑی ہو جاتی تو ہم اپنی انگلیوں کو کنگریوں میں ڈال کر مٹی سے پونچھ لیتے اور

كُنَّا كُلُّ الشَّوَاءِ فَتَقَامُ الصَّلَاةُ فَيَدْخُلُ
أَصَابِعَنَا فِي الْحِصْيِ ثُمَّ نَفْرُكُهَا

اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اُستیمان (بُوطی) کو نہیں جانتے تھے اور ہمارے رومال ہمارے پاؤں کے تلوے ہوتے تھے ہم جب چکنائی والی چیز کھاتے تو ان کے ساتھ پونچھ لیتے۔ (۲)

کہا جاتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے (وصال) کے بعد سب سے پہلے چار چیزیں ایجاد ہوئیں۔

(۱) پھلنی (۲) اُستیمان (۳) دسترخوان اور (۴) پیٹ بھر کر کھانا۔

توان لوگوں کی مکمل توجہ باطن کی پاکیزگی کی طرف ہوتی تھی، حتیٰ کہ ان میں سے بعض نے فرمایا جوئے میں نماز افضل ہے۔

کیونکہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبریل علیہ السلام نے بتایا کہ آپ کی نعلین مبارک کے ساتھ کچھ لگا ہوا ہے تو آپ نے نعلین مبارک اتار دی تھی۔ اور صحابہ کرام نے بھی اپنے جوئے اتار لیے تو اس وقت آپ نے فرمایا تم نے اپنے جوئے کیوں اتارے؟^(۳)

حضرت امام متقی جو تیاں اتارنے والوں کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ میں چاہتا ہوں کوئی ضرورت مند اگر ان جوئوں کو لے جائے آپ جوئے اتارنے کو اچھا نہیں سمجھتے تھے تو ان لوگوں نے ان امور میں اس قدر شامل سے کام لیا اور راستوں کے کیمڑ میں ننگے پاؤں چلتے اور اس پر بیٹھ جاتے، مساجد میں زمین پر نماز پڑھنے گندم اور جو کا آٹا کھاتے حالانکہ اسے جانوروں کے ذریعے کاہا جاتا تھا اور وہ اس پر پیاب کرتے تھے وہ اونٹوں اور گھوڑوں کے پسینے سے نہیں بچتے تھے حالانکہ وہ اکثر نجاستوں میں لوٹ پوٹ ہوتے تھے ان میں سے کسی کے بارے میں منقول ہیں کہ اس نے نجاستوں کی باریکیوں کے بارے میں سوال کیا ہو تو اس سلسلے میں وہ اس طرح کیے پرواہ نہ تھے اور اب تو نوبت یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ ایک گروہ نے نری جہالت کا نام پاکیزگی رکھ لیا ہے اور کہتے ہیں یہ دین کی بنیاد ہے تو ان کا زیادہ وقت ظاہر کو سنوارنے میں خرچ ہے جیسے کنگھی کرتے عورت والی دہن کو سنوارتی ہے حالانکہ ان کا باطن دیران ہے تکبر، خود پسندی، جہالت، ریا کاری اور منافقت سے بھرا ہوا ہے، اسے بُرا نہیں جانتے اور نہ اس پر تعجب کرتے ہیں اور اگر کوئی شخص صرف پتھر سے استنجا کرے یا زمین پر ننگے پاؤں چلے یا زمین پر نماز پڑھے یا مصلیٰ بچھانے بغیر مسجد کی چٹائی پر نماز پڑھے یا پاؤں پر چمڑے کا غلاف (جو تا وغیرہ) چڑھائے بغیر قریش پر چلے یا کسی بڑھیا کے برتن یا کسی لاپرواہ آدمی کے برتن سے وضو کرے تو ان پر قیامت لوٹ پڑتی ہے اس پر سخت اعتراض کرتے ہیں اور اسے ناپاک ٹھہراتے ہیں اور اپنی جماعت سے خارج کر دیتے ہیں وہ اس کے ساتھ کھانا کھانے یا میل جول سے نفرت کرتے ہیں تو جو شکستہ حالی ایمان کا حصہ ہے اسے ناپاک ٹھہراتے ہیں، رعوت رنگبر کو پاکیزگی قرار

(۱)

(۲)

(۳) مسند امام احمد بن حنبل جلد ۲ ص ۲۰ روایات ابوسعید خدری

دیتے ہیں تو دیکھ کس طرح منکر، معروف اور معروف منکر ہو گیا اور جس طرح دین کی حقیقت اور علم چلا گیا، اس کی رسم بھی چلی گئی۔
ایک شبہ کا ازالہ | اگر تم کہو کہ کیا ہم صوفیا کرام کی ان عادات کو جو انہوں نے اپنی شکل و صورت اور پاکیزگی میں پیدا کی ہیں، ممنوعات و منکرات کہہ سکتے ہیں تو میں جواباً کہتا ہوں ہرگز نہیں ہم تفصیل کے بغیر مطلقاً قول نہیں کرتے۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ یہ پاکیزگی کا حصول، تکلف، برتن اور دیگر سامان تیار کرنا، قدموں میں جوتا استعمال کرنا اور گرد و عنبر سے بچنے کے لیے اپنے سر اور منہ کو چادر سے ڈھانپنا اور اس کے علاوہ دوسرے اسباب کی ذات کو دیکھا جائے کوئی دوسری بات ملحوظ نہ ہو تو یہ مباح چیزیں ہیں اور بعض اوقات ان کے ساتھ کچھ حالات اور نیتیں شامل ہوتی ہیں جو ان کو کبھی اچھے کاموں سے ملا دیتی ہیں اور کبھی برے امور کے ساتھ ملاتی ہیں۔

جہاں تک ذاتی طور پر ان کے مباح ہونے کا تعلق ہے تو یہ بات پوشیدہ نہیں کہ انسان ان کے ذریعے اپنے مال، بدن اور کپڑوں میں تصرف کرتا ہے اور جو چاہتا ہے کرتا ہے جب تک اس میں مال کو ضائع کرنا اور فضول خرچی نہ ہو۔ اور ان کا برا ہونا اس طرح ہے کہ انہیں دین کی اصل قرار دیا جائے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی تفسیر قرار دیا جائے۔ آپ نے فرمایا۔

دین کی بنیاد پاکیزگی پر ہے۔

بِئِی الدِّیْنِ عَلٰی اِنْتِظَافَةٍ۔ (۱)

یعنی کہ جو شخص پہلے لوگوں کی طرح کچھ کمی کرے تو یہ اس پر اعتراض کرتا ہے یا اس کا مقصد مخلوق کے لیے ظاہری زیب و زینت ہے اور جہاں ان کی نظر پڑتی ہے اسے حسین بنانا ہے تو یہ ریا کاری ہے جو ممنوع ہے تو ان دو وجہ سے یہ عمل منکر قرار ہے۔

یہ عمل معروف اس طرح بنتا ہے کہ اس سے بہتری مقصود ہو زیب و زینت نہیں نیز جو شخص اسے چھوڑ دے اس پر اعتراض بھی نہ کرے اور نہ ہی اس کی وجہ سے نماز کو اول وقت سے مؤخر کرے نہ اس کی وجہ سے کسی افضل عمل یا علم وغیرہ سے غافل ہو اگر اس کے ساتھ ان امور میں سے کوئی بات ملی ہوئی نہ ہو تو یہ مباح ہے اور اسے نیت کے ذریعے قربت خداوندی قرار دیا جاسکتا ہے لیکن یہ بات صرف نیکے لوگوں کو حاصل ہوتی ہے جو اپنا وقت نماز میں صرف نہ کریں تو نیک یا لایعنی باتوں پر خرچ کرتے ہیں پس ان کا اس میں مشغول ہونا بہتر ہے کیونکہ طہارتوں میں مشغول ہونا اللہ تعالیٰ کے ذکر اور ذکر عبادت کو کوتاہی کرتا ہے لہذا جب تک برائی یا فضول خرچی کی طرف نہ جائے اس میں کوئی حرج نہیں۔

لیکن جو علم و عمل والے ہیں انہیں مناسب نہیں کہ وہ اپنے اوقات کو اس پر صرف کریں البتہ ضرورت کے مطابق کر سکتے ہیں ان کے حق میں اس سے زیادہ منکر (برائی) ہے۔ اور وہ عمر جو نہایت قیمتی ہوسکتی ہے اور نفع اٹھانے پر قادر

شخص کے لیے نہایت معزز ہے، اسے ضائع کرنا ہے۔ اور اس پر تعجب نہیں ہونا چاہیے کیوں کہ نیک لوگوں کے نیکیاں، مقربین کے گناہ شمار ہوتے ہیں۔

لیکن نیکے قسم کے لوگوں کے لیے مناسب نہیں کہ وہ صفائی کے حصول کو چھوڑ دیں اور صوفیا پر اعتراض کریں اور یوں اپنے آپ کو صحابہ کرام کے مشابہ قرار دیں کیونکہ ان کے ساتھ مشابہت کا تقاضا یہ ہے کہ اس سے اہم کام کے لیے فارغ ہو۔ جیسے حضرت داؤد طائی رحمہ اللہ پوچھا گیا کہ آپ اپنی داڑھی کو کنگھی کیوں کرتے ہیں انہوں نے فرمایا میں اس وقت فارغ ہوں اسی لیے میں (امام غزالی) عالم، متعلم اور عامل کے لیے جائز نہیں سمجھتا کہ وہ دھوبی کے دھوئے ہوئے کپڑوں کو پہننے سے پرہیز کرے اور نرا خیال کرے کہ اس نے کوتاہی کی ہوگی اور وہ خود کپڑے دھونے میں وقت ضائع کرے۔

پہلے زمانے میں وباغت دیتے ہوئے رنگے ہوئے (چمڑے پر نماز پڑھتے تھے لیکن ان سے یہ بات معلوم نہیں ہوئی کہ طہارت و نجاست کے سلسلے میں ان میں سے کسی نے دھلے ہوئے اور رنگے ہوئے میں فرق کیا ہو۔ بلکہ جب وہ نجاست کو آنکھوں سے دیکھتے تو اس سے اجتناب کرتے وہ احتمالات کی گہرائی میں باریک بینی سے کام نہیں لیتے تھے بلکہ وہ ریا کاری اور ظلم کی باریکیوں میں غور و فکر کرتے حتیٰ کہ حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ کے ساتھ ایک رفیق سفر تھا جو آپ کے ساتھ جا رہا تھا اس نے ایک مکان کے دروازے کی طرف دیکھا جو بلند تھا تو آپ نے فرمایا تم ایسا کام نہ کرنا اگر لوگ اس مکان کی طرف نہ دیکھتے تو اس کا مالک یہ فضول خرچی نہ کرتا تو اس کی طرف دیکھنے والا اس فضول خرچی پر مددگار ہے۔ تو وہ لوگ اپنے ذہن کو مکمل طور پر اس قسم کی باریکیوں کو جانتے ہیں لگاتار تھے نجاست کے احتمالات کے لیے نہیں اگر کوئی عالم کسی عام آدمی کو پائے جو اس کے کپڑے احتیاط کے ساتھ دھوئے تو یہ افضل ہے کیونکہ کستی کی نسبت یہ بہتر ہے۔ اور یہ عام آدمی اس دھونے کی وجہ سے نفع حاصل کرتا ہے۔

کیونکہ وہ اپنے نفس کو جو بڑائیوں کا حکم دیتا ہے، ایک جائز کام میں لگا رہا ہے۔ تو اس حالت میں وہ گناہوں سے ترک جاتا ہے کیونکہ اگر نفس کسی کام میں مشغول نہ ہو تو وہ آدمی کو اپنے کام میں مشغول کر دیتا ہے۔ اور اگر اس کا مقصد اس عالم کا قرب حاصل کرنا ہو تو اس کے نزدیک یہ بہترین عبادت ہے۔ کیونکہ عالم کا وقت اس جیسے کاموں میں خرچ ہونے سے افضل ہے تو اس طرح وہ (وقت) محفوظ رہے گا، اور عام آدمی کا بہترین وقت وہ ہے جو ایسے کاموں میں خرچ ہو تو اسے ہر طرف سے وافر بھلائی ملے گی۔ تو اس مثال سے اس قسم کے دوسرے اعمال، ان کے فضائل کی ترتیب اور بعض کی بعض پر تقدیم کو معلوم کرنا چاہیے عمر کی گھڑیوں کو اچھے کاموں میں لگانے کے لیے ان کا حساب کتاب کرنا امور دنیا اور اس کے تمام مال و اسباب میں غور کرنے سے افضل ہے۔

جب تم نے یہ ابتدائی بات سمجھ لی اور تجھے معلوم ہو گیا کہ طہارت کے چار مراتب میں تو ہم اس کتاب میں صرف چوتھے مرتبہ یعنی ظاہری طہارت کی گفتگو کریں گے کیونکہ ہم کتاب کے پہلے حصے میں صرف ظاہری طہارت کی بحث چھیڑیں گے پس ہم

کہتے ہیں کہ ظاہری طہارت کی تین قسمیں ہیں۔

(۱) نجاست سے طہارت (۲) حدث سے طہارت، بدن کے فضلات سے طہارت اور یہ طہارت کاٹنے (مثلاً ناخن کاٹنے) اُستزایا چونا استعمال کرنے (زیر نات بال صاف کرنے) اور ختنہ سے حاصل ہوتی ہے۔

پہلی قسم:

نجاست سے طہارت حاصل کرنا اور یہ دیکھنا کہ کس چیز کو دور کیا جا رہا ہے کس چیز کے ساتھ دور کیا جا رہا ہے اور دور کرنے کی کیفیت کیا ہے۔

یہ نجاست ہے اور اعیان (اشیاء) تین قسم کی ہیں۔

طرف اول: زائل کی جانے والی نجاست کا بیان

جمادات، حیوانات اور چوانات کے اجزاء۔

کتے، خنزیر اور خوان دونوں یا ایک سے پیدا ہوتا ہے کے علاوہ تمام حیوانات پاک ہیں۔ لیکن جب ان میں سے کوئی مر جائے تو پانچ کے علاوہ باقی سب ناپاک ہو جاتے ہیں۔ آدمی، بھلی، کھڑی، سیب کا کھڑا اور سروہ کھانا جو بدل جائے وہ اسی (کپڑے) کے حکم میں ہے نیز پردہ چیز جس میں بہنے والا خون نہ ہو جیسے کھس اور گبریا (ایک کپڑا جو گوبر میں ہوتا ہے) تو ان میں سے کسی کے گرنے سے پانی ناپاک نہیں ہوتا۔ (۱)

حیوانات کے اجزاء کی دو قسمیں ہیں ایک وہ جسے کاٹا جاتا ہے اس کا حکم مردہ جانور کی طرح ہے بال کاٹنے اور مر جانے کی وجہ سے ناپاک نہیں ہوتے بڑی ناپاک ہو جاتی ہے، دوسری قسم وہ رطوبات ہیں جو اندر سے نکلتی ہیں اور جو تبدیل نہیں ہوتیں اور نہ ان کا کوئی ٹھکانہ ہے تو وہ پاک ہیں جسے آنسو، پسینہ، لعاب، اور ریٹھ۔ اور جس کا کوئی ٹھکانہ ہے (یہ پاک ہیں) اور وہ بدل جاتی ہے وہ ناپاک ہے، البتہ جو حیوان کی اصل ہو جیسے منی اور اڈہ یہ پاک ہیں پیپٹون اور تمام جانوروں کا گوبر اور پیشاب ناپاک ہے۔

ان نجاستوں میں سے پانچ کے علاوہ کسی سے کچھ بھی معاف نہیں تھوڑا سا ہوا زیادہ۔

۱۔ پتھروں سے استنجا کرنے کے بعد نجاست کا اثر جب تک مخرج (نکلنے کی جگہ) سے تجاوز نہ کرے، معاف ہے۔

۲۔ راستوں کا کچھ اور لید کی عیار، اس کے باوجود کہ اس کی ناپاکی کا یقین ہو، جتنی مقدار سے پہنچا ممکن نہ ہو معاف ہے،

اور یہ وہ مقدار ہے کہ اس شخص کے بارے میں یہ نہ کہا جائے کہ اس نے خود اپنے آپ کو کچھ سے لٹیٹھا ہے یا وہ

(۱) یعنی جب اس کے جسم پر نجاست نہ لگی ہو ورنہ پانی ناپاک ہو جائے گا ۱۲ ہزاروی

(۲) احضاف کے نزدیک منی ناپاک ہے۔

اس میں گرا ہے۔

۴۔ موزے کے نیچے لگی ہوئی ایسی نجاست کہ اس سے راستہ خالی نہیں ہوتا تو گر گرنے کے بعد جو کچھ ہے وہ ضرورت کے تحت معاف ہے۔

۵۔ پیرسوکا خون تھوڑا ہو یا زیادہ، معاف ہے البتہ یہ کہ وہ عادت سے بڑھ جائے چاہے وہ تمہارے کپڑے میں لگے یا کسی دوسرے کے کپڑوں میں ہو اور تم انہیں پہن لو۔

۵۔ پھنسیوں کا خون اور جو پیپ وغیرہ ان سے نکلتی ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کے چہرے پر پھنسی تھی اس سے خون نکل آیا تو آپ نے نماز پڑھی اور اسے نہیں دھویا اور وہ ناسور جو عام طور پر باقی رہتے ہیں ان سے جو کچھ نکلتا ہے اوپر فصد پھنسنہ لگانے سے جو خون نکلتا ہے وہ بھی اسی کے معنی میں ہے۔ مگر جو بھوڑے کبھی کبھار نکلتے ہیں اور اس کے دوسرے زخم انہیں استخاضہ کے خون کے ساتھ ملایا جائے گا۔ اور وہ ان پھنسیوں کے حکم میں نہیں ہوں گے جن سے انسان کسی حالت میں بھی خالی نہیں ہوتا۔

ان پانچ قسم کی نجاستوں میں شریعت کی چشم پوشی سے تمہیں معلوم ہو گیا کہ طہارت کا معاملہ آسانی پر ہے، اس میں جو دوسرے وغیرہ پیدا ہو گئے ہیں ان کی کوئی اصل نہیں۔ (۱)

وہ چیز یا جامد ہوگی یا مائع (پینے والی) جامد، استنجاء والے پتھر میں وہ پاک بھی کرتے ہیں اور خشک بھی، لیکن

جس چیز کے ساتھ نجاست زائل کی جاتی ہے

شرط یہ ہے کہ سخت پاک، خشک کرنے والے ہوں اور قابل احترام نہ ہوں۔

پینے والی چیزوں میں سے صرف پانی نجاستوں کو دور کرتا ہے اور سر پانی نہیں بلکہ وہ پانی جو کسی غیر ضروری چیز کے ملنے سے بہت بدل نہ گیا ہو،

اگر نجاست مل جانے سے پانی کا ذائقہ رنگ یا بو بدل جائے تو وہ پاک نہیں رہتا۔

اگر یہ چیزیں تبدیل نہ ہوں اور وہ دوسو پچاس پر ہو یعنی عراقی رطل (آدھ سپر) کے ساتھ پانچ سو رطل ہو تو ناپاک نہیں ہوتا۔ کیونکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا۔

(۱) احاف کے نزدیک جسم سے نکلنے والی پیپ اور خون کے بارے میں فقہی حکم یہ ہے کہ اگر وہ باہر نکل کر اپنی جگہ سے تبادلاً کر جائے تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ لہذا پھینچنے وغیرہ سے نکلنے والے خون سے وضو ٹوٹ جائے گا جو نجاست خشک ہو اور جوتے وغیرہ سے لگ جائے وہ چلتے چلتے صاف ہو جاتی ہے یا کہیں بچنا ناممکن ہو تو معاف ہوگا اسے عموم بلوی کہتے ہیں ورنہ ناپاک پانی یا ناپاک کھچر سے کپڑا یا جسم ناپاک ہو جاتا ہے ۱۶ ہزاروی۔

اِذَا بَلَغَ الْمَاءُ ذَاتَيْنِ كَمْ يَحْمَلُ خَبَثًا - (۱) جب پانی دو مشکوں کو پہنچ جائے، تو ناپاکی کو نہیں اٹھاتا۔ اور اگر اس سے کم ہو تو امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک ناپاک ہو جاتا ہے اور یہ اس وقت ہے جب پانی ٹھہرا ہوا ہو۔ جہاں تک جاری پانی کا تعلق ہے تو جتنا پانی بدلا ہوا ہے وہ ناپاک ہے اس سے اوپر یا نیچے والا ناپاک نہیں ہے۔ کیونکہ پانی کے جاری ہونے میں انفصال یعنی الگ الگ بہاؤ ہے اسی طرح جب جاری نجاست، پانی کے جاری ہونے کی جگہ سے مل جائے تو پانی کی وہ جگہ ناپاک ہوگی۔ اور اس کا دایاں بایاں اس وقت ناپاک ہوگا جب وہ دو مشکوں سے کم ہو اور اگر پانی کا بہاؤ، نجاست کے بہاؤ سے قوی ہو تو جو کچھ نجاست سے اوپر والی جانب ہے وہ پاک ہے اور جو اس کی نیچلی جانب ہے وہ ناپاک ہے اگرچہ دور ہو یا زیادہ ہو۔ البتہ ایک حوض میں دو مشکے پانی جمع ہو۔ اور جب دو مشکے ناپاک پانی اس کے ساتھ جمع ہو جائے تو وہ پاک ہو جائے گا اور پھر جدا ہونے سے ناپاک نہیں ہوگا یہ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ کا مذہب ہے (۲)۔

اور میں امام غزالی رحمہ اللہ چاہتا تھا کہ ان کا مذہب، حضرت امام مالک رحمہ اللہ کے مذہب کی طرح ہوتا یعنی پانی اگرچہ ٹھوڑا ہو جب تک تبدیل نہ ہونا پاک نہیں ہوتا کیوں کہ اس کی ضرورت ہوتی ہے اور دو مشکوں کی قید لگانے سے دوسرے پیدا ہوتے ہیں اسی لیے یہ بات لوگوں پر گراں گزرتی ہے اور مجھے اپنی زندگی کی قسم یہ مشقت کا سبب ہے جو شخص اس کا تجربہ کرتا اور اس میں غور کرتا ہے وہ اس بات کو معلوم کر لیتا ہے۔

اور جس بات میں مجھے شک نہیں وہ یہ ہے کہ اگر یہ بشرط ہوتی تو سب سے زیادہ مشکل طہارت مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ میں ہوتی۔ کیونکہ وہاں نہ تو جاری پانی زیادہ ہوتا ہے اور نہ ٹھہرا ہوا۔ اور زمانہ رسالت کے آغاز سے عصر صحابہ کے آخر تک طہارت کے سلسلے میں کوئی واقعہ منقول نہیں ہے اور نہ ہی نجاستوں سے پانی کی حفاظت کے بارے کوئی (سوال) نقل کیا گیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک نصرا نیہ کے گھڑے سے وضو فرمایا اور یہ اس بات کی تصریح ہے کہ انہوں نے اس پانی پر اعتماد کیا جس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ حالانکہ عیسائی عورت اور اس کے بہترین عام طور پر ناپاک ہوتے ہیں اور معمولی گمان سے معلوم ہو جاتا ہے تو اس صورت میں اس مذہب کے قیام کا مشکل ہونا اور ان زمانوں میں اس کے متعلق سوال کا نہ ہونا پہلی دلیل ہے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا فعل دوسری دلیل ہے۔

(۱) سنن دارقطنی کتاب الطہارۃ جلد اول ص ۲۱

(۲) احناف کے نزدیک اگر تالاب، سومریج گز ہو (دس دروس) ہو تو جب تک نجاست کا اثر ظاہر نہ ہونا پاک نہیں ہوگا لیکن اس سے کم پانی نجاست کے گرنے سے ناپاک ہو جاتا ہے دو مشکوں والی حدیث سے امام شافعی کے استدلال کا جواب جنفی فقہاء نے دیا ہے تفصیل کے لیے شرح معانی آثار یازدنیہ کی ہی بحث دیکھئے ۱۲ ہزاروی۔

پیری دلیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بلی کے لیے برتن کو ٹیڑھا کرنا (۱) اور اس سے برتنوں کو نہ ڈھانپنا ہے حالانکہ یہ بھی دیکھا کہ وہ چوہا کھاتی ہے اور ان علاقوں میں حوض نہیں تھے جن میں بلیاں منہ مارتیں اور کنوؤں میں وہ اترتی نہیں تھیں۔

چوتھی دلیل یہ ہے کہ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ نے واضح طور پر فرمایا کہ جس پانی سے نجاست کو دور کیا جائے اگر اس میں تغیر و تبدل نہ ہو تو وہ پاک ہے اور اگر تبدیلی آجائے تو ناپاک ہے۔ اور اس میں کیا فرق ہے کہ پانی نجاست سے مل جائے یا نجاست پانی میں چلی جائے۔ اور کسی قائل کی اس بات کا کیا مفہوم ہوگا کہ پاک پانی نجاست کو دور کر دیتا ہے جب کہ وہ نجاست کے ملنے کو نہیں روکتا۔ اور اگر اسے حاجت کی طرف لے جائیں تو حاجت بھی اس کی طرف پہنچاتی ہے۔ لہذا کسی ایسے برتن میں پانی ڈالنا جس میں ناپاک کپڑے ہوں یا جس برتن میں پانی ہو اس میں ناپاک کپڑے ڈالنے میں کوئی فرق نہیں کپڑوں اور برتنوں کو دھونے میں یہ سب کچھ معروف ہے۔

پانچویں دلیل یہ ہے کہ وہ تھوڑے جاری پانی کے کنارے پر وضو کیا کرتے تھے اور امام شافعی رحمہ اللہ کے مذہب میں اس بارے میں کوئی اختلاف نہیں کہ جب جاری پانی میں پیشاب واقع ہو اور اس میں رنگ بڑھانے کے اعتبار سے کوئی تبدیلی نہ آئے تو اس سے وضو کرنا جائز ہے اگرچہ تھوڑا ہو، جاری اور کھڑے پانی میں کیا فرق ہے۔ تو بتائیے عدم تغیر کو حوالہ بنانا بہتر ہے یا جاری ہونے کے سبب حاصل ہونے والی پانی کی قوت کو؟ پھر اس قوت کی حد کیا ہے۔ کیا وہ حماموں کی ٹونٹیوں سے جاری ہونے والے پانی پر بھی صادق آئے گی یا نہیں؟ اگر نہیں تو وجہ فرق کیا ہے؟ اور اگر وہاں بھی یہ ضابطہ جاری ہوتا ہے تو جو اس (جاری پانی) میں نجاست گرے اس میں اور جو برتنوں سے جسموں پر جاری ہوتا ہے اس میں کیا فرق ہے حالانکہ یہ بھی جاری ہے۔ پھر جاری پانی میں ملنے کے اعتبار سے جامد (ٹھہری ہوئی) نجاست کے مقابلے میں پیشاب کا حکم زیادہ سخت ہے۔ جب یہ فیصلہ کیا جائے کہ جو کچھ اس کے اور جاری ہوتا ہے اگرچہ وہ تبدیل نہ ہو، ناپاک ہے یہاں تک کہ وہ کسی جگہ دو ٹنگوں کے برابر جمع ہو جائے تو ٹھوس اور مانع نجاست میں کیا فرق ہے حالانکہ پانی ایک ہی ہے اور مل جانے کی نسبت ایک دوسرے میں داخل ہو جانے کا حکم زیادہ سخت ہے۔

پہٹی دلیل یہ ہے کہ جب دو ٹنگے پانی میں آدھ سیر پیشاب گر جائے پھر وہ الگ الگ ہو جائیں تو جس لوٹے سے پانی لین پاک ہوگا جب کہ یہ بات معلوم ہے کہ اس میں پیشاب پھیلا ہوا ہے اور پانی بھی تھوڑا ہے، بتائیے تبدیل نہ کرنے سے اس کا پاک رہنا زیادہ اچھا ہے یا پانی کی کثرت کی قوت کی وجہ سے کہ جب کثرت ختم ہو جائے اور نجاست کے اجزاء اس میں باقی رہیں یعنی یہ ناپاک ہو اور جو نجاست کی وجہ سے تبدیل نہیں ہوا اسے پاک نہ سمجھا جائے یہ کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟

ساتویں دلیل یہ ہے کہ گذشتہ زمانوں میں میلے کچیلے لوگ جماعوں سے وضو کرتے اور ان محضوں میں برتن اور ہاتھ ڈالتے حالانکہ پانی تھوڑا ہوتا تھا اور یہ بھی معلوم ہوتا تھا کہ اس میں ناپاک اور پاک سب ہاتھ داخل ہوتے ہیں۔

تو شدت حاجت کے باوجود ان دلائل سے یہ بات دل میں مضبوط ہو جاتی ہے کہ وہ لوگ پانی کے تبدیل نہ ہونے کو دیکھتے تھے اور حضور علیہ السلام کے اس قول کی طرف پھرتے تھے۔ آپ نے فرمایا:-

مُحَلِّقِ الْمَاءِ ظَهْوَرًا لَا يَنْجِسُهُ شَيْءٌ عَرَاثًا
مَا غَيَّرَ طَعْمًا أَوْ لَوْنًا أَوْ رِيحًا (۱)

پانی کو پاک پیدا کیا گیا ہے اسے وہی ناپاک (چیز ناپاک کر سکتی ہے جو اس کے ذائقے رنگ بو کو بدل دے۔

اور اس میں تحقیق ہے وہ یہ کہ ہر مانع چیز کی طبیعت میں یہ بات داخل ہے کہ جو چیز اس میں گرتی ہے وہ اسے اصفیٰ پر لے آتی ہے اور وہ اس میں مغلوب ہو جاتی ہے جیسے تم کتے کو دیکھتے ہو کہ وہ نمک (کی کان) میں گر کر نمک ہو جاتا ہے اور نمک بن جانے نیز کتا ہونے کا وصف زائل ہو جانے کے سبب اسے پاک قرار دیا جاتا ہے۔

اسی طرح سرکہ اور دودھ پانی میں گر جائیں اور وہ کم ہو تو ان کی صفت باطل ہو جاتی ہے اور اب پانی کی صفت کے ساتھ ان کا تصور ہوتا ہے اور ان میں یہی طبیعت آجاتی ہے البتہ زیادہ ہو اور غالب آجائے تو انک بات ہے اور اس کا غلبہ، اس کے ذائقے، رنگ یا بو سے معلوم ہوتا ہے۔

تو شریعت نے قوی پانی کے نجاست کو زائل کرنے کے سلسلے اسی میاں کی طرف اشارہ کیا ہے اور اسی پر اعتماد کرنا چاہیے۔ اس سے عرج دور ہوتا ہے اور اسی کے ساتھ اس کی صفت طہور پاک کرنے والا ہونا ظاہر ہوتی ہے کیونکہ وہ اس پر غالب آکر اسے پاک کر دیتا ہے جیسے وہ دو مشکوں سے زاہد ہونے کی صورت میں، مستعمل پانی، جاری پانی اور بلی کے لیے برتن کو ٹیڑھا کرنے کی صورت میں پاک رہتا ہے اور تم یہ نہ سمجھتا کہ یہ معاف ہے کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو یہ استنجاء کے اثر اور پسو کے خون کی طرح ہوتا حتیٰ کہ اس سے ملنے والا پانی بھی ناپاک ہو جاتا لیکن دھونے سے ناپاک نہ ہوتا اور نہ ہی تھوڑے پانی میں بلی کے منہ مارنے سے وہ ناپاک ہوتا۔

جہاں تک حضور علیہ السلام کے اس قول کا تعلق ہے کہ وہ نجاست کو نہیں اٹھاتا تو یہ مبہم ہے کیونکہ یہ بھی احتمال ہے کہ جب وہ تبدیل ہو جائے تب نجاست کو نہیں اٹھاتا، اگر کہا جائے کہ جب وہ تبدیل نہ ہو تو ممکن ہے کہا جائے

کہ اس کی مراد یہ ہے کہ وہ عادتاً عام طور پر نجاستوں سے تبدیل نہیں ہوتا۔ پھر دو مشکوں سے کم میں

بھی یہی دلیل ہے لیکن اس سے کم میں مذکورہ بالا دلائل کی وجہ سے یہ مفہوم چھوڑنا ممکن ہے۔ اور آپ کے ورثاء و گرامی «لا یجمل خبثاً» کا ظاہر حمل کی خفی کرتا ہے یعنی اسے اپنی ذاتی صفت کی طرف لوٹاتا ہے جیسے کہا جائے کہ نمک، کتے وغیرہ کو نہیں

اٹھانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی نمک بن جاتے ہیں۔ اس لیے کہ لوگ تھوڑے پانی اور تالوں میں استنجاہ کرتے ہیں اور اپنے ناپاک بزرگ ان میں دھوتے ہیں پھر شگ میں پڑ جاتے ہیں کہ آیا اس میں کوئی مؤثر تبدیلی آئی ہے یا نہ؟ تو واضح ہوا کہ جب دو ٹکے پانی ہو تو ان عام نجاستوں سے ناپاک نہیں ہوتا۔

اگر تم کہو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”وہ نجاست کو نہیں اٹھاتا“ اور جب زیادہ ہوگا تو برداشت کرے گا تو یہ سوال تمہارے خلاف ہوگا کیونکہ جب زیادہ ہوگا تو جس طرح حسی طور پر برداشت کرتا ہے حکمی طور پر بھی برداشت کرے گا۔ لہذا دونوں مذہبوں پر یہ معنادار عام نجاستوں کی قید لگانا ضروری ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ میرا حجان اس بات کی طرف ہے کہ عام نجاستوں کے معاملے میں نرمی اختیار کی جائے پہلے لوگوں کی سیرت یہی ہے اور دوسروں کو جڑ سے اکھاڑنا ہے۔ تو اس قسم کے مسائل میں اختلاف کی صورت میں، میں نے طہارت کا فتویٰ اسی وجہ سے دیا ہے (۱)

نجاست دور کرنے کا طریقہ | نجاست اگر حکیمہ ہو یعنی وہ نجاست جس کا محسوس جسم نہ ہو تو تمام جگہوں پر پانی بہانا کافی ہے اگر نجاست دکھاٹی دینے والی ہو تو عین نجاست کو دور کرنا ضروری ہے ڈالنے کا باقی رہنا عین کے بقا پر دلالت کرتا ہے۔ اسی طرح رنگ کا باقی رہنا بھی، لیکن جو نجاست اس جگہ سے مل جائے تو کھرچنے کے بعد (جو زائل نہ ہو) معاف ہے۔ جو کا باقی رہنا بھی عین نجاست کے بقا پر دلالت کرتا ہے اس سے صرف اسی قدر معاف ہے کہ اس کی بوجہ تیز ہو اور اس کا ازالہ مشکل ہو۔ تو رنگ کی صورت میں کئی بار ملنا اور ہر بار اسے نچوڑنا کھرچنے کے قائم مقام ہوگا۔ دوسروں کو دور کرنے کے لیے یہ یقین رکھنا ضروری ہوگا کہ استنجاہ کو پاک پیدا کیا گیا ہے تو جس پر نجاست نظر نہ آئے اور یقینی طور پر اس کا ناپاک ہونا بھی معلوم نہ ہو تو اس کے ساتھ نماز پڑھے اور محض سوچ کی وجہ سے نجاستوں کو مقدر نہ مانے۔

دوسری قسم:

احداث سے طہارت

اس میں وضو، غسل، اور تیمم ہے اور ان سب سے پہلے استنجاہ ہے، ہم ان سب کا طریقہ اور سنیں ترتیب سے بیان کریں گے اور اسباب وضو سے ابتدا کریں گے نیز قضائے حاجت کے آداب بھی بیان کریں گے انشاء اللہ تعالیٰ۔

(۱) حضرت امام غزالی رحمہ اللہ نے جس دور کی بات فرمائی ہے اب وہ دور نہیں رہا اس وقت اہل عرب سے ہاں پانی کی بھی کمی ہوتی تھی پڑے بھی کم ہوتے تھے اب حالات بدل گئے ہیں لہذا یہ تو ٹھیک ہے کہ بعض دوسرے سے پاک کپڑے کو ناپاک نہیں کہا جائے گا لیکن جب نجاست کا یقین ہو تو اس کے ساتھ نماز نہیں ہوتی۔ ۱۲ ہزار وی۔

قصائے حاجت کے آداب

چاہیے کہ صحرا میں لوگوں کی نظروں سے دور جائے اور اگر کوئی چیز میسر ہو تو اس کے ساتھ پردہ کرے اور بیٹھنے کی جگہ تک پہنچنے سے پہلے شرمگاہ کو نشگانہ کرے، سورج اور چاند کی طرف رخ نہ کرے قبلہ کی طرف نہ چہرہ کرے اور نہ پیٹھ البتہ گھریں ہو تو کوئی حرج نہیں اور لوگوں کے اندر بھی دوسری طرف پھرنا اچھا ہے اگر صحرا میں اپنی سواری کے ذریعے پردہ کرے تو بھی جائز ہے اسی طرح دامن کے کپڑے کے ساتھ بھی کر سکتا ہے لوگوں کی مجلس کی جگہ سے بچے، ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب نہ کرے پھل دار درخت کے نیچے بھی پیشاب نہ کرے نہ پتھر پر پیشاب کرے، سخت جگہ سے بچے ہوا کے رخ پر پیشاب نہ کرے تاکہ اس کے چھینٹوں سے بچے، بیٹھنے ہوئے بائیں پاؤں پر دباؤ ڈالے، اگر پیشاب گاہ کسی عمارت میں ہو تو داخل ہوتے وقت بائیں پاؤں کو پہلے اندر رکھے اور نکلتے وقت پہلے دایاں پاؤں نکالے۔ اور کھڑا ہو کر پیشاب نہ کرے۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے فرماتی ہیں "جو شخص تم سے بیان کرے کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر پیشاب فرماتے تھے تو اس کی تصدیق نہ کرو" (۲)

حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کھڑا ہو کر پیشاب کرتے دیکھا تو فرمایا "اسے عمر کھڑے ہو کر پیشاب نہ کرو" تو اس کے بعد میں نے کبھی بھی کھڑے ہو کر پیشاب نہیں کیا، (۳) البتہ اضرورت کے تحت اس کی اجازت ہے۔

حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا پھر میں وضو کے لیے پانی لایا تو آپ نے وضو فرمایا اور موزوں پر مسح کیا۔ (۴) اور غسل خانے میں پیشاب نہ کرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:

عَامَةُ التَّوَسُّلِ مِثْنَةُ (۵)

عام و سوسے اس سے پیدا ہوئے ہیں

حضرت ابن مبارک فرماتے ہیں غسل خانے میں پیشاب کرنے کی گنجائش ہے بشرطیکہ اس کے اوپر سے پانی جاری ہو جائے

(۱) احسان کے نزدیک گھروں میں بھی قبلہ رخ نہیں ہونا چاہیے اور نہ اس کی طرف پیٹھ کی جائے اس لیے کہ اگر پہاڑ رکاوٹ نہیں بنتے

تو گھروں کی چار دیواری کیسے رکاوٹ بنے گی (۱۲) ہزاروی

(۲) جامع ترمذی باب النہی عن البول قائما جلد اول ص ۲۸

(۳) جامع ترمذی باب النہی عن البول قائما جلد اول ص ۲۸

(۴) صحیح مسلم کتاب الطہارۃ جلد اول ص ۱۳۳

(۵) مسند امام احمد بن حنبل جلد ۵ ص ۵۶ مرویات عبد اللہ بن مغفل

اسے ایام تریزین کے ذکر کیا۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي مُسْتَحِمَّةٍ ثُمَّ
يَتَوَضَّأُ فِيهِ فَإِنَّ عَامَّةَ الْمَوَسَّاسِ
مِنْهُ (۱)

تم میں سے کوئی شخص غسل خانے میں پیشاب نہ کرے پھر
وہاں سے وضو کرتا ہے اور عام دوسو سے اسی سے پیدا
ہوتے ہیں۔

اپنے ساتھ ایسی چیز لے جائے جس پر اللہ تعالیٰ یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی ہو پیشاب گاہ میں ننگے
سرنہ جائے اور داخل ہونے وقت یہ الفاظ پڑھے (یعنی باہر ہی پڑھے)

بِسْمِ اللَّهِ أَجْوَدُ بِاللَّهِ مِنَ الرَّجِيسِ النَّجِسِ
الْحَبِيثِ الْمَخْبِثِ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ - (۲)

یہ کلمات بیت الخلاء سے باہر نکل کر کہے اور بیٹھنے سے پہلے دھیلوں کو گن لے قضائے حاجت کی جگہ پانی سے
استنجا کرے (۳) کھانے پینے اور جھاڑنے اور عضو مخصوص کے نچلے حصے پر ہاتھ پھیرنے کے ذریعے پیشاب نکلنے کا اطمینان
کرے اور اس میں زیادہ سوچ بچار نہ کرے اس طرح دوسو سے پیدا ہونے والے اور یہ معاملہ باعث مشقت ہو جائے گا۔

اب کوئی رطوبت محسوس ہو تو یوں خیال کرے کہ وہ وضو کا یقینہ پانی ہے اگر اس سے (ذہنی) اذیت محسوس کرتا ہے تو اس
جگہ پانی کے چھینٹے مانے تاکہ یہ بات اس کے دل میں پکی ہو جائے اور شیطان دوسووں کے ذریعے اس پر مسلط نہ ہو جائے
حدیث شریف میں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کہا تھا یعنی پانی کے چھینٹے مارے (۴)

گذشتہ زمانے میں جو شخص استنجا سے جلدی فارغ ہوتا وہ ان میں زیادہ فقیہ ہوتا تھا تو اس سلسلے میں دوسوہ قلت
فقہ پر دلالت کرتا ہے۔

حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر بات سکھائی ہے
آپ نے ہمیں حکم دیا کہ ہم بڑی اور لہد سے استنجا نہ کریں اور ہمیں قبلہ رخ ہونے اور ادھر پیچھے کرنے سے بھی منع فرمایا (۵)

(۱) مسند امام احمد بن حنبل جلد ۵ ص ۵۶ مروی عن عبد اللہ بن معقل (۲)

(۳) جب کھیتوں وغیرہ میں قضائے حاجت کے لیے جائے تو جہاں پیشاب کیا وہاں سے ہٹ کر استنجا کرے لیکن اس وقت جو گھروں
میں پیشاب گاہیں بنی ہوئی ہیں ان میں کو حرج نہیں کیونکہ یہ فلس ہیں۔

(۴) سنن نسائی کتاب الطہارۃ جلد اول ص ۱۹

(۵) سنن ابن ماجہ باب الاستنجا بالبجارت ص ۲۶

ایک عربی شخص نے کسی صحابی سے جھگڑنے کے دوران کہا میرا خیال میں تمہیں تو پیشاب کرنے کا طریقہ بھی اچھی طرح نہیں آتا۔ انہوں نے جواب دیا کیوں نہیں میں اس میں ماہر ہوں میں بستی سے دور جانا ہوں اور ڈھیلے گن کر رکھتا ہوں گھاس کے جھنڈ کو سامنے رکھتا ہوں (پردہ کرتا ہوں) اور ہوا کی طرف پیٹھ کرتا ہوں ہرن کی طرح (پنجوں پر زور دے کر) بیٹھتا ہوں اور شتر مرغ کی طرح پچھلا حصہ اوپر کواٹھاتا ہوں۔

اس بات کی اجازت ہے کہ انسان بارپردہ ہو کر کسی ساتھی کے قریب پیشاب کرے کیونکہ حضور علیہ السلام نے باوجود بہت زیادہ جیا کے ایسا کیا تاکہ لوگوں کے لیے یہ مسئلہ بیان کر دیں۔ (۱)

یعنی کبھی ایسی ضرورت ہو تو بارپردہ ہونے کی صورت میں قریب بیٹھ کر قضا کے حاجت میں کوئی حرج نہیں)

استنجا کا طریقہ | پھر اپنی پیشاب گاہ کو تین پتھروں سے صاف کرے (استنجا کرے) اگر ان سے صاف ہو جائے تو کافی ہے ورنہ چوتھا پتھر بھی استعمال کرے اگر پاک ہو جائے تو پانچواں پتھر بھی استعمال کرے کیونکہ پاک کرنا واجب ہے اور طاق پتھر استعمال کرنا سنت ہے۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:-

مَنْ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ (۲)

جو شخص پتھروں سے استنجا کرے تو وہ طاق پتھر استعمال کرے۔

پتھر اپنے بائیں ہاتھ میں لے اور اسے پیشاب گاہ کے اگلے حصے پر نجاست کی جگہ سے کچھ اگے رکھے اور اس سے پونچھتا ہوا پیچھے کی طرف لے جائے اور دوسرا پتھر لے کر اسے اسی طرح پچھلے حصے پر رکھے اور اسے اگے کی طرف لے جائے، پھر تیسرا پتھر لے کر اسے پیشاب گاہ کے گرد پھیرے اگر پھیرنا مشکل ہو اور اسے اگے کی طرف سے پھلی طرح پونچھ ڈالے تو بھی کافی ہے پھر اپنے دائیں ہاتھ میں ایک بڑا پتھر ڈھیلے لے اور بائیں ہاتھ میں اپنے عضو مخصوص کو پکڑ کر اس پر پتھر کو رکھے اور بائیں ہاتھ کو حرکت دے کر اسے (عضو مخصوص کو) تین بار ڈھیلے کی تین جگہوں کے ساتھ پونچھے یا دیوار کے تین مقامات سے صاف کرے یہاں تک کہ پونچھنے کی جگہ پر طوبت نظر نہ آئے اگر دو مرتبہ سے مقصود حاصل ہو جائے تو تین مرتبہ کرے اور اگر ایک ہی پتھر پر اکتفا کرے تو تین جگہ سے صاف کرنا واجب ہے اگر چار بار ایسا کرنے سے مقصود حاصل ہو جائے تو طاق بار پر عمل کرنے کے لیے پانچویں مرتبہ کرنا مستحب ہے۔ پھر یہاں سے ہٹ کر دوسری جگہ چلا جائے اور پانی کے ساتھ اس طرح استنجا کرے کہ دائیں ہاتھ سے نجاست کی جگہ پر پانی ڈالے۔ اور بائیں ہاتھ سے لے کر حتیٰ کہ ایسا اثر باقی نہ رہے کہ چھونے سے ہتھیلی کو اس کا احساس ہو۔ اور لہذا تک پہنچنے کے ذریعے مبالغہ آرائی چھوڑ دے کیونکہ یہ دوسو سوں کی جگہ ہے۔ اندر (باطن) سے مراد وہ جگہ ہے جہاں تک پانی نہیں پہنچتا اور باطنی فضلات جب تک ظاہر نہ ہوں ان پر نجاست کا حکم نہیں لگایا جاتا اور جو کچھ

ظاہر ہے اور اس کے لیے نجاست کا حکم ثابت ہے تو اس کے ظہور کی حد یہ ہے کہ وہاں تک پانی پہنچ کر اسے نازل کر دے
وسوسوں کی کوئی ضرورت نہیں۔

استنجاء سے فراغت کے بعد ان الفاظ کے ساتھ دعا مانگے۔

اللَّهُمَّ طَهِّرْ قَلْبِي مِنَ الْبِفَاقِ وَحَصْنِي

اے اللہ میرے دل کو منافقت سے پاک کر دے اور

میری شرمگاہ کو بے حیائی کے کاموں سے محفوظ فرما۔

فَرَجْنِي مِنَ الْغَوَا حَشِيٍّ -

پھرا اپنے ہاتھ کو زمین یا دیوار پر ملے تاکہ بدبو نازل ہو جائے اگر باقی ہوں آجکل صابن استعمال کرنا چاہیے، پتھروں اور پانی

دونوں سے استنجاء کرنا مستحب ہے جب یہ آیت کریمہ نازل ہوتی۔

وَفِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَّطَهَّرُوا بِاللَّهِ

اور اس (مسجد قبا) میں کچھ لوگ ہیں جو خوب پاک ہونا چاہتے

ہیں اور اللہ تعالیٰ خوب پاک ہونے والوں کو پسند کرتا ہے۔

يُحِبُّ الْمَطَهَّرِينَ - (۱)

تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل قبا سے پوچھا وہ کیا طہارت ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے تمہاری تعریف فرمائی ہے، انہوں

نے عرض کیا ہم پانی اور پتھر کو جمع کرتے ہیں (۲)

(دونوں کو استنجاء کے وقت استعمال کرتے ہیں)

جب استنجاء سے فارغ ہو جائے تو وضو میں مشغول ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ اسی طرح دیکھا

گیا کہ آپ قضائے حاجت سے فارغ ہو کر وضو فرماتے تھے۔ (الابتداء تعلیم امت کے لیے، کبھی آپ

نے اس وقت وضو کو چھوڑ بھی دیا ۱۲ ہزاروی) مسواک سے ابتدا کرے کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

إِنَّ أَوْفَاهَكُمْ طَرِيقَ الْقُرْآنِ قَطِيبُوهَا

بے شک تمہارے منہ قرآن پاک کے راستے میں پس انہیں

مسواک کے ساتھ پاک کرو۔

بِالسُّوَالِكِ (۳)

مسواک کرتے وقت نماز میں قرآن پاک کی قرأت اور اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے منہ کو پاک کرنے کی نیت کرنی چاہیے۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

مسواک (والے وضو) کے بعد نماز بغیر مسواک والی نماز

صَلَاةٌ عَلَىٰ أَنْزِلِ سِوَالِكٍ أَفْضَلُ مِنْ خَمْسِينَ

سے پچھتر درجے افضل ہے۔

وَسِتِّعِينَ صَلَاةً بغيرِ سِوَالِكٍ (۴)

(۱) قرآن مجید سورہ توبہ آیت ۱۰۸

(۲) کشف الاستار عن زوائد البزار باب الجمع بين الماء والحجر جلد اول ص ۱۳۱

(۳) حلیۃ الاولیاء جلد ۳ ص ۲۹۶ (۴) التبیہ جلد ۱ ص ۲۰۰

اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی ارشاد پاک ہے۔

لَوْلَا اَنَّ اَشَقَّ عَلٰى اُمَّتِيْ رَاَمَرْتُهُمْ بِالسُّوَاكِ
عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ - (۱)

اگر میں اپنی امت پر گراں نہ سمجھتا تو انہیں ہر نماز کے
وقت مسواک کا حکم دیتا۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :-
مَا لِيْ اَرَاكُمْ تَدْخُلُوْنَ عَلٰى قُلُوبِكُمْ اِسْتَاكُوْا -
کیا وجہ ہے کہ میں دیکھتا ہوں تو میرے پاس پیلے دانتوں
کے ساتھ آتے ہو، مسواک کیا کرو۔ (۲)

اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو بار بار مسواک کیا کرتے تھے (۳)
حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے فرماتے ہیں: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں مسلسل مسواک کا حکم دیتے
رہے حتیٰ کہ ہم نے خیال کیا عنقریب آپ پر اس سلسلے میں کچھ نازل ہوگا (۴)
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
عَلَيْكُمْ بِالسُّوَاكِ فَاِنَّهُ مَطَهْرَةٌ لِلنَّفْسِ
وَ مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ (۵)

تم پر مسواک لازم ہے یہ منہ کو پاک کرنے اور رب کی رضا
کا ذریعہ ہے۔

حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ تہ فرمایا:
مسواک جاننے کو بڑھائی اور بلغم کو دور کرتی ہے۔ اور صحابہ کرام کا طریقہ تھا کہ وہ صبح اس حالت میں نکلتے کہ مسواک ان کے
کانوں پر ہوتی۔ (۶)

مسواک کا طریقہ یہ ہے کہ پلو کی لکڑی یا کسی دوسرے درخت کی سخت لکڑی سے مسواک کرے جو دانتوں کی زردی کو دور کر دے۔
مسواک چوڑائی اور لمبائی دونوں طرح کر سکتا اگر ایک صورت اختیار کرے تو چوڑائی میں ہونی چاہیے۔
ہر نماز کے وقت اور ہر وضو کے وقت مسواک کرنا مستحب ہے اگرچہ اس وضو کے بعد نماز نہ پڑھے اور نیند کی وجہ سے

(۱) صحیح بخاری، کتاب الحجۃ جلد اول ص ۱۲۲

(۲) سند امام اعظم کتاب الطہارۃ ص ۲۳

(۳) مجمع الزوائد باب ماجاء فی السواک جلد ۲ ص ۹۹

(۴)

(۵) سند امام احمد بن حنبل جلد ۲ ص ۱۰۸ مرویات ابن عمر

۶۔ جامع ترمذی باب ماجاء فی السواک جلد اول ص ۲۰۔

جب منہ کی بو بدل جائے تو بھی مسواک کرے، زیادہ دیر تک کچھ نہ کھانے کی وجہ سے ناپ دیدہ بو والی چیز کھانے سے جو بو پیدا ہوتی ہے اسے زائل کرنے کے لیے مسواک کرنا بھی مستحب ہے۔

مسواک سے فارغ ہو کر وضو کے لیے قبلہ رخ بیٹھے اور "بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ" پڑھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو آدمی بسم اللہ نہ پڑھے اس کا وضو (کامل) نہیں۔ (۱)

اس وقت یہ کلمات پڑھے۔

(یا اللہ!) میں شیطان کے دوسوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں اور اے میرے رب میں ان کے حاضر ہونے سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔

اعُوْذُ بِكَ مِنْ مَّزَاتِ الشَّيْطَانِ
وَآثُوْذِيْكَ رَبِّ اَنْ يَّحْضُرُوْنَ - (۲)

پھر ہاتھوں کو برتن میں ڈالنے سے پہلے تین بار دھوئے۔ اور یہ الفاظ کہے۔

اے اللہ! میں تجھ سے برکت کا سوال کرتا ہوں اور بد بختی و ہلاکت سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُكَ الْیُمْنَّ وَالْبَرٰکَةَ
وَاعُوْذُ بِكَ مِنَ الشُّوْمِ وَالْهَلٰکَةِ - (۳)

پھر حدیث (بے وضو ہونا) کو دور کر کے یا جواز نماز کی نیت کرے اور چہرے کے دھونے تک نیت کو باقی رکھے (یاد رکھے) اگر چہرہ دھوتے وقت مھولی گیا تو یہ نیت کافی نہ ہوگی (۴)۔ پھر اپنے منہ کے لیے دائیں ہاتھ سے ایک چلو پانی لے اور اس سے تین بار کلی کرے اور غرغره کرے حلق تک پہنچائے (احسان کے نزدیک تین کلیوں کے لیے تین بار پانی لینا سنت ہے ۱۲ ہزاروی) روفہ دار ہو تو پانی حلق تک نہ پہنچائے۔ اور یہ دعا مانگے۔

کلی کرتے وقت کی دعا:

اے اللہ! اپنی کتاب کی تلاوت اور اپنے ذکر کی کثرت پر میری مدد فرما۔

اَللّٰهُمَّ اَعِنِّیْ عَلٰی تِلَاوَةِ کِتَابِکَ وَکَثْرَةِ
الذِّکْرِ لَکَ -

پھر ناک کے لیے ایک چلو پانی لے اور تین مرتبہ پانی چڑھائے (احسان کے نزدیک تین بار پانی لینا ہوگا) سانس لے کر پانی ناک کے نمنوں تک کھینچنے اور پھر اس میں جو کچھ ہے اسے جھاڑ دے اور یہ الفاظ کہے۔

ناک میں پانی چڑھاتے وقت کی دعا:

(۱) جامع ترمذی باب التسمیۃ من الوضوء جلد اول ص ۲۰

(۳)

(۲)

(۴) احسان کے نزدیک وضو کے لیے نیت ضروری نہیں ۱۲ ہزاروی

اے اللہ! میرے لیے جنت کی خوشبو بنا دے اس حال میں کہ تو مجھ سے راضی ہو۔

اللَّهُمَّ ارْجِدْ لِي رَائِحَةَ الْجَنَّةِ وَأَنْتَ عَنِّي رَاضٍ -

ناک جھاڑنے وقت کی دعا:

اے اللہ! میں جہنم کی بوؤں اور بُرے گھڑے تیری پناہ چاہتا ہوں۔

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ رَدَائِحِ الْمَسَارِ وَمِنْ سُوءِ الْبَدَنِ -

استننان پانی پہنچانے اور استنثار ناک جھاڑنے کو کہتے ہیں۔ پھر اپنے چہرے کے لیے چلو بھرے اور پیشانی کی سطح ریشروں ہونے کی جگہ سے ٹھوڑی کے نیچے تک لمبائی میں اور ایک کان کی تو (نرم جگہ) سے دوسرے کان کی تو تک پورائی میں دھوئے۔ پیشانیوں کے دونوں کناروں پر بال چھڑنے کی جگہ چہرے میں داخل نہیں وہ سر کا حصہ ہیں۔ اور اس جگہ تک بھی پانی پہنچائے جہاں سے عورتیں بال ہٹاتی رہتی ہیں۔ یہ وہ مقدار ہے کہ اگر کسی دھاگے کا ایک سر کان کے اوپر رکھیں اور دوسرا پیشانی کے کنارے پر تو یہ حصہ چہرے کی طرف رہ جاتا ہے چار قسم کے بالوں کے اگنے کی جگہ تک پانی پہنچائے وہ ابرو، مونچھیں، رخسار رکازوں کے مقابل چہرے کے بال، اور نکلپیں ہیں کیوں کہ عام طور پر یہ کم ہوتے ہیں، پتلی داڑھی کے اگنے کی جگہ میں پانی پہنچانا واجب ہے یعنی اس کے مقابل چہرے تک پہنچائیں گھنی داڑھی میں یہ حکم نہیں ہے نچلے ہونٹ کے نیچے کی جگہ بالوں کے پتلے اور گھنے ہونٹے ہیں داڑھی کے حکم میں ہے۔ پھر وہ تین مرتبہ اسی طرح کرے یا وہ لٹکی ہوئی داڑھی کے ظاہر پر پانی بہائے آنکھ کے خانے نیز میل اور سر میں جمع ہونے کی جگہ میں انگلیاں داخل کرے ان دونوں جگہوں کو صاف کرے روایت میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کیا کرتے تھے (۱)

اس وقت آنکھوں سے گناہوں کے نکلنے کی امید کرے ہر عضو کو دھوتے وقت یہی تصور کرے۔

چہرہ دھوتے وقت دعا:

اور اس وقت یہ دعا مانگے۔

اے اللہ! اپنے نور سے میرے چہرے کو روشن کر دینا جس دن تیرے دستوں کے چہرے روشن ہوں گے اور جس دن تیرے دستوں کے چہرے سیاہ ہوں گے اس دن میرے چہرے کو سیاہ نہ کرنا۔

اللَّهُمَّ بَيِّنْ وَجْهِي بِنُورِكَ يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهُ أَوْلِيَاءِكَ وَتَسْوَدُّ وُجُوهُ يَسْرَمٍ تَسْوَدُّ وُجُوهُ أَعْدَائِكَ -

چہرہ دھوتے وقت گھنی داڑھی کا خدال کرے کیونکہ یہ مستحب ہے پھر ہاتھوں (بازوؤں) کو کہنیوں سمیت تین مرتبہ دھوئے

اور انگوٹھی کو حرکت دے اور اعضاء کی چمک کو زیادہ کرتے ہوئے بازوؤں کے اوپر تک لے جائے بے شک یہ اعضاء قیامت کے دن وضو کے نشانات سے چمکتے ہوئے روشن ہوں گے حدیث شریف میں اسی طرح آیا ہے۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

مَنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يُطِيلَ عَزَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ (۱)

جو آدمی اپنی چمک کو زیادہ کر سکتا ہو وہ اسی طرح کرے۔

ایک روایت میں ہے:

أَنَّ الْحَلِيَّةَ تَبْلُغُ مَوَاضِعَ الْمَوْضِعِ (۲)

بے شک (قیامت کا) زیور، وضو کی جگہوں تک پہنچے گا۔

دایاں بازو دھوتے وقت کی دعا:

دایاں ہاتھ سے شروع کرے اور یوں کہے۔

اللَّهُمَّ اعْطِنِي كِتَابِي بِمَيْمَنِي وَحَسَابِي

اے اللہ! میرا اعمال نامہ میرے دایاں ہاتھ میں دینا

اور میرا حساب آسانی سے لینا۔

حِسَابًا بَسِيرًا

بایاں بازو دھوتے وقت کی دعا:

بایاں بازو دھوتے وقت یوں کہے۔

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ تُعْطِنِي كِتَابِي

اے اللہ! میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ تو مجھے میرا اعمال نامہ

بایاں ہاتھ میں یا پیٹھ کے پیچھے سے دے۔

بِشِمَالِي أَوْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِي -

پھر لوپ سے سر کو مسح سے گھیرے یعنی ہاتھوں کو تر کر کے دایاں ہاتھ کی انگلیوں کو بائیں ہاتھ کی انگلیوں سے ملائے اور

ادرا نہیں سر کے اگلے حصے پر رکھے پھر انہیں پھلے حصہ کی طرف لے جائے پھر اگلے حصہ کی طرف لائے یہ ایک مسح ہے اسی

طرح تین مرتبہ کرے (ایک پانی سے تین مرتبہ کر سکتا ہے تینوں مرتبہ جدید پانی لینا صحیح نہیں ۱۲ ہزاروی)

سر کا مسح کرتے وقت کی دعا:

اس وقت یہ دعا مانگے:

اللَّهُمَّ اغْنِنِي بِرَحْمَتِكَ وَأَنْزِلْ عَلَيَّ مِنْ

اے اللہ! مجھے اپنی رحمت سے ڈھانپ دے مجھ پر اپنی

برکتیں نازل فرما اور جس دن صرف تیرا سایہ ہوگا مجھے اپنے

عرش کے سائے کے نیچے رکھنا۔

بَرَكَاتِكَ وَأُظِلَّنِي تَحْتَ عَرْشِكَ يَوْمَ

رَوْظِ الْأَذْلَلِ -

(۱) صحیح بخاری کتاب الوضوء جلد اول ص ۲۵

(۲) صحیح مسلم کتاب الطہارہ جلد اول ص ۱۲۷

پھرنے پانی سے کانوں کے باہر و باطن کا مسح کرے (احناف کے نزدیک سر کے پانی سے ہی کانوں کا مسح کرے ۱۲ ہزاروی) شہادت کی انگلیوں کو کانوں کے سوراخوں میں ڈال کر انگلیوں کو کانوں کے باہر والے حصے پر پھیرے پھر اعتیاد کے طور پر ہتھیلی دونوں کانوں پر رکھے اور تین بار اس طرح کرے۔

کانوں کے مسح کے وقت دعا:

اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ
الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ اللَّهُمَّ اسْمِعْنِي
مِنَادِيَ الْجَنَّةِ مَعَ الْأَبْدَارِ۔

اے اللہ! مجھے ان لوگوں میں سے کر دے جو بات کو غور سے سنتے ہیں پھر ان میں سے اچھی بات کی اتباع کرتے ہیں یا اللہ مجھے نیک لوگوں کے ساتھ جنت کے منادی کی آواز سنادے۔

پھرنے پانی کے ساتھ گردن کا مسح کرے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔
رَمَسِحُ الرَّقَبَةِ أَمَانٌ مِنَ الْغَلِّ يَوْمَ
الْقِيَامَةِ۔ (۱)

گردن کا مسح کرنے کے وقت کی دعا:

مسح کرتے وقت ان الفاظ کے ساتھ دعا مانگیے۔
اللَّهُمَّ فَكْ رَقَبَتِي مِنَ النَّارِ وَأَعُوذُ بِكَ
مِنَ السَّلَاةِ سِلِّ وَأَلِّهِ غَلَاةٍ۔

اے اللہ! میری گردن کو آگ سے آزاد کر دے اور میں طوق اور زنجیروں سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔

پھر دایاں پاؤں دھوئے اور بائیں ہاتھ کے ساتھ دائیں پاؤں کی انگلیوں کا نیچے سے اوپر کی طرف غللا کرے دایں پاؤں کی چھوٹی انگلی سے شروع کر کے بائیں پاؤں کی چھوٹی انگلی پر ختم کرے اور یہ کلمات کہے۔

دایاں پاؤں دھوتے وقت کی دعا:

اللَّهُمَّ نَبِّتْ قَدَمِي عَلَى الصِّرَاطِ يَوْمَ تَنْزِلُ
أَلْقُدَامُ فِي النَّارِ۔

اے اللہ! جس دن قدم پھسل کر (لوگ) جہنم میں جائیں گے تو میرے قدم کو قائم رکھا۔

بایاں پاؤں دھوتے وقت کی دعا:

أَعُوذُ بِكَ أَنْ تَنْزِلَ قَدَمِي عَنِ الصِّرَاطِ يَوْمَ
تَنْزِلُ فِيهِ أَقْدَامُ الْمُنَافِقِينَ۔

اے اللہ! میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ پہلے صراط سے میرے قدم پھسلیں جس دن منافقین کے قدم پھسلیں گے۔

ریاؤں دھوتے وقت پانی نصف ہنڈی تک پہنچائے۔

جب وضو سے فارغ ہو جائے تو آسمان کی طرف سر اٹھاتے ہوئے یوں کہے۔

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ
سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ عَمِلْتُ سُوءًا وَظَلَمْتُ نَفْسِي
أَسْتَغْفِرُكَ اللَّهُمَّ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ فَاعْفُ عَنِّي وَتُبْ عَلَيَّ
الْحَبِيبُ اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ وَاجْعَلْنِي مِنْ
عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ وَاجْعَلْنِي عَبْدًا صَبُورًا شَكُورًا
وَاجْعَلْنِي أَذْكَرَ كَثِيرًا وَاسْبِحْكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا -

ہیں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں اسے اللہ میں تیری حمد کے ساتھ تیری پاکیزگی بیان کرتا ہوں تیرے سوا کوئی معبود نہیں میں نے بے اعمال کئے اور اپنے نفس پر ظلم کیا اسے اللہ! میں تجھ سے بخشش کا طالب ہوں اور تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں ابھی بخش و سکا و میری توبہ قبول فرما بے شک توبہ بہت توبہ کرنے والا مہربان ہے اسے اللہ مجھے بہت توبہ کرنے والوں میں سے کر دے اور خوب پاک ہونے والوں میں سے بنا دے مجھے اپنے نیک بندوں میں

شامل فرما مجھے صبر و شکر کرنے والا بندہ بنا دے مجھے یوں

کر دے کہ میں تیرا بہت زیادہ ذکر کروں اور صبح و شام تیری پاکیزگی بیان کروں، کہا گیا ہے کہ جو شخص وضو کے بعد یہ کلمات پڑھے تو اس کے وضو پر گہر لگا دی جاتی ہے اور اسے عرش کے نیچے اٹھایا جاتا ہے وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تقدیس بیان کرتا ہے اور اس کے لئے قیامت تک ثواب لکھا جاتا ہے۔

مکروہات وضو:

وضو میں چند باتیں مکروہ ہیں۔

۱۔ اعضا کو تین بار سے زیادہ دھونا جس نے اس پر اضافہ کیا اس نے ظلم کی ضرورت سے زیادہ پانی خرچ کرنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تین تین بار اعضا کو دھویا اور فرمایا جس نے زیادہ کیا اس نے ظلم اور گناہ کیا۔ (۱)

آپ نے یہ بھی فرمایا:

سَيَكُونُ قَوْمٌ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ يَعْتَدُونَ فِي

الدُّعَاءِ وَالطُّهُورِ (۲)

عنقریب اس امت میں ایک ایسا گروہ ہوگا جو دعا اور وضو میں حد سے بڑھیں گے۔

(۱) سنن ابن ماجہ الباب الطہارة ص ۳۲ (۲) مستدرک للحاکم کتاب الطہارة جلد اول ص ۱۶۲

اور کہا گیا ہے کہ وضو میں زیادہ پانی خرچ کرنا آدمی کے علم میں کمی کی علامت ہے حضرت ابراہیم بن ادھم رحمہ اللہ نے فرمایا
کہا جاتا ہے کہ دوسوں کی ابتداء وضو سے ہوتی ہے۔

حضرت حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں قطعاً نامی شیطان وضو کے وقت انسان پڑھتا ہے ہاتھ جھاڑتے ہوئے پانی
کو دُور کرنا مکروہ ہے، وضو کے دوران گفتگو کرنا اور چہرے پر زور زور سے پانی مارنا بھی مکروہ ہے کچھ حضرات نے (اعضاء کو)
خشک کرنا بھی مکروہ خیال کیا ہے انہوں نے فرمایا وضو کا وزن کیا جائے گا یہ بات حضرت سعید بن مسیب اور حضرت امام زہری
نے فرمائی ہے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرے کو کپڑے کے ایک کنارے
سے پونچھا (۱)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک تولیہ تھا۔ (۲)

لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی اس روایت پر جرح کی گئی ہے۔ پتیل کے برتن سے وضو کرنا بھی مکروہ ہے اسی
طرح دھوپ میں گرم کئے گئے پانی سے بھی مکروہ ہے اور یہ کرامت اطبی اعتبار سے ہے۔ حضرت ابن عمر اور حضرت ابو ہریرہ
رضی اللہ عنہم سے پتیل کے برتن کی کرامت مروی ہے بعض حضرات نے فرمایا کہ حضرت شعبہ رضی اللہ عنہ کے پاس پتیل کے برتن
میں پانی تھا تو انہوں نے اس سے وضو کرنے سے انکار کر دیا اور حضرت ابن عمر اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہم سے اس
کی کرامت نقل کی۔

جب وضو سے فارغ ہو کر نماز کی طرف متوجہ ہو تو اس کے دل میں یہ خیال ہونا چاہیے کہ وہ ظاہری طور پر پاک ہو چکا ہے
یعنی جہاں لوگوں کی نظر پڑتی ہے تو اب دل کو پاک کئے بغیر اللہ تعالیٰ کے ساتھ مناجات سے حیا کرنا چاہیے کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ
کے دیکھنے کی جگہ ہے۔

اور اسے یہ بات سمجھ لینا چاہیے کہ دل کی طہارت توبہ کرنے اور برے اخلاق کو چھوڑنے سے ہوتی ہے اور اچھے اخلاق
کو اپنانا زیادہ بہتر ہے جو آدمی ظاہری طہارت پر اکتفا کرتا ہے وہ اس شخص کی طرح ہے جو بادشاہ کو اپنے گھر بلانے کا ارادہ
کرتا ہے تو اسے شجاستوں سے آلودہ چھوڑ دیتا ہے جب کہ گھر کے باہر والے حصے پر چونا پھیرنے میں مشغول ہو جاتا ہے تو یہ
شخص شاہی غصے اور غضب کا کس قدر مستحق ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔

وضو کی فضیلت:

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

(۱) جامع الترمذی جلد اول ص ۳۴ ابواب الطہارۃ

(۲) جامع الترمذی جلد اول ص ۳۴ ابواب الطہارۃ

جس نے اچھی طرح وضو کر کے دو رکعتیں پڑھیں اور اس دوران کوئی دنیاوی بات دل میں نہ لایا تو وہ گناہوں سے اس طرح نکل جاتا ہے جیسے اس دن تھا جب اس کی ماں نے اسے جنا۔

دوسری روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ ان دو رکعتوں میں وہ نہ جھولتا تو اس کے گذشتہ گناہ بخش دیئے جاتے گے۔

کیا میں نہیں اس چیز کی خبر نہ دوں جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ خطاؤں کو مٹاتا اور درجات کو بلند کرتا ہے تکالیف میں مکمل وضو کرنا، پیدل چل کر مساجد کی طرف جانا اور نماز کے بعد نماز کی انتظار کرنا یہ جہاد ہے۔

مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ التَّوَضُّعَ وَصَلَّى رَكَعَتَيْنِ
لَمْ يُحَدِّثْ نَفْسَهُ مِنْهُمَا شَيْئًا مِنَ الدُّنْيَا
خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمِهِ وَوَلَدَتْهُ أُمَّةٌ - (۱)

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی فرمایا:
أَلَا نَبِيُّكُمْ فَمَا يَكْفُرُ اللَّهُ بِهِ الْخَطِيَا وَ
يُرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ إِسْبَاحُ التَّوَضُّعِ عَلَى
الْمَكَارَةِ وَتَقَلُّ الْأَقْدَامِ إِلَى الْمَسَاجِدِ
وَإِنْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ قَدْ لَكُمْ
الذَّبَابُ - (۲)

آخری جملہ تین بار فرمایا:

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک بار (اعضاء کو دھو کر) وضو فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ اس وضو کے بغیر اللہ تعالیٰ نماز کو قبول نہیں کرتا، دو بار (اعضاء کو دھو کر) وضو فرمایا اور فرمایا جس نے وضو میں اعضا کو دو بار دھویا اللہ تعالیٰ اسے دو گنا اجر عطا فرمائے گا اور تین تین بار (اعضاء کو دھو کر) وضو فرمایا اور ارشاد فرمایا یہ میرا، مجھ سے پہلے انبیاء کرام علیہم السلام اور اللہ تعالیٰ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وضو ہے۔ (۳)

جو شخص وضو کے وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے تمام جسم کو پاک کر دیتا ہے اور جو آدمی اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس سے وہی حصہ پاک کرتا ہے جس تک پانی پہنچتا ہے۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:
مَنْ ذَكَرَ اللَّهَ عِنْدَ وَصْوَيْهِ طَهَّرَ اللَّهُ
جَسَدَهُ كُلَّهُ وَمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ لَمْ يَطْهَرِ
مِنْهُ إِلَّا مَا أَصَابَ الْمَاءَ - (۴)

(۱) مسند امام احمد بن حنبل جلد ۲ ص ۱۵۸ روایت عقبہ بن عامر (۲) صحیح مسلم جلد اول ص ۱۲۴

(۳) سنن ابن ماجہ ص ۲۴ باب ماجاء فی الوضوء مرة او مرتین

(۴) سنن دارقطنی جلد اول ص ۴۴ باب التسمیة علی الوضوء

اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
مَنْ تَوَضَّأَ عَلَيَّ طَهَّرَ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ عَشْرَ
حَسَنَاتٍ (۱)

جو شخص با وضو ہونے کے باوجود وضو کرے اللہ تعالیٰ اکل
کے لیے دس نیکیاں لکھ دیتا ہے۔

اور آپ نے ارشاد فرمایا:

الْوُضُوءُ عَلَيَّ الْوُضُوءُ نُورٌ وَعَلَيَّ نُورٌ (۲)

وضو پر وضو، نور پر نور ہے۔

یہ تمام روایات نئے وضو کی ترغیب دیتی ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

إِذَا تَوَضَّأَ الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ فَتَمَضَّضَ

جب مسلمان بندہ وضو کرتا ہے تو کلی کرتے وقت اس

کے منہ سے گناہ نکل جاتے ہیں جب ناک جھڑاتا ہے

تو اس کے ناک سے گناہ جھڑ جاتے ہیں جب اپنا چہرہ

دھوتا ہے تو اس کے چہرے سے گناہ اتر جاتے ہیں حتیٰ کہ

آنکھوں کی پلکوں سے اتر جاتے ہیں جب اپنے ہاتھ دھوتا

ہے تو اس کے ہاتھوں سے گناہ خارج ہو جاتے ہیں حتیٰ کہ

اس کے ناخنوں کے نیچے سے نکل جاتے ہیں جب اپنے

سر کا سچ کرتا ہے تو سر سے گناہ نکل جاتے ہیں حتیٰ کہ کانوں

کے نیچے سے خارج ہو جاتے ہیں اور جب پاؤں دھوتا

ہے تو پاؤں سے گناہ نکل جاتے ہیں حتیٰ کہ پاؤں کے ناخنوں

کے نیچے سے نکل جاتے ہیں پھر اس کا مسجد کی طرف جانا

اور نماز پڑھنا زیادہ ثواب کا باعث ہوتا ہے۔ (۳)

ایک روایت میں ہے:

أَنَّ الطَّاهِرَ كَأَنَّ لَصَائِمًا (۴)

وضو کرنے والا روزے دار کی طرح ہے۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

(۱) سنن ابن ماجہ ص ۳۹ باب الوضوء علی طہارة۔

(۲) الاسرار المرفوعہ ص ۲۵۹ حدیث نمبر ۱۰۲۶۔

(۳) مستدرک للحاکم جلد اول ص ۱۲۹، کتاب المطہارة (۴) الفردوس بما تورا الخطاب جلد ۲ ص ۶۳۳ حدیث نمبر ۲۹۸۔

جس نے اچھی طرح وضو کیا پھر اپنا سر آسمان کی طرف اٹھا
 کر کلمہ شہادت پڑھا اس کے لیے جنت کے آٹھوں
 دروازے کھولے جاتے ہیں جس دروازے سے
 چاہے داخل ہو۔

مَنْ لَوَّمَانَا حَسَنَ الْوُضُوِّ ثُمَّ رَفَعَ طَرْفَهُ
 إِلَى السَّمَاءِ فَقَالَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا
 اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ
 مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ فُتِّحَتْ لَهُ
 أَبْوَابُ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةِ يَدْخُلُ مِنْ
 أَيِّهَا شَاءَ۔

(۱)

حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، "اچھا وضو سچے شیطان کو دُور کر دیتا ہے" حضرت مجاہد فرماتے ہیں جو شخص
 طاقت رکھتا ہو کہ وضو، ذکر اور استغفار کے ساتھ رات گزارے تو اسے ایسا کرنا چاہیے کیونکہ جس عمل پر رُوحیں قبض کی جاتی ہیں
 اسی پر اٹھائی جائیں گے۔

غسل کا طریقہ | غسل کرنے والا، برتن کو اپنی دائیں جانب رکھے پھر اللہ تعالیٰ کا نام لے کر تین بار ہاتھ دھوئے پھر استنجا
 کرے جس کا طریقہ بیان ہو چکا ہے۔ اگر بدن پر نجاست ہو تو اسے دور کر دے پھر نماز کے وضو جیسا
 وضو کرے جس طرح ہم بیان کر چکے ہیں البتہ پاؤں کا دھونا مؤخر کرے اگر دھو کر پھر انہیں زمین پر رکھے گا تو یہ پانی کو ضائع کرنا
 ہے، پھر تین بار سر پر پانی ڈالے پھر دائیں پہلو پر تین بار پھر بائیں پہلو پر تین بار ڈالے پھر جسم کو آگے پیچھے سے نلے، سر اور دائیں
 کے بالوں کا خدال کرے اور بال گھنے ہوں یا تیلے ان کے اُگنے کی جگہ تک پانی پہنچائے عورت پر منڈھیوں کو کھولنا لازم نہیں
 البتہ جب معلوم ہو کہ بالوں کے درمیان پانی نہیں پہنچے گا (تو کھولنا ضروری ہوگا)۔

جسم کی سلوٹوں کا خاص خیال رکھے (وہاں احتیاط سے پانی پہنچائے) غسل کے دوران عضو مخصوص کو ہاتھ لگانے سے بچے
 اگر ایسا کرے تو وضو لوٹائے (احناف کے نزدیک عضو مخصوص کو ہاتھ لگانے سے وضو نہیں لوٹتا لہذا دوبارہ وضو کی ضرورت نہیں
 ۱۲ ہزاروی)

اگر غسل سے پہلے وضو کی ہو تو غسل کے بعد دوبارہ وضو نہ کرے وضو اور غسل کی سنتوں میں سے وہ باتیں جن کا جاننا اور ان پر
 عمل کرنا آخرت کے راستے پر چلنے والے کے لیے ضروری ہیں ہم نے بیان کر دی ہیں اس کے علاوہ جن مسائل کی مختلف اوقات
 میں ضرورت پڑتی ہے ان کے لیے کتب فقہ کی طرف رجوع کرو۔

جو کچھ ہم نے غسل کے بارے میں لکھا ہے ان میں سے دو باتیں نیت اور پورے بدن کو گھیرنا واجب ہے (احناف کے
 نزدیک غسل میں تین فرض ہیں کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا اور تمام بدن کو دھونا ۱۲ ہزاروی)۔

ومنو کے فرض یہ ہیں نیت کرنا، چہرے کو دھونا، ہاتھوں کو کہنیوں سمیت دھونا، جتنے حصے کو سر کہا جاسکتا ہے اتنے حصے کا مسح کرنا، دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا اور ترتیب، مسلسل دھونا واجب نہیں۔

(نوٹ: حقیقی نیت کے مطابق وضو میں صرف چار فرض ہیں چہرے کو دھونا، ہاتھوں کو کہنیوں سمیت دھونا، سر کے چوتھے حصے کا مسح کرنا اور پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا ۱۲ ہزاروی)

فرض غسل چار ہیں، (شہوت کے ساتھ) منی کے نکلنے سے، (مرد دعوت کی) شرم بگاہوں کے کسی رکاوٹ کے بغیر نلنے سے، عین اور نفاس (کے ختم ہونے) سے، اس کے علاوہ غسل سنت ہیں۔ جیسے دونوں عمدوں، جمعۃ المبارک، احرام، عرفات اور مزدلفہ میں وقوف اور نیکہ مکہ میں داخل ہونے کے لیے غسل کرنا۔ ایک قول کے مطابق ایام تشریح میں اور طوان وداع کے لیے غسل کرنا۔ کافر جب مسلمان ہو اور عیبی نہ ہو، پاگل کو جب افاقہ ہو، جو آرمی میت کو غسل دے ان سب کے لیے غسل مستحب ہے (احناف کے نزدیک میت کو غسل دینا زندہ لوگوں پر واجب ہے ۱۲ ہزاروی)

تیمم کا طریقہ | اگر کوئی شخص پانی استعمال کرنے پر قادر نہ ہو اس لیے کہ اسے تلاش کے باوجود نہیں ملا یا وہ کسی درختے یا کسی دوسری رکاوٹ کی وجہ اس تک پہنچ نہیں سکتا یا پانی موجود ہے لیکن اپنی پیاس یا اپنے ساتھی کی پیاس کی وجہ سے پانی کی ضرورت ہے یا وہ کسی دوسرے کی ملکیت ہے اور وہ عام قیمت سے زیادہ پر بیچتا ہے یا اسے کوئی زخم یا بیماری ہے کہ پانی استعمال کرنے سے عضو کے خراب ہونے یا بہت زیادہ کمزوری کا ڈر ہو تو وہ صبر کرے حتیٰ کہ فرض نماز کا وقت داخل ہو جائے پھر وہ پاک مٹی کا ارادہ کرے جس پر باریک نرم مٹی ہو کہ غبار جھڑتی ہو اب اپنی انگلیوں کو ملا کر اس پر دونوں ہاتھوں کو مارے اور ایک مرتبہ پورے چہرے کا مسح کرے اور اس وقت نماز کے جائز ہو جانے کی نیت کرے۔ (نوٹ: مٹی پر غبار شرط نہیں البتہ کسی دوسری چیز پر غبار ہو مثلاً کسی دری یا صندوق پر تو اس سے بھی تیمم کیا جاسکتا ہے ۱۲ ہزاروی)

بال گھنے ہوں یا پتلے ان کے نیچے تک پانی پہنچانے کے لیے تکلیف نہ کرے اور کوشش کرے کہ غبار کے ساتھ پورے چہرے کو گھیرے یہ بات ایک بار ہاتھ مارنے سے حاصل ہو جائے گی۔ کیونکہ چہرے کی چوڑائی ہتھیلیوں کی چوڑائی سے زیادہ نہیں۔ گھرنے میں غالب گمان کافی ہے پھر انگوٹھی اتار کر دوسری ضرب مارے اور انگلیوں کے درمیان کشادگی رکھے اس کے بعد دائیں ہاتھ کی انگلیوں کے ظاہر کو بائیں ہاتھ کی انگلیوں کے اندر والے حصے سے یوں ملائے کہ ایک طرف سے پوروں کے کنارے دوسرے ہاتھ کی شہادت کی انگلی سے باہر نہ ہو پھر بائیں ہاتھ کو جس طرح رکھا ہے اس طرح دائیں بازو کے ظاہر پر پھرے پھر بائیں ہتھیلی اٹھ کر دائیں بازو کے باطن پر پھرے اور کلائی تک لے آئے بائیں ہاتھ کے انگوٹھے کے اندر والے حصے کو دائیں ہاتھ کے انگوٹھے کے ظاہر پر پھرے پھر بائیں بازو کے ساتھ بھی اسی طرح کرے پھر ہتھیلیوں کا مسح کر کے انگلیوں کے درمیان خلائل کرے۔

اس تکلیف کا مقصد یہ ہے کہ ایک ہی ضرب کے ساتھ کہنیوں تک گھیرنا پایا جائے اگر اس پر یہ عمل مشکل ہو جائے تو دو یا زیادہ ضربوں سے گھیر لے میں کوئی حرج نہیں جب تیمم کے ساتھ فرض نماز پڑھے تو اس سے نفل بھی پڑھ سکتا ہے جیسے چاہے جب دوسری فرض نماز پڑھنا چاہیے تو تیمم لوٹانا چاہیے اسی طرح ہر فرض نماز کے لیے الگ تیمم کرے (احناف کے نزدیک ایک تیمم سے جتنی نمازیں چاہے پڑھ سکتا ہے کیونکہ تیمم وضو کے قائم مقام ہے۔ ۱۲ ہزاروی۔

تیسری قسم:

ظاہری نجاستوں سے پاکیزگی حاصل کرنا

اس کی دو قسمیں ہیں۔ (۱) میل (۱۱۵ جزائے جسم)

(۱) سر میں جو میل اور جوہیں جمع ہو جاتی ہیں ان سے پاکیزگی حاصل کرنا دھونے، کنگھی کرنے اور تیل لگانے کے ذریعے، مستحب ہے تاکہ بالوں کا الجھاؤ ختم ہو جائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی سر انور میں تیل ڈالتے اور کنگھی کرتے تھے (۱) نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کا حکم بھی دیتے اور فرماتے۔

رَأْدِهُنَّوَاغْبَاءً۔ (۲) کبھی کبھی تیل لگایا کرو۔

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،

مَنْ كَانَ كَشَعْرَةٍ فَلْيَكْرِمْهَا۔ (۳) جس کے بال ہوں تو وہ اس کی عزت کرے۔

مطلب یہ ہے کہ انہیں میل کچیل سے بچائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص حاضر ہوا اس کے سر کے بال اور داڑھی بکھری ہوئی تھی آپ نے فرمایا کیا اس کے پاس تیل نہیں کہ وہ اس کے ذریعے بالوں کو بٹھا دیتا پھر فرمایا تم میں سے کوئی آتا ہے گویا وہ شیطان ہے (۲)

(۲) کانوں کی سلوٹوں میں جمع ہونے والی میل کچیل، اس سے جو ظاہر ہے وہ مسح کے ذریعے دور ہو جاتی ہے اور جو سوراخ کی گہرائی میں جمع ہوتی ہے تو نفل خانہ سے نکلتے وقت اسے نرمی کے ساتھ صاف کیا جائے کیونکہ بعض اوقات اس کی کثرت سماعت کو نقصان پہنچاتی ہے۔

(۳) ناک کے اندر جمع ہونے والی رطوبتیں جو اس کے کناروں سے ملی ہوتی ہیں انہیں ناک میں پانی چڑھا کر جھاڑنے کے

(۱) جامع ترمذی جلد ۲ ص ۵۰۰ البواب الشامل

(۲) جامع ترمذی جلد ۲ ص ۵۰۰ البواب الشامل

(۳) سنن ابی داؤد جلد ۲ ص ۲۱۸ کتاب التریل۔

(۴) مؤطا امام مالک ص ۲۲ کتاب الجامع باب اصلاح الشعر

ذریعے صاف کرے۔

(۴) دانتوں پر اور زبان کے کناروں پر جو میل جمی ہوتی ہے اسے سواک اور کھلی کے ذریعے دور کرے اور ہم ان دونوں کا ذکر کر چکے ہیں۔

(۵) داڑھی کا خیال نہ رکھنے کی وجہ سے اس میں جو میل اور جوئیں جمع ہو جاتی ہیں انہیں دھونے اور کنگھی کرنے کے ذریعے دور کرنا مستحب ہے مشہور حدیث میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفر و حضر میں کنگھی، سر کو کھلانے کا آلہ اور شیشہ اپنے پاس ضرور رکھتے تھے۔ (۱)

اور یہ عربوں کا طریقہ ہے ایک حدیث غریب (معروف کے مقابلے میں غریب) میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میں دو بار داڑھی مبارک کو کنگھی کرتے تھے۔ (۲)

اور آپ کی داڑھی مبارک گھنی تھی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داڑھی مبارک بھی اسی طرح تھی۔ جب کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی داڑھی مبارک لمبی اور پتلی تھی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی داڑھی مبارک چوڑی تھی جو دوکاندھوں کے درمیان (یعنی سینہ مبارک) کو بھر دیتی تھی۔ (۳)

اس سے بھی غریب حدیث میں حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں "رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر کچھ لوگ جمع ہو گئے۔ تو آپ ان کی طرف تشریف لائے میں نے دیکھا کہ آپ پانی کے ٹھکے میں جھانک کر اپنے سر اور داڑھی کو کنگھی کر رہے تھے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا آپ ایسا کر رہے ہیں فرمایا ہاں بے شک اللہ تعالیٰ اس آدمی کو پسند کرتا ہے جو اپنے (مسلمان) بھائیوں کی طرف ہنسنے نکلتا ہے۔ (۴)

جاہل شخص کبھی خیال کرتا ہے کہ یہ تو لوگوں کے لئے زیب و زینت اختیار کرنا ہے اور وہ اسے دوسروں کی عادات پر قیاس کرتا ہے اور فرشتوں (اعلیٰ درجہ کے لوگوں) کو لوہاروں (نیچلے درجے کے لوگوں) سے تشبیہ دیتا ہے۔ کس قدر عقل سے دور خیال ہے۔

حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ اسلام کا حکم تھا اور آپ کی ذمہ داری تھی کہ آپ ان کے دلوں میں اپنی عظمت کو جاگزیں کریں تاکہ ان کے دلوں میں آپ کی عظمت کم نہ ہو اور ان کی نظروں میں اپنی صورت کو عمدہ کریں تاکہ ان کی نگاہوں میں

(۱) کنز العمال جلد ۷ ص ۱۰۱ حدیث ۱۸۱۶۱

(۲)

(۳) جامع الترمذی جلد ۲ ص ۵۶۸ ابواب الشمائل

(۴)

آپ کی تحقیر نہ ہو اور نفرت پیدا نہ ہو (۱)

اور منافقین لوگوں کے دلوں میں آپ سے نفرت پیدا کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔

اور یہ وہ عالم جو لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتا ہے اس پر بھی یہی طریقہ اختیار کرنا لازم ہے۔ اسے چاہیے کہ ظاہر میں ان امور کا خیال رکھے جو لوگوں کے دلوں سے اس سے نفرت پیدا کریں اس قسم کے امور پر اعتماد کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے اور یہ اعمال ذاتی طور پر مقصود سے اوصاف حاصل کرتے ہیں۔

تو اس نیت سے زینت اختیار کرنا پسندیدہ ہے جب کہ داخلہ کے بالوں کو اس نیت سے پرانگندہ چھوڑا جائے کہ لوگ سمجھیں یہ زیادہ ہے اور نفس کی طرف زیادہ متوجہ نہیں ہے تو یہ بات ممنوع ہے البتہ اس سے اہم کام میں مشغولیت کی وجہ سے اسے چھوڑنا اچھا ہے اور یہ احوال باطنیہ اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان ہیں اور عقلمند منداہجی طرح سمجھتا ہے لہذا منافقت کسی حال میں بھی سود مند نہیں۔ (۲)

کتنے ہی جاہل لوگ ہیں جو مخلوق کی خاطر ان باتوں کو اختیار کرتے ہیں حالانکہ خود بھی مغالطہ میں ہیں اور دوسروں کو بھی مغالطہ دیتے ہیں اور وہ سمجھتے کہ ہمارا مقصد اچھا ہے تم علماء کی ایک جماعت کو دیکھو گے وہ قیمتی لباس پہنتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارا مقصد بدعتوں اور جھگڑاؤں کو لوگوں کا مقابلہ کرنا ہے نیز اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا مقصود ہے۔ اور یہ بات اس دن کھل جائے گی جس دن دلوں کا امتحان ہوگا۔ قبروں میں سے مردوں کو اٹھایا جائے گا۔ اور جو کچھ سینوں میں ہے ظاہر ہو جائے گا اور ڈھائی گئی چاندی اور کھوٹ والی چاندی میں تمیز ہو جائے گی ہم اس بڑی پیشی کے دن سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتے ہیں۔ (۳) انگلیوں کے ظاہر پر سلوٹوں پر جو میل جمع ہوتی ہے عرب لوگوں اسے عام طور پر دھوتے نہیں تھے کیونکہ وہ کھانے کے بعد ہاتھ کو نہیں دھوتے تھے تو ان سلوٹوں میں میل جمع ہو جاتی اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ان جگہوں کے دھونے کا حکم فرمایا (۳)

(۴) انگلیوں کے پوروں کی صفائی — نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل عرب کو ان کی صفائی کا حکم دیا (۴)

(۱) حضرت قاضی عیاض رحمہ اللہ فرماتے ہیں انبیاء کرام علیہم السلام شکل و صورت اور اخلاق کے اعتبار سے ہر عیب سے پاک تھے ۱۲ ہزاروی

الاتحاد جلد ۲ ص ۲۹۷

۲۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کے باطنی خیالات سے آگاہ ہے لہذا اسے لوگوں کو دکھانے کے لیے ترک زینت اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ ۱۲ ہزاروی۔

۳۔ صحیح مسلم جلد اول ص ۱۲۹ باب خصال الفطرة

۴۔ مستند امام احمد بن حنبل جلد اول ص ۲۲۳ مرویات ابن عباس

اس سے انگلیوں کے کنارے مراد ہیں جو ناخنوں کے نیچے ہیں کیونکہ ان کے پاس ہر وقت قینچی نہیں ہوتی تھی تو ان میں میل جمع ہو جاتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے لیے ناخنوں کو کاٹنے بغلوں کے بال اکھیڑنے اور زیناف بال ما کرنے کے لیے چالیس دن مقرر فرمائے (۱)

لیکن آپ نے ان کو حکم دیا کہ ناخنوں کے نیچے جگہ کی صفائی کریں۔ (۲)
 ایک روایت میں ہے ایک دفعہ وحی میں تاخیر ہو گئی جب حضرت جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے تو انہوں نے عرض کیا (یا رسول اللہ!) ہم کیسے آپ کے پاس آئیں جب آپ لوگ رات ہی مراد ہیں) اپنی انگلیوں کی سلوٹیں اور پورے صاف نہیں کرتے اور مسواک نہ کرنے کی وجہ سے دانتوں پر زردی ہوتی ہے آپ اپنی امت کو اس بات کا حکم دیں۔ (۳)
 ناخنوں کے نیچے میل کو "اُف" اور کانوں کی میل کو "تُف" کہا جاتا ہے ارشاد خداوندی -
 مَا بَابُ كَوَافٍ نَهَى -
 فَكَلَّا تَقَلُّ لَهُمَا أُفٌ (۴)

کی تفسیر یہ ہے کہ ان کو ناخنوں کے نیچے والی میل کے ذریعے اذیت نہ دو اور یہ بھی کہا گیا کہ ان کو اس طرح اذیت نہ پہنچاؤ جس طرح تم ناخنوں کے نیچے والی میل سے تکلیف محسوس کرتے ہو۔

(۱) سینے اور گرد و غبار کی وجہ سے جو میل تمام جسم پر جمع ہو جاتی ہے اسے غسل سے دور کیا جانا ہے حمام میں داخل ہونے میں کوئی صرح نہیں صحابہ کرام شام کے حماموں میں جایا کرتے تھے ان میں سے بعض نے فرمایا کہ بہترین گھر حمام ہے یہ بدن کو پاک کرتا اور آگ کی یاد دلاتا ہے یہ بات حضرت ابو درداد اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہما سے مروی ہے بعض حضرات نے فرمایا کہ بدترین گھر، حمام ہے کہ وہ شرمگاہ کو تنگ کرتا اور حیا کو لے جاتا ہے تو یہ قول اس کی آفت کو ظاہر کرتا ہے جیسے پہلے قول سے اس کا فائدہ معلوم ہوتا ہے لیکن حمام میں داخل ہونے والے پر کچھ ذمہ داریاں ہیں کچھ امور واجب ہیں اور کچھ سنت۔ اس پر اپنی شرم گاہ کے حوالے سے دو باتیں واجب ہیں۔
حمام میں داخل ہونے والے پر کیا واجب ہے | اور دو باتیں دوسروں کی شرمگاہ سے متعلق ہیں اپنی شرمگاہ کے حوالے سے واجب ہے کہ اسے دوسروں کی نظر سے بچائے اور دوسروں کے چھونے سے بھی محفوظ رکھے۔ لہذا اس کے میل کو اپنے ہاتھوں سے دور کرے اور نلنے والے کو رانوں اور ناف سے شرمگاہ تک ہاتھ لگانے سے منع کرے

(۱) صحیح مسلم جلد اول ص ۱۲۹ باب خصال الفطرة

(۲) الدر المنثور جلد اول ص ۱۱۲ تحت واذا بتلى ابراہیم ربه

(۳)

(۴) قرآن مجید سورۃ اسراء آیت ۲۳

شرمگاہ کے علاوہ دوسری جگہوں کو ہاتھ لگانے میں جواز کا احتمال ہے کہ لیکن زیادہ قرین قیاس یہی ہے کہ حرام ہو کیوں کہ حرمت کے سلسلہ میں شرمگاہوں کو ہاتھ لگانا دیکھنے کے ساتھ ملایا گیا ہے، تو باقی پردے کی جگہ یعنی رانوں کا بھی حکم ہونا چاہیے۔ دوسروں کی شرمگاہ کے حوالے سے اس پر واجب ہے کہ وہ اپنی نگاہ کو اس سے جھکائے رکھے۔ اور اسے ننگا کرنے سے روکے کیوں کہ منکر امور سے روکنا واجب ہے اور اس پر صرف یاد دلانا لازم ہے قبول کروانا اس کے ذمہ نہیں ہے لہذا جب تک اسے کسی کی طرف سے مارنے، گالی گلوچ یا کسی دوسرے حرام کام کا خوف نہ ہو یہ ذمہ داری ساقط نہیں ہوگی تو اس صورت میں اس پر لازم نہیں کہ وہ کسی حرام کام سے روک کر دوسرے شخص کو کسی دیگر حرام کام کا مرتکب بنا دے۔

البتہ وہ عذر پیش کرتے ہوئے یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں جانتا ہوں یہ بات اسے فائدہ نہیں دے گی اور نہ ہی وہ اس پر عمل کرے گا، بلکہ اسے چاہیے کہ یاد دلانا ہے انکار سننے کے تاثر سے دل خالی نہیں ہوتا اور جب گناہوں کا عیب بیان کیا جائے تو ان سے بچنے کا خیال آتا ہے اور یہ بات اس کام کو اس کی نگاہ میں قبیح قرار دیتی ہے اور اسے اس سے نفرت دلاتی ہے لہذا اس (تبلیغ) کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ اسی بنا پر اس دور میں حماموں میں جانا احتیاط کے طور پر چھوڑ دیا گیا ہے کیونکہ شرمگاہوں کو ننگا کرنا ہی پڑتا ہے خصوصاً ناف کے نیچے اور شرمگاہ سے اوپر اوپر۔ کیوں کہ لوگ اس کے علاوہ کو قابلِ ستر نہیں سمجھتے حالانکہ شریعت نے اسے بھی جائز قرار دیا اور گویا اسے ستر کی حد قرار دیا۔ اس لیے حمام میں اکیلا جانا مستحب ہے (۱)

حضرت بشر بن حارث رحمہ اللہ نے فرمایا میں اس شخص کو ملامت نہیں کرتا جس کے پاس صرف ایک درہم ہو اور وہ حمام والے کو اس لیے دے کہ وہ اس شخص کے لیے حمام کو خالی کر دے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کو حمام میں یوں دیکھا گیا کہ آپ کا چہرہ دیوار کی طرف تھا اور آنکھوں پر ٹی باندھی ہوئی تھی۔ بعض بزرگوں نے فرمایا حمام میں داخل ہونے میں کوئی حرج نہیں لیکن دو چادریں ہوں ایک چادر سے ستر کو ڈھانپے اور دوسری چادر کے ساتھ گھونگٹ نکال کر اپنی آنکھوں کی حفاظت کرتے۔

ایسے شخص کے لیے دس باتیں سنت ہیں ایک یہ کہ نیت کرے یعنی دنیا کے لیے یا خواہشات کی تکمیل کے لیے

حمام میں داخل ہونے والے کے لئے سنت کیا ہے

داخل نہ ہو بلکہ نماز کے لئے ہوز نیت محبوب ہے اس کے لیے پاکیزگی حاصل کرنے کی نیت کرے پھر نذر اندر جانے سے پہلے حمام والے کو اجرت دے کیونکہ جتنا فائدہ وہ اٹھائے گا وہ مجہول ہے، اور حمام والے کو کتنی دیر انتظار کرنا پڑے اس کا بھی پتہ نہیں لہذا نذر جانے سے پہلے اجرت دینے سے دو عوضوں میں سے ایک کی جہالت بھی ختم ہو جائے گی اور دل بھی مطمئن ہو جائے گا۔ پھر داخل ہوتے وقت پہلے بائیں پاؤں اندر رکھے اور یہ کلمات کہے (یعنی باہر ہی یہ کلمات پڑھے)

(۱) دراصل آج کل کے حماموں سے مختلف ہوتے تھے یعنی وہ تالاب کی شکل ہوتے تھے آج کل غسل خانے کی صورت میں ہوتے

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ
الرِّجْسِ النَّجِسِ الْمَخْبِیْثِ الْمَلْعُوْنِ الشَّیْطٰنِ
الرِّجِیْمِ۔

اللہ تعالیٰ کے نام سے جاتا ہوں جو رحمان و رحیم ہے سخت
ناپاکی اور نہایت شریر خبیث شیطان مردود سے اللہ تعالیٰ
کی پناہ چاہتا ہوں۔

پھر یہ کہ اس وقت حمام میں جائے جب وہ خالی ہو یا کوشش کر کے اسے خالی کرائے کیونکہ اگر حمام میں دیندار اور محتاط قسم کے
لوگ ہوں تو ننگے جسموں کی طرف دیکھنا حیا کی کمی پر دلالت کرتا ہے حالانکہ یہ تو شر مگاہوں کی طرف نہ دیکھنے کی تبلیغ کرنے والا ہے۔
پھر انسان اس بات سے بچ نہیں سکتا کہ حرکت کرنے سے چادر کا پلو ہٹ جائے اور شر مگاہ نگہی ہو جائے اس طرح غیر شعوری
طور پر شر مگاہ پر نظر پڑ جائے گی۔

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے اسی لیے اپنی آنکھوں پر پٹی باندھی تھی۔ حمام میں داخل ہونے کے بعد پہلے دونوں ہلو دھوئے
گرم حمام میں داخل ہونے کی جلدی نہ کرے جب تک پہلے پسینہ نہ آجائے۔ پانی زیادہ نہ ڈالے بلکہ ضرورت کے مطابق ڈالنے
حالات کے مطابق اس کی اجازت ہے اور اس پر اصرار نہ کرنے کی صورت میں اگر حمام والے کو پتہ چل گیا تو وہ ناپسند کرے گا
بالخصوص جب گرم پانی ہو کیونکہ اس پر خرچ کرنا پڑتا ہے اور مشقت و تصکارت بھی ہوتی ہے حمام میں جب گرمی محسوس کرے
تو اس سے جہنم کی گرمی کو یاد کرے اور یوں سمجھے کہ وہ کچھ دیر کے لیے ایک گرم جگہ پر قید کر دیا گیا ہے اور اسے جہنم پر قیاس کرے
کیونکہ یہ جہنم کے ایک گھر کے مشابہ ہے کہ نیچے آگ اور اوپر اندھیرا ہے ہم اس سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتے ہیں۔ بلکہ عقلمند آدمی
کو آخرت کے ذکر سے بے خبری کے لیے غافل نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اس نے ادھر ہی جانا ہے اور وہی اس کا ٹھکانہ ہے لہذا
پانی آگ اور جو کچھ بھی دیکھے اس کو باعث عبرت و نصیحت سمجھے کیونکہ انسان اپنی ہمت کے مطابق دیکھتا ہے۔

جب کوئی کپڑے کا کاروبار کرنے والا، ترکھان، معمار اور جو لاہا کسی آباد مکان میں جاتے ہیں جن میں فرش لگا ہوا ہو تو جب تم
انہیں گرم پاؤ تو دیکھو گے کہ کپڑے والا اس کے فرش کی طرف دیکھ کر اس کی قیمت میں غور و فکر کر رہا ہے جو لاہا کپڑے کو دیکھ کر
اس کی بناوٹ پر غور کرتا ہے ترکھان اس (نگڑی کی) چھت کی طرف دیکھ کر اس کی ترکیب کے طریقوں کو سوچتا ہے۔

جب کہ معمار اس کی دیواروں کو دیکھتا ہے اور ان کی مضبوطی اور سیدھے ہوئے میں غور و فکر کرتا ہے۔ اسی طرح
آخرت کے راستے پر چلنے والا کسی بھی چیز کو دیکھتا ہے تو وہ اس کے لیے آخرت کی یاد بن جاتی ہے بلکہ وہ جس چیز کو دیکھتا ہے
اللہ تعالیٰ اس کے لیے عبرت کا دروازہ کھول دیتا ہے اندھیرے کو دیکھتا ہے تو اسے قبر کا اندھیرا یاد آ جاتا ہے۔ اگر سانپ
کو دیکھتا ہے تو اسے جہنم کے سانپ یاد آ جاتے ہیں اور اگر کسی بد صورت شخص کو دیکھتا ہے تو اسے منکر نکیر اور جہنم پر مامور فرشتوں
کی یاد آتی ہے اگر کوئی خوفناک آواز سنتا ہے تو اسے صُور کا پھونکنا یاد آ جاتا ہے اگر کسی اچھی چیز کو دیکھتا ہے تو جنت کی نعمتوں
کو یاد کرتا ہے اگر بازار یا گھر میں قبولیت یا رد کی بات سنتا ہے تو اس بات کو یاد کرتا ہے جس کا حساب کتاب کے بعد اسے
سامنا کرنا ہو گا وہ رد ہو یا قبول۔ تو عقل مند آدمی کے دل پر اس کا چھاپا رہنا زیادہ مناسب ہے کیوں کہ اسے ان امور سے

نیا کے کاروبار ہی روکتے ہیں۔ اگر وہ دنیا میں ٹھہرنے کی مدت آخرت میں ٹھہرنے کی مدت سے مقابلہ کرے تو اسے حقیر سمجھیں۔
 شریک وہ ان لوگوں میں سے نہ ہوں کہ دل غافل اور بصیرت ختم نہ ہو چکی ہے۔

(حمام میں داخل ہونے کی سنتوں میں سے ہے کہ داخل ہوتے وقت سلام نہ کہے اگر کوئی اسے سلام کرے تو اس پر الفاظ کے ساتھ سلام کا جواب دینا واجب نہیں بلکہ وہ خاموش رہے اگر کوئی دوسرا سلام کا جواب دے دے اور اگر پسند کرنے والوں کے اللہ تعالیٰ تجھے عافیت عطا فرمائے۔ اندر داخل ہونے والے سے مصافحہ کرنے میں کوئی حرج نہیں اور کلام کی ابتدا کرتے ہوئے یوں کہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو عفو و عافیت عطا فرمائے پھر حمام میں زیادہ گفتگو نہ کرے اور بلند آواز سے قرآن پاک بھی نہ پڑھے۔ شیطان سے ظاہری الفاظ کے ساتھ پناہ مانگ سکتا ہے مغرب و عشاء کے دوران اور مغرب کے قریب حمام میں داخل ہونا ضرور ہے کیونکہ یہ شیطانوں کے پھرتے کا وقت ہے۔

کسی دوسرے کے جسم کو ملنے میں کوئی حرج نہیں یہ بات حضرت یوسف بن ہارباط سے منقول ہے انہوں نے وصیت فرمائی کہ انہیں فلاں شخص غسل دے جو ان کے ساتھیوں میں سے نہیں تھا اور فرمایا کہ اس نے ایک مرتبہ حمام میں میرے جسم کو ملا تھا میں پھرتا ہوں کہ اس کے عوض اس سے ایسا کام لوں جس پر وہ خوش ہو جائے اور وہ اس تجویز پر خوش ہو گا اس بات کے جواز پر بعض صحابہ کرام کی یہ روایت بھی دلالت کرتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی سفر میں ایک مقام پر اترے اور پیٹ کے بل لیٹ گئے ایک حبشی غلام آپ کی پیٹھ مبارک دبانے لگا (راوی فرماتے ہیں) میں نے پوچھا یا رسول اللہ! یہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا مجھے اونٹنی نے گرا دیا تھا۔ (۱)

پھر جب حمام سے فارغ ہو جائے تو اس نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے کہ لگے کہ سردیوں میں گرم پانی نعمتوں میں سے ہے اور اس کے بارے میں پوچھا جائے گا حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا حمام نوپید (جدید) نعمتوں میں سے ہے۔ یہ (مذکورہ) باتیں شریعت کے اعتبار سے ہیں۔

ڈاکٹری اعتبار سے کہا گیا ہے کہ چونکہ استعمال کرنے سے رزیرٹاٹ بال صاف کرنے کے لیے چونکہ استعمال کرنے کے بعد حمام میں جانا خدام کو ٹھہرانی مرض سے حفاظت ہے یہ بھی کہا گیا ہے کہ ہر مہینے میں ایک بار چونکہ استعمال کرنا صفاؤ کی گرمی کو ختم کرتا ہے رنگ کو صاف کرتا ہے اور جماع کی قوت بڑھاتا ہے یہ بھی کہا گیا کہ سردیوں میں حمام میں کھڑے ہو کر پیشاب کرنا ذوالی پینے سے زیادہ نفع دیتا ہے۔ یہ کہا گیا کہ گرمیوں میں حمام کے استعمال کے بعد سو جانا ذوالی استعمال کرنے کے برابر ہے، حمام سے نکلنے کے بعد ٹھنڈے پانی سے پاؤں دھونا فقرس (بیماری) سے محفوظ رکھتا ہے (۲)

(۱) مجمع الزوائد ج ۵ ص ۹۶ باب غزیر الطمرین اللام

(۲) ایک قسم کا گٹھیا، یا وہ درد جو پاؤں کے انگوٹھے میں ہوتا ہے رفیروز اللغات اردو) ۱۲ ہزار دی۔

باہر نکلتے وقت سر پر ٹھنڈا پانی ڈالنا مکروہ ہے اسی طرح پینا بھی مکروہ ہے، مردوں کے لیے یہ (مذکورہ) حکم ہے عورتوں کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَدْخُلَ حَيْثُ لَتَهُ الْحَمَّامُ
وَفِي الْبَيْتِ الْمَسْتَحْتَفِ - (۱)

کسی مرد کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنی بیوی کو حمام میں لے جائے جب کہ گھر میں غسل خانہ موجود ہو۔

مشہور یہ ہے کہ حمام میں چادر کے بغیر داخل ہونا مردوں پر حرام ہے اسی طرح نفاس دالی اور سیار عورتوں کے علاوہ عورتوں کا حمام میں جانا بھی حرام ہے (۲)

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کسی بیماری کی وجہ سے حمام میں تشریف لے گئی تھیں اگر عورت کسی ضرورت کے تحت جائے تو ایک بڑی چادر اوڑھ کر جائے (جو سر سے پاؤں تک ڈھانپ لے) مرد کے لئے مکروہ ہے کہ عورت کو حمام کی اجرت دے اس طرح وہ مکروہ کام پر عورت کا معاون ہو جائے گا۔

بدن کے زائد اجزاء اٹھ ہیں۔

دوسری نوع بدن میں پیدا ہونے والی چیزیں

(۱) سر کے بال۔ جو شخص پاکیزگی حاصل کرنا چاہتا ہو اس کے لیے بال

منڈوانے میں کوئی حرج نہیں اور جو آدمی تیل لگائے اور کنگھی کرے اس کے لیے بال رکھنے میں کوئی حرج نہیں البتہ جب ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھے (سر پر کہیں بال چھوڑ دینا اور کہیں سے منڈھ دینا) تو یہ ناجائز ہے کیونکہ یہ گھٹیا لوگوں کی علامت ہے یا شرفاء کی طرح زلفیں چھوڑ دے کیونکہ یہ اب ان کی علامت ہے اور اگر ایسا کرنے والا شرفاء میں سے نہ ہو تو یہ دھوکہ ہوگا۔

(۲) مونچھوں کے بال۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

مونچھوں کو کاٹو۔

قُصُوا الشَّارِبَ (۳)

دوسری حدیث ہے۔ "جُزُوا الشَّوَارِبَ" کے الفاظ میں اور ایک روایت میں ہے "حَقُّوا الشَّوَارِبَ وَاعْفُوا اللِّحْيَ"

مونچھوں کو کاٹو اور داڑھی کو بڑھاؤ۔ یعنی مونچھوں کو مونٹوں کے گرد رکھو کیونکہ کسی چیز کے گرد کو "حفاف الشی" کہا جاتا ہے اسی سے ہے

اور تم فرشتوں کو عرش کے گرد اسے گھیرے ہوئے

دیکھو گے۔

(۴)

(۱) جامع ترمذی جلد ۲ ص ۳۹۸ باب ما جاز فی دخول الحمام

(۲) مستدرک للحاکم جلد ۳ ص ۲۸۸ کتاب الادب

(۳) مسند امام احمد بن حنبل جلد ۲ ص ۲۲۹ مرویات ابی ہریرۃ

(۴) قرآن مجید سورۃ زمر آیت ۷

ایک جگہ اُحْفُوا کے الفاظ میں اور یہ الفاظ بڑے سے اکھیڑنے پر دلالت کرتے ہیں، اور اُحْفُوا کا لفظ اس سے کم پر دلالت کرتا ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے۔

اِنْ يَسْأَلْكُمْ عَنْهَا فَيَحْفِكُمْ ذَبْخًا لَّوًّا۔
اگر وہ نہیں تم سے طلب کرے اور زیادہ طلب کرے تو تم بخل کرو گے۔ (۱)

یعنی سوال میں مبالغہ کر کے جہاں تک مونڈنے کا تعلق ہے تو اس سلسلے میں کوئی روایت نہیں ہے احضار، مونڈنے کے قریب ہوتا ہے صحابہ کرام سے اسی طرح منقول ہے کسی تابعی نے ایک شخص کو دیکھا جس کی مونچھیں اکھیڑی ہوئی تھیں تو انہوں نے فرمایا تم نے مجھے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی یاد دلادی حضرت معمر بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف دیکھ کر فرمایا اور میری مونچھیں بڑھی ہوئی تھیں آپ نے فرمایا ادھر آؤ چنانچہ آپ نے مسواک پر رکھ کر میری مونچھیں کاٹ دیں۔
مونچھوں کے کنارے والے بالوں کو چھوڑنے میں کوئی حرج نہیں حضرت عمر فاروق اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اسی طرح کیا ہے کیونکہ یہ حصہ منہ کو نہیں ڈھانپتا اور نہ اس میں کھانے کی چکناٹ باقی رہتی ہے کیوں کہ وہ وہاں تک نہیں پہنچتی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی "واغفوا للہی" کا مطلب یہ ہے کہ وارٹھیاں بڑھاؤ۔ ایک حدیث میں ہے کہ یہودی اپنی مونچھوں کو بڑھانے اور وارٹھیوں کو کاٹتے ہیں پس تم ان کی مخالفت کرو (۳)
بعض علماء نے (مونچھیں) مونڈنے کو مکروہ خیال کیا اور بدعت قرار دیا ہے۔

۳۔ بعلوں کے بال۔ چالیس دن بعد بعلوں کے بالوں کو اکھیڑنا مستحب ہے جو شخص شروع میں اکھیڑنے کی عادت بنالے اس کے لیے یہ آسان ہے لیکن جس نے مونڈنے کی عادت بنالی ہو اس کے لیے مونڈنا کافی ہے کیونکہ اکھیڑنے میں اپنے آپ کو تکلیف میں مبتلا کرنا ہے مقصود تو پاکیزگی کا حصول ہے اور یہ کہ ان کے درمیان میل جمع نہ ہو جائے یہ مقصد مونڈنے سے حاصل ہو جاتا ہے۔

۴۔ زیر ناف بال۔ ان بالوں کو مونڈنا یا چھونا لگا کر دور کرنا مستحب ہے لیکن چالیس دن سے تاخیر نہیں ہونی چاہیے۔

۵۔ ناخنوں کو کاٹنا مستحب ہے کیونکہ بڑھے ہوئے بڑے گتے ہیں نیز اس طرح ان میں میل جمع ہو جاتی ہے۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
يَا أَبَاهُ رِيْرَةَ قَلْبِكَ أَطْفَارِكَ يَا ابْنَ الشَّيْطَانِ
اے ابوہریرہ رضی اللہ عنہما اپنے ناخنوں کو کاٹو کیونکہ جب

يَقْعُدُ عَلَى مِطَالٍ مِنْهَا رَا (۱)

یہ بڑھ جاتے ہیں تو ان پر شیطان بیٹھتا ہے

اگر ان کے نیچے میل جمع ہو جائے تو وضو کے جواز کو منع نہیں کرتی کیونکہ وہ پانی کے پہنچنے کو نہیں روکتی۔ اور ضرورت کے تحت اس میں ڈھیل دی جاتی ہے بالخصوص مردوں کے ناخنوں میں۔ اسی طرح عروں اور دیہاتیوں کی انگلیوں کے جوڑوں نیز ہاتھوں اور پاؤں کی پٹھ پر جو میل جمع ہوتی ہے وہ بھی وضو سے منع نہیں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ناخن کاٹنے کا حکم دیتے تھے اور ناخنوں کے نیچے میل کو جڑا بتاتے تھے لیکن نماز لوٹانے کا حکم نہیں دیتے تھے۔ اور اگر کبھی حکم دیا بھی تو اس کا دوسرا مقصد ہوتا تھا یعنی اس پر ڈانٹ ڈپٹ اور تنبیہ کرنا۔

میں (امام غزالی علیہ الرحمہ) نے کتابوں میں ناخن کاٹنے کی ترتیب کے بارے میں کوئی روایت نہیں دیکھی لیکن سنا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں ہاتھ کی انگشت شہادت سے شروع کر کے دائیں ہاتھ کے انگوٹھے پر ختم کیا اور بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے انگوٹھے کی طرف لائے۔ (یعنی دائیں ہاتھ کی چار انگلیوں کے بعد بائیں ہاتھ کی پانچوں انگلیوں کے ناخن کاٹنے کے بعد آخر میں دائیں ہاتھ کے انگوٹھے کے ناخن کاٹے ۱۲ ہزاروی)

اور جب میں نے اس میں غور و فکر کیا تو میرے لیے ایسا معنی واضح ہوا جو اس سلسلے میں روایت کی صحت پر دلالت کرتا ہے کیوں کہ ابتدائی طور پر اس قسم کی بات نور نبوت کے بغیر حاصل نہیں ہوتی اور صاحب بصیرت عالم کا کام تو اتنا ہی ہے کہ جب اس کے سامنے کوئی فعل منقول ہو کر آئے تو اس میں اپنی عقل سے استنباط کرے اور جو کچھ مجھ پر روشن ہوا اور حقیقت حال تو خدا ہی جانتا ہے، وہ یہ ہے کہ ہاتھ اور پاؤں کے ناخن کاٹنا ضروری ہے اور پاؤں کی نسبت ہاتھ معزز ہیں لہذا ان سے ابتدا کرے پھر بائیں کے مقابلے میں دایاں اشرف ہے لہذا اس سے شروع کرے پھر دائیں ہاتھ کی پانچ انگلیاں ہیں جن میں سے شہادت کی انگلی اشرف ہے کیونکہ شہادت کے وقت صرف اسی کے ساتھ اشارہ کیا جاتا ہے پھر مناسب ہے کہ اس کے بعد اس انگلی کی دایاں جانب کی طرف جائے کیوں کہ شریعت میں پاکیزگی وغیرہ دایاں طرف پھیرنا مستحب اگر تم ہتھیلی کی پیٹھ زمین پر رکھو تو انگوٹھا دایاں جانب ہوگا اور ہتھیلی کا اندرونی حصہ رکھو تو درمیان والی انگلی دایاں جانب ہوگی اور ہاتھ کو جب فطری حالت پر چھوڑ دیا جائے تو ہتھیلی زمین کی طرف مائل ہوتی ہے کیونکہ دائیں ہاتھ کی حرکت بائیں طرف ہوتی ہے اور حرکت کو بائیں طرف یوں پورا کیا جاسکتا ہے کہ ہتھیلی کی پیٹھ اوپر کی طرف ہو۔ لہذا جو کچھ فطرت و طبیعت کا تقاضا ہے وہ زیادہ بہتر ہے پھر سب ہتھیلی پر رکھو تو انگلیاں ایک دائرے کی گولائی کی طرح ہوں گی تو دائرے کی ترتیب کا تقاضا ہے کہ انگشت شہادت کی دایاں طرف سے چل کر پھر اسی کی طرف لوٹیں، اس طرح ابتدا بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے ہوگی اور انگوٹھے پر اختتام ہوگا۔ اب دائیں ہاتھ کا انگوٹھا رہ جائے گا تو ناخنوں کا کاٹنا اس پر مکمل ہوگا، ہتھیلی کو ہتھیلی پر رکھنے کو فرض کیا گیا تاکہ انگلیاں ایک حلقے میں بیٹھنے والے لوگوں کی طرح قرار پائیں اور ترتیب

ظاہر ہو، ہتھیلی کو دوسری ہتھیلی کی پٹھ پر رکھنے سے یہ طریقہ اولیٰ ہے یا ایک ہتھیلی کی پٹھ دوسری ہتھیلی کی پٹھ پر رکھی جائے لیکن یہ طبیعت کے تقاضے کے خلاف ہے۔

پاؤں کی انگلیوں کے سلسلے میں اگر کوئی روایت ثابت نہ ہو تو میرے نزدیک بہتر یہ ہے کہ خلال کرنے کی طرح دائیں پاؤں کی چھوٹی انگلی سے شروع کر کے بائیں پاؤں کی چھوٹی انگلی پر ختم کرے کیونکہ ہاتھوں کے سلسلے میں جو امور ہم نے ذکر کئے ہیں وہ یہاں درست نہیں ہو سکتے کیونکہ پاؤں میں کوئی شہادت کی انگلی نہیں ہوتی، اور یہ انگلیاں ایک صف کی طرح ہیں جو زمین پر ثابت ہوتی ہے پس دائیں جانب سے شروع کرے کیونکہ یہاں ایک ٹلو سے کو دوسرے ٹلو سے پر رکھنا سرشت انسانی کے خلاف ہے جب کے ہاتھوں میں یہ بات نہیں۔

ترتیب میں یہ باریکیاں نور نبوت سے ایک لحظہ میں منکشف ہو جاتی ہیں دشواری ہمارے لیے ہے اگر ہم میں سے ابتداء میں اس ترتیب کے بارے میں پوچھا جائے تو بعض اوقات ہمارے خیال میں نہیں آتی اور جب ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل اور اس کی ترتیب کا ذکر کرتے ہیں تو بعض اوقات ہمارے لیے اس معنی کا استنباط آسان ہو جاتا ہے جس کا حضور علیہ السلام نے معائنہ فرمایا کیونکہ آپ کے فعل میں حکم پر شہادت اور معنی پر تنبیہ پائی جاتی ہے۔

ہمیں یہ خیال نہیں کرنا چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام حرکات وزن، قانون، اور ترتیب سے خارج ہوتی تھیں بلکہ وہ تمام اختیاری امور جن کا ہم نے ذکر کیا کہ ان میں فاعل دو یا زیادہ اقسام کے درمیان متزود ہوتا ہے آپ کسی ایک کو دوسرے معین پر محض اتفاق سے مقدم نہیں کرتے تھے بلکہ اس معنی کی بنیاد پر مقدم کرتے تھے جو تقدیم کو چاہتا تھا کیوں کہ جس طرح اتفاق ہو جائے اسی طرح بے ترتیب چھوڑ دینا جانوروں کی خصلت ہے اور معانی کے ترازو میں حرکت کو تولنا اور ضبط کرنا اولیاء کرام کی عادت ہے تو جب انسان کی حرکتیں اور قلبی اضطراب ضبط کے زیادہ قریب اور مہمل چھوڑنے سے زیادہ بعید ہوں گی تو وہ انبیاء کرام اور اولیاء کے اتنا ہی زیادہ قریب ہوگا۔ اور اس کا اللہ تعالیٰ کے قریب ہونا زیادہ واضح ہے کیونکہ جو شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے بھی قریب ہوتا ہے اور جو اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے وہ ضرور قریب ہی ہوتا ہے کیونکہ قریب کا قریب بھی غیر کی طرف نسبت کرتے ہوئے قریب ہی ہوتا ہے تو ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتے ہیں کہ ہماری حرکات اور سکون کی لگام خواہشات کے واسطے سے شیطان کے ہاتھ میں ہو۔

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال کو آپ کے سر پہ لگانے پر ہی قیاس کیجئے۔ آپ داسنی آنکھ میں تین بار سر پہ لگانے اور بائیں آنکھ میں دو بار، اور دائیں آنکھ کی شرافت کی وجہ سے آغاز اسی سے کرتے تھے۔ (۱)

دونوں آنکھوں میں فرق اس لیے رکھتے تھے کہ مجموعہ طاق ہو جائے، کیونکہ جفت کے مقابلے میں طاق کو فضیلت حاصل ہے

بے شک اللہ تعالیٰ وتر ایک ہے اور طاق کو پسند کرتا ہے (۱)

لہذا بندے کا کوئی فعل اللہ تعالیٰ کے کسی نہ کسی وصف کی مناسبت سے خالی نہیں ہونا چاہیے۔

اسی لیے استبراء کرتے وقت طاق پتھر استعمال کرنا مستحب ہے۔ (سرمہ لگاتے ہیں) تین بار پتھر اکتفا نہیں کیا گیا حالانکہ یہ بھی طاق ہی کیونکہ اس طرح بائیں آنکھ میں ایک بار سرمہ لگانا پڑتا ہے اور عام طور پر ایک سلائی سے سرمہ پلکوں کی جڑوں تک نہیں پہنچتا۔ اور دائیں آنکھ میں تین سلائیاں لگانے کی وجہ یہ ہے کہ فضیلت طاق بائیں ہے اور دائیں آنکھ افضل ہونے کی وجہ سے اس کا زیادہ حق رکھتی ہے۔

اگر کہا جائے کہ دو کا عدد جفت ہے تو بائیں آنکھ میں اسی پر اکتفا کیوں کیا گیا تو جواب یہ ہے کہ ایسا ضرورت کے تحت کیا گیا ہے کیونکہ ہر آنکھ میں طاق بار لگائے تو ان کا مجموعہ جفت بار ہو جاتا۔ کیوں کہ طاق اور طاق مل کر جفت ہو جاتے ہیں اور فعل کے مجموعہ میں جو ایک فعل کی طرح ہے طاق ہونے کا خیال رکھنا ایک ایک میں خیال رکھنے سے زیادہ پستیدہ ہے اس کی ایک اور صورت بھی ہے وہ یہ کہ ہر آنکھ میں تین تین سلائیاں سرمہ لگائے یعنی وضو پر قیاس کر کے یہ صحیح حدیث میں منقول ہے (۲) اور یہی زیادہ بہتر ہے۔ اگر میں ان تمام باتوں کی باریکیوں کی تلاش میں لگ جاؤں جن کا حضور علیہ السلام نے اپنے افعال میں خیال رکھا ہے تو بات طویل ہو جائے گی تو جو کچھ تم نے سنا ہے اسی پر اسے بھی قیاس کر لو تو نہیں سنا۔

جان لو! کہ کوئی عالم اس وقت تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وارث نہیں ہو سکتا جب تک شریعت کے تمام معانی پر مطلع نہ ہو جائے یہاں تک کہ اس کے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان صرف ایک درجہ یعنی درجہ نبوت رہ جائے اور یہی درجہ وارث اور مورث کو الگ الگ کرتا ہے کیونکہ مورث وہ ہوتا ہے جیسے حاصل ہوتا ہے وہ اس کے حاصل کرنے میں مشغول ہوتا ہے اور اس پر قادر ہوتا ہے اور وارث وہ ہوتا ہے جو اس پر قادر نہیں ہوتا لیکن جب وہ مال مورث کو حاصل ہوتا ہے تو اس کے بعد وارث کی طرف منتقل ہوتا ہے اور یہ اسے حاصل کرتا ہے۔

یہ وہ باتیں ہیں کہ گہرائی اور باریکی بینی کا خیال کرتے ہوئے باوجود آسان ہونے کے ابتدائی طور پر ان کا ادراک انبیاء کرام علیہم السلام ہی کو ہوتا ہے اور انبیاء کرام کی طرف سے آگاہی کے بعد استنباط و اجتہاد کے ذریعے صرف علماء کرام ہی معلوم کر سکتے ہیں کیونکہ وہ انبیاء کرام علیہم السلام کے وارث ہیں۔

۷۶۔۔۔ ناف اور قلفہ کا بڑھا ہوا حصہ۔۔۔ ناف تو بچے کے پیدا ہوتے ہی کاٹ دی جاتی ہے اور غنہ کے ذریعے طہارت حاصل کرنے میں بیہودگیوں کا طریقہ یہ ہے کہ وہ پیدائش کے ساتویں دن کرتے ہیں۔ لیکن ان کی بجا لفت کرنا اور

(۱) مسند امام احمد بن حنبل جلد اول ص ۱۴۳ مرویات حضرت علی المرتضیٰ۔

(۲) جامع ترمذی جلد ۲ ص ۵۷۱ باب ماجاء فی کفن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔

گلے دانت نکلنے تک تاخیر کرنا زیادہ پسندیدہ اور خطروں سے دور ہے۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
 الْخِثَانُ سُنَّةٌ لِلرِّجَالِ وَمَكْرَمَةٌ لِلنِّسَاءِ۔
 ختنہ کرنا مردوں کے لئے سنت اور عورتوں کے لئے
 باعث عزت ہے۔ (۱)

اور عورتوں کے ختنہ میں مبالغہ کرنا مناسب نہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا اور وہ
 ختنہ کیا کرتی تھیں۔

یَا امَّ عَطِيَّةَ اَسْمِعِي وَلَا تَنْهَكِي فَاِنَّهُ اسْمَعَى
 لِلرَّجُلِ وَاسْمَعَى عِنْدَ الزَّوْجِ - (۲)
 اے ام عطیہ! ذرا اسی بوسنگھا دیں اور زیادہ نہ کاٹیں
 اس سے چہرے کی تازگی زیادہ ہوگی اور خاوند کو زیادہ
 لذت حاصل ہوگی۔

یعنی چہرے کی رونق اور خون زیادہ ہوگا اور جماع میں خاوند زیادہ لطف اندوز ہوتا ہے تو دیکھئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
 ہی طرح کنایہ کرتے ہوئے عمدہ پیرائے میں بیان فرمایا، اور نور نبوت کو دیکھیں جو اخروی فوائد کو جو نبوت کے اہم مقاصد سے ہیں
 اس طرح روشن کر کے دینی مقاصد تک پہنچاتا ہے حتیٰ کہ آپ پر یہ باتیں منکشف ہو گئیں حالانکہ آپ نے کسی سے نہیں پڑھا تھا،
 گر یہ واضح نہ ہوتیں تو ان میں غفلت کی وجہ سے نقصان ہوتا تو وہ ذات پاک سے جس نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت
 بنا کر بھیجا تاکہ آپ کی بعثت کی برکت سے ان لوگوں کے لیے دنیا اور دین کی بھلائیاں جمع ہو جائیں۔

۱۔ داڑھی کے بڑھے ہوئے بال | ہم نے اس کا ذکر مؤخر کہا تاکہ اس میں جو باتیں سنت ہیں یا بدعت، ان کو بھی اس
 کے ساتھ ملا کر ذکر کیا جائے کیونکہ یہاں ان باتوں کا ذکر زیادہ مناسب ہے۔ داڑھی
 کا پوجھہ بڑھا ہوا ہے یعنی لمبی داڑھی کے بارے میں اختلاف ہے کہا گیا ہے کہ آدمی داڑھی کو مٹھی میں پکڑ کر جو اس سے زائد
 ہوا سے کاٹ دے تو کوئی حرج نہیں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما اور تابعین کی ایک جماعت نے ایسا کیا ہے۔ حضرت امام
 شافعی اور ابن کثیر رحمہما اللہ نے اسے اچھا قرار دیا لیکن حضرت حسن بصری اور حضرت قتادہ رحمہما اللہ نے اسے مکروہ قرار دیا
 ہے اور فرمایا اسے بڑھا ہوا چھوڑنا زیادہ پسندیدہ ہے کیوں کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "داڑھیوں کو بڑھاؤ،"
 اگر داڑھی کے کاٹنے اور کناروں سے گول کرنے کی نوبت نہ آئے تو پڑھی ہوئی داڑھی کو کاٹنے میں کوئی مضائقہ
 نہیں کیونکہ زیادہ لمبا کرنے سے اصلی شکل بگڑ جاتی ہے اور رغبت کرنے والے اس پر اپنی زبان کھول دیتے ہیں لہذا اس

(۱) مسند امام احمد بن حنبل جلد ۵ ص ۷۵

(۲) مستدرک للحاکم جلد ۲ ص ۵۳۵ کتاب معرفة الصحابة

نیت سے اس سے بچنے میں کوئی عرج نہیں حضرت امام سنی رحمہ اللہ فرماتے ہیں مجھے اس عقل مند آدمی پر تعجب ہے جس کی داڑھی لمبی ہے وہ اس سے کیوں نہیں کاٹتا کہ وہ داڑھیوں کے درمیان ہو جائے (نہ بہت چھوٹی اور نہ ہی بہت لمبی) کیوں کہ ہر چیز میں اعتدال اچھا ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ جب داڑھی لمبی ہوتی ہے تو عقل علی جاتی ہے۔ (۱)

داڑھی میں دس باتیں مکروہ ہیں ان میں سے بعض دوسری بعض کی نسبت زیادہ مکروہ ہیں، خضاب سے سیاہ کرنا، گندھک سے سفید کرنا، اکھیرٹنا، اس سے سفید بالوں کو اکھیرٹنا، چھوٹی کر دینا، بڑھا دینا۔ ریا کاری کے لیے اسے کنگھی کرنا، اپنا زہد دکھانے کے لیے کنگھی کے بغیر بکھرے ہوئے بال چھوڑ دینا، جوانی پر فخر کرتے ہوئے اس کی سیاہی پر خوش ہونا، بڑھاپے پر تکبر کرتے ہوئے اس کی سفیدی کو اچھی نظر سے دیکھنا، سرخ اور زرد رنگ کا خضاب لگانا جب کہ نیک لوگوں کے ساتھ تشبیہ کے طور پر نہ ہو۔

(۱) سیاہ خضاب لگانا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔

آپ نے ارشاد فرمایا:

خَيْرُ شَبَابِكُمْ مَنْ تَشَبَهَ بِشُيُوخِكُمْ
وَشَرُّ شُيُوخِكُمْ مَنْ تَشَبَهَ بِشَبَابِكُمْ۔ (۲)

تہارے بہترین نوجوان وہ ہیں جو تمہارے بوڑھوں سے
مشابہت اختیار کریں اور تم میں سے برے بوڑھے وہ ہیں
جو تمہارے نوجوانوں سے مشابہت اختیار کریں۔

✽ ✽ ✽

بوڑھوں کے ساتھ مشابہت سے مراد وقار میں مشابہت ہے بالوں کو سفید کرنے میں نہیں۔ اور آپ نے سیاہ خضاب سے منع فرمایا (۲)

كُفُو خَضَابِ أَهْلِ النَّارِ ۳
یہ جہنمیوں کا خضاب ہے۔

اور دوسری روایت کے الفاظ اس طرح ہیں کہ سیاہ رنگ کا خضاب کفار کا خضاب ہے۔ (۵)

حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک شخص نے نکاح کیا اور وہ سیاہ خضاب لگاتا تھا۔ جب خضاب اترا

(۱) ہمارے ہاں عام طور پر غیر مقلد و پیروں کی داڑھیاں بہت لمبی ہوتی ہیں غالباً اسی وجہ سے وہ فقہ کا انکار کرتے ہیں کیونکہ فقہ، تو عقل و شعور اور دین کی سمجھ کا نام ہے ۱۲ ہزاروی۔

(۲) کنز العمال جلد ۱۵ ص ۷۶، حدیث ۳۰۵۸

(۳) صحیح مسلم جلد ۲ ص ۱۹۹ کتاب الناس

(۴) سنن بیہقی جلد ۱ ص ۳۱۱ کتاب القیم والنشور

(۵) مستدرک للحاکم جلد ۳ ص ۵۲۶ کتاب معرفة الصحابة

تو بڑھاپا ظاہر ہو گیا عورتوں کے گھر والے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں مقدمہ لے گئے آپ نے اس کے نکاح کو فسخ کر دیا اور اسے خوب مارا آپ نے فرمایا تم نے ان لوگوں کو جوانی کے ساتھ دھوکہ دیا اور بڑھاپے کو چھپایا۔ کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے سیاہ خضاب فرعون نے لگایا، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

يَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ نَحْفِضُونَ بِالسَّوَادِ
كَحَوَاصِلِ الْحَمَامِ لَا يَرِيحُونَ رَائِحَةَ
الْجَنَّةِ - (۱)

آخری زمانے میں کچھ لوگ ہوں گے جو سیاہ رنگ کا خضاب لگائیں گے جیسے کبوتر کے پوٹے (بے پر پتھے) ہوتے ہیں وہ جنت کی خوشبو نہیں سونگیں گے۔

(۲) سرخ اور زرد رنگ کا خضاب — جہاد میں کفار کو جوانی دکھانے کے لیے اس رنگ کا خضاب لگانا جائز ہے اگر اس نیت سے نہ ہو بلکہ اہل دین سے مشابہت کے لیے ہو تو مذہب سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

الضُّفْرَةُ خِضَابُ الْمُسْلِمِينَ وَالْحُمْرَةُ
خِضَابُ الْمُؤْمِنِينَ - (۲)

زرد رنگ مسلمان کا خضاب ہے اور سرخ رنگ مومنوں کا خضاب ہے۔

صحابہ کرام اور بعد والے مسلمان) سرخ رنگ کے لیے ہندی کا اور زرد رنگ کے لیے خلوک اور کتم کا خضاب لگاتے تھے (خلوک ایک قسم کی رنگ دار خوشبو ہے جس میں زعفران ملا ہوتا ہے اور کتم ایک قسم کی ٹوٹی سے ۱۲ ہزار روپی) بعض علماء نے جہاد کے لیے سیاہ خضاب بھی لگایا ہے جب نیت صحیح ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں۔

البتہ خواہشات کا عمل دخل نہ ہو۔

(۳) گندھک سے داڑھی کو سفید کرنا تاکہ جلدی جلدی زیادہ عمر ظاہر ہو۔ اور لوگ عزت کریں شہادت قبول ہوا بزرگوں سے روایت کی تصدیق ہو، جوانی سے اوپر ہو جائیں، کثرت علم کا اظہار مقصود ہو اور یہ خیال کیا جائے کہ علم کی کثرت فضیلت کا باعث ہے تو دیکھئے عمر کا بڑھنا جاہل کی جہالت کو ہی زیادہ کرتا ہے علم تو عقل کا نتیجہ ہے اور یہ ایک نورانی قوت ہے، اس میں بڑھاپے کا کوئی اثر نہیں ہوتا جس آدمی کی سرشت میں ہو قوتی ہو تو عمر کا زیادہ ہونا اس کی حماقت کو بڑھا دیتا ہے حالانکہ بزرگ حضرات علم کی وجہ سے نوجوانوں کو آگے کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کو نوجوان ہونے کے باوجود بزرگ صحابہ کرام سے آگے کرتے تھے اور ان کی بجائے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے پوچھتے تھے اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کسی بندے کو علم عطا کرتا ہے تو جوانی ہی میں دیتا ہے اور تمام کی تمام بھلائی

(۱) سنن بیہقی جلد ۷، ص ۱۱ کتاب النعم والتشور۔

(۲) مستدرک للحاکم جلد ۳ ص ۵۶۶ کتاب مرفوعہ الصحابہ۔

جوانی میں ہے۔ پھر انہوں نے قرآن پاک کی یہ آیت پڑھی۔
 قَالُوا سَمِعْنَا فَتَىٰ يَذُكُرُهُمْ يُقَالُ لَكَ
 اِبْرَاهِيمَ۔ (۱)

انہوں نے (مردوں نے) کہا ہم نے ایک جوان سے
 سنا جو ان بتوں کا تذکرہ کر رہا تھا اس کا نام ابراہیم
 (علیہ السلام) ہے۔

اور ارشاد خداوندی ہے۔

اِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَرِذْنَانَا هُمْ
 هُدًى (۲)

بے شک وہ کچھ نوجوان ہیں جو اپنے رب پر ایمان لائے
 اور ہم نے ان کی ہدایت کو بڑھایا۔

اور ارشاد باری تعالیٰ ہے:

وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا (۳)

اور ہم نے ان کو (حضرت یحییٰ علیہ السلام کو) بچپن میں فیصلے
 کی قوت عطا کی۔

حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو آپ کی دائرہ مبارک اور سمرقند میں
 بیس بال بھی سفید نہ تھے (۴)

ان سے پوچھا گیا اسے ابو حمزہ (حضرت انس رضی اللہ عنہ کی کنیت) نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو عمر رسیدہ ہو چکے تھے تو
 انہوں نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑھاپے کا عیب نہ لگایا۔ پوچھا گیا کیا یہ عیب ہے؟ انہوں نے فرمایا تم سے ہر ایک اسے
 ناپسند کرتا ہے کہا جاتا ہے کہ یحییٰ بن اکتھم بیس سال کی عمر میں عہدہ قضا پر مامور ہوئے، ان کی مجلس میں ایک آدمی نے کہا اور وہ
 آپ کو کم سنی کی وجہ سے شرمندہ کرنا چاہتا تھا، قاضی صاحب کی عمر کتنی ہے؟ اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے انہوں نے فرمایا جیسا
 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت عقاب بن اسید رضی اللہ عنہ کو مکہ مکرمہ کا حکمران بنایا تو اس وقت ان کی عمر تھی۔
 (میری عمر بھی اتنی ہی ہے) تو انہوں نے اس شخص کو لاجواب کر دیا۔ (۵)

حضرت امام مالک رحمہ اللہ سے مروی ہے فرماتے ہیں میں نے بعض کتابوں میں پڑھا ہے کہ دائرہ مبارک میں دھوکہ نہ دے

(۱) قرآن مجید سورہ انبیاء آیت ۶۰

(۲) قرآن مجید سورہ کہف آیت ۱۳

(۳) قرآن مجید سورہ مریم آیت ۱۲

(۴) صحیح بخاری جلد اول ص ۵۰۲ باب صفۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم

(۵) مختصر ابن عساکر جلد ۲ ص ۲۰۵ ترجمہ ۱۰۵

کیوں کہ دائرہ کی تو بکرے کی بھی ہوتی ہے۔ حضرت ابو عمرو بن عطاء فرماتے ہیں جب تم کسی شخص کو دیکھو کہ اس کا قدم بائیں سر چھوٹا اور دائرہ چوڑی ہے تو جان لو کہ یہ بے وقوف ہے۔ اگرچہ وہ امیہ بن عبد شمس ہی ہو۔
حضرت ایوب سمعیانی نے فرمایا میں نے ایک اسی سالہ بوڑھے کو دیکھا وہ ایک لڑکے کے پیچھے چار ہاتھ اور اس سے سیکھتا تھا۔ حضرت علی بن حسین نے فرمایا جو شخص تجھ سے علم میں سبقت لے گیا وہ تیرا امام ہے اگرچہ وہ عمر میں تجھ سے چھوٹا ہو۔

حضرت ابو عمرو بن عطاء سے پوچھا گیا کیا کسی عمر رسیدہ کے لیے بچے سے سیکھنا اچھا ہے؟ انہوں نے فرمایا اگر اس کا جاہل رہنا برا ہے تو سیکھنا اچھا ہے۔

حضرت یحییٰ بن معین نے حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو حضرت امام شافعی رحمہ اللہ کی حجر کے پیچھے جاتے ہوئے دیکھ کر پوچھا اسے ابو عبد اللہ! آپ نے حضرت سفیان کے بلند مقام ہونے کے باوجود ان کی حدیث کو چھوڑ دیا اور اس نوجوان کی حجر کے پیچھے چل رہے ہیں اور اس سے سنتے ہیں حضرت امام احمد رحمہ اللہ نے ان سے فرمایا اگر تمہیں پہچان ہوتی تو تم اس حجر کی دوسری جانب چلتے اگر مجھے حضرت سفیان کا علم ان کی بلندی کی وجہ سے نہ ملا تو نچلے درجے میں آنے سے تو مل گیا اور اگر اس نوجوان کی عقل سے استفادہ نہ کر سکتا تو میں بلندی و پستی میں کہیں بھی نہیں پاسکوں گا۔

۴۔ بڑھاپے سے نفرت کرتے ہوئے سفید بالوں کو اکھیڑنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفید بال اکھیڑنے سے

منع فرمایا اور ارشاد فرمایا یہ یحییٰ کا نور ہے (۱)

سیاہ خضاب میں یہی بات ہے اور اس کی ناپسندیدگی کی وجہ گزر چکی ہے سفیدی نور خداوندی ہے اور اس سے اعراض، اللہ تعالیٰ کے نور سے اعراض کرنا ہے۔

۵۔ بے مقصد اور خواہش کے تحت تمام دائرہ یا اس کے کچھ بال اکھیڑنا۔ یہ مکروہ ہے اور شکل و صورت کو بگاڑنا ہے اور بچی (دائرہ) کی دونوں طرف سے بال اکھیڑنا بدعت ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص گواہی دینے آیا اور وہ دائرہ کے اطراف سے بال تو چٹاتا تو آپ نے اس کی گواہی رد کر دی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور مدینہ طیبہ کے قاضی ابن ابی لیلیٰ رحمہ اللہ نے اس شخص کی گواہی قبول نہ فرمائی جو اپنی دائرہ اکھیڑتا تھا۔ دائرہ اگنے کے ابتدائی وقت امر قریب البلوغ لڑکوں سے مشابہت اختیار کرنے کے لیے دائرہ کو اکھاڑنا، کبیرہ گناہوں میں سے ہے کیونکہ دائرہ مردوں کی زینت ہے اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے ان الفاظ کے ساتھ قسم کھاتے ہیں۔

”اس فات کی قسم جس نے انسانوں کو دائرہ کے ساتھ زینت بخشی، اور یہ تکمیل تخلیق سے ہے اسی سے مرد و عورت

(۱) مسند امام احمد بن حنبل جلد ۲ ص ۲۱۲ روایت عبداللہ بن عمرو

کے درمیان تمیز ہوتی ہے غریب التاویل میں کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد و گرامی۔

يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ (۱)

اللہ تعالیٰ کی خلقت میں جو چاہتا ہے بڑھاتا ہے سے داڑھی

مراد ہے۔

حضرت احنف بن قیس کے شاگرد کہتے تھے ہم چاہتے ہیں کہ حضرت احنف کے بیسے داڑھی خریدیں اگرچہ بیس ہزار کی بلے حضرت قاضی شریح فرماتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ میری داڑھی ہو اگرچہ دس ہزار کی ہو، اور داڑھی کو کیسے پسند کیا جائے گا حالانکہ اس میں مرد کی تعظیم ہے اس کی طرف علم و وقار کے ساتھ دیکھا جاتا ہے اور مجالس میں بلند مقام دیا جاتا ہے لوگ اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور جماعت پر مقدم کیا جاتا ہے اور اس کی عزت محفوظ ہوتی ہے کیونکہ جو شخص گالی دیتا ہے تو اگر اس (جس کو گالی دے رہا ہے) کی داڑھی ہو تو پہلے اسی کا ذکر کرتا ہے اور کہا گیا ہے کہ جنت میں حضرت ہارون علیہ السلام (حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی) کے علاوہ سب لوگ داڑھی کے بغیر ہوں گے اور ان (حضرت ہارون علیہ السلام) کی داڑھی ناف تک ہوگی یہ ان کی تخصیص فضیلت کا باعث ہوگی۔

۶۔ عورتوں کے لیے زینت بنانے اور بناوٹ اختیار کرنے کی خاطر داڑھی کو پتہ کاٹنا مکروہ ہے، حضرت کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آخری زمانے میں کچھ لوگ ہوں جن کی داڑھیاں بوتل کی دم کی طرح ہوں گی (گولی ہوں گی) اور جو تئوں سے درمیانوں کی سی آواز نکالیں گے ان کا رآخرت میں کوئی حصہ نہیں۔

۷۔ داڑھی کو بڑھانا یعنی کنپٹیوں کے بالوں کو برخسار کے بالوں میں شمار کر کے داڑھی کو بڑھانا حالانکہ وہ دوسرے بال ہیں حتیٰ کہ داڑھی بڑی ہو کر نصف رخسار تک پہنچ جاتی ہے یہ نیک لوگوں کی شکل کے خلاف ہے۔

۸۔ لوگوں کو دکھانے کے لیے گنگھی کرنا، حضرت بشر رحمہ اللہ فرماتے ہیں داڑھی کے سلسلے میں دو شکر ہیں (۱) لوگوں کو دکھانے کے لیے گنگھی کرنا اور زبرد و تقویٰ کے اظہار کے لیے گنگھی کے بغیر چھوڑ دینا،

۹۔ ۱۰۔ داڑھی کی سیاہی اور سفیدی کو تکبر و خود پسندی کی نگاہ سے دیکھنا اور یہ بات بدن کے تمام اجزاء میں مذہوم ہے بلکہ تمام عادات و افعال میں ناپسندیدہ ہے جیسے اس کا بیان آئے گا۔

یہ وہ باتیں ہیں جو ہم زینت و پاکیزگی کے حصول کے سلسلے میں ذکر کرنا چاہتے تھے اور تین احادیث سے جسم میں بارہ باتوں کا سنت ہونا معلوم ہوا ہے۔ پانچ باتیں سر سے متعلق ہیں۔

اور وہ یہ ہیں۔ سر کے بالوں کی (درمیان میں سے) مانگ نکالنا، (۲)

(۱) قرآن مجید سورۃ خاطر آیت ۷۱

(۲) صحیح بخاری جلد اول ص ۵۳ باب صفۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم

کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا، مونچھوں کو کاٹنا اور مسواک کرنا (۱)
 • ہین سنتوں کا تعلق ہاتھوں اور پاؤں سے ہے اور وہ ناخن کاٹنا، انگلیوں کی اوپر کے سونٹوں اور اندر کے جوڑوں
 کی صفائی کرنا۔

چار باتیں باقی جسم سے متعلق ہیں۔ یعنی بھلوں کے بال اٹھڑنا، زیریناٹ بالوں کے لیے استرا استعمال کرنا، عتقہ کرنا،
 اور پانی سے استنجاد کرنا۔

ان تمام کے بارے میں روایات آئی ہیں۔ اور جب اس باب میں ہماری غرض ظاہری طہارت ہے باطنی نہیں تو ہم
 اسی پر اکتفا کرتے ہیں اور یہ بات ثابت ہے کہ باطنی نجاستیں اور میل کچل جس سے پاکیزگی حاصل کرنا ضروری ہے وہ شمار
 سے باہر ہے اس کی تفصیل کتاب کے اس حصے میں آٹے کی جس میں ہلاک کرنے والے امور کا ذکر ہوگا۔ یہ بھی بتایا جائے گا
 کہ اس کو دور کرنے کے کیا کیا طریقے ہیں اور دل کی طہارت کیسے حاصل ہوتی ہے۔

اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کے شکر کے ساتھ طہارت کے اسرار کا بیان مکمل ہوا اس کے بعد انشاء اللہ نماز
 کے اسرار کا بیان ہوگا۔

تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو بکتا ہے اور ہمارے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ہر منتخب
 بندے پر رحمت ہو۔

نماز کے اسرار و مسائل کا بیان

ہر قسم کی حمد و ستائش اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جس نے بندوں کو اپنی مہربانیوں (کی چادر) میں ڈھانپ لیا ان کے دلوں کو دیکھ اور اس کے احکام کے انوار سے معمور فرمایا وہ اللہ تعالیٰ کہ عرشِ جلال سے آسمانِ دنیا کی طرف درجاتِ رحمت سے اس کی کوئی نہ کوئی مہربانی اترتی رہتی ہے۔ اپنے جلال و کبریائی کے ساتھ ساتھ اس اعتبار سے بھی بادشاہوں سے ممتاز و منفرد ہے کہ وہ بندوں کو سوال و دعا کی ترغیب دیتا ہے۔ فرماتا ہے۔

کیا کوئی دعا کرنے والا ہے کہ میں اس کی دعا کو قبول کروں؟ ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا کہ میں اسے بخش دوں؟ (۱۲)

بادشاہوں کا اس سے کیا مقابلہ ہے اس نے دروازہ کھول دیا اور پردہ اٹھا دیا بندوں کو نمازوں میں دعاؤں کی اجازت دی ان کی جو بھی حالت ہو جماعت میں ہوں یا الگ الگ، اور صرف اجازت پر اکتفا نہیں کیا بلکہ ترغیب و دعوت کے ذریعے بھی گرم فرمایا۔ جب کہ دینی بادشاہ تو کسی کو علیحدگی میں وقت بھی نہیں دیتے جب تک انہیں کوئی ہدیہ یا رشوت پیش نہ کی جائے۔ وہ پاک ہے اس کی شان کس قدر بلند اور اس کی بادشاہی کتنی مضبوط ہے اس کی مہربانی کتنی مکمل اور احسان کس قدر عام ہے۔ اس کے برگزیدہ نبی اور پسندیدہ دوست حضرت محمد مصطفیٰ (صلی اللہ علیہ وسلم) پر رحمت نازل ہو آپ کے آل و اصحاب پر بھی جو ہدایت کی چابیاں اور اندھیروں میں چراغ ہیں اور بے حد سلام ہو۔ حمد و صلوات کے بعد نماز دین کا ستون اور یقین کا وسیلہ ہے تمام عبادات کی اصل اور اعمال صالحہ کی روشنی ہے ہم تھے فن فقہ میں بسط المذہب و سبط المذہب اور جیز المذہب میں اس کے اصول و فروع کو تفصیل سے بیان کیا ہے اب ہم نادر تفریعات اور کم واقع ہونے والے واقعات کی طرف متوجہ ہونے ہیں تاکہ وہ مفتی کے لیے خزانہ بن جائے کہ وہ ضرورت کے وقت اس کی طرف رجوع کرے اور اس سے مدد حاصل کرے۔ اب ہم اس باب میں صرف وہ اعمال ظاہرہ اور اسرار باطنہ بیان کریں گے جو ایک سالک کے لیے ضروری ہیں۔ نیز نشوونما، اخلاص اور نیت کے وہ باریک معانی واضح کریں گے جو پوشیدہ ہیں اور فن فقہ میں انہیں بیان نہیں کیا جاتا ہے اس بیان کو سات بابوں پر تقسیم کرتے ہیں۔

پہلا باب۔ فضائل نماز دوسرا باب، نماز کے ظاہری اعمال کی فضیلت، تیسرا باب، نماز کے باطنی اعمال کی فضیلت، چوتھا باب، امامت و پیشوائی پانچواں باب، نماز جمعہ اور اس کے آداب چھٹا باب متفرق مسائل جو عام طور پر پائے جاتے ہیں اور سالک ان سے آگاہی کا محتاج ہے، ساتواں باب، نوافل وغیرہ۔

پہلا باب

نماز، سجدہ، جماعت اور اذان وغیرہ کی فضیلت

اذان کی فضیلت :

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا :

قَدْ تَدْرُكُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى كَثِيبٍ مِنْ
مَسِكَ اسْوَدَّ وَ يَهُوْلُهُمْ حِسَابٌ وَ لَا يَنَا لُهُمْ
ذَرْعٌ مِمَّا بَيْنَ النَّاسِ رَجُلٌ قَرَأَ
الْقُرْآنَ ابْتِغَاءً وَجْهَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَ آمَنَ
بِقَوْمِهِ وَ هَمَّ بِهِ رَاضُونَ وَ رَجُلٌ آذَنَ
فِي مَسْجِدٍ وَ دَعَا إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ابْتِغَاءً
وَ حِبِّ اللَّهِ وَ رَجُلٌ ابْتُلِيَ بِالرِّزْقِ فِي
الدُّنْيَا فَلَمْ يَشْغَلْ ذَلِكَ مِنْ عَمَلِ
الْآخِرَةِ - (۱)

اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :

لَا يَسْمَعُ نِدَاءَ الْمُؤَذِّنِ جَنَّ وَلَا انْتِ
وَلَا شَيْءًا إِلَّا شَهِدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ - (۲)

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :

يَدُ الرَّحْمَنِ عَلَى رَأْسِ الْمُؤَذِّنِ حَتَّى يَفْرُغَ
مِنْ آذَانِهِ - (۳)

تین قسم کے آدمی قیامت کے دن سیاہ کستوری کے ٹیلے
پر ہوں گے انہیں حساب خوفزدہ نہیں کرے گا اور نہ ہی وہ
اس پریشانی میں مبتلا ہوں گے جس میں دوسرے لوگ مبتلا ہوں
گے ایک وہ شخص جس نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے قرآن پاک
پڑھا اور کسی قوم کی امامت کرائی اور وہ لوگ اس پر راضی ہیں
دوسرا وہ شخص ہے جس نے مسجد میں اذان دی اور لوگوں
کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلا یا اور یہ کام رمضانے خداوندی کے
لیے کیا اور تیسرا وہ شخص جو حصول رزق میں مبتلا ہوا تو اس عمل
نے اسے آخرت کے عمل سے نہ روکا۔

موزن کی اذان جن، انسان اور جو چیز بھی سنتی ہے وہ قیامت
کے دن اس کے لیے گواہی دے گی۔

اللہ تعالیٰ (کی رحمت) کا ہاتھ موزن کے سر پر ہوتا ہے یہاں
تک کہ وہ اذان سے فارغ ہو جاتے۔

(۱) کنز العمال جلد ۵ ص ۸۳۲ حدیث ۲۳۳۰۹ (۲) صحیح بخاری جلد اول ص ۸۶ باب رفع الصوت بالنداء

(۳) الکامل لابن عدى جلد ۵ ص ۱۰۶ ترجمہ عمر بن حفص

کہا گیا کہ درج ذیل آیت موزنون کے حق میں نازل ہوئی ہے ارشاد خداوندی ہے :

اور اس سے بڑھ کر کس کی بات اچھی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتا ہے اور خود (جلی) اچھے کام کرتا ہے۔

وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا۔ (۱)

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

جب تم موزنون سے اذان سنو تو اس کی مثل کہو جو موزنون کہتا ہے۔

إِذَا سَمِعْتُمُ الْبَدَاءَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ الْمُوْذِنُ (۲)

حتیٰ علی الصلوة اور حتیٰ علی الفلاح کے علاوہ باقی اذان میں وہی الفاظ کہے البتہ ان دو کلمات کے جواب میں لا حول ولا قوۃ الا باللہ (۳) کہے "قد قامت الصلوة" کے جواب میں کہے "اقامہا اللہ وادامہا مادامت السموات والارض" (۴) اور "الصلوة خیر من النور" کے جواب میں "صدقت وبرزت و نصحت" (۵) کہے۔

اور اذان کے بعد یہ دعائے گے :

اسے اس دعوت کامل اور کھڑی ہونے والی نماز کے رب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ، فضیلت اور بلند مقام عطا فرما اور آپ کو اس مقام محمود پر پہنچا جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے شک تو وعدہ کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔

اللَّهُمَّ رَبِّ هَذِهِ الدَّعْوَةُ التَّامَّةُ وَالصَّلَاةُ الْقَائِمَةُ أَنْتَ مُحَمَّدَانِ الْوَسِيْلَةُ وَالْفَضِيْلَةُ وَالذَّرَجَةُ الرَّفِيْعَةُ وَالْعِثَّةُ الْمَقَامَةُ الْمَحْمُودُ الَّذِي وَعَدْتَهُ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ۔ (۶)

حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں "جس نے کسی کھلی جگہ میں نماز پڑھی تو اس کی دائیں اور بائیں طرف ایک ایک فرشتہ نماز پڑھتا ہے اگر وہ اذان سے اور اقامت کہہ کر نماز پڑھے تو اس کے پیچھے پہاڑوں کی مثل فرشتے نماز پڑھتے ہیں (یعنی بہت زیادہ)۔"

(۱) قرآن مجید سورہ فصلت آیت ۳۳

(۲) صحیح بخاری جلد اول ص ۱۶۶ باب ما یقول اذا سمع المنادی

(۳) نیکی کر کے اور برائی سے بچنے کی قوت صرف اللہ تعالیٰ ہی عطا فرماتا ہے۔

(۴) جب تک آسمان و زمین قائم ہیں اللہ تعالیٰ اس (نماز) کو قائم و دائم رکھے۔

(۵) تو نے سچ کہا، نیکی اور خیر خواہی کی۔

فرض نماز کی فضیلت :

اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا :

إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا
مُوقُوتًا - (۱)

بے شک نماز، مومنوں پر اپنے اپنے وقت پر فرض
ہے۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم :

خَفَسَ صَلَوَاتٍ كَتَبَهُنَّ اللَّهُ عَلَى الْعِبَادِ
فَمَنْ جَاءَ بِهِنَّ وَلَمْ يُصْنَعْ مِنْهُنَّ شَيْئًا
اسْتِخْفَانًا بِحَقِيقَتِهِنَّ كَانَ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ
عَهْدٌ أَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ لَمْ
يَأْتِ بِهِنَّ فَلَيْسَ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدٌ
إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ وَإِنْ شَاءَ أَدْخَلَهُ
الْجَنَّةَ - (۲)

اللہ تعالیٰ نے بندوں پر پانچ (اوقات کی) نمازیں فرض کی
ہیں جو شخص انہیں ادا کرے اور ان کے حق کو معمولی سمجھ
کر انہیں ضائع نہ کرے اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر اس کے
لیے وعدہ ہے کہ وہ اسے جنت میں داخل کرے اور جو ادا
نہ کرے اللہ تعالیٰ کا اس سے وعدہ نہیں ہے اگر چاہے
تو اسے عذاب دے اور اگر چاہے تو اسے جنت میں
داخل کرے۔

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :

مَثَلُ الصَّلَاةِ الْخَمْسِ كَمَثَلِ نَهْرٍ عَذِيبٍ
عَمْرِي يَأْبِ أَحَدِكُمْ يَقْتَحِمُ فِيهِ كَلًّا
يَوْمَ تَحْمِسُ مَرَاتٍ فَمَا تَذَرُونَ ذَلِكَ
يُبْغِي مِنْ دَرِيئِهِ قَالُوا لَا شَيْءَ قَالَ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّ الصَّلَاةَ
الْخَمْسَ تَذْهَبُ الذُّنُوبَ كَمَا يَذْهَبُ
الْمَاءُ الدَّرَنَ (۳، ۴)

پانچ نمازوں کی مثال ایک نہر عذیبی ہے جس کا پانی میٹھا
اور گہرا ہو اور وہ تم میں سے کسی کے دروازے پر ہو وہ
اس میں روزانہ پانچ مرتبہ غوطہ لگائے تمہارا کیا خیال ہے
کیا اس کے جسم پر کوئی میل باقی چھوڑے گی انہوں نے
عرض کیا نہیں، آپ نے فرمایا بے شک پانچ (اوقات کی)
نمازیں گناہوں کو اس طرح لے جاتی ہیں جس طرح پانی میل
کو دور کر دیتا ہے۔

(۱) قرآن مجید سورہ نساء آیت ۱۰۳

(۲) سنن ابی داؤد جلد اول ص ۲۰۱ باب فی من لم یوتر

(۳) صحیح مسلم جلد اول ص ۲۳۵ باب المشی الی الصلوٰۃ

(۴) مسند امام احمد بن حنبل جلد اول ص ۲، مرویات عثمان رضی اللہ عنہ

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
 إِنَّ الصَّلَاةَ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ مَا اجْتَنَبْتَ
 الْكَبَائِرَ (۱)

بے شک نماز، (دونمازوں کے) درمیان والے گناہوں
 کا کفارہ ہے جب تک کبیرہ گناہوں سے بچا رہے۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
 بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْمُنَافِقِينَ شُهُودٌ لَعْنَةُ
 وَالصُّبْحِ لَا يَسْتَطِيعُونَ هُمَا - (۲)

ہمارے اور منافقین کے درمیان عشاء اور فجر کی نماز
 میں حاضری کا فرق ہے وہ ان دونمازوں میں حاضری کی
 طاقت نہیں رکھتے۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

مَنْ كَفَى اللَّهُ دَهْوًا مَضِيْعًا لِلصَّلَاةِ لَمْ
 يَبْغَاءِ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِنْ حَسَنَاتِهِ (۳)

جو شخص اللہ تعالیٰ سے یوں ملاقات کرے کہ اس نے نماز
 ضائع کی ہوئی ہو اللہ تعالیٰ اس کی کسی نیکی کی پرواہ نہیں کرے گا۔

آپ نے ارشاد فرمایا:

الصَّلَاةُ عِمَادُ الدِّينِ فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدَ هَدْمَ
 الدِّينِ - (۴)

نماز دین کا ستون ہے تو جس نے اسے چھوڑا اس نے دین
 کو گرا دیا۔

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کونسا عمل افضل ہے آپ نے فرمایا وقت پر نماز ادا کرنا۔ (۵)

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

مَنْ خَافَ عَلَى الْخَمْسِ بَأْسَ مَا لَمْ يَطْهَرِهَا
 وَمَوَاعِظِهَا كَانَتْ لَهُ نُورًا وَبُرْهَانًا يَوْمَ
 الْقِيَامَةِ وَمَنْ ضَيَعَهَا حَشَرَ مَعَ فِرْعَوْنَ وَ
 هَامَانَ - (۶)

جس شخص نے طہارت کاملہ اور اوقات (کے لحاظ) کے
 ساتھ پانچ نمازوں کی حفاظت کی تو یہ نماز قیامت کے دن
 اس کے لیے نور اور دلیل ہوگی اور جس نے ان نمازوں کو ضائع
 کیا اس کا حشر فرعون اور ہامان کے ساتھ ہوگا۔

(۱) صحیح مسلم جلد اول ص ۱۲۲ باب فضل الوضوء

(۲) موطا امام مالک ص ۱۱۳ باب ما جاز فی الصلوٰۃ عقبہ العتمة والبعث

(۳) مجمع الزوائد جلد اول ص ۲۹۱، ۲۹۲ باب فرض الصلوٰۃ

(۴) الدر المنثور جلد اول ص ۲۹۶ تحت آیت حافظوا علی الصلوات -

(۵) صحیح بخاری جلد اول ص ۳۹۰ باب فضل الجہاد - (۶) شعب الایمان جلد ۲ ص ۶۶ حدیث ۲۸۲۴

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
مِفْتَاحُ الْجَنَّةِ الصَّلَاةُ (۱)

جنت کی چابی نماز ہے۔

نیز آپ نے فرمایا:

مَا أَفْتَرَصَ اللَّهُ عَلَىٰ خَلْقٍ بَعْدَ التَّوْحِيدِ
أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنَ الصَّلَاةِ وَلَوْ كَانَ شَيْءٌ أَحَبَّ
إِلَيْهِ مِنْهَا لَتَعَبَّدَ بِهِ مَلَائِكَتُهُ فَمِنْهُمْ
رَائِعٌ وَمِنْهُمْ سَاجِدٌ وَمِنْهُمْ قَائِمٌ
وَقَاعِدٌ - (۲)

اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق پر توحید کے بعد نماز سے زیادہ پسندیدہ
کوئی عمل فرض نہیں کیا اگر اسے اس سے زیادہ کوئی عمل محبوب
ہوتا تو اس کے فرشتے بھی اس عبادت کو اپناتے تو ان میں
سے کچھ رکوع کرتے ہیں کچھ سجدے میں ہیں بعض قیام اور بعض
قعده کے حالت میں ہیں۔

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ مُتَعَمِّدًا فَقَدْ كَفَرَ - (۳)

جس نے نماز کو جان بوجھ کر چھوڑا اس نے کفر کیا۔

مطلب یہ ہے کہ دین کی رسی کھل جائے اور اس کا ستون گرنے کی وجہ سے ممکن ہے اس شخص کا ایمان چلا جائے جس
طرح کوئی شخص کسی شہر کے قریب چلا جائے تو کہا جاتا ہے وہ اس میں پہنچ گیا اور وہاں داخل ہو گیا۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

مَنْ تَرَكَ صَلَاةً مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَدَرِيَ مِنْ
ذِمَّةِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ - (۴)

جس نے جان بوجھ کر ایک نماز بھی چھوڑی وہ حضرت محمد
مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ رحمت سے باہر ہو گیا۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

جس نے اچھی طرح وضو کیا پھر وہ نماز کے ارادے سے باہر گیا تو جب تک اس ارادے پر رہتا ہے نماز میں شمار ہوتا ہے
اس کے لیے ایک قدم کے بدلے میں ایک نیکی لکھی جاتی ہے اور دوسرے کے ساتھ گناہ مٹ جاتا ہے جب تم میں سے کوئی
اقامت سے تو اسے تاخیر کرنا مناسب نہیں تم میں سے زیادہ اجر والا وہ شخص ہے جس کا گھر (مسجد سے) زیادہ دور ہے، حاضرین
نے عرض کیا اسے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کیوں! فرمایا زیادہ قدم اٹھانے کی وجہ سے ایک حدیث شریف میں ہے کہ قیامت کے دن

(۱) سنن امام احمد بن حنبل جلد ۳ ص ۴۰۰ حدیث جابر رضی اللہ عنہ

(۲)

(۳) مجمع الزوائد جلد اول ص ۲۹۵ باب فی تارک الصلوة

(۴)

بندے کے اعمال میں سے سب سے پہلے نماز کو دیکھا جائے گا اگر اسے مکمل پایا گیا تو اسے بھی اور باقی تمام اعمال کو بھی قبول کیا جائے گا۔ اگر اسے ناقص پایا گیا تو نماز اور باقی تمام اعمال بھی رد کر دیئے جائیں گے (۱)

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

يَا أَبَاهُ دَرِيَّةٌ مُّذَاهِلِكِ بِالْمَلَكُوتِ فَإِنَّ
اللَّهَ يَا تَيْبِكَ بِالرِّزْقِ مِنْ حَيْثُ لَا تَحْتَسِبُ
اسے ابوہریرہ رضی اللہ عنہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دینے
اللہ تعالیٰ تمہارے پاس وہاں سے رزق لائے گا جس
کا تمہیں گمان بھی نہ ہوگا۔ (۲)

بعض علماء کرام نے فرمایا: "نماز کی مثال اس تاجر کی سی ہے جو اس وقت تک نفع حاصل نہیں کر سکتا جب تک پورا مال خرچ نہ کرے اسی طرح نماز کی نفل نماز اس وقت تک قبول نہیں ہوتی جب تک وہ فرض نماز ادا نہ کرے۔" حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نماز کے وقت فرمایا کرتے تھے "اٹھو اس آگ کی طرف جو تم نے جلا رکھی ہے اور اسے بجھا دو۔" (یعنی نماز گناہوں کی آگ کو بجھاتی ہے)

تکمیل ارکان نماز کی فضیلت:

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

مَثَلُ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ كَمَثَلِ الْعِزَّانِ مِنَ
أَفْئِ اسْتَوْفَى - (۳)

فرض نماز کی مثال ترازو جیسی ہے جس نے اسے اوپر کیا ہے
پورا پورا اجر ملے گا۔

حضرت زید اقصی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں "نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز برابر برابر ہوتی تھی گویا اس کا وزن کیا گیا ہو (۴) نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

إِنَّ الدُّجَجِينَ مِنْ أُمَّتِي لَيَقُومُونَ إِلَى الصَّلَاةِ
وَرُكُوعَهُمَا وَسُجُودَهُمَا وَاحِدًا وَإِنَّ
مَا بَيْنَ صَدَاهُ تَيْبَهُمَا مَا بَيْنَ السَّمَاءِ
وَالْأَرْضِ (۵)

میری امت سے دو آدمی نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں ان
کے رکوع و سجود ایک جیسے ہوتے ہیں لیکن ان کے نمازوں
کے درمیان آسمان و زمین کے درمیان جتنا فاصلہ
ہوتا ہے۔

(۲)

(۱)

(۳) الترغیب والترہیب جلد اول ص ۳۵۱ فصل فیما یفید الصوم

(۴) کتاب الزہد والرفاق ص ۳۲ حدیث ۱۳

(۵)

حسن میں آپ نے خشوع کی طرف اشارہ فرمایا (یعنی خشوع کی وجہ سے ایک کی نماز افضل ہو جاتی ہے)
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

لَا يَنْظُرُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى الْعَبْدِ
لَا يَقِيَمُ صَلَاتَهُ بَيْنَ رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ -

(۱)

اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس شخص کی طرف نظر رحمت نہیں
کرے گا جو رکوع اور سجدے میں اپنی پیٹھ کو سیدھا
نہیں رکھتا۔

آپ نے ارشاد فرمایا:

أَمَا يَخَافُ الَّذِي يُحَوِّلُ وَجْهَهُ فِي
الصَّلَاةِ أَنْ يُحَوِّلَ اللَّهُ وَجْهَهُ وَجْهَ
حِمَارٍ (۲)

جو شخص نماز میں اپنے چہرے کو ادھر ادھر پھیرتا ہے کیا
وہ اس بات سے نہیں ڈرتا کہ اللہ تعالیٰ اس کی شکل
کو گدھے کی شکل میں بدل دے۔

آپ نے ارشاد فرمایا:

مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَوْ قَبِلَهَا وَأَسْبَغَ وَضُوءَهَا
وَأَتَمَّ رُكُوعَهَا وَسُجُودَهَا وَخَشَعَهَا
عَرَجَتْ وَهِيَ بَيْضَاءُ مُسْفِرَةٌ تَقُولُ حَفِظَكَ
اللَّهُ كَمَا حَفِظْتَنِي وَمَنْ صَلَّى لَغَيْرِ وَقْتِهَا
وَلَمْ يُسَبِّحْ وَضُوءَهَا وَلَمْ يُتِمَّ رُكُوعَهَا
وَلَا سُجُودَهَا وَلَا خَشَعَهَا عَرَجَتْ وَهِيَ
سَوْدَاءُ مُظْلَمَةٌ تَقُولُ صَنِعَكَ اللَّهُ كَمَا
صَنِعْتَنِي حَتَّىٰ إِذَا كَانَتْ حَيْثُ شَاءَ اللَّهُ
لَفَّتْ كَمَا لَفَّتِ الشَّوْبُ تَيْصَرُّ بِهَا
وَجْهًا (۳)

جس نے وقت پر نماز ادا کی اس کے لیے مکمل وضو کیا
اس کا رکوع، سجدہ اور خشوع بھی پورا کیا تو وہ نماز روشن
اور سفید اور پر کو جاتی ہے اور کہتی ہے اللہ تعالیٰ تیری
حفاظت کرے جس طرح تو نے میری حفاظت کی اور جو
شخص اسے وقت پر نہیں پڑھتا نہ اس کے لیے وضو مکمل
کرتا ہے اور نہ ہی اس کے رکوع، سجدہ اور خشوع کو
پورا کرتا ہے تو وہ نماز سیاہ اور اندھیرے کی شکل میں
اوپر جاتی ہے اور کہتی ہے اللہ تعالیٰ تجھے پھوڑ دے جس
طرح تو نے مجھے صنایع کیا حتیٰ کہ جب وہاں جاتی ہے
جہاں اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو اس کو کپڑے کی طرح لپیٹ
کر اس کے منہ پر مار دیا جاتا ہے۔

(۱) مسند امام احمد بن حنبل جلد ۲ ص ۵۲۵ مرویات ابی ہریرہ

(۲) تاریخ ابن عساکر جلد ۲ ص ۱۶۹ ترجمہ ابراہیم بنی احمد

(۳) الترغیب والترہیب جلد اول ص ۲۵۸ الترغیب فی الصلوة فی اول الوقت -

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
 اَسْوَأُ النَّاسِ سَرِقَةً الَّذِي يَسْرِقُ مِنْ
 صَلَاتِهِ (۱)

لوگوں میں سے سب سے بُرا چور وہ شخص ہے جو اپنی نماز
 سے چوری کرتا ہے۔

حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت سلمان رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں نماز ایک (ماپنے کا) پیمانہ ہے جس نے پورا کیا اسے پورا
 پورا بدلہ ملے گا۔ اور جو شخص اس میں کمی کرتا ہے تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے کمی کرنے والوں کے بارے میں
 کیا فرمایا ہے (یعنی سورہ مطففین میں کیا کچھ فرمایا)

فضیلتِ جماعت :

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
 صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضِلُ صَلَاةَ الْفَرْدِ
 بِسِتِّعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً (۲)

نماز باجماعت، تنہا نماز سے ستائیس درجات بڑھ
 کر ہے۔

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی نماز میں کچھ لوگوں کو غیر حاضر پایا
 تو فرمایا میں نے ارادہ کیا کہ کسی کو حکم دوں جو صحابہ کرام کو نماز پڑھا گئے پھر ان لوگوں کی طرف جاؤں جو جماعت سے پیچھے رہ
 گئے، اور ان کے گھروں کو جلد دوں۔ (۳)

ایک دوسری روایت میں اس طرح آیا ہے پھر ان لوگوں کی طرف جاؤں جو جماعت سے پیچھے رہتے ہیں اور ان کے
 بارے میں حکم دوں کہ ان پر ان کے گھروں کو بکڑیوں کے ساتھ جلا دیا جائے اور ان میں سے کسی ایک کو یہ علم ہوتا کہ وہ گوشت
 سے پڑھی اور بکری کے پائے حاصل کرے گا تو اس نماز (عشاء کی نماز) میں ضرور حاضر ہوتا ہے۔ (۴)

حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرفوعاً روایت کرتے ہیں کہ جو شخص عشاء کی نماز میں حاضر ہوتا ہے گو یا وہ نصف رات قیام
 کرتا ہے اور جو شخص صبح کی نماز میں حاضر ہوتا ہے گو یا وہ پوری رات قیام کرتا ہے (۵)

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

(۱) مسند امام احمد بن حنبل جلد ۵ ص ۳۱۰ مرویات ابی قتادہ

(۲) صحیح مسلم جلد اول ص ۲۳۱ باب فضل صلاة الجماعة

(۳) صحیح مسلم جلد اول ص ۳۳۱ باب فضل صلاة الجماعة

(۴) مسند ابی عوانہ جلد ۲ ص ۶۶ باب ایجاب ایقان الجماعة

(۵) جامع ترمذی جلد اول ص ۵۹ باب ماجاء فی فضل العشاء

مَنْ صَلَّى صَلَاةً فِي جَمَاعَةٍ فَقَدْ مَلَءَ
خِزَانَةَ عِبَادَتِهِ - (۱)

جو شخص ایک نماز باجماعت پڑھتا ہے تو وہ اپنے سینے
کو عبادت سے بھر دیتا ہے۔

حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں «بیس سال سے جب بھی موزن اذان دیتا ہے میں مسجد میں ہوتا ہوں، حضرت
محمد بن واسع فرماتے ہیں مجھے دنیا سے تین چیزوں کا شوق ہے ایک ایسا (مسلمان) بھائی کہ جب میں ٹیڑھا ہو جاؤں تو مجھے
سیدھا کر دے، اور اتنا زرق اور باجماعت نماز جس میں بھولنا مجھے معاف کر دیا جائے اور اس کی فضیلت میرے
لیے لکھ دی جائے»۔ ایک روایت میں ہے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ کچھ لوگوں کی امامت
کروائی تو سلام پھرنے کے بعد فرمایا «ابھی شیطان مسلسل میرے ساتھ رہا حتیٰ کہ میں نے خیال کیا کہ میں دوسروں سے افضل
ہوں آئندہ میں کبھی امامت نہیں کراؤں گا۔

حضرت حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں «ایسے آدمی کے پیچھے نماز پڑھو جو علماء کے پاس نہیں جاتا» حضرت نخعی فرماتے
ہیں وہ شخص جو علم کے بغیر لوگوں کی امامت کرواتا اس شخص کی طرح ہے جو سمندر میں پانی کو چاہتا ہے اور اس کی زیادتی
اور کمی کو نہیں جان سکتا ہے» حضرت حاتم رحمہ اللہ نے فرمایا کہ مجھے سے نماز باجماعت رہ گئی تو حضرت، ابو اسحاق بخاری نے
میرے ہاں اظہارِ افسوس کیا اور اگر میرا لڑکا مر جاتا تو دس ہزار سے زیادہ لوگ میرے ہاں تعزیت کرتے کیونکہ لوگوں کے
نزدیک دنیا کی مصیبت کے مقابلے میں دین کی مصیبت معمولی ہوتی ہے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا جو شخص موزن کی آواز سن کر اس کا جواب نہ دے (نماز باجماعت میں حاضر
نہ ہو) اس نے بھلائی کا ارادہ نہیں کیا اور نہ اس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا گیا۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کسی انسان کے کان کو گھلائے ہوئے سیسے سے بھر دیا جائے یہ اس سے بہتر
ہے کہ وہ اذان سن کر نماز کے لئے حاضر نہ ہو۔

ایک روایت میں ہے کہ حضرت میمون بن مہران رحمہ اللہ مسجد میں آئے تو انہیں بتایا گیا کہ لوگ تو نماز پڑھ کر واپس
چاچکے میں انہوں نے «انا لله وانا الیہ راجعون» پڑھا اور فرمایا مجھے اس نماز کی فضیلت، عراق کی حکومت سے
بھی زیادہ پسند ہے۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

مَنْ صَلَّى أَرْبَعِينَ يَوْمًا الصَّلَاةَ فِي
جَمَاعَةٍ لَمْ تَقُوتْ فِيهَا تَكْبِيرَةُ الْإِحْرَامِ

جو شخص چالیس دن نماز باجماعت پڑھے اور اس سے
تکبیر تحریمیہ نہ چھوٹے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے دو

کَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ إِذْ تَدْرَأُونَ قِيْنَ بَرَاءَةً مِّنَ النِّفَاقِ
وَبَرَاءَةً مِّنَ النَّارِ (۱)

چھکارے لکھ دیتا ہے ایک چھکارا منافقت سے
اور دوسرا جہنم کی آگ سے۔

کہا جاتا ہے کہ قیامت کے دن ایک ایسی جماعت کو اٹھایا جائے گا جن کے چہرے چمکتے ہوئے ستارے کی طرح
ہوں گے ان سے فرشتے کہیں گے تم کیا عمل کرتے تھے؟ وہ کہیں گے ہم اذان سننے کے بعد طہارت کے لئے اٹھ کھڑے ہونے
اور کسی دوسرے کام میں مشغول نہ ہوتے، پھر ایک اور جماعت کو اٹھایا جائے گا ان کے چہرے چاندوں کی طرح ہوں
گے وہ پوچھنے پر بتائیں گے کہ ہم وقت سے پہلے وضو کرتے تھے پھر ایک گروہ اٹھایا جائے گا جن کے چہرے سورج کی طرح
(چمکتے) ہوں گے وہ کہیں گے ہم مسجد میں اذان سنتے تھے۔

روایت کیا گیا ہے کہ اسلاف علیہم الرحمۃ سے جب تکبیر تحریر ہو جاتی تو تین دن تک اپنے اوپر افسوس کرتے اور
جب جماعت چھوٹ جاتی تو سات دن اظہار افسوس کرتے۔

فضیلتِ سجدہ :

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :
مَا تَقْرَبُ الْعَبْدُ إِلَى اللَّهِ شَيْئًا أَفْضَلَ مِنْ
سُجُودٍ خَفِيٍّ - (۲)

بندہ ایک پوشیدہ سجدہ سے بڑھ کر کسی چیز کے ساتھ اللہ تعالیٰ
کا قرب حاصل نہیں کرتا۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :
مَا مِنْ مُسْلِمٍ سَجَدَ لِلَّهِ سَجْدَةً أَرَفَعَهُ
اللَّهُ بِهَا دَرَجَةً وَحَطَّ عَنْهُ بِهَا سَيِّئَةٌ - (۳)

جو مسلمان اللہ تعالیٰ کے لیے ایک سجدہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ
اس کے ذریعے اس کا ایک درجہ بلند کرتا ہے اور اس کے
سبب اس سے ایک گناہ مٹا دیتا ہے۔

ایک روایت میں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص نے عرض کیا "آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ وہ
مجھے آپ کی شفاعت کا مستحق کر دے اور جنت میں مجھے آپ کی رفاقت عطا فرمائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سجدوں کی
کثرت کے ساتھ میری یاد کر۔ (۴)

(۱) جامع ترمذی جلد اول من ۶۲ باب فی فضل تکبیرۃ الاولیٰ -

(۲) کنز العمال جلد ۳ ص ۲۶ حدیث ۵۲۶۹

(۳) مسند امام احمد بن حنبل جلد ۵ ص ۲۶۶ روایت حضرت ثوبان -

(۴) صحیح مسلم جلد اول من ۱۹۳ باب فضل السجود

کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا زیادہ قرب بندے کو حالت سجدہ میں حاصل ہوتا ہے (۱) اللہ تعالیٰ کے ارشاد گرامی "وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ" (۲) (سجدہ کر کے قرب خداوندی حاصل کرو) کا مطلب یہی ہے، ارشاد خداوندی ہے:

سَيَمَّا هُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَسْفَرِ
السُّجُودِ - (۳)

کہا گیا ہے کہ اس سے مراد زمین کا وہ حصہ ہے جو حالت سجدہ میں ان کے چہروں سے ملا ہوتا ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس سے نور ششوع مراد ہے وہ باطن سے ظاہر پر چمکتا ہے اور یہی زیادہ صحیح ہے، بعض نے کہا کہ اس سے وہ چمک مراد ہے جو قیامت کے دن وضو کے اثرات سے ان کے چہروں پر ہوگی۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

جب انسان آیت سجدہ پڑھ کر سجدہ کرتا ہے تو شیطان اٹک ہو کر روتا ہے اور کہتا ہے ہائے افسوس! اسے سجدے کا حکم دیا گیا تو اس نے سجدہ کیا لہذا اس کے لیے جنت ہے اور مجھے سجدے کا حکم دیا گیا میں نے نافرمانی کی تو میرے لیے

اِذَا قَرَأَ ابْنُ آدَمَ السُّجُودَ فَسَجَدَ اَعْتَزَلَ
الشَّيْطَانُ يَبْكِي وَيَقُولُ يَا وَيْلَاكَ اِمِيد
هَذَا بِالسُّجُودِ فَسَجَدَ فَلَهُ الْجَنَّةُ
وَأَمِدْتُ اَنَا بِالسُّجُودِ فَعَصَيْتُ فَلَئِي النَّارُ -

جہنم ہے۔

(۲)

حضرت علی بن عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہم سے مروی ہے کہ آپ روزانہ ایک ہزار سجدے کرتے تھے اور لوگ آپ کو سجاد (بیت سجدے کرنے والا) کہتے تھے۔

ایک روایت میں ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ مٹی پر ہی سجدہ کرتے تھے، یوسف بن اسباط کہتے تھے اے نوجوانو! بیماری سے پہلے صحت سے فائدہ اٹھانے کی جلدی کرو میں صرف اسی شخص پر رشک کرتا ہوں جو اپنے رکوع و سجود کو پورا کرتا ہے جب کہ میرے اور سجدے کے درمیان رکاوٹ پیدا ہو گئی ہے۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے میں سجدے کے علاوہ دنیا کی کسی چیز پر افسوس نہیں کرتا۔ حضرت عقبہ بن مسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کو بندے کی اس خصلت سے زیادہ

(۱) صحیح مسلم جلد اول ص ۱۰۱ باب ما یقال فی الركوع والسجود

(۲) قرآن مجید سورۃ علق آیت ۱۹

(۳) قرآن مجید سورۃ فتح آیت ۴۸

(۴) صحیح مسلم جلد اول ص ۶۱ کتاب الایمان

کوئی عادت پسند نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ملاقات چاہتا ہے اور بندے کو سجدے میں پڑنے کے علاوہ کسی دوسری سادت میں اللہ تعالیٰ کا زیادہ قرب نہیں ملتا۔ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا:

بندہ سجدے کی حالت میں اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب ہوتا ہے لہذا اس وقت زیادہ رغبت مانگا کرو۔

فضیلتِ خشوع :

اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا :

وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي (۱)

اور ارشاد فرمایا ہے :

وَرَه تَكُنْ مِنَ الْعَافِينَ (۲)

اور ارشاد باری تعالیٰ ہے :

لَوْ تَقَرَّبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ

تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ - (۳)

حالت نشہ میں نماز کے قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ تم جان لو کہ کیا کہتے ہو۔

کہا گیا کہ زیادہ فکر کی وجہ سے نشہ کی حالت ہو اور کہا گیا کہ دنیا کی محبت سے، اور حضرت وہب فرماتے ہیں کہ اس سے ظاہری معنی مراد ہے اس میں دنیوی نشہ پر تشبیہ کی گئی ہے کیونکہ اس کی علت یوں بیان کی "یہاں تک کہ تم جان لو کہ کیا کہتے ہو" (۴) اور کتنے ہی نمازی ہیں جو شراب نہیں پیتے لیکن انہیں معلوم نہیں کہ وہ نماز میں کیا کہہ رہے ہیں۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

مَنْ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَمْ يُجِدْ نَفْسَهُ فِيهِمَا

بِسْتِيٍّ مِنَ الدُّنْيَا عَفَرَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ

ذَنْبِهِ (۵)

نیز آپ نے فرمایا۔

جس نے دو رکعتیں اس طرح پڑھیں کہ ان میں اپنے نفس سے کوئی دنیوی بات نہیں کی تو اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیئے جائیں گے۔

(۱) قرآن مجید سورہ طہ آیت ۱۴

(۲) قرآن مجید سورہ اعراف آیت ۲۰۵

(۳) قرآن مجید سورہ نسا آیت ۴۳

(۴) قرآن مجید سورہ انشعاق آیت ۶

(۵) مجمع بخاری جلد اول ص ۲۸ کتاب الوضوء

بے شک نماز سکون، عاجزی گڑ گڑاتے، خوف اور پشیمانی کا نام ہے نیز تو ہاتھ رکھ کر یا اللہ، یا اللہ پکارے اور خواہیسا نہ کرے تو اس کی نماز ناقص ہے۔

إِنَّ الصَّلَاةَ تَمَكِّنُ وَتَوَاضِعٌ وَتَضَرُّعٌ وَتَأْوِيلٌ
وَتَنَادُّمٌ وَتَضَعُ يَدَيْكَ فَتَقُولَ اللَّهُمَّ
اللَّهُمَّ فَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ فِيهِ حَدَاثٌ (۱)

پہلی کتابوں میں اللہ تعالیٰ سے منقول ہے فرمایا میں ہر نمازی کی نماز قبول نہیں کرتا میں صرف اسی کی نماز قبول کرتا ہوں جو میری بڑائی کے سامنے تواضع کرتا ہے اور میرے بندوں پر تکبر نہیں کرتا اور میری رضا کی خاطر بھوکوں کو کھانا کھلاتا ہے۔

نماز کی فرضیت، حج اور طواف کے حکم اور مناسک کا تقریر اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر قائم کیا جائے۔

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
إِنَّمَا فُرِضَتِ الصَّلَاةُ وَأُمِرَ بِالْحَجِّ وَالطَّوْفِ
وَأُشْعِرَتِ الْمَنَاسِكُ لِإِقَامَةِ ذِكْرِ اللَّهِ
تَعَالَى۔ (۲)

توجہ تمہارے دل میں یہ مذکورہ باتیں نہ ہوں جو مقصود ہیں اور عظمت و ہیبت جو مطلوب ہے اس سے تیرا دل خالی ہو تو تیرے ذکر کی قیمت رہ جائے گی۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا:

إِذَا صَلَّيْتَ فَضَلِّ مَلَاةَ مَوَدِّعٍ (۳)
یعنی اس شخص کی طرح جو اپنے نفس کو رخصت کرتا ہے اپنی خواہشات کو الوداع کہتا ہے اور اپنی عمر کو رخصت کر کے اپنے مولیٰ کی طرف جاتا ہے۔

اے انسان! تجھے اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے پھر اس سے منور ملے گا۔

جیسے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:
يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ
كَدًّا فَامْلِكْ فِيهِ۔ (۴)

اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اللہ تعالیٰ تمہیں سکھاتا ہے۔

وَاتَّقُوا اللَّهَ وَكَلِّمُوا اللَّهَ (۵)

(۱) جامع ترمذی جلد اول ص ۸۲ باب اجاد فی التمشیح فی الصلوة

(۲) سنن دارمی جلد اول ص ۳۷۸

(۳) مسند امام احمد بن حنبل جلد اول ص ۴۱۲ مرویات ابوالویب الصاری

(۴) قرآن مجید سورہ بقرہ آیت ۲۸۲ (۵) قرآن مجید سورہ بقرہ آیت ۲۸۲

اور ارشاد فرمایا:

وَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلْقَوْنَ (۱)

اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور جان لو کہ تم اس سے ملاقات کرنے والے ہو۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

مَنْ لَمْ تَنْهَهُ صَلَاتُهُ عَنِ الْفَحْشَاءِ

وَالْمُنْكَرِ لَمْ يَزِدْ مِنْ اللَّهِ إِلَّا بُعْدًا - (۲)

جن شخص کو اس کی نماز بے حیائی اور برائی سے نہ روکے اسے اللہ تعالیٰ سے دُوری کے سوا کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔

نماز اللہ تعالیٰ سے ہکلائی کا نام ہے تو وہ غفلت کے ساتھ کس طرح ادا ہوگی حضرت بکر بن عبد اللہ فرماتے ہیں اسے انسان! جب تو اپنے مالک کے پاس کسی اجازت کے بغیر داخل ہونا اور کسی ترجمان کے بغیر کلام کرنا چاہے تو اس کے پاس چلا جا پوچھا گیا وہ کیسے! انہوں نے فرمایا مکمل وضو کر کے اس کے محراب میں داخل ہو جا تو جب تو اپنے مالک کی اجازت کے بغیر اس کے پاس حاضر ہو گا تو کسی ترجمان کے بغیر اس کے ساتھ کلام بھی کرے گا۔

حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے فرماتی ہیں۔

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ہم سے آپ سے گفتگو کر رہے ہوتے تھے جب نماز کا وقت ہوتا تو گویا نہ آپ ہمیں

پہچانتے اور نہ ہم آپ کو پہچانتے، یعنی آپ اللہ تعالیٰ کی عظمت میں اس قدر مشغول ہو جاتے۔

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى صَلَاةٍ لَا يَحْضُرُ الرَّجُلُ فِيهَا

قَلْبَهُ مَعَ بَدَنِهِ - (۳)

اللہ تعالیٰ اس نماز کو قبول نہیں کرتا جس میں آدمی اپنے جسم کے ساتھ اپنے دل کو بھی حاضر نہ کرے۔

حضرت ابراہیم خلیل اللہ، علیہ السلام جب نماز میں کھڑے ہوئے تو آپ کے دل کی دھڑکن دو میل کے فاصلے پر سنی جاتی

تھی۔ حضرت سعید تنوخی جب نماز پڑھتے تو آپ کے آئسہ مسلسل رنہار سے داڑھی پر گرتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ نماز میں اپنی داڑھی سے کھیل رہا تھا آپ نے فرمایا اگر اس کے دل میں خشوع ہوتا تو اس کے

اعضا میں بھی خشوع ہوتا۔ (۴)

ایک روایت میں ہے کہ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ کنکریوں سے کھیل رہا تھا اور کہتا تھا،

(۱) قرآن مجید سورہ بقرہ آیت ۲۲۳

(۲) معجم کبیر للطبرانی جلد ۱ ص ۴۵ حدیث ۱۱۰۲

(۳) الدر المنثور جلد ۵ ص ۴ نمٹ آیت قد افلح المؤمنون (۴) تفسیر قرطبی جلد ۱ ص ۱۰۳ نمٹ آیت قد افلح المؤمنون

یا اللہ! خورعین کے ساتھ میری شادی کرادے، آپ نے فرمایا تو برا پیغام دینے والا ہے خورعین سے شادی کرنا چاہتا ہے اور کنکریوں سے کھیل رہا ہے۔ حضرت خلف بن ایوب سے پوچھا گیا کہ کیا آپ کو نماز میں مکھیاں تکلیف نہیں پہنچاتی ہیں کہ آپ ان کو دور کریں؟ انہوں نے فرمایا میں اپنے نفس کو اس چیز کا عادی نہیں بنانا جو میری نماز کو توڑ دے پوچھا گیا کہ آپ ان کی اذیت پر کیسے صبر کرتے ہیں؟ فرمایا مجھے معلوم ہوا کہ فاسق لوگ بادشاہ کے کوڑے کھا کر صبر کرتے ہیں تو کہا جاتا ہے فلاں شخص بہت صبر کرنے والا ہے اور میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوں تو کیا میں مکھی کی وجہ سے حرکت کروں۔ حضرت مسلم بن یسار رحمہ اللہ کے بارے میں منقول ہے کہ جب وہ نماز کا ارادہ فرماتے تو اپنے گھر والوں سے فرماتے، گفتگو کرو میں تمہاری باتیں نہیں سنتا انہی کے بارے میں مروی ہے کہ ایک دن بصرہ کی جامع مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے کہ مسجد کا ایک کونہ گر گیا لوگ وہاں جمع ہو گئے لیکن آپ کو نماز سے فارغ ہونے تک پتہ نہ چل سکا۔

حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے بارے ہے کہ جب نماز کا وقت ہو جاتا تو آپ پر کیکپا ہٹ طاری ہو جاتی اور چہرے کا رنگ بدل جاتا۔ پوچھا گیا امیر المومنین! آپ کو کیا ہوا فرمایا اس امانت کا وقت آ گیا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں، زمین اور پہاڑوں پر پیش کیا تو انہوں نے اٹھانے سے انکار کر دیا اور اس کے اٹھانے سے ڈر گئے۔ حضرت علی بن حسین رضی اللہ عنہما کے بارے میں مروی ہے کہ جب آپ وضو کرتے تو آپ کا رنگ زرد ہو جاتا گھر والے پوچھتے آپ کو وضو کے وقت یہ کیا ہو جاتا ہے وہ فرماتے کیا تمہیں معلوم ہے میں کس کے سامنے کھڑا ہونے کا ارادہ کر رہا ہوں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے فرماتے ہیں حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی رعایا میں یوں عرض کیا یا اللہ! تیرے گھر میں رہتا ہے اور تو کس کی نماز قبول کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی بھیجی اسے داؤد! میری گھر میں وہ رہتا ہے اور میں اس کی نماز قبول کرتا ہوں جو میری عظمت کے سامنے تواضع کرتا ہے اور اپنا دن میرے ذکر میں گزارتا ہے میرے لئے اپنے نفس کو خواہشات سے روکتا ہے بھوکوں کو کھانا کھاتا ہے، مسافر کو جگہ دیتا ہے، اور مصیبت زدہ پر مہربانی کرتا ہے یہ وہ شخص ہے کہ اس کا نور آسمانوں میں سورج کی طرح چمکتا ہے لگروہ مجھے پکارے تو میں اس کی پکار کو سنتا ہوں اگر مجھ سے مانگے تو میں عطا کرتا ہوں اس کے لیے جہالت میں بردباری، غفلت میں ذکر اور اندھیرے میں روشنی کر دیتا ہوں وہ لوگوں میں اس طرح ہے جس طرح تمام جنتوں میں جنت الفردوس ہے اس کی تہریں خشک نہیں ہوتیں اور نہ اس کا پھل خراب ہوتا ہے۔

حضرت حاتم رحمہ اللہ کے بارے میں منقول ہے ان سے ان کی نماز کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا جب نماز کا وقت ہو جاتا ہے تو میں مکمل وضو کرتا ہوں پھر اس جگہ آ جاتا ہوں جہاں نماز پڑھنے کا ارادہ ہوتا ہے وہاں بیٹھ جاتا ہوں یہاں تک کہ میرے تمام اعضاء مطمئن ہو جاتے ہیں پھر نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں کعبہ شریف کو ابروؤں کی سامنے پل صراط کو قدموں کے نیچے، جنت کو دائیں اور جہنم کو بائیں طرف، اور موت کے فرشتے کو اپنے پیچھے خیال کرتا ہوں

اور اس نماز کو اپنی آخری نماز سمجھتا ہوں پھر امید و خوف کے درمیان جذبات کے ساتھ کھڑا ہوتا ہوں حقیقتاً اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا اعلان کرتا ہوں قرآن پاک ٹھہر ٹھہر کر بڑھتا ہوں رکوع تو اضع کے ساتھ اور سجدہ خستوع کے ساتھ کرتا ہوں بائیں پاؤں کو سجھا کر اس پر بیٹھتا ہوں دائیں پاؤں کو انگوٹھے پر کھڑا کرتا ہوں اس کے بعد اخص سے کام لیتا ہوں پھر مجھے معلوم نہیں کہ میری نماز قبول ہوتی یا نہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا: "اور میں نے انداز کی دو رکعتیں جن میں غور و فکر ہو پوری رات یوں کھڑا ہونے سے بہتر ہیں کہ دل سیاہ ہو۔"

مسجد اور جائے نماز کی فضیلت:

اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنِ آمَنَ بِاللَّهِ وَ
الْيَوْمِ الْآخِرِ (۱)

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

مَنْ بَنَى لِلَّهِ مَسْجِدًا وَتَوَكَّفَ فِيهِ قَطَاةً
بَنَى اللَّهُ لَكَ قَصْرًا فِي الْجَنَّةِ -

(۲)

آپ نے ارشاد فرمایا:

مَنْ أَلِفَ الْمَسْجِدَ أَلِفَهُ اللَّهُ -

(۳)

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ فَلْيَرْكِعْ رَكَعَتَيْنِ
قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ - (۴)

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

(۱) قرآن مجید سورہ توبہ آیت ۱۸

(۲) مسند امام احمد بن حنبل جلد اول ص ۱۴۲ ۲ مرویات ابن عباس

(۳) مجمع الزوائد جلد ۲ ص ۲۳ باب لزوم المساجد

(۴) صحیح مسلم جلد اول ص ۸۴۸ باب استجاب المسجد برکتین

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: (۱)
 لَا صَلَاةَ لِجَارِ الْمَسْجِدِ إِلَّا فِي الْمَسْجِدِ (۱)
 اس کا مطلب مسجد میں باجماعت پڑھنے کی ترغیب دینا ہے اگرچہ یہ نماز ادا ہو جاتی ہے البتہ ایسا کرنا گناہ ہے ۱۲ ہزاروی۔

فرشتے تم میں سے ایک کے لیے رحمت کی دعا مانگتے ہیں
 جب تک وہ اپنی اس جائے نماز میں ہو جہاں وہ نماز پڑھ
 رہا ہے وہ کہتے ہیں یا اللہ تو اس پر اپنی رحمت نازل فرما
 اور اسے بخش دے یہ دعا اسی وقت تک ہوتی ہے جب
 تک وہ وہاں بے وضو نہ ہو جائے یا مسجد سے باہر نہ چلا جائے۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
 الْمَلَائِكَةُ تُصَلِّي عَلَى أَحَدِكُمْ مَا دَامَ فِي
 مَسْجِدِهِ الَّذِي يُصَلِّي فِيهِ تَقُولُ اللَّهُمَّ
 صَلِّ عَلَيْهِ اللَّهُمَّ أَرْحَمَهُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ
 مَا لَمْ يَخْذِفْ فِيهِ أَوْ يَخْذِفْ مِنَ الْمَسْجِدِ
 (۲)

آخری زمانے میں میری امت میں کچھ ایسے لوگ ہوں جو مساجد
 میں آکر حلقوں کی صورت میں بیٹھیں گے وہ دنیا کا ذکر کریں
 گے اور اسی سے محبت رکھیں گے تم ان لوگوں کے
 ساتھ نہ بیٹھنا اللہ تعالیٰ کو ان لوگوں کی کوئی حاجت
 نہیں۔

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
 يَأْتِي فِي آخِرِ الزَّمَانِ نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي يَأْتُونَ
 الْمَسَاجِدَ فَيَقْعُدُونَ فِيهَا حَلِقًا حَلِقًا
 ذَكَرُهُمُ الدُّنْيَا وَحُبُّ الدُّنْيَا لَا
 تُجَالِسُوهُمْ فَلَيْسَ لِلَّهِ بِهِمْ
 حَاجَةٌ (۳)

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بعض کتب میں فرمایا ہے۔
 بے شک میری زمین میں میرے گھر مسجد میں ہیں اور ان میں میری
 زیارت کرنے والے وہ لوگ ہیں جو انہیں آباد کرتے ہیں پس
 اس شخص کے لیے خوشخبری ہے جو میرے گھر میں پاک ہو کر آیا پھر
 میرے گھر میں میری زیارت کی تو جس کی زیارت کی جائے اس کے
 ذمہ کرم پر لازم ہے کہ زیارت کرنے والے کو عزت عطا کرے۔

إِنَّ بَيْتِي فِي أَرْضِ الْمَسْجِدِ قَاتَنَ زَوَارِي
 فِيهَا عَمَارَهَا فَطُوبَى لِمَنْ تَطَهَّرَ فِي بَيْتِي
 ثُمَّ زَارَنِي فِي بَيْتِي فَحَقَّ عَلَيَّ الْمَرْزُوقَانِ
 يُكْرَمُ زَائِرًا (۴)

(۱) مستدرک للحیثم جلد اول ص ۲۴۶ کتاب الصلوة

(۲) صحیح بخاری جلد اول ص ۹۰ باب من جلس المسجد ينظر الصلوة

(۳) مستدرک للحیثم جلد ۴ ص ۳۲۳ کتاب الرقاق

(۴) المعجم الکبیر للطبرانی جلد ۱۰ ص ۱۹۹

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

إِذَا رَأَيْتُمُ الرَّجُلَ يَعْتَادُ الْمَسْجِدَ فَاشْهَدُوا لَهُ بِأَوْجَمَانٍ - (۱)

جب تم کسی شخص کو مسجد میں آتا جانا دیکھو تو اس کے ایمان کی گواہی دو۔

حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ نے فرمایا: "جو شخص مسجد میں بیٹھتا ہے وہ اپنے رب کے پاس بیٹھتا ہے تو اسے اچھی بات کے علاوہ کہنے کا کوئی حق نہیں"۔ ایک روایت میں ہے (حدیث ہے یا کسی صحابی کا قول) کہ مسجد میں گفتگو نیکیوں کو اس طرح کھا جاتی ہے جس طرح جانور گھاس کو کھا جاتے ہیں۔

حضرت امام نخعی فرماتے ہیں کہ اسلاف، اندھیری رات میں مسجد کی طرف جانے کو جنت میں جانے کا ذریعہ سمجھتے تھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے فرمایا: جس شخص نے مسجد میں چراغ روشن کیا یعنی روشنی کا انتظام کیا، تو جب تک اس سے مسجد میں روشنی رہتی ہے عام فرشتے اور عزرائیل کو اٹھانے والے فرشتے اس کے لیے بخشش کی دعائیں مانگتے رہتے ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب بندہ مر جاتا ہے تو زمین میں اس کی جائے نماز اور آسمان میں اس کے عمل کا ٹھکانہ اس (کی موت) پر روتے ہیں۔

پھر آپ نے یہ آیت کریمہ پڑھی۔

فَمَا بَكَتُ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنظَرِينَ - (۲)

تو ان (قوم فرعون) پر آسمان وزمین نہیں روئے اور نہ ان کی انتظار کی گئی۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں۔ اس پر زمین چالیس دن روتی ہے حضرت عطاء خراسانی فرماتے ہیں جو شخص زمین کے کسی ٹکڑے پر نماز پڑھتا ہے تو وہ قیامت کے دن اس کی گواہی دے گا اور جس دن یہ مرتا ہے وہ اس پر روتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں زمین کے جس ٹکڑے پر نماز یاد کر کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو یاد کیا جائے وہ اپنے ارد گرد کی زمین پر فخر کرتا ہے اور سات زمینوں تک اللہ تعالیٰ کے ذکر کے سبب خوش ہوتا ہے اور جب کوئی بندہ کھڑا ہو کر نماز پڑھتا ہے تو اس کے لیے زمین کو آراستہ کر دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ جس جگہ کوئی قوم اترتی ہے تو وہ جگہ ان لوگوں کے لیے رحمت کی دعا کرتی ہے یا ان پر لعنت بھیجتی ہے۔

(۱) سنن ابن ماجہ ص ۵۸ باب لزوم المساجد

(۲) قرآن مجید سورہ دخان آیت ۲۹

دوسرا باب

نماز کے ظاہری اعمال تکبیر سے آغاز اور اس پہلے کے امور

جب نمازی وضو اور بدن، جگہ اور کپڑوں کی ظہارت سے فارغ ہو جائے ناف سے گھٹنوں تک جسم کو ڈھانپ لے تو قبلہ رخ ہو کر کھڑا ہو جائے قدموں کے درمیان کچھ فاصلہ رکھے ان کو آپس میں نہ ملائے مناسب فاصلہ جو جس طرح آج کل غیر مقلدین مانگوں کے درمیان بہت زیادہ فاصلہ رکھتے ہیں اس طرح کھڑا ہونا بہت مکروہ اور ناپسندیدہ انداز ہے ۱۲ ہزاروی کیونکہ یہ عمل انسان کی سمجھ داری پر دلالت کرتا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں ایک پاؤں اٹھانے یا دونوں کو ملا کر رکھنے سے منع فرمایا ہے۔ (۱)

لفظ صفن اور صفا استعمال فرمایا صفا کا معنی قدموں کو ملانا اور صفن کا معنی ایک قدم کو اٹھانا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

بیسٹریوں میں ایک دوسرے سے بندھے ہوں گے

مُقَرَّبِينَ فِي الْأَصْفَادِ (۲)

اور ارشاد فرمایا:

تیز رفتار گھوڑے۔

الْعَافِنَاتُ الْجَيَادُ - (۳)

تو اس کے بارے میں ہے جو کھڑا ہوتے وقت اپنے پاؤں کے بارے میں اس بات کا خیال رکھتا ہے گھٹنوں اور مکر کو سیدھا کھڑا کرتے مکر کو سیدھا کھڑا رکھے اور اگر چاہے تو جھکا دے بلکہ جھکانا خشوع کے زیادہ قریب ہے اور آنکھوں کو زیادہ پست کرنے والا ہو لیکن اس کی نگاہ صرف اس مسئلے پر رہے جس پر نماز پڑھا رہا ہے اگر مصیبت نہ ہو تو دیوار کے قریب کھڑا ہو یا کوئی لکیر کھینچ دے اس سے نگاہ آگے نہیں بڑھے گی اور سوچ میں انتشار پیدا نہیں ہوگا آنکھوں کو مصیبت کے کناروں اور لکیر کی حدود سے متجاوز نہ ہونے سے رکوع تک اسی طرح کھڑا ہے اور ادھر ادھر توجہ نہ کرے یہ قیام کا ادب ہے۔

ہاتھ اٹھانے کا طریقہ:

(۱) الشہاب لابن اثیر جلد ۳ ص ۳۵ و ۳۶ تحت لفظ صفا، صفن۔

(۲) قرآن مجید سورہ ابراہیم آیت ۲۹

(۳) قرآن مجید سورہ ص آیت ۳۱

جب اس طریقے پر کھڑا ہو جائے اور قبلہ رخ ہو کر سر کو جھکائے اور شیطان سے محفوظ رہنے کے لیے تمام لوگوں کے رب کی پناؤ طلب کرے (قل اعوذ برب الناس پڑھے) پھر اقامت کہے اور اگر کسی معتدی کے آنے کی امید ہو تو پہلے اذان بھی کہے، اب نیت کرے اور وہ اس طرح ہے مثلاً ظہر کی نیت کرتے ہوئے دل میں کہنے میں ظہر کی نماز اللہ تعالیٰ کے لیے ادا کرتا ہوں۔ تاکہ لفظ ادا کے ذریعے قضاء سے، فریضہ کے ذریعے نفل سے، ظہر کے ذریعے عصر وغیرہ سے یہ نماز ممتاز ہو جائے۔ ان الفاظ کے معانی اس کے دل میں حاضر ہوں یہی نیت ہے۔ الفاظ تو یاد دلانے والے اور ان معانی کے ظہور کے اسباب ہیں بکیر کے آخر تک اس نیت کو باقی رکھنے کی کوشش کرے تاکہ غائب نہ ہو جائے جب یہ بات اس کے دل میں حاضر ہو جانے تو اپنے ہاتھوں کو کندھوں کے برابر اٹھائے۔ (۱)

اس سے پہلے وہ ٹنگے ہوئے ہوں ہاتھوں کو اس قدر اٹھائے کہ ہتھیلیوں کو کندھوں کے برابر کر دے اور انگلیوں کو کانوں کی نرم جگہ تک اور انگلیوں کے کناروں کو کانوں کے آخر تک لے جائے۔ تاکہ اس سلسلے میں وارد تمام احادیث پر عمل ہو جائے (غیر معتدین و بایوں کی طرح صرف کندھوں تک نہ اٹھائے یہ طریقہ عورتوں کے لیے ہے ۱۲ ہزار روئی) ہتھیلیاں اور انگلیوں کے قبلہ رخ ہوں اور انگلیوں کو کندھوں کے بند نہ کرے البتہ کندھوں کو بند کرنے میں تکلیف نہ کرے بلکہ ان کو فطری طریقے پر چھوڑ دے کیونکہ احادیث میں کھلا چھوڑنا اور ملنا دونوں طریقے آئے ہیں اور یہ درمیانہ طریقے زیادہ بہتر ہے۔ جب دونوں ہاتھ اپنی جگہ پر پہنچ جائیں تو ان کو نیچے چھوڑتے ہوئے اور نیت حاضر رکھتے ہوئے بکیر کہے پھر

بکیر تحریر

دونوں ہاتھوں کو ناف سے (ذرا) اوپر اور سینے سے نیچے رکھے (۲)

دائیں ہاتھ کے اعزاز کے پیش نظر اسے بائیں ہاتھ کے اوپر اس طرح رکھے کہ وہ اٹھا ہوا ہو دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی اور درمیان کی انگلی کھلی رکھتے ہوئے بازو کی لمبائی پر پھیلا دے جب کہ انگلیوں اور چھوٹی انگلی نیز اس کے ساتھ والی انگلی کے ساتھ بائیں ہاتھ کی کلائی کو پکڑے۔

ایک روایت میں ہے

أَنَّ النَّبِيَّ رَفَعَ يَدَيْهِ وَمَعَ اسْتِقْرَارِهِمَا
وَمَعَ الْوَسَالِ (۳)

ساتھ ہے۔

اور کسی طریقے میں حرج نہیں لیکن ہاتھوں کو کانوں کے ساتھ لگانے کے بعد چھوڑتے وقت بکیر کہنا زیادہ مناسب ہے

(۱) صحیح بخاری کتاب الاذان جلد اول ص ۱۰۲

(۲) حدیث شریف میں ہاتھوں کو ناف سے نیچے باندھنے کا ذکر ہے دیکھئے سنن ابی داؤد

(۳) صحیح بخاری جلد اول ص ۱۰۲ کتاب الاذان صحیح مسلم جلد اول ص ۱۶۸، سنن ابی داؤد جلد اول ص ۱۰۲

یونکہ کلمہ عقیدہ ہے اور ایک ہاتھ کو دوسرے پر رکھنا بھی عقد کی صورت میں ہوتا ہے جس کی ابتداء چھوڑنا اور انتہا رکھنا ہے تکبیر کی ابتداء الف اور انتہاء راو پر ہوتی ہے تو فعل اور عقد میں مطابقت کی رعایت مناسب ہے ہاتھوں کو اٹھانا اس آغاز کے لیے مقدمہ کے طور پر ہے یہ بھی مناسب نہیں کہ ہاتھوں کو اٹھاتے وقت اگے یا کاندھوں کے پیچھے کی طرف لے جائے تکبیر سے فراغت کے بعد دائیں بائیں جھارنا بھی نہیں چاہیے بلکہ نہایت آہستگی کے ساتھ ان کو چھوڑ دے اور دائیں ہاتھ کو بائیں پر رکھے، بعض روایات میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تکبیر کہتے تو ہاتھ چھوڑ دیتے اور جب قرأت کرنا چاہتے تو

دائیں ہاتھ کو بائیں پر رکھ دیتے (۱)

اگر یہ حدیث صحیح ہو تو ہمارے بیان کردہ طریقے سے اولیٰ ہے، تکبیر کہتے ہوئے اسم جلالہ "اللہ" کو "اکبر" کے الف سے کچھ ملایا جائے الف اور ہاء کے درمیان واو کی آواز پیدا نہ ہو۔ اور یہ اس وقت پیدا ہوتی ہے جب ان دونوں حرفوں کو مبالغہ کے ساتھ ملایا جاتا ہے لفظ اکبر کی باء اور را کے درمیان بھی الف نہیں ہونا چاہیے گویا وہ "اکبار" پڑھ رہا ہے اللہ اکبر کی را کو جزم کے ساتھ پڑھے پیش کے ساتھ "اکبرو" نہ پڑھے یہ تکبیر وغیرہ کا طریقہ ہے۔

قرأت

اس کے بعد ثناء پڑھے (نفل نماز ہوتی) اچھا ہے کہ اللہ اکبر کے بعد یوں پڑھے۔

اللہ سب سے بڑا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے بے شمار حمد ہے اور صبح و شام اس کی پاکیزگی بیان کرتا ہوں میں نے اپنا رخ اس ذات کی طرف کیا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا خالص اسی کا ہو کر اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔

اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا وَسُبْحَانَ اللَّهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ اور
إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ (۲)

اسے اللہ ہم میں تیری تعریف کے ساتھ تیری پاکیزگی بیان کرتا ہوں تیرا نام برکت والا ہے، تیری شان بلند اور تیری ثناء برتر ہے اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَجَلَّ شَأْنُكَ وَكَوَالَهُ غَيْبُكَ (۳)

ان الفاظ کو پڑھنے سے وہ اس سلسلے میں وارد متفرق احادیث کو جمع کرنے والا ہوگا۔

(۱) مجمع الزوائد جلد ۲ ص ۱۰۲ باب رفع اليدين في الصلاة

(۲) سنن ابی داؤد جلد اول ص ۱۱۰، ۱۱۱ کتاب الصلاة

(۳) سنن ابی داؤد جلد اول ص ۱۱۳ کتاب الصلاة

اگر امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہو اور قراوت سے زیادہ دیر نہ رُکے تو اسی شمار پر اکتفا کرے۔ پھر اعوذ باللہ من الشیطن
الرحیم پڑھے اور پھر سورۃ فاتحہ پڑھے جس کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کرے، اگر امام کے پیچھے ہو تو قراوت اعوذ باللہ اور
بسم اللہ نہ پڑھے (۱۲ ہزاروی) سورۃ فاتحہ میں حروف اور شدوں کو پورا کرے اور ضاد اور ظا کے درمیان فرق کی کوشش کرے
سورۃ فاتحہ کے آخر میں آمین کہے اور اچھی طرح مد سے پڑھے آمین کو ولا الضالین کے ساتھ لوری طرح ملانہ سے صحیح، مغرب
اور عشاء کی نماز میں بلند آواز سے قراوت کرے اگر مقتدی نہ ہو (یاد رہے احناف کے نزدیک مقتدی قراوت نہیں کرتا کیوں کہ
حضور علیہ السلام نے فرمایا جس کا امام ہو تو امام کی قراوت ہی اس کی قراوت ہے (۱۲ ہزاروی) پھر بلند آواز سے آمین کہے (یہ بھی
امام غزالی رحمہ اللہ کا مسلک ہے احناف کے نزدیک آہستہ آمین کہنی چاہیے جس طرح حدیث شریف میں آیا ہے (۱۲ ہزاروی)
پھر کوئی سورت یا تین آیات یا اس سے زائد قرآن پاک سے پڑھے سورت کے آخر کو رکوع کی تکبیر کے ساتھ نہ ملے بلکہ
سبحان اللہ کی مقدار وقفہ کرے صبح کی نماز میں طویل مفصل سورۃ بقرات سے سورۃ بروج تک (مغرب میں قصار) لم یکن
الذین سے آخر قرآن تک) اور ظہر، عصر اور عشاء میں واسماء ذوات البروج یا اس جیسی صورتیں پڑھے۔

احناف کے نزدیک صبح اور ظہر میں طویل مفصل، عصر اور عشاء میں اوساط مفصل سورۃ بروج ہے لم یکن الذین تک اور
مغرب میں قصار مفصل میں سے پڑھنا مستحب ہے (۱۲ ہزاروی)

سفر میں رجب وقت کم ہوتی قل یا ایہا الکفرون اور قل ہو اللہ احد پڑھے اسی طرح صبح کی سنتوں، طوات کی نماز اور تہیۃ المسجد
(اور تہیۃ الوضو) میں بھی یہی صورتیں پڑھے اس تمام وقت میں وہ کھڑا رہے اور ہاتھوں کو اسی طرح رکھے جس طرح ہم نے
نماز کے آغاز میں بیان کیا۔

رکوع اور اس کے متعلقات | پھر رکوع کرے اور اس میں کچھ امور کا خیال رکھے وہ امور یہ ہیں رکوع کے
لیتے تکبیر کہے اور رکوع کی تکبیر کے ساتھ ہاتھوں کو بلند کرے۔

نوٹ: رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں رکوع کے وقت رفع یدین سے منع فرمادیا تھا لہذا حضرت امام ابو حنیفہ
کے نزدیک صرف تکبیر تحریمہ پادعائے قنوت کی تکبیر کے وقت ہاتھ اٹھائیں گے رکوع میں جاتے یا اٹھتے وقت ہاتھ نہیں اٹھائے
۱۲ ہزاروی۔

تکبیر کو رکوع میں پہنچنے تک کھینچ کر کہے رکوع میں اپنی ہتھیلیوں کو گھٹنوں پر یوں رکھے کہ انگلیاں کھلی ہوں اور پنڈلی کی
لمبائی پر قبلہ رخ ہوں گھٹنوں کو کھڑا کرے اور ٹھہرانہ کرے پیٹھ کو سیدھا کرتے ہوئے کھینچ کر رکھے گردن اور سر دونوں پیٹھ

(۱) ضاد کو ظا پڑھنا ناجائز ہے اور معنی بدلنے کی وجہ سے نماز ٹوٹ جاتی ہے لہذا کوشش کی کہ اسے اپنے معنی سے ادا کیا
جاسکے ۱۲ ہزاروی۔

کے ساتھ اس طرح برابر ہوں جیسے ایک سطح ہوتی ہے سر نہ تو زیادہ جھکا ہوا ہو اور نہ زیادہ بلند ہو کہنیوں کو پہلوؤں سے جدا رکھے البتہ عورت اپنی کہنیوں کو پہلوؤں سے ملا کر رکھے اور تین مرتبہ "سبحان ربی العظیم" (میرا رب پاک سے عظمت والا ہے) کہے سات یا دس مرتبہ تک کہنا اچھا ہے بشرطیکہ یہ امام نہ ہو پھر رکوع سے قیام کی طرف اٹھے اور ہاتھوں کو اٹھاتے ہوئے "سمع اللہ لمن حمدہ" (اللہ تعالیٰ اس کی بات سن لی جس نے اس کی تعریف کی) کہے زاحنان کے نزدیک رکوع سے اٹھنے وقت ہاتھ نہیں اٹھائیں گے (۱۲ ہزاروی) اطمینان کے ساتھ کھڑا ہو کر یہ کلمات پڑھے۔

رَبَّالَّذِي الْحَمْدُ مِلَّ السَّمَوَاتِ وَمِلَّ الْأَرْضِ
وَمِلَّ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ۔

اسے ہمارے رب! تیرے لیے تعریف ہے آسمان اور زمین
بھری ہوئی اور اس کے بعد جو کچھ تو چاہے بھرا ہوا،

نوٹ: یہ کلمات نوافل وغیرہ میں پڑھے قرآن اور سنتوں میں صرف "ربنا لك الحمد" کہے (۱۲ ہزاروی)
اور رکوع کے بعد صلوٰۃ تسبیح، نماز کسوف اور صبح کے علاوہ کسی نماز میں زیادہ دیر تک کھڑا نہ ہو اور صبح کی دوسری رکعت میں سجدے سے پہلے احادیث میں منقول الفاظ کے ساتھ قنوت پڑھے (رع مانگے۔)
(نوٹ) حنفی فقہ کے مطابق دعائے قنوت صرف وتر نماز میں ہے حضور علیہ السلام نے فجر کی نماز میں قنوت پڑھی لیکن بعد میں منع کر دیا گیا۔ (۱۲ ہزاروی)

سجدہ:

پھر تکبیر کہتے ہوئے سجدے کے لیے جائے گھٹنوں کو زمین پر رکھے نیز پیشانی اور ناک کو بھی رکھے انگلیوں کو یوں رکھے کہ وہ گھلی ہوئی ہوں، سجدے کے لیے نیچے جاتے ہوئے بھی تکبیر کہے لیکن رکوع کے علاوہ ہاتھ نہ اٹھائے (روضاحت ہو چکی ہے) زمین پر سب سے پہلے گھٹنے لگانا مناسب ہے اس کے بعد ہاتھوں کو اور پھر چہرے (پیشانی) کو رکھے پیشانی اور ناک دونوں کو زمین پر رکھے اور کہنیوں کو پہلوؤں سے جدا رکھے۔ لیکن عورت ایسا نہ کرے دونوں پاؤں کے درمیان فاصلہ رکھے لیکن عورت ایسا نہ کرے سجدے میں پیٹ رانوں سے الگ ہو اور دونوں گھٹنوں کے درمیان فاصلہ ہو لیکن عورت اس طرح نہ کرے ہاتھوں کو کاندھوں کے مقابل رکھے انگلیوں کے درمیان کشادگی نہ رکھے بلکہ ان کو ملائے اور انگوٹھے کو بھی ساتھ ملائے اور اگر نہ ملا سکے تو کوئی عجز نہیں بازوؤں کو زمین پر کتے کی طرح نہ بچھائے اس سے منع کیا گیا ہے (۱)
(سجدے میں) تین بار سبحان ربی الاعلیٰ میں اپنے بلند وبالار ب کی پاکیزگی بیان کرتا ہوں) پڑھے زیادہ بار پڑھنا اچھا ہے بشرطیکہ امام نہ ہو۔

پھر سجدے سے اٹھتے ہوئے مطمئن ہو کر اعتدال کے ساتھ بیٹھ جائے سر اٹھاتے وقت تکبیر کہے بائیں پاؤں (کو) بچھاتے

(۱) مسند امام احمد بن حنبل جلد ۲ ص ۲۲۱ مرویات حضرت انس رضی اللہ عنہ

ہوئے اس پر بیٹھے اور دائیں پاؤں کو کھڑا کر کے ہاتھوں کو رانوں پر رکھے انگلیاں کھلی ہوں لیکن ملائے پا کھلی رکھنے میں تکلیف نہ کرے اور اپنی حالت پر چھوڑے اور اگر نفل پڑھ رہا ہو تو یوں کہے۔

رَبِّ اغْفِرْ لِيْ وَارْحَمْنِيْ وَارْزُقْنِيْ وَاهْدِنِيْ
وَاجْبُرْنِيْ دَعَايِيْ وَاعْفُ عَنِّيْ۔
اے میرے رب مجھے بخش دے مجھ پر رحم فرما مجھے رزق عطا کر مجھے ہدایت دے میری پریشانی کو دور کر دے مجھے عافیت عطا کر اور معاف کر دے۔

صلوٰۃ تسبیح کے علاوہ اس جلسہ کو طویل نہ کرے دوسرا سجدہ بھی اسی طرح کرے اور اس کے بعد سیدھا سو کر تھوڑی دیر استراحت کے لیے بیٹھے ایسا ہر ایسی رکعت میں کرے جس میں تشهد نہیں (احناف کے نزدیک جلسہ استراحت جائز نہیں کیوں کہ پہلی اور تیسری رکعت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قدموں کے اگلے حصے پر سیدھے کھڑے ہو جاتے تھے دیکھئے جامع ترمذی باب کہف التہوض من السجود جلد اول ۲۰۲ اور فریڈیک سٹال لاہور ۱۲ ہزاروی) پھر زمین پر ہاتھ رکھتے ہوئے اٹھے اور اٹھتے وقت کسی ایک پاؤں کو آگے کی طرف نہ بڑھائے (۱)

اور تکبیر کہتے ہوئے ہر کسے تاکہ بیٹھنے کی حالت سے اٹھنے اور قیام دونوں کے درمیان ہو جائے یعنی بیٹھے ہوئے اسم جلالۃ اللہ کی ہاں کھڑا ہونے کے لیے ہاتھ کے سہارے کے وقت لفظ اکبر کا کان اور اٹھتے ہوئے درمیان میں پہنچتے وقت لفظ راد استعمال ہو۔ اٹھنے کے وسط میں تکبیر شروع کرتے تاکہ قیام کی طرف انتقال کے درمیان میں تکبیر واقع ہو۔ اور صرف دونوں کنارے اس سے خالی ہوں عموم کے زیادہ قریب ہی صورت ہے اب دوسری رکعت کو پہلی کی طرح پڑھے اور ابتدا کی طرح یہاں بھی اعموذ باللہ سے شروع کرے (احناف کے نزدیک بسم اللہ سے شروع کرے گا ۱۲ ہزاروی)۔

تشہد:

دوسری رکعت کے بعد پہلا تشہد پہلی مرتبہ کا تشہد پڑھے پھر سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھے زیادہ ہے حنفی فقہ کے مطابق پہلے قعدہ میں درود شریف پڑھنا جائز نہیں البتہ سنت غیر مؤکدہ اور نوافل میں پڑھیں گے (۱۲ ہزاروی) اور (اشارہ کرتے وقت) دائیں ہاتھ کی انگلیوں کو بند کر کے صرف انگشت شہادت سے اشارہ کرے انگوٹھے کو کھنچ پڑنے میں بھی کوئی حرج نہیں شہادت کی انگلی سے اللہ کے وقت اشارہ کرے لا الہ کے وقت نہیں (مطلب یہ ہے کہ لا الہ پر انگلی کو کھڑا

(۱) جن ائمہ کرام نے جلسہ استراحت یا ہاتھ کی ٹیک سے اٹھنے کا قول کیا ہے انہوں نے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے وقت کے عمل سے استدلال کیا جب آپ نے کمزوری کی وجہ سے ایسا کیا آپ کا معمول نہ تھا لہذا سجدے سے سیدھا کھڑا ہونا چاہیے اور ہاتھ زمین پر نہ لگائے جائیں ۱۲ ہزاروی۔

کرے اور اللہ پر چھوڑ دے) اس تشہد میں بائیں پاؤں پر بیٹھے جیسے دوسجروں کے درمیان بیٹھتے ہیں اور آخری تشہد میں درود شریف (اور اس) کے بعد وہ دعا پڑھے جو روایات سے ثابت ہے (۱)

اس میں وہی امور سنت ہیں جو پہلے تشہد میں ہیں (البتہ پہلے مقدمے میں درود شریف اور دعائیں ماسوا کے نفل اور سنت غیر موکدہ کے) لیکن وہ دوسرے مقدمے میں بائیں سرین پر بیٹھے کیونکہ اب وہ اٹھنے کا ارادہ نہیں کرتا بلکہ وہ قرار پکڑنے والا ہے اور بائیں پاؤں کو بچھاتے ہوئے اس (سرین) کے نیچے سے نکال دے اور دائیں پاؤں کو کھڑا کرے انگوٹھے کے کنارے کو قبلہ رخ کرے اگر وقت پیش نہ آئے۔

راحت کے نزدیک دونوں قدموں میں بیٹھتے کا طریقہ ایک جیسا ہے (۱۲ ہزاروی) پھر (آخر میں) السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہو دائیں طرف اس طرف رخ پھیرے کہ اس کی دائیں طرف جو شخص سمجھے بیٹھا ہوا ہے وہ اس کے رخسار کو دیکھ سکے بائیں طرف بھی اسی طرح متوجہ ہو کر دوسرا سلام پھیرے اور اسلام کے ساتھ نماز سے باہر آنے کا ارادہ کرے پہلے سلام میں دائیں طرف کے فرشتوں اور مسلمانوں کا ارادہ کرے اور دوسری طرف بھی یہی نیت کرے لفظ سلام میں تخفیف کرے زیادہ نہ کہنیے۔ یہی سنت طریقہ ہے (۱۲)

یہ جو کچھ بیان ہوا) اکیلے آدمی کی نماز کا طریقہ ہے، وہ تکبیروں میں آواز کو صرف اسی قدر بلند کرے کہ خود سن سکے۔ امام، امامت کی نیت بھی کرے تاکہ فضیلت حاصل ہو اگر نیت نہ بھی کرے تو مقتدیوں کی نماز صحیح ہو جائے گی جب کہ وہ اقتداء کی نیت کریں۔ اور وہ جماعت کی فضیلت حاصل کریں گے۔ تنہا آدمی کی طرح امام بھی شاع اور اعوذ باللہ (اور بسم اللہ) آہستہ پڑھے پھر صبح کی دونوں رکعتوں اور مغرب اور عشاء کی پہلی دو رکعتوں میں سورۃ فاتحہ اور کوئی دوسری سورت بلند آواز سے پڑھے، تنہا بھی اس طرح کر سکتا ہے (لیکن اس پر بلند آواز سے پڑھنا واجب نہیں) چہرے نمازوں میں آہن بلند آواز سے کہے (راحت کے نزدیک تمام نمازوں میں آہن آہستہ آواز سے کہے) ۱۲ ہزاروی اس طرح مقتدی بھی (آہن کہے) مقتدی امام کی آہن کے ساتھ ملا کر کہے اس کے بعد نہ کہے۔ امام سورۃ فاتحہ کے بعد معمولی سا توقف کرے تاکہ اس کا سانس لوٹ آئے اور مقتدی چہرے نمازوں میں اسی وقفہ کے دوران سورۃ فاتحہ پڑھے تاکہ قرأت کے وقت امام سے سننا ممکن ہو اور مقتدی چہرے نمازوں میں سورت نہ پڑھے مگر جب امام کی آواز نہ سننا ہو۔

فت۔ فقہ حنفی کے مطابق مقتدی امام کے سمجھے بالکل قرأت نہیں کرے گا نہ سورۃ فاتحہ کی اور نہ کسی دوسری سورت کی، کیونکہ حضور علیہ وسلم کے ارشاد گرامی کے مطابق امام کی قرأت ہی مقتدی کی قرأت بھی ہے (۱۲ ہزاروی)

(۱) صحیح مسلم جلد اول ص ۲۱۷ باب استنجاب التیغوز

(۲) جامع ترمذی جلد اول ص ۶۹ باب ماجاء ان حدث اسلام سنۃ

رکوع سے سر اٹھاتے وقت امام اور مقتدی دونوں سمع اللہ لمن حمد کہیں (احناف کے نزدیک امام سمع اللہ لمن حمدہ اور مقتدی ربنا لک الحمد کہے گا ہزاروی) امام رکوع اور سجدے کی تسبیحات تین تین بار سے زیادہ نہ پڑھے، اور پہلی تشہد میں اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کے بعد کچھ نہ پڑھے (حنفی فقہ کے مطابق پہلے مقدمے میں امام اور مقتدی دونوں صرف تشہد پڑھیں گے دوود شریف اور دعائیں پڑھیں گے) امام پھلی دو رکعتوں میں صرف سورہ فاتحہ پڑھے نہ تو قوم کو زیادہ لمبی نماز پڑھائے اور نہ ہی دوسرے مقدمے میں تشہد اور دوود شریف کی مقدار سے زیادہ دعائے گے۔ سلام پھرتے وقت مقتدیوں اور فرشتوں پر سلام کی نیت کرے اور مقتدی اپنے سلام میں اس کے جواب کی نیت بھی کرے امام کچھ دیر توقف کرے یہاں تک کہ مقتدی سلام سے فارغ ہو جائیں۔ پھر وہ ان کی طرف رخ کرے اور اگر مردوں کے پیچھے عورتیں بھی ہوں تو اتنی دیر ٹھہرے کہ وہ چلی جائیں اور جب تک امام کھڑا نہ ہو کوئی مقتدی کھڑا نہ ہو امام جس طرف چاہے رخ پھر سکتا ہے دائیں طرف یا بائیں طرف لیکن دائیں طرف پھرنا زیادہ اچھا ہے صبح کی نماز میں قنوت پڑھتے ہوئے (احناف کے نزدیک نہیں) امام دعا کے ساتھ اپنے آپ کو خاص نہ کرے بلکہ (سب کو شامل کرتے ہوئے کہے) اللہم اھدنا الخ۔ وہ بلند آواز سے دعا مانگے اور لوگ آمین کہیں، وہ اپنے ہاتھوں کو سینے کے مقابل تک اٹھائیں اور دعا کے اختتام پر ہاتھوں کو چہرے پر لیں اس سلسلے میں حدیث منقول ہے ورنہ قیاس کا تقاضا ہے کہ تشہد کے بعد والی دعا کی طرح یہاں بھی ہاتھ نہ اٹھاتے۔

ممنوعات نماز:

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں پاؤں کو ملا کر کھڑا ہونے نیز ایک پاؤں کو اٹھانے سے منع فرمایا اور ہم یہ بات ذکر کر چکے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ نے مندرجہ ذیل دس باتوں سے بھی منع فرمایا (۱)

۱- اقعاء۔ اہل لغت کے نزدیک اقعاء یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی سرین پر بیٹھے گھٹنوں کو کھڑا کرے اور ہاتھ کو زمین پر رکھے جیسے کتا کرتا ہے اور محدثین کے نزدیک اقعاء یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی پنڈلیوں برتیوں بیٹھے کہ زمین پر پاؤں کی انگلیوں کے سر سے اور زانو لگے ہوئے ہوں،

۲- سدل۔ اس میں محدثین کا مذہب یہ ہے کہ اپنے اوپر کپڑا لپیٹ کر ہاتھوں کو اندر داخل کرے اور اس رکوع اور سجدہ کرے بیہودی اپنی نماز میں اس طرح کیا کرتے تھے۔ اس لئے ان کے ساتھ مشابہت کی وجہ سے اس سے منع کیا گیا نہیں بھی اسی حکم میں ہے لہذا اس طرح رکوع اور سجدہ کرنا مناسب نہیں کہ ہاتھ قمیص کے اندر ہوں، بعض نے کہا اس کا معنی یہ ہے کہ چادر کا درمیان والا حصہ سر پر رکھے اور اس کے دونوں کناروں کو دائیں بائیں ٹکادے اور انہیں

(۱) حوالہ جات کے لیے دیکھیے سنن ابن ماجہ ص ۶۲ مسند امام احمد بن حنبل جلد ۲ ص ۲۹۵، صحیح بخاری جلد اول ص ۱۱۳، صحیح مسلم جلد اول ص ۲۰۶،

مسند امام احمد بن حنبل جلد ۲ ص ۱۰۶، صحیح بخاری جلد اول ص ۱۱۳، سنن ابن ماجہ ص ۲۸ اور ص ۶۹۔

اپنے کانڈھوں پر نہ کرے (اسی طرح گلے میں کوئی کپڑا لٹکانا بھی مکمل ہے) پہلا معنی زیادہ مناسب ہے۔
۳۔ کف لپیٹنا)۔ یعنی سجدے میں جاتے ہوئے آگے یا پیچھے سے کپڑا اٹھا لینا بعض اوقات سر کے بالوں کو بھی لپیٹا جاتا ہے تو اس طرح نماز نہ پڑھے کہ اس کے سر کے بال بندھے ہوئے ہوں یہ ممانعت مردوں کے لیے ہے حدیث شریف میں ہے۔

اُمِدَّتْ اَنْ اَسْجُدَ عَلٰی سَبْعَةِ اَعْضَاءٍ
وَلَا اَكْفُ شَعْرًا وَلَا تَوْبًا (۱)
مجھے ساتھ اعضاء پر سجدے کا حکم دیا گیا نیز یہ کہ میں بالوں اور کپڑے کو نہ لپیٹوں۔
حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اس بات کو ناپسند کیا ہے کہ نماز میں قمیص کے اوپر چادر باندھے وہ اسے کف (لپیٹنے) میں شمار کرتے ہیں۔

۴۔ اختصار:۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی ہاتھوں کو اپنے گولہوں پر رکھے۔
۵۔ صلب:۔ قیام کی حالت میں ہاتھوں کو گولہوں پر رکھتے ہوئے بازوؤں کو جسم سے دُور رکھنا۔
۶۔ مواصلت (ملا نا):۔ یہ پانچ طریقوں پر ہے دو کا تعلق امام کے ساتھ ہے یعنی وہ قرأت کو تکبیر تحریمیہ کے ساتھ نہ ملائے اور نہ ہی رکوع کو قرأت کے ساتھ ملائے دو کا تعلق مقتدی سے ہے ایک یہ کہ وہ تکبیر تحریمیہ کو امام کی تکبیر کے ساتھ نہ ملائے اور اپنے سلام کو بھی اس کے سلام کے ساتھ نہ ملائے (یعنی اس کی تکبیر اور سلام کے بعد تکبیر و سلام کہے) ایک بات امام اور مقتدی دونوں کے درمیان ہے یعنی (امام ہو یا مقتدی) فرض نماز کے پہلے سلام کو دوسرے سلام کے ساتھ نہ ملائے۔
۷، ۸، ۹۔ جاتن:۔ جسے پیشاب آیا ہو یا ہوا جو حاقب قضا کے حاجت کی شدت ہو حاذق۔ تنگ موزے پہنے ہوئے ہو۔
یہ تمام باتیں خشوع کے منافی ہیں بھوک اور پیاس کی شدت کا بھی یہی حکم ہے۔ بھوک کی شدت میں نماز کی ممانعت اس حدیث سے مفہوم ہے۔

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
اِذَا حَضَرَ الْعِشَاءَ وَاقْبَتِ الصَّلَاةَ فَاَبْدُوْا
بِالْعِشَاءِ (۲)
جب کھانا حاضر ہو اور نماز کے لیے اقامت کہی جائے تو پہلے کھانا کھاؤ۔

البتہ اگر وقت تنگ ہو یا دل مطمئن ہو بھوک کی شدت نہ ہو تو پہلے نماز پڑھے حدیث شریف میں ہے۔
لَا يَدْخُلُ أَحَدٌ أَحَدَكُمْ الصَّلَاةَ وَهُوَ
جب تم میں سے حالت اضطراب میں ہو تو نماز شروع

(۱) صحیح مسلم جلد اول ص ۱۹۳ باب اغناء السجود۔

(۲) صحیح مسلم جلد اول ص ۲۰۸ باب كراهية الصلوة بحضرة الطعام

مَقَطِبٌ وَلَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدُكُمْ وَهُوَ غَضْبَانٌ (۱) نہ کرے اور غصے کی حالت میں بھی نماز نہ پڑھے۔
حضرت حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔ درجس نماز میں دل حاضر نہ ہو اس کی سزا جلدی ملتی ہے،
اور حدیث شریف میں ہے۔

سَبْعَةٌ أَشْيَاءٌ فِي الصَّلَاةِ مِنَ الشَّيْطَانِ
الرُّعَاتِ وَالنُّعَاسِ وَالْوَسْوَسَةِ وَالتَّأْوُبِ
وَالْحِكَاكِ وَاللِّتْفَاتِ وَالْعَبَثِ بِالشَّيْءِ (۲)
نماز میں سات باتیں شیطان کی طرف سے ہیں، تکبیر،
اونٹھ، وسوسہ، جانی کھلی، ادھر ادھر توجہ اور کسی چیز
سے کھیلنا۔

بعض راویوں نے جھول اور شک کا بھی اضافہ کیا ہے۔

بعض بزرگوں نے فرمایا نماز میں چار باتیں ظلم سے ہیں ادھر ادھر دیکھنا، چہرے پر ہاتھ پھیرنا، کنکریوں کو برابر کرنا ایسے
راستے میں نماز پڑھنا جہاں سامنے سے کسی کے گزرنے کا خدشہ ہو، انگلیوں میں انگلیاں ڈالنے سے بھی منع فرمایا انگلیوں
کے چٹخارے لینا، یا چہرہ ڈھانپنا، یا رکوع میں ایک ہاتھ کو دوسرے پر رکھ کر انوں کے درمیان داخل کرنا یہ بھی ممنوع ہے۔
بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں ہم ایسا کرتے تھے تو ہمیں اس سے روک دیا گیا۔ (۳)

سجدے کے وقت زمین کو صاف کرنے کے لیے پھونک مارنا بھی مکروہ ہے اسی طرح ہاتھ سے کنکریوں کو ٹھیک کرنا بھی مکروہ ہے
کیونکہ ان کاموں کی ضرورت نہیں۔ ایک پاؤں کو اٹھا کر ران پر نہ رکھے اور نہ قیام کی حالت میں دیوار سے ٹیک لگائے اور اگر اس
طرح سہارا لیا کہ اگر دیوار کو کھینچ لیا جائے تو وہ گر جائے تو اس صورت میں زیادہ ظاہر بات یہی ہے کہ نماز باطل ہو جائے گی۔
واللہ اعلم۔

سنن و فرائض کے درمیان امتیاز کرنا
یہ جو کچھ ہم نے ذکر کیا ہے یہ فرائض، سنتوں، مستحبات نماز پر مشتمل ہے اور
جو شخص آخرت کے راستے پر چلنے کا ارادہ رکھتا ہو اسے ان تمام کا خیال

رکھنا چاہیے۔

فرائض نماز:

ان تمام میں سے بارہ باتیں فرض ہیں۔

(۱) نیت (۲) تکبیر تحریمیہ (۳) قیام (۴) فاتحہ (۵) رکوع میں اتنا جھکنا کہ ہتھیلیاں گھٹنوں تک پہنچ جائیں (۶) اطمینان سے رکوع

(۱) قوت القلوب جلد ۲ ص ۹، کتاب الصلوٰۃ

(۲) " " " " " "

(۳) مسند امام احمد بن حنبل جلد ۲ ص ۲۴۱، سنن ابن ماجہ ص ۶۹ اور صحیح بخاری جلد اول ص ۱۰۹

رکوع کے بعد سیدھا کھڑا ہونا (۱۰) اطمینان سے سجدہ کرنا، ہاتھوں کا رکھنا واجب نہیں۔ (۹) سجدے کے بعد اطمینان سے بیٹھ جانا (۱۱) آخری قعدہ (۱۱) آخری قعدہ میں تشہد اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنا (۱۲) پہلا سلام۔ (۱) نماز سے باہر آنے اس علاوہ جو باتیں ہیں وہ سنت اور مستحب ہیں۔

نماز کی سنتیں:

فعلی سنتیں چار ہیں تکبیر تحریمیہ کے وقت ہاتھ اٹھانا، رکوع کے لیے جاتے ہوئے اور رکوع سے اٹھتے وقت ہاتھ اٹھانا احناف کے نزدیک صرف تکبیر تحریمیہ میں ہاتھ اٹھانا سنت ہے رکوع کے وقت ہاتھ اٹھانا ممنوع ہے ۱۲ ہزاروی) پہلی بار تشہد کے لیے بیٹھنا یہ پہلا قعدہ ہے اور احناف کے نزدیک واجب ہے ۱۲ ہزاروی) اور جو کچھ ہم نے انگلیوں کو کھلا رکھنے اور ان کو اٹھانے کی حد کے ضمن میں ذکر کیا ہے یہ مستحب ہے اور سنت کے تابع ہے (عورت کا) زمین پر پاؤں کو بچھانا اور سر میں پٹی بٹھا یہ مستحبات ہیں جو جلسہ کے تابع ہیں سر کو جھکانا اور ادھر ادھر نہ دیکھنا قیام کے مستحبات ہیں اور اچھی طرح کھڑا ہونا ہے جلسہ شریعت کو ہم بنیادی سنتوں میں شمار نہیں کرتے کیونکہ یہ سجدے سے قیام کی طرف اٹھنے کی صورت میں حسن پیدا کرنے کی طرح ہے کیونکہ یہ ذاتی طور پر مقصود نہیں۔ اسی لیے اس کا الگ ذکر نہیں کیا گیا۔

قرنی سنتیں ثنادر ہے اعوذ باللہ پڑھنا (بسم اللہ پڑھنا) آمین کہنا یہ سنت مؤکدہ ہے پھر سورت کا پڑھنا (یہ واجب ہے) پھر اور نیچے جانے کی تکبیریں رکوع اور سجدے کی تسبیحات، رکوع اور سجدے سے سیدھا اٹھ جانا پھر پہلا تشہد (احناف کے نزدیک واجب ہے) رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنا آخری قعدہ میں دعا مانگنا اور دوسرا سلام، ان تمام باتوں کو اگرچہ ہم نے سنت کے نام سے اٹھا کیا ہے لیکن ان کے درجات مختلف ہیں کیونکہ ان میں سے چار کا نقصان سجدہ سو سے پورا ہوتا ہے (یعنی واجب ہیں لیکن احناف کے نزدیک صرف دو باتیں یعنی سورت کے ملنے اور پہلے تشہد کے چھوڑنے سے سجدہ لازم آتا ہے ۱۲ ہزاروی) افعال میں سے صرف ایک یعنی پہلے قعدہ کے چھوڑنے سے سجدہ سہولاً لازم آتا ہے کیونکہ یہ قعدہ ناظرین کے لیے ترتیب نماز میں مؤثر ہے حتیٰ کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ چار رکعتیں ہیں یا نہیں؟ بخلاف ہاتھ اٹھانے کے کیوں کہ وہ نماز کی ترتیب پر اثر انداز نہیں ہوتا اسی لیے اسے جزی سے تعبیر کیا گیا اور کہا گیا ہے کہ ان میں سے جو چیز یا بعض ہیں ان کا نقصان بھی سجدہ سو سے پورا کیا جاتا ہے۔

اذکار میں سے صرف تین، سجدہ سہو کا تقاضا کرتے ہیں دعائے تہنوت پہلا تشہد اور اس میں درود شریف ترک کر دینا

(۱) احناف کے نزدیک نماز کے فرائض یہ ہیں۔

نیت، تکبیر تحریمیہ، قرأت (مطلقاً) رکوع، سجدہ، آخری قعدہ، اپنے کسی عمل کے ساتھ نماز سے باہر آنا۔ مصنف علیہ الرحمۃ نے

واجب اور قرین کو اٹھا کر دیا ہے۔

راحتان کے نزدیک پہلے قعدے ہی درود شریف پڑھتے سے سجدہ سہولاً کم آئے گا۔ ۱۲ ہزاروی) بخلاف انتقال تکبیرات رکوع اور سجدوں کی تسبیحات اور رکوع و سجدوں سے سیدھا اٹھنے کے، کیونکہ رکوع اور سجدہ کی صورت عام عادت کے خلاف ہے اور ان میں ذکر سے خاموشی یا انتقال تکبیرات کو چھوڑ دینے سے بھی عبادت کا معنی حاصل ہو جاتا ہے لہذا ان اذکار نہ ہونے سے عبادت کی صورت میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی۔

جہاں تک پہلے قعدے کا تعلق ہے تو وہ ایک عادت ہے (یعنی عام طور پر آدمی اس طرح بیٹھا ہے) لہذا تشہد کے لیے اس کا اضافہ کیا گیا۔ اس لیے اسے چھوڑنا موثر ہے تناہ اور سورت کا ترک نماز کی تبدیلی میں موثر نہیں جب کہ قیام کی حالت میں سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے اور وہ عبادت سے ممتاز کر دیتی ہے، اسی طرح آخری قعدہ میں دعا اور قنوت کے نقصان کو بھی سجدہ سہو سے پورا کرنے کی ضرورت نہیں لیکن فجر کی نماز میں قنوت کے لیے زیادہ دیر تک کھڑا رہنا مشروع ہے تو یہ طلبہ امتزاجت کے بڑھانے کی طرح ہے کیونکہ یہ تشہد کے ساتھ بڑھانے کے ذریعے تشہد کے لیے قعدہ قرار پایا تو اسی طرح یہ قیام ہے جسے بڑھایا گیا اور عادتاً بھی ایسا ہوتا ہے لیکن اس میں ذکر واجب نہیں۔ بڑھانے کی قید سے صبح کے علاوہ نمازوں کے قیام کو خارج کر دیا اور اسے ذکر واجب سے خالی قرار دے کر نماز میں عام قیام سے الگ کر دیا۔

سوال :-

اگر تم کہو کہ فرائض سے سنتوں کو الگ کرنا سمجھ میں آتا ہے کیونکہ فرض کیے رہ جانے سے نماز نہیں ہوتی لیکن سنت کے فوت ہونے سے نماز ہو جاتی ہے اور فرض کو چھوڑنے کی وجہ سے عذاب ہوتا ہے سنت کے ترک کی وجہ سے نہیں، لیکن سنت کو سنت سے الگ کرنے کا کیا مطلب ہے حالانکہ ان تمام (سنتوں) کا بطور استنباب حکم دیا گیا ہے لہذا ان سب کے چھوٹنے پر بھی عذاب نہیں البتہ ان کے کرنے پر ثواب ہوتا ہے۔

جواب :-

تو جان لو کہ ثواب و عذاب اور استنباب میں ان دونوں قسم کی سنتوں کا اشتراک ان کے درمیان تفاوت کو ختم نہیں کرتا ہم اسے ایک مثال کے ذریعے آپ کے سامنے واضح کرتے ہیں۔ وہ یہ کہ انسان باطنی معنی اور ظاہری اعضاء کے بغیر کامل موجود انسانی نہیں ہوتا باطنی معنی، حیات اور روح ہے اور ظاہر میں اعضاء کے جسم ہیں پھر ان میں سے بعض اعضاء کے باقی نہ رہنے سے انسان بھی معدوم ہو جاتا ہے جیسے دل، جگر، دماغ اور ہر وہ عضو جس کے فوت ہونے سے زندگی ختم ہو جاتی ہے اور بعض اعضاء کے باقی نہ رہنے سے زندگی ختم نہیں ہوتی لیکن زندگی کے مقاصد فوت ہو جاتے ہیں مثلاً آنکھ، ہاتھ، پاؤں اور زبان۔ اور بعض اعضاء کے ختم ہو جانے سے نہ زندگی ختم ہوتی ہے اور نہ مقاصد حیات بلکہ اس سے حسن میں فرق پڑتا ہے جیسے ابرو، داڑھی، پلکین اور اچھا رنگ۔ اور بعض سے حسن و جمال ختم نہیں ہوتا لیکن حسن کامل نہیں رہتا جیسے ابروؤں کا ٹیڑھا ہونا اور ڈھکی اور پلکوں کے بالوں کی سیاہی، اعضاء کی خلقت میں تناسب اور رنگ میں مندرجی اور سفیدی

کا امتزاج۔ تو یہ مختلف درجات ہیں اسی طرح عبادت بھی ایک صورت و شکل ہے جو شریعت نے متعین کی ہے۔ اور ہم اس کے ذریعے تعمیل حکم خداوندی کرتے ہیں، اس کی روح اور باطنی زندگی خشوع، نیت، دل کی حاضری اور اخلاص ہے جیسا کہ آگے آئے گا، اس وقت ظاہری اجزاء کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں تو رکوع، سجدہ، قیام اور تمام ارکان نماز، دل، سر اور جگر کی طرح ہیں کیونکہ ان کے فوت ہونے سے نماز کا وجود ختم ہو جاتا ہے اور جن سنتوں کا ہم نے ذکر کیا ہے یعنی ہاتھوں کو اٹھانا، ثناء پڑھنا، تشہد اول یہ ہاتھوں آنکھوں اور پاؤں کی طرح ہیں ان کے فوت ہونے سے نماز کی صحت ختم نہیں ہوتی تشہد اول بھی احسان کے نزدیک واجب ہے، جیسے ان اعضاء کے ختم ہو جانے سے زندگی ختم نہیں ہوتی لیکن ان کے فوت ہونے سے انسان یدعا ہو جاتا ہے اور اس میں رغبت نہیں رہتی۔ اسی طرح جو آدمی نماز میں کم از کم بات پر اکتفا کرے وہ اس شخص کی طرح ہے جو کسی بادشاہ کی خدمت میں ایک زندہ غلام تحفہ کے طور پر پیش کرے لیکن اس کے اعضا کٹے ہوئے ہوں۔

جہاں تک مستحبات کا تعلق ہے تو وہ سنتوں کے علاوہ ہیں اور اسبابِ حسن مثلاً ابروؤں، داڑھی، پلکوں اور اچھے رنگ کی طرح ہیں۔ نماز کی سنتوں میں جو اذکار ہیں وہ حسنِ صلوٰۃ کی تکمیل کا باعث ہیں جیسے پلکوں کا گول ہونا اور داڑھی کی گولائی وغیرہ۔ پس نماز تیرے پاس اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہے اور ایسا تحفہ ہے جس کے سبب تو تمام بادشاہوں کے بادشاہ کی بارگاہ میں قرب حاصل کرتا ہے جیسے کوئی شخص جو بادشاہوں کا قرب حاصل کرنے کی خواہش رکھتا ہے وہ ان کی خدمت میں کوئی غلام پیش کرتا ہے اور یہ تحفہ (نماز) تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے پھر بہت بڑی پیشی کے دن تیسری طرف لوٹا دیا جائے گا اب تجھے اختیار ہے اس کو اچھی شکل میں پیش کرے یا بڑی شکل میں۔ اگر تو اچھی صورت میں پیش کرے گا تو تیسرا فائدہ ہوگا اور بڑی صورت میں ہوگا تو تیسرا ہی نقصان ہوگا۔ تیرے لئے مناسب نہیں کہ توقف سے صرف اتنا حصہ حاصل کرے کہ تیرے لیے سنت اور فرض کے درمیان امتیاز قائم ہو جائے اور سنت کے اوصاف میں سے تو صرف اتنی بات سمجھے کہ اس کا چھوڑنا جائز ہے چنانچہ تو اسے چھوڑ دے یہ تو طبیب کے اس قول کے مشابہ ہوگا کہ آنکھ چھوڑ دینے سے آدمی کا وجود باطل نہیں ہوتا لیکن وہ اس بات سے خارج ہو جاتا ہے کہ اگر اسے کسی بادشاہ کی خدمت میں بطور تحفہ پیش کیا جائے تو وہ اسے قبول کرے گا تو اسی طرح سنن و مستحبات کے مراتب کو بھی سمجھنا چاہیے انسان جس نماز کا رکوع اور سجدہ مکمل نہیں کرتا وہی نماز اس سے جھکڑا کرے گی اور کہے گی اللہ تعالیٰ تجھے ضائع کرے جیسے تو نے مجھے ضائع کیا۔ پس تم ان روایات کا مطالعہ کرو جو ہم نے ارکان نماز کو مکمل کرنے کے سلسلے میں ذکر کی ہیں تاکہ تمہارے لیے ان کی وقت ظاہر ہو جائے۔

تیسرا باب

نماز کی باطنی شرائط یعنی قلبی اعمال

ہم اس باب میں نماز کے ساتھ خشوع اور حضور قلب کے تعلق کا ذکر کریں گے پھر باطنی معانی، ان کی حدود، اسباب اور علاج کا ذکر کریں گے اور اس کے بعد ان امور کی تفصیل بیان کریں گے جن کا نماز کے ہر رکن میں پایا جانا ضروری ہے تاکہ یہ نماز زاد آخرت کے قابل ہو جائے۔

جان لو کہ اس کے دلائل بہت زیادہ ہیں ان میں سے اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد **خشوع اور حضور قلب کی شرط** گرامی ہے۔

اقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي (۱)

میری یاد کے لیے نماز کو قائم کرو۔

ظاہری طور پر امر و وجوب کے لیے آتا ہے اور غفلت، ذکر کی ضد ہے۔

لہذا جو شخص پوری نماز میں غافل رہا وہ کیسے ذکر خداوندی کے لیے نماز کو قائم کرتے والا ہوگا۔

اور ارشاد خداوندی ہے:

وَلَوْ كُنَّ مِنَ الْعَاقِلِينَ (۲)

اور غافل لوگوں میں سے نہ ہو جاؤ

یہ نہیں ہے اور ظاہر انہی کسی چیز کو حرام کرنے کے لیے آتی ہے۔

اور ارشاد خداوندی ہے:

یہاں تک کہ تم جان لو کہ کیا کہہ رہے ہو۔

حَقِّ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ - (۳)

نشر کی حالت میں نماز پڑھنے کی ممانعت کی علت بیان کی گئی۔ اور یہ علت اس شخص کو بھی شامل ہے جو غافل ہے تیز و سوسوں

اور دینوی افطار میں ڈوبا ہوا ہے۔

اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

(۱) قرآن مجید سورہ طہ آیت ۱۴

(۲) قرآن مجید سورہ اعراف آیت ۲۰۵

(۳) قرآن مجید سورہ نساء آیت ۳۳

إِنَّمَا الصَّلَاةُ تَمَسُّكَ وَتَوَاضِعُ (۱)

بے شک نماز سکون و تواضع کا نام ہے۔
الف لام حصر کا معنی ویتا ہے اور "انما" کا کلمہ تحقیق و تاکید کے لیے ہے اور فقہاء کرام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درج ذیل ارشاد سے حصر اثبات اور نفی کا مفہوم معلوم کیا ہے،

آپ نے فرمایا:-

إِنَّمَا الشُّفْعَةُ فِيمَا لَمْ يُقْسَمَ (۲)

بے شک شفعہ ان چیزوں میں ہے جو تقسیم نہ ہوں۔

اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

مَنْ لَمْ تَنْهَمْ صَلَاتُهُ عَنِ الْفَحْشَاءِ

جس شخص کو اس کی نماز بے حیائی اور برائی سے نہ روکے

وَالْمُنْكَرِ لَمْ يَزِدْهُ مِنَ اللَّهِ إِلَّا بَعْدًا - (۳)

وہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ دُور ہو جاتا ہے۔

اور غافل آدمی کی نماز بے حیائی اور برائی سے نہیں روکتی۔

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

كَمْ مِنْ قَائِمٍ حَفِظَ مِنْ صَلَاتِهِ النَّصَبَ

کتنے بھی لوگ (نماز میں) کھڑے ہوتے ہیں لیکن انہیں نماز

سے ٹھکاوٹ اور مشقت کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔

وَالنَّصَبَ - (۴)

اس سے آپ کی مراد غافل نمازی ہیں؛

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

كَيْسَ يَلْعَبِدُ مِنْ صَلَاتِهِ إِلَّا مَا عَقَلَ

بندے کے لیے نماز سے وہی کچھ ہوتا ہے جسے وہ سمجھ

کرا داتا ہے۔

مِنْهَا - (۵)

اس کی تحقیق یہ ہے کہ نمازی اپنے رب عزوجل سے مناجات کرتا ہے جیسا کہ حدیث میں آیا (۲) اور غفلت کی حالت میں گفتگو کرنا کسی صورت میں مناجات نہیں ہوتی، اس کا بیان یہ ہے کہ اگر انسان زکوٰۃ سے غافل ہو تو وہ (زکوٰۃ) ذاتی طور پر خواہشات کے خلاف اور نفس پر گراں ہوتی ہے اسی طرح روزہ اعضا کو کمزور کرنے والا اور خواہشات جو اللہ تعالیٰ کے دشمن شیطان کا

(۱)

(۲) سنن البیہقی جلد ۶ ص ۱۰۲ کتاب الشفعة -

(۳) المعجم الکبیر للطبرانی جلد ۱۱ ص ۵۴ حدیث ۱۱۰۲۵

(۴) المعجم الکبیر للطبرانی جلد ۱۲ ص ۳۸۲ حدیث ۱۳۴۱۳

(۵) الفروعین باثورا لخطاب جلد ۵ ص ۱۹۵ حدیث ۶۹۳۵

آگہ ہیں، کو توڑنے والا ہے لہذا غفلت کے باوجود ان سے مقصد حاصل ہو جاتا ہے اسی طرح حج کے اعمال نہایت سخت اور باعثِ مشقت ہیں اور اس میں ایسا مجاہدہ ہے جس سے تکلیف اور درد محسوس ہوتا ہے دل حاضر ہو یا نہ — لیکن نماز میں تو ذکر، قرأت، رکوع، سجدہ اور قیام اور قعدہ ہے جہاں تک ذکر کا تعلق ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مذاکرہ و مناجات ہے اب یا تو اس کا مقصد اللہ تعالیٰ سے مذاکرہ کرنا اور اسے خطاب کرنا ہے یا حروف اور آوازیں مقصود ہیں تاکہ عمل کے ساتھ زبان کی آزمائش کی جائے جس طرح روزے میں کھانے پینے سے رکنے کے ذریعے معدے اور شرمگاہ کی حفاظت ہوتی ہے اور جس طرح حج کی مشقتوں کے ذریعے بدن کی آزمائش ہوتی ہے اور زکوٰۃ کی ادائیگی اور محبوب مال دینے کی تکلیف کے ذریعے دل کا امتحان ہوتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ (نماز میں) اس قسم کا تصور باطل ہے کیونکہ غافل آدمی پر بیہودہ گفتگو کے ذریعے زبان کو حرکت دینا نہایت آسان ہوتا ہے پس اس میں عمل کے ذریعے آزمائش نہیں بلکہ مقصود حروف ہیں لیکن بولنے کے اعتبار سے ہے اور بولتے وقت باقی الضمیر کو ظاہر کرنا ہوتا ہے اور باقی الضمیر کا اظہار دل کی حاضری کے بغیر نہیں ہوتا۔

را سے اللہ! تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا

تَوَهِّدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ۔

میں کیا سوال ہوگا جب اس کا دل غافل ہوگا اور جب اس کا مقصد گڑبگڑانا اور دعانا گننا نہ ہوگا تو زبان کو حرکت دینے میں کیا مشقت ہے جب کہ وہ غافل ہو یا مخصوص جب آدمی کو بولنے کی عادت ہو، تو یہ ذکر کے اعتبار سے وضاحت ہے۔ بلکہ میں (حضرت امام غزالی رحمہ اللہ) کہتا ہوں اگر کوئی شخص قسم کھائے اور کہے کہ میں فلاں آدمی کا شکر یہ ضرور ادا کروں گا اس کی تعریف کروں گا اور اس سے کسی حاجت کا سوال کروں گا پھر حالت نیند میں اس کی زبان پر ایسے الفاظ جاری ہو جائیں جو اس مفہوم پر دلالت کرتے ہوں تو اس کی قسم پوری نہیں ہوگی۔

اسی طرح اگر اندھیرے میں وہ یہ کلمات کہتا ہے اور وہ دوسرا شخص بھی موجود ہے لیکن اسے اس کی موجودگی کا علم نہیں اور نہ ہی یہ اسے دیکھ رہا ہے تو بھی قسم سے بری الذمہ نہ ہوگا کیوں کہ جب وہ اسے دل میں حاضر نہ سمجھے، اس کا کلام اس کو خطاب اور اس کے ساتھ گفتگو قرار نہیں پائے گا۔ اسی طرح اگر یہ شخص دن کی روشنی میں اپنی زبان پر یہ کلمات لاتا ہے لیکن اس کا دل حاضر نہیں بلکہ وہ غافل ہے اور کسی سوچ میں پڑا ہوا ہے اور گفتگو کرتے وقت اس کو خطاب کرنے کا ارادہ بھی نہیں کرتا تو بھی قسم پوری نہ ہوگی تو اس میں کوئی شک نہیں کہ قرأت اور افکار سے مقصود اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، اس کی بارگاہ میں عاجزی کا اظہار اور دعا کرنا ہے اور اس کا مخاطب اللہ تعالیٰ ہے اور اس کا دل غفلت کے پردے میں اس سے چھپا ہوا ہے لہذا یہ اسے دیکھ نہیں سکتا بلکہ وہ مخاطب ذات سے بھی غافل ہے اور اس کی زبان عادتاً حرکت کر رہی ہے تو نماز کے مقصد سے یہ بات کس قدر دور ہے کیونکہ نماز کا مقصد دل کو صاف کرنا، اللہ تعالیٰ کے ذکر کی تجدید اور اس پر ایمان کو مضبوط کرنا ہے، تو یہ قرأت اور ذکر کا حکم ہے خدا صمد کلام یہ ہے کہ بولنے میں اس کا غایت کے

سکار اور اسے فعل سے جدا کرنے کا کوئی راستہ نہیں۔۔۔ جہاں تک رکوع اور سجدے کا تعلق ہے تو ان سے قطعی مقصود عظیم ہے اور اگر یہ بات مان لی جائے کہ وہ غفلت کی حالت میں اپنے فعل سے اللہ تعالیٰ کی تعظیم کر رہا ہے تو جائز ہو گا کہ کسی بت کی تعظیم کر رہا ہے جو اس کے سامنے ہے اور وہ اس سے غافل ہے یا کسی دیوار کی تعظیم کرتا ہے وہ اس کے سامنے ہے اور یہ اس سے غافل ہے تو خوب یہ (رکوع و سجدہ) تعظیم کے درجے سے نکل گئے تو صرف پیٹھ اور سر کی حرکت باقی رہ گئی اور اس میں ایسی مشقت نہیں جس کے ذریعے امتحان کا مقصد کیا جائے پھر اسے دین کا ستون قرار دے کر افراتو فرات اسلام کے درمیان فرق قرار دیا جائے اور اسے حج اور دیگر تمام عبادات پر مقدم کیا جائے نیز خاص طور پر اس کے ترک پر قتل کو واجب قرار دیا جائے۔

میرے خیال میں نماز کی یہ تمام عظمت اس کے اعمال ظاہرہ کی وجہ سے نہیں بلکہ اس کی طرف مناجات کے مقصود کی اصافیت کی وجہ سے ہے اسی وجہ سے نماز کو روزے، زکوٰۃ اور صبح و عیرہ پر مقدم کیا گیا بلکہ قربانیوں پر بھی مقدم ہے جو مال میں کمی کرنے کے ذریعے مجاہدہ نفس قرار باقی ہیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔

لَنْ يَنَالَ اللَّهُ لُحْمًا أَوْ دَمًا هَا وَلَٰكِنْ
يَنَالُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ (۱)

اللہ تعالیٰ کو سرگزان کے گوشت اور خون نہیں پہنچتے بلکہ اس تک تمہاری پرہیزگاری پہنچتی ہے۔

تقویٰ سے مراد وہ صفت ہے جو دل پر غالب ہو جاتی کہ اسے احکام خداوندی کی بجا آوری پر مجبور کر دے جو مطلوب ہے تو نماز کا کیا معاملہ ہو گا کیونکہ اس کے افعال تو مطلوب نہیں ہیں تو معنوی اعتبار سے یہ آیات اور روایات نماز میں قلبی حاضری کی شرط پر دلالت کرتی ہیں۔

سوال :

اگر آپ نماز کے باطل ہونے کا فیصلہ کریں اور دل کی حاضری کو اس کے صحیح ہونے کے لیے شرط قرار دیں تو (اس طرح) آپ اجماع فقہاء کے مخالف قرار پائیں گے کیونکہ انہوں نے صرف تکبیر تحریمیہ کے وقت دل کی حاضری کو شرط قرار دیا ہے۔

جواب :

علم کے بیان میں یہ بات گزر چکی ہے کہ فقہاء کرام کا تصرف باطن میں نہیں ہوتا نہ وہ دلوں کو چیرتے ہیں اور نہ وہ آخرت کے راستے کی طرف متوجہ ہوتے ہیں بلکہ وہ دین کے ظاہری احکام کو اعضاء کے ظاہری اعمال پر ناقد کرتے ہیں اور قتل کے سقوط نیز بادشاہ کی تعزیر سے بچنے کے لیے ظاہری اعمال کافی ہیں جہاں تک آخری نفع کا تعلق ہے تو وہ فقہ کی حدود سے متعلق نہیں ہے۔

علاوہ ازیں اجماع کا دعویٰ بھی ممکن نہیں حضرت بشر بن حارث سے منقول ہے ابو طالب کی نے حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ سے روایت کیا کہ انہوں نے (حضرت بشر بن حارث نے) فرمایا ”جو شخص نماز میں حضور نہیں کرتا اس کی نماز فاسد ہے“ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ سے مروی ہے انہوں نے فرمایا ”جس نماز میں دل حاضر نہ ہو اس کی سزا جلدی ملتی ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ جو شخص نماز کی حالت میں قصد و ارادہ سے جان لے کہ اس کے دائیں بائیں کون ہے تو اس کی نماز نہیں ہوتی۔

ایک مسند روایت میں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

اَنَّ اَلْعَبْدَ لِيُصَلِّيَ الصَّلَاةَ لَا يَكْتَبُ
لَهُ مِنْ سَهْمِهَا وَلَا عَشْرَهَا وَلَا نَمَا
يَكْتَبُ لِلْعَبْدِ مِنْ صَلَاتِهِ مَا عَقَلَ
مِنْهَا۔ (۱)

بے شک بندہ نماز پڑھتا ہے لیکن اس کے لیے اس کا
چھٹا حصہ بلکہ دسواں حصہ بھی (تو اب) نہیں لکھا جاتا بندے
کے لیے اس کی نماز سے وہی لکھا جاتا ہے جسے وہ سمجھتا
ہے۔

اگر یہ بات کسی اور سے نقل کی جاتی ہے تو مذہب قرار پاتی تو اس سے کس طرح استدلال نہیں کیا جائے گا۔
حضرت عبدالواحد بن زید رحمہ اللہ نے فرمایا علماء کرام کا اس بات پر اجماع ہے کہ بندے کے لیے اس کی نماز سے وہی کچھ ہے
جسے وہ سمجھ لیتا ہے تو انہوں نے اس کو اجماع قرار دیا۔

اس قسم کی باتیں متقی فقہاء کرام اور علماء کرام سے اس قدر مروی ہیں کہ ان کا شمار بھی نہیں ہو سکتا۔

حق بات یہ ہے کہ شرعی دلائل کی طرف رجوع کیا جائے اس شرط کے بارے میں اور بات و آثار ظاہر ہیں لیکن فتویٰ کا
مقام ظاہری احکام میں بندوں کی کوتاہی کے اعتبار سے ہوتا ہے لہذا یہ بات ممکن نہیں کہ لوگوں پر تمام نماز میں دل کی حاضری کو
شرط قرار دیا جائے کیونکہ چند افراد کے علاوہ باقی سب لوگ اس سے عاجز ہیں اور جب ضرورت کے تحت تمام نماز کو
اس شرط کے ساتھ ”پھیرنا ممکن نہیں تو اب کوئی چارہ نہیں کہ اس کو اسی قدر شرط قرار دیا جائے کہ اس کا نام صادق
آجائے اگرچہ ایک لحظہ ہی کے لیے ہو اور سب سے بہتر لحظہ تکبیر تحریر کا وقت ہے۔

پس ہم نے اسی موقع پر حضور قلب کا مکلف قرار دیا۔

اور اس کے باوجود ہمیں امید ہے کہ تمام نماز میں غافل کی حالت بالکل چھوڑنے والے کی حالت جیسی نہ ہوگی کیوں کہ
وہ کبھی ظاہر فعل کا اقدام کرتا ہے اور کسی وقت دل کو حاضر رکھتا ہے۔ اور یہ کیسے نہیں ہوگا جب کہ بھول کر بے وضو ہونے
کی حالت میں نماز پڑھے تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی نماز باطل ہوتی ہے لیکن اس کے فعل اور کوتاہی و عذر کے حساب

سے اجر ملتا ہے لیکن اس امید کے ساتھ ساتھ یہ خوف بھی رہتا ہے کہ اس کی حالت، حضور قلب کے تارک کی حالت سے بھی زیادہ خراب ہو اور ایسا کس طرح نہیں ہوگا جب کہ خدمت کے لیے حاضر ہونے والا شخص کستی کرتا ہے اور حقیر جانتے والے غافل شخص کی طرح کلام کرتا ہے اس کا حال اس سے بڑا ہوتا ہے جو خدمت سے منہ موڑ لیتا ہے اب جب کہ خوف اور امید کے اسباب میں تعارض ہو گیا اور فی نفسہ یہ معاملہ اہم ہے تو اب تمہاری مرضی ہے اس کے بعد احتیاط برتو یا کستی کا راستہ اختیار کرو۔

اور اس کے باوجود فقہاء کرام نے غفلت کے باوجود نماز کی صحت کا جو فتویٰ دیا ہے اس کی مخالفت نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ فتویٰ کی ضرورت سے ہے جیسا کہ اس پر پہلے آگاہی ہو چکی ہے اور جو شخص نماز کے فلسفہ کو جان لیتا ہے اسے معلوم ہو جاتا ہے کہ غفلت اس کی ضد ہے لیکن ہم نے قواعد عقائد کے بیان میں علم باطن اور علم ظاہر کے درمیان فرق کے باب میں ذکر کیا ہے کہ مخلوق کی سمجھ میں کوتاہی بھی اس بات سے مانع ہے کہ شریعت کے جو امرار منکشف ہوتے ہیں انہیں واضح طور پر بیان کیا جائے تو ہم اسی قدر بحث پر اکتفا کرتے ہیں جو شخص آخرت کے راستے کا طالب اور اس کا ارادہ کرنے والا ہے اس کے لیے اس میں قناعت ہے جہاں تک جھگڑا لو اور شور کرنے والوں کا تعلق ہے تو اس وقت ہم ان سے خطاب کا قصد نہیں کرتے۔

خلاصہ کلام یہ ہے کہ دل کی حاضری نماز کی روح ہے اور کم از کم جس کے ساتھ روح کی رمق باقی رہتی ہے وہ تکبیر تحریمہ کے وقت دل کی حاضری ہے اس میں کوتاہی ہلاکت ہے اور جس قدر یہ حاضری زیادہ ہوگی نماز کے اجزاء میں روح پھیلی جائے گی اور کھینٹے ہی زندہ لوگ ہیں جو حرکت نہیں کر سکتے تو وہ مردہ کی طرح ہیں پس تکبیر کے علاوہ غافل کی باقی نماز اس زندہ شخص کی طرح ہے جس میں کوئی حرکت نہیں ہم اللہ تعالیٰ سے اچھی مدد کے طلب گار ہیں۔

جان لو! ان معانی کے لیے زیادہ عبارت کی ضرورت ہے

لیکن چھ جملوں میں ان کو جمع کیا جاسکتا ہے اور وہ دل کی حاضری،

باطنی امور جن سے حیاتِ نماز تکمیل ہوتی ہے

نماز کو سمجھنا، تعظیم، خوف، امید اور جیاد ہے۔ ہم ان کی تفصیل، اسباب اور علاج کا ذکر کریں گے۔ تو تفصیل اس طرح ہے۔

دل کی حاضری سے مراد یہ ہے کہ نمازی نے جس سے تعلق قائم کر رکھا ہے اور اس سے ہم کلام ہے

دل کی حاضری

اس کے غیر سے دل کو فارغ کر دے یعنی دل کو قول و فعل دونوں کا علم ہو اور ان دو باتوں کے علاوہ

کی طرف اس کی فکر نہ دوڑے۔ اور جب اس عمل کے غیر سے فکر ہٹ جائے گی اور اس عمل کی یاد ہی باقی ہوگی اور اس

عمل کی کسی بات سے غفلت نہ ہوگی تو دل کی حاضری حاصل ہو جائے گی

لیکن کلام کے معنی کو سمجھنا الگ بات ہے جو حضور قلب کے بعد ہوتا ہے چنانچہ بعض اوقات دل، الفاظ کے ساتھ حاضر ہوتا ہے لیکن لفظ کے معنی کے ساتھ حاضر نہیں ہوتا پس تعظیم دل میں لفظ کے معنی کا پایا جاتا ہے۔ اور یہی ہماری

مراد ہے۔ اس مقام پر لوگوں کے درمیان تفاوت ہے۔ کیونکہ قرآن پاک اور تسبیحات کے معانی کو سمجھنے کے سلسلے میں لوگ مشترک نہیں ہیں کتنے ہی باریک معانی ہیں جنہیں نمازی، نماز کے دوران سمجھ لیتا ہے لیکن اس سے پہلے اس کے دل میں ان کا خیال نہیں گزرا ہوتا۔ اسی بنیاد پر نمازی بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ یعنی نماز ایسی باتیں بتاتی ہے جو لازماً بے حیائی سے روکتی ہیں۔

جہاں تک تعظیم کا تعلق ہے تو یہ حضور قلب اور معانی کو سمجھنے کے بعد ہوتی ہے کیونکہ بعض اوقات آدمی اپنے غلام کو مخاطب کرتا ہے تو اس کا دل بھی حاضر ہوتا ہے اور وہ اس کی بات کو سمجھتا بھی ہے لیکن وہ اس کی تعظیم نہیں کرتا لہذا تعظیم ان دونوں سے زائد چیز ہے۔

ہیبت، تعظیم سے بھی زائد ہے بلکہ یہ ایک ایسا خوف ہے جس کا منبع تعظیم ہے کیونکہ جو آدمی خوف نہیں رکھتا اسے ہیبت والا نہیں کہا جاتا ہے۔ پچھو سے، کسی انسان کے بُرے اخلاق یا اس قسم کی دوسری باتوں سے ڈرنا جو خیس قسم کے اسباب ہیں، ہیبت نہیں ہے بلکہ سلطان معظم سے ڈرنا ہیبت ہے گو یا ہیبت وہ خوف ہے جس کی بنیاد کسی کو بڑا سمجھنا ہے۔

امید بھی یقیناً ایک زائد بات ہے کتنے ہی لوگ کسی بادشاہ سے ڈرتے ہوئے یا اس کے اقتدار کے خوف سے اس کی تعظیم کرتے ہیں لیکن اس سے اجر کی امید نہیں رکھتے تو بندے کو چاہیے کہ وہ اپنی نماز سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ثواب کی امید رکھے۔ جس طرح نماز میں کوتاہی کے باعث وہ اس کے عذاب سے ڈرتا ہے۔

جیسا ان تمام امور سے زائد ہوتا ہے کیونکہ اس کی بنیاد اپنی کوتاہی کا شعور، اور گناہ کا وہم ہوتا ہے جب کہ تعظیم، خوف اور امید کا تصور جیسا کہ بغیر بھی ہوتا ہے جب کہ کوتاہی کا وہم یا ارتکاب گناہ نہ ہو۔

ان چھ باطنی صفات کے اسباب کے بارے میں تمہیں جانتا چاہیے کہ دل کی حاضری کا سبب فکر ہے کیونکہ تیرا دل فکر کے تابع ہے پس وہ اسی جگہ حاضر ہوگا جہاں تیری فکر ہوگی بعض اوقات تمہیں کسی ایک معاملہ کی فکر ہوتی ہے جس میں دل کو حاضر ہونا پڑتا ہے وہ چاہے یا نہ کیونکہ وہ اس پر مجبور ہے اور مستحضر ہے۔

جب نماز میں دل حاضر نہ ہو تو وہ بیکار نہیں ہوتا بلکہ وہ اس دنیوی کام کی طرف دوڑتا ہے جس میں انسانی فکر مصروف ہوتی ہے پس دل کو حاضر کرنے کے لیے کوئی جیلر یا علاج کارگر نہیں ہو سکتا البتہ یہ کہ اپنی سوچ کو نماز کی طرف پھیر دیا جائے اور ہیبت و فکر اس طرف اس وقت تک نہیں پھرتی جب تک یہ بات واضح نہ ہو کہ نماز کی غرض جو مطلوب ہے اس کا دار و مدار اسی پر ہے یعنی اس بات کا یقین ہو کہ آخرت بہتر اور باقی رہنے والی ہے اور نماز اس تک پہنچنے کا وسیلہ ہے جب اس بات کی حقیقت علم کی طرف اضافت کی جائے اور دنیا اور اس کی سوچ کو حقیر سمجھا جائے تو ان کے مجموعے سے نماز میں دل کی حضوری ہوگی جب تم کسی بڑی شخصیت کے پاس جاتے ہو تو وہی سوچ کے تحت دل حاضر ہوتا ہے حالانکہ

وہ شخص تمہیں نقصان یا نفع پہنچانے پر قادر نہیں ہوتا پس جب تمام بادشاہوں کے بادشاہ جس کے قبضے میں دنیا اور آسمان کی بادشاہی اور نفع و نقصان ہے، سے مناجات کے وقت دل حاضر نہ ہو تو تمہیں ایمان کی کمزوری کے سوا کسی دوسرے سبب کا خیال نہیں کرنا چاہیے اب تم ایمان کی مضبوطی کی کوشش کرو اور اس کا طریقہ دوسرے مقام پر بیان ہوگا۔

جہاں تک سمجھنے کا تعلق ہے تو اس کا سبب یہ ہے کہ حضور قلب کے بعد فکر اور ذہن کو معنی کے سمجھنے کی طرف لگا دیا جائے اور اس کا علاج وہی ہے جو دل کی حاضری کا علاج ہے یعنی قلبی خیالات کو دور کرنے کی فکر کی جائے اور خیالات کو یوں دور کیا جاسکتا ہے کہ ان کا مواد ختم کیا جائے۔ یعنی وہ اسباب ختم کر دیے جائیں جن کی طرف خیالات قلبی مائل ہوتے ہیں جب تک یہ مواد ختم نہیں ہوگا ان سے قلبی خیالات نہیں پھریں گے۔ پس جو شخص کسی چیز کو پسند کرتا ہے تو وہ اس سے محبت کرتا ہے لہذا محبوب کا ذکر لازماً دل پر ہجوم کرتا اور اثر انداز ہوتا ہے اسی لیے تم دیکھتے ہو کہ جو آدمی غیر خدا سے محبت کرتا ہے اس کی غماز و سوسوں اور خیالات سے خالی نہیں ہوتی۔

تعمیم قلبی حالت ہے جو دو معرفتوں سے پیدا ہوتی ہے ان میں سے ایک اللہ تعالیٰ کے جلال اور عظمت کی معرفت ہے اور وہ اصول ایمان سے ہے کیونکہ جو شخص اس کی عظمت کا اعتقاد نہیں رکھتا اس کا نفس تعظیم کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ دوسری معرفت نفس کے حقیر اور خبیث ہونے کو پہچانتا ہے نیز یہ کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے حکم کا پابند اور مسخر ہے حتیٰ کہ ان دونوں معرفتوں سے انکسار مسکیتی اور خشوع پیدا ہوتا ہے اور یہی تعظیم ہے۔ جب تک نفس کی حقارت کی معرفت اللہ تعالیٰ کے جلال کی معرفت کے ساتھ نہ ملے خشوع اور تعظیم کی حالت پیدا نہیں ہوتی کیوں کہ جو شخص دوسرے سے بے نیاز اور اپنے نفس پر اعتماد رکھنے والا ہو تو ممکن ہے وہ دوسروں سے عظمت کی صفات معلوم کرے لیکن اس کی حالت خشوع اور تعظیم والی نہ ہوگی کیوں کہ دوسرا قرینہ یعنی حقارت نفس کی پہچان اس کے ساتھ ملی ہوئی نہیں۔

ہیبت و خوف نفس کی حالت ہے جو اس بات کی معرفت سے پیدا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ قادر ہے اور دبدبے والا ہے، اسی کی مشیت ناقذ ہوتی ہے اور اسے کسی بات کی زیادہ پرواہ نہیں ہوتی اگر وہ پہلوں اور پھلوں کو ہلاک کر دے تو اس کی حکومت سے ایک ذرہ بھی کم نہ ہوگا۔ اور یہ بات اس وقت حاصل ہوتی ہے جب اس بات کا مطالعہ کیا جائے کہ انبیاء کرام اور اولیاء عظام پر طرح طرح کے مصائب نازل ہوتے ہیں حالانکہ وہ انہیں دور کرنے پر قادر ہوتے ہیں جب کہ دنیوی بادشاہوں کے سلسلے میں اس کے خلاف مشاہدہ ہوتا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کے بارے میں علم پڑھتا ہے خشیت و ہیبت میں اصناف ہوتا ہے اس کے اسباب کا ذکر نجات دینے والے امور کے بیان میں کتاب خوف کے تحت آئے گا۔

جہاں تک امید کا تعلق ہے تو اس کا سبب اللہ تعالیٰ کی مہربانی، کرم عمومی انعامات اس کی صنعتوں کی لطافت اور اس بات کی پہچان ہے کہ غماز کے بدلے میں جنت کا وعدہ سچا ہے جب اس کے وعدے پر یقین ہوگا اور اس بات

کی معرفت ہوگی کہ وہ مہربان ہے تو ان دونوں کے مجموعے سے یقیناً امید پیدا ہوگی۔
 حیا کا سبب یہ ہے کہ اسے عبادت کے سلسلے میں کوتاہی کا شعور ہو اور جانتا ہو کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بہت بڑے
 حق کو قائم کرنے سے عاجز ہے اور یہ بات اس وقت مضبوط ہوتی ہے جب اسے اپنے نفس کے عیبوں اور ان کی آفات
 کا علم ہوتا ہے نیز وہ جانتا ہے کہ اس کے پاس اخلاص کم ہے، باطن میں خیانت ہے اور تمام افعال میں فوری فائدے
 کی طرف توجہ ہے حالانکہ وہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جلال بہت بڑی بات کا تقاضا کرتا ہے اور اسے اس بات کا بھی علم
 ہے کہ وہ پوشیدہ باتوں اور دل کے وسوسوں پر مطلع ہے اگرچہ وہ کتنے ہی باریک اور چھوٹے ہوں اس سے یقینی طور
 پر ان امور کی معرفت حاصل ہوگی تو اس سے لازماً ایک ایسی حالت پیدا ہوگی جس کو حیا کہتے ہیں۔

ان صفات کے یہ اسباب ہیں تو ان میں سے جس کو حاصل کرنا مطلوب ہو اس کا علاج اس کے سبب کو حاضر کرنا
 ہے کیونکہ معرفت سبب میں علاج کی معرفت ہے۔ اور ان تمام اسباب کو ایمان و یقین یا ہم ملاتے ہیں یعنی وہ معارف جن کا ہم
 نے ذکر کیا ہے۔ اور ان کے یقینی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ شک دور ہو جائے اور یہ دل پر غلبہ حاصل کر لیں جیسے کتاب العلم
 میں یقین کے بیان میں یہ بات گزر چکی ہے۔ اور جتنا یقین ہوتا ہے اتنا ہی دل میں خشوع پیدا ہوتا ہے اسی لیے حضرات عائشہ
 رضی اللہ عنہا نے فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے اور ہم آپ سے گفتگو کرتے ہیں جب نماز کا وقت آجاتا تو گویا نہ
 آپ ہمیں پہچانتے ہیں اور نہ ہم آپ کو۔

ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی (اور فرمایا) "اے موسیٰ علیہ السلام جب
 تمہیں میری یاد آئے تو مجھے یوں یاد کرو کہ اپنے اعضا کو چھارو اور میرے ذکر کے وقت خشوع کرنے والے اور مطمئن
 ہو جاؤ جب میرا ذکر کرو تو اپنی زبان کو دل کے پیچھے کر لو۔ اور جب میرے سامنے کھڑے ہو تو اس طرح کھڑے ہو جن
 طرح کوئی ادنیٰ غلام کھڑا ہوتا ہے اور مجھ سے ڈرنے والے دل اور سچی زبان سے گفتگو کریں۔"

ایک روایت میں ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف وحی بھیجی کہ اپنی امت کے نافرمان لوگوں سے فرمائیں کہ وہ میرا ذکر نہ کریں
 کیونکہ میں نے اپنے نفس پر قسم کھاتی ہے کہ جو شخص میرا ذکر کرے گا اس کو یاد کروں گا پس جب وہ میرا ذکر کریں گے تو میں
 لعنت کے ساتھ ان کا ذکر کروں گا۔

یہ بات تو اس نافرمان کے بارے میں ہے جو اس کے ذکر سے غافل نہیں تو کیا حال ہوگا جب غفلت اور نافرمانی
 جمع ہو جائیں جن معانی کا ہم نے ذکر کیا اور ان کا تعلق دل سے ہے ان میں اختلاف کی وجہ سے لوگ تقسیم ہو جاتے ہیں
 ایک قسم ان لوگوں کی ہے جو غافل ہیں نماز کو مکمل کرتے ہیں لیکن ان کا دل ایک لمحہ کے لئے بھی حاضر نہیں ہوتا اور وہ
 لوگ بھی ہیں جو نماز کو مکمل طور پر پڑھتے ہیں اور ایک لمحہ کے لیے بھی ان کا دل غائب نہیں ہوتا بلکہ بعض اوقات تو ان کی سوج
 اور فکر نماز کو اس طرح پھر لیتی ہے کہ ان کے سامنے جو کچھ ہوتا ہے انہیں اس کا بھی احساس نہیں ہوتا یہی وجہ ہے کہ

نب مسجد میں ستون گر گیا اور لوگ وہاں جمع ہوئے تو حضرت مسلم بن یسار کو اس بات کا علم نہ ہو سکا۔ اور ان میں سے بعض لوگ میں جو ایک مدت تک جماعت میں حاضر ہوتے ہیں لیکن انہیں معلوم نہیں ہوتا کہ ان کے دائیں بائیں کون ہے؟ حضرت ابراہیم کے جوش قلب کی آواز دو میلیونوں سے سنی جاتی تھی اور ایک گروہ ایسا تھا کہ (حالت نماز میں) ان کے چہرے رو ہو جاتے اور ان کے کاندھے تھر تھرانے لگتے اور یہ ساری باتیں سمجھ سے باہر نہیں ہیں کیونکہ دنیا داروں کی شوح اور رشاہوں سے ان کے خوف میں اس سے دوگنا کا مشاہدہ ہوتا ہے حالانکہ یہ بادشاہ عاجز اور کمزور ہیں اور جو کچھ ان سے حاصل ہوتا ہے وہ نہایت حقیر ہوتا ہے۔

حتیٰ کہ کوئی شخص کسی بادشاہ یا وزیر کے پاس جاتا ہے اور اس کے سامنے اپنا مقصد بیان کرتا ہے پھر باہر نکلتا ہے اب اگر اس سے پوچھا جائے کہ بادشاہ کے گرد کون کون لوگ تھے یا بادشاہ کے کپڑے کیسے تھے تو وہ بتانے پر قادر نہیں ہوتا کیونکہ اس کی سوچ نے اسے کپڑوں اور درباریوں کی طرف توجہ سے پھیر رکھا تھا۔ ہر ایک کے عمل کے درجات ہیں لہذا ہر شخص کو اس کی نماز سے اس کے خوف خشوع اور تعظیم کے مطابق حصہ ملتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی نظر کا محل دل ہے ظاہر حرکات نہیں اسی لیے بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے فرمایا قیامت کے دن لوگوں کو ان کی نماز والی صورت پر اٹھایا جائے گا۔ یعنی اسے نماز میں جس قدر سکون و اطمینان اور لذت حاصل ہوتی تھی اسی اندازے پر اس کا حشر ہوگا انہوں نے سچ فرمایا کیونکہ ہر شخص اس طریقے پر اٹھایا جائے گا جس پر اس کا انتقال ہوا۔ اور ہر آدمی اس طریقے پر مرنے پر وہ زندگی گزارتا ہے اور اس سلسلے میں اس کے دل کی حالت کو دیکھا جاتا ہے ظاہری جسم کو نہیں۔ اور دونوں کی صفات ہی کو آخرت میں صورتوں میں ڈھالا جائے گا۔ اور وہ ہی شخص نجات پائے گا جو محفوظ دل کے ساتھ آئے گا ہم اللہ تعالیٰ کی لطف و کرم سے حسن توفیق کا سوال کرتے ہیں۔

جان لو! مومن کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی تعلیم کرنے والا، اس سے ڈرنے والا، امید رکھنے والا اور اپنی کوتاہی پر حیا کرنے والا ہو ایمان کے بعد یہ حالتیں جدا نہیں ہوتی چاہیں اگر چہ ان کی قوت یقین کی قوت کے برابر ہو۔ اگر نماز میں یہ باتیں جدا ہوتی ہیں تو اس کی وجہ انتشار فکر اور سوچ کا بٹ جانا، مناجات سے دل کا غائب ہونا اور نماز سے غافل ہونا ہے نماز سے وہی خیالات توجہ ہٹاتے ہیں جو دوسری طرف مشغول رکھتے ہیں لہذا دل کو حاضر کرنے کا علاج ان خیالات کو دور کرنا ہے اور کسی چیز کو اسی وقت دور کیا جاسکتا ہے جب اس کے سبب کو دور کیا جائے لہذا تمہیں اس کے اسباب کا علم ہونا چاہیے۔

قلبی خیالات کا سبب یا تو خارجی بات ہوگی یا ایسی بات ہوگی جو دل کے اندر پائی جاتی ہے خارجی بات وہ ہے جو کانوں کو کھٹکھٹاتی اور آنکھوں کے سامنے ظاہر ہوتی ہے یہ چیز فکر کو اچک لیتی ہے یہاں تک کہ فکر ان باتوں کے پیچھے چلی جاتی ہے اور ان میں تصرف کرتی ہے۔

پھر وہ ان امور سے دوسرے امور کی طرف چلی جاتی ہے اور اسی طرح یہ سلسلہ بڑھتا ہے کہ سب سے پہلے نظر اس سوچ کا سبب بنتی ہے پھر بعض افکار دوسرے بعض کے لیے سبب بنتے ہیں لہذا جس شخص کی نیت مضبوط اور اس کی ہمت بلند ہو اس کے حواس پر جاری ہونے والی کوئی بات اسے غافل نہیں کر سکتی البتہ کمزور آدمی کی توجہ بٹ جاتی ہے اس کا علاج یہ ہے کہ ان اسباب کو ختم کر دے مثلاً آنکھیں بند کر دے یا اندھیرے کرے یا نماز پڑھے یا اپنے سامنے کوئی ایسی چیز نہ چھوڑے جو اس کی حس کو ادھر مشغول کر دے نماز کے وقت دیوار کے قریب کھڑا ہوتا کہ اس کی آنکھ دُور تک نہ دیکھ سکے راستوں پر نماز پڑھنے سے بچے اسی طرح جہاں نقش و نگار ہوں یا رنگدار فرش ہو اس سے بھی احتراز کرے اسی لیے عبادت گزار لوگ چھوٹے سے تاریک گھر میں نماز پڑھتے ہیں جس میں سجدہ ہو سکے تاکہ ان کی ہمت و سوچ مجتمع رہے۔

البتہ ان میں سے جو لوگ (ایمان کے اعتبار سے) مضبوط تھے وہ مساجد میں جاتے تھے اور آنکھوں کو بند رکھتے تھے سجدے کی جگہ سے ان کی نظر تجاوز نہیں کرتی تھی۔ اور وہ اس بات کو نماز کی تکمیل کا سبب جانتے تھے کہ وہ اپنے دائیں بائیں والوں کو بھی پہچان نہ سکیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نماز پڑھنے کی جگہ قرآن پاک اور تلوار وغیرہ کو نہیں چھوڑتے تھے بلکہ وہاں سے ہٹا دیتے اور اگر کچھ لکھا ہوتا تو اسے مٹا دیتے۔

جہاں تک باطنی اسباب کا تعلق ہے تو وہ زیادہ سخت ہیں کیونکہ جس شخص کی فکر دنیا کی وادیوں میں بکھری ہوئی ہو اس کی سوچ ایک فن میں بند نہیں ہوتی بلکہ وہ مسلسل ایک طرف سے دوسری طرف اُڑتی رہتی ہے۔ اور آنکھوں کا بند کرنا اسے کوئی فائدہ نہیں دیتا کیوں کہ جو کچھ پہلے سے دل میں اچھا ہے وہ اسے مشغول رکھنے کے لیے کافی ہے تو باطنی وسوسوں کو دور کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنے نفس کو زبردستی اپنی قرأت کے سمجھنے کی طرف متوجہ کرے اور اس کے غیر سے پھیر دے اور اگر وہ نیت کرنے سے پہلے تہیہ کر لے اور وہ نفس کو آخرت کی یاد دلانے کی تجدید کرے گا اسے مناجات کے لیے کھڑے ہونے کے مقام اور خداوند تعالیٰ کے سامنے حاضری کے خطرات اور موت کے بعد والے حالات سے اسے (نفس کو) آگاہ کرے گا تو اس سوچ سے بھی اسے حضور قلب پر مدد ملے گی۔ نماز کے لیے تکبیر تحریر یہ کہنے سے پہلے اپنے دل کو دوسرے خیالات سے فارغ کرنا چاہیے اور اپنے نفس کے لیے ایسی مشغولیت نہ چھوڑے جس کی طرف اس کا دل متوجہ ہو جائے۔

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن ابی شیبہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا:
 ”میں تمہیں یہ بات کہنا بھول گیا کہ گھر میں جو ہنڈیا ہے اسے ڈھانپ دینا کیونکہ یہ بات مناسب نہیں کہ گھر میں کوئی ایسی چیز ہو جو لوگوں کی توجہ نماز سے ہٹا دے (۱)“

تو تفکرات کو ختم کرنے کا یہ طریقہ ہے پھر بھی اگر نیکو پنپانے والی اس کو اسے اس کی سوچ کا جو شختم نہ ہو تو وہ دریا
 نجات دے گی جو اسہال پیدا کرتی ہے یعنی لوگوں کے اندر سے بیماری کے مارا کو ختم کر دیتی ہے۔ وہ یہ کہ ان امور کو دیکھے
 جو بدل کی حاضری کو پھیرنے والے اور ریسروں طرف مشغول رکھنے والے نہیں اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ امور اس کے
 انکار کی طرف لوٹتے ہیں اور یہ تمام سوچ بھی خیرات کی جہت سے ہوتی ہے پس وہ ان خواہشات کو ختم کرنے اور ان خیراتوں
 کو دور کرنے کے ذریعے اپنے نفس کو نرا سے جو چیز نماز سے غافل کرتی ہے وہ اس کے دین کی ضد ہے اور اس کے
 دشمن ابلیس کا لشکر ہے لہذا اس کو نکالنے کی جائے باقی رکھنا زبردستی ہے اس لیے اس کو نکال کر چھٹکارا
 حاصل کرے جیسا کہ ایک روایت میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جبہ پہنا جو حضرت ابو جہم رضی اللہ عنہ نے آپ
 کو پیش کیا تھا اور اس پر پہلے بوٹے تھے آپ نے اس میں نماز پڑھی اور پھر اتار کر فرمایا اسے ابو جہم کے پاس لے جاؤ
 اس نے ابھی نماز میں میری تصویر کو پھیر دیا تھا۔ اور ابو جہم کے سارے چادر لاکر مجھے دے دیا۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نعلین مبارک میں نئے نئے تسمے لگانے کا حکم دیا پھر نئے ہونے کی وجہ سے نماز میں
 ان پر نظر پڑ گئی تو آپ نے ان کو نکالنے اور پرانے تسمے لگانے کا حکم دیا۔ (۲)

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن جو توں کا نیا جوڑا پہنا تو وہ آپ کو اچھا معلوم ہوا آپ نے سجدہ کیا اور فرمایا میں نے
 اپنے رب عزوجل کے لیے تواضع کی تاکہ وہ مجھ پر غضبناک نہ ہو۔ پھر آپ باہر تشریف لے گئے تو سب سے پہلے جو سائل
 ملا اس کو عطا فرما دیا۔ اس کے بعد حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ وہ آپ کے لیے دو جوتے خریدیں جو پرانے نرم
 چمڑے کے ہوں۔ چنانچہ آپ نے انہیں پہنا۔ (۳)

اور سونا حرام ہونے سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی مبارک میں سونے کی انگوٹھی تھی آپ منبر پر تشریف فرما
 تھے کہ اسے پھینک دیا اور فرمایا اس نے مجھے مصروف کر دیا میں ایک نظر اس کی طرف کرتا اور دوسری نظر تمہاری طرف (۴)
 ایک روایت میں حضرت ابوطالب رضی اللہ عنہ نے اپنے باغ میں نماز پڑھی اس میں ایک درخت تھا تو ایک بھورے رنگ
 کا پرندہ آپ کو اچھا لگا تو اڑ کر اس درخت پر اڑے ہوئے راستہ تلاش کر رہا تھا ایک گھڑی آپ اس کو دیکھتے رہے
 اور معلوم نہ ہو سکا کہ کتنی رکعات پڑھی ہیں انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس واقعہ کا ذکر کیا اور پھر عرض کیا:

(۱) مشکوٰۃ شریف ص ۷۲، باب الشرا افضل اول

(۲)

(۳)

(۴) مسند امام احمد بن حنبل جلد اول ص ۲۲۲ بروایات ابن عباس

یا رسول اللہ! یہ باغ صدقہ ہے جہاں چاہیں خرچ فرمائیں۔

ایک اور شخص کے بارے میں ہے کہ اس نے اپنے باغ میں نماز پڑھی کھجور کے درخت پھلوں کی وجہ سے ٹھکے ہوئے تھے اس نے دیکھا تو اسے پسند کیا اور معلوم نہ ہو سکا کہ کتنی رکعات پڑھی ہیں اس شخص نے یہ واقعہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے عرض کیا اور کہا کہ یہ صدقہ ہے اسے اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر دیں۔ چنانچہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اسے پچاس ہزار میں بیچا۔ وہ لوگ فکر کی اصل کو ختم کرنے کے لیے ایسا کیا کرتے تھے نیز اسے نماز میں ہونے والے نقصان کا کفارہ قرار دیتے اور حقیقت میں بیماری کی جڑ کو اکھیڑنے کا ہی علاج اس کے علاوہ کوئی چیز فائدہ نہیں دیتی جو کچھ ہم نے ذکر کیا کہ تفکرات کو نرمی کے ساتھ ٹھنڈا کر دے اور ذکر کو سمجھنے کی طرف رجوع کرے تو یہ عمل کمزور خواہشات اور ان خیالات میں مفید ہے جو دل کے اطراف کو مشغول رکھتے ہیں لیکن مضبوط اور زوردار خواہشات کو ساکن نہیں کیا جاسکتا بلکہ مسلسل توان کو اور وہ مجھے کھینچتی رہیں گی حتیٰ کہ وہ سمجھ پر غالب آجائیں گی اور تمام نماز اس کھینچا تانی کی نذر ہو جائے گی اس کی مثال اس طرح ہے کہ کوئی شخص درخت کے نیچے اپنی فکر کو صاف رکھنا چاہتا ہو لیکن چڑیوں کی آواز سے اسے تشویش پیدا ہو تو وہ لکڑی لے کر مسلسل ان کو اڑاتا ہے اور اپنی سوچ کی طرف متوجہ ہونے کی کوشش کرتا ہے لیکن چڑیاں پھر لوٹ آتی ہیں وہ دوبارہ لکڑی لے کر ان کو اڑاتا ہے تو اسے کہا جائے گا کہ یہ اونٹنی کی چال ہے اس طرح یہ کبھی ختم نہ ہوگی اگر تم اس سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہو تو درخت کو کاٹ دو اسی طرح شہوتوں کا درخت جب پھیل جائے اور اس کی ٹہنیاں ادھر ادھر بکھر جائیں تو وہ افکار کو اپنی طرف کھینچتی ہیں جس طرح چڑیوں کو درخت کی طرف اور بھیبوں کو گندگی کی طرف کشش ہوتی ہے کیونکہ مکھی کو جب بھگایا جائے تو پھر آتی ہے اسی لیے اسی ذباب کہا جاتا ہے (جیسے زیادہ بھگایا جائے) دوسروں اور خیالات کا بھی یہی حال ہے۔

یہ خواہشات بہت زیادہ ہیں اور انسان ان سے بہت کم خالی ہوتا ہے لیکن ان تمام کو ایک چیز جمع کرتی ہے اور وہ دنیا کی محبت ہے، اسی طرح ہر گناہ کی بنیاد ہر نقصان کی اصل اور ہر فساد کی جڑ دنیا سے محبت ہے، اور جس آدمی کا دل دنیا کی محبت پر مشتمل ہو یہاں تک کہ وہ اس میں سے کسی چیز کی طرف مائل ہو جائے لیکن اس لیے نہیں کہ وہ اسے آخرت کا توشہ بنا تا ہے اور نہ کہ وہ اس سے آخرت پر مدد لیتا تو اس کو نماز میں مناجات کی لذت صاف طور پر حاصل ہونے کی امید نہیں کرتی چاہیے۔ کیونکہ جو آدمی دنیا پر خوشی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مناجات کو پسند نہیں فرماتا اور انسان کی ہمت اور ارادہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک دنیا سے حاصل ہو تو لامحالہ اس کی ہمت اسی طرف پھرنے لگی لیکن اس کے باوجود اسے چاہیے کہ نہ تو مجاہدہ کو ترک کرے اور نہ دل کی نماز کی طرف توجہ کو چھوڑے نیز مشغول کرنے والے اسباب کو کم کر دے یہ کرطوبی و داسے اسی کڑواہٹ کی وجہ سے طبیعتیں اسے بدمزہ سمجھتی ہیں اور مرض پرانا ہوتا جاتا ہے اور لا علاج بھی رہتی کہ بعض اکابر نے کوشش کی کہ وہ دور کعتیں اس طرح پڑھیں کہ ان میں دینی امور کے بارے میں کوئی بات پیدا نہ ہو لیکن وہ اس سے عاجز آگئے تو اب ہمارے

جیسے لوگوں کے لیے کیا امید باقی رہ گئی؟ کاشش ہماری نماز سے نصف یا تیسرا حصہ ہی وسوسوں سے محفوظ ہو جاتا یا کم از کم ہم ان لوگوں میں سے ہو جائے جنہوں نے نیک اعمال کو برے اعمال سے ملا لیا۔

خلاصہ یہ ہے کہ دنیا کی ہمت اور آخرت کا ارادہ دل میں اس پانی کی طرح ہے جو سرکہ سے بھرے ہوئے پیالے میں ڈالا جائے تو جس قدر پانی اس میں جائے گا اسی مقدار میں سرکہ باہر آئے گا اور یہ دونوں جمع نہیں ہوں گے۔

نماز میں دل کی حاضری کی تفصیل:

پس ہم کہتے ہیں کہ اگر تم آخرت کا ارادہ کرتے ہو تو نماز کی شرائط اور ارکان کے بارے میں جو تنبیہات ہیں ان سے غافل نہ ہو۔

نماز کی شرائط نماز سے پہلے جن شرائط کا پایا جانا ضروری ہے وہ یہ ہیں اذان، طہارت، جسم کو ڈھانپنا، قبلہ رخ ہونا، سیدھا کھڑا ہونا اور نیت کرنا اذان۔ جب تم مؤذن کی اذان سنو تو دل میں اس پکار کی دہشت کو حاضر کر دو جو قیامت کے دن ہوگی اور اپنے ظاہر و باطن کو قبولیت اور نماز کی طرف جلدی کرنے پر تیار کرو۔

کیوں کہ جو لوگ اس پکار (اذان) کی طرف جلدی کرتے ہیں وہ بڑی پیشی کے دن (قیامت کے دن) لطف و کرم کے ساتھ پکارے جائیں گے۔ پس تم اپنے دل کو اس اذان کی طرف متوجہ کرو، اگر تم اسے یوں پاؤ کہ وہ خوشی اور خوشخبری سے بھر پور ہے اور اس کی طرف جلدی کرنے کی رغبت پیدا کر رہی ہے تو جان لو کہ قیامت کے دن تمہیں خوشخبری اور کامیابی کی آواز کے ساتھ پکارا جائے گا۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

اِرْحَمْنَا يَا بِلَالُ (۱)

اے بلال ہمیں آرام پہنچاؤ۔

یعنی اے بلال ہمیں نماز اور اس کی طرف پکارنے کے ذریعے سکون پہنچاؤ کیوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں تھی۔

طہارت۔ جب تم نماز کی جگہ کو پاک کرتے ہو حالانکہ وہ تم سے دور ہے پھر اپنے کپڑوں کو پاک کرتے ہو جو تمہارے جسم سے متصل ہیں اور زیادہ قریب ہیں پھر اپنے جسم کو پاک کرتے ہو جو تمہارا چمڑا ہے اور تمہارے بہت قریب ہے تو اپنے منغز یعنی ذات سے غافل نہ ہو اور تمہارا دل ہے۔

لہذا تم اسے توبہ اور تدامت کے ذریعے کوتاہیوں سے پاک کر دو۔ اور نچتہ ارادہ کرو کہ مستقبل میں ان باتوں کو چھوڑ

(۱) المعجم الکبیر للطبرانی جلد ۶ ص ۲۷۷ حدیث ۶۲۱۵

دو گے پس اپنے باطن کو پاک کر دیں۔ تمہارا معبود اسی کو دیکھتا ہے۔
 جسم کو ڈھانپنا۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اس کا مطلب ہے جسم کے ان حصوں کو لوگوں کی نگاہوں سے چھپانا
 جس کی طرف نظر کرتا بری بات ہے تو باطنی پردے اور ان برائیوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن پر صرف تیرا رب
 مطلع ہوتا ہے لہذا اپنے دل میں ان غریبوں کو حاضر کر کے اپنے نفس سے ان کو ڈھانپنے کا مطالبہ کر۔ اور یہ بات ثابت
 ہے کہ کوئی بھی پردہ اللہ تعالیٰ کی نظر سے چھپا نہیں سکتا بلکہ ان چیزوں کو نہایت، حیا اور خوف ہی مٹا سکتا ہے تو تیرے
 دل میں ان برائیوں کے حاضر ہونے کا فائدہ یہ ہوگا کہ خوف و حیا کے لشکر اپنی جگہوں سے اٹھ کھڑے ہوں گے اور اس
 طرح تمہارا نفس جھک جائے گا اور شرمندگی کے بیچے تمہارا دل دب جائے گا۔ اور تو اللہ تعالیٰ کے سامنے اس طرح کھڑا
 ہوگا جیسے کوئی مجرم بھاگا ہوا غلام، نادوم ہو کر واپس آتا ہے اور حیا اور خوف کی وجہ سے اپنے مالک کے سامنے سر جھکائے
 کھڑا ہوتا ہے۔

قبلہ رخ ہونا۔ اس کا ظاہری مفہوم یہ ہے کہ چہرے کو تمام اطراف سے موڑ کر کعبہ شریف کی طرف کر دیا جائے
 تو تمہارا خیال ہے دل کو تمام امور سے پھیر کر صرف اللہ تعالیٰ کی طرف کر دینا مقصود نہ ہوگا۔ سوچو، اس کے سوا اور کیا بات
 مطلوب ہے یہ ظاہری افعال و حقیقت باطنی امور کو حرکت دیتے ہیں، اعضاء کو کنٹرول کرتے ہیں اور انہیں ایک جہت پر رکھ کر
 انہیں ساکن کر دیتے ہیں تاکہ وہ دل کے خلاف بغاوت نہ کریں کیونکہ جب وہ اپنی حرکات اور دوسری طرف توجہ کی صورت
 میں بغاوت و نریا دتی کرتے ہیں تو دل ان کے پیچھے جاتا ہے اور اس سے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ نہیں رہتا لہذا تیرے
 دل کی توجہ، بدن کی توجہ کے ساتھ رہنی چاہیے تو جان لو کہ جس طرح قبلہ رخ اس وقت تک نہیں ہو سکتے جب تک تمام
 اطراف سے پھر نہ جائیں اسی طرح دل کو اللہ تعالیٰ کی طرف اس وقت تک نہیں پھر سکتے جب تک اس کے غیر سے اسے
 فارغ نہ کریں۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:-

اِذَا قَامَ الْعَبْدُ إِلَى صَلَاتِهِ فَكَانَ هَوَاةَ
 وَوَجْهَهُ وَقَلْبَهُ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ انصرفت
 كَيَوْمِ وِلَاةِ أُمَّةٍ (۱)

جب بندہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے اور اس کی خواہش، چہرہ
 اور دل اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو وہ یوں لوٹتا
 ہے جیسے آج ہی وہ ماں کے بطن سے پیدا ہوا ہو۔

سیدھا کھڑا ہونا۔ یعنی جسم اور دل کے ساتھ بارگاہ خداوندی میں کھڑا ہونا تو سر جو تمام اعضاء و سہ اوپر اور
 بند ہے وہ جھکا ہوا ہونا چاہیے اور سر کا یہ جھکنا اس بات کی تہنیت ہے کہ دل میں ہمیشہ عاجزی رہے اور وہ تکبر و غرور

سے پاک رہنے اس وقت تمہارے سامنے وہ منظر ہونا چاہیے جب تم سوال کے لیے اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو گے تو یہ کتنا خطرناک مقام ہو گا۔ اس وقت تمہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ تم اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو اور وہ تم پر مطلع ہے اگر تم سے اس کے جلال کی پہچان حاصل نہیں کر سکتے تو اس طرح کھڑے ہو جاؤ جس طرح آدمی دنیوی بادشاہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے بلکہ نماز میں کھڑا ہوتے وقت یوں خیال کیا جائے کہ تم اپنے گھر والوں میں سے کسی نیک آدمی کی نظر میں ہو اور وہ تمہاری حفاظت کر رہا ہے یا وہ شخص جسے تمہاری اصلاح میں رغبت ہے اس وقت تمہارا جسم ساکن اور اعضا ڈھیلے ہو جاتے ہیں اور تمہارے تمام اجزائے بدن میں سکون پیدا ہو جاتا ہے کیونکہ نہیں ڈرتا ہوتا ہے کہ کہیں یہ عاجز شخص تمہیں خشوع کی کمی کا طعنہ نہ دے تو جب تم ایک عاجز آدمی کے دیکھتے وقت یہ بات محسوس کر دو تو اپنے نفس کو جھڑک دو اور کہو کہ تم اللہ تعالیٰ کی معرفت اور محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو اس بات پر جرات کرتے ہوئے تمہیں جیا نہیں آتی اور پھر تم اس کے بندوں میں سے کسی ایک کی تعظیم کرتے ہو یا لوگوں سے ڈرتے ہو لیکن اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتے حالانکہ اس سے ڈرنے کا زیادہ حق ہے۔ اسی لیے جب حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ سے کس طرح جیا کیا جائے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:

تَسْتَحْيِي مِنْهُ كَمَا تَسْتَحْيِي مِنَ الرَّجُلِ
الصَّالِحِ مِنْ قَوْمِكَ (۱)

اللہ تعالیٰ سے اس طرح ڈرو جس طرح اپنی قوم کے کسی نیک آدمی سے ڈرتے ہو۔

بعض روایات میں "من قومك" کی جگہ "من اهلك" کے الفاظ آئے ہیں۔

نیت ہے۔ تم اس بات کا پکا ارادہ کرو کہ اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھنے اسے پورا کرنے اس کو توڑنے والی چیزوں سے رک جانے اور ان سب امور میں صرف اپنے رضا جوئی کا حکم دیا ہے میں نے اس کو تسلیم کیا۔ اس کے ثواب کی امید اور عذاب کے خوف نیز اس کی قربت کی طلب کا ارادہ کیا جائے۔ اور اس کے احسان کو گلے کا بار بناؤ کہ باوجود ہمارے بے ادب اور گناہ گار ہونے کے اس نے اپنے ساتھ گفتگو کا اعزاز بخشا۔ اپنے دل میں اس کے ساتھ مناجات کی عظمت کا تصور کرو اور غور کرو کہ کس کے ساتھ مناجات کر رہے ہو، اور کس کلام کے ذریعے مناجات کر رہے اس وقت شرمندگی کی وجہ سے تمہاری پیشانی پر پینہ آنا چاہیے، مصیبت کی وجہ سے تمہارے کانڈھے تھرا جائیں اور خوف کی وجہ سے چہرہ زرد ہو جائے۔

تبکیر ہے۔ جب تم زبان سے تبکیر کہو تو تمہیں چاہیے کہ اپنے دل کے ساتھ اس کو نہ جھٹلاؤ اگر تمہارے دل میں اللہ تعالیٰ سے بھی بڑی چیز کا تصور ہو تو اللہ تعالیٰ تمہارے جھوٹ پر گواہ ہے اگرچہ تمہارا کلام سچ ہو (یعنی اللہ اکبر کہنا صحیح اور سچ ہے) جس طرح منافقین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے تھے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

منافق آپ کو رسول کہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بھی گواہی دیتا ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں لیکن منافق چھوٹے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ کے حکم کی نسبت تمہاری خواہشات تم پر غالب ہوں تو تم اللہ تعالیٰ کی نسبت ان کی زیادہ اطاعت کرتے ہو گویا تم نے ان خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا اور ان کی بڑائی بیان کی تو قریب ہے کہ تمہارا اللہ اکبر، کہنا محض زبانی قول ہو اور دل میں اس کی تائید و موافقت نہ ہو۔ اگر توبہ استغفار اور اللہ تعالیٰ کے کرم و عفو در گذر کے بارے میں اچھا گمان نہ ہو تو اس سے بڑا خطرہ کیا ہوگا۔

دعا کے آغاز: آغاز میں تم یہ کلمات کہو۔

وَجَهَّتْ وَجْهِي لِلذِّئِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَمِي نِي فِي سَمَاءِ السَّمَاءِ
 آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور اس سے مراد محض چہرے کا ادھر متوجہ کرنا ہے کیوں کہ تم قبلہ رخ ہو چکے ہو اور اللہ تعالیٰ جہات سے پاک ہے کہ تم ادھر متوجہ ہو جادھر اس کا بدن ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ دل کی توجہ آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والے کی طرف ہو، تو تمہیں دیکھنا چاہیے کہ کہا وہ اپنی خواہشات اور گھریا بازار کی طرف متوجہ ہے اور خواہشات کے پیچھے چل رہا ہے یا آسمانوں کو پیدا کرنے والے کی طرف ہے تمہیں اس بات سے بچنا چاہیے کہ نماز کا آغاز ہی جھوٹ اور بناوٹ پر نہ ہو۔ اور جب تک تم اپنے دل کو دوسروں سے نہیں ہٹاؤ گے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ نہیں ہو سکتا اگر تم مسلسل ایسا نہیں کر سکتے تو اس وقت اسے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کرو تاکہ فی الحال تو تمہاری بات سچ قرار پائے اور جب تم حنیفاً مسلماً (خالص اسی کا فرمانبردار) کے الفاظ کہو تو تمہارے دل میں یہ خیال ہونا چاہیے کہ مسلمان تو وہ ہی ہوتا ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں اگر یہ صورت نہ ہو تو تم چھوٹے ہو گے۔ لہذا تمہیں گذشتہ پرندامت اور مستقبل کے بارے میں سچتہ ارادے کا اظہار کرنا چاہیے اور جب تم کہو "وما انا من المشركين" (میں مشرکین میں سے نہیں ہوں) تو تمہارے دل میں شرک خفی کا تصور آنا چاہیے۔

اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ
 عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ
 أَحَدًا (۱۱)

تو جو شخص اپنے رب سے ملاقات کرنے کی امید رکھتا ہو
 اسے چاہیے کہ اچھے عمل کرے اور اپنے رب کے ساتھ
 کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔

یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے جو اپنی عبادت سے اللہ تعالیٰ کی رضا اور لوگوں کی طرف سے تعریفی کلمات چاہتے ہیں تمہیں اس شرک سے ڈرنا اور بچنا چاہیے اور اگر تم اس قسم کے شرک سے محفوظ نہ ہونے کے باوجود

اپنے آپ کو مشرکین میں سے نہیں سمجھتے تو تمہیں دل سے شرمندگی محسوس کرنی چاہیے۔ کیونکہ شرک کا لفظ قلیل و کثیر پر بولا جاتا ہے اور جب تم ہو "مَعْبَايَ وَمَعَابِي" میری زندگی اور موت تو جان لو کہ یہ اس غلام کی حالت ہوتی ہے جو اپنے نفس کو گم کر کے اپنے مالک کے لیے موجود ہوتا ہے، اور اگر یہ کلمات اس شخص سے صادر ہوں جس کی رضا، غصہ، کھڑا ہونا اور بیٹھنا، دنیا میں رغبت اور موت سے خوف دنیوی امور کے لیے ہوں تو یہ کلمات اس کی حالت کے مناسب نہیں ہے اور جب تم اَعُوذِ بِاَللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ کہو تو تم جان لو کہ وہی تمہارا دشمن اور تمہارے دل کو اٹھانے والے سے پھرنے کی کوشش کرنے والا ہے وہ اس بات پر حسد کرتا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ سے مناجات کر رہے ہو اور اس کے لیے سجدہ کرتے ہو جب کہ وہ ایک سجدہ کرنے اور اس کے توفیق نہ دینے جانے کے باعث لعنت کا مستحق ہوا۔ لہذا جب تم شیطان سے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنا چاہتے ہو تو تمہیں اس چیز کو چھوڑنا ہوگا جسے شیطان پسند کرتا ہے اور اسے اختیار کرنا ہوگا جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ محض زبانی کلمات نہیں۔ کیوں کہ جب کوئی درندہ یا دشمن کسی شخص کے پیچھے لگ جاتا ہے تاکہ وہ ڈرائے یا ہلاک کر دے اور یہ شخص اپنی جگہ کھڑا رہے اور کہے میں اس مضبوط قلعے میں تجھ سے پناہ چاہتا ہوں تو یہ بات اسے فائدہ نہیں دے گی بلکہ اسے توجہ تبدیل کرنے سے فائدہ ہوگا۔

اسی طرح جو شخص خواہشات کی پیروی کرتا ہے جو شیطان کو پسند اور رحمن کو ناپسند ہیں تو اسے بھی محض قول فائدہ نہ دے گا بلکہ اسے شیطان کے شر سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے قلعے میں پناہ لینے کا عزم کرنا چاہیے اور اس کا قلعہ "لا الہ الا محمد رسول اللہ" ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکایت کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ
عَدَايَ رَا
کلمہ طیبہ میرا قلعہ ہے اور جو شخص میرے قلعے میں داخل ہو گیا وہ میرے عذاب سے محفوظ ہو گیا۔

اور یہی شخص اس قلعے میں پناہ لے سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو معبود نہ مانتا ہو لیکن جو شخص اپنی خواہش کو معبود بنا لیتا ہے وہ شیطان کے میدان میں ہے اللہ تعالیٰ کے قلعے میں نہیں۔
تمہیں جاننا چاہیے کہ شیطان کا فریب یہ ہے کہ وہ تمہیں نماز میں ذکر آخرت اور اچھے کاموں کی تدبیر سے دوسری طرف پھیر دے تاکہ وہ کہیں تمہاری قرأت کے سمجھنے سے روک دے اور تمہیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ جو چیز تمہیں قرأت کے معانی سمجھنے سے دُور رکھے وہ وسوسے ہیں۔ کیوں کہ مقصود زبان کو حرکت دینا نہیں بلکہ اس کے معانی مراد ہے۔

قرأت: جہاں تک قرأت کا تعلق ہے تو اس سلسلے میں لوگ تین قسم کے ہیں ایک قسم ان لوگوں کی ہے جن کی زبان حرکت کرتی ہے اور دل غافل ہے دوسری قسم کے لوگ وہ ہیں جن کی زبان حرکت کرتی ہے اور دل اس کی اتباع کرتا ہے اور وہ کلام کے مفہوم کو اسی طرح سمجھتا اور سنتا ہے جس طرح کسی دوسرے سے سنتا ہے یہ وہ ہیں (طرت والوں) اصحاب یمن کے درجات ہیں اور ایک وہ شخص کہ اس کا دل پہلے معافی کی طرف جاتا ہے پھر زبان، دل کی خدمت کرتی ہے اور اس کی ترجمان بنتی ہے پس زبان کے دل کا ترجمان بننے اور دل کا معلم بننے میں فرق ہے جو لوگ مقرر بن خدایں ان کی زبان ترجمان ہے جو دل کے پیچھے چلتی ہے اور دل اس کے پیچھے نہیں جاتا۔

معافی کی ترجمانی کی تفصیل یوں ہے کہ جب تم "بسم اللہ الرحمن الرحیم" پڑھو تو اس سے کلام الہی کی قرأت کے لیے برکت کی نیت کرو اور اس کا مطلب یوں سمجھو کہ تمام امور اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع ہوتے ہیں اور یہاں اسم سے مسلی مراد ہے اور جب تمام امور اللہ تعالیٰ کے نام اور اللہ کے ساتھ ہیں تو یقیناً ہر تعریف کا مستحق اللہ تعالیٰ ہے مطلب یہ ہے کہ جب تمام نعمتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں تو شکر بھی اسی کا ادا کرنا چاہیے اور جو آدمی کسی نعمت کو غیر خدا کی طرف سے دیکھتا ہے یا اس کا شکریہ اس انداز میں ادا کرتا ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مامور نہیں جانتا بلکہ مستقل بالذات سمجھتا ہے تو اس کے الحمد اللہ کہنے میں اتنا نقصان ہے جس قدر وہ غیر خدا کی طرف متوجہ ہوگا۔

جب تم "الرحمن الرحیم" کہو تو اپنے دل میں اس کی ہر قسم کی مہربانی کا تصور کرو تاکہ اس کی رحمت تمہارے سامنے واضح ہو جائے اور اس سے تمہاری امید برآئے۔

پھر "ما لک یوم الدین" کے الفاظ سے تمہارے دل میں اللہ تعالیٰ کی تعظیم اور خوف پیدا ہونا چاہیے عظمت اس لیے کہ بادشاہی تو صرف اسی کی ہے۔ اور خوف اس وجہ سے کہ جزا اور حساب کا ڈر سنا ہے جو کہ اس کا مالک بھی تو وہی ہے پھر "ایک نعید" کے الفاظ سے خلوص نیت کی تجدید کرو اور "ایک نستعین" کے ذریعے اپنی عاجزی اور محتاجی نیز اپنی قوت سے برأت کو تازہ کرو۔ اور یہ عقیدہ رکھو کہ اس کی مدد کے بغیر عبادت نہیں ہو سکتی اور اس کا احسان ہے کہ اس نے تمہیں اپنی اطاعت کی توفیق عطا فرمائی اپنی عبادت میں مصروف کہا اور اپنے ساتھ مناجات کا اہل بنایا۔ اور اگر وہ تمہیں اس توفیق سے محروم کر دیتا تو تم شیطان بعین کے ساتھ راندہ درگاہ ہوتے۔

پھر جب تم اللہ باللہ، بسم اللہ اور الحمد للہ سے نیز اللہ تعالیٰ کی مدد کی احتیاج کے اظہار سے فارغ ہو جاؤ تو اپنے سوال کو متعین کرو اور وہی چیز طلب کرو جو سب سے اہم ہو۔ اور یوں کہو "اهدنا الصراط المستقیم" ہمیں سیدھے راستے پر چلا جو تیرے قریب پنچا دسے اور تیری رضا تک لے جائے اور اس کی شرح و تفصیل اور زیادہ تاکید کو ان لوگوں کی سمیٹ کے ساتھ زیادہ کرو جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی نعمت عطا فرمائی اور وہ انبیاء کرام، صدیقین، شہداء اور صالحین ہیں۔ وہ لوگ نہیں جن پر غضب ہو یعنی کفار (مشرک)، یہود و نصاریٰ اور ستارہ پرستوں میں سے وہ لوگ جن کے دل ٹیڑھے ہیں پھر دعا کی قبولیت

طلب کرتے ہوئے لفظ آمین کہو۔
پھر جب سورہ فاتحہ پڑھو گے تو تعجب نہیں کہ تم ان لوگوں میں سے ہو جاؤ جن کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
اللہ تعالیٰ کا قول نقل کیا کہ وہ فرماتا ہے۔

تَسْمِعُ الصَّلَاةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي
لِصَفِيٍّ نَصَفَهَا لِي وَنَصَفَهَا لِعَبْدِي
وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ يَقُولُ الْعَبْدُ الْحَمْدُ لِلَّهِ
رَبِّ الْعَالَمِينَ فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ حَمْدِي
عَبْدِي وَاتِّبَاعِي (۱)

میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان دو
برابر حصوں میں تقسیم کر دیا اس کا نصف میرے لیے اور
نصف میرے بندے کے لیے ہے اور میرے بندے کے
لیے وہ کچھ ہے جس کا وہ سوال کرے بندہ الحمد للہ رب العالمین
کتاب ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری حمد و
ثناء کی ہے۔

”سمع اللہ لمن حمدہ“ اللہ تعالیٰ نے اس آدمی کی بات کو سنا جس نے اس کی تعریف کی، کا مطلب بھی یہی ہے۔
اور اگر نہیں نماز سے صرف اتنا حصہ ہی مل جائے کہ اللہ تعالیٰ کے جلال و عظمت کا ذکر کر لو تو یہ غنیمت بھی کافی ہے تو جو کچھ اس
کے ثواب اور فضل کی امید ہے اس کا کہا کتنا۔

اسی طرح نہیں ان سورتوں کو بھی سمجھنا چاہیے جو تم پڑھتے ہو جیسا کہ تلاوت قرآن کے بیان میں آئے گا۔ لہذا نہیں اس
کے امر، نہی، وعدہ، وعید، وعظ انبیاء کرام کی خبروں اور اللہ تعالیٰ کے احسان کے ذکر سے غافل نہیں ہونا چاہیے اور ان
میں سے ہر بات کا ایک حق ہے مثلاً وعدہ کا حق امید ہے وعید کا حق خوف، امر و نہی کا حق ان کی تعمیل کا عزم، وعظ کا
حق نصیحت حاصل کرنا، احسان کا حق شکر ادا کرنا اور انبیاء کرام کی خبروں کا حق عبرت پکڑنا ہے۔

ایک روایت میں ہے کہ جب حضرت زرارہ بن اوفی رضی اللہ عنہ (تلاوت کرتے ہوئے)

فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ - (۲)

پہنچے تو انتقال کر گئے اور گر پڑے اور حضرت ابراہیم نخعی رحمہ اللہ جب یہ آیت سنتے۔

إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ (۳)

جب آسمان بھٹ جائے گا۔

تو پریشان ہو جاتے حتیٰ کہ ان کا جوڑ جوڑ تھرتھراتے لگتا۔

(۱) سنن بیہقی جلد ۲ ص ۳۹ باب تعیین القرآن بفاتحہ الكتاب

(۲) قرآن مجید سورہ مدثر آیت ۸

(۳) قرآن مجید سورہ الشقاق آیت ۱

حضرت عبداللہ بن واقد فرماتے ہیں میں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا کہ آپ حالت اضطراب میں ہوتے اور انسان کے لائق یہی بات ہے کہ آقا کے وعدے اور وعید پر اس کا دل جل جائے کیونکہ وہ چار غالب بادشاہ کے سامنے ایک گناہ گار اور ذلیل غلام کی طرح ہے۔ اور یہ معافی، سمجھ کے درجات کے مطابق ہوتے ہیں اور فہم و فراست، علم کی زیادتی اور دل کی صفائی کے مطابق ہوتی ہے اور یہ درجات کسی حد کے پابند نہیں ہیں نماز، دلوں کی چابی ہے اس میں کلمات کے اسرار منکشف ہوتے ہیں یہ قرأت کا حق ہے اور دیگر اذکار و تسبیحات کا حق بھی یہی ہے۔ پھر قرأت میں مہیت کی رعایت بھی کرے اور ترتیل سے ٹھہر ٹھہر کر پڑھے جلدی نہ کرے کیونکہ غور و فکر کے لیے یہ طریقہ آسان ہے نیز آیات اور عذاب کی آیات وعدے اور وعید کی آیات اور تحمید و تنظیم اور تجمید و بزرگی کے اظہار کی آیات کو جدا جدا لہجوں میں پڑھے۔

حضرت ابراہیم شخصی رحمہ اللہ جب اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد جیسے مقامات کو پڑھتے تو اپنی آواز کو پست کر دیتے۔
مَا آتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا وَمَا كَانَ مَعَهُ
اللَّهُ (۱)

آپ اس طرح آواز پست کرتے جیسے کوئی شخص ایسی بات کو ذکر کرتے سے جیا کر رہا ہو جو بیان کے لائق نہیں اور ایک روایت میں ہے کہ قیامت کے دن قرآن پاک کے قاری سے کہا جائے گا۔
اِقْرَأْ وَاَرِقِ وَرَتِّلْ كَمَا تَرْتِّلُ فِي
الدُّنْيَا (۲)

پڑھتے تھے۔

دوام قیام — نماز میں مسلسل کھڑا رہنا اس بات پر تنبیہ ہے کہ انسان کا دل بارگاہ خداوندی میں ایک ہی طریقے پر حاضر ہے اور کھڑا ہے۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
اِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ مُقْبِلٌ عَلٰى الْمُصَلِّیِّ مَا لَمْ
لَتَلْفَتْ (۳)

بے شک اللہ تعالیٰ کی رحمت نماز کی طرف متوجہ رہتی ہے جب تک وہ ادھر ادھر نہ دیکھے۔

(۱) سورہ مومنون آیت نمبر ۹۱

(۲) سنن ابی داؤد جلد اول ص ۲۰۶ باب کیف یستحب الترتیل فی القرآن

(۳) مسند امام احمد بن حنبل جلد ۵ ص ۱۷۲ مرویات ابو ذر

تو جس طرح ادھر ادھر دیکھنے سے سر اور آنکھوں کو محفوظ رکھنا ضروری ہے اسی طرح اپنے دل کو بھی نماز کے علاوہ کسی بات کی طرف متوجہ ہونے سے بچانا ضروری ہے جب تمہارا دل دوسری طرف متوجہ ہونے لگے تو اسے یاد دلاؤ کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے اور مناجات کرنے والا جب اس ذات سے غافل ہو جس سے مناجات کر رہا ہے تو دوبارہ اس کے پاس جانا بہت برا ہوتا ہے لہذا تم دل پر خشوع کو لازم کر لو۔ کیونکہ خشوع کے نتیجے میں ہی آدمی ظاہری اور باطنی توجہ سے بچ سکتا ہے اور جب باطن میں خشوع پیدا ہوگا تو ظاہری طور پر بھی خشوع آئے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نمازی کو دیکھا تو فرمایا:

أَمَا هَذَا الْوُخْشِعَ قَلْبُهُ لَخَشَعَتْ جَوَارِحُهُ - اگر اس شخص کے دل میں خشوع ہوتا تو اس کے اعضاء میں بھی خشوع پیدا ہوتا۔ (۱)

کیونکہ رعایا تو حکمران کے حکم پر چلتی ہے اسی لیے حدیث شریف میں یہ دعا آئی ہے
 اللَّهُمَّ أَصْلِحْ الرَّاعِيَ وَالرَّعِيَّةَ - (۲) اسے اللہ حاکم اور اس کی رعایا دونوں کو درست کر دے۔
 حاکم سے مراد دل اور رعایا سے مراد جسمانی اعضاء ہیں۔

حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نماز میں میخ کی طرح کھڑے رہتے تھے، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما یوں ہوتے جیسے لکڑی ہوں ان میں سے بعض حضرات اپنے رکوع میں یوں سکون سے رہتے کہ ان پر چڑیاں بیٹھ جاتیں گویا کہ وہ جمادات میں سے ہیں یہ تمام امور وہ ہیں کہ انسانی طبیعت کے مطابق دنیا داروں کے سامنے بجالائے جاتے ہیں تو جو شخص بادشاہوں کے بادشاہ کی پہچان رکھتا ہے اس ذات کے سامنے ان امور کا تقاضا کیوں نہ ہوگا۔ جو شخص غیر خدا کے سامنے مطمئن کھڑا رہتا ہے اور خشوع کا اظہار کرتا ہے جب کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پریشان اور مضطرب کھڑا ہو وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت سے خالی ہے اور اسے یہ بھی معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے باطن اور ضمیر پر مطلع ہے۔ حضرت عکرمہ رضی اللہ عنہ درج ذیل آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اس سے بندے کا قیام، رکوع، سجدہ اور قعد مراد ہے۔

ارشاد خداوندی ہے:
 الَّذِي يَدْرَأُكَ حِينَ تَقْدُمُ وَتَقَلُّبُكَ
 فِي السَّاجِدِينَ (۳)
 وہ ذات جو تجھے حالت قیام اور سجدہ کرنے والوں میں
 اور پینچے ہوتا دیکھتی ہے

(۱) نوادز الاصول ص ۱۸۲ الاصل الخامس والاربعون والمائة

(۲) الاسرار المرفوعة ص ۶۷ حدیث ۲۳۵

(۳) قرآن مجید سورہ شعراء آیت ۲۱۸

رکوع اور سجدہ :- رکوع اور سجدے میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا دوبارہ ذکر کر کے ہاتھ بلند کر کے نئی نیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ عذاب سے اس کے غفور و درگزر میں پناہ لے اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کر کے پھر رکوع کے ذریعے نئے سرے سے اس کے سامنے تواضع کا اظہار کر کے دل کو نرم کرے اور تہجد بخشوع کے لیے خوب کوشش کرو۔ اپنی ذلت اور اپنے مولا کی عزت کا اور مقام کی بلندی کو سمجھنے کی کوشش کر اور زبان کی مدد سے اس کو دل میں پکا کرو۔ اپنے رب کی پاکیزگی بیان کرو اور اس کے لیے عظمت کی گواہی دو یہ کہ وہ تمام بڑوں سے بڑا ہے اور اس بات کو بار بار دل میں ڈالو تاکہ تکرار کے ذریعے یہ بات پکی ہو جائے۔

پھر اس امید کے ساتھ رکوع سے سر اٹھاؤ کہ وہ تجھ پر رحم فرمائے گا اور اپنے دل میں امید کو ان الفاظ کے ساتھ ساتھ مضبوط کر لو "سمع اللہ لمن حمدہ" یعنی اللہ تعالیٰ اپنے شکر گزار بندوں کی بات سنتا اور قبول کرتا ہے۔

پھر مزید نعمت کے لیے دوبارہ شکر ادا کرتے ہوئے "ربنا لک الحمد" کہو اور ان الفاظ کے ساتھ شکر میں اضافہ کرو "مِلَّ السَّمَوَاتِ وَمِلَّ الْأَرْضِ" یعنی آسمان اور زمین شکر سے بھرے ہوئے۔ پھر سجدے کے لیے جھک جاؤ اور عاجزی کے اظہار کا یہ سب سے اعلیٰ درجہ ہے پس تو اپنے اعضا میں سے سب سے معزز عضو یعنی چہرے کو سب سے ہلکی چیز یعنی مٹی پر رکھ دے اگر دونوں کے درمیان کسی چیز کو حائل کرنے سے بچنا ممکن ہو اور تم زمین پر سجدہ کر سکو تو ایسا کرو کیوں کہ یہ زیادہ خشوع کا موجب ہے۔ اور عجز پر زیادہ دلالت کرتا ہے جب تم اپنے آپ کو ذلت و رسوائی کی جگہ رکھ دو گے تو جان لو کہ تم نے اسے اصل مقام پر رکھا ہے اور فرع کو اصل کی طرف لوٹا دیا ہے۔ کیوں کہ تو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے۔ اور اسی کی طرف لوٹے گا اس وقت نئے سرے سے اپنے دل میں عظمت خدا کو اجاگر کرتے ہوئے "سبحان ربی الاعلیٰ" کہو اور تکرار کے ساتھ اس کو پکا کرو کیوں کہ ایک بار کہنا کمزوری ہے اب جب تمہارا دل نرم ہو جائے اور یہ بات تم پر واضح ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کی پختہ امید رکھو کیونکہ اس کی رحمت کمزوری اور عاجزی کی طرف جلدی جاتی ہے تکبر اور غرور کی طرف نہیں جاتی اب تکبیر کہتے ہوئے سر کو اٹھاؤ اور یوں دعا مانگو۔ (۱)

رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَتَجَاوَزْ عَمَّا تَعْلَمُ
اے میرے رب بخش دے اور رحم فرما نیز میرے جو گناہ تیرے علم میں ہیں ان سے درگزر فرما۔

یا خود عادل چاہے مانگو پھر تکرار کے ذریعے تواضع کو مضبوط کرو اور اسی طرح دوسرے سجدے کی طرف لوٹ جاؤ۔ جب تم (شہد کے لیے) بیٹھو تو باادب ہو کر بیٹھو اور اس بات کو واضح طور پر ذکر کرو کہ وہ تمام امور جو باعث قرب خداوندی ہیں وہ بدنی عبادات ہوں یا مای یا اچھے اخلاق سب اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں اسی طرح بادشاہی

۱۷ نوافل میں یہ دعا مانگ سکتے ہیں فرائض، واجبات اور سنتوں میں نہیں۔

بھی اللہ تعالیٰ کے لیے ہے التجات کا یہی مفہوم ہے اور اپنے دل میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی ذات گرامی کو حاضر سمجھو اور اب کہو "السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ" اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر سلام، اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکتیں ہوں اور تمہارا پختہ یقین ہونا چاہیے کہ یہ سلام آپ تک پہنچتا ہے اور آپ اس سے زیادہ کامل جواب مرحمت فرماتے ہیں۔ پھر اپنے اوپر اور اللہ تعالیٰ کے تمام نیک بندوں پر سلام بھیجو اور اس بات کی امید رکھو کہ اللہ تعالیٰ نیک بندوں کی تعداد کے مطابق تم پر سلام و رحمت فرمائے گا پھر اس کی وحدانیت اور سرکار و دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کی گواہی دے یعنی کلمہ شہادت کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کلمے کے وعدے کی تجدید کرو اور نئے سرے سے اس کلمہ کے قلعے میں محفوظ ہو جاؤ۔ پھر آخر میں وہ دعا مانگو جو احادیث سے ثابت ہے اس میں خشوع، تواضع، گڑگڑانے اور لجاجت سے کام لو اور قبولیت دعا کی سچی امید رکھو اپنی دعا میں اپنے والدین اور تمام مومنوں کو شریک کرو۔ اور سلام پھیرتے وقت فرشتوں اور حاضرین پر سلام کی نیت کرو اور اس کے ساتھ نماز کے اختتام کی نیت کرو۔

اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ اس نے اسے پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اور یوں خیال کرو کہ یہ تمہاری آخری نماز ہے اور آئندہ اس قسم کی نماز کے لئے زندہ نہیں رہو گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا۔ رخصت ہونے والے کی طرح نماز پڑھو، پھر نماز میں کوتاہی پر اپنے دل میں خوف اور حیا محسوس کرو اور عدم قبولیت سے ڈرو اور اس بات سے ڈرو کہ کسی ظاہری یا پوشیدہ گناہ کی وجہ سے نماز تمہارے منہ پر نہ مار دی جائے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس بات کی امید رکھو کہ وہ اپنے کرم اور فضل سے اسے قبول فرمائے گا۔ حضرت سحبی بن قتیب رحمہ اللہ جب نماز پڑھتے تو ہم کچھ دیر ٹھہرے جس قدر اللہ تعالیٰ چاہتا ان پر نماز کی تھکاوٹ محسوس ہوتی اور حضرت ابراہیم نخعی نماز کے بعد ایک گھنٹہ ٹھہرتے گویا کہ وہ بیمار ہوں۔

یہ ان لوگوں کی نماز کی تفصیلی ہے جو اپنی نماز میں خشوع کرتے ہیں، جو اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں، جو ہمیشہ نماز پڑھتے ہیں اور جس قدر ممکن ہو عبادت میں اپنے رب سے مناجات کرتے ہیں تو آدمی اپنے نفس کو اس نماز پر پیش کرے اور اس میں سے جس قدر حاصل ہو اس پر خوشی کا اظہار کرے اور جو کچھ نقصان ہو اس پر افسوس کا اظہار کرے اور اس کے ہلاوا کے لیے بھر پور کوشش کرے۔ غافل لوگوں کی نماز خطرہ کے مقام پر ہے ہاں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ڈھانپ لے تو انک بات ہے رحمت وسیع ہے۔

(۱) جس طرح حضرت امام غزالی رحمہ اللہ نے فرمایا تمام اکابر امت کا یہی عقیدہ ہے کہ نماز میں بارگاہ رسالت میں سلام بطور انشاء پیش کیا جائے یعنی یہ عقیدہ اور تصور ہونا چاہیے کہ میں سلام پیش کرتا ہوں اور آپ سنتے ہیں اور جواب بھی مرحمت فرماتے ہیں اسی عقیدے کے ساتھ آپ کو نماز بھی ہوتی ہے معلوم ہوا کہ آپ کو "یا رسول اللہ" کے الفاظ سے پکارنا جائز ہے۔

(۱۲ ہزاروی)

اور کرم کا فیض جاری ہے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اپنی رحمت کی چادر سے ڈھانپ لے اور اپنی مغفرت سے ہماری پردہ پوشی کرتے کیونکہ اس کی اطاعت گزاروں سے عاجز ہونے کا اعتراف ہی ہمارے پردہ پوشی کرنے کیوں کہ اس کی اطاعت گزاروں سے عاجز ہونے کا اعتراف ہی ہمارے لیے وسیلہ ہے۔

تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ نماز کو آفات سے محفوظ رکھنا اور خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے نماز ادا کرنا نیز اس کی باطنی شرائط جن کا ہم نے ذکر کیا یعنی خشوع تعظیم اور حیا کے ساتھ ادائیگی سے دل پر انوار کی بارش ہوتی ہے۔ اور یہ انوار علوم مکاشفہ کی چابیاں ہیں اولیاء کرام جنہیں آسمانوں اور زمین اور اسرار ربوبیت کا کشف ہوتا ہے انہیں یہ کشف نماز کے اندر ہوتا ہے، بالخصوص حالت سجدہ میں ایسا ہوتا ہے کیونکہ سجدہ کی حالت میں بندہ اپنے رب کے قریب ہوتا ہے۔

اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا

وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ (۱)

اور سجدہ کر کے قرب حاصل کرو۔

نمازی کو جس قدر دنیا کی خرابیوں سے صفائی حاصل ہوتی ہے اسی کے مطابق اسے مکاشفہ ہوتا ہے۔ اور اختلاف مکاشفہ، قوت و ضعف، قلت و کثرت اور ظہور و خفاء کے اعتبار سے ہوتا ہے حتیٰ کہ بعض کے لیے کوئی چیز بعینہ ظاہر ہو جاتی ہے کچھ لوگوں کے لیے اس کی مثال ظاہر ہوتی ہے جس طرح بعض بزرگوں کو دنیا، مردار کی شکل میں دکھائی جاتی ہے اور شیطان کے کی صورت میں دکھائی دیتا ہے جو اپنی چھاتی زمین پر لگائے ہوئے اسے اپنی طرف بلاتا ہے مکاشفہ کا اختلاف کشف کی چیزوں میں بھی ہوتا ہے۔ بعض حضرات کے لیے اللہ تعالیٰ کی صفات اور جلال منکشف ہوتا ہے بعض کے لیے اس کے کچھ افعال اور کچھ حضرات کے لیے علوم معاملہ کی باریکیاں منکشف ہوتی ہیں تمام اوقات میں ان معانی کے یقین کے لیے بے شمار خفیہ اسباب ہیں ان میں سے سب سے سخت اس کی طرف قلبی فکر کی مناسبت ہے۔ کیوں کہ جب یہ فکر کسی معین چیز کی طرف پھیری جائے تو وہ انکشاف کے لیے اولی ہوتی ہے اور چونکہ یہ امور اس شے میں دکھائی دیتے ہیں جو زندگی سے (صقیل شدہ ہو اور شیشہ پورے کا پورا زندگی آلود ہے اس لیے ہدایت اس سے پردے میں رہتی ہے یہ بات نہیں کہ ذات منعم کی طرف سے ہدایت میں سخیل ہوتا ہے بلکہ ہدایت کے مقام پر میل کی تہہ جم جانے کی وجہ سے زبانیں اس قسم کی باتوں کا انکار کرنے میں جلدی کرتی ہیں۔ کیونکہ جو چیز حاضر نہ ہو اس کا انکار کرنا انسانی فطرت میں داخل ہے۔ اگر بالفرض پیٹ کے اندر شیچے میں عقل ہوتی تو وہ کھلی فضا میں انسانی موجود کا انکار کرتا اور اگر شیچے میں کچھ سوچ بوجھ ہوتی تو وہ آسمان زمین کے ان ادراکات کا انکار کرتا جو عقل مند آدمی کو معلوم ہوتے ہیں انسان کا یہی طریقہ ہے کہ وہ بعد والی بات کا انکار کرتا ہے تو جو شخص حالت ولایت کا انکار کرتا ہے اس پر لازم آئے گا کہ وہ حالت نبوت کا بھی انکار کرے اللہ تعالیٰ نے کئی درجات بنائے ہیں تو یہ بات مناسب

نہیں کہ آدمی اپنے (درجے) سے اوپر والے درجے کا انکار کرے ہاں چوں کہ ان لوگوں نے اس چیز کو مناظرہ اور منتشر مباحثہ کے ذریعے تلاش کیا غیر خدا سے دل کو صاف کرنے کے ذریعے تلاش نہیں کیا تو اس سے محروم رہنے کے باعث انکار کر دیا۔

اور جو آدمی اہل مکاشفہ میں سے نہ ہو تو کم از کم غیبت پر تو ایمان رکھے اور اس کی تصدیق کرے یہاں تک کہ تجربہ سے خود مشاہدہ کرے حدیث شریف میں ہے۔

جب بندہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے اور بندے کے درمیان سے پردہ اٹھا دیتا ہے اور اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے فرشتے اس کے کندھے سے ہوا تک کھڑے ہو جاتے ہیں اس کے ساتھ نماز پڑھتے اور اس کی دعا پر آمین کہتے ہیں۔ آسمان سے لے کر نمازی کے سر کے درمیان تک نیکی برستی ہے ایک منادی اعلان کرتا ہے کہ اگر یہ مناجات کرنے والا جانتا کہ کس سے ہمکلام ہے تو ادھر ادھر متوجہ نہ ہوتا۔ اور بے شک نمازیوں کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ فرشتوں کی مجلس میں اپنے نمازی بندے پر فخر فرماتا ہے (۱)

آسمان کے دروازوں کا کھلنا اور اللہ تعالیٰ کا ذاتی طور پر اس کی طرف متوجہ ہونا اس کشف سے کنایہ ہے جس کا ہم نے ذکر کیا۔ تو رات میں لکھا ہوا ہے۔ "اے انسان! میرے سامنے نماز پڑھتے ہوئے اور روتے ہوئے کھڑا ہونے سے عاجز نہ ہو جاؤ وہ اللہ ہوں جو تیرے دل کے قریب ہوں اور غیب سے تو نے میرے نور کو دیکھا، رادھی کہتے ہیں ہمارا یہ خیال تھا کہ یرقت، رونما اور وہ کثرت دگی جسے نمازی اپنے دل میں پاتا ہے اور جب یہ قرب، قرب مکانی کے طور پر نہیں ہے تو اس سے ہدایت اور رحمت اور پردے کے اٹھ جانے کے طور پر قرب مراد ہے۔

اور کہا جاتا ہے کہ جب بندہ دو رکعتیں پڑھتا ہے تو اس پر فرشتوں کی دس صفیں تعجب کرتی ہیں ہر صف میں دس ہزار فرشتے ہوتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ ایک لاکھ فرشتوں کے سامنے اس شخص پر فخر کا اظہار فرماتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ کہ بندے کی نماز میں قیام، قعدہ، رکوع اور سجدہ جمع ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اسے چالیس ہزار فرشتوں پر تقسیم کیا ہے جو فرشتے قیام کرتے ہیں وہ قیامت تک رکوع میں نہیں جائیں گے سجدہ کرنے والے قیامت تک سر نہیں اٹھائیں گے اسی طرح رکوع اور قعدہ کرنے والوں کا حال ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اپنے قرب اور رتبہ سے جو اعزاز عطا کیا ہے وہ دائمی ہے ان کو لازم ہے اور وہ ہمیشہ ایک حالت پر رہتے ہیں اس میں کمی، زیادتی نہیں ہوتی۔

اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں یوں خبر دی ہے کہ وہ کہتے ہیں۔

وَمَا مِنَّا إِلَيْكَ مَقَامٌ مَّعْلُومٌ (۲) ہم میں سے ہر ایک کے لیے مقام معلوم ہے۔

انسانی ایک درجہ سے دوسرے درجہ کی طرف ترقی کے اعتبار سے فرشتوں سے جدا ہو گیا کیونکہ وہ مسلسل قرب خداوندی حاصل کرتا رہتا ہے اور اس کے قرب میں اضافہ ہوتا ہے لیکن فرشتوں پر اسن اضافے کا دروازہ بند ہے اور ہر ایک کے لیے وہی مرتبہ ہی جس پر وہ کھڑا ہے اور وہی عبادت ہے جس میں وہ مشغول ہے وہ اس کے غیر کی طرف منتقل نہیں ہوتا اور نہ وہ اس میں کوتاہی کرتا ہے۔

ارشاد خداوندی ہے:

لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ
يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ
وہ (فرشتے) اللہ تعالیٰ کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے
اور نہ وہ تھکتے ہیں وہ رات دن اس کی تسبیح بیان کرتے
ہیں اور کوتاہی نہیں کرتے۔ (۱)

درجات میں اضافہ کی چابی نماز ہے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔
قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ (۲)
بے شک ان لوگوں نے فلاح پائی جو اپنی نماز میں خشوع کرتے ہیں۔

تو اللہ تعالیٰ نے ایمان کے بعد مخصوص نماز جو خشوع سے ملی ہوتی ہے، کے ساتھ ان کی تعریف فرمائی۔ پھر فلاح پانے والوں کے اوصاف کا اختتام بھی نماز کے ذکر سے کیا فرمان خداوندی ہے۔

وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ (۳)
پھر ان صفات کے نتیجے میں فرمایا:

أُولَٰئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ الَّذِينَ يَرِثُونَ
الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (۴)
یہی لوگ وارث ہیں یعنی جنت الفردوس کے وارث
ہوں گے اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے

تو پہلے انہیں فلاح کے ساتھ اور پھر جنت الفردوس کی وراثت کے ساتھ موصوف کیا اور میں نہیں سمجھتا کہ زبان کی پتہ تیز رفتاری، دل کی غفلت کے باوجود اس درجہ تک پہنچانے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے مقابل کے لوگوں کے بارے میں فرمایا:

- (۱) قرآن مجید سورہ انبیاء آیت نمبر ۱۹، ۲۰
(۲) قرآن مجید سورہ مؤمنون آیت نمبر ۲
(۳) قرآن مجید سورہ مؤمنون آیت نمبر ۹
(۴) قرآن مجید سورہ مؤمنون آیت نمبر ۱۱، ۱۲

مَا سَأَلْتُمْ فِي سَفَرٍ قَالُوا كَمَا نَتَكُّ مِنْ
الْمُصَلِّينَ (۱)

اے جہنمیو! تم کس وجہ سے جہنم میں چلے گئے تو وہ کہیں
گے ہم نمازیوں میں سے نہ تھے۔

تو نمازی ہی جنت الفردوس کے وارث ہیں اور وہی اللہ تعالیٰ کے نور کا مشاہدہ کرتے ہیں اور اس بات کا اعزاز حاصل
کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کے قریب ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں کہ وہ ہمیں ان لوگوں میں سے کر دے
اور ہمیں ان لوگوں کے عذاب سے بچائے جن کی باتیں اچھی اور عمل بُرے ہیں وہی اللہ کریم احسان فرمائے والا ہے اور اس کا
احسان قدیم ہے اللہ تعالیٰ کے ہر منتخب بندے پر رحمت ہو۔

خشوع کرنے والوں کی نماز کے بارے میں کچھ واقعات

انہیں جانتا چاہیے کہ خشوع ایمان اور یقین کا نتیجہ و
ثمرہ ہے جو اللہ تعالیٰ سے جلال سے حاصل ہوتا

ہے جسے اس میں سے حصہ ملا وہ نماز میں اور نماز کے باہر بھی خشوع سے کام لیتا ہے بلکہ علیحدگی میں بھی اور قضائے حاجت کے
وقت بھی۔ کیوں کہ خشوع کا سبب اس بات کی معرفت ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے پر مطلع ہے نیز اسے اللہ تعالیٰ کے جلال اور
اپنی کوتاہیوں کی بھی معرفت ہو۔ ان معارف سے خشوع پیدا ہوتا ہے اور یہ نماز کے ساتھ خاص نہیں اسی لیے بعض اکابر کے بارے
میں مروی ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے جیا کرتے ہوئے اور خشوع کے تحت چالیس سال تک اپنا سر آسمان کی طرف نہیں اٹھایا۔
اور حضرت ربیع بن خثیم اپنی آنکھوں اور سر کو اس قدر جھکائے رکھتے کہ لوگ سمجھتے یہ نابینا ہیں۔ آپ بیس سال تک حضرت
عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس حاضر ہوتے رہے تو جب بھی ان کی لوندی انہیں دیکھتی تو کہتی آپ کے نابینا دوست
تشریف لائے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اس لوندی کی بات پر مسکرا دیتے۔ وہ جب دروازہ کھٹکھٹاتے تو
لوندی باہر آتی اور ان کو سر جھکائے اور آنکھوں کو نیچے کیا ہوا دیکھتی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جب ان کو دیکھتے
تو پڑھتے۔

اور تواضع کرنے والوں کو خوشخبری سنائیں۔

وَبَشِّرِ الْمُتَوَاضِعِينَ (۲)

فرمایا اللہ تعالیٰ کی قسم! اگر سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دیکھتے تو خوش ہوتے۔ اور دوسرے الفاظ
میں یوں ہے کہ آپ سے محبت کرتے۔ اور یہ بھی منقول ہے کہ آپ کو دیکھ کر مسکرا پڑتے۔ ایک دن حضرت ربیع بن خثیم رحمہ
اللہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے ساتھ لوہاروں کے پاس گئے جب بھٹیوں کو دیکھا کہ انہیں دھونکا جا رہا ہے
آگ کے شعلے بلند ہو رہے ہیں تو وہ بیہوش ہو کر گر پڑے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نماز کے وقت تک ان

(۱) قرآن مجید سورہ بقرہ آیت ۲۲، ۲۳

(۲) قرآن مجید سورہ حج آیت ۲۲

کے سر ہانے بیٹھے رہے لیکن انہیں افادہ نہ ہوا چنانچہ انہوں نے ان کو اپنی پیٹھ پر اٹھایا اور گھر لے گئے وہ اس وقت تک بیٹھ رہے جس وقت (پہلے دن) بیہوش ہوئے تھے۔ اس طرح ان سے پانچ نمازیں رہ گئیں حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ ان کے سر ہانے بیٹھے ہوئے کہتے رہے اللہ کی قسم ایہ وہی خوف ہے حضرت ربیع فرمایا کرتے تھے میں جب بھی نماز میں داخل ہوا تو مجھے صرف یہی فکر رہی کہ کیا کہتا ہوں اور مجھے کیا جواب ملے گا۔

حضرت عامر بن عبد اللہ خثوع کے ساتھ نماز پڑھنے والوں میں سے تھے۔ آپ جب نماز پڑھتے تو بعض اوقات آپ کی صاحبزادی دت بجاتی اور ان عورتوں سے باتیں کرتی جو گھر میں آئیں لیکن آپ نہ تو سنتے اور نہ سمجھ پاتے ایک دن ان سے پوچھا گیا کیا آپ نماز میں اپنے نفس سے کوئی بات کرتے ہیں تو انہوں نے فرمایا ہاں یہ بات کہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوں اور دو گھروں میں سے ایک (آخرت) کی طرف لوٹ کر جاؤں گا۔ پوچھا گیا کیا آپ بھی ہماری طرح نماز میں امور دنیا میں سے کچھ پاتے ہیں؟ فرمایا نہیں کیوں کہ میں نماز میں خیالات کے پیدا ہونے کی نسبت مختلف برہمنوں کے ذریعے اپنے اوپر حملے کو ترجیح دیتا ہوں اور وہ فرمایا کرتے تھے اگر پردہ اٹھ جائے تو میرے یقین میں کچھ اضافہ نہ ہوگا۔

حضرت مسلم بن یسار رضی اللہ عنہ بھی ان لوگوں میں سے تھے اور ہم پہلے نقل کر چکے ہیں کہ نماز پڑھتے ہوئے انہیں مسجد کا ستون گرنے کی خبر نہ ہوئی۔

کسی بزرگ کے جسم کا ایک حصہ گل بیٹر گیا اور اسے کاٹنے کی ضرورت محسوس ہوئی اور یہ ممکن نہ تھا تو کہا گیا کہ انہیں نماز میں کسی بات کا احساس نہیں ہوتا چنانچہ جب وہ نماز میں تھے تو ان کا عضو کاٹ دیا گیا۔

بعض بزرگوں نے فرمایا "نماز اکھرت سے ہے پس جب تم نماز میں داخل ہو تو دنیا سے نکلی جاؤ۔ ایک دوسرے بزرگ سے پوچھا گیا کہ کیا آپ نماز میں اپنے نفس سے کوئی بات کرتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا "نماز میں اور نہ اس سے باہر۔"

ایک اور بزرگ سے پوچھا گیا کہ کیا آپ کو نماز میں کوئی بات یاد آتی ہے؟ انہوں نے فرمایا "مجھے نماز سے بڑھ کر بھی کوئی چیز پسند ہوگی کہ میں اسے یاد کروں گا۔"

حضرت ابو برداد رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے انسان کی سمجھداری یہ ہے کہ وہ نماز شروع کرنے سے پہلے اپنی حاجت کو پورا کرے تاکہ فارغ دل کے ساتھ نماز شروع کرے اور بعض بزرگ دوسو سوں کے خون سے مختصر نماز پڑھتے تھے۔

ایک روایت میں ہے کہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ نے مختصر نماز پڑھی پوچھا گیا اسے ابو الیقطان! آپ نے ہلکی پھکی نماز پڑھی ہے؟ فرمایا کیا تم نے مجھے نماز کی حدود میں کمی کرتے دیکھا ہے؟ انہوں نے عرض کیا نہیں، فرمایا میں نے شیطان کے بھلانے سے بچنے کے لیے جلدی کی ہے کیونکہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

إِنَّ الْعَبْدَ لَيُصَلِّي الصَّلَاةَ لَا يَكْتُمُ
بِئْسَ تَكْرُمًا أَدَّى نَمَازَ پڑھتا ہے لیکن اس کے نیلے اس

لَا يَصْفُهَا وَلَا تَلْثَمُهَا وَلَا تُعْمَسُهَا وَلَا تُحْمَسُهَا
 وَلَا تُسَدُّسُهَا وَلَا تُعْشَرُهَا۔ (۱)
 کا نصت بتائی چوتھا، پانچواں، چھٹا اور دسواں حصہ کچھ بھی
 (ثواب) نہیں لکھا جاتا۔

آپ فرماتے تھے بندے کے لیے نماز سے وہی کچھ لوگ لکھا جاتا ہے جسے وہ سمجھ کر ادا کرتا ہے اور کہا گیا ہے کہ حضرت
 ، حضرت زبیر اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا ایک گروہ تمام لوگوں کی نسبت ہلکی ہلکی نماز پڑھتے تھے وہ فرماتے تھے کہ ہم شیطان
 و رسول سے بچنے کے لیے جلدی کرتے ہیں۔

ایک روایت میں ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے منبر پر فرمایا۔

السلام کی حالت میں انسان کے رخساروں پر سفیدی آجاتی ہے اور اسی سفید ہو جاتی ہے لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے لیے
 کو مکمل نہیں کرتا پوچھا گیا وہ کیسے؟ تو آپ نے فرمایا وہ اس کے نشوع اور تواضع کو پورا نہیں کرتا اور نہ ہی نماز میں اللہ تعالیٰ
 کو توجیہ ہوتا ہے،

حضرت ابوالعالیہ سے اس آیت کے بارے میں پوچھا گیا۔

الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ (۲) وہ لوگ جو اپنی نماز سے غافل ہوتے ہیں۔

تو انہوں نے فرمایا وہ آدمی جو نماز میں بھول جاتا ہے اور اسے معلوم نہیں ہوتا کہ کتنی رکعات پڑھی ہیں بھت رکعات،
 صحیح میں باطاق؟

حضرت حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس سے مراد وہ شخص ہے جو نماز کے وقت غافل رہتا ہے حتیٰ کہ وقت نکل
 جاتا ہے۔

ان میں سے بعض بزرگوں نے فرمایا یہ وہ شخص ہے کہ جو اول وقت میں نماز پڑھنے پر خوش نہیں ہوتا اور قضا ہو جانے
 پر غمگین نہیں ہوتا نہ وہ جلدی کرنے کو نیکی سمجھتا ہے اور نہ تاخیر کو گناہ خیال کرتا ہے۔

جان لو! نماز کا کچھ حصہ شمار ہوتا ہے اور لکھا جاتا ہے اور بعض نہیں لکھا جاتا جیسے روایات میں آیا ہے اگرچہ فقہ
 کے نزدیک نماز کی صحت تقیم نہیں ہوتی لیکن اس کا ایک اور مفہوم ہے جو ہم نے ذکر کیا ہے اور اس معنی پر احادیث
 دلالت کرتی ہیں کیونکہ حدیث شریف میں ہے کہ

جَبْرُ نَقْصَانِ الْفَرِيقِ بِالتَّوَاقُلِ (۳) فرائض کے نقصان کو توافل کے ذریعے پورا کیا جاتا ہے۔

(۱) مسند امام احمد بن حنبل جلد ۴ ص ۲۲۱ روایات عمار بن یاسر

(۲) قرآن مجید سورہ ماعون آیت ۵

(۳) سنن بیہقی جلد ۲ ص ۸۶ باب ما روی فی اتمام الفریقہ

ایک حدیث میں ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے۔
 ”میرے بندے نے فرائض کے ذریعے مجھ سے (میرے عذاب سے) نجات پائی اور نوافل کے ذریعے بندہ
 میرا قرب حاصل کرتا ہے“ (۱)

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
 قَالَ اللَّهُ تَعَالَى لَا يَنْجُو مِنِّي عَبْدٌ
 إِلَّا بِأَدَاءِ مَا أَنْتَرَضْتُ عَلَيْهِ - (۲)
 اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میرا بندہ میرے عذاب
 سے نجات حاصل نہیں کر سکتا جب تک اس چیز کو ادا
 نہ کرے جو میں نے اس پر فرض کی ہے۔

ایک روایت میں ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھتی تو ایک آیت کی قرأت چھوڑ دی۔ سلام پھیرنے کے
 بعد فرمایا میں نے کیا پڑھا ہے؟ صحابہ کرام خاموش رہے، آپ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے پوچھا تو انہوں نے
 عرض کیا آپ نے فلاں فلاں سورت پڑھی ہے اور فلاں آیت چھوڑ دی ہیں معلوم نہیں آیا وہ آیت منسوخ ہو گئی یا اٹھالی گئی
 ہے۔ آپ نے فرمایا۔

اسے ابی اتواس کے لیے ہے (یعنی یہ بات یاد رکھنا تیرے ثنایانِ شان ہے کیونکہ حضور علیہ السلام نے انہیں سب سے
 بڑا قاری قرار دیا تھا) پھر دوسرے صحابہ کرام کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا۔ ان لوگوں کا کیا حال ہے جو اپنی نماز میں حاضر ہوتے
 ہیں اور اپنی صفوں کو پورا کرتے ہیں ان کا نبی ان کے آگے ہوتا ہے لیکن انہیں معلوم نہیں ہوتا کہ وہ ان کے رب کی کتاب
 سے کیا پڑھ رہا ہے۔ ستوا بنی اسرائیل نے اسی طرح کیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے نبی کی طرف وحی بھیجی کہ اپنی قوم سے فرما دین تم
 اپنے بدنوں کے ساتھ حاضر ہوتے ہو اور اپنی زبانیں مجھے دیتے ہو لیکن دلوں کے ساتھ مجھ سے غائب ہوتے ہو تم جس طرح متوجہ
 ہوتے ہو وہ باطل ہے“ (۳)

یہ اس بات پر دلالت ہے کہ امام کی قرأت کو سنتا اور سمجھنا خود قرأت کرنے کی طرح ہے۔
 بعض بزرگوں نے فرمایا کہ ایک شخص سجدہ کرتا ہے اس کا خیال ہوتا ہے کہ اس نے اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا قرب
 حاصل کر لیا حالانکہ اس نے سجدے میں جو گناہ کئے ہیں اگر انہیں اہل مدینہ پر تقسیم کیا جائے تو وہ ہلاک ہو جائیں، پوچھا کیا وہ کیسے
 فرمایا وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سجدہ کر رہا ہوتا ہے اور اس کا دل خواہشات کی طرف جھکا ہوتا ہے، باطل کا مشاہدہ

(۱) قوت القلوب ج ۲ ص ۱۰۳ کتاب الصلوٰۃ

(۲) قوت القلوب ج ۲ ص ۱۰۳ کتاب الصلوٰۃ

رہنا ہوتا ہے جو اس پر غالب ہوتا ہے۔ (یہ جو کچھ بیان کیا گیا) یہ خشوع کرنے والوں کی صفات میں گذشتہ
 ذریعے کے ساتھ ساتھ یہ واقعات اور روایات اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ نماز میں اصل بات خشوع اور دل کی عاضری
 ہے اور حالتِ غفلت میں محض اوپر نیچے ہونا آخرت میں بہت کم نفع دے گا واللہ اعلم بالصواب ہم اللہ تعالیٰ سے حُسنِ
 رفیق کا سوال کرتے ہیں۔

چوتھا باب

امامت کا بیان

امام پر نماز سے پہلے، قرأت اور ارکان میں نیز سلام کے بعد کیا کیا باتیں لازم ہیں

نماز سے پہلے چھ امور لازم ہیں

۱۔ جو لوگ اس کی امامت کو پسند نہ کرتے ہوں ان کا امام نہ بنے اگر ان کے درمیان اختلاف ہو تو اکثریت کی رائے کو دیکھیں اور کم ہوں لیکن دین دار اور نیک ہوں تو ان کی رائے زیادہ معتبر ہوگی۔ حدیث شریف میں ہے۔

ثَلَاثَةٌ لَا تُجَاوِزُ صَلَاةَ تَهْمُرُ رُؤُسَهُمْ
الْعَبْدُ الْوَالِدُ وَالْمَرْءُ زَوْجَهَا سَاخِطٌ
عَلَيْهَا وَإِمَامٌ أُمَّ قَوْمًا وَهُمُ لَكَ
كَارِهُونَ (۱)

تین قسم کے آدمی ایسے ہیں کہ ان کی نماز ان کے سروں سے
آگے نہیں پڑھتی بھلا گا ہو غلام، ایسی عورت جن کا خاوند
اس سے ناراض ہو اور وہ امام جو لوگوں کی امامت کروانا
سے حالانکہ وہ اسے ناپسند کرتے ہیں۔

جس طرح لوگوں کی ناپسندیدگی کی صورت میں آگے بڑھنا منع ہے اسی طرح اس بات سے بھی منع کیا گیا ہے کہ جب پیچھے کوئی زیادہ علم والا ہو تو آدمی آگے بڑھ کر امامت کروائے البتہ اس سے بہتر شخص آگے بڑھنے سے خود رک جائے تو یہ آگے ہو سکتا ہے اگر ان باتوں میں سے کوئی نہ ہو تو جب اسے آگے کیا جائے اور وہ اپنے آپ میں شرائط امامت بھی پاتا ہو تو آگے بڑھ جائے۔

اس وقت ایک دوسرے کو آگے کرنا یعنی امامت کو دوسروں پر ٹال دینا مکروہ ہے کہنا گیا ہے کہ ایک جماعت نے امامت کے بعد ایک دوسرے کو آگے کرنا شروع کیا تو انہیں زمین میں دھنسا دیا گیا۔ صحابہ کرام کے بارے میں جو مروی ہے کہ وہ دوسروں کو آگے کرتے تھے تو اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ جس کو ادلی سمجھتے اسے ترجیح دیتے یا انہیں بھولنے اور دوسروں کی نماز کا فضا من بننے سے ڈر محسوس ہوتا تھا۔ کیوں کہ امام مقتدیوں کی نماز کے فضا من ہوتے ہیں اور ان میں سے جو امامت کا عادی نہ ہوتا تو بعض اوقات مقتدیوں سے جیا کرتے ہوئے اس کا دل دوسری طرف متوجہ ہو

جانا اور نماز میں اخلاص باقی نہ رہتا۔ بالخصوص چہری نمازوں میں ایسا ہر جانا اس لیے جن صحابہ کرام نے نماز پڑھانے سے احتراز کیا تو اس کی یہ وجہ تھی۔

۶۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب کسی شخص کو اذان اور امانت کے درمیان اختیار دیا جائے تو وہ امانت کو اختیار کرے کیوں کہ دونوں میں فضیلت ہے لیکن دونوں کو جمع کرنا مکروہ ہے بلکہ امام، مؤذن کے علاوہ ہونا چاہیے اور جب متعذر سے تو امانت اولیٰ ہے بعض حضرات نے فرمایا کہ اذان دینا زیادہ بہتر ہے جیسا کہ ہم نے اس کی فضیلت ذکر کی ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

الْإِمَامُ ضَامِنٌ وَالْمُؤَذِّنُ مُؤْتَمِنٌ۔ (۱)

امام ضامن ہوتا ہے اور مؤذن اماندار۔

تو انہوں نے فرمایا کہ اس (امانت) میں ضمانت کا خطرہ پایا جاتا ہے

ایک حدیث شریف میں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

الْإِمَامُ أَمِينٌ فَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا (۲)

امام، امین ہے پس جب وہ رکوع کرے تو تم بھی رکوع کرو اور جب وہ سجدہ کرے تو تم بھی سجدہ کرو۔

اور ایک حدیث شریف میں ہے:-

فَإِنْ أَتَمَّقَلَهُ وَإِنْ نَقَصَ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ (۳)

اگر وہ نماز کو پورا کرے تو اسی کا فائدہ ہے اور کمی کے تو اسی پر گناہ ہے مقتدیوں پر نہیں۔

اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی۔

اللَّهُمَّ ارْسِدِ الرِّمَّةَ وَاعْقِرْ لِلْمُؤَذِّنِينَ۔ (۴)

یا اللہ! اماموں کی رہنمائی فرما اور مؤذنین کو سخت کر۔

اور طلب میں مغفرت اولیٰ ہے کیونکہ ہدایت کا ارادہ مغفرت کے لیے کیا جاتا ہے۔

اور حدیث شریف میں ہے۔

مَنْ آمَنَ فِي مَسْجِدٍ سَبَّحَ سِنِينَ وَجَبَّتْ

جو شخص کسی مسجد میں سات سال نماز پڑھائے اس

(۱) جامع ترمذی جلد اول ص ۷۵ باب ماجاء ان الامام ضامن

(۲) صحیح بخاری جلد اول ص ۹۶ باب انما جلی الامام لیومئذ

(۳) صحیح بخاری جلد اول ص ۹۶ باب انما جلی الامام لیومئذ

(۴) جامع ترمذی جلد اول ص ۷۵ باب ماجاء ان الامام ضامن

لَهُ الْجَنَّةُ بِمَا كَسَبَ وَأَذَتْ
أَرْبَعِينَ عَامًا دَخَلَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ
حِسَابٍ - (۱)

کے لیے حساب کے بغیر جنت واجب ہو گئی اور جس نے
چالیس سال اذان دی وہ حساب کے بغیر جنت میں داخل
ہوگا۔

اسی لیے صحابہ کرام (راہنما کے طور پر) دوسروں کو آگے کرتے تھے۔

صحیح بات یہ ہے کہ امامت افضل ہے کیوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر صدیق حضرت عمر فاروق
اور بعد والے ائمہ رضی اللہ عنہم نے ہمیشہ امامت کروائی ہے ہاں اس میں ضمانت کا خطرہ ہے اور فضیلت خطرے کے ساتھ
ہے جس طرح حکمرانی اور خلافت کا رتبہ افضل ہے کیوں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا:

كَيَوْمٍ مِنْ سُلْطَانٍ عَادِلٍ اَفْضَلُ مِنْ عِبَادَةِ
عَادِلٍ بَادِشَاهٍ كَايَوْمٍ سِتْرَسَالٍ كِي عِبَارَتٍ مِنْ اَفْضَلِ
سَبْعِينَ سَنَةً (۲)

لیکن اس میں خطرات ہیں اسی لیے افضل اور زیادہ سمجھاؤ آدمی کو آگے کرنا افضل ہے۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

تہمارے امام تمہارے سفارشی ہوں گے۔

اَمَلْتُكُمْ شَفَعَاءَ وَكُمْ (۳)

آپ نے فرمایا:

”وَفَدَّكُمْ اِلَى اللّٰهِ“

وہ تمہارے نمائندے ہوں گے۔

لہذا جب تم اپنی نمازوں کو پاک کرنا چاہتے ہو تو اچھے لوگوں کو امام بناؤ۔ بعض بزرگوں نے فرمایا انبیاء کرام کے بعد
علماء سے افضل کوئی شخص نہیں اور علماء کے بعد نماز پڑھانے والے امام سے کوئی شخص افضل نہیں کیونکہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ اور
اس کی مخلوق کے درمیان کھڑے ہوتے ہیں انبیاء کرام کو یہ اعزاز نبوت سے، علماء کو علم سے اور امام کو نماز سے حاصل ہوتا
ہے۔ دین کا ستون ہے۔

اور اسی دلیل کی بنیاد پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو خلافت کے لیے آگے کرنے پر

استدلال کیا جب انہوں نے فرمایا:

ہم نے دیکھا کہ نماز دین کا ستون ہے تو ہم نے اپنی دنیا کے لیے اس شخص کو چنا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم

(۱) مستدرک للحاکم جلد اول ص ۲۰۵ کتاب الصلوٰۃ قوت القلوب جلد ۲ ص ۲۱۲ الفصل الثالث

(۲) نصب الرایۃ جلد ۲ ص ۶۷ کتاب المناک

(۳) مستدرک للحاکم جلد ۲ ص ۲۲۲ کتاب معرفۃ الصحابہ

ہمارے دین (امامتِ نماز) کے لیے پسند فرمایا تھا۔ (۱)
اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو صحابہ کرام اسی لیے مقدم کرتے تھے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اذان کے لئے

پسند فرمایا (۲)

ایک روایت میں ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ! مجھے ایسا عمل بتائیے جس کے ذریعے میں جنت میں داخل جاؤں آپ نے فرمایا مؤذن بن جا، عرض کیا مجھے اس کی طاقت نہیں آپ نے فرمایا "امام بن جا" اس نے عرض کیا مجھے اس بھی طاقت نہیں ہے آپ نے فرمایا امام کے پیچھے نماز پڑھ (۳) شاید آپ نے یہ خیال فرمایا ہو کہ یہ امامت پر راضی نہ ہوگا کیونکہ ان کو اس کے اختیار میں ہے اور امامت دوسروں کے اختیار میں (یعنی لوگ اس کو آگے کریں گے تو امام بنے گا) پھر آپ نے خیال فرمایا کہ شاید یہ امامت پر قادر ہے۔

۳۔ تیسری بات یہ ہے کہ امام کو نماز کے اوقات کا خیال رکھنا چاہیے پس اول (مستحب) وقت میں نماز پڑھنا تاکہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کر سکے۔

حدیث شریف میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح منقول ہے کہ شروع وقت میں نماز کو آخر وقت پر اس طرح فضیلت حاصل ہے جس طرح آخرت کو دنیا پر فضیلت ہے (۴)

اور ایک دوسری حدیث میں ہے،

بذہ آخر وقت میں نماز پڑھنا ہے تو اگرچہ یہ نماز اس سے فوت نہیں ہوتی لیکن جو شروع وقت سے رہ گئی ہے تو وہ وقت اس کے لیے دنیا اور ما فیہا سے بہتر تھا۔

إِنَّ الْعَبْدَ لَيَصِلِي الْقَلْوَةَ فِي آخِرِ وَقْتِهَا
وَلَعَلَّ تَقْتَهُ وَلَمَّا فَاتَهُ مِنْ أَوَّلِ وَقْتِهَا
خَيْرٌ لَهُ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا (۵)

جماعت کی کثرت کے انتظار میں نماز کو مستحب وقت سے مؤخر نہ کرے بلکہ لوگوں چاہیے کہ وہ پہلے وقت کی فضیلت حاصل کرنے کے لیے جلدی کریں ایسا کرنا جماعت کی کثرت سے زیادہ فضیلت کا باعث ہے سورت کے لمبا کرنے سے بھی افضل ہے۔ کہا گیا کہ صحابہ کرام (یا بزرگانِ دین) جب دو اکٹھے ہوتے تو تیسرے کی انتظار نہیں کرتے تھے۔ اور جب جنازے میں

(۱) قوت القلب جلد ۲ ص ۲۰۸ الفصل الثالث والاربعون

(۲)

(۳) مجمع الزوائد جلد اول ص ۲۲۴ باب فضل الاذان

(۴) الترغیب والترہیب جلد اول ص ۲۵۶ الترغیب فی الصلوٰۃ فی اول وقتها

(۵) سنن دارقطنی جلد اول ص ۲۴۸ باب النهی عن الصلوٰۃ بعد صلاۃ الفجر

چار آدمی جمع ہو جائیں تو پانچویں کا انتظار نہیں کرتے تھے۔
 ایک مرتبہ حالت سفر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو طہارت کی وجہ سے فجر کی نماز میں تاخیر ہو گئی تو انتظار کی بجائے حضرت
 عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو آگے کر دیا گیا تو انہوں نے نماز پڑھائی حتیٰ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک رکعت رہ
 گئی اور آپ نے اسے کھڑے ہو کر پڑھا۔ راوی فرماتے ہیں۔

اس پر ہم خوف زدہ ہو گئے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے اچھا کیا اسی طرح کیا کرو (۱)
 (ایک مرتبہ) آپ کو نماز ظہر میں تاخیر ہو گئی تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو آگے کر دیا رسول اکرم
 صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو وہ نماز پڑھا رہے تھے چنانچہ آپ ان کے پاس کھڑے ہو گئے (۲)
 امام پر مؤذن کی انتظار لازم نہیں البتہ مؤذن پر امانت کے لیے امام کی انتظار لازم ہے اور جب امام آجائے تو پھر
 کسی کی انتظار نہ کرے۔

۴۔ چوتھی بات یہ ہے کہ خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے امانت کروائے اور طہارت اور باقی شرائط میں اللہ تعالیٰ کی امانت
 کو ادا کرنے والا ہو۔

افلاص یہ ہے کہ اس پر اجرت نہ لے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن ابی العاص ثقفی رضی اللہ عنہ کو
 حکم دیتے ہوئے فرمایا:

رَا نَحْنُ مَوْذِنًا لَا يَأْخُذُ عَلَيَّ اِلَّا ذَانِ اَجْدَادِ (۳) ایک مؤذن رکھو جو اذان پر اجرت نہ لے۔
 اذان نماز کا وسیلہ ہے تو امانت پر اجرت نہ لینا زیادہ مناسب ہے اگر مسجد کی آمدنی امام کے لیے وقت ہو اور وہ
 اس سے لے یا بادشاہ کی طرف سے یا لوگوں کی طرف سے انفرادی طور پر کچھ دیا جائے تو یہ حرام نہ ہوگا لیکن مکروہ ہے۔ اور
 تراویح پر اجرت کی نسبت فرض نمازوں پر اجرت لینا زیادہ مکروہ ہے۔ اور یہ اجرت وہاں حاضری کی پابندی اور جماعت قائم کرنے
 کے سلسلے میں مسجد کے معاملات کی نگرانی کے سلسلے میں ہوگی نفس نماز پر نہیں آج کے زمانے میں اگر امام کو تنخواہ وغیرہ نہ دی جائے
 تو وقت کی پابندی نہ ہو سکے گی اور تمام نظام قرب ہو جائے گا اس لیے وقت کی پابندی کی تنخواہ دی جاتی ہے ۱۲ ہزار روپی
 جہاں تک امانت کا تعلق ہے تو وہ باطنی طور پر فسق، گناہ کبیرہ اور گناہ صغیرہ پر اصرار سے پاک ہونا ہے جو شخص امانت کی
 ذمہ داری اٹھانا چاہتا ہے وہ پوری کوشش کے ساتھ ان کاموں سے بچے کیونکہ وہ قوم کے لیے ترجمان اور سفارتچی کی طرح ہے

(۱) صحیح مسلم جلد اول ص ۱۸۰ باب تقدیم الجماعة من یصلی یعلم

(۲) صحیح مسلم جلد اول ص ۱۸۰ باب تقدیم الجماعة من یصلی یعلم

(۳) مسند امام احمد بن حنبل جلد ۴ ص ۲۱ مرویات عثمان بن ابی العاص

لہذا وہ قوم میں سے اچھا آدمی ہونا چاہیے اسی طرح ظاہری طور پر حدیث اور نجاست سے بھی پاک ہونا ضروری ہے کیوں کہ اس پر صرت وہی مطلع ہوتا ہے اگر نماز کے دوران یاد آجائے کہ وہ بے وضو تھا یا اس کی ہوا خارج ہوتی ہے تو شرم کرنا مناسب نہیں بلکہ جو شخص قریب ہو اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے خلیفہ بنائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کے دوران جنابت یاد آئی تو آپ نے خلیفہ بنا کر غسل فرمایا پھر واپس آ کر نماز میں شامل ہوئے (۱)

حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں "ہر نیک و بد کے چھپے نماز پڑھ سکتے ہو لیکن عادی شرابی، ظاہری فاسق، والدین کے نافرمان، بدعتی (۲) اور بھاگے ہوئے غلام کے چھپے نہ پڑھو"۔
۵۔ پانچویں بات یہ ہے کہ جب تک صفیں سیدھی نہ ہو جائیں تکبیر نہ کہے دائیں بائیں دیکھے اگر کوئی خلل دیکھے تو صفیں برابر کرنے کا حکم دے گا گیا ہے کہ صحابہ کرام کا ہاتھوں کو برابر رکھتے اور ایڑیوں کو ہلانے۔ اور جب تک مؤذن اقامت سے فارغ نہ ہو جائے امام تکبیر نہ کہے اور مؤذن، اقامت کو اذان سے اتنا مؤخر کرے کہ لوگ نماز کے لیے تیاری کر لیں حدیث شریف میں ہے۔

مؤذن، اذان اور اقامت کے درمیان اتنی دیر ٹھہرے کہ کھانا کھانے والا اپنے کھانے سے اور پیشاب کرنے والے اپنی حاجت سے فارغ ہو جائے (۳) کیونکہ پیشاب اور قضا کے حاجت دور کی شدت والے کو نماز سے منع کیا گیا (۴) اور آپ نے نماز عشاء سے کھانا مقدم کرنے کا حکم دیا تاکہ دل فارغ ہو جائے (۵)
۶۔ چھٹی بات یہ ہے کہ تکبیر تحریمیہ اور باقی تکبیرات میں بھی اپنی آواز بلند کرے اور مقتدی صرف اتنی بلند کرے کہ خود سن لے امام، اقامت کی نیت بھی کرے تاکہ فضیلت حاصل کرے۔ مقتدی اپنی تکبیر کو امام کی تکبیر سے مؤخر کرے اور اس کے فارغ ہونے پر شروع کرے۔ واللہ اعلم۔

قرأت قرآن :

قرأت کی ذمہ داریاں تین ہیں۔

۱۔ اکیلے آدمی کی طرح شاد اور اعوذ باللہ (بِسْمِ اللّٰهِ) آہستہ پڑھے جب کہ صبح کی پوری نماز، اور مغرب و عشاء کی

(۱) مسند امام احمد بن حنبل جلد ۵ ص ۴۱ مرویات ابو یوسف

(۲) بدعت وہ نیا عمل ہے جس کی وجہ سے کوئی سنت اٹھ جائے یا شریعت میں اس کی کوئی دلیل نہ ہو ۱۲ ہزاروی۔

(۳) مسند امام احمد بن حنبل جلد ۵ ص ۴۲ مرویات ابی بن کعب

(۴) صحیح مسلم جلد اول ص ۲۰۸ باب کراہتہ الصلوٰۃ الطعام

پہلی دو رکعتوں میں سورہ فاتحہ اور دوسری سورت بلند آواز سے پڑھے جہری نماز میں آمین بلند آواز سے کہے (احناف کے نزدیک تمام نمازوں میں آمین آہستہ کہی جائے ۱۲ ہزاروی) اسی طرح مقتدی بھی آمین کہے مقتدی امام کی آمین کے ساتھ آمین کہے اس کے بعد نہ کہے بسم اللہ بلند آواز سے پڑھے اس میں روایات ایک دوسرے کے خلاف ہیں (۱)

امام شافعی رحمۃ اللہ نے بلند آواز کو پسند فرمایا (امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی فقہ کے مطابق بسم اللہ آہستہ پڑھی جائے) (ب) امام کے لیے قیام میں تین سکتے ہیں حضرت سمرہ بن جندب اور عمران بن حصین رضی اللہ عنہما نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح ہدایت کیا ہے ان میں سے پہلا سکتہ تکبیر تحریر کے وقت ہے اور یہ سب سے طویل ہے یہ اتنی مقدار ہے کہ مقتدی سورہ فاتحہ پڑھ لیں اور یہ اس وقت ہے جب وہ ثنا پڑھتا ہے کیوں کہ اگر وہ خاموش نہیں رہے گا تو مقتدی سے استماع (غور سے سننا) فوت ہو جائے گا (یہ ان ائمہ کے نزدیک ہے جن کے مسلک کے مطابق مقتدی بھی فاتحہ پڑھتے ہیں احناف کے نزدیک یہ سکتہ نہیں ہوگا کیوں کہ امام کے پیچھے مقتدی قرأت نہیں کر سکتا ۱۲ ہزاروی اور ان کی نماز کے نقصان کا وہ ذمہ دار ہوگا اور اگر وہ اس کے سکوت کے درمیان وہ فاتحہ نہ پڑھیں بلکہ کسی دوسری طرف مشغول ہوں تو یہ ان کا قصور ہوگا امام کا نہیں، (۲)

دوسرا سکتہ اس وقت ہے جب امام فاتحہ سے فارغ ہوتا کہ وہ شخص جو پہلے سکتہ میں فاتحہ پڑھتا ہے، فاتحہ کو پورا کر کے اور یہ پہلے سکتہ کا نصف ہوگا۔

تیسرا سکتہ اس وقت ہے جب سورت سے فارغ ہو کر رکوع سے پہلے ہے اور یہ سب سے کم ہے اور یہ اتنا ہی ہے کہ قرأت کو تکبیر سے جدا کر دے، کیونکہ ان کو ملانے سے منع کیا گیا ہے اور امام کے پیچھے مقتدی صرف سورت فاتحہ پڑھے (ہماری فقہ حنفی کے مطابق امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنا بھی جائز نہیں ۱۲ ہزاروی) اور اگر امام خاموش نہ ہو سکتہ نہ کرے تو اس کے ساتھ ساتھ پڑھے تو تباہی کرنے والا امام ہوگا۔ اور اگر مقتدی بلند آواز والی نماز میں دُور ہونے کی وجہ سے قرأت نہ سن سکے یا سیری نماز ہو تو سورت پڑھنے میں کوئی حرج نہیں (احناف کے نزدیک نہیں پڑھے گا)

(ج) تیسری ذمہ داری ہے کہ صبح کی نماز میں دو لمبی ایسی صورتیں پڑھے جن کی آیات سو آیات سے کم ہوں کیونکہ فجر کی قرأت کو طویل کرنا اور اسے اندھیرے میں پڑھنا سنت ہے اور روشنی سے فارغ ہوتے ہیں کوئی حرج نہیں (بلکہ مستحب ہے کیونکہ کیوں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا صبح کو روشنی کرو ۱۲ ہزاروی) دوسری رکعت میں سورتوں کے آخر سے تیس بائیس آیات پڑھنے میں کوئی حرج نہیں یہاں تک کہ سورت کو ختم کرے کیوں کہ یہ عام طور پر نہیں پڑھی جاتی لہذا وعظ میں زیادہ پنچنے والی ہیں اور

(۱) مجمع الزوائد جلد ۲ ص ۱۰۹ باب فی بسم اللہ الرحمن الرحیم

(۲) سند امام احمد بن حنبل جلد ۵ ص ۵ امریات سمرہ بن جندب

غور و فکر کو زیادہ دعوت دیتی ہیں۔ بعض علماء نے سورتوں کے آغاز سے کچھ پڑھنے اور باقی کو چھوڑ دیتے کو مکروہ قرار دیا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مروی ہے آپ نے سورہ یونس کا کچھ حصہ پڑھنا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے ذریعے تو رکوع تین چلے گئے۔ (۱)

اور یہ بھی مروی ہے کہ حضور علیہ السلام نے فجر میں سورہ بقرہ کی ایک آیت
 ﴿قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا﴾
 رکھو ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور اس پر جو کچھ ہماری طرف اتارا گیا۔

پڑھی اور دوسری رکعت میں۔

رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أَنْزَلْتَ (۲)

راے ہمارے رب ہم اس چیز پر ایمان لائے جو تو نے اتاری ہے
 پڑھی اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنا کہ وہ کہیں کہیں سے پڑھتے تو آپ نے اس کے بارے میں پوچھا انہوں نے
 عرض کیا میں طیب کو طیب سے ملاتا ہوں تو آپ نے فرمایا تم نے اچھا کیا۔ (۳)
 اور ظہر کی نماز میں طوال مفصل (سورہ حجرات سے سورہ بروج تک) میں سے تھیں آیات پڑھے عصر میں اس کا نصف اور مغرب
 میں مفصل کے آخر سے (یعنی سورہ لم یکن الذین سے آخر تک) سورتوں میں سے پڑھے۔
 رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری نماز، مغرب کی نماز پڑھی اور اس میں سورہ مرسدات کی تلاوت کی اور اس کے
 بعد آپ نے انتقال فرمانے تک کوئی نماز نہیں پڑھی۔ (۵)
 خلاصہ یہ ہے کہ نماز میں تخفیف بہتر ہے یا لخصوص جب لوگ زیادہ ہوں۔

اس رخصت کے سلسلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
 إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ بِالنَّاسِ فَلْيُخَفِّفْ خَلَاتَ
 فِيهِمُ الضَّعِيفِ وَالْكَبِيرِ وَذَا الْحَاجَةِ۔ (۶)
 جب تم میں سے کوئی لوگوں کو نماز پڑھائے تو ہلکی بھلکی نماز
 پڑھائے کیونکہ ان میں کمزور، بوڑھے اور کام کاج والے بھی ہوتے ہیں۔

(۱) سنن ابن ماجہ ص ۵۹ باب القراءة فی صلاة الفجر

(۲) قرآن مجید، سورہ بقرہ آیت ۱۳۶

(۳) سورہ آل عمران آیت ۵۳

(۴) صحیح مسلم جلد اول ص ۲۵۱ کتاب الصلوة

(۵) سنن ابی داؤد جلد اول ص ۱۱۶ باب قدر القراءة فی المغرب

(۶) صحیح مسلم جلد اول ص ۱۸۸ باب الرأفة بتخفيف الصلوة

البتہ جب اکیلا نماز پڑھے تو جس قدر دل چاہے لمبا کرے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو عشاء کی نماز پڑھاتے ہوئے سورہ بقرہ پڑھتے ایک شخص نے نماز تو پڑھا مگر ایک کھل کی دوسرے حضرات نے کہا یہ شخص منافق ہو گیا ہے چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں شکایت کی تو آپ نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو تنبیہ فرمائی اور ارشاد فرمایا اسے معاذ لوگوں کو فتنے میں ڈالتے ہو۔

”سَبَّحَ اسْمُ رَبِّكَ الِاعْلَىٰ وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ اور وَالشَّمْسِ وَصَحَّاحَا“ پڑھا کرو (۱)

ارکان نماز کے سلسلے میں امام کی تین ذمہ داریاں ہیں۔

(۱) رکوع اور سجدہ میں تخفیف سے کام لے تین تسبیحات سے زیادہ نہ پڑھے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سے پڑھ کر کسی کی نماز کو مکمل اور ہلکا پھلکا نہیں دیکھا (۲) ہاں یہ بھی مروی ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے امیر بدیتہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی تو فرمایا میں نے کسی شخص کے پیچھے نماز نہیں پڑھی کہ اس کی نماز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے زیادہ مشابہ ہو سوائے اس نوجوان کے۔ انہوں نے فرمایا ہم ان (حضرت عمر بن عبدالعزیز) کے پیچھے دس بار تسبیح پڑھتے تھے (۳) اور ایک مجلس روایت میں ہے فرماتے ہیں ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے رکوع اور سجدے میں دس بار تسبیح پڑھتے تھے (۴)

یہ اچھا ہے لیکن جب اجتماع زیادہ ہو تو تین تسبیحات پڑھنا زیادہ بہتر ہے جب مقتدی صرف وہ لوگ ہوں جنہوں نے اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کر رکھا ہو تو دس تسبیحات پڑھنے میں بھی کوئی حرج نہیں ان اور بات کو یوں جمع کیا جاسکتا ہے نیز امام کو رکوع سے سر اٹھانے ہوئے ”سمع اللہ لمن حمدہ“ کہنا چاہیے۔

(۲) دوسرا ذمہ داری مقتدی سے متعلق ہے وہ یہ کہ وہ رکوع اور سجدے میں امام سے برابری اختیار نہ کرے بلکہ اس سے تاخیر کرے پس سجدے کی طرف اس وقت جھکے جب امام کی پیشانی سجدہ گاہ سے مل جائے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتدا اسی طرح کیا کرتے تھے اور جب تک امام رکوع میں چلا نہ جائے یہ رکوع کے لیے نہ جھکے (۵)

(۱) مسند امام احمد بن حنبل جلد ۲ ص ۲۹۹ روایات جابر بن عبد اللہ

(۲) صحیح بخاری جلد اول ص ۱۴۹ باب من تطوع فی سفر

(۳) سنن ابی داؤد جلد اول ص ۲۹ باب الدعاء فی الصلوٰۃ

(۴) قوت القلوب جلد ۲ ص ۹۳ کتاب الصلوٰۃ

(۵) صحیح بخاری جلد اول ص ۹۶ باب متی یسجد من خلف الامام

کہا گیا ہے کہ نماز کے سلسلے میں لوگ تین صورتوں میں آئیں گے ایک گروہ سچیں نمازوں کے ثواب کے ساتھ آئے گا۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جو امام کے بعد رکوع کرتے ہیں ایک جماعت ایک نماز کے ساتھ آئے گی یہ وہ ہیں جو امام کے ساتھ براہی کرتے ہیں اور کچھ لوگ نماز کے بغیر آئیں گے یہ وہ لوگ ہیں جو امام سے سبقت کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں اختلاف ہے کہ آیا امام کو رکوع میں لوگوں کے شامل ہونے کا انتظار کرنا چاہیے تاکہ اسے جماعت کی فضیلت حاصل ہو اور انہیں یہ رکعت مل جائے شاید بہتر یہ ہے کہ اخلاص کی صورت میں ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں جب کہ حاضرین کوئی ظاہر فرق نہ پڑے کیونکہ نماز کو طویل نہ کرتے ہیں ان کے حق کی رعایت ہے۔

(۱) تیسری ذمہ داری یہ ہے کہ نماز کو طوالت سے بچانے کے لیے مقدار تشہد پر دعائے تشہد میں اضافہ کرے اور دعا میں اپنی تخصیص نہ کرے بلکہ جمع کا صیغہ لائے ہوئے یوں کہے اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَنَا يَا اَللّٰهُمَّ نَحْنُ ذٰلِكَ (یعنی مجھے بخش دے) نہ کہے امام کے لیے اپنے آپ کو مخصوص کرنا مکروہ ہے۔

تشہد میں یہ کلمات جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہیں پڑھنے میں کوئی حرج نہیں۔ وہ کلمات یہ ہیں۔
 اے اللہ! ہم جہنم کے عذاب اور عذاب قبر سے تیری پناہ چاہتے ہیں زندگی اور موت کے فتنہ سے اور مسیح دجال کے فتنہ سے تیری پناہ چاہتے ہیں اور حیب تو کسی قوم کو آزمائش میں ڈالنے کا ارادہ کرے تو وہیں فتنہ سے محفوظ رکھتے ہوئے اٹھالینا۔

نَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَعَذَابِ الْقَبْرِ وَنَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ وَالْمَمَاتِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الَّذِي دَاوَّ اَرْدَتَ بِقَوْمِ فِتْنَةٍ فَاَنْبِضْنَا اِلَيْكَ غَيْرِ مُفْتَوْنٍ فِيْهِ۔ (۱)

کہا گیا ہے کہ دجال کو مسیح یا تو اس لیے کہتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ فاصلہ طے کرے گا اور یہ بھی کیا گیا کہ اس کی ایک آنکھ میں روشنی نہیں ہوگی۔

نماز سے باہر آنے کے موقع پر تین ذمہ داریاں ہیں۔

پہلی یہ کہ دونوں سلاموں میں نمازیوں اور فرشتوں پر سلام بھیجنے کی نیت کرے۔

دوسری یہ کہ سلام پھرنے کے بعد وہیں ٹھہرے جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہما نے کیا (۲) پھر نفل دوسری جگہ پڑھے اور اگر اس کے پیچھے عورتیں ہوں تو ان کے واپس جانے تک نہ اٹھے۔ ایک مشہور حدیث میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم (سلام پھرنے کے بعد) اس دعا کا اندازہ ٹھہرتے تھے۔

اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ
يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ (۱)

اے اللہ تو سلامتی عطا کرنے والا ہے اور سلامتی تیری طرف
سے ہی ہے اے جلال اور عزت والے تو بکت والا ہے

تیسری ذمہ داری یہ ہے کہ سلام کے بعد جب پھر سے تو لوگوں کی طرف متوجہ ہو اور امام کے پھرنے سے پہلے مقتدی کے
یہ اٹھنا مکروہ ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہما نے ایک امام کے پیچھے نماز پڑھی جب
سلام پیرا تو ان دونوں نے امام سے کہا کہ آپ کی نماز بیت اچھی اور مکمل تھی البتہ ایک بات صحیح نہیں ہوئی جب آپ نے
سلام پھیرا تو لوگوں کی طرف متوجہ نہیں ہوئے پھر ان دونوں صحابہ کرام نے نمازیوں سے فرمایا تمہاری نماز بھی بیت اچھی تھی لیکن
تم امام کے پھرنے سے پہلے پھر گئے۔

اس کے بعد امام دائیں طرف پھرے یا بائیں طرف اسے اختیار ہے البتہ دائیں طرف زیادہ اچھا ہے۔ یہ تمام نمازوں
کے وظائف (ضروری مسائل) میں لیکن فجر کی نماز میں قنوت کا اضافہ کر کے (احناف کے نزدیک قنوت صرف وتر نماز میں ہے ۱۲ ہزار) ^(۱)
امام یوں کہے۔ اللَّهُمَّ اهْدِنِي آخِرَتِكَ مُقْتَدَى آمِينَ کہے جب وہ ان الفاظ پر پہنچے إِنَّكَ تَفْقِهُنَّ وَلَا تُفْقِهُنَّ عَلَيْكَ اے
شک تو فیصلہ کرتا ہے اور تیرے خلاف کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا) تو آپ آمین نہ کہے کیوں کہ یہ تو شائد ہے لہذا اس کے ساتھ ہی الفاظ
پڑھے یا یوں کہے بَلَىٰ وَآنَا عَلَىٰ ذَلِكِ مِنَ الشَّاهِدِينَ (ہاں اور میں اس پر گواہوں میں سے ہوں) یا کہے صَدَقْتَ وَ
بَرَزْتَ (تو نے سچ کہا اور اچھا کیا) یا اس کے مشابہ الفاظ کہے قنوت میں ہاتھ اٹھانے کے بارے میں حدیث مروی ہے ^(۲)
جب حدیث صحیح ہو تو ہاتھ اٹھانا مستحب ہو گا اگرچہ یہ تشہد کے آخر میں مانگی جانے والی دعاؤں کے خلاف ہے کیونکہ
ان کے سبب سے ہاتھ نہیں اٹھائے جائے بلکہ رکھنے پر اعتماد ہے اور ان دونوں صورتوں میں فرق ہے کیونکہ تشہد میں ہاتھوں
کا طریقہ انہیں مخصوص طریقے پر ہاتھوں پر رکھنا ہے اور یہاں اس کے لیے کوئی صورت مقرر نہیں تو بعد نہیں کہ قنوت میں اس کے
لیے یہی طریقہ مقرر ہو۔ کیونکہ یہ دعا کے لائق ہے واللہ اعلم۔

یہ تمام امور امامت کے آداب سے متعلق ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ ہی توفیق دینے والا ہے۔

(۱) صحیح مسلم جلد اول ص ۲۱۸ باب استیجاب الذکر بعد الصلوٰۃ

(۲) السنن اکبری بلبیقی جلد ۲ ص ۲۱۱ باب رفع الیمن فی القنوت

پانچواں باب

جمعۃ المبارک کی فضیلت، آداب، سنن اور شہر الہی

جان لو! یہ عظیم دن ہے اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اسلام کو عظمت عطا فرمائی اور اسے مسلمانوں کے ساتھ خاص کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

فضیلت جمعہ

إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ (۱)
 جب جمعہ کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے دوڑ پڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو۔
 تو اللہ تعالیٰ نے دنیوی امور میں مشغول ہونے کو حرام ٹھہرایا اور ہر اس کام کو حرام ٹھہرایا جو جمعہ کی طرف کسی سے دور رکھتا ہے۔
 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ فَرَضَ عَلَيْكُمُ الْجُمُعَةَ فِي يَوْمِي هَذَا فِي مَقَامِي هَذَا - (۲)
 بے شک اللہ تعالیٰ نے اس دن اور اس مقام پر جمعہ فرض فرمایا:

مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ ثَلَاثًا مِنْ غَيْرِ عَذْرٍ طَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قَلْبِهِ (۳)
 جو شخص نے تین بار جمعہ کی نماز کو بلا عذر چھوڑتا ہے اس کے دل پر اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتا ہے۔

ایک دوسری روایت میں یہ الفاظ ہیں:

فَقَدْ نَبَذَ الرَّسُولَ مَرَّةً وَرَأَىٰ عَظْمَيْهِ (۴)
 ایسے شخص نے اسلام کو پس پشت ڈال دیا۔

ایک شخص، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس اس شخص کے بارے میں پوچھنے گیا جو جمعۃ المبارک اور باجماعت میں حاضر نہیں ہوتا تھا اور اب مر گیا تو انہوں نے فرمایا وہ جہنم میں جائے گا۔ وہ ایک مہینے تک یہی سوال کرتا رہا آپ نے بار

(۱) قرآن مجید سورہ جمعہ آیت ۹

(۲) سنن ابن ماجہ ص ۷۷، باب فرض جمعہ

(۳) المستدرک للحاکم جلد اول ص ۲۹۲ کتاب الجمعة

(۴) التزئیب والتزئیب جلد اول ص ۵۱۱ التزئیب عن ترک الجمعة

بار فرمایا وہ جہنم میں جا کے گا۔ (۱)

ایک حدیث شریف میں ہے۔

إِنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ
نَاخَتَلَفُوا فِيهِ فَصَرَ قَرْعَنَهُ وَهَذَا آتَا
اللَّهُ تَعَالَى لَهُ وَأَخْرَجَ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ وَجَعَلَهُ
عِيدًا لَهُمْ فَهُمْ أَوْلَى النَّاسِ لَهُ سَبَقًا
وَأَهْلُ الْكِتَابِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ نَبَحٌ -

(۲)

یہ شک و کتابوں رتورات رانجیل ادا لے لوگوں کو جمع
کا دن دیا گیا تو انہوں نے اختلاف کیا اور اس سے
منہ موڑ لیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے اس امت کے لیے مقرر
کیا اور ان کے لیے اسے عید قرار دیا پس یہ امت
سب لوگوں سے مقدم ہے اور تورات و انجیل والے
ان کے تابع ہیں۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا:

أَتَانِي جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي كَفَرٍ مِدْرًا
بَيْضَاءَ، وَقَالَ هَذِهِ الْجُمُعَةُ يَفْرَضُهَا
عَلَيْكَ رَبُّكَ لِتَكُونَ لَكَ عِيدًا وَإِلْمَتِكَ
مِنْ بَعْدِكَ قُلْتُ فَمَا لَنَارِقِهَا؟ قَالَ:
لَكُمُ فِيهَا خَيْرٌ سَاعَةٍ مِنْ دَعَائِهَا بِخَيْرِ قِسْمٍ
لَهُ أَعْطَاهُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ أَيُّهَا أَوْلِيَّيْنَ كَهَ قَسْمٍ
زُحِرَكُهُ مَا هُوَ عَظْمٌ مِنْهُ أَوْ تَعَوَّذَ مِنْ
شَرِّهِ مَكْتُوبٌ عَلَيْهِ إِلَّا عَاذَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ
مِنْ أَعْظَمِ مِنْهُ وَهُوَ سَيِّدُ الْأَيَّامِ عِنْدَنَا
وَنَحْنُ نَدْعُوهُ فِي الْآخِرَةِ يَوْمَ الْمَرْبُودِ
قُلْتُ، وَمِلْمَةٌ؟ قَالَ: إِنَّ رَبَّكَ عَزَّ وَجَلَّ
أَتَخَذَ فِي الْجَنَّةِ وَاذِيًّا أُنْفِخَ مِنَ الْمَسِيكِ،

میرے پاس حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور ان کے
ہاتھ میں چمکتا ہوا شیشہ تھا انہوں نے فرمایا کہ یہ جمعہ ہے
اللہ تعالیٰ نے اسے آپ پر فرض کیا ہے تاکہ آپ کے لیے
اور آپ کے بعد آپ کی امت کے لیے یہ عید ہو جائے
میں نے پوچھا اس سلسلے میں ہمارے لیے کیا ہو گا؟ انہوں نے
فرمایا اس میں ایک بہترین گھڑی ہے جو شخص اس میں اس
بھلائی کی دعا مانگے گا جو اس کی قسمت میں ہے تو اللہ تعالیٰ
اسے عطا فرمائے گا یا اس کی قسمت میں نہیں تو اس سے بڑی
چیز اس کے لیے جمع کی جائے گی یا وہ ایسے برائی سے پناہ
مانگتا ہے جو اس پر لکھی گئی ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے
بھی بڑے شر سے اس کو پناہ دیتا ہے اور ہمارے نزدیک
یہ تمام دنوں کا سردار ہے اور ہم آخرت میں اسے "یوم مرید"

(۱) یعنی اگر اس نے انکار بھی کیا ہے تو اب کافر ہونے کی وجہ سے جہنم میں جائے گا اگر اس کی فرضیت کا انکار نہیں کیا تو ابتدائی طور پر جہنم
میں جائے گا اور آپ نے بطور تنبیہ یہ بات فرمائی تاکہ لوگ کو تا ہی نہ کریں ۱۲ ہزاروی۔

(۲) صحیح بخاری جلد اول ص ۱۲۰ کتاب الحج

زیادہ ثواب کے دن کے نام سے پکاریں گے (رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا) میں نے پوچھا ایسا کیوں ہے؟ تو حضرت جبریلؑ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں میں ایک وادی بنائی ہے جو کستوری سے زیادہ خوشبودار اور سفید ہے جب

جمعہ کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ علیین سے اپنی کرسی سے اتر کر ان لوگوں کے لیے اپنی تجلی کو ظاہر فرمائے گا حتیٰ کہ وہ اس کی ذات کریم کی زیارت کریں گے (اللہ تعالیٰ کی توجہ خاص مراد ہے ورنہ وہ کرسی پر بیٹھنے یا اس سے اترنے سے پاک

ہے ۱۲ ہزاروی)

بہترین دن جس پر سورج طلوع ہوتا ہے، جمعہ کا دن ہے اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا اسی دن ان کو جنت میں داخل کیا گیا، اسی روز ان کو زمین کی طرف اتارا گیا اسی دن ان کی توبہ قبول کی گئی اور اسی دن ان کا وصال ہوا، اسی دن قیامت قائم ہوگی اور یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں "یوم مزید" (زیادہ ثواب کا دن) ہے آسمان میں فرشتے اسے اسی نام سے پکارتے ہیں اور قیامت کے دن دیدار خداوندی کا دن یہی ہوگا۔

بے شک اللہ تعالیٰ ہر جمعہ کے دن چھ لاکھ آدمیوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب جمعہ کا دن سلامتی سے گزرا تو باقی دن بھی سلامتی کے ساتھ گزرتے ہیں۔

أَبْيَضَ، فَإِذَا كَانَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ نَزَلَ تَعَالَى مِنْ عِلِّيِّينَ عَلَى كُرْسِيِّهِ فَيَتَجَلَّى لَهُمْ تَحْتَى يَنْظُرُونَ إِلَى وَجْهِهِ الْكَرِيمِ-

(۱)

خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ: فِيهِ خُلِقَ آدَمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَفِيهِ أُدْخِلَ الْجَنَّةَ، وَفِيهِ أَهْطَأَ إِلَى الْأَرْضِ، وَفِيهِ قُتِبَ عَلَيْهِ، وَفِيهِ مَاتَ، وَفِيهِ تَقُومُ السَّاعَةُ، وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْمَزِيدِ، كَذَلِكَ تُسَمِّيهِ الْمَلَائِكَةُ فِي السَّمَاءِ، وَهُوَ يَوْمَ النَّظَرِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى فِي الْجَنَّةِ - (۲)

ایک حدیث شریف میں ہے۔

إِنَّ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ سِتْمِائَةَ أَلْفٍ عَشْرِينَ مِنَ النَّارِ (۳)

حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: إِذَا سَلِمْتَ الْجُمُعَةَ سَلِمْتَ الْيَوْمَ (۴)

(۱) مجمع الزوائد جلد ۲ ص ۱۶۲، ۱۶۳ باب الجمعة وفضلها

(۲) صحیح مسلم جلد اول ص ۲۸۲ کتاب الجمعة

(۳) العلل المشابهة جلد اول ص ۶۵ حدیث ۹۰

(۴) شعب الایمان جلد ۲ ص ۲۲۰ حدیث ۳۶۰۸

اور آپ نے ارشاد فرمایا:

إِنَّ الْجَحِيمَ تُسْعَدُ فِي كُلِّ يَوْمٍ قَبْلَ الزَّوَالِ
عِنْدَ اسْتِوَاءِ الشَّمْسِ فِي كَبِدِ السَّمَاءِ فَلَا
تَصْلُو فِي هَذِهِ السَّاعَةِ إِلَّا يَوْمَ الْجُمُعَةِ
فَإِنَّ صَلَاةَ كُلِّهِ وَإِنْ جَهَنَّمَ لَا تُسْعَدُ
فِيهِ (۱)

بے شک ہر دن زوال سے پہلے سورج کے آسمان پر
ٹھہرنے کے وقت جہنم کو جھونکا جاتا ہے لہذا اس وقت
نماز نہ پڑھو البتہ جمعہ کے دن پڑھ سکتے ہو کیونکہ یہ تمام
وقت نماز کا وقت ہے اور اس دن جہنم کو جھونکا نہیں
جاتا۔

حضرت کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے شہروں میں سے مکہ مکرمہ کو، مہینوں میں سے رمضان المبارک کو، دنوں میں
سے جمعہ کو اور راتوں میں سے لیلتہ القدر کی فضیلت عطا فرمائی ہے اور کہا جاتا کہ پرندے اور کپڑے کوڑے جمعہ کے دن ایک
دوسرے سے ملاقات کر کے اور کہتے ہیں سلام سلام ہوا چھا دن ہے۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

مَنْ مَاتَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَوْلَيْتَهُ الْجُمُعَةُ
كَتَبَ اللَّهُ لَهُ أَجْرَ شَهِيدٍ وَوَقِيَ فِتْنَةَ
الْقَبْرِ (۲)

جو شخص جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات میں انتقال کر جائے
اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک شہید کا اجر لکھتا ہے اور اس کو
قبر کے فتنہ سے بچایا جاتا ہے۔

شرائط جمعہ کا بیان:

جمعۃ المبارک تمام شرائط میں باقی نمازوں کے ساتھ شریک ہے البتہ چھ شرطوں میں وہ ان سے ممتاز ہے۔

- (۱) وقت :- اگر امام کا سلام عصر کے وقت میں واقع ہو تو جمع کی نماز قوت ہوگئی اور اس پر ظہر کی چار رکعات کو پورا کرنا ضروری ہے
اور مسبوق کی جب دوسری رکعت وقت سے باہر نکل جائے تو اس میں اختلاف ہے (۲)
- (۲) جگہ :- صحراؤں، میدانوں اور غیموں کے درمیان جمعہ کی نماز صحیح نہیں ہوتی بلکہ ایک جامع جگہ ضروری ہے جہاں کی بستی غیر
منقولہ ہو اور کم از کم ایسے چالیس آدمیوں پر مشتمل ہو جن پر جمعہ فرض ہوتا ہو اس میں دیہات، شہر کی طرح ہیں بادشاہ یا اس کی اجازت
شرط نہیں لیکن اس سے اجازت لینا ہے اچھا ہے (۳)

(۱) حلیۃ الاولیاء جلد ۱ ص ۲۱۶ ترجمہ

(۲) حلیۃ الاولیاء جلد ۲ ص ۱۵۵ ترجمہ ۲۳۰

(۳) احاف کے نزدیک اسے ظہر کی نماز قضا کرنا ہوگی۔

(۴) احاف کے نزدیک جمعہ کے قیام کیلئے مصر (بڑا شہر) ہونا شرط ہے یا اس کے قریب چھوٹی بستی ہو جو مصافحات کہلاتی ہے۔

۱۰۔ تعداد۔ چالیس آدمیوں سے کم کے ساتھ جمعہ منعقد نہیں ہوتا اور ان کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ سب مرد، مکلف، آزاد اور مقیم ہوں اور گرمی سردی میں یہاں سے دوسری جگہ منتقل نہ ہوتے ہوں اگر کم ہو کر خطبہ یا نماز میں تعداد گھٹ جائے تو جمعہ صحیح نہ ہوگا بلکہ شروع سے آخر تک اتنی تعداد کا ہونا لازمی ہے (۱)

(۲) جماعت۔ اگر یہ چالیس آدمی کسی گاؤں یا شہر میں متفرق طور پر جمعہ پڑھیں تو جمعہ صحیح نہیں ہوگا لیکن مسبقاً جب دوسری رکعت کو پائے تو اس کے لیے ایک رکعت الگ پڑھنا جائز ہے اور اگر وہ دوسری رکعت کے رکوع کو نہ پائے تو اقتدار کرتے ہوئے ظہر کی نیت کرے اور امام کے سلام پھیرنے کے بعد ظہر کی چار رکعات پوری کرے۔ (۲)

(۵)۔ اس شہر میں اس سے پہلے جمعہ کی نماز نہ پڑھی گئی ہو اور اگر وہ ان سب لوگوں کا ایک جامع مسجد میں جمعہ ہونا مشکل ہو تو دو، تین اور چار مسجدوں میں یعنی جس قدر ضرورت ہو، پڑھ سکتے ہیں۔ اور اگر ضرورت نہ ہو تو وہی نماز جمعہ صحیح ہوگی جو سب سے پہلے پڑھی گئی اور اگر حاجت ہو تو جو سب سے بہتر امام ہے اس کے پیچھے پڑھے اگر دونوں برابر ہوں تو جو مسجد قدم ہے اس میں پڑھے اور اگر برابر ہوں تو جو زیادہ قریب ہے اور نمازیوں کی کثرت کا بھی لحاظ ہے۔

نوٹ: احناف کے نزدیک ایسی کوئی شرط نہیں ایک شہر میں کئی جگہ جمعہ کی نماز پڑھی جاسکتی ہے البتہ بہتر یہی ہے کہ بلا ضرورت ایسا نہ کیا جائے اور مسلمان جمعہ کے اجتماع میں زیادہ سے زیادہ اکٹھے ہوں ہر جگہ جمعہ کی نماز شروع نہ کی جائے ۱۲ ہزاروی۔

۴۔ دو خطبے اور یہ فرض (واجب) ہیں ان میں کھڑا ہونا اور دونوں کے درمیان بیٹھنا لازمی ہے پہلے خطبہ کے چار فرض نہیں "تحمید" اور وہ کم از کم الحمد للہ پڑھنا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنا، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی نصیحت کرنا، قرآن پاک سے کچھ نہ کچھ پڑھنا اسی طرح دوسرے خطبہ کے فرائض چار ہیں البتہ اس میں قرأت کی جگہ دعا ہے اور چالیس آدمیوں پر دونوں خطبوں کا سننا واجب ہے (احناف کے نزدیک جمعہ کا خطبہ سننا سنت ہے)۔

جمعہ کی سنتیں

جب سورج ڈھل جائے اور مؤذن اذان دے دے نیز امام منبر پر بیٹھ جائے تو اب تحیۃ المسجد کے علاوہ نماز نہیں پڑھ سکتے اور خطبہ شروع ہونے تک گفتگو منع نہیں ہے خطیب جب لوگوں کی طرف متوجہ ہو تو سلام کہے اور وہ سلام کا جواب دیں پھر جب مؤذن فارغ ہو جائے تو خطیب لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر کھڑا ہو جائے بائیں توجہ نہ کرے اور اپنے ہاتھوں کو تلوار یا نیزے اور منبر پر رکھے تاکہ ان کے ساتھ کوئی لغو کام نہ کرے (یعنی ہاتھوں کو مشغول رکھے یا ایک ہاتھ کو دوسرے پر رکھے دو خطبے دے اور ان کے درمیان ٹھوڑی دیر کے لیے بیٹھے، اور خطبوں

(۱) احناف کے نزدیک امام کے علاوہ تین آدمیوں کا ہونا شرط ہے ۱۲ ہزاروی

(۲) زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ وہ جمعہ کی نیت کرنے تک امام کی موافقت ہو اور دو رکعتوں پر سلام پھرے ۱۲ ہزاروی

ہیں اجنبی الفاظ استعمال نہ کرے نہ الفاظ کو زیادہ لمبا کرے اور نہ ہی گانے کے طریقے پر پڑھے خطبہ مختصر بلاغت سے بھر لیا اور جامع ہونا چاہیے دوسرے خطبہ میں بھی کوئی نہ کوئی آیت پڑھنا مستحب ہے خطبہ کے دوران آنے والا سلام نہ کرے اگر سلام کرے گا تو جواب کا مستحق نہ ہوگا البتہ اشارے کے ساتھ جواب دینا اچھا ہے پھینکنے والوں کو "یرحمک اللہ" کے ساتھ جواب نہ دیا جائے یہ تمام باتیں خطبہ کے صحیح ہونے کی شرائط ہیں۔

وجوب جمعہ کی شرائط | جمعہ کی نماز مرد، بالغ، عاقل، مسلمان آزاد اور ایسے شہر میں مقیم پر واجب ہے جس میں ایسے چالیس آدمی رہتے ہوں جو ان شرائط کے جامع ہوں (احناف کے نزدیک بڑا شہر شرط ہے) یا شہر کے مضافات کی بستی ہو جہاں اذان کی آواز اس جانب سے پہنچتی ہو جب کہ لوگ خاموش ہوں اور موذن کی آواز بلند ہو۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔

إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ
فَأَسْعُوا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ۔
جب جمعہ کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو
اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو اور خرید و فروخت
چھوڑ دو۔ (۱)

البتہ ان لوگوں کو بارش، کچھڑ، بیماری اور بیماری کی عیادت کی وجہ سے جمعہ چھوڑنے کی اجازت ہے بشرطیکہ بیماری کی تیمارداری کے لیے کوئی دوسرا آدمی نہ ہو۔ پھر ان لوگوں پر لازم ہے کہ ظہر کو مؤخر کریں یہاں تک کہ لوگ جمعہ کی نماز سے فارغ ہو جائیں اگر جمعہ کی نماز کے لیے بیمار یا مسافر یا غلام یا عورت حاضر ہو جائیں تو ان کی نماز جمعہ صحیح ہوگی اور ظہر کی جگہ کفایت کرے گی واللہ اعلم بالصوات۔

یہ دس باتیں ہیں۔

عادت کی ترتیب پر آداب جمعہ | (۱) جمعہ کا عزم کرتے ہوئے اور اس کی فضیلت کے استقبال کی طور پر جمعرات کے دن اس کے لئے تیاری کرے لہذا جمعرات کے دن نماز عصر کے بعد دعا، استغفار اور تسبیح میں مشغول ہو جائے کیونکہ یہ وہ گھڑی ہے جو جمعہ کے دن کی اس گھڑی کے مقابل ہے جو قبولیت کا وقت ہے اور پوشیدہ ہے بندوں کے رزق کے علاوہ اللہ تعالیٰ مزید فضل عطا فرماتا ہے اور یہ فضل ان لوگوں کے لیے ہے جو لوگ جمعرات کی شام اور جمعہ کے دن سوال کرتے ہیں اس دن اپنے کپڑوں کو دھوئے اور سفید کرے اور اگر خوشبو موجود نہ ہو تو حاصل کرے نیز جمعہ کی نماز کے لیے جلدی جانے سے جو امور مانع ہیں ان سے اپنے دل کو فارغ کرے اور اس دن جمعہ کے روزے کی نیت کرے کیوں کہ اس کی فضیلت ہے لیکن اس کے ساتھ جمعرات یا ہفتہ کے دن کا روزہ ملایا جائے کیونکہ صرف جمعہ کا روزہ مکروہ ہے نماز، اور ختم قرآن کے

ذریعے اس رات کو زندہ رکھے۔ کیونکہ اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے اور اس پر جمعہ کے دن کی فضیلت کا اضافہ نور علی نور ہے اس رات یا جمعہ کے دن اپنی پیوی سے ہمبستری کرے یہ مستحب ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درج ذیل ارشاد سے بعض حضرات نے یہی عمل مراد لیا ہے آپ نے فرمایا۔

رَجِمَ اللَّهُ مَنْ بَكَرَ وَأَبْتَكَرَ وَغَسَلَ
وَاعْتَسَلَ (۱)

اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم فرمائے جو اول وقت میں اُسے
اور جلدی کرے تیز نہلائے اور خود غسل کرے۔

غسل دینے کا مطلب ہے کہ اپنی پیوی کے لیے غسل کا سبب پیدا کرے (یعنی جماع کرے) کہا گیا ہے کہ اس کا مطلب کپڑے دھونا ہے اس طرح یہ تحفیف کے ساتھ تشدید کے بغیر مروی ہے اور اپنے جسم کو دھوئے یعنی غسل کرے۔ اس کے ساتھ استقبال جمعہ کے آداب مکمل ہو جاتے ہیں اور وہ ان عافلیں سے خارج ہو جاتا ہے جو جمعہ کی صبح کہتے ہیں یہ کونسا دن ہے؛ بعض بزرگوں نے فرمایا جمعہ کے دن زیادہ مکمل حصے والا آدمی وہ ہے جو پہلے دن اس کی انتظار کرتا اور رعایت کرتا ہے اور سب سے کم حصہ اس شخص کا ہے جو اس کی صبح کو کہتا ہے یہ کونسا دن ہے؛ اور بعض حضرات تو اس کے لیے شب جمعہ مسجد میں گزارتے تھے۔

۲- دوسرا ادب یہ ہے کہ طلوع فجر کے بعد غسل کرے اگر اس وقت مسجد میں نہ جائے تو بھی اس کے قریب قریب جانا زیادہ اچھا ہے تاکہ پاکیزگی حاصل کرنے کے وقت اس میں قرب ہو۔ غسل بہت زیادہ پسندیدہ ہے بلکہ بعض علماء نے تو اسے واجب

قرار دیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

غُسْلُ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَيَّ كُلِّ مُخْتَلِفٍ (۲)

حضرت نافع نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کیا اور یہ مشہور روایت ہے۔

جو شخص جمعہ کے لیے اُسے تو اسے غسل کرنا چاہیے۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

مَنْ شَهِدَ الْجُمُعَةَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ

فَلْيَغْتَسِلْ (۳)

جو مرد و عورت جمعہ کے لیے حاضر ہوا سے غسل کرنا
چاہیے۔

(۱) سنن ابن ماجہ ص ۸۷، باب ماجاء فی الغسل فی یوم الجمعة

(۲) صحیح مسلم جلد اول ص ۲۸۰ کتاب الجمعة

(۳) سنن ابن ماجہ ص ۸۷، باب ماجاء فی الغسل فی یوم الجمعة

(۴) سنن بیہقی جلد ۳ ص ۱۸۸، باب السنة لمن اراد الجمعة

اور اہل مدینہ جب ایک دوسرے کو گالی دیتے تو ان میں سے ایک دوسرے کو کہتا کہ تم اس شخص سے بھی برسے ہو جو جمعہ کے دن غسل نہیں کرتا۔

حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ خطبہ دے رہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ تشریف لائے انہوں نے فرمایا کیا یہ آنے کا وقت ہے؛ یعنی جلدی کیوں نہیں آئے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اذان سننے کے بعد میں نے صرف وضو کیا اور چلا آیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا صرف وضو؛ حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں غسل کا حکم دیا کرتے تھے۔ (۱)

حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے ترک غسل سے معلوم ہوا کہ صرف وضو کرنا بھی جائز ہے نیز اس سلسلے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے۔ آپ نے فرمایا:-

مَنْ تَوَضَّأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِيهَا وَنِعِمَّتْ وَهِنْ
غُتَّسَلَ فَالْغُسْلُ أَفْضَلُ (۲)

جو آدمی جمعہ کے دن وضو کرے تو بھی ٹھیک ہے اور اچھا ہے اور جو غسل کرے تو غسل افضل ہے۔

اور جو آدمی غسل جنابت کرے تو اپنے جسم پر مزید ایک بار پانی غسل جمعہ کی نیت سے ڈالے اور اگر ایک ہی غسل پر اکتفا کرے تو بھی کافی ہے اور اسے فضیلت حاصل ہو جائے گی جب کہ دونوں کی نیت کرے اور غسل جمعہ جنابت کے غسل میں داخل ہو جائے گا ایک صحابی اپنے صاحبزادے کے پاس تشریف لے گئے انہوں نے غسل کر رکھا تھا پوچھا کیا یہ جمعہ کے لیے ہے؛ عرض کیا نہیں بلکہ جنابت کے لیے ہے انہوں نے فرمایا دوبارہ غسل کرو۔ اور جمعہ کے دن ہر باغ پر غسل لازم سنت ہے ہونے سے متعلق حدیث بیان فرمائی انہوں نے دوبارہ غسل کا حکم اس لیے دیا تھا کہ ان کے صاحبزادے نے جمعہ کی نیت نہیں کی تھی۔ اور یہ بات کہنا بھی بعید نہیں کہ مقصود پاکیزگی ہے اور وہ نیت کے بغیر بھی حاصل ہو گئی۔ لیکن یہ بات وضو پر اعتراض کا باعث بنے گی شریعت نے اسے ثواب کا کام قرار دیا ہے لہذا اس کی فضیلت طلب کرنا ضروری ہے اور جو آدمی غسل کرنے کے بعد وضو ہو جائے تو وہ وضو کرے اس کا غسل باطل نہیں ہوگا۔ لیکن اس سے بچنا زیادہ اچھا ہے۔

۳۔ تیسری بات زینت اختیار کرنا ہے اور یہ اس دن مستحب ہے زینت میں باتیں ہیں لباس، پاکیزگی کا حصول اور اچھی خوشبو لگانا، پاکیزگی کا حصول مسواک کرنے، حجامت بنوانے ناخن اور مونچھیں کٹوانے اور ان تمام باتوں کے ذریعے ہوتا ہے جو کتاب الطہارۃ میں ذکر کر دی گئی ہیں۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا "جو شخص جمعہ کے دن اپنے ناخن کاٹتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے بیماری کو نکال

(۱) صحیح بخاری جلد اول ص ۱۲۰ کتاب الحجۃ
(۲) سنن ابی داؤد جلد اول ص ۱۵ کتاب الطہارۃ

کر وہاں شفا داخل کر دیتا ہے اگر جمعرات یا بدھ کے دن حمام میں جائے تو بھی مقصود حاصل ہو جاتا ہے۔ پس اس دن اچھی خوشبو لگائے جو اس کے پاس ہوتا کہ یہ ناپسندیدہ بو پر غالب آجائے اور اس کے ساتھ میٹھے ہوئے حاضرین کے دماغ میں خوشبو اور آرام پہنچے اور مردوں کی بہترین خوشبو وہ ہے جس کی ٹو ظاہر اور رنگ چھپا ہوا ہو جب کہ عورتوں کی خوشبو وہ ہے جس کا رنگ ظاہر اور بو پوشیدہ ہو اس سلسلے میں روایت مروی ہے۔ (۱)

حضرت امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا جو آدمی کپڑے پاک رکھتا ہے اس کے غم کم ہو جاتے ہیں اور جو آدمی اچھی خوشبو لگاتا ہے اس کی عقل میں اضافہ ہوتا ہے جہاں تک کپڑوں کا تعلق ہے تو سفید کپڑے زیادہ پسندیدہ ہیں کیوں کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند سفید کپڑے ہیں شہرت کے کپڑے نہ پہنے سیاہ کپڑے پہنا سنت نہیں ہے اور نہ ان میں فضیلت ہے بلکہ ایک جماعت نے ایسے لباس کی طرف دیکھنا بھی ناپسند فرمایا ہے کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ بدعت ظاہر ہوئی۔ اس دن دستار باندھنا مستحب ہے۔ حضرت واثلہ بن اسقع رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَىٰ اصْحَابِ
الْجُمُعَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ۔ (۲)

بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے جمعہ کے دن علامہ
باندھنے والوں کیلئے دعائے رحمت کرتے ہیں۔

اور اگر اسے گرمی ستائے تو نماز سے پہلے پا بعد اسے اتارنے میں کوئی حرج نہیں لیکن گھر سے جمعہ کے لیے جاتے وقت نماز کے وقت امام کے منبر پر جانے کے وقت اور خطبہ کے وقت نہ اتارے۔

۴۔ چوتھی بات جامع مسجد کی طرف جلدی جانا ہے اور مستحب ہے کہ ایسی مسجد کا قصد کرے جو دو یا تین فرسخ ہو اور ایک فرسخ تقریباً آٹھ کلومیٹر ہوتا ہے اور صبح سویرے جگے یعنی صبح صادق کے بعد فوراً جائے اور اس کی بیت زیادہ فضیلت ہے جمعہ کی طرف جاتے ہوئے شروع اور تواضع کی حالت اپنائے اور نماز کے وقت تک مسجد میں اعتکاف کی نیت سے رہے اور یہ ارادہ کرے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جمعہ کی طرف حاضری کی جزا آئی ہے اس کے جواب میں جلدی کر رہا ہے نیز یہ اس کی مغفرت اور رضا کی طرف جلدی کرنا ہے۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

مَنْ رَاحَ إِلَى الْجُمُعَةِ فِي السَّاعَةِ الْوَلَى
فَكَانَ قَرِيبَ بَدَنَةٍ، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ

جو شخص جمعہ کے لیے پہلی گھڑی میں جائے گویا اس نے
اونٹ کی قربانی کی جو دوسری ساعت میں گیا گویا اس نے

(۱) مشکوٰۃ المصابیح ص ۲۸ باب التزیل فصل ثانی

(۲) مجمع الزوائد جلد ۲ ص ۶۶، باب اللباس للجمعة۔

گائے کی قربانی دی جو تیسری ساعت میں گیا گویا اس نے
سینگوں والا سینڈھا قربان کیا جو آدمی پوتھی ساعت میں گیا گویا
اس سے مرغی پیش کی، جو پانچویں ساعت میں گیا گویا اس
نے انڈا پیش کیا۔ اور حبیب ابام رخطبہ کے لیے منبر کی طرف
نکل آئے تو رجسٹریٹ دیئے جاتے ہیں اور قلمیں اٹھا
دی جاتی ہیں اور فرشتے منبر کے پاس جمع ہو کر خطبہ سننے میں
مصروف ہو جاتے ہیں اب اس کے بعد جو شخص آتا ہے وہ
صرف حق نماز کے لیے آیا اس کے لیے مزید کوئی فضیلت نہیں۔

(۱)

الثَّانِيَةَ فَكَانَ قَرِيبَ بَقْرَةَ، وَمِنْ رَاحٍ فِي
السَّاعَةِ الثَّلَاثَةِ فَكَانَ قَرِيبَ كَيْسًا أَقْرَنَ،
وَمِنْ رَاحٍ فِي السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ فَكَانَ قَرِيبَ
دَجَاجَةٍ، وَمِنْ رَاحٍ فِي السَّاعَةِ الْخَامِسَةِ
فَكَانَ قَرِيبَ بَيْضَةٍ، فَإِذَا خَدَجَ الْوَمَاةُ
طَوَيْتِ الصُّحُفَ وَرَفَعَتِ الْأَقْلَامَ وَاجْتَمَعَتِ
الْمَلَائِكَةُ عِنْدَ الْمِنْبَرِ يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ،
فَمَنْ جَاءَ بَعْدَ ذَلِكَ فَإِنَّمَا جَاءَ لِحَقِّ الصَّلَاةِ
لَيْسَ لَهُ مِنَ الْفَضْلِ شَيْءٌ.

پہلی ساعت سے مراد طوع آفتاب تک کا وقت ہے، دوسری ساعت اس کے بلند ہونے کی ہے، تیسری ساعت اس
وقت تک رہتی ہے جب سورج کی روشنی پھیل جائے اور پاؤں جلنے لگیں، پوتھی اور پانچویں ساعت بڑی چاشت سے زوال تک
ہے اور ان دونوں کی فضیلت بہت کم ہے زوال کا وقت نماز کے حق کا وقت ہے اور اس میں کوئی فضیلت نہیں۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

ثَلَاثٌ بَوَّعِلَمَ النَّاسِ مَا فِيهِمْ لَوْ كَضُوا
رُكُوعَ الرَّبِيعِ فِي ظُلْمِهِتِ الْأَذَانِ وَالصَّفِّ
الْأَوَّلِ وَالْعُدْوَالِ الْجُمُعَةِ (۲)

تین کام ایسے ہیں کہ اگر لوگوں کو ان کی فضیلت کا علم ہو جائے
تو ان کی طلب میں اونٹوں کی طرح دوڑیں اذان، پہلی صف
اور جمعہ کے لیے صبح کے وقت جانا۔

حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ان تین باتوں میں سے افضل صبح کے وقت جمعہ کے لیے جانا ہے۔ ایک حدیث
شریف میں ہے۔

جب جمعہ کا دن ہوتا ہے تو فرشتے مسجدوں کے دروازوں
پر بیٹھ جاتے ہیں ان کے ہاتھوں میں میں چاندی کے رجسٹریٹ
اور سونے کی قلمیں ہوتی ہیں وہ پہلے آنے والوں کا نام لکھتے
ہیں پھر حسب مراتب ترتیب سے لکھتے ہیں۔

إِذَا كَانَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَعَدَتِ الْمَلَائِكَةُ
عَلَى أَبْوَابِ الْمَسَاجِدِ بِأَيْدِيهِمْ صُحُفًا
مِنْ فِضَّةٍ وَأَقْلَامًا مِنْ ذَهَبٍ يَكْتُبُونَ
الْأَوَّلَ فَالْأَوَّلَ عَلَى مَرَاتِبِهِمْ (۳)

(۱) صحیح بخاری جلد اول ص ۱۲۱/۱۲۲ باب فضل الجمعہ و باب الاستماع الی الخطبۃ

(۲) نکال ابن عدی جلد ۱ ص ۲۵۸۶ ترجمہ ہارون (۳) سنن النسائی جلد اول ص ۲۰۶ کتاب الجمعۃ

اور ایک دوسری حدیث میں آتا ہے:

إِنَّ الْمَلَائِكَةَ يَتَفَقَدُونَ الرَّحْلَ إِذَا قَآخَرَ
عَنْ وَدَيْتِهِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَيَسْأَلُ بَعْضُهُمْ
بَعْضًا عَنْهُ مَا فَعَلَ فَلَهُنَّ وَمَا الذِّكْرُ
آخِرَةٌ عَنْ وَدَيْتِهِ فَيَقُولُونَ اللَّهُمَّ إِن
كَانَ آخِرُهُ فَقْرًا فَغْنِهِ وَإِنْ كَانَ آخِرُهُ
مَرَضًا فَاشْفِهِ وَإِنْ كَانَ آخِرُهُ سُقُوتًا
فَقَرِّعْهُ لِعِبَادَتِكَ وَإِنْ كَانَ آخِرُهُ لَهْوًا
فَارْقُبْ بِقَلْبِهِ إِلَى طَاعَتِكَ۔

(۱)

بے شک فرشتے ایک شخص کو نہیں پاتے جب وہ جمعہ
کے دن اپنے وقت سے رہ جاتا ہے تو وہ ایک دوسرے
سے اس کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ فلاں نے کیا کیا؟ اور
کس وجہ سے اسے دیر ہوگئی پھر وہ کہتے ہیں یا اللہ! اگر محتاجی
کی وجہ سے اسے تاخیر ہوتی ہے تو اسے غنی کر دے
اگر بیماری کی وجہ سے تاخیر ہوتی ہے تو اسے شفاء عطا فرما
اگر کوئی مشغولیت ہے تو اسے اپنی عبادت کے لیے فارغ
کر دے اور محض کھیل کود کی وجہ سے ہے تو اس کے
دل کو اپنی اطاعت کی طرف متوجہ کر دے۔

پہلی صدی میں سمری کے وقت اور فجر کے بعد راستوں کو لوگوں سے بھرا ہوا دیکھا جاتا تھا وہ چراغ بیسے ہوئے جامع مسجد کی طرف
جاتے گویا عید کے دن ہوں، حتیٰ کہ یہ سلسلہ ختم ہو گیا پس کہا گیا کہ اسلام میں جو پہلی بدعت ظاہر ہوئی وہ جامع مسجد کی طرف جلدی
جانے کو چھوڑنا ہے اور مسلمانوں کو کس طرح یہودیوں سے جیا نہیں آتا کہ وہ اپنی عبادت گاہوں کی طرف ہفتے اور اتوار کے دن
صبح سویرے جاتے ہیں اور دنیا کے طالب لوگ کس طرح سویرے سویرے خرید و فروخت اور حصول ثمن کے لیے بازاروں کی
طرف جاتے ہیں تو آخرت کو طلب کرنے والے ان سے مقابلہ کیوں نہیں کرتے۔

کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دیدار کے وقت سب سے زیادہ قرب ان لوگوں کو ہوگا جو سویرے سویرے جمعہ کی نماز
کے لیے جاتے ہیں پھر ان کے بعد والے، پھر اسی ترتیب سے قرب ہوگا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح سویرے
جامع مسجد میں داخل ہونے تو تین آدمیوں کو دیکھا جو جلدی جانے میں ان سے سبقت کر گئے تھے تو وہ اس وجہ سے غمگین ہو
گئے اور اپنے آپ کو تھپڑکتے ہوئے دل میں کہنے لگے۔ ”چار میں سے چوتھا“ حالانکہ چوتھا آدمی جلدی کرنے میں تاخیر کرنے
والا نہیں۔

۵۔ پانچویں بات داخل ہونے کا طریقہ ہے تو مناسب یہ ہے کہ لوگوں کی گردنوں کو نہ پھلانگے اور نہ ان کے سامنے نونہ
گزرے اور جلدی جانا اس بات کو آسان کر دیتا ہے گردنوں کو روندنے کے سلسلے میں سزا سے شدت کے ساتھ ڈرایا گیا
ہے وہ یہ کہ قیامت کے دن ایسے شخص کو پل بنایا جائے گا اور لوگ اسے روندیں گے (۲)

(۱) سنن بیہقی جلد ۳ ص ۲۲۶، ۲۲۷ کتاب الحجۃ (۲) مصنف ابن ابی شیبہ جلد ۲ ص ۲۴۴ کتاب الصلوٰۃ

حضرت ابن جریج رضی اللہ عنہ سے مرسل روایت ہے۔ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن خطبہ دے رہے تھے کہ ایک شخص کو گردنیں پھلانگتے دیکھا حتیٰ کہ وہ آگے آگے بٹھ گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو اس شخص کے سامنے تشریف لائے اور ملاقات کے بعد فرمایا اے فلاں! تجھے کس چیز نے منع کیا کہ آج تو ہمارے ساتھ جمع ہوتا؟ اس نے عرض کیا اے اللہ کے نبی! میں آپ کے ساتھ ہی تو تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں نے نہیں دیکھا کہ تو لوگوں کی گردنیں پھلانگ رہا تھا؟ آپ نے اعمال کے ضائع ہونے کی طرف اشارہ فرمایا:

ایک سند حدیث میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”تجھے ہمارے ساتھ نماز پڑھنے سے کس بات نے منع کیا؟ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ! کہا آپ نے مجھے نہیں دیکھا؟ آپ نے فرمایا میں نے تجھے دیکھا تو دیر سے آیا اور توتے راحن بن کی تکلیف پہنچائی (۱)

اور بعض اوقات پہلی صف خالی ہوتی ہے تو اس کے لیے آگے گزرتا جائز ہوتا ہے کیونکہ ان لوگوں نے اپنے حق کو ضائع کر دیا اور فضیلت کی جگہ کو چھوڑ دیا حضرت حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ”ان لوگوں کی گردنیں پھلانگ کر آگے جاؤ جو جامع مسجد کے دروازے پر بیٹھے ہیں ان لوگوں کی کوئی عزت نہیں ہے“ اور اگر مسجد میں تمام لوگ نماز میں مصروف ہوں تو سلام نہیں کرنا چاہیے کیوں کہ یہ غیر محل میں جواب کی تکلیف دینا ہے۔

۶۔ پھٹی بات یہ ہے کہ لوگوں کے سامنے سے نہ گزرے بلکہ ستون یا دیوار کے پاس بیٹھ جائے تاکہ دوسرے بھی اس کے سامنے سے نہ گزریں مقصد یہ ہے کہ نمازی کے آگے سے نہ گزریں۔ کیوں کہ آگے سے گزرتا اگرچہ نماز کو نہیں توڑتا لیکن اس سے منع کیا گیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

کسی شخص کا چالیس سال کھڑا رہنا اس بات سے بہتر ہے کہ وہ نمازی کے آگے سے گزرے۔

لَا تَقِفْ أَرْبَعِينَ سَاعًا خَيْرٌ لَّكَ مِنْ
أَنْ يَمُرَّ بِكَ يَدَى الْمُصَلِّي (۲)

اور آپ نے فرمایا:

اگر آدمی باطل راگھ ہو جائے اور ہوا اسے ادھر ادھر پھینک دے یہ اس بات سے بہتر ہے کہ وہ کسی نمازی کے آگے سے گزرے۔

لَا تَكُونَنَّ الرَّجُلُ رَمَادًا
تَذْرُوهُ الرِّيحُ خَيْرٌ لَّهِ مِنْ أَنْ يَمُرَّ
بَيْنَ يَدَى الْمُصَلِّي (۳)

(۱) مصنف ابن ابی شیبہ جلد ۲ ص ۴۴۴ کتاب الصلوات

(۲) سنن امام احمد بن حنبل جلد ۲ ص ۱۱۱۶، روایات زید بن خالد

(۳)

ایک دوسری حدیث میں گزرنے والے اور اس نمازی کے بارے میں جو راستے میں نماز پڑھتا ہے یا دور کرنے میں کوتاہی کرتا ہے یوں آیا ہے۔

آپ نے ارشاد فرمایا:

اگر نمازی کے آگے سے گزرنے والا اور اس جگہ نماز پڑھنے والا جانتا کہ ان دونوں پر کیا عذاب ہوگا تو اس کے لیے گزرنے کی بجائے چالیس سال ٹھہرنا بہتر ہوتا۔

كُوَيْلِمًا الْمَارِيْنَ يَدِي الْمَصَلِّيِّ وَالْمَصَلِّيِّ مَا عَلَيْهِمَا فِي ذَلِكَ الْمَكَانِ لَكَانَ ابْتُ يَقِفَ اَرْبَعِيْنَ سَنَةً خَيْرًا لَّهِ مِنْ ابْتُ تَمْرِيْنَ يَدِيْهِ (۱)

ستون، دیوار اور بچھا ہوا مصلیٰ، نمازی کے لیے حد ہے جو آدمی اس سے تجاوز کرے (یعنی اندر آجائے) اسے دور کرنا چاہیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

چاہے کہ اسے دور کرے اگر وہ نہ مانے تو اس سے لڑے کیونکہ وہ شیطان ہے۔

يَبْدُقُهُ فَاِنْ اَبَى فَلْيَقَاتِلْهُ فَاِنَّهُ شَيْطَانٌ (۲)

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہما آگے سے گزرنے والے کو دور کرتے حتیٰ کہ اسے گرا دیتے بلکہ بعض اوقات تو وہ شخص آپ سے لپیٹ جاتا اور مروان کے پاس آپ کی شکایت کرتا۔ تو وہ مروان کو بتاتے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا حکم دیا ہے اور اگر ستون نہ ہو تو اپنے سامنے کوئی چیز کھڑی کرے جس کی لمبائی ایک شری گز (دو فٹ) ہو تاکہ وہ اس کی حد کی علامت بن جائے۔

۴۔ ساتویں بات یہ ہے کہ پہلی صف کی طلب کرے کیوں کہ اس کی فضیلت زیادہ ہے جیسا کہ ہم نے روایت کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”جس نے غسل کیا اور غسل کروایا ربوی سے جماع کی طرف اشارہ ہے) اور صبح صبح کر امام کے قریب ہوا اور غور سے سنا تو یہ دو جموں کے درمیان والے دنوں اور مزدتین دنوں کے لیے کفارہ ہے۔“ (۳)

دوسری حدیث کے الفاظ یوں ہیں ”اللہ تعالیٰ اسے دوسرے جمعہ تک کے لیے بخش دیتا ہے“ (۴)

(۱) کنز العمال جلد ۱، ص ۳۵۵ حدیث ۱۹۲۵۰

(۲) صحیح مسلم جلد اول ص ۱۹۶ باب منع الماریین یدی المصلی۔

(۳) مستدرک للحاکم جلد اول ص ۲۸۲ کتاب الجمعة۔

(۴) مستدرک للحاکم جلد اول ص ۲۳۸ کتاب الجمعة۔

اور بعض روایت میں یہ شرط رکھی ہے کہ وہ لوگوں کی گردنیں نہ پھلانگے۔
صف اول میں تین باتوں سے غافل نہ رہے۔

۱۔ جب خطیب میں ایسی چیز دیکھے جو جو میری ہو لیکن یہ اسے بدل نہیں سکتا مثلاً اس نے پاکسی دوسرے آدمی نے
ریشم وغیرہ پہنا ہوا ہو یا ایسے ہتھیار میں نماز پڑھے جو زیادہ ہیں، بھاری ہیں اور نماز سے توجہ کو بھرنے والے ہیں یا سنہری ہتھیار
وغیرہ ایسی چیزیں ہوں جن پر اعتراض کرنا اس شخص پر واجب ہو تو اس کے لیے چھپے رہنے زیادہ حفاظت اور سوچ کو بٹنے
سے بچانے کا باعث ہے۔ علماء کرام کی ایک جماعت نے سلامتی کی طلب میں ایسا کیا ہے۔

حضرت بشر بن حارث رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ ہم دیکھتے ہیں آپ سویرے سویرے آتے ہیں لیکن آخری صفوں میں نماز
پڑھتے ہیں انہوں نے فرمایا دلوں کا قرب مطلوب ہے جموں کا نہیں انہوں نے اس بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ یہ عمل دل کو زیادہ
محفوظ رکھتا ہے حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ نے حضرت شعیب بن حرب کو منبر کے پاس دیکھا کہ وہ ابو جعفر منصور کا خطبہ غور
سے سن رہے تھے جب وہ نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا کہ تمہارا اس شخص کے قریب ہونا میرے دل کی مشغولیت کا
کا باعث بنا کیا اس بات سے بے خوف ہیں کہ کوئی ایسی بات سنیں جس کا انکار آپ پر واجب ہو لیکن آپ اسے بچانہ
لا سکیں۔

پھر انہوں نے ان لوگوں (حکمرانوں) کی بدعت کا ذکر کیا کہ انہوں نے سیاہ کپڑے پہنا شروع کئے ہیں حضرت شعیب بن
حرب نے فرمایا کیا حدیث شریف میں نہیں آیا کہ قریب ہو کر غور سے سناؤ (۱)

انہوں نے فرمایا تمہیں خرابی سویرے تو خلفاء راشدین کے بارے میں ہے جو ہدایت یافتہ لوگ تھے جہاں تک ان لوگوں کا تعلق
ہے تو تم ان سے جس قدر دور ہو گے اور ان کو نہیں دیکھو گے اللہ تعالیٰ سے اتنا ہی زیادہ قرب حاصل ہوگا۔

حضرت سعید بن عامر فرماتے ہیں میں نے حضرت ابو درداد رضی عنہ کے پہلو میں نماز پڑھی تو وہ پھلی صفوں میں آنے لگے حتیٰ کہ ہم
آخری صف میں چلے گئے نماز پڑھنے کے بعد میں نے ان سے پوچھا کیا یہ نہیں کہا گیا کہ سب سے بہتر صف، پہلی صف ہے؟
انہوں نے فرمایا ہاں لیکن یہ انت تمام اتنوں میں سے مراد ہے اللہ تعالیٰ جب نماز میں کسی بندے کو دیکھتا ہے تو اسے بھی
اور اس کے چھپے جتنے لوگ ہیں سب کو بخش دیتا ہے تو میں اس امید پر چھپے ہو گیا کہ ان میں سے کسی کی طرف اللہ تعالیٰ
نظر رحمت سے دیکھے تو مجھے بھی بخش دے (۲)

کسی راوی نے روایت کیا فرماتے ہیں میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ نے یہ بات فرماتی ہے تو

(۱) السنن البکری بلقی جلد ۲ ص ۲۳۸ کتاب الجمعة

(۲) کنز العمال جلد ۱۲ ص ۱۵۹ حدیث ۴۲۴۳

جو شخص اس نیت سے ایثار کے طور پر اور اچھے اخلاق کو ظاہر کرتے ہوئے پہلی صفوں میں رہے تو کوئی حرج نہیں ایسے موقعہ کے لیے کہا جاتا ہے اعمال کے ثواب کا دار و مدار نیت پر ہے۔

۷۲۔ اگر خطیب کے پاس کوئی جگہ مسجد سے الگ بادشاہوں کے لیے مختص نہ ہو تو پہلی صف پسندیدہ ہے ورنہ اس مخصوص جگہ میں داخل ہونے کو بعض علماء نے مکروہ قرار دیا ہے حضرت حسن بصری اور حضرت بکر مزنی رحمہما اللہ مقصورہ (مخصوص جگہ) میں نماز نہیں پڑھتے تھے اور ان کا خیال تھا کہ یہ حکمرانوں کے لیے مخصوص ہے اور یہ بدعت ہے جو سرکارِ دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مساجد میں نکالی گئی مسجد تو سب لوگوں کے لیے برابر ہے اور یہ اس کے خلاف الگ حصہ بنا دیا گیا حضرت انس بن مالک اور عمران بن حصین نے مقصورہ میں نماز پڑھی ہے اور قرب کے سبب اس کو مکروہ خیال نہیں کیا شاید کرامت تخصیص اور دوسرے لوگوں کو منع کرنے کی وجہ سے ہو کیونکہ جب تک ممانعت نہ ہو محض مقصورہ میں کوئی کرامت نہیں۔

۳۔ منبر بعض صفوں کو کاٹتا ہو تو پہلی صف میں ایک صف ہے جو متصل ہے اور منبر کے بعد ہے جو کچھ اس منبر کے دائیں بائیں ہے وہ غیر متصل ہے۔ (پہلی صف نہیں کہنا گئے کیونکہ اس میں اتصال نہیں رہا) حضرت سفیان ثوری فرمایا کرتے تھے کہ پہلی صف وہ ہے جو منبر کے اگلے حصے سے خارج ہو اور سامنے ہو یہ بات صحیح ہے کیونکہ وہ متصل ہے نیز اس پر بیٹھنے والا خطیب کے بالمقابل ہوتا ہے اور اس سے متناہ ہے اور یہ بات کہنا بھی بعید نہیں کہ قبیلہ کے جو زیادہ قریب ہے وہ پہلی صف ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس معنی کی رعایت نہ کی جائے۔ بازاروں، اور مسجد سے خارج چوکوں میں نماز پڑھنا مکروہ ہے بعض صحابہ کرام اس پر سزا دیتے اور انہیں چوکوں سے اٹھا دیتے تھے۔

۸۔ آداب جمعہ میں سے آٹھواں ادب یہ ہے کہ امام جب منبر کی طرف نکلے تو نماز پڑھنا اور کلام کرنا چھوڑ دے اور مؤذن کی اذان کا جواب دینے اور پھر اچھی طرح خطبہ سننے میں مشغول ہو جائے بعض لوگوں کی عادت ہے کہ جب مؤذن اذان کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو وہ سجدہ کرتے ہیں حالانکہ کسی حدیث اور روایت میں اس کی اصل ثابت نہیں البتہ اگر اس وقت سجدہ تلاوت لازم ہو تو دعا کو لمبا کرنے میں کوئی حرج نہیں کیوں کہ وقت فضیلت ہے لیکن اس سجدے کو حرام نہ کہا جائے کیونکہ اس کی حرمت کی کوئی وجہ نہیں۔

حضرت علی المرتضیٰ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہما سے مروی ہے ان دونوں نے فرمایا جس نے غور سے سنا اور خاموش رہا اس کے لئے دواجر میں۔ اور جس نے غور سے نہ سنا لیکن خاموش رہا اس کے لیے ایک اجر ہے اور جس نے سنا لیکن لغو کاموں میں لگا رہا اس پر دو گناہ ہیں اور جس نے نہیں سنا اور فضول کاموں سے مصروف رہا اس پر ایک گناہ ہے۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
مَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ وَأَنْ مَأْمَدٍ يَخْطُبُ
امام کے خطبہ کے دوران جس نے اپنے ساتھی سے

کہا خاموش رہو ٹھہراؤ تو اس نے لغو کام کیا اور جس نے امام کے خطبہ کے دوران لغو کام کیا اس کو جمعہ کا ثواب نہیں ملے گا۔

اَلصَّيْتُ اَدْوَمَةٌ فَقَدْ لَغَا وَمَنْ لَغَا وَالِدِمَامٍ
يَحْتَبُ فَلَا جَمْعَةَ لَكَ (۱)

❖ ❖ ❖

اس میں اس بات پر دلالت ہے کہ خاموش کرانے کے لیے اشارہ کرے یا کوئی کنکری ماری چاہیے زبان سے نہ ہو۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے "نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے کہ انہوں نے (حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے) حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ فلاں سورت کب نازل ہوتی ہے تو انہوں نے اشارے سے خاموش ہونے کو کہا سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم منبر سے اترے تو حضرت ابی بن کعب نے حضرت ابو ذر سے فرمایا آپ جابئیے آپ کا جمعہ نہیں ہوا۔ انہوں نے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی تو آپ نے فرمایا حضرت ابی نے سچ کہا ہے (۲)

اور اگر امام سے دور ہو تو بھی مناسب نہیں کہ علم یا کسی دوسرے موضوع پر گفتگو کرے بلکہ خاموش رہنا چاہیے کیونکہ ان سب میں تسلسل ہوتا ہے اور بھٹنا ہٹ پیدا ہوتی ہے جو ان لوگوں تک پہنچ جاتی ہے جو غور سے سن رہے ہوتے ہیں۔ اور گفتگو کرنے والوں کے حلقہ میں بھی نہیں بیٹھنا چاہیے تو جو آدمی دور ہونے کی وجہ سے سنتے سے عاجز ہو وہ خاموش رہے یہ مستحب ہے جب خطبہ امام کے دوران نماز پڑھنا مکروہ ہے تو کلام کرنا بدرجہ اولیٰ مکروہ ہوگا، حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں چار اوقات میں نماز پڑھنا مکروہ ہے فجر کے بعد، عصر کے بعد دوپہر کے وقت اور جب امام خطبہ دے رہا ہو۔

۹۔ نواں ادب یہ ہے کہ جمعہ کی اقتدا میں ان امور کا خیال رکھے جو ہم نے غیر جمعہ کے بارے میں بیان کئے ہیں اور جب امام کی قرات سننے تو سورہ فاتحہ کے علاوہ نہ پڑھے (احناف کے نزدیک اس وقت بالکل قرأت نہ کرے) اور جب جمعہ سے فارغ ہو جائے تو کلام کرنے سے پہلے سات مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھے سات مرتبہ سورہ اخلاص (قل ہو اللہ احد) اور سات سات مرتبہ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھے بعض بزرگوں سے مروی ہے کہ جو آدمی یہ عمل کرنا ہے وہ جمعہ سے جمعہ تک محفوظ ہو جاتا ہے اور یہ اس کے لیے شیطان سے حفاظت کا باعث ہے۔ جمعہ کے بعد یہ کلمات پڑھنا مستحب ہے۔

اے اللہ! اے غنی اے تعریف والے اے ابتداء

اللَّهُمَّ يَا غَنِيَّ يَا حَمِيدًا يَا مُبْدِيَّ

(۱) الترتیب والترتیب جلد اول ص ۱۰۵ کتاب الحجۃ

(۲) الترتیب والترتیب جلد اول ص ۱۲۶

پیدا کرنے والے ہے (قیامت کے دن) لوٹانے والے
اسے رحمت والے اسے محبت کرنے والے اپنے حلال
کے ساتھ حرام سے اور اپنے فضل کے ساتھ ناسوا سے
بے نیاز کر دے۔

مَعِيذٌ بِأَرْحَمِهِ يَا وَدُّدٌ أَعْنِي بِحَلَالِكَ
عَنْ حَلَامِكَ وَبِفَضْلِكَ عَمَّنْ
سِوَاكَ۔

کہا جاتا ہے کہ جو شخص یہ دعا ہمیشہ مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اپنی مخلوق سے بے نیاز کر دیتا ہے اور اسے وہاں سے
برق دیتا ہے جہاں کا اسے گمان بھی نہیں ہوتا پھر جمعہ کے بعد چھ رکعتیں پڑھے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے بعد دو رکعتیں پڑھتے تھے (۱)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ چار رکعات پڑھتے تھے (۲)
حضرت علی المرتضیٰ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے چھ رکعتوں کے بارے میں مروی ہے (۳)
مختلف حالات میں یہ تمام صحیح ہیں اور افضل یہ ہے کہ زیادہ مکمل پڑھے (یہ یعنی چھ رکعات پڑھے)

۱۔ سوال ادب یہ ہے کہ عصر کی نماز پڑھنے تک مسجد میں ہی رہے اور اگر نماز مغرب تک ٹھہرے تو افضل ہے، کہا
جاتا ہے کہ جس نے عصر کی نماز جامع مسجد میں پڑھی اس کے لئے حج کا ثواب ہے اور جس نے مغرب کی نماز بھی پڑھی اس
کے لئے حج اور عمرے کا ثواب ہے اور اگر اسے اس بات کا ڈر نہ ہو کہ اس سے بناوٹ کا اظہار ہو گا یا لوگوں کے اس
کے اعتکاف کو دیکھنے سے کوئی مصیبت آئے گی یا بے مقصد گفتگو میں مشغول ہو جائے گا تو ٹھیک ہے ورنہ اپنے گھر کی
طرف لوٹ آئے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے اس کی نعمتوں میں شکر کرے اور اس کی توفیق پر شکر ادا کرے اپنی کوتاہیوں پر خوف
زدہ ہو دل اور زبان کی حفاظت کرے سورج کے غروب ہونے تک اسی طرح رہے تاکہ اس سے فضیلت والی

گھڑی نکل نہ جائے۔ جامع مسجد یا دوسری مساجد میں دینی گفتگو نہ کرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
يَا أَيُّهَا عَلَى النَّاسِ نَمَانٌ يَكْفُرُونَ حَدِيثُهُمْ
فِي مَسَاجِدِهِمْ أَمْ رَدِيْنَا هُمُ لَيْسَ لِلَّهِ تَعَالَى
فِيهِمْ حَاجَةٌ فَلَا تُجَابِلُ سُوْرَهُمْ (۴)

لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ ان کے دینی معاملات
کے بارے میں گفتگو مساجد میں ہوگی اللہ تعالیٰ کو ان
لوگوں کی کوئی ضرورت نہیں پس ان کے پاس نہ بیٹھو۔

(۱) صحیح مسلم جلد اول ص ۲۸۸ کتاب الحجۃ

(۲) صحیح مسلم جلد اول ص ۲۸۸ کتاب الحجۃ

(۳) سنن ابی داؤد جلد اول ص ۱۶۰ باب الصلوٰۃ بعد الحجۃ

(۴) کنز العمال جلد ۱۰ ص ۲۰۵ حدیث ۲۹۰۸۶

بعض دیگر سن و آداب

ترتیب سابق سے الگ سن و آداب جو تمام دن سے متعلق ہیں اور وہ سات باتیں ہیں۔
 ۱۔ صبح یا عصر کے بعد مجالس علم میں حاضر ہونے کا قصہ گو لوگوں (جیسے آج کل کے واعظین
 ہیں) کی مجلسوں میں نہ جائے اور ان کے کلام میں کوئی بھلائی نہیں۔ اور سالک (صوفی) راہ پر چلنے والے کو چاہئے کہ وہ جمعہ کا پورا
 دن اچھے کاموں اور دعاؤں میں مشغول رہے تاکہ اسے وہ فضیلت والی بھلائی مل جائے جو بہتر ہے نماز سے پہلے منع ہونے
 والے حلقوں میں نہ جائے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے فرماتے ہیں۔

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ
 التَّحَلُّقِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ (۱)

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن نماز سے پہلے
 حلقے بنانے سے منع فرمایا۔

مگر یہ کہ کوئی شخص عالم باللہ ہو، اللہ تعالیٰ کے انعامات اور عذاب کے دنوں کا ذکر کرتا ہو دین کی سمجھ رکھتا ہو صبح کے
 وقت جامع مسجد میں درس دیتا ہو تو اس کے پاس بیٹھے اس طرح وہ جلدی آنے اور غور سے سنتے کو جمع کرتے گا۔ آخرت میں
 نفع دینے والے علم (کی باتوں) کو غور سے سنتا نوافل میں مشغول ہونے سے بہتر ہے۔ حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ
 سے مروی ہے کہ مجلس علم میں حاضری ایک ہزار رکعات سے افضل ہے (۲)

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے ارشاد خداوندی۔

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَاتَسْتَرُوا فِي الْأَرْضِ
 وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ (۳)

جب نماز ادا ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ تعالیٰ
 کا فضل تلاش کرو۔

کے بارے میں فرمایا کہ دنیا طلب کرنا نہیں بلکہ مرضی کی عبادت اور جنارے میں حاضری ہے نیز تعلیم و تعلم اور دینی بھائی سے
 ملاقات کرنا ہے اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پر علم کو اپنا فضل قرار دیا ہے۔

ارشاد خداوندی ہے:

وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ وَكَاتَمَ
 فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا (۴)

اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ سب کچھ سکھا دیا جو آپ جانتے
 نہیں تھے اور یہ آپ پر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے۔

اور ارشاد خداوندی ہے:

(۱) سنن نسائی جلد اول ص ۱۱ کتاب المساجد۔

(۲) الاسرار المرفوعة ص ۱۱۳ حدیث ۲۶۴

(۳) قرآن مجید سورہ جمعہ آیت ۱۹

(۴) قرآن مجید سورہ نساء آیت ۱۱۳

وَلَقَدْ اتَّيْنَاكَ اَوْدُنًا فَضْلًا (۱)
اور بے شک ہم نے حضرت داؤد علیہ السلام کو فضل عطا کیا۔
اس سے علم مراد ہے لہذا اس دن (جمعہ کے دن) تعلیم و تعلم سب سے افضل عبادت ہے اور واعظین کی مجلس سے نماز
افضل ہے کیونکہ بزرگوں نے اسے بدعت قرار دیا اور وہ جامع مسجد سے قصہ گو واعظین کو نکالتے تھے۔

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما صبح صبح جامع مسجد میں اپنی مجلس کی طرف تشریف لے گئے تو وہاں ان کی جگہ یہ ایک قصہ گو
قصہ بیان کر رہا تھا انہوں نے فرمایا میری جگہ سے اٹھو اس نے کہا میں نہیں اٹھوں گا میں آپ سے پہلے آ کر یہاں بیٹھا ہوں
چنانچہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے ایک پولیس والے کو بلا کر اسے اٹھایا اگر یہ عمل سنت سے ہوتا تو اسے اٹھانا جائز نہ ہوتا،
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

لَا يَهْتَمُّ أَحَدُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَفْسَحُونَ وَتَوَسَّعُوا - (۲)
تم میں کوئی اپنے بھائی کو اس کی مجلس سے اٹھا کر خود
وہاں نہ بیٹھے بلکہ دوسرے کے لیے (گنجائش بناؤ۔

اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کا طریقہ یہ تھا کہ جب کوئی شخص اپنی جگہ سے اٹھتا تو وہاں نہ بیٹھتے حتیٰ کہ وہ وہاں لوٹ آتا
یہاں کہا گیا ہے کہ ایک قصہ گو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرہ مبارکہ کے باہر کھلی جگہ میں بیٹھا تھا تو انہوں نے حضرت ابن
عمر رضی اللہ عنہما کو پیغام بھیجا کہ اس نے اپنی قصہ گوئی سے مجھے اذیت پہنچائی اور مجھے تسبیح سے روک دیا ہے چنانچہ حضرت
ابن عمر رضی اللہ عنہما نے اسے مارا حتیٰ کہ آپ کی لالٹھی اس کی پیٹھ پر ٹوٹ گئی پھر آپ نے اسے پھینک دیا۔
۲۔ بہترین ساعت کی اچھی طرح نگرانی کرے اور تاک میں رہے ایک مشہور روایت میں ہے۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
إِنِّي الْجُمُعَةَ سَاعَةً لَوْ لَوِ افْتَقَهَا عَبْدٌ مِّنْكُمْ
يَسْأَلُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ شَيْئًا إِلَّا عَطَاهُ (۳)
بے شک جمعہ کے دن ایک ایسی ساعت ہے کہ جس شخص
کو حاصل ہو جائے اور وہ اس میں اللہ تعالیٰ سے کچھ سوال
کرے تو وہ اسے عطا فرماتا ہے۔

ایک دوسری روایت میں ہے:
لَوْ يَصَارُ فِيهَا عَبْدٌ يُصَلِّي (۴)
وہ کسی بندے کو موافق ہو جائے اور وہ اس میں نماز پڑھے۔

(۱) قرآن مجید سورہ سبأ آیت ۱۰

(۲) السنن الکبریٰ للبیہقی جلد ۳ ص ۳۳۲ کتاب الجمعة

(۳) صحیح مسلم جلد اول ص ۲۸۱ کتاب الجمعة

(۴) الکامل للعدی جلد اول ص ۲۲ ترجمہ عبداللہ بن سلام / مسند امام احمد بن حنبل جلد ۲ ص ۳۸۶ مرویات ابوہریرہ

اس میں اختلاف ہے کہ وہ کونسی ساعت ہے (کہا گیا کہ طلوع آذنان کے وقت ہے یہ بھی کہا گیا ہے کہ نواں کے وقت ہے ایک قول یہ ہے کہ اذان کے ساتھ ہے بعض نے کہا کہ جب امام منبر پر چلا جائے اور خطبہ شروع کر دے کہا گیا ہے کہ جب وہ نماز کے لیے کھڑا ہو جائے بعض نے کہا کہ عصر کا آخری مستحب وقت ہے کسی نے کہا سورج غروب ہونے سے پہلے ہے۔

حضرت خاتونِ جنت فاطمہ الزہراء رضی اللہ عنہا اس وقت کا خیال رکھا کرتی تھیں اور اپنی خادمہ کو حکم دیتی کہ وہ سورج کی طرف دیکھے اور اس کے جھکنے کی اطلاع کرے چنانچہ اس وقت وہ دعا اور استغفار میں مبتلا ہو جائیں حتیٰ کہ سورج غروب ہو جانا اور بتائیں کہ یہ وہ گھڑی ہے جس کی انتظار کی جاتی ہے اور اسے اپنے ابا جان سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتیں۔ (۱)

بعض علماء نے فرمایا یہ لیلة القدر کی طرح پوشیدہ ہے اور پورے دن میں ہے تاکہ اس کی حفاظت کی طلب زیادہ ہو بعض نے فرمایا کہ یہ لیلة القدر کی طرح جمعہ کی مختلف ساعتوں میں بدلتی رہتی ہے یہ مفہوم زیادہ مناسب ہے اور اس میں ایک راز ہے جس کا ذکر علمِ معاملہ کے مناسب نہیں ہے لیکن جو کچھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی تصدیق ضروری ہے۔ آپ نے فرمایا:

إِنَّ لَيْلَتِكُمْ فِي أَيَّامٍ دَهْرِكُمْ لَصَحَابَاتٍ آوَى
فَتَعَرَّضُوا لَهَا (۲)

بے شک تمہارے اس زمانے کے دنوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشبودار جھونکے ہیں سنو! ان کو حاصل کرو۔
اور جمعہ کا دن بھی انہی ایام میں سے ہے لہذا بندے کو چاہیے کہ پورا دن دل کی حاضری کے ساتھ اس کے درپے رہے ذکر کو لازم پکڑے اور دنیا کے وسوسوں سے الگ تھلگ ہے ہو سکتا ہے ان خوشبودار جھونکوں میں سے کوئی جھونکا اسے حاصل ہو جائے۔

حضرت کعب اجبار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ جمعہ کے دن آخری گھڑی ہے۔ اور یہ غروب کے وقت ہوتی ہے حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا وہ گھڑی کیسے ہو سکتی ہے حالانکہ میں نے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرماتے تھے کہ وہ ایسے بندے کے موافق ہوتی ہے جو نماز پڑھتا ہے اور یہ نماز کا وقت نہیں حضرت کعب نے فرمایا کیا سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا:

مَنْ قَعَدَ يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ فَهُوَ فِي
بِشْرٍ مَنْ مَنَّا فِي انْتِظَارِهَا فِيهَا هِيَ وَهِيَ مَنْ مَنَّا فِي انْتِظَارِهَا

(۱) شعب الایمان جلد ۲ ص ۳۹ و فضل الجمعة حدیث۔

(۲) مجمع الزوائد جلد ۱۰ ص ۲۳۱ باب التعرض لفتحات رحمة اللہ

ہوتا ہے۔

انہوں نے فرمایا ہاں یہ تو فرمایا ہے تو حضرت کعب نے فرمایا تو یہ نماز ہی ہے۔ اس پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئے۔

حضرت کعب رضی اللہ عنہ اس بات کی طرف مائل تھے کہ یہ اس دن کا حق پورا کرنے والوں کے لیے رحمت ہے اور اس کو بھیجنے کا وقت وہ جب اُرمی عمل سے مکمل طور پر فارغ ہو جاتا ہے خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ باعث فضیلت رقت ہے اور جب امام منبر پر جاتا ہے لہذا ان دونوں وقتوں میں زیادہ سے زیادہ دعا مانگی جائے۔

۳۔ اس دن زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھنا مستحب ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

جس نے جمعہ کے دن مجھ پر اسی مرتبہ درود شریف پڑھا اللہ تعالیٰ اس کے اسی سال کے گناہ بخش دے گا عرض کیا گیا یا رسول اللہ! آپ پر درود شریف کیسے پڑھیں آپ نے فرمایا یوں پڑھو اللہم صل علی محمد (آخر تک) اسے اللہ حضرت محمد مصطفیٰ اور آپ کی آل پر رحمت نازل فرما ایسی رحمت جو تیری رضا کا باعث اور سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق کی ادائیگی ہو اور آپ کو وہ مقام محمود عطا فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا اور آپ کو ہماری طرف سے وہ جزا عطا فرما جو آپ کے شاہانِ شان ہے اور اس سے افضل بدلہ عطا فرما جو تو نے کسی نبی کو اس کی امت کی طرف سے عطا آپ پر اور آپ کے تمام بھائیوں یعنی انبیاء کرام اور صالحین پر رحمت فرما اسے سب سے زیادہ رحم فرمانے والے۔

مَنْ صَلَّى عَلَيَّ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ ثَمَانِينَ مَرَّةً
عَفَرَ اللَّهُ لَهُ ذُنُوبَ ثَمَانِينَ سَنَةً قِيلَ يَا رَسُولَ
اللَّهِ كَيْفَ الصَّلَاةُ عَلَيْكَ؟ قَالَ تَقُولُ: اللَّهُمَّ
صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَنَبِيِّكَ وَرَسُولِكَ
النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَتَعَقَّدْ وَاحِدَةً، وَإِنْ قُلْتَ
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ
صَلَاةً تَكُونُ لَكَ رِضَاءً وَلِحَقِيهِ إِدَاءٌ وَأَعْطِيهِ
الْوَسِيلَةَ رَابِعُهُ الْمَقَامَ الْمُحْمَدِيُّ الَّذِي
وَعَدْتَهُ وَأَجْزِيَهُ عَنَّا مَا هُوَ أَهْلُهُ وَأَجْزِيَهُ
أَفْضَلَ مَا جَازَيْتَ نَبِيًّا عَنَّا، وَصَلِّ
عَلَيْهِ وَعَلَى جَمِيعِ إِخْوَانِهِ مِنَ النَّبِيِّينَ
وَالصَّالِحِينَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ۔ (۲)

سات بار پڑھے کہا گیا کہ ہر شخص سات جمعوں میں اس طرح پڑھے کہ ہر جمعہ میں سات بار پڑھے اس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت واجب ہوگی اور اگر اس میں اضافہ کرنا چاہے تو احادیث میں مروی یہ درود شریف پڑھے۔
اللَّهُمَّ اجْعَلْ فِتَائِلَ صَلَوَاتِكَ وَنَوَاحِي

اسے اللہ اپنا بزرگ ترین درود (رحمت) پڑھنے والی کرتی

(۱) شعب الایمان جلد ۳ ص ۹۲ باب فضل الحجۃ

بِرَّكَاتِكَ وَشَرَائِفِ زَكَوَاتِكَ وَرَأْدَتِكَ وَرَحْمَتِكَ
 وَتَحَنُّنِكَ عَلَيَّ مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ
 وَرَأْمَاهِ الْمُتَّقِينَ وَخَائِنِي النَّبِيِّينَ وَ
 رَبِّ الْعَالَمِينَ قَائِدِ الْخَيْرِ وَقَاتِحِ الْبِرِّ
 وَنَبِيِّ الرَّحْمَةِ وَسَيِّدِ الْأُمَّةِ اللَّهُمَّ
 ابْنُ مَقَامًا مَحْمُودًا تَزَلُّفُ بِهِ قَرَبَهُ عَيْنٌ
 يَغِيظُهُ بِهِ الْأَوْلُونَ وَالْآخِرُونَ اللَّهُمَّ
 أَعْطِرِ الْفَضْلَ وَالْفَضِيلَةَ وَالشَّرَفَ
 وَالْوَسِيلَةَ وَالذَّرَجَةَ الرَّفِيعَةَ وَالْمَنْزِلَةَ
 الشَّافِعَةَ الْمُنِيفَةَ اللَّهُمَّ أَعْطِ مُحَمَّدًا
 سُؤْلَهُ وَبَلِّغْهُ مَا أَمْرُهُ وَاجْعَلْهُ أَوَّلَ شَائِعِ
 وَأَدَلِّ مُشْفَعٍ اللَّهُمَّ عَظِّمْ بَرَهَانَهُ وَثَقِّلْ
 مِيزَانَهُ وَابْلُغْ حُجَّتَهُ وَارْفَعْ فِي أَعْلَى
 الْمُقَرَّبِينَ دَرَجَتَهُ اللَّهُمَّ احْشُرْنَا فِي
 زَمَانِهِ وَاجْعَلْنَا مِنْ أَهْلِ شَفَاعَتِهِ
 وَاحْنِنَا عَلَى سُنَّتِهِ وَتَوَقَّنَا عَلَى مِلَّتِهِ
 وَأُورِدْنَا حَوْصَتَهُ وَأَسْقِنَا بِكَاسِهِ عَيْرَ
 خُذَايَاؤِكَ نَادِمِينَ وَلَا سَاكِينَ وَلَا مُبَدِّلِينَ
 وَلَا قَاتِنِينَ وَلَا مُفْتُونِينَ، آمِينَ
 يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ ۝

بہترین خوبی، اپنی بخشش اپنی رحمت اور اپنا سلام حضرت
 محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرما جو تمام رسولوں
 کے سردار، رہنما، سرکاروں کے امام، آخری نبی اور تمام
 جہانوں کے سب کے رسول میں بھلائی کی طرف سے جانے
 والے نیکی کے دروازے کو کھولنے والے، نبی رحمت
 اور امت کے سردار میں یا اللہ ان کو مقام محمود پر فائز فرما
 جس کے سبب ان کے قرب کو اور قریب کر دے اس کے
 سبب ان کی آنکھوں کو ٹھنڈی کر دے کہ ان پر پیلے اور پھلے
 رشک کریں یا اللہ! سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو فضل،
 فضیلت، بزرگی، وسیلہ بلند درجہ، بلند مرتبہ عطا فرما حضرت
 محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال کو پورا فرما ان کی امید ان
 تک پہنچا نہیں پہلا شفاعت کرنے والا اور مقبول شفاعت
 بنا دے یا اللہ ان کی دلیل کو بزرگی عطا فرما ان کے ترازو
 کو بھاری کر دے ان کی دلیل کو سنبھلنے والی بنا دے بلند
 تر مقربین میں ان کا مرتبہ بلند فرما یا اللہ! ہمیں ان کے زمرہ
 (جماعت) میں اٹھانا ان کی شفاعت کے مستحقین میں سے
 کر دے آپ کی سنت پر زندہ رکھ اور آپ کی ملت پر موت
 دے ہمیں آپ کے حوض پر اتار دے آپ کے پیالہ سے
 سیراب کرنا اس حال میں کہ ہم رسوا نہ ہوں نہ نادوم ہوں اور نہ
 شک کرنے والے نہ تہمتی کرنے والے اور نہ بدلنے والے
 نہ گمراہ کرنے والے اور نہ گمراہ کئے گئے اسے تمام جہانوں
 کے رب ہماری دعا کو قبول فرما ۝

(۱)

خلاصہ یہ ہے کہ درود شریف کے جو الفاظ بھی پڑھے چاہئے وہ الفاظ ہوں جو شہد میں مشہور ہیں (درود ابراہیمی) ۝

درود شریف پڑھنے والا ہوگا اور مناسب ہے کہ اس کے ساتھ استغفار بھی ملائے کیوں کہ یہ بھی اس دن مستحب ہے۔
۲۔ اس دن قرآن پاک کثرت سے پڑھے بالخصوص سورہ کہف کی تلاوت کرے حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے۔

جو شخص جمعہ کی رات یا دن میں سورہ کہف پڑھے اسے وہاں سے لے کر جہاں وہ پڑھنا سے مکہ مکرمہ تک روشنی عطا کی جاتی ہے اور آئندہ جمعہ تک کے گناہ بخش دیئے جاتے ہیں۔ بلکہ تین دن زائد کے گناہ بھی۔ اس کے لیے صبح تک ستر ہزار فرشتے رحمت کی دعا کرتے ہیں وہ بیماری سے، پیٹ کے چھوٹے پہلو کے درد، برص اور گورٹھ کے مرض سے تیز و حال کے فتنہ سے بچایا جاتا ہے۔

أَنْ مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْكَهْفِ كَيْلَةَ الْجُمُعَةِ
أَوْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أُعْطِيَ نُورًا مِنْ حَيْثُ يَفْرُدُّهَا
إِلَى يَوْمِ الْجُمُعَةِ الرَّحْمَى وَفَضْلَ تَلَاثَةِ
آيَاتِهِ وَصَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ حَتَّى
يُصْبِحَ وَعُوفَى مِنَ الدَّاءِ وَالذَّبْحَةِ
وَنَاتِ الْجَنْبِ وَالْبَرَصِ وَالْجَدِّ أَمْرًا قَبْلَةَ
الْمَدَّجَالِ - (۱)

اگر ممکن ہو تو جمعہ کے دن اور رات میں قرآن مجید مکمل ختم کرے اور اگر رات کو پڑھے تو مناسب ہے کہ ختم قرآن صبح کی دو رکعتوں میں ہو، یا مغرب کی دو رکعتوں میں یا جمعہ کی اذان اور اقامت کے درمیان ہو، اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے عبادت گزار لوگ جمعہ کے دن ایک ہزار مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھنا پسند کرتے ہیں، اور کہا گیا کہ جو شخص دس یا بیس رکعات میں اسے پڑھے تو یہ پورے ختم سے افضل ہے اور وہ لوگ ہزار بار بار گاہ نبوی میں درود شریف کا نذرانہ بھیجتے تھے اور ایک ہزار مرتبہ "سبحان اللہ، الحمد للہ، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر" پڑھتے تھے اور اگر جمعہ کے دن رات میں وہ چھ سو مرتبہ پڑھے جن کے شروع میں تسبیح ہے (۱) تو یہ اچھا ہے۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات مروی نہیں ہے کہ آپ جمعہ کے علاوہ کوئی معین سورت پڑھتے ہوں جمعہ کی رات مغرب کی نماز میں سورہ الکافرون اور سورہ اخلاص پڑھتے اور عشاء کی نماز میں سورہ جمعہ اور سورہ منافقین پڑھتے تھے (۲) ایک روایت میں ہے کہ آپ جمعہ کی دونوں رکعتوں میں یہ سورتیں پڑھتے تھے جمعہ کے دن فجر کی نماز میں "سورہ سجدہ لقمان اور صل آلی علی الانسان" پڑھتے (۳)

(۱) تفسیر قرطبی جلد ۲ ص ۲۰۹ تحت سورہ کہف

(۲) وہ سورتیں یہ ہیں سورہ حدید، سورہ حشر، سورہ صف، سورہ جمعہ سورہ لقمان سورہ الاعلیٰ۔

(۳) شرح السننہ جلد ۲ ص ۸۱ القرآن فی الصبح

(۴) صبح مسلم جلد اول ص ۲۸۸ کتاب الجمعہ۔

۵۔ جب جامع مسجد میں داخل ہو تو چار رکعات پڑھنا مستحب ہے اور اس میں دو سو مرتبہ قل ہو اللہ احد پڑھے یعنی ہر رکعت میں سچاں بار پڑھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ جو شخص اس طرح کرے گا وہ مرنے سے پہلے جنت میں اپنا ٹھکانا دیکھ لے گا۔ یا اسے دکھا دیا جائے گا۔ (۱)

تختہ المسجد کی دو رکعتوں کو نہ چھوڑے اگرچہ امام خطبہ دے رہا ہو لیکن مختصر پڑھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا ہے (۲) احقان کے نزدیک خطبہ کے دوران کوئی نماز پڑھنا جائز نہیں (۱۲ ہزار روئے) ایک قریب (غیر مشہور) حدیث میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آنے والے کے لیے خطبہ سے خاموش ہو گئے حتیٰ کہ اس نے دو رکعتیں ادا کیں تو کوئی حضرات کہتے ہیں اگر امام خاموش ہو تو پڑھ سکتا ہے۔

اس دن یارات میں چار رکعات ان چار سورتوں کے ساتھ پڑھنا مستحب ہے، سورہ انعام سورہ کہف، سورہ طہ اور سورہ یسین اگر اچھی طرح نہ پڑھ سکے تو سورہ یسین، سورہ سجدہ لقمان سورہ دخان اور سورہ ملک پڑھے۔ جمعہ کی رات میں ان چار سورتوں کو پڑھنا نہ چھوڑے کیونکہ ان کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اور جو آدمی پورا قرآن صحیح طور پر پڑھ سکے تو جس قدر اچھی طرح پڑھ سکے پڑھے اس کے لیے یہ ختم قرآن ہے۔ البتہ سورہ اخلاص کثرت سے پڑھے اور صلوٰۃ تسبیح پڑھنا مستحب ہے جیسا کہ نوافل کے باب میں اس کا طریقہ بیان ہوگا۔ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے فرمایا۔ اسے ہر جمعہ کے دن پڑھیں (۳)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما جمعہ کے دن زوال کے بعد اس نماز کو پڑھنا نہیں چھوڑتے تھے اور اس کی بہت بڑی فضیلت کی خبر دیتے تھے اور مناسب ہے کہ زوال تک کا وقت نماز کے لیے اور جمعہ کے بعد عصر تک علم کی باتیں سننے کے لیے اور عصر سے مغرب تک تسبیح اور استغفار کے لیے مقرر کرے۔

۶۔ مستحب صدقہ۔ اس دن خصوصی طور پر نفلی صدقہ مستحب ہے اس کا دگنا ثواب ملتا ہے بشرطیکہ آدمی خطبہ امام کے درمیان سوال کرنے والا نہ ہو۔ امام کے خطبہ کے دوران کلام مکروہ ہے۔ حضرت صالح بن محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں ایک مسکین نے جمعہ کے دن سوال کیا اس حال میں کہ امام خطبہ دے رہا تھا۔ اور وہ شخص میرے والد کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا تو ایک شخص نے میرے باپ کو ایک ٹکڑا دیا تاکہ وہ اسے دے دیں تو میرے والد نے اسے نہیں پکڑا۔

(۱) تفسیر قرطبی جلد ۲۰ ص ۲۴۹، ۲۵۰ تحت تفسیر سورۃ الاخلاص۔

(۲) صحیح مسلم جلد اول ص ۲۸۷ کتاب الحجۃ۔

(۳) سنن دارقطنی جلد ۲ ص ۷۸۰ کتاب الحجۃ۔

(۴) سنن ابن ماجہ ص ۱۰۰ ماجوفی صلوٰۃ التسبیح۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اگر کوئی شخص مسجد میں سوال کرنے تو وہ اس بات کا مستحق ہے کہ اسے نہ دیا جائے۔ اور اگر وہ قرآن کے نام پر مانگے تو بھی اسے نہ دو۔ بعض علماء نے جامع مسجد میں اس طرح سوال کرنے پر حدیث دینے کو مکروہ لکھا ہے کہ لوگوں کی گردنیں پھلانگی جائیں البتہ وہ شخص جو اپنی جگہ کھڑا بیٹھا ہوا سوال کرے گردنیں نہ پھلانگی تو دنیا جائز ہے۔

حضرت کعب احبار فرماتے ہیں جو شخص جمعہ کے لیے حاضر ہو پھر واپس ہوتے ہوتے دو مختلف چیزیں صدقہ کے طور پر دے پھر واپس آکر دو رکعتیں پڑھے ان میں رکوع اور سجدہ نیز خشوع کو مکمل کرے اور اس کے بعد یہ دعا مانگے۔

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ بِسْمِ اللَّهِ
الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَبِاسْمِكَ الَّذِي لَا إِلَهَ
إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُكَ سِنَةٌ
وَلَا نَوْمٌ۔

اسے اللہ تیرے نام کے ساتھ سوال کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بخشنے والا مہربان ہے اور تیرے نام سے کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں وہ ذات جو خود زندہ دوسروں کو قائم رکھنے والی ہے اس اونٹ کو اور نیند نہیں آتی۔

وہ شخص اللہ تعالیٰ سے جو کچھ مانگے اللہ تعالیٰ اسے عطا فرمائے گا۔ بعض بزرگوں نے فرمایا جو شخص جمعہ کے دن کسی مسکن کو کھانا کھاتا ہے پھر صبح جمعہ کے لیے جائے اور کسی کو اذیت نہ پہنچائے پھر امام کے سلام پھیرنے کے بعد یہ کھانا پڑھے۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْحَيُّ الْقَيُّومُ
أَسْأَلُكَ أَنْ تَغْفِرَ لِي وَتَرْحَمَنِي وَتَعَاوَنِي
مِنَ النَّارِ۔

اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو زندہ قائم رکھنے والا ہے اسے اللہ! میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ مجھے بخش دے مجھ پر رحم فرما اور مجھ آگ سے بچا۔

پھر جو دعا مانگے گا قبول ہوگی۔

۷۔ جمعہ کے دن کو آخرت کے لیے مقرر کر دے اور اس میں دنیاوی امور سے رُک جائے بلکہ اور اذیتوں سے زیادہ پڑھے

اور اس میں سفر کا آغاز نہ کرے ایک روایت میں ہے۔

إِنَّهُ مَنْ سَافَرَ فِي يَوْمِنَا الْجُمُعَةِ دَعَا عَلَيْهِ
مَلَكَاهُ رَا

جو شخص جمعہ کی رات سفر کرے اس کے ساتھ والے فرشتے اس پر بددعا کرتے ہیں۔

اور طلوع فجر کے بعد یہ سفر صرام ہے البتہ رفقائے سفر کے نکلنے کا خطرہ ہو تو ٹھیک ہے بعض اکابر نے فرمایا کہ مسجد کی ٹینکی سے پانی خریدنا تاکہ اسے پیئے یا دوسروں کو پلائے، مکروہ ہے۔ اس طرح یہ مسجد میں خرید و فروخت ہو جائے گی اور یہ مکروہ ہے بعض نے فرمایا کہ اگر شخص مسجد کے باہر قیمت ادا کرے پھر پیئے یا مسجد میں پلائے تو کوئی حرج نہیں۔

خلاصہ کلام یہ ہے کہ جمعہ کے دن اپنے وظائف اور مختلف قسم کے نیک اعمال میں اضافہ کرے اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو فضیلت والے اوقات میں اسے اچھے کاموں پر لگا دیتا ہے اور سب اس سے ناراض ہوتا ہے تو اسے باعث فضیلت اوقات میں برے اعمال کی طرف متوجہ کر دیتا ہے تاکہ اس کا عذاب اور ناراضگی زیادہ ہو کیونکہ اس طرح وہ شخص وقت کی برکت سے محروم ہو جاتا ہے اور وقت کی عزت کو توڑتا ہے جمعہ کے دن دعائیں مانگنا مستحب ہے اور ان کا ذکر ان شاء اللہ دعاؤں کے بیان میں آئے گا۔

اللہ تعالیٰ کی رحمت پر پندیدہ بندے پر ہو۔

چھٹا باب

متفرق مسائل

جن میں عام لوگ مبتلا ہیں اور راہِ آخرت کا مالک ان کو جاننے کی ضرورت محسوس کرتا ہے اور جو مسائل نادر میں انہیں ہم نے فقہ کی کتب میں لکھا ہے۔

مسئلہ :

عملِ قلیل اگرچہ نماز کو باطل نہیں کرتا لیکن بلا ضرورت مکروہ ہے اور ضرورت یہ ہے کہ آگے سے گزرنے والے کو دور کرنا چھوٹے ڈرتو اس کو مار دینا بشرطیکہ ایک یا دو ضربوں کے ساتھ مارنا ممکن ہو تب ضرورت نہیں ہوں تو یہ عمل کثیر ہے اس سے نماز باطل ہو جاتی ہے اسی طرح بعض اوقات ٹوئیں اور لپو تکلیف پہنچاتے ہیں تو انہیں دور کرنا بھی جائز ہے اسی طرح بچلانے کی ضرورت پڑتی ہے کیونکہ نہ بچلانے سے خشوع میں خلیل پیدا ہوتا ہے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نماز میں ٹوئوں اور لپو کو پکڑتے تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے دوران ٹوئوں کو ہار دیتے تھے حتیٰ کہ ان کے ہاتھ پر خون نظر آتا۔ حضرت امام نفعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں جو لوگوں کو پکڑ کر اسے ست کر دے اور اگر مار بھی دے تو کوئی حرج نہیں حضرت ابن مسیب رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس پوٹو کو مسل کر پھینک دے۔

حضرت مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں میرے نزدیک زیادہ بہتر یہ بات ہے کہ اگر وہ اذیت نہیں پہنچاتی تو اسے چھوڑ دے اگر نماز میں خلل ڈالتی ہے تو اس قدر مسل دے کہ وہ اذیت نہ دے پھر اسے پھینک دے یہ رخصت ہے ورنہ کھال تو یہ ہے کہ نماز میں ہر عمل سے بچے اگرچہ وہ قلیل ہو اسی لیے بعض حضرات کھلی کو بھی نہیں اڑاتے تھے اور فرماتے ہیں اپنے نفس کو اس کا عادی نہیں بنانا ورنہ میری نماز ضراب ہو جائے گی اور میں نے سنا ہے کہ سافق لوگ بادشاہوں کے سامنے بہت زیادہ اذیت پر صبر کرتے ہیں اور حرکت نہیں کرے۔ اور بعض اوقات جمائی آتی ہے تو اپنے منہ پر ہاتھ رکھنے میں کوئی حرج نہیں اور یہ اولیٰ ہے۔ اگر پھینک آئے تو دل میں الحمد للہ گے اور زبان کو حرکت نہ دے اور اگر ٹڈکار آئے تو سر کو آسمان کی طرف نہ اٹھائے اگر چادر گر جائے تو اسے اٹھا کر برابر نہ کرے اسی طرح دستار کے کناروں کا حکم ہے یہ تمام امور ضرورت کے بغیر مکروہ ہیں۔

مسئلہ :

جو تھے پہن کر نماز پڑھنا جائز ہے اگرچہ ان کا نکالنا آسان ہے لیکن موزوں میں یہ رخصت نہیں کیوں کہ ان کا نکالنا

مشکل ہے بلکہ یہ نجاست اس لیے معاف ہے اور یہی حال کا ہے۔

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نعلین مبارک میں نماز پڑھی پھر انہیں اتار دیا تو صحابہ کرام نے بھی اپنے جوتے اتار دیئے، آپ نے پوچھا تم نے اپنے جوتے کیوں اتارے؟

انہوں نے عرض کیا کہ آپ کو نعلین مبارک اتارتے دیکھ کر ہم نے بھی اپنے جوتے اتار دیئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے اور مجھے بتایا کہ ان جوتوں کے ساتھ کچھ لگا ہوا ہے پس تم میں سے جو شخص مسجد میں آنے کا ارادہ کرے تو جوتوں کو اٹا کر دیکھے اگر ان میں کوئی نجاست ہو تو اسے زمین پر ملے اور ان میں نماز پڑھے۔ (۱)

بعض حضرات نے فرمایا کہ نعلین میں نماز پڑھنا افضل ہے کیوں کہ حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ تم نے اپنے جوتے کیوں اتارے۔ اور یہ مبالغہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اس لیے پوچھا تاکہ آپ ان کو جوتے اتارنے کی وصیہ بتا دیں کیوں کہ آپ کو معلوم تھا کہ صحابہ کرام نے آپ کی اتباع میں اتارے ہیں حضرت عبداللہ بن سائب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نعلین مبارک اتارے (۲) تو گویا آپ نے دونوں طرح عمل کیا ہے۔ (۳)

جو آدمی جوتا اتارے تو اسے چاہیے کہ اپنی دائیں یا بائیں جانب نہ رکھے اس طرح جگہ تنگ ہو جائے گی اور صف ٹوٹ جائیگی بلکہ اپنے سامنے رکھے اپنے پیچھے بھی نہ چھوڑے اس طرح اس کا دل ادھر متوجہ ہو گا ممکن ہے کہ جن لوگوں نے جوتوں کے ساتھ نماز پڑھنے کا قول کیا ہے انہوں نے اسی معنی کا لحاظ کیا ہو یعنی دل کا اس طرف متوجہ ہونا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ نَعْلَيْهِ
بَيْنَ رِجْلَيْهِ (۴)

جب تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھے تو اپنے جوتوں کو پاؤں کے درمیان رکھے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کسی دوسرے آدمی سے فرمایا کہ جوتوں کو پاؤں کے درمیان رکھو اور ان کے باعث کسی مسلمان کو اذیت نہ پہنچاؤ۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کرائے وقت اپنے نعلین مبارک بائیں طرف رکھے (۵)

(۱) سنن ابی داؤد جلد اول ص ۹۵ کتاب الصلوٰۃ

(۲) مجمع الزوائد جلد ۲ ص ۵۵ باب الصلوٰۃ فی النعلین۔

(۳) آج کے دور میں جوتوں میں نماز پڑھنا مشکل ہے کیونکہ راستے ناپاک ہوتے ہیں سڑکیں پکی ہیں ریت نہیں ہے اور ساجدین دریاں،

قالین اور صفیں ہوتی ہیں البتہ نئے جوتے میں نماز پڑھ سکتے ہیں ۱۲ ہزاروی۔

(۴) سنن ابی داؤد جلد اول ص ۹۶ کتاب الصلوٰۃ

(۵) سنن ابی داؤد جلد اول ص ۹۵ کتاب الصلوٰۃ

لہذا امام کو اسی طرح کرنا چاہیے کیونکہ اس کی بائیں جانب کوئی شخص کھڑا نہیں ہوتا البتہ اپنے سامنے نہ رکھے اس
 ح اس کی توجہ بیٹ جائیں گی ہاں قدموں کے آگے رکھ سکتا ہے شاید حدیث سے یہی مراد ہے حضرت جبریل بن مطعم رضی اللہ
 فرماتے ہیں عورتوں کو قدموں کے درمیان رکھنا بدعت ہے۔

مسئلہ ۲:

نماز میں تھوکنے سے نماز نہیں ٹوٹتی کیوں کہ یہ عمل قلیل ہے اور جس چیز سے آواز حاصل نہ ہو وہ کلام شمار نہیں ہوتا۔
 کلام کے حروف کی شکل پر تھوکنے کا بھی کلام نہیں البتہ یہ مکروہ ہے لہذا اس سے بچنا چاہیے البتہ وہ طریقہ اختیار کرے
 کی اجازت سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے بعض صحابہ کرام سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
 قبلہ کی طرف تھوک دیکھا تو سخت غصہ میں آگئے پھر ایک ٹہنی سے کھرج دیا جو آپ کے ہاتھ میں تھی اور فرمایا خوشبو
 بچھنا پھر آپ نے اس نشان پر زعفران لگا دی پھر ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا تم میں سے کون چاہتا ہے کہ
 اس کے چہرے پر تھوکا جائے؟ ہم نے عرض کیا کوئی بھی نہیں چاہتا فرمایا جب تم میں سے کوئی نماز میں داخل ہوتا ہے تو
 اللہ تعالیٰ اس کے اور قبلہ کے درمیان ہوتا ہے۔ (۱)

اور دوسرے الفاظ میں یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے سامنے ہوتا ہے پس تم میں سے کوئی بھی اپنے سامنے اور دائیں
 طرف نہ تھو کے بلکہ بائیں طرف یا بائیں پاؤں کے نیچے تھو کے (۲)
 اور کوئی ہنگامی صورت ہو تو اپنے کپڑے میں تھو کے اور اس طرح (عمل کر کے بتایا) اسے ایک دوسرے کے ساتھ
 رگڑ دے (۳)

مسئلہ ۳:

مقتدی کے کھڑا ہونے کے لیے سنت بھی ہے اور فرض بھی، سنت یہ ہے کہ ایک مقتدی ہو تو امام کی دائیں جانب
 تھوڑا ہے پیچھے کھڑا ہو اور ایک عورت امام کے پیچھے کھڑی ہو اگر امام کے پیچھے کھڑی ہو جائے تو بھی غرج نہیں لیکن سنت
 کے خلاف ہے۔ (۴)
 اگر عورت کے ساتھ مرد بھی ہو تو وہ امام کی دائیں جانب اور عورت پیچھے کھڑی ہو۔ اور تنہا آدمی صفت کے پیچھے کھڑا

(۱) صحیح مسلم جلد اول ص ۲۰۷ کتاب المساجد

(۲) اس وقت مسجد کا فرش نہ تھا نیچے ریت تھی تھوکا جا سکتا تھا آج کل کی مساجد میں ایسا نہیں ہو سکتا ۱۲ ہزاروی

(۳) صحیح مسلم جلد اول ص ۲۰۷ کتاب المساجد

(۴) عورت امام کے ساتھ مل کر کھڑی نہیں ہو سکتی اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے ۱۲ ہزاروی

نہ ہو بلکہ صفت میں داخل ہو یا صفت میں سے کسی کو اپنی طرف کھینچے اور اگر اکیلا بھی کھڑا ہو گیا تو نماز ہو جائے گی لیکن مکروہ ہوگی۔ فرض یہ ہے کہ صفت متصل ہو یعنی مقتدی اور امام کے درمیان جامع رابطہ ہو کیونکہ وہ دونوں جماعت میں ہیں اور اگر وہ مسجد میں ہوں تو اجتماعیت کے لیے یہی کافی ہے کیوں کہ یہ اسی مقصد کے لیے بنائی گئی ہے لہذا صفت کے اتصال کی ضرورت نہیں بلکہ اتنی بات ضروری ہے کہ امام کے افعال کا علم ہوتا رہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے مسجد کی چھت پر امام کے ساتھ نماز پڑھی اگر مقتدی مسجد سے باہر راستے یا صحرا میں ہو لیکن ان دونوں (مسجد اور صحرا) کے درمیان کوئی عمارت نہ ہو تو تیر کے نشانے کی مقدار کافی ہے اور یہ رابطہ کافی ہے کیونکہ ایک کا فعل دوسرے کے فعل سے ملا ہوا ہے اور اگر مسجد کی دائیں بائیں جانب والے مکان کے صحن میں ہو اور اس کا دروازہ مسجد سے ملا ہوا ہو تو اب بشرط یہ ہے کہ مسجد کی صفت ڈیوڑھی میں سے ہوں کسی انقطاع کے بغیر صحن میں جائے اس طرح جو لوگ اس صفت میں اور اس سے پیچھے ہوں گے ان کی نماز صحیح ہوگی اور جو اس سے آگے ہوں گے ان کی نماز صحیح نہیں ہوگی مختلف عمارتوں کا یہی حکم ہے اگر ایک عمارت یا وسیع میدان ہو تو وہ صحرا کی طرح ہے۔

مسئلہ:

مسبق جب امام کی نماز کا آخری حصہ پائے تو وہ نماز کے پہلے حصے کی طرح ہے وہ امام کی موافقت کرے اور باقی نماز کی اس پر بنا کرے اور صبح کی نماز کے آخر میں تنہا قنوت پڑھے اگر عہد امام کے ساتھ قنوت پڑھ چکا ہوں احناف کے نزدیک فجر کی نماز میں قنوت پڑھنا صحیح نہیں (۱۲ ہزاروی) اگر امام کے ساتھ قیام کا کچھ حصہ پائے تو دعائیں مشغول نہ ہو بلکہ سورہ فاتحہ پڑھے اور وہ بھی تخفیف کے ساتھ (احناف کے نزدیک مقتدی قنوت نہیں کرے گا لہذا وہ فاتحہ بھی نہیں پڑھ سکتا بلکہ خانوتیں رہے ۱۲ ہزاروی)

اگر امام رکوع میں چلا جائے اور یہ اس کو رکوع کی حالت میں مل سکتا ہو تو فاتحہ کو مکمل کرے اگر نہ ہو سکے تو امام کی موافقت کرے اور رکوع میں چلا جائے بعض فاتحہ پوری فاتحہ کے حکم میں ہے لہذا یہ اس سے نکل جانے کی وجہ سے ساقط ہو جائے گی۔ اور اگر وہ سورت پڑھ رہا ہو (احناف کے نزدیک نہیں) اور امام رکوع میں چلا جائے تو اسے چھوڑ دے اگر امام کو مسجد یا تشہد میں پائے تو تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد بیٹھ جائے اور تکبیر نہ کہے بخلاف اس کے کہ جب اسے رکوع میں پائے تو جھکنے کے لیے دوبارہ تکبیر کہے کیوں کہ یہ منقلی اس کے لیے شمار ہوگی یعنی رکعت مل جائے گی اور تکبیرات نماز میں اصلی امور کے لیے ہوتی ہیں عارضی کے لیے نہیں کیونکہ وہ امام کے پیچھے ہے۔ اور اگر امام کے ساتھ رکوع میں اطمینان و اعتدال کے طریقہ پر نہ ملا تو اس رکعت کو پانے والا نہ ہوگا یعنی ابھی امام رکوع میں ہو تو یہ بھی رکوع کرے اور اگر امام رکوع کرنے والوں کی تعریف سے نکل جائے تو اب اسے یہ رکعت حاصل نہیں ہوگی۔

مسئلہ:

جو شخص ظہر کی نماز نہ پڑھ سکا اور عصر کا وقت ہو گیا تو پہلے ظہر کی نماز پڑھے اور پھر عصر کی نماز ادا کرے اور اگر پہلے عصر کی نماز پڑھ لی۔ تب بھی جائز ہے (۱)

لیکن ترکِ اولیٰ سے اور وہ اختلاف کے شعبہ میں داخل ہو گیا اگر امام کو پائے تو عصر کی نماز پڑھ کر اس کے بعد ظہر کی نماز پڑھے کیونکہ جماعت کے ساتھ ادا کی جائز ہے (۲)

اور اگر پہلے وقت میں تنہا نماز پڑھ لی پھر جماعت کو پایا تو جماعت کے ساتھ پڑھے اور وقت نماز کی نیت کرے اللہ تعالیٰ جسے چاہے گا قبول فرمائے گا اور اگر فوت شدہ نماز یا نفل کی نیت کرے تب بھی جائز ہے۔ (۳)

اور اگر جماعت کے ساتھ پڑھ چکا ہو پھر دوسری جماعت کو پائے تو فوت شدہ نماز یا نفل کی نیت کرے کیونکہ جماعت کے ساتھ ادا کی گئی نماز کو دوبارہ پڑھنا جائز نہیں پہلی صورت میں جماعت کی فضیلت کا احتمال تھا۔

مسئلہ ۱

جس آدمی نے نماز پڑھنے کے بعد کپڑے پر نجاست دیکھی تو قضا کرنا بہتر ہے لیکن لازم نہیں اور اگر نماز کے دوران دیکھے تو کپڑے کو اتار کر نماز مکمل کرے لیکن بہتر یہی ہے کہ نئے سرے سے پڑھے اس کی اصل نعلین مبارک اتارنے والا واقع ہے کہ جب حضرت جبریل علیہ السلام نے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی کہ نعلین مبارک کے ساتھ کچھ لگا ہوا ہے تو آپ نے نئے سرے سے نماز شروع نہیں فرمائی (۴)

جو شخص پہلا تشہد یا قنوت چھوڑ دے یا پہلے تشہد میں درود شریف نہ پڑھے یا بھول کر کو عمل کرے اور وہ ایسا عمل ہے کہ اگر جان بوجھ کر کرتا تو نماز ٹوٹ جاتی یا اسے شک ہوا کہ معلوم کتنی رکعات پڑھی ہیں یا چار؟ تو یقین پر عمل کرے اور سلام سے پہلے سجدہ سہو کرے اور اگر بھول جائے تو سلام کے بعد فوری طور پر جب یاد آئے تو سجدہ سہو کرے اور اگر سلام کے بعد پائے وغیرہ ہونے کے بعد سجدہ سہو کیا تو نماز باطل ہو جائے گی۔ (۵)

(۱) اختلاف کے نزدیک عصر کی نماز ہی صورت میں جائز ہوگی جب اسے ظہر کی نماز یاد نہ رہی یا وہ صاحبِ ترتیب نہ ہو یعنی اس وقت

اس کے ذمہ پانچ سے زیادہ نمازیں ہوں ورنہ عصر کی نماز نہ ہوگی ۱۲ ہزاروی

(۲) احاف کے نزدیک صاحبِ ترتیب جماعت میں شامل ہونے کی بجائے پہلے ظہر پڑھے ۱۲ ہزاروی

(۳) فرض نماز دوبارہ پڑھنا جائز نہیں لہذا جب الگ نماز پڑھی تو اب امام کے ساتھ نفل پڑھ سکتا ہے بشرطیکہ عصر مغرب اور فجر کا وقت

نہ ہو ۱۲ ہزاروی

(۴) نماز کے لیے طہارت لباس شرط ہے ایسے نئے سرے سے نماز پڑھنا ہوگی سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعلین مبارک کے ساتھ نجاست نہ تھی۔

(۵) پہلے مقدمے میں درود شریف نہیں پڑھا جاتا اگر پڑھے تو سجدہ سہو ہوگا نیز احاف کے نزدیک سجدہ سہو سلام کے بعد ہوتا ہے ۱۲ ہزاروی

کیوں کہ سلام کے بعد جب وہ سجدہ کرے گا تو گویا اس نے بھول کر سلام کو دوسری جگہ میں داخل کر دیا لہذا اس کے ساتھ نماز سے باہر نہیں آیا اور وہ دوبارہ نماز میں مشغول ہو گیا اسی لیے وہ سجدے کے بعد دوبارہ سلام پھرتا ہے اور اگر مسجد سے نکلنے کے بعد یا زیادہ دیر ٹھہرنے کے بعد سجدہ سہویا دیا یا تو اب سجدہ فوت ہو گیا اس کے سرے سے نماز پڑھے۔

مسئلہ :

نماز کی نیت میں وسوسہ کا سبب عقل کی خرابی یا شریعت سے جہالت ہے کیونکہ ارادے اور نیت کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل دوسروں کے حکم کی تعلیم جیسی ہے اور اس کی تعظیم دوسروں کی تعظیم کی طرح ہے جب آدمی کے پاس کوئی عالم آئے اور وہ اس کے لیے کھڑا ہو جائے اور اس وقت کہے میں زور فاضل عالم کے آنے پر اس کی تعظیم کے لیے کھڑا ہونے کی نیت کرتا ہوں اور یہ نیت اس کے آنے ہی کرے اور کہے کہ اس کی طرف متوجہ ہوتا ہوں تو یہ آدمی بے وقوف ہے بلکہ اسے چاہیے کہ جو نبی اس عالم کو دیکھے اور اس کی فضیلت کا علم ہو تو تعظیم کا سبب فوری پایا جائے اور اسے کھڑا کر دے تو یہ تعظیم کرنے والا ہوگا البتہ اگر وہ کسی دوسرے کام کے لیے کھڑا ہو یا غفلت میں تھا تو یہ تعظیم کے خلاف نہیں ہے۔ یہ شرط کہ ظہر کی نماز ادا کرنے والا ہو اسی طرح ہے کہ اس شخص کا کھڑا ہونا اس عالم کے آنے کے ساتھ ملا ہوا ہو اور یہ اسی کی طرف متوجہ ہو اور کوئی دوسرا سبب نہ ہو اور یہ تعظیم کی نیت بھی کرے تاکہ یہ عمل تعظیم قرار پائے اور اگر وہ پیٹھ پھیر کر کھڑا ہو یا کچھ دیر ٹھہر کر کھڑا ہو تو یہ تعظیم نہیں ہے۔ پھر ضروری ہے کہ یہ صفات معلوم ہوں اور مقصود بھی ہوں پھر ان کا دل میں حاضر ہونا ایک لمحہ سے زیادہ نہیں ہوتا البتہ اس پر ولایت کرنے والے الفاظ کی ترتیب میں وقت لگتا ہے یا تو وہ زبان سے لونا ہے یا دل میں سوچتا ہے اور جس آدمی کو نیت کے بارے میں اس انداز کا علم نہ ہو گویا وہ نیت کو سمجھا ہی نہیں کیونکہ نیت کا مطلب صرف اتنا ہے کہ جب تمہیں وقت پر نماز ادا کرنے کے لیے بلا یا گیا تو تم تعمیل حکم کرتے ہوئے کھڑے ہو گئے۔ تو وسوسہ محض جہالت ہے کیونکہ یہ مقصود اور یہ ان باتوں کا علم دل میں ایک ہی حالت میں جمع ہوتے ہیں ایک ایک کر کے ذہن میں نہیں آتے کہ دل ان کو دیکھ کر سوچ بچار کرے دل میں کسی چیز کے حاضر ہونے اور سوچنے میں اس کی تفصیل کے درمیان فرق ہے حضور و غفلت میں تضاد ہے اگرچہ تفصیلی طور پر یہ ہو جو شخص کسی حادثہ چیز کا علم رکھتا ہے وہ ایک ہی علم سے ایک ہی حالت میں اس کو جان لیتا ہے اور یہ علم، علوم حاضرہ کو متضمن ہوتا ہے اگرچہ مفصل نہیں ہوتا کیونکہ جو آدمی حادثہ کا علم رکھتا ہے اسے موجود و معدوم، تقدم و تاخر اور وقت کا علم ہو جاتا ہے کیونکہ عدم، مقدم اور وجود مؤخر ہوتا ہے تو یہ علوم حادثہ کے علم میں پائے جاتے ہیں اس کی دلیل یہ ہے کہ حادثہ کا علم رکھنے والا اگر کسی دوسری بات کا علم رکھتا ہو اور اسے کہا جائے کہ کیا تم فقط تقدم یا خیر یا عدم کو جانتے ہو یا تمہیں عدم کے مقدم اور وجود کے مؤخر ہونے کا علم ہے یا اس زمانے کو جانتے ہو جو مقدم اور مؤخر ہیں تقسیم ہوتا ہے اور وہ کہے کہ میں بالکل نہیں جانتا تو وہ جھوٹا ہوگا اور اس کا یہ قول، اس کے اس قول کے منافی ہوگا کہ میں حادثہ کا علم رکھتا ہوں۔ اس باریکی سے جہالت کے باعث وسوسے پیدا ہوتے ہیں دوسرے

والا شخص اپنے نفس کو اس بات کی تکلیف دیتا ہے کہ وہ اپنے دل میں اس کے ظہر کی نماز سونے، ادا ہونے اور فرض ہونے کو ایک ہی حالت میں الفاظ کے ساتھ مفصل طور پر حاضر کرے اور اس بات کو سامنے رکھے۔ اور یہ محال ہے اور اگر وہ کسی عالم کے لئے کھڑا ہوتے وقت ان تمام باتوں کا نفس کو مکلف بنائے تو اس کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ تو اس معرفت کے ذریعے وسوسے ختم ہو جاتے ہیں یعنی وہ صرف اس بات کو جان لے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی بجا آوری اور اس کے غیر کا حکم بجا لانا نیت میں برابر ہیں۔

پھر آسانی اور رخصت دینے کے طور پر میں اس میں کچھ اضافہ کرتے ہوتے کہتا ہوں کہ اگر وسوسوں میں مبتلا ہونے والا شخص ان امور کی تفصیل کو ہی نیت خیال کرتا ہے اور تعمیل حکم کا تصور اس کے ذہن میں ایک ہی بار نہیں آتا بلکہ وہ ان سب باتوں کو تکبیر کے دوران اول سے آخر تک حاضر کرتا ہے یعنی تکبیر سے فراغت پانے ہی اسے نیت حاصل ہو جاتی ہے تو یہ بات بھی اسے کافی ہے ہم اسے اس بات کا مکلف نہیں سمجھتے کہ وہ ان تمام باتوں کو تکبیر کے اول سے آخر تک جمع کرے کیوں کہ یہ بہت زیادہ تکلیف ہے۔ اگر وہ اس بات کا مکلف ہوتا تو پہلے لوگوں سے اس بات کا سوال ہوتا اور صحابہ کرام میں سے بھی کوئی وسوسہ کرتا لیکن اس بات کا واقع نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اس معاملے میں تخفیف ہے وسوسہ کرنے والے کو جس طرح نیت کا اتفاق ہو جائے نیت کرے حتیٰ کہ اس کی عادت بن جائے اور اس سے وسوسے دور ہو جائیں اور اس کا نفس اس کی تحقیق کا مطالبہ نہ کرے کیونکہ تحقیق وسوسوں کو بڑھاتی ہے ہم نے فتاویٰ میں علم کی تحقیق کے بیان میں تحقیق کی کچھ وجوہ بیان کی ہیں نیز یہ کہ نیت سے کیا مقصود ہے علماء کو اس کی معرفت کی حاجت ہے لیکن جہاں تک عوام کا تعلق ہے تو بعض اوقات اس بات کی سماعت انہیں نقصان دیتی ہے اور وسوسے پیدا کرتی ہے اس لیے ہم نے اسے چھوڑ دیا۔

مسئلہ :

مفتی کو چاہیے کہ وہ رکوع اور سجدے میں امام سے آگے نہ بڑھے اور نہ ہی اس کے برابر ہو بلکہ اس کے پیچھے پیچھے رہے، کیونکہ اقتدا کا یہی مطلب ہے اگر جان بوجھ کر ایسا کرے گا تو نماز باطل ہو جائے گی جس طرح بالکل امام کے ساتھ کھڑا نہ ہونے اور پیچھے نہ ہونے سے ہوتا ہے اور اگر وہ امام سے آگے بڑھے تو نماز کے باطل ہونے میں اختلاف ہے لیکن یہ بات بعید نہیں کہ باطل ہونے کا فیصلہ کیا جائے جس طرح کھڑا ہونے میں امام سے آگے ہو تو نماز باطل ہو جاتی ہے۔ بلکہ یہاں باطل ہونا ہی زیادہ مناسب ہے کیونکہ جماعت فعل میں اقتدا کا نام ہے کھڑا ہونے میں نہیں لہذا فعل میں امام کی اتباع زیادہ ضروری ہے کھڑا ہونے میں امام سے پیچھے ہونے کی شرط اس لیے ہے کہ فعل میں اتباع آسان ہو جائے اور اتباع کی صورت حاصل ہو جائے کیونکہ امام کے لائق یہی ہے کہ وہ آگے ہو لہذا عمل میں اس سے آگے بڑھنے کی کوئی وجہ نہیں ہاں بھول کر ہو جائے تو ناگ بات ہے اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بڑی سختی سے انکار فرمایا :

آپ نے فرمایا:

أَمَّا بَحْثِي الَّذِي يَرَفَعُ رَأْسَهُ قَبْلَ الْإِمَامِ
أَنَّ يَجُولَ اللَّهُ رَأْسَهُ رَأْسَ جَمَّارٍ -
جو شخص امام سے پہلے سر اٹھاتا ہے کیا اس کو اس بات
کا ڈر نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے سر کو گدھے کے سر کی طرح
کروے (۱)

اگرچہ امام سے ایک رکن میں پیچھے رہنے سے نماز باطل نہیں ہو مثلاً امام رکوع سے سیدھا کھڑا ہو گیا اور وہ ابھی تک رکوع
میں ہے لیکن اس حد تک پیچھے رہنا مکروہ ہے اگر امام اپنی پیشانی زمین پر رکھ دے اور وہ ابھی تک رکوع کی حد تک بھی نہ
پہنچا ہو تو نماز باطل ہو جائے گی اسی طرح اگر امام نے دوسرے سجدے کے لیے سر رکھ دیا اور اس نے بھی تک پہلا سجدہ
نہیں کیا۔ (۲)

مسئلہ:

جو شخص نماز کے لیے جائے تو اس پر لازم ہے کہ اگر دوسرے شخص کو نماز میں غلطی کرتا دیکھے تو اس کو بتائے اور
اس سے تبدیلی کروائے اگر یہ عمل کسی جاہل سے صادر ہو تو نرمی کے ساتھ بتائے مثلاً صفوں کو برابر کرنے کے لیے کہنا صف
سے الگ تنہا کھڑے ہونے والے کو روکنا، امام سے پہلے سر اٹھانے والے کو روکنا اور اس کے علاوہ دیگر امور۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

وَيْلٌ لِلْعَالِمِينَ مِنَ الْجَاهِلِ حَيْثُ
لَا يَعْلَمُهُ (۳)

جاہل کی وجہ سے اس عالم کے لیے فریبی ہے جو اس
(جاہل) کو سکھاتا نہیں۔

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا "جس نے کسی کو نماز میں غلطی کرتے دیکھا اور اسے نہ روکا تو وہ گناہ میں اس کا شریک
ہے" حضرت بلال بن سعد سے مروی ہے انہوں نے فرمایا گناہ پوشیدہ ہو تو صرف گناہ کرنے والے کو نقصان دیتا ہے اور
جب ظاہر ہو اور اسے بدلنا جائے تو اس کا نقصان سب کو ہوتا ہے ایک حدیث میں ہے "حضرت بلال رضی اللہ عنہ
صفین درست کیا کرتے اور ان کے ٹخنوں پر دروسے مارتے (۴)"

(۱) صحیح مسلم جلد اول ص ۱۸۱ کتاب الصلوٰۃ

(۲) ان تمام صورتوں میں حکم یہ ہے کہ اگر وہ امام کے ساتھ رکوع یا سجدے میں مل جائے تو نماز درست ہوگی ورنہ باطل ہوگی۔

(۳) مسند الفرووس جلد ۲ ص ۵۴۵ حدیث ۴۱۴۱

(۴) مجمع الزوائد جلد ۲ ص ۹۰ باب الصف فی الصلوٰۃ

حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے مروی ہے انہوں نے فرمایا نماز میں اپنے بھائیوں کو دیکھو اگر نہ پاؤ تو معلوم کرو بیمار ہوں تو بیمار پر ہی کرو اگر تندرست ہوں تو ان کو چھڑکو، چھڑکنے کا مطلب یہ ہے کہ جماعت چھوڑنے پر انہیں تہنیدہ کر و اس سلسلے میں سستی نہیں کرنی چاہیے پہلے لوگ اس معاملے میں مبالغہ کرتے تھے حتیٰ کہ ان میں سے بعض حضرات جنازہ اٹھا کر اس آدمی کے دروازے پر لے جاتے جو جماعت سے پیچھے رہ جاتا یہ اس بات کی طرف اشارہ ہوتا تھا کہ جماعت سے فوت شدہ ہی پیچھے رہتا ہے زندہ نہیں۔

جو آدمی مسجد میں داخل ہو تو اس کو صفت کی دائیں طرف بیٹھنے کا ارادہ کرنا چاہیے اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگوں کا اس طرف هجوم ہوتا تھا۔ حتیٰ کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ بائیں جانب کو چھوڑ دیا گیا ہے تو آپ نے فرمایا جس نے مسجد کی بائیں جانب کو آباد کیا اس کے لیے دو گنا اجر ہے (۱) بعض اوقات صفت میں کوئی بچہ ہوتا ہے اور یہ شخص اپنے لیے جگہ نہیں پاتا تو اس کے لیے جائز ہے کہ بچے کو پیچھے کر کے خود وہاں داخل ہو جائے۔ مطلب یہ ہے کہ جب وہ بچہ بالغ نہ ہو۔ ہم نے ان مسائل کے بیان کا ارادہ کیا جن میں لوگ عام طور پر مبتلا ہیں نماز کے متفرق احکام و ظائف کے بیان میں آئیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ۔

سائواں باب

نوافل کا بیان

جان لو! کہ فرائض کے علاوہ نماز کی تین قسمیں ہیں (۱) سنت (۲) مستحب (۳) نوافل سنت سے مراد وہ نماز ہے جس پر حضور علیہ السلام نے مواظبت فرمائی (ہمیشہ کہا) جیسے نمازوں کے بعد سنت موکدہ، چاشت کی نماز، وتر، تہجد وغیرہ (۱) کیونکہ سنت سے مراد وہ راستہ ہے جس پر چلنا چاہیے۔ مستحبات سے مراد وہ نوافل ہیں جن کی فضیلت کے بارے میں احادیث آئی ہیں لیکن ان پر مواظبت منقول نہیں جیسے ہم ہفتہ بھر شب و روز پڑھی جانے والی نماز کے سلسلے میں ذکر کریں گے، اور جیسے گھر سے نکلنے اور داخل ہونے وقت نفل پڑھنا وغیرہ۔

نوافل (نظرو) سے مراد وہ (نفلی) نماز ہے جو اس کے علاوہ ہے ان کے بارے میں کوئی حدیث نہیں لیکن لوگ اپنی طرف سے پڑھتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ سے مناجات کے لیے نماز کی ترغیب شریعت میں بیان ہوئی ہے۔ گویا وہ اپنی طرف سے نوافل پڑھ رہا ہے کیونکہ یہ نماز معین طریقے پر مستحب نہیں اگرچہ مطلقاً نماز مستحب ہے۔ تطوع، تبرع کو کہتے ہیں (یعنی اپنی طرف سے کوئی عبادت کرنا) ان تینوں اقسام کو نفل اس لیے کہتے ہیں کہ نفل کا معنی زیادہ ہے اور یہ تمام قسمیں فرائض سے زیادہ ہیں ہم نے ان مقاصد کو ظاہر کرنے کے لیے نفل، سنت اور مستحب کی اصطلاح بنائی ہے۔ اگر کوئی اس اصطلاح کو بدل دے تو بھی کوئی حرج نہیں کیونکہ مقاصد کو سمجھنے کے بعد الفاظ کی کوئی پابندی نہیں ہوتی۔ ان اقسام کے درجات فضیلت کے اعتبار سے مختلف ہیں اور اس سلسلے میں احادیث اور آثار مروی ہیں یا جس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ مواظبت فرمائی یا یہ کہ روایات کی صحت اور زیادہ مشہور ہونا فضیلت کا باعث ہے اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جماعت کی سنتیں، تنہا پڑھی جانے والی سنتوں سے افضل ہیں، یا جماعت سنتوں میں سے عید کی نماز سب سے افضل ہے پھر سورج گرہن کی، پھر بارش کی نماز ہے، اور تنہا پڑھی جانے والی سنتوں میں سب سے اہم وتر ہیں پھر صبح کی دو رکعتیں اس کے باقی سنت موکدہ اپنے اپنے مراتب کے حساب سے ہیں۔ جانتا چاہیے کہ نوافل اپنے متعلقات کے اعتبار سے دو قسم پر ہیں ایک وہ جو اسباب سے متعلق ہیں جیسے سورج گرہن اور نماز استسقاء اور دوسرے وہ جو اوقات سے متعلق ہیں پھر جو اوقات سے متعلق ہیں وہ دن اور رات کے تکرار سے بار بار آتے ہیں یا ہفتے کے بدلنے سے یا سال کے تکرار سے ان میں تکرار آتا ہے اس طرح یہ چار قسمیں ہوں گی۔

(۱) احادیث کے نزدیک وتر سنت نہیں بلکہ واجب ہے۔

پہلی قسم:

وہ نوافل جو رات دن کے بدلنے سے بار بار آتے ہیں اور یہ آٹھ ہیں پانچ سنت مؤکدہ ہیں جو پانچ نمازوں کے ساتھ ہوتے ہیں اور تین ان کے علاوہ ہیں چاشت کے نوافل، مغرب و عشاء کے درمیان وقت کو عبادت کے ساتھ زندہ رکھنا اور تہجد۔
- فجر کی سنتیں :- یہ دو رکعتیں ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح کی دو رکعتیں دنیا اور جو کچھ اس میں ہے، سے

بہتر ہیں۔ (۱)

ان کا وقت فجر صادق کے طلوع سے شروع ہوتا ہے اور فجر صادق کناروں میں پھیلنے والی روشنی ہوتی ہے لمبائی میں نہیں ہوتی شروع شروع میں مشاہدے کے ساتھ اس کا ادراک مشکل ہوتا ہے مگر یہ کہ چاند کی منازل کا علم ہو یا یہ کہ جب فلاں ستارہ نظر آئے گا تو یہ اس سے متصل ہوگی۔ اس طرح ستاروں کے ذریعے اس پر راہنمائی ہوتی ہے مہینے کی دوراتوں میں چاند کے ذریعے یہ وقت معلوم ہوتا ہے کیونکہ چھبیسویں رات کو چاند فجر کے ساتھ طلوع ہوتا ہے اور بارہویں رات کو چاند فجر کے وقت غروب ہوتا ہے اکثر اس طرح ہوتا ہے اور بعض برجوں میں فرق بھی پڑ جاتا ہے اس کی تشریح کافی طویل ہے طالبِ آفرت کے لیے چاند کی منازل کا علم نہایت اہم ہے تاکہ وہ رات اور دن کے اوقات کی مقدار پر مطلع ہو سکے۔ اور فجر کی فرض نماز کا وقت نکل جانے سے یہ سنتیں رہ جاتی ہیں اور یہ طلوع آفتاب کا وقت ہے لیکن سنت طریقہ یہ ہے کہ انہیں فرض نماز سے پہلے ادا کیا جائے۔ اگر کوئی شخص مسجد میں آئے اور نماز کھڑی ہو چکی ہو تو فرض نماز میں مشغول ہو کیونکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا۔
جَبْ نَمَازَ كَهْرِي هُوَ جَائِءُ تَوَابِ فَرْضِ نَمَازِ كَيْ عِلَاوَه
اِذَا اُقِيْمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ اِلَّا
اَلْمَكْتُوبَةَ۔ (۲)

پھر جب فرض نماز سے فارغ ہو جائے تو اٹھ کر سنتیں پڑھے اور صبح یہ ہے کہ اگر سورج طلوع ہونے سے پہلے پڑھے تو ادا ہی ہوگی کیونکہ وقت میں یہ فرض کے تابع ہیں اور تقدیم و تاخیر کے اعتبار سے ان میں ترتیب اس وقت سنت ہے جب جماعت نہ ہو رہی ہو اور جب جماعت ہو رہی ہو تو اب ترتیب بدل جائے گی البتہ ادائیگی باقی رہ جائے گی (۳)
مستحب یہ ہے کہ سنتیں گھر میں مختصر طریقے پر پڑھے پھر مسجد میں داخل ہو کر تہجد المسجد کی دو رکعتیں پڑھے اور بیٹھ جائے اور

(۱) صحیح مسلم جلد اول ص ۲۵۱ باب استجاب رکعتی سنت فجر۔

(۲) صحیح مسلم جلد اول ص ۲۴۴ کتاب صلاۃ المسافرین۔

(۳) احادیث کے نزدیک صبح کی سنتوں کی تاکید کی وجہ سے حکم یہ ہے کہ اگر آدمی سمجھے کہ سنتیں پڑھ کر جماعت کی ایک رکعت پائے گا تو پہلے سنتیں پڑھے ورنہ جماعت میں شامل ہو اور جب سنتیں رہ جائیں تو فرضوں کے بعد نہیں پڑھ سکتے کیونکہ اس وقت نوافل جائز نہیں لہذا

سورج طلوع ہونے کے بعد پڑھ سکتا ہے ۱۲ ہزاروی

فرض نماز تک کوئی نماز نہ پڑھے (فرض کے بعد بھی نفل نہیں پڑھ سکتا) اور اچھا طریقہ یہ ہے کہ صبح کے بعد طلوع آفتاب تک ذکر و فکر اور فجر کی دو سنتوں اور فرضوں میں مشغول رہے۔

۲۔ ظہر کی سنتیں؛ یہ چھ رکعات ہیں دو رکعتیں فرضوں کے بعد اور یہ بھی سنت مؤکدہ ہیں، اور چار رکعتیں پہلے ہیں یہ بھی سنت ہیں لیکن دو کے مقابلے میں کم درجہ ہے حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں۔
 بَعْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ بِحَسَنِ قِرَاتِهِنَّ
 وَرُكُوعِهِنَّ وَسُجُودِهِنَّ صَلَّى مَعَهُ
 سَبْعُونَ أَلْفَ مَلِكٍ يَسْتَغْفِرُونَ لَهُ
 حَتَّى اللَّيْلِ - (۱)

جو شخص زوالِ شمس کے بعد چار رکعات پڑھے ان میں قراتِ رکوع اور سجدہ اچھی طرح کرے تو اس کے ساتھ ستر ہزار فرشتے نماز پڑھتے ہیں اور وہ اس کے لئے رات تک بخشش کی دعائیں مانگتے ہیں۔

اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زوال کے بعد چار رکعتوں کو نہیں چھوڑتے تھے انہیں نہایت طویل پڑھتے اور فرماتے اس وقت آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ اس وقت میرا عمل اوپر کواٹھا جائے (۲)
 اس حدیث کو حضرت ابوالیوب انصاری رضی اللہ عنہ نے روایت کیا اور وہ اس میں تنہا ہیں اس بات پر حضرت ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کی روایت بھی دلالت کرتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
 مَنْ صَلَّى كُلَّ يَوْمٍ اثْنَيْ عَشَرَ رُكْعَةً غَيْرَ
 الْمَكْتُوبَةِ بَنِي لَهُ بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ رُكْعَتَيْنِ
 قَبْلَ الْفَجْرِ وَأَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ وَرُكْعَتَيْنِ
 بَعْدَهَا وَرُكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْعَصْرِ وَرُكْعَتَيْنِ بَعْدَ
 الْمَغْرِبِ - (۳)

جس نے ہر دن قرآن کے علاوہ بارہ رکعات پڑھیں اس کے لیے جنت میں مکان بنایا جاتا ہے فجر سے پہلے دو، ظہر سے پہلے چار اور بعد میں دو، عصر سے پہلے دو اور مغرب کے دو رکعتیں۔

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دس رکعات کے بارے میں یاد ہے چنانچہ انہوں نے فجر کی دو رکعتوں کے علاوہ باقی وہی کچھ ذکر کیا جو حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کی روایت میں مذکور ہے یہ وہ وقت تھا کہ اس وقت سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی نہ جاتا لیکن میری ہمیشہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے مجھ سے بیان کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں دو رکعتیں پڑھتے پھر (مسجد کی طرف) تشریف لے جاتے ایک حدیث

(۱) قوت القلوب جلد اول ص ۲۴ الفصل الحادی والعشرون۔


(۲) مسند امام احمد بن حنبل جلد ۵ ص ۴۲۰ مرویات ابوالیوب انصاری

(۳) مصنف ابن ابی شیبہ جلد ۲ ص ۲۰۴ کتاب الصلوٰۃ

میں فرمایا ظہر سے پہلے دو رکعتیں، اور عشاء کے بعد دو رکعتیں لہذا ظہر سے پہلے چارہیں دو کی زیادہ تاکید ہوئی اور اس نماز کا وقت زوال سے شروع ہو جاتا ہے۔ (۱)

زوال کی پہچان اس طرح ہوگی کہ کوئی شخص سیدھا کھڑا ہو اور اس کا سایہ مشرق کی جانب جھکنے ہوئے زیادہ ہو جائے۔ کیونکہ طلوع کے وقت سایہ مغرب کی جانب ہوتا ہے اور لمبا ہوتا ہے جون جوں سورج بلند ہوتا ہے یہ کم ہوتا جاتا ہے اور مغرب کی جہت سے ہٹتا جاتا ہے حتیٰ کہ سورج بلندی میں اپنی انتہا کو پہنچ جائے اور وہ نصف النہار کی قوس سے سایہ کا کم ہونا یہاں رک جاتا ہے اور جب اس مقام سے سورج ڈھل جاتا ہے تو سایہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے اور جب یہ اضافہ محسوس ہونے لگے تو ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور یہ بات قطعی طور پر معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں زوال اس سے پہلے واقع ہو چکا ہے لیکن انسان کو اسی وقت مکلف بنایا جاتا ہے جب کوئی بات محسوس ہو۔ سائے کی وہ باقی مقدار جس سے اضافہ شروع ہوتا ہے وہ سردیوں میں لمبی ہوتی ہے اور گرمیوں میں چھوٹی اور اس کی طوالت کی حد یہ ہے کہ سورج بروج جدی کے آغاز میں پہنچ جائے اور چھوٹا ہونے کی انتہا یہ ہے کہ سرطان کے شروع میں پہنچ جاتے اور یہ بات قدموں اور اوزان سے معلوم کی جاسکتی ہے۔

تحقیق کا قریب ترین طریقہ اور بہترین صورت جس کا لحاظ کیا جائے یہ ہے کہ رات کے وقت قطب شمالی کو دیکھ کر ایک مربع تختہ زمین پر سیدھا رکھ دے اس طرح کہ اس کا ایک ضلع قطب کی طرف ہو وہ یوں کہ اگر قطب سے زمین کی طرف ایک پتھر گرنے کا تصور کیا جائے پھر پتھر کے گرنے کی جگہ سے ایک لکیر اس ضلع کی طرف تصور کی جائے جو تختی سے ملا ہوا ہے تو وہ خط ضلع پر دو قائمے زاوے بنائے یعنی لکیر کسی ایک ضلع کی طرف مائل نہ ہو پھر اس تختی پر دو خطوں کے ملنے کی جگہ پر ایک سیدھی لکڑی کھڑی کی جائے اور یہ قطب کے مقابل ہے دن کے شروع میں سایہ تختی پر پڑے گا اور مغرب کی جانب مائل ہوگا پھر وہ مسلسل سگرتا جائے گا حتیٰ کہ دوسری جانب چلا جائے اس طرح کہ اگر اس کے کنارے کو کھینچا جائے تو پتھر گرنے کی جگہ تک پہنچ جائے کہ مشرق اور غربی ضلع کے مقابل ہوگا لیکن ان میں کسی ایک کی طرف بھی مائل نہ ہوگا جب مغربی جانب کی طرف میدان باطن ہو جائے اس وقت سورج انتہائی بلندی پر ہوگا جب تختی پر کھینچی گئی لکیر سے سایہ مشرق کی جانب جھک جائے تو یہ زوال شمس ہے اس وقت اس بات کو حقیقتاً محسوس کیا جاسکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے علم میں اول زوال کے قریب ہے پھر زوال کے وقت سائے کے سر سے پر ایک علامت رکھی جائے جب سایہ اس لکڑی کی ایک مثل ہو جائے تو عصر کا وقت داخل ہو جاتا ہے (حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک دو مثل پر عصر کا وقت داخل ہوتا ہے ۱۲ ہزاروی) زوال کا علم حاصل کرنے کے لئے اتنی بات کا جانتا ضروری ہے۔ نقشہ



لکڑی رکھنے کی جگہ

مغرب

۳۔ عصر کی سنتیں :- عصر سے پہلے چار رکعات (سنت غیر منوکرہ) ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ تے فرمایا۔

رَحِمَ اللّٰهُ عَبْدًا صَلَّى قَبْلَ الْعَصْرِ اَرْبَعًا۔
اللہ تعالیٰ اس بندے پر رحم فرمائے جو عصر سے پہلے چار رکعات پڑھتا ہے۔ (۱)

تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا میں داخل ہونے کی امید پر یہ نماز پڑھنا نہایت موکد مستحب ہے۔ کیونکہ آپ کی دعا یقیناً قبول ہوتی ہے لیکن جس طرح آپ ظہر سے پہلے کی دو رکعتوں (چار رکعتوں) کو ہمیشہ پڑھتے تھے اتنی یا بندی عصر کی سنتوں کے لیے نہیں فرمائی۔

۴۔ مغرب کی سنتیں :- یہ دو رکعتیں فرضوں کے بعد ہیں ان کے بارے میں روایات مختلف نہیں ہیں البتہ مغرب سے پہلے یعنی مؤذن کی اذان اور اقامت کے دوران دو رکعتیں جلدی جلدی پڑھنے کے بارے میں صحابہ کرام کی ایک جماعت مثلاً حضرت ابی بن کعب، حضرت عبادہ بن صامت، حضرت ابوذر حضرت زید بن ثابت اور ان کے علاوہ دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے منقول ہے۔ حضرت ابو عبادہ یا کوئی دوسرے صحابی فرماتے ہیں۔

”جب مؤذن مغرب کی اذان پڑھتا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام ستونوں کی طرف جلدی جلدی جلتے اور دو دو رکعتیں پڑھتے (۲)“

ان میں سے بعض حضرات فرماتے ہیں ”ہم مغرب سے پہلے دو رکعتیں پڑھتے تھے کہ آنے والا آتا اور سمجھتا کہ ہم نماز پڑھ چکے ہیں اور وہ پوچھتا کیا تم نے مغرب کی نماز پڑھ لی ہے؟“ (۳)

(۱) جامع ترمذی جلد اول ص ۸۹ باب ماجاء فی الاربع قبل العصر۔

(۲) صحیح بخاری جلد اول ص ۲۷ کتاب الاذان

(۳) صحیح مسلم جلد اول ص ۲۸ کتاب ضلّۃ المسافرین

یہ نماز سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کے عموم میں داخل ہے کہ دو اذانوں (اذان اور اقامت) کے درمیان نماز ہے جو چاہے (پڑھے) (۱)

احناف کے نزدیک مغرب کے فرائض سے پہلے نفل پڑھنا مکروہ ہے ۱۲ ہزاروی (حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ پڑھا کرتے تھے تو لوگوں نے اعتراض کیا چنانچہ انہوں نے چھوڑ دیا ان سے اس بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا میں نے دیکھا کہ لوگ نہیں پڑھتے تو میں نے چھوڑ دیا اور فرمایا اگر کوئی شخص یہ دو رکعتیں گھر میں یا جہاں لوگ نہ دیکھتے ہوں، پڑھے تو اچھا ہے۔ ان مقامات پر جہاں زمین عوار ہے اور اس کے گرد پہاڑ نہیں مغرب کا وقت اس وقت شروع ہوتا ہے جب سورج لوگوں کی نظروں سے غائب ہو جائے اگر مغرب کی طرف پہاڑ ہوں تو توقف کرے یہاں تک کہ مغرب کی طرف سے اندھیرا مشرق کی طرف آتا ہوا دیکھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ مِنْ هُمْنَا وَادْبَدَ النَّهَارُ مِنْ هُمْنَا فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ (۲)

جب رات ادھر (مغرب کی طرف) سے آجائے اور ادھر سے دن چلا جائے تو روزہ دار روزہ افطار کر لے۔

مغرب کی نماز میں خاص طور پر جلدی کرنا چاہیے (اسی لیے احناف کے نزدیک مغرب سے پہلے نوافل مکروہ ہیں ۱۲ ہزاروی) اور اگر اسے مؤخر کر کے شفق غائب ہونے سے پہلے پڑھ لے تو ادا ہی ہوگی لیکن مکروہ ہوگی (احناف کے نزدیک مغرب کا کوئی حصہ مکروہ نہیں) ایک دفعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے مغرب کی نماز میں تاخیر ہوگئی حتیٰ کہ ستارے طلوع ہو گئے تو انہوں نے (کفاسے کے طور پر) ایک غلام آزاد کیا حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مؤخر ہوئی حتیٰ کہ دو ستارے ظاہر ہوئے تو انہوں نے دو غلام آزاد کئے۔

۵۔ عشاء کی سنتیں: عشاء کی سنتیں چار رکعات ہیں جو فرائض کے بعد ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے فرمائی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز عشاء کے بعد چار رکعات پڑھتے پھر آرام فرما ہو جائے (۳)

بعض علمائے احادیث کو جمع کرنے کے بعد فرض رکعات کی تعداد کے مطابق سترہ سنتوں کو پسند فرمایا یعنی فجر سے پہلے دو رکعتیں، ظہر سے پہلے چار اور میں دو، عصر سے پہلے چار، مغرب کے بعد دو، عشاء کے بعد تین وتر (واجب) (۴)

جب تم اس جلسے میں وارد احادیث کی معرفت حاصل کر لو گے تو تعداد مقرر کرنے کا کوئی مطلب نہیں رہ جائے گا کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

(۱) صحیح مسلم جلد اول ص ۲۸، کتاب صلاۃ المسافرین۔

(۲) صحیح بخاری جلد اول ص ۲۶۲، کتاب الصوم۔

(۳) سنن ابی داؤد جلد اول ص ۱۸۵، باب الصلوٰۃ بعد العشاء۔

(۴) مستدرک امام احمد بن حنبل جلد اول ص ۸۹، مرویات علی رضی اللہ عنہ۔

الصَّلَاةُ خَيْرٌ مَوْضُوعٍ فَمَنْ شَاءَ أَكْثَرُ وَمَنْ شَاءَ أَقَلَّ (۱)

نماز بہترین چیز ہے جو مقرر کی گئی ہیں جو چاہے زیادہ پڑھے اور جس کا دل چاہے کم پڑھے۔

اب ہر وہ شخص جو راہِ آخرت کا مالک ہے اسے اختیار ہے کہ جس قدر بھلائی کی رغبت رکھتا ہے ان نمازوں میں سے اختیار کرے البتہ ہماری گذشتہ تقریر سے ظاہر ہوا کہ ان میں سے بعض کی زیادہ تاکید ہے اور موکد عمل کو چھوڑنا عقل سے بعید ہے خصوصاً یہ کہ نوافل کے ذریعے فرائض کی تکمیل ہوتی ہے لہذا جو آدمی زیادہ نہیں پڑھے گا تو ممکن ہے کہ اس کے فرض نقصان سے سلامت نہ رہیں اور اس کا ترازک بھی نہ ہوا۔

۶۔ وتر :- حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کے بعد تین رکعات پڑھتے پہلی رکعت میں ”سبح اسم ربك الاعلیٰ“ دوسری میں ”قل یا ایہا الکفرون“ اور تیسری میں ”قل هو اللہ احد“ پڑھتے تھے۔ (۲)

ایک دوسری روایت میں آیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وتروں کے بعد دو رکعتیں بیٹھ کر پڑھتے اور کچھ حصہ چوڑھی مار کر بیٹھتے (ضعف کی وجہ سے ایسا کرتے تھے) (۳)

بعض روایات میں ہے کہ آپ جب بستر پر تشریف لے جانے کا ارادہ فرماتے تو گھٹنوں کے بل اس کی طرف بڑھتے اور سونے سے پہلے وہیں دو رکعتیں پڑھتے تھے ان میں سورہ زلزال اور سورہ تکوین پڑھتے تھے ایک روایت میں سورہ کافرون کا ذکر ہے (۴)

وتر ایک سلام کے ساتھ (موصولاً) اور دو سلاموں کے ساتھ (مفصولاً) پڑھنا بھی جائز ہے (احناف کے نزدیک ایک ہی سلام سے پڑھیں گے کیونکہ حضور علیہ السلام نے ایک رکعت سے منع فرمایا ۱۲ ہزاروی) رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رکعت تین، پانچ اور اسی طرح طاق رکعات کے ساتھ نماز کو وتر بنائے حتیٰ کہ گیارہ رکعات پڑھتے تیرہ رکعات کے بارے میں روایت میں اضطراب ہے۔ ایک غیر معروف حدیث میں سترہ رکعتوں کا ذکر ہے (۵)

(۱) مجمع الزوائد جلد ۲ ص ۲۴۹ باب فضل الصلوة

(۲) السنن ابن ماجہ ص ۸۳ باب ماجاء فیما یقر فی القراة

(۳) صحیح بخاری جلد اول ص ۲۵۴ باب صلوة اللیل

(۴) السنن الکبریٰ للبیہقی جلد ۲ ص ۳۳ کتاب الصلوة

(۵) یہ روایات صحیح مسلم جلد اول کتاب صلوة المسافرین ص ۲۵۲، ۲۵۳، ۲۵۶، مستدراک احمد بن حنبل جلد اول ص ۸۹ مرویات علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ

اور کتاب الزہد وارتقاء ص ۲۵۱ حدیث ۱۲۷۳ میں ملاحظہ فرمائیں۔

آخر میں پڑھنے چاہیں لہذا یہ تہجد کے بعد ہوں گے تہجد کی فضیلت اور ان کے درمیان ترتیب و ظائف کی ترتیب کے بیان میں آئے گی۔

۷۔ چاشت کی نماز: نماز چاشت اور اس پر دوام اختیار کرنا نہایت اچھا اور باعث فضیلت عمل ہے اس کی رکعات کی تعداد زیادہ سے زیادہ اٹھ بیسے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی ہمیشہ حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاشت کی نماز اٹھ رکعات پڑھی، انہیں نہایت طویل اور عمدہ کر کے پڑھا (۱)

یہ مقدار کسی دوسرے صحابی سے مروی نہیں ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس سلسلے میں یوں ذکر کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چاشت کے وقت چار رکعات پڑھتے تھے اور جس قدر اللہ تعالیٰ چاہتا امانہ فرماتے (۲)

انہوں نے زائد رکعات کی تعداد نہیں بتائی۔ یعنی آپ چار رکعات ہمیشہ پڑھتے اور ان میں کمی نہیں کرتے تھے اور کبھی اضافہ بھی فرماتے ایک خود حدیث میں مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاشت کی نماز چھ رکعات پڑھتے تھے (۳)

اس کے وقت کے بارے میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے روایت فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دو وقتوں میں چھ رکعتیں پڑھتے تھے جب سورج روشن ہو جاتا اور بلند ہوتا تو آپ کھڑے ہو کر دو رکعتیں پڑھتے۔ (۴)

اور یہ دن کے وظائف میں سے دوسرے وظیفہ کا آغاز ہے جیسا کہ آگے آگے گا۔ دوسرا یہ کہ جب سورج مشرق کی جانب آسمان کے چوتھے حصے میں پھسل جاتا تو آپ چار رکعات پڑھتے تھے تو پہلی نماز (دو رکعتیں) اس وقت پڑھتے جب سورج نصف نیزے کے قریب بلند ہوتا اور دوسری نماز (چار رکعات) اس وقت پڑھتے جب دن کا چوتھا حصہ گزر جاتا یعنی عصر کی نماز کے مقابلے میں ہوتا کیونکہ عصر کا وقت وہ ہے جب دن کا چوتھا حصہ باقی رہ جائے ظہر کا وقت نصف دن سے شروع ہوتا ہے چاشت کا وقت طلوع آفتاب اور زوال کے نصف میں ہوتا ہے جیسا کہ عصر کا وقت زوال اور غروب کے نصف میں ہوتا ہے یہ افضل وقت ہے ورنہ سورج کے بلند ہوتے سے زوال سے پہلے تک چاشت کا ہی وقت ہے۔

۸۔ مغرب و عشاء کے درمیان کی نماز: یہ سنت ہو کہ وہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی چھ رکعات منقول ہیں (۵)

اور اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اور کہا کہ قرآن پاک کی آیت کریمہ:-

(۱) صحیح بخاری جلد اول ص ۱۵۷ کتاب التہجد

(۲) صحیح مسلم جلد اول ص ۲۴۹ کتاب صلوٰۃ المسافرین

(۳) کنز العمال جلد ۶ ص ۶۸ حدیث ۱۷۹۹۶

(۴) مصنف ابن ابی شیبہ جلد ۲ ص ۸۰۸ کتاب الصلوٰۃ

(۵) سنن ابن ماجہ ص ۸۳ باب افاتہ الصلوٰۃ

ان کے پہلو بستروں سے اگے رہتے ہیں۔

يَتَجَانِبُ يُجْتَوِبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ (۱)

سے یہی مراد ہے۔

اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے آپ نے فرمایا:

جو آدمی مغرب اور عشاء کے درمیان نماز پڑھے تو یہ ادا ہیں
اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والوں کی نماز ہے۔

مَنْ صَلَّى بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ فَإِنَّهَا

مِنْ صَلَاةِ الْأَوَابِينِ - (۲)

نیز آپ نے ارشاد فرمایا:

جو شخص اپنے آپ کو مغرب اور عشاء کے درمیان مسجد
جماعت میں روکے رکھے نماز اور قرآن پاک (کی تلاوت)
کے علاوہ کوئی گفتگو نہ کرے تو اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم یہ
ہے کہ اس کے لیے دو محل بنائے کہ ان میں سے ہر محل
ایک سو سال کی مسافت کا ہو اور اس کے لیے ان دونوں
کے درمیان درخت لگا دے کہ اگر زمین والے اس
میں گھوہیں تو سب کے لیے گنہ گار بنیں۔

مَنْ عَكَفَ نَفْسَهُ فِيمَا بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ

فِي مَسْجِدٍ جَمَاعَةٍ لَمْ يَتَكَلَّمْ إِلَّا بِصَلَاةٍ

أَوْ يُقْرَأَنَّ كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يَبْنِيَنَّ

لَهُ قَصْرَيْنِ فِي الْجَنَّةِ مَسِيرَةَ كُلِّ

قَصْرَةٍ مِنْهُمَا مِائَةٌ عَامٍ وَيَعْرِضَنَّ لَهُ

بَيْنَهُمَا عِزًّا سَاكُوطًا فِئَ أَهْلِ الْأَرْضِ

لَوْ سِعَهُمْ - (۳)

باقی فضائل و طائف کے بیان میں آئیں گے۔ ان شاء اللہ تعالیٰ

دوسری قسم:

وہ نوافل جو ہفتے کے دن رات بدلنے سے بار بار آتے ہیں دنوں کے سلسلے میں ہم انوار کے دن سے آغاز کرتے ہیں۔

انوار کا دن: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

جو آدمی انوار کے دن چار رکعات پڑھے ہر رکعت میں سورہ

فاتحہ اور سورہ بقرہ کا آخری رکوع جو آمن الرسول سے شروع

ہوتا ہے ایک بار پڑھے اللہ تعالیٰ اس کے لیے تمام عیسائی

مردوں اور عورتوں کی نوداد کے مطابق نیکی لکھ دیتا ہے

مَنْ صَلَّى يَوْمَ الْاِحْدِ اَرْبَعِ رَكَعَاتٍ يُقْرَأَ

فِي كُلِّ رَكَعَةٍ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَآمِنِ الرَّسُولِ

مَرَّةً كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِعَدَدِ كُلِّ نَصْرَانِيٍّ وَنَصْرَانِيَّةٍ

حَسَنَاتٍ وَأَعْطَاهُ اللَّهُ ثَوَابَ نَبِيٍّ وَكُتِبَ لَهُ

(۱) قرآن مجید سورہ سجدہ آیت ۱۶

(۲) کتاب الزہد والرفاق ص ۴۲۵ آیت ۱۲۵۹

(۳) توت القلوب جلد اول ص ۴۰ الفصل الحادی عشر

حَجَّةٌ وَعُمْرَةٌ وَكُتِبَ لَهُ بِكُلِّ رُكْعَةٍ أَلْفٌ
صَلَاةٍ وَأَعْطَاهُ اللَّهُ فِي الْجَنَّةِ بِكُلِّ حَرْفٍ
مَدِينَةً مِنْ مَسَلِكٍ آذَانَ،

اور اسے ایک نبی کے ثواب کے برابر ثواب عطا کرتا ہے
اس کے لیے ایک حج اور عمر کے کا ثواب لکھا ہے ہر رکعت
کے بدلے ایک ہزار رکعت لکھ دیتا ہے اور اسے جنت
میں ہر حرف کے بدلے خالص مشک کا ایک شہر عطا کرے گا۔
حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں۔

کہ آپ نے فرمایا:

رَحِمَهُ وَاللَّهُ بِكَثْرَةِ الصَّلَاةِ يَوْمَ الْآخِرَةِ
فَإِنَّهُ سُبْحَانَهُ وَاحِدٌ لَا شَرِيكَ لَهُ فَفَمَنْ
صَلَّى يَوْمَ الْوَاحِدِ بَعْدَ صَلَاةِ الظُّهْرِ أَرْبَعِ
رُكْعَاتٍ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ وَالسُّنَّةِ يَقْرَأُ فِيهَا
الْأُولَى فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَتَنْزِيلَ السُّجْدَةِ
وَفِي الثَّانِيَةِ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَتَبَارَكَ
الْمَلِكُ ثُمَّ تَشَهُدُ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى
رُكْعَتَيْنِ آخِرَتَيْنِ يَقْرَأُ فِيهِمَا فَاتِحَةَ الْكِتَابِ
وَسُورَةَ الْجُمُعَةِ وَسَأَلَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ حَاجَتَهُ
كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يَقْضِيَ حَاجَتَهُ. (۲۱)

انوار کے دن زیادہ نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی توفیق کو ظاہر
کرو بیے شک وہ پاک ذات ایک ہے اس کا کوئی شریک
نہیں اور جو آدمی انوار کے دن ظہر کے بعد فرضوں اور سنتوں
کے بعد چار رکعات پڑھے پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ اور
تہنیزل سجدہ پڑھے دوسری میں سورہ فاتحہ اور سورہ ملک پڑھے
پھر تشهد پڑھے اور سلام پھیر دے پھر کھڑا ہو اور دوسری دو
رکعتیں پڑھے دونوں میں سورہ فاتحہ اور سورہ جمعہ پڑھے تو
اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے کہ اس کی حاجت کو پورا
کرے۔

سوموار کا دن :

حضرت جابر رضی اللہ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا:

مَنْ صَلَّى يَوْمَ الْاِثْنَيْنِ عِنْدَ اِرْتِفَاعِ النَّهَارِ
رُكْعَتَيْنِ يَقْرَأُ فِي كُلِّ رُكْعَةٍ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ
مَرَّةً وَآيَةَ الْكُرْسِيِّ مَرَّةً وَقَدْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ
وَالْمَعُودَتَيْنِ مَرَّةً مَرَّةً فَإِذَا سَلَّمَ اسْتَعْفَرَ لِلَّهِ

جو شخص سوموار کے دن سورج بلند ہوتے وقت دو رکعتیں
پڑھے ہر رکعت میں سورہ فاتحہ ایک بار آیت الکرسی ایک
بار قل هو اللہ احد اور سورہ فلق اور سورہ والناس ایک ایک
بار پڑھے سلام پھیرنے کے بعد دس بار استغفار پڑھے

(۱) قوت القلوب جلد اول ص ۲۷ الفصل الحادی عشر

(۲)

اور دس مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجے
اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ بخش دیتا ہے۔

عَشْرَةَ مَرَّاتٍ وَصَلَّى عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ عَشْرَ مَرَّاتٍ غُفِرَ اللَّهُ تَعَالَى لَهُ ذُنُوبَهُ
كُلُّهَا۔

(۱)

حضرت انس رضی اللہ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔
جو شخص سووار کے دن بار رکعات یوں ادا کرے کہ ہر رکعت
ہیں سورہ فاتحہ اور آیت الکرسی ایک بار پڑھے فارغ ہونے
کے بعد بارہ مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے اور بارہ مرتبہ استغفار
کرنے تو قیامت کے دن ایک پکارنے والا پکارے گا
کہ فلاں بن فلاں کہاں ہے وہ اٹھے اور اللہ تعالیٰ سے
اپنا ثواب حاصل کرے اسے سب سے پہلا ثواب ہزار
جوڑوں کی صورت میں ملے گا اور اسے تاج پہنایا جائے گا
اور کہا جائے گا جنت میں داخل ہو جاؤ ایک لاکھ فرشتے اس
کا استقبال کریں گے ہر فرشتے کے پاس ایک تحفہ ہو گا
جو اسے پیش کریں گے حتیٰ کہ وہ ایک ہزار محلات پر جائے
گا جو نور سے بنے ہوں گے اور چمک رہے ہوں گے۔

عَشْرَةَ مَرَّاتٍ يَنَادِي بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَيُّ
فَلَانِ بْنِ فُلَانٍ لِيُعْتَمَ فَلْيَأْخُذْ ثَوَابَهُ مِنَ اللَّهِ
عَزَّ وَجَلَّ قَائِلٌ مَا يُعْطَى مِنَ الثَّوَابِ أَلْفَ
حُلَّةٍ وَيَتَوَجَّحُ وَيُقَالُ لَهُ ادْخُلِ الْجَنَّةَ
فَيَسْتَقْبَلُهُ مِائَةُ أَلْفِ مَلَكٍ مَعَ كُلِّ مَلَكٍ
هَدِيَّةٌ يَسْتَبِغُونَ بِهَا حَتَّى يَدُورَ عَلَى أَلْفِ
قَصْرِ مِنْ نُورٍ يَتَلَدَلُونَ۔ (۲)

مشکل کا دن :

حضرت یزید زقاشی، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

نے فرمایا۔

جو شخص مشکل کے دن دوپہر کے بعد دس رکعات پڑھے دوسری
حدیث میں ہے کہ سورج کے بلند ہوتے وقت پڑھے ہر
رکعت میں سورہ فاتحہ اور آیت الکرسی ایک ایک بار اور تین
بار سورہ اخلاص پڑھے تو ستر دن تک اس کا گناہ نہیں لکھا

مَنْ صَلَّى يَوْمَ الثَّلَاثَاءِ عَشْرَ رَكَعَاتٍ عِنْدَ
انْتِصَافِ النَّهَارِ۔ وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ: عِنْدَ
ارْتِفَاعِ النَّهَارِ يَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكَعَةٍ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ
وَأَيَّةَ الْكُرْسِيِّ مَرَّةً وَقِيلَ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ثَلَاثَ

(۱) قوت القلوب جلد اول ص ۲۷ الفصل الحادی عشر

(۲) قوت القلوب جلد اول ص ۲۷ الفصل الحادی عشر

مَرَاتٍ لَمْ تَكْتُبْ عَلَيْهِ حَظِيئَةٌ إِلَى سَبْعِينَ يَوْمًا
فَإِنْ مَاتَ إِلَى سَبْعِينَ يَوْمًا مَاتَ شَهِيدًا وَغُفِرَ لَهُ
ذُنُوبُ سَبْعِينَ سَنَةً - (۱)

بدھ کا دن :-

حضرت ابو ادریس خولانی نے حضرت عاذ بن جبیل رضی اللہ عنہ سے روایت کیا وہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

جو شخص بدھ کے دن سورج کے بلند ہوتے وقت بارہ رکعات پڑھے اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ اور آیت الکرسی ایک ایک بار جب کہ سورہ اخلاص سورہ فلق اور سورہ والناس تین تین بار پڑھے تو عرش کے پاس سے ایک منادی آوار دیتا ہے اسے اللہ کے بندے از سر نو عمل کرتے سابقہ گناہ بخش دیئے گئے اللہ تعالیٰ نے تجھ سے عذاب قبر، قبر کی تنگی اور اس کا اندھیرا اٹھایا نیز تجھ سے قیامت کی سختیوں کو بھی اٹھایا اور اس دن اس کے لیے ایک نبی کے عمل کے برابر (عمل) اور پورے جانے گا۔

مَنْ صَلَّى يَوْمَ الْأَرْبَعَاءِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رُكْعَةً
عِنْدَ اِرْتِفَاعِ الشَّمْسِ يَقْرَأُ فِي كُلِّ رُكْعَةٍ فَاتِحَةَ
الْكِتَابِ وَآيَةَ الْكُرْسِيِّ مَرَّةً وَقَدْ هُوَ
اللَّهُ أَحَدٌ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَالْمَعُودَتَيْنِ ثَلَاثَ
مَرَّاتٍ نَادَى مُنَادٍ عِنْدَ الْعَرْشِ يَا عَبْدَ اللَّهِ
اسْتَأْنَفَ الْعَمَلَ فَقَدْ غُفِرَ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ
ذَنْبِكَ وَرَفَعَ اللَّهُ سُبْحَانَكَ عَنْكَ عَذَابَ
الْقَبْرِ وَضِيقَهُ وَرَفَعَ عَنْكَ شِدَّةَ اِبْدِ الْقِيَامَةِ
وَرَفَعَ لَهُ مِنْ يَوْمِهِ عَمَلًا نَبِيًّا - (۲)

جمعرات کا دن :

حضرت عکرمہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

جو شخص جمعرات کے دن ظہر اور عصر کے درمیان دو رکعتیں اس طرح پڑھے کہ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ اور آیت الکرسی ایک سو مرتبہ دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص ایک سو مرتبہ پڑھے سو مرتبہ بارگاہ رسالت میں ہدیہ درود بھیجے تو اللہ تعالیٰ اسے رجب، شعبان اور رمضان

مَنْ صَلَّى يَوْمَ الْخَمِيسِ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ
رُكْعَتَيْنِ يَقْرَأُ فِي الْأُولَى فَاتِحَةَ الْكِتَابِ
وَآيَةَ الْكُرْسِيِّ مِائَةً مَرَّةً وَفِي الثَّانِيَةِ
فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَقَدْ هُوَ اللَّهُ أَحَدًا مِائَةً
مَرَّةً وَيُصَلِّي عَلَى مُحَمَّدٍ مِائَةً مَرَّةً اعْطَاهُ

(۱) قوت القلوب جلد اول ص ۲۷ الفصل الحادی عشر

(۲) قوت القلوب جلد اول ص ۲۸ الفصل الحادی عشر

کے روزوں کا ثواب عطا فرماتا ہے اور اس کے لیے بیت اللہ شریف کا حج کرنے والے بیسوا ثواب ہوتا ہے اور جس قدر لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور انہوں نے اسی پر بھروسہ کیا ان کی تعداد کے مطابق اسے نیکیاں ملتی ہیں۔

اللَّهُ تَوَابٌ مِّنْ صَامِ رَجَبٍ وَشَعْبَانَ وَ
رَمَضَانَ وَكَانَ لَكُمْ مِنَ الثَّوَابِ مِثْلُ حَاجِجِ
الْبَيْتِ وَكَتَبَ لَهُ بِعَدِّ ذِكْرِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ سُبْحَانَهُ
وَتَوَكَّلَ عَلَيْهِ حَسَنَةً - (۱)

جمعۃ المبارک کا دن :

حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا۔
جمعہ کا دن مکمل طور پر نماز کے لیے ہے جب سورج کے ایک
نیزہ یا اس سے زیادہ بلند ہونے کے وقت کوئی مومن اٹھ
کر وضو کرے اور کامل وضو کرے پھر چاشت کی دو رکعتیں ایمان
اور ثواب کی نیت سے پڑھے تو اللہ تعالیٰ کی اس کے لیے دو
نیکیاں لکھتا ہے اور ایک سو گناہ مٹاتا ہے اور جو شخص
چار رکعات پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں چار
سورج جات بلند کرتا ہے اور جو آدمی آٹھ رکعات پڑھے اللہ
تعالیٰ اس کے لیے جنت میں آٹھ سورج جات بلند کرتا ہے
اور اس کے تمام گناہ بخش دیتا ہے اور جو شخص بارہ
رکعات پڑھے اللہ تعالیٰ اس کے لیے دو ہزار دو سو
نیکیاں لکھتا ہے اور اس سے دو ہزار دو سو گناہ مٹاتا
ہے اور اس کے لیے جنت میں دو ہزار دو سو درجہ جات
بلند کرتا ہے۔

حَضْرَتِ عَلِيِّ الْمُرْتَضَىٰ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، نَبِيِّ أَكْرَمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ رِوَايَاتِهِ أَنَّكَ قَالَ: يَوْمَ الْجُمُعَةِ صَلَاةُ كُلِّ مَأْمُونٍ عَبْدٍ مُّؤْمِنٍ قَامَ إِذَا اسْتَقَلَّتِ الشَّمْسُ وَارْتَفَعَتْ قَدْرُ رَمُوحِ أَوَّاكْتَرَمِينَ ذَلِكَ قَتُوصَاتُهَا سَبْعُ الْوُضُوءِ فَصَلَّى سُبْحَةَ الضُّحَىٰ رُكْعَتَيْنِ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا إِنْ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ مَا نَتَىٰ حَسَنَةً وَمَحَاسِنُهُ مِائَةَ سَبِيَّةٍ وَمَنْ صَلَّى أَرْبَعَ رُكْعَاتٍ رَفَعَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ لَهُ فِي الْجَنَّةِ أَرْبَعِمِائَةَ دَرَجَةٍ وَمَنْ صَلَّى ثَمَانِ رُكْعَاتٍ رَفَعَ اللَّهُ تَعَالَىٰ لَهُ فِي الْجَنَّةِ ثَمَانِمِائَةَ دَرَجَةٍ وَغَفَرَ لَهُ ذُنُوبَهُ كُلَّهَا وَمَنْ صَلَّى ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رُكْعَةً كَتَبَ اللَّهُ لَهُ الْفَيْنِ وَمِائَتَيْ حَسَنَةٍ وَمَحَاسِنُهُ الْفَيْنِ وَمِائَتَيْ سَبِيَّةٍ دَرَجَةٍ رَفَعَ اللَّهُ فِي الْجَنَّةِ الْفَيْنِ وَمِائَتَيْ دَرَجَةٍ - (۲)

حضرت نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں۔

جو شخص جمعہ کے دن جامع مسجد میں داخل ہو کر چار رکعات

آپ نے فرمایا: مَنْ دَخَلَ الْجَامِعَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَصَلَّى

(۱) ثبوت القلوب جلد اول ص ۲۸ الفصل الحادى عشر

جموعہ کی نماز سے پہلے پڑھے ہر رکعت میں ایک بار سورہ فاتحہ اور سچاس مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے وہ مرنے سے پہلے جنت میں اپنا ٹھکانہ دیکھے گا یا اسے دکھایا جائے گا۔

أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ قَبْلَ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ يَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكَعَةٍ الْحَمْدَ لِلَّهِ وَقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ خَمْسِينَ مَرَّةً لَمْ يَمِيتْ حَتَّى يَبْرِي مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ أَوْ يَبْرِي لَهُ - (۱)

ہفتہ کا دن :

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا :-

جو شخص ہفتے کے دن چار رکعات پڑھے ہر رکعت میں سورہ فاتحہ ایک مرتبہ اور سورہ اخلاص تین مرتبہ پڑھے فارغ ہونے کے بعد آیت الکرسی پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر حرف کے بدلے ایک حج اور عمرے کا ثواب لکھ دیتا ہے اور اس کے لیے ہر حرف کے بدلے ایک سال کے روزوں اور قیام میل کا ثواب لکھتا ہے اور اسے ہر حرف کے بدلے ایک شہید کا ثواب عطا فرماتا ہے اور وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے انبیاء کرام اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔

مَنْ صَلَّى يَوْمَ السَّبْتِ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ يَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكَعَةٍ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ مَرَّةً وَقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ فَلَهُ مَرَاتٍ فَإِذَا فَرَغَ قَرَأَ آيَةَ الْكُرْسِيِّ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِكُلِّ حَرْفٍ حَجَّةً وَعُمْرَةً وَرَفَعَ لَهُ بِكُلِّ حَرْفٍ أَحَدَ سَنَةٍ صِيَامِ نَهَارِهَا وَقِيَامِ لَيْلِهَا وَأَعْطَاهُ اللَّهُ عَرْشًا وَجَلَّ بِكُلِّ حَرْفٍ ثَوَابَ شَهِيدٍ وَكَانَ تَحْتَ ظِلِّ عَرْشِ اللَّهِ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ - (۲)

راتیں

اتوار کی رات :

حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے وہ اتوار کی رات کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا :-

جو شخص اتوار کی رات میں رکعات پڑھے ہر رکعت میں سورہ فاتحہ (ایک بار) اور سورہ اخلاص سچاس مرتبہ اور سورہ قل دو

مَنْ صَلَّى لَيْلَةَ الْاِحْدِ عَشْرِينَ رَكَعَةً يَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكَعَةٍ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَقُلْ هُوَ اللَّهُ

(۱) کتاب الموضوعات جلد ۲ ص ۱۹ صلاة يوم الجمعة

(۲) قوت القلوب جلد اول ص ۲۸ الفصل الحادی عشر

سورہ والناس ایک ایک بار پڑھے ایک سو مرتبہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرے اپنے لیے اور اپنے ماں باپ کے لیے ایک سو مرتبہ بخشش مانگے ایک سو مرتبہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجے اپنی قوت سے برأت کا اعلان کرے اللہ تعالیٰ کے ماں پناہ لے پھر کہے ہیں گواہی دینا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں بے شک حضرت آدم علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے اور اس بنائے ہوئے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں اس کے لیے ان لوگوں کی تعداد کے برابر ثواب ہوگا جو اللہ تعالیٰ سے اولاد کی دعا مانگتے اور جو اللہ تعالیٰ سے اولاد نہیں مانگتے اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے امن والے لوگوں کے ساتھ اٹھائے گا، اور اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر واجب ہے کہ انبیاء و کرام علیہم السلام کے ساتھ جنت میں داخل کرے۔

أَحَدٌ خَمْسِينَ مَرَّةً وَالْمَعْرُوفَيْنِ مَرَّةً مَرَّةً
وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ مِائَةَ مَرَّةٍ وَأَسْتَنْدِرُ
لِنَفْسِيهِ وَلِوَالِدَيْهِ مِائَةَ مَرَّةٍ وَصَلَّى عَلَيَّ
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّةً وَتَبَرَّأَ مِنْ
جَوْلِيهِ وَقُوَّتِهِ وَالتَّجَاؤِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ قَالَ
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ أَدَمَ
صَفْوَةَ اللَّهِ وَفَطْرَتَهُ وَإِبْرَاهِيمَ خَلِيلَ اللَّهِ
وَمُوسَى كَلِيمَ اللَّهِ وَعِيسَى رُوحَ اللَّهِ وَمُحَمَّدًا
حَبِيبَ اللَّهِ كَانَ لَهُ مِنَ الثَّوَابِ بَعْدَ مَنْ
دَعَا لِلَّهِ وَلِدَاؤُا وَمَنْ لَعِنَ لِلَّهِ وَلِدَاؤُا وَبَعَثَهُ
اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ الْأَمْثَلِينَ
وَكَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ تَعَالَى أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ
مَعَ النَّبِيِّينَ.

(۱)

سو مواری کی رات:

حضرت اعمش، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
جو آدمی سو مواری کی رات چار رکعتیں پڑھے پہلی رکعت میں
ایک بار الحمد للہ اور دس مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے دوسری
رکعت میں الحمد للہ اور اس کے ساتھ سورہ اخلاص بیس مرتبہ
پڑھے تیسری رکعت میں الحمد للہ اور پھر سورہ اخلاص تیس
مرتبہ پڑھے چوتھی رکعت میں الحمد للہ اور پھر سورہ اخلاص
چالیس مرتبہ پڑھے پھر سلام پھیرنے کے بعد چھتر مرتبہ

مَنْ صَلَّى لَيْلَةَ الْاِثْنَيْنِ اَرْبَعِ رَكَعَاتٍ يَقْرَأُ
فِي الرُّكْعَةِ الْاُولَى الْحَمْدُ لِلَّهِ وَقُلْ هُوَ اللَّهُ
اَحَدٌ عَشْرَ مَرَّاتٍ وَفِي الرُّكْعَةِ الثَّانِيَةِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ وَقُلْ هُوَ اللَّهُ اَحَدٌ عَشْرِينَ
مَرَّةً وَفِي الثَّالِثَةِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَقُلْ هُوَ
اللَّهُ اَحَدٌ ثَلَاثِينَ مَرَّةً وَفِي الرَّابِعَةِ

قل هو اللہ احد پڑھے اپنے لیے اور اپنے والدین کے لیے
پچھتر مرتبہ بخشش طلب کرے پھر اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت
کا سوال کرے تو اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر واجب ہے کہ
وہ اس کے ہر سوال کے مطابق عطا فرمائے اس نماز کو صلاۃ
حاجت کہتے ہیں۔

(۱)

الْحَمْدُ لِلَّهِ وَقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ أَرْبَعِينَ مَرَّةً ثُمَّ
يُسَلِّمُ وَيَقْرَأُ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ خَمْسًا وَسَبْعِينَ
مَرَّةً وَاسْتَغْفِرَ اللَّهُ لِنَفْسِهِ وَلِوَالِدَيْهِ خَمْسًا
وَسَبْعِينَ مَرَّةً تَمَّ سَأَلَ اللَّهُ حَاجَتَهُ كَانَ
حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يُعْطِيَهُ سُؤْلَهُ مَا سَأَلَ، وَهِيَ
تَسْمَى صَلَاةَ الْحَاجَةِ لَيْلَةَ الثَّلَاثَا،

منگل کی رات:

حدیث شریف ہیں ہے۔

جو شخص اس رات دو رکعتیں پڑھے ہر رکعت میں سورہ فاتحہ
اور سورہ اخلاص نیز سورہ فلق اور سورہ الناس پندرہ پندرہ بار
پڑھے اور سلام پھیرنے کے بعد پندرہ مرتبہ آیت الکرسی
پڑھے پندرہ بار اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگے اس کے
لیے بہت بڑا ثواب اور عظیم اجر ہے۔

(۲)

مَنْ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ يَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ
وَقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَالْمُعَوِّذَيْنِ خَمْسَ عَشْرَةَ
مَرَّةً وَيَقْرَأُ بَعْدَ التَّسْلِيمِ خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً
آيَةَ الْكُرْسِيِّ وَاسْتَغْفَرَ اللَّهُ تَعَالَى خَمْسِينَ
عَشْرَةَ مَرَّةً كَانَ لَهُ ثَوَابٌ عَظِيمٌ وَأَجْرٌ
جَسِيمٌ۔

حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا:

جو آدمی منگل کی رات دو رکعتیں پڑھے ہر رکعت میں سورہ فاتحہ
ایک بار جب کہ سورہ الفجر اور سورہ اخلاص سات سات
بار پڑھے اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے آزاد کرے گا اور یہ نماز
قیامت کے دن جنت کی طرف اس کی قائد اور راہنما ہو
گی۔

مَنْ صَلَّى لَيْلَةَ الثَّلَاثَاءِ رَكْعَتَيْنِ يَقْرَأُ فِي كُلِّ
رَكْعَةٍ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ مَرَّةً فَإِنَّا أَنْزَلْنَا
وَقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ سَبْعَ مَرَّاتٍ أَعْتَقَ اللَّهُ
وَقَبْتَهُ مِنَ النَّارِ وَيَكُونُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
قَائِدًا وَدَلِيلًا إِلَى الْجَنَّةِ،

بدھ کی رات:

(۱) کتاب الموضوعات جلد ۲ ص ۱۱۷ صلاۃ یوم الاثنين

(۲) قوت القلوب جلد اول ص ۲۸، ۲۹ الفصل الحادی عشر

حضرت فاطمہ الزہراء رضی اللہ عنہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتی ہیں آپ نے فرمایا:

جو آدمی بدھ کی رات دو رکعتیں پڑھے پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ اور سورہ فلق دس مرتبہ پڑھے دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ اور سورہ والناس دس بار پڑھے سلام پھرنے کے بعد دس مرتبہ اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگے پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بیکس پناہ میں ہدیہ درود شریف دس مرتبہ پیش کرے تو آسمان سے ستر فرشتے نازل ہوتے ہیں جو قیامت تک اس کے لیے ثواب لکھتے ہیں۔

مَنْ صَلَّى لَيْلَةَ الرَّبِيعَاءِ رَكَعَتَيْنِ يِقْرَأُ فِي الرَّوْحَى فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَقَدْ اَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ عَشْرَ مَرَّاتٍ وَفِي الثَّانِيَةِ بَعْدَ الْفَاتِحَةِ قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ عَشْرَ مَرَّاتٍ ثُمَّ اِذَا سَلَّمَ اسْتَعْفَرَ اللّٰهَ عَشْرَ مَرَّاتٍ ثُمَّ يَصَلِّيْ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشْرَ مَرَّاتٍ نَزَلَ مِنْ كُلِّ سَمَاءٍ سَبْعُونَ اَلْفَ مَلَكٍ يَكْتُبُوْنَ ثَوَابَهُ اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔

ایک دوسری حدیث شریف میں ہے:

سورہ رکعات میں سورہ فاتحہ کے بعد جو دل چاہے پڑھے ہر دو رکعتوں کے بعد تیس مرتبہ آیت الکرسی پڑھے اور پہلی دو رکعتوں میں تیس مرتبہ قل ہو اللہ احد پڑھے اس کے گھر والوں میں سے ایسے دس آدمیوں کے بارے میں اس کی سفارش قبول ہوگی جن کے لیے جہنم واجب ہو گئی تھی۔

سِتِّ عَشْرَةَ رَكَعَةً يِقْرَأُ بَعْدَ الْفَاتِحَةِ مَا شَاءَ اللّٰهُ وَيَقْرَأُ فِي الْاٰخِرِ الرَّكَعَتَيْنِ اَيَّةَ الْكُرْسِيِّ ثَلَاثِيْنَ مَرَّةً وَفِي الرَّوْحِيِّ ثَلَاثِيْنَ مَرَّةً قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ يَشْفَعُ فِي عَشْرَةٍ مِنْ اَهْلِ بَيْتِ كُلِّهُمْ وَجِبَتْ عَلَيْهِمُ النَّارُ رَوَى فَاطِمَةُ رَضِيَ اللّٰهُ -

حضرت فاطمہ الزہراء رضی اللہ عنہا سے مروی ہے فرماتی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

جو آدمی بدھ کی رات چار رکعات پڑھے ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد قل اللہم مالک الملک تو بی الملک من تشاء وتنزل علی الملک من تشاء وتعلم من تشاء وتذل من تشاء ربیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر (۲) اسے محبوب! یوں عرض کریں اسے اللہ کے بادشاہی کے مالک توجس کو چاہے بادشاہی عطا کرے

مَنْ صَلَّى لَيْلَةَ الرَّبِيعَاءِ مِثْرَكَاتٍ قَرَأَ فِي كُلِّ رَكَعَةٍ بَعْدَ الْفَاتِحَةِ قُلِ اللّٰهُمَّ مَالِكِ الْمُلْكِ اِلَى الْاٰخِرَةِ فَاِذَا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ يَقُوْلُ: حَزَى اللّٰهُ مُحَمَّدًا اَعْتَمَا هُوَ اَهْلُهُ غُفِرَ لَهُ ذُنُوْبٌ سَبْعِيْنَ سَنَةً وَكُنِيَ لَهُ بَرَاءَةٌ مِنَ النَّارِ۔

اور جس سے چاہے لے لے تو جسے چاہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہے رسوا کرے بھلائی تیرے ہی قبضہ میں ہے بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے)

نماز سے فارغ ہونے کے بعد یوں کہنے "اللہ تعالیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری طرف سے وہ جزا عطا فرمائے جس کے آپ اہل ہیں، تو ایسے شخص کے ستر سال کے گناہ بخش دیئے جاتے ہیں اور اس کے لیے جہنم سے برأت لکھی جاتی ہے۔

جمعرات کی رات:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

جو آدمی جمعرات کی رات مغرب اور عشاء کے درمیان دو رکعتیں پڑھے ہر رکعت میں سورہ فاتحہ اور آیت الکرسی پانچ مرتبہ نیز سورہ اخلاص، سورہ قلن اور سورہ الناس پانچ پانچ مرتبہ پڑھے پھر نماز سے فراغت کے بعد پندرہ مرتبہ استغفر اللہ پڑھے اور اس کا ثواب اپنے ماں باپ کو پہنچائے تو اس نے والدین کا حق ادا کر دیا اگرچہ وہ ان کا نافرمان تھا اور اللہ تعالیٰ اسے وہ کچھ عطا کرے گا جو صدیقین اور شہداء کو عطا فرمائے گا۔

مَنْ صَلَّى لَيْلَةَ الْخَمِيسِ مَا بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ رَكْعَتَيْنِ يَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَآيَةَ الْكُرْسِيِّ خَمْسَ مَرَّاتٍ وَقَالَ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ خَمْسَ مَرَّاتٍ وَالْمُعَوَّذَاتَيْنِ خَمْسَ مَرَّاتٍ فَإِذَا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ اسْتَعْفَرَ اللَّهَ تَعَالَى خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً وَجَعَلَ ثَوَابَهُ لِوَالِدَيْهِ فَقَدْ أَدَّى حَقَّ وَالِدَيْهِ عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَ عَاقِلًا لِهَمَا وَعَظَاهُ اللَّهُ تَعَالَى مَا يُعْطَى الصَّادِقِينَ وَالشَّهَدَاءِ،

جمعۃ المبارک کی رات:

حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

جو شخص جمعہ کی رات مغرب اور عشاء کے درمیان بارہ رکعت پڑھے ہر رکعت میں سورہ فاتحہ ایک بار اور سورہ اخلاص گیارہ بار پڑھے گویا اس نے بارہ سال اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کی کہ دن کو روزہ رکھا اور رات کو نوافل کے ساتھ قیام کیا۔

مَنْ صَلَّى لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً يَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ مَرَّةً وَقَالَ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ أَحَدَى عَشْرَةَ مَرَّةً فَكَانَ مِمَّا عَبَدَ اللَّهُ تَعَالَى اثْنَتَيْ عَشْرَةَ سَنَةً صِيَامًا نَهَارًا وَقِيَامًا لَيْلًا۔ (۱)

(۱) قوت القلوب جلد اول ص ۶۹ الفصل الحادی عشر

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

مَنْ صَلَّى لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ صَلَاةَ الْعِشَاءِ
الْأَخِيذَةِ فِي جَمَاعَةٍ وَصَلَّى رَكْعَتِي السَّنَةِ ثُمَّ
صَلَّى بَعْدَهُمَا عَشْرَ رَكَعَاتٍ قَرَأَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ
فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَالْمَعْرُودَيْنِ
مَرَّةً مَرَّةً ثُمَّ أَوْتَرْتِ ثَلَاثَ رَكَعَاتٍ وَنَامَ عَلَى
جَنْبِهِ الْأَيْمَنِ وَجْهَهُ إِلَى الْقِبْلَةِ فَكَانَ مَا جَاءَ
لَيْلَةَ الْقَدْرِ -

جو شخص جمعہ کی رات عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے
پھر دو سنتیں پڑھ کر دس رکعات اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت
میں سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص، سورہ الفلق اور سورہ والناس
ایک ایک بار پڑھے پھر تین رکعات وتر پڑھ کر دائیں پہلو پر
قبلہ رخ ہو کر سو جائے تو گویا اس نے لیلۃ القدر عبادت
میں گزاری۔

(۱)

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

أَكْثَرُ مَا مِنَ الصَّلَاةِ عَلَى نِيْلَةِ الْغُرَاءِ
وَالْيَوْمِ الْاَوْزَهْرِ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ وَيَوْمِ
الْجُمُعَةِ - (۲)

روشن رات اور چمکتے ہوئے دن میں مجھ پر کثرت سے
درود شریف بھیجی یعنی جمعۃ المبارک کی رات اور جمعہ کے
دن۔

ہفتہ کی رات :

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

مَنْ صَلَّى لَيْلَةَ السَّبْتِ بَيْنَ الْمَغْرِبِ
وَالْعِشَاءِ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً بَنَى لِيَّ بَيْتًا
فِي الْجَنَّةِ وَكَانَ تَصَدَّقَ عَلَيَّ كُلِّ
مُؤْمِنٍ وَمُؤْمِنَةٍ وَتَبْرَأَ مِنَ الْيَهُودِ
وَكَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يَغْفِرَ لَهُ،

جو آدمی ہفتہ کی رات مغرب اور عشاء کے درمیان بارہ رکعتیں
پڑھے اس کے لیے جنت میں ایک محل بنایا جاتا ہے اور گویا
اس نے ہر مومن مرد و عورت پر صدقہ کیا اور وہ یہودیوں
سے بیزار ہوا اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے کہ اسے
بخش دے۔

(۳)

(۱) قوت القلوب جلد اول ص ۲۹ الفصل الحادی عشر

(۲) قوت القلوب جلد اول ص ۲۹ الفصل الحادی عشر

(۳) کتاب الموضوعات جلد ۲ ص ۱۱۳، ۱۱۴ صلاة يوم السبت

سال کے بدلنے سے بدل جانے والی عبادات

یہ چار نمازیں ہیں دو عیدوں کی نماز، تراویح، رجب اور شعبان کی نماز۔

عیدین کی نماز

عیدوں کی نماز سنت مؤکدہ ہے (یعنی واجب ہے) یہ نمازین کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے اس میں سات امور کا

لحاظ رکھنا چاہیے۔

اربعین باز تکبیر کہنا ہے اور وہ اس طرح ہے۔

اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ كَثِيرًا
وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا أَوْ سُبْحَانَ اللَّهِ بُكْرَةً
وَأَصِيلَةً لَوْلَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ
مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَكُودَةً
الْكَافِرُونَ۔

اللہ سب سے بڑا ہے (تین بار) وہ بہت بڑا ہے صبح و
شام اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی بیان کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے سوا
کوئی معبود نہیں وہ ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں
خالص اسی کی عبادت کرتے ہوئے اگرچہ کافروں کو ناپسند
ہو۔

عید الفطر کی رات تکبیر شروع کر کے نماز عید تک پڑھے اور دوسری عید (عید الاضحیٰ) میں نویں تاریخ کی صبح سے تیرہ تاریخ کی عصر

تک پڑھے یہ سب سے زیادہ مکمل قول ہے۔ (۱)

فرض نمازوں کے بعد اور نوافل کے بعد تکبیرات پڑھے قرآن کے بعد زیادہ تاکید ہے (۲)

۲۔ عید کے دن صبح ہونے پر غسل کرے اور زینت اختیار کرے اور خوشبو لگائے جیسا کہ ہم نے جمعہ کے باب میں ذکر

کیا ہے۔ مردوں کے لیے چادر اور دستاں افضل ہے پچھے ریشمی کپڑوں سے بچیں اور بوڑھی عورتیں عید کے لیے جاتے وقت
زینت سے پرہیز کریں (نوجوان عورتیں عید کی نماز کے لیے نہ جائیں)

۳۔ ایک راستے سے جائے اور دوسرے راستے سے واپس آئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہی تھا (۳)

اصحاب جو ان عورتوں اور پردہ دار خواتین کو بھی نکلنے کی اجازت دیتے تھے (۴)

(۱) فقہ حنفی میں تکبیرات لشرق صرف عید الاضحیٰ کے موقع پر ہوتی ہیں ۱۲ ہزاروی

(۲) احناف کے نزدیک صرف قرآن کے بعد پڑھنا لازم ہے ۱۲ ہزاروی

(۳) سنن ابن ماجہ ص ۳۰ باب ماجاء فی الخروج یوم العید (۴) صحیح مسلم جلد اول ص ۲۹۰ صلاة العیدین

اللہ تعالیٰ کے نام سے اللہ سب سے بڑا ہے یہ (قربانی)
میری طرف سے ہے اور میری امت کے ان لوگوں کی طرف
سے جو قربانی نہیں کر سکتے۔

بِسْمِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ هَذَا عَنِّي وَعَمَّنْ
لَمْ يُصَلِّحْ مِنِّي - (۱)

❖ ❖ ❖

اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
مَنْ رَأَى هِدْلَكَ ذِي الْحِجَّةِ وَارَادَ أَنْ يُصَلِّيَ
فَلْيَأْخُذْ مِنْ شَعْرِكَ وَلَا مِنْ أَظْفَارِكَ شَيْئًا (۲)

حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں۔ زمانہ در رسالت میں ایک شخص اپنے گھر والوں کی طرف سے ایک بکری
کی قربانی کرتا وہ خود بھی کھاتا اور دوسروں کو بھی کھلاتا تھا۔ (۳)

نوٹ:- گھر والوں کی طرف سے قربانی کا یہ مفہوم نہیں کہ تمام گھر والوں کی طرف سے ایک بکری کی قربانی ہو سکتی ہے مطلب
یہ ہے کہ ایک ہی شخص جس پر قربانی واجب ہوتی وہ اپنی طرف سے قربانی کرتا اور پھر تمام گھر والے اس گوشت سے خود بھی کھاتے
اور دوسروں کو بھی کھلاتے ۱۲ ہزاروی۔

قربانی کا گوشت تین دن بلکہ اس کے بعد بھی کھا سکتے ہیں شروع شروع میں اس سے عمانت تھی پھر اجازت دے
دی گئی۔

حضرت سفیان ثوری فرماتے ہیں عید الفطر کے بعد بارہ رکعات اور عید الاضحیٰ کے بعد چھ رکعات پڑھنا سنت ہے (حقیقت
یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز سے پہلے اور بعد نفل نہیں پڑھتے تھے اس لیے عید کی نماز سے پہلے نوافل گھر اور
عید گاہ دونوں جگہ منع ہیں البتہ نماز کے بعد گھر میں پڑھ سکتا ہے ۱۲ ہزاروی)

تراویح:

تراویح کی بیس رکعات ہیں اور ان کا طریقہ مشہور ہے، یہ سنت مؤکدہ ہیں اگرچہ عیدین سے کم درجہ ہے (کیونکہ عیدین کی
نماز واجب ہے ۱۲ ہزاروی) اس سلسلے میں اختلاف ہے کہ تراویح کی جماعت افضل ہے یا الگ الگ پڑھنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ
وسلم دو راتیں نماز تراویح کیلئے تشریف لائے پھر نہیں آئے اور فرمایا مجھے خوف ہوا کہ کہیں تم پر یہ نماز فرض نہ ہو جائے (۴)

(۱) سنن ابی داؤد جلد ۲ ص ۳۲ کتاب الضحایا۔

(۲) صحیح مسلم جلد ۲ ص ۱۶۰ کتاب الاضحیٰ

(۳) سنن ابن ماجہ ص ۲۳۲ ابواب الاضحیٰ

(۴) صحیح مسلم جلد اول ص ۲۵۹ باب الترغیب فی قیام رمضان

اور پھر جب وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا اور اب ان کے واجب ہونے کا خطرہ باقی نہ رہا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے صحابہ کرام کو جماعت میں جمع کیا۔

لہذا کہا گیا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے عمل کی وجہ سے جماعت افضل ہے نیز اجتماع میں برکت اور فضیلت ہوتی ہے کیوں کہ فرض نماز کی بھی جماعت ہوتی ہے نیز بعض اوقات تنہا پڑھنے کی صورت میں سستی ہو جاتی ہے اور جماعت کو دیکھ کر خوشی ہوتی ہے بعض نے کہا کہ الگ الگ پڑھنا افضل ہے کیونکہ یہ سنت ہے لیکن عیدین کی نماز کی طرح اسلامی شعائر میں سے نہیں ہے پس اسے نمازِ چاشت سے ملا دیا گیا حالانکہ تھیجۃ المسجد کی زیادہ فضیلت ہے لیکن اس میں جماعت جائز نہیں عادتاً لوگ مسجد میں اکٹھے داخل ہوتے ہیں لیکن تھیجۃ المسجد جماعت کی صورت میں نہیں پڑھتے۔

نفل نماز مسجد کی بجائے گھر میں پڑھنے کی فضیلت اسی طرح ہے جس طرح فرض نماز کو مسجد میں پڑھنا گھر میں پڑھنے سے افضل ہے۔

تیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے -
فَضْلُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ فِي بَيْتِهِ عَلَى
صَلَاةِهِ فِي الْمَسْجِدِ كَفَضْلِ صَلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ
فِي الْمَسْجِدِ عَلَى صَلَاةِهِ فِي الْبَيْتِ (۱)

ایک روایت میں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا أَفْضَلُ مِنْ
مِائَةِ صَلَاةٍ فِي غَيْرِهِ مِنَ الْمَسَاجِدِ
وَصَلَاةٌ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَفْضَلُ مِنْ
أَلْفِ صَلَاةٍ فِي مَسْجِدِي وَأَفْضَلُ مِنْ
ذَلِكَ كُلِّهِ رَجُلٌ يُصَلِّي فِي رَأْوِيَةِ بَيْتِهِ
رَكَعَتَيْنِ لَا يَعْلَمُهُمَا إِلَّا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ -

میری اس مسجد (مسجد نبوی) میں ایک نماز دوسری مساجد کی سو نمازوں سے افضل ہے اور مسجد حرام میں ایک نماز میری اس مسجد کی ہزار نمازوں سے افضل ہے اور ان سب سے افضل یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے گھر کے کونے میں دو رکعتیں پڑھے اور اس بات کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہو۔ (۲)

اس فضیلت کی وجہ یہ ہے کہ بعض اوقات جماعت کی وجہ سے ریاکاری اور بناوٹ پیدا ہو جاتی ہے جب کہ تنہا آدمی کی نماز اس سے محفوظ ہوتی ہے اس سلسلے میں یہ بات کہی گئی ہے لیکن مختار بات یہ ہے کہ یہ (تراویح کی) جماعت افضل ہے جس طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اسے بہتر سمجھا، کیوں کہ بعض نوافل کے لیے جماعت جائز ہے اور اس نماز کا دینی شعائر (نشانیوں) میں سے ہونا زیادہ لائق ہے جسے ظاہر کہا جائے جماعت کی صورت میں ریاکی طرف

(۱) سنن ابی داؤد جلد اول ص ۲۹ کتاب الصلوة

(۲) کنز العمال جلد ۱۲ ص ۲۵۸ حدیث ۳۲۹۳ / الترغیب والترہیب جلد اول ص ۴۳۰ الترغیب فی قیام اللیل۔

اور علیؑ کی پڑھے میں سستی کی طرف نظر کرنا جماعت کی فضیلت جو بحیثیت جماعت کے حاصل ہوتی ہے کے مقصود سے پھر جاننا ہے۔ اور کوئی قائل کہتا ہے کہ سستی کی وجہ سے چھوڑنے کی نسبت نماز بہتر ہے اور اخلاص ریاضت سے بہتر ہے، تو ہم مسئلے کو یوں فرض کرتے ہیں کہ جس آدمی کو اپنے اوپر اعتماد ہے وہ تنہا پڑھنے کی صورت میں سستی نہیں کرے گا اور جماعت میں حاضر ہو تو دکھاوے سے کام نہیں لے گا۔ تو اس کے لیے ان میں کونسا طریقہ افضل ہے؟ تو نظر جمع کی برکت اور تنہا پڑھنے کی صورت میں قوت اخلاص اور حضور قلب کے درمیان پھرتی ہے پس ممکن ہے ایک کو دوسری صورت پر ترجیح دینے میں تردد ہو اور رمضان شریف کے نصف اخیر میں وتر نماز میں قنوت پڑھنا مستحب ہے (احناف کے نزدیک پورے سال میں قنوت میں قنوت پڑھنا واجب ہے ۱۲ ہزاروی۔)

ماہِ رَجَبِ کی نماز :

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مندا مروی ہے آپ نے فرمایا:

جو آدمی رجب کی پہلی جمعرات کو روزہ رکھے پھر مغرب اور عشاء کے درمیان دس رکعات پڑھے ہر دو رکعتوں پر سلام پھیرے ہر رکعت میں ایک بار سورہ فاتحہ اور تین بار "اِنَّا اَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ" اور اس بار سورہ اخلاص پڑھے نماز سے فارغ ہونے کے بعد مجھ پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ستر مرتبہ درود شریف پڑھے یوں کہے "اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَي مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الرَّقِيِّ" اسے اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نبی ہیں اور کسی سے پڑھے ہوئے نہیں ہیں برحمت نازل فرما پھر سجدہ کرے اور سجدہ میں ستر مرتبہ یہ کلمات پڑھے "سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ" (بلا تکرار اور حضرت جبریل علیہ السلام کا رب پاک ہے) پھر میرا اٹھا کر ستر مرتبہ یہ کلمات پڑھے "رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَتَجَاوَزْ عَمَّا تَعْلَمُ اِنَّكَ اَنْتَ الْاَعَزُّ الْاَكْرَمُ" اسے میرے رب بخش دے اور رحم فرما اور جو کچھ تو جانتا ہے اس سے درگزر فرما بے شک تو بیت عزت و بزرگی والا ہے) پھر دوسرا

مَا مِنْ اَحَدٍ يَصُومُ اَوَّلَ رَجَبٍ ثُمَّ يَصَلِّيَ بَيْنَ الْعِشَاءِ وَالْعَتَمَةِ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رُكْعَةً يَفْصِلُ بَيْنَ كُلِّ رُكْعَتَيْنِ بِتَسْلِيمَةٍ يَقْرَأُ فِي كُلِّ رُكْعَةٍ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ مَرَّةً وَاِنَّا اَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَقَدْ هُوَ اللهُ اَحَدٌ اِثْنَتَيْ عَشْرَةَ مَرَّةً فَاِذَا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ صَلَّى عَلَي سَبْعِينَ مَرَّةً يَقُولُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَي مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الرَّقِيِّ وَعَلَي اٰلِهِ ثُمَّ يَسْجُدُ وَيَقُولُ فِي سُجُودِ سَبْعِينَ مَرَّةً سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ وَيَقُولُ سَبْعِينَ مَرَّةً رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَتَجَاوَزْ عَمَّا تَعْلَمُ اِنَّكَ اَنْتَ الْاَعَزُّ الْاَكْرَمُ ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَةً اُخْرَى وَيَقُولُ فِيهَا مِثْلَ مَا قَالَ فِي السَّجْدَةِ الْاُولَى ثُمَّ يَسْأَلُ مَا جَاءَهُ فِي سُجُودِهِ فَاِنَّهَا تُقْبَلُ - قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «لَا يُصَلِّي أَحَدٌ هَذِهِ الصَّلَاةَ
إِلَّا غَفَرَ اللَّهُ تَعَالَى لَهُ جَمِيعَ ذُنُوبِهِ وَكَوْكَانَتْ
مِثْلَ زَبَدِ الْيَجْرِ وَعَدَدِ الذَّرْمِلِ وَوِزْنِ الْجِبَالِ
وَوَرَقِ الْأَشْجَارِ وَيَسْتَفَعُّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
فِي سَبْعِمِائَةِ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ مِمَّنْ قَدِ
اسْتَوْجَبَ النَّارَ» (۱)

سجدہ کرے اور اس میں پہلے سجدے والے کلمات پڑھے
پھر سجدے میں اپنی حاجت کا سوال کرتے بے شک وہ پوری
ہوگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ نماز
پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ بخش دیتا ہے اگرچہ سمندر
کی جھاگ ریت کی تعداد پہاڑوں کے وزن اور درختوں کے
پتوں جتنے ہوں اور قیامت کے دن اس کے گھر والوں میں
سے ستر آدمیوں کے بارے میں اس کی سفارش قبول ہوگی اور یہ وہ
لوگ ہوں گے جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی۔ یہ نماز مستحب ہے۔

ہم نے اس قسم کے تحت اس لیے بیان کیا کہ یہ بھی سال کے بدلنے سے دوبارہ آتی ہے اگرچہ اس کا مقام، نماز عید اور
تراویح تک نہیں پہنچا کیونکہ یہ نماز خبر واحد سے ثابت ہے لیکن میں نے (امام غزالی رحمہ اللہ نے) اہل قدس کو دیکھا کہ وہ سب
اس نماز کو پابندی سے پڑھتے ہیں اور اسے نہیں پھوڑتے اس لیے میں نے اسے یہاں بیان کرنا مناسب سمجھا۔

ماہ شعبان کی نماز :

شعبان کی پندرہویں رات میں ایک سو رکعات پڑھے اور ہر دو رکعتوں پر سلام پھیرے ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد گیارہ مرتبہ
سورہ اخلاص پڑھے اور چاہے تو دس رکعتیں پڑھے اور ہر رکعت میں ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور سو مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھے یہ
بھی باقی (نوافل) نمازوں میں مروی ہے بہار سے اسلاف یہ نماز پڑھتے تھے اور اس کو صلاۃ الخیر کہا کرتے تھے وہ اس
کے لیے جمع ہوتے اور بعض اوقات جماعت کے ساتھ بھی پڑھتے، حضرت حسن بصری رحمہ اللہ سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں مجھ
سے تیس صحابہ کرام نے بیان کیا کہ ”جو آدمی اس رات یہ نماز پڑھے اللہ تعالیٰ اس کی طرف ستر بار نظر رحمت فرماتا ہے اور
ہر نظر کے ساتھ اس کی ستر حاجت کو پورا فرماتا ہے جن میں سے سب سے پھوٹی حاجت اس کی مغفرت ہے (۲)۔

چوتھی قسم :

وہ نوافل جن کے اسباب حارثی ہیں وہ کسی وقت کے ساتھ مخصوص نہیں۔
یہ نوہیں سورج گرہن کی نماز، چاند گرہن کی نماز، نماز استسقاء بارش کے لئے نماز، تحیۃ المسجد، تحیۃ الوضوء، اذان اور
اقامت کے درمیان دو رکعتیں، گھر سے نکلتے اور داخل ہوتے وقت کی دو رکعتیں اور اس کی مثل نوافل اس وقت ہم ان

(۱) کتاب الموضوعات جلد ۲ ص ۱۲۵ صلاۃ الغائب

(۲) کتاب الموضوعات جلد ۲ ص ۱۲۶ صلاۃ لیلة النصف من شعبان

نوافل کا ذکر کریں گے جو ہمارے ذہن میں حاضر ہیں۔
چاند گرہن کی نماز: سورج گرہن کی نماز:

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

لَا تَخْشَفَانِ لِمَوْتٍ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ
فَإِذَا رَأَيْتُمَا ذَلِكَ فَافْزَعُوا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ
وَالصَّلَاةِ (۱)

بے شک سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے
دونشانیاں ہیں انہیں کسی کی موت یا زندگی کے باعث
گرہن نہیں ہوتا پس جب تم اس بات (گرہن) کو دیکھو تو اللہ
کے ذکر اور نماز کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔

آپ نے یہ بات اس وقت فرمائی جب جب آپ کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا اور ادھر سورج
گرہن بھی ہو گیا تو صحابہ کرام نے فرمایا کہ یہ آپ کے صاحبزادے کی وفات کی وجہ سے ہوا ہے۔
نماز گرہن کا طریقہ اور وقت:

اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب سورج گرہن اس وقت ہو جب نماز پڑھنا مکروہ ہو یا مکروہ نہ ہو تو آواز دی جائے "نماز کھڑی
ہونے والی ہے" اور امام لوگوں کو دو رکعتیں پڑھائے ہر رکعت میں دو رکوع کرے ان میں سے پہلی رکعت کو دوسری کی نسبت
لمبا کرے اور قرأت بلند آواز سے نہ کرے پہلی رکعت کے پہلے قیام میں سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ پڑھے جب کہ دوسرے قیام
میں سورہ فاتحہ اور سورہ آل عمران پڑھے تیسرے قیام یعنی دوسری رکعت کے پہلے قیام میں سورہ فاتحہ اور سورہ نسا اور دوسرے
قیام میں سورہ فاتحہ اور سورہ مائدہ پڑھے یا اس کی مقدار قرآن پاک سے جہاں سے چاہے پڑھے اور اگر ہر قیام میں سورہ فاتحہ
پر اکتفا کرے تب بھی کفایت کرتا ہے یا کوئی چھوٹی سورت پڑھے پھر بھی ٹھیک ہے مقصد صرف یہ ہے کہ سورج کے روشن
ہونے تک نماز کو لمبا کرے پہلے رکوع میں ایک سو آیت کی مقدار میں تسبیحات پڑھے دوسری میں اسی آیات تیسرے میں ستر
آیات اور چوتھے میں پچاس آیات کا اندازہ تسبیح پڑھے اور ہر رکعت میں سجدوں کی مقدار رکوع جتنی ہونی چاہیے پھر نماز کے بعد
دو خطبے دے اور ان دونوں کے درمیان بیٹھے لوگوں کو صدقہ کرنے غلام آزاد کرنے اور توبہ کرنے کا حکم دے چاند گرہن میں
بھی اسی طرح کرے البتہ اس میں بلند آواز سے قرأت کرے کیوں کہ یہ رات کی نماز ہے اس نماز کا وقت کسوت سے شروع
ہو کر اس کے روشن ہونے تک ہے سورج کے غروب ہونے پر اس کا وقت ختم ہو جاتا ہے اور سورج کی ٹمکیر ظاہر ہونے
پر چاند گرہن کی نماز کا وقت ختم ہو جاتا ہے کیونکہ رات کا غلبہ ختم ہو گیا اگر چاند گرہن کی صورت میں چھپ جائے تو وقت ختم نہیں ہو
گا کیونکہ پوری رات چاند کا غلبہ ہوتا ہے اگر نماز کے دوران گرہن ختم ہو جائے تو مختصر کر کے ختم کر دے اور جو آدمی امام کے

ساتھ دوسرے رکوع کو پائے اس سے پہلی رکعت فوت ہوگی کیونکہ اصل پہلا رکوع ہے۔ (۷)

بارش کی نماز:

جب نہروں کا پانی اندر چلا جائے بارش بند ہو جائے اور نالیاں سوکھ جائیں تو امام کے لیے مستحب ہے کہ لوگوں کو پہلے تین دن روزہ رکھنے کا حکم دے اور جن قدر وہ صدقہ دے سکیں، دوسروں کے حقوق ادا کریں، لگا ہوں سے توبہ کریں پھر چوتھے دن ان کو لے کر جائے بوڑھی عورتوں اور بچوں کو بھی لے جائیں پاک صاف ہوں لیکن پھٹے پرانے کپڑوں میں جائیں جن سے ان کی عاجزی اور مسکینی معلوم ہو، البتہ یہ بات عید میں نہیں بعض نے کہا ہے کہ جانوروں کو ساتھ لے جانا بھی مستحب ہے کیونکہ حاجت میں یہ مشترک ہیں۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

اگر دورھ پیتے بچے، رکوع کرنے والے بوڑھے اور چرنے والے جانور نہ ہوتے تو تم پر عذاب ڈالا جاتا۔

كُلَّ صَبِيٍّ رَضِعَ وَمَسَاخٍ رُكِعَ وَبَهَائِمٍ رُكِعَ لَصَبًا عَلَيْكُمُ الْعَذَابُ صَبًا (۲)

اور اگر ذمی (مسلمانوں کے ملک میں رہنے والے اہل کتاب یہود و نصاریٰ) الگ ہو کر نکلیں تو نہ روکا جائے۔ پھر جب لوگ کشادہ صحرائیں جمع ہو جائیں تو آواز دی جائے کہ نماز کھڑی ہونے والی ہے امام ان کو عید کی نماز کی طرح ٹیکر (اقامت) کے بغیر دو رکعتیں پڑھائے پھر دو خطبہ دے اور ان کے درمیان تھوڑا سا بیٹھے دونوں خطبوں میں زیادہ تر استغفار ہونا چاہیے اور دوسرے خطبہ کے درمیان میں ہونا چاہیے، پھر لوگوں کی طرف بیٹھ کر کے قبلہ رخ بیٹھے اور اس وقت چادر کو اٹائے، یہ حالت کے بدلنے کے لیے نیک خالی کے طور پر ہے۔ (۱۲) نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کہا۔ (۱۱)

(۱۱) احناف کے نزدیک سورج گرہن کی نماز عام نماز کی طرح دو رکعت میں ہر رکعت میں ایک رکوع ہے کیونکہ مرد صحابہ کرام کی روایت سے ایک رکوع ثابت ہے اور یہی اصل ہے دو رکوع حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت سے ثابت ہے لیکن ظاہر ہے کہ یہ معاملہ مردوں پر زیادہ واضح ہوتا ہے اس لیے اس میں صحابہ کرام کی روایت کو ترجیح ہے نماز میں قرأت کو لمبا کرنے یا بعد میں دعا زیادہ مانگنے اصل مقصد یہ ہے کہ یہ تمام وقت معروض رہے، چاند گرہن کی نماز نہیں ہوتی کیونکہ رات کو احتیاج ناممکن ہوتا ہے نیز نماز کسوف میں خطبہ بھی نہیں کیونکہ مشہور روایات میں منقول نہیں ہے ۱۲ ہزاروی۔

(۱۲) السنن الکبریٰ للبیہقی جلد ۲ ص ۳۲۵ کتاب صلاۃ الاستسقاء۔

(۱۳) چادر بدلنے کا طریقہ یہ ہے کہ نچلی طرف کا دایاں کنارہ بائیں کاندرھے کے اوپر آجائے اور بائیں طرف کا نچلا کنارہ دائیں کاندرھے کے اوپر آجائے۔ احناف کے نزدیک چادر اٹانے کی ضرورت نہیں ۱۲ ہزاروی۔

(۱۴) صحیح بخاری جلد اول ص ۱۲۷ ابواب الاستسقاء

پس اس کے اوپر والے حصے کو نیچے اور دائیں طرف والے کو بائیں طرف کر دے لوگ تھی اسی طرح کریں اس وقت دل میں دعا مانگیں پھر ان کی طرف رخ کر کے امام خطبہ کو ختم کرے چادریں اسی طرح الٹائی ہوئی رہنے دی حتیٰ کہ جب کپڑے اتاریں تو چادریں بھی اتار دیں۔ دعائیں یوں کہیں۔ ”اے اللہ! تو نے ہمیں دعا کا حکم دیا اور قبولیت کا وعدہ فرمایا ہم نے تیرے حکم کے مطابق دعا مانگی تو اپنے وعدہ کرم کے مطابق قبول فرما۔ یا اللہ! ہم پر احسان فرما کہ ہمارے گناہ بخش دے، ہمیں بارش عطا فرما اور ہمارے لیے رزق کو کشادہ کر دے۔“

میدان میں جانے سے پہلے تین دن نمازوں کے بعد دعا مانگنے میں بھی کوئی حرج نہیں اس دعا کے لیے کچھ باطنی آداب و شرائط ہیں وہ یہ کہ توبہ کریں، اور دوسروں کے حقوق وغیرہ ادا کر دیں۔ یہ باتیں دعاؤں کے بیان میں ذکر ہوں گی۔

نمازِ جنازہ:

نمازِ جنازہ کا طریقہ مشہور ہے جامع دعا جو حضرت بن مالک رضی اللہ عنہ سے صحیح طور پر مروی ہے وہ فرماتے ہیں میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آپ نے ایک جنازہ پر نماز پڑھی تو میں نے آپ کی دعا سے یوں یاد کیا۔

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ وَبَاعِدْ رَأْسَهُ
عَنْهُ وَالْكَرْمِ تَنْزِلُهُ وَوَسِّعْ مَدْخَلَهُ وَاعْتَبِلْهُ
بِالْمَاءِ وَالشَّلْحِ وَالْبُرْدِ وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا
كَمَا يَنْقَى الثُّوبَ الْأَبْضُ مِنَ الْمَتْنِ
وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ وَأَهْلًا خَيْرًا
مِنْ أَهْلِهِ وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ وَادْخِلْهُ
الْجَنَّةَ وَاعْذُكْهُ مِنَ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ
عَذَابِ النَّارِ۔ (۱)

”یا اللہ! اسے بخش دے اس پر رحم فرما اسے عافیت دے
اسے معاف کرے اس کی اچھی طرح مہمانی فرما اس کی
قبر کو کشادہ کر دے اسے پانی، برون اور اولوں سے دھو
دے اسے خطاؤں سے اس طرح صاف کر دے جیسے تو
سیند کپڑے کو میل سے صاف کرتا ہے اس کو اس کے
گھر سے اچھا گھر، گھر والوں سے اچھے گھر والے اور اس
کی بیوی سے بہتر بیوی عطا فرما۔ اسے جنت میں داخل کر دے
اسے عذابِ قبر اور عذابِ جہنم سے بچائے۔“

حتیٰ کہ حضرت عون بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے تمنا کی کہ کاش وہ میت میں ہوتا۔ جو شخص دوسری تکبیر پائے
تو اسے چاہیے کہ دل میں نماز کی ترتیب کا خیال رکھے اور امام کے ساتھ تکبیر کہے جب امام سلام پھیرے تو فوت شدہ تکبیر
کہے جس طرح مسبق (بعد میں آکر ملنے والا نمازی) کرتا ہے اگر وہ تکبیرات میں جلدی کرے گا تو اس نماز میں اتنا اور کیا مطلب رہے
جائے گا تکبیرات نمازِ جنازہ کے ظاہری ارکان ہیں اور انہیں باقی نمازوں کی رکعات کے قائم مقام قرار دینا زیادہ مناسب ہے
میرے نزدیک یہ بات زیادہ مناسب ہے اگرچہ دوسری توجیہ کا بھی احتمال ہے نمازِ جنازہ اور جنازے کے ساتھ جانے کی

فضیلت میں وارد احادیث مشہور ہیں ہم انہیں ذکر کر کے بات کو طویل نہیں کرتے کس طرح اس نماز کی فضیلت نہیں ہوگی جب کہ یہ فرض کفایہ سے ہے اور دوسروں کے حاضر ہونے کی وجہ سے جس کا جانا مقرر نہ ہو اس کے لیے نفل قرار پاتی ہے لیکن اس کے باوجود فرض کفایہ کا ثواب ملتا ہے کیونکہ انہوں نے فرض کفایہ کی ادائیگی کر کے دوسروں سے حرج کو دور کیا لہذا یہ نفل کی طرح نہ ہوگی جس کے ذریعے کسی دوسرے کا فرض ساقط نہیں ہوتا۔ زیادہ سے زیادہ نمازیوں کی تلاش مستحب ہے کیوں کہ زیادہ ہمتوں اور دعاؤں کی کثرت باعث برکت ہے اور ان میں وہ لوگ بھی ہوں گے جن کی دعائیں قبول ہوتی ہے۔

حضرت کریم، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ ان کا ایک بیٹا فوت ہو گیا تو انہوں نے فرمایا اسے ریب دیکھو کتنے لوگ جمع ہوئے ہیں؛ وہ فرماتے ہیں میں باہر گیا تو (دیکھا) لوگ جمع ہو گئے تھے میں نے خبر دی تو انہوں نے فرمایا تم کیا کہتے ہو چالیس آدمی ہوں گے؛ میں نے عرض کیا جی ہاں تو فرمانے لگے جنازہ نکالو وہ فرماتے تھے۔

جو مسلمان فوت ہو جائے اور اس کے جنازہ پر چالیس آدمی کھڑے ہوں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک نہ ٹھہراتے ہوں تو اللہ تعالیٰ اس شخص کے بارے میں ان کی سفارش کو قبول کرتا ہے (۱)

جب جنازے کے ساتھ جائے اور قبرستان میں پہنچ کر باہر داخل ہو کر یوں کہے۔

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ هَذِهِ الدِّيَارِ مِيتَ
الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ بِحَمْدِ اللَّهِ الْمُسْتَقْدِمِينَ
مِنَّا وَالْمُتَأَخِّرِينَ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ
لَآ حِقُونَ (۲)

اے اس بستی والے مومنوں اور مسلمانوں! تم پر سلام ہو اللہ
ہم میں آگے جانے والوں اور پیچھے رہنے والوں پر رحم
فرمائے اور بے شک۔ اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ہم تمہارے
ساتھ ملیں گے۔

بہتر یہ ہے کہ میت کو دفن کرنے سے پہلے واپس نہ آئے اور حیب میت پر قبر برابر کی جائے تو وہاں کھڑا رہے اور کہے۔
اللَّهُمَّ عَبْدُكَ رَدَّ إِلَيْكَ قَارَاتٍ بِهِ وَارْحَمَهُ
اللَّهُمَّ جَاتِ الْأَرْضَ عَنْ حَبِيبِهِ وَاجْتَمِعِ
أَبْوَابَ السَّمَاءِ لِرُوحِهِ وَتَقَبَّلْهُ مِنْكَ
بِقَبُولِ حَسَنِ اللَّهِ إِنْ كَانَ مُحْسِنًا
فَضَاعِنُ لَهُ فِي إِحْسَانِهِ وَإِنْ كَانَ
مُسِيئًا فَتَجَاوَزْ عَنْهُ (۳)

اے اللہ! تیرا بندہ تیری طرف لوٹا یا گیا اس پر مہربانی اور
رحمت فرما اس کے دونوں پہلوؤں سے زمین کو دور کر
دے اس کی روح کے لیے آسمان کے دروازے
کھول دے اور اسے اچھی طرح قبول فرما اے اللہ! اگر یہ
نیک تھا تو اس کی نیکیوں کا ثواب دوگنا عطا فرما اور اگر گناہگار
تھا تو اس سے درگزر فرما۔

(۱) صحیح مسلم جلد اول ص ۸۰ کتاب الجنائز

تختہ المسجد:

دو یا اس سے زیادہ رکعات سنت مؤکدہ میں اگرچہ امام جمعہ کے دن خطبہ دے رہا حالانکہ خطیب کی طرف کان لگانا ضروری ہے اور اگر وہ (غازی) فرض یا قضا نماز میں مشغول ہو جائے تو اس سے تختہ المسجد کے نوافل ادا ہو جاتے ہیں اور فضیلت حاصل ہو جاتی ہے کیونکہ مقصود تو یہ ہے کہ مسجد میں داخل ہونے کی ابتدا اس عبادت سے خالی نہ ہو جو مسجد کے ساتھ خاص ہے کیونکہ یہ مسجد کا حق ہے۔ اسی لیے وضو کے بغیر مسجد میں داخل ہونا مکروہ ہے اور اگر وہاں سے گزرنے یا بیٹھنے کے لیے داخل ہونو چار مرتبہ کہے "سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ" کہا گیا کہ یہ کلمات فضیلت کے اعتبار سے دو رکعتوں کے برابر ہیں۔

حضرت امام شافعی رحمہ اللہ کے مسلک کے مطابق مکروہ اوقات میں تختہ المسجد مکروہ نہیں اور یہ عصر کے بعد اور صبح کے بعد کا وقت ہے نیز زوال آفتاب، اور سورج کے طلوع غروب کا وقت ہے کیونکہ روایت میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کے بعد دو رکعتیں پڑھیں آپ سے پوچھا گیا کہ کیا آپ نے ہمیں اس سے منع نہیں فرمایا؟ آپ نے فرمایا میں یہ دو رکعتیں ظہر کے بعد پڑھا کرتا تھا تو ایک وفد کی وجہ سے میں مشغول رہا۔ (۱)

اس حدیث سے دو فائدے حاصل ہوئے،

۱۔ کہ اہمیت صرف اس نماز کے لیے ہے جس کا کوئی سبب نہ ہو اور سب سے کمزور سبب نوافل کی قضا ہے، کیونکہ علماء کا نوافل کی قضا میں اختلاف ہے اور جب وہ ایسا عمل کرے جیسا فوت ہوا تو کیا یہ قضا ہوگی؟ تو جب کمزور ترین سبب کی وجہ سے کراہیت کی نفی ہوگئی تو مسجد میں داخل ہونے سے اس کی نفی زیادہ مناسب ہے کیونکہ یہ قوی سبب ہے اسی لیے جب جنازہ حاضر ہو جائے تو نماز جنازہ پڑھنا مکروہ نہیں اسی طرح سورج گرہن اور بارش کی نماز بھی ان اوقات میں مکروہ نہیں کیوں کہ ان (غازوں) کے لیے اسباب ہیں۔

۲۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ نوافل کی بھی قضا ہوتی ہے کیونکہ حضور علیہ السلام نے قضا فرمائی اور ہمارے لیے آپ کی زندگی ایک بہترین نمونہ ہے۔

ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب تیند کا غلبہ ہوتا یا آپ علیل ہوتے اور رات کو نہ اٹھ سکتے تو دن کے شروع میں بارہ رکعات پڑھتے۔ (۲)

علم کرام نے فرمایا کہ جو آدمی نماز پڑھ رہا ہو اور عوزن کو جواب نہ دے سکے تو سلام کے بعد بطور قضا اذان کا جواب دے

(۱) صحیح مسلم جلد اول ص ۲۷۷ کتاب صلاة المسافرين

(۲) صحیح مسلم جلد اول ص ۲۵۶ کتاب صلاة المسافرين

اگرچہ موذن خاموش ہو گیا ہو۔ اس صورت میں اس شخص کے قول کا کوئی مطلب نہیں رہ جاتا ہے جو کہتا ہے کہ یہ پہلے کی مثل سے اور قضا نہیں کیونکہ اگر اس طرح ہوتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کراہت کے وقت نہ پڑھتے ہاں اگر کسی شخص کا وظیفہ ہو اور کسی عذر کی وجہ سے وقت پر نہ پڑھ سکے تو اسے چاہئے کہ اس کے چھوڑنے میں اپنے نفس کو رخصت نہ دے بلکہ دوسرے وقت میں اس کا تدارک کرے یہاں تک کہ اس کا نفس آسائش و آرام کی طرف مائل نہ ہو اور نفس کے مجاہدہ کے طور پر اس کا تدارک اچھا ہے۔

نیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

أَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى أَدْوَمُهَا وَإِنْ
قَالَ - (۱)

اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے اچھا عمل وہ ہے جو ہمیشہ کہا جائے اگرچہ وہ قلیل ہے۔

تو اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ دوام عمل میں کوئی کوتاہی نہ ہو۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا آپ نے فرمایا۔

مَنْ عَبَدَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَبْعَادُ قَرَابَةَ تَرْكِهَا
مَلَائِكَةُ مَقْتَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ - (۲)

جو آدمی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہو پھر تھک کر اسے چھوڑے تو اللہ تعالیٰ اس پر غضب ناک ہوتا ہے۔

تو اس وعید کا مصداق نہیں بنا چاہیے اس حدیث کی تحقیق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر اس لیے ناراض ہوتا ہے کہ اس نے

تھک کر اسے چھوڑ دیا اگر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی نہ ہوتی تو اسے ملال نہ ہوتا۔ (۳)

تہجیۃ الوضوء :

وضو کے بعد دو رکعتیں پڑھنا مستحب ہے کیونکہ وضو ایک عبادت ہے اور اس کا مقصد نماز ہے بے وضو ہونا ایک پیش آنے والا معاملہ ہے اور بعض اوقات نماز سے پہلے حدیث ہو جاتا ہے اور وضو ٹوٹ جاتا ہے اور محنت ضائع ہو جاتی ہے پس دو رکعتوں کی طرف جلال کرنا وضو کے قوت ہونے سے پہلے مقصود کو پورا کرنا ہے اور یہ عمل حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی حدیث سے معلوم ہوا کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "میں جنت میں داخل ہوا تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو اس

(۱) صحیح مسلم جلد اول ص ۲۶۶ کتاب صلاة المسافرين

(۲)

(۳) تہجیۃ المسجد کے بارے میں احادیث کی روشنی میں احسان کامسک یہ ہے کہ اگر مکروہات اوقات میں مسجد میں آئے تو نماز نہ پڑھے جب

وہ فرض نماز ادا کرے تو یہ اسی کے ضمن میں ادا ہو جائے گی اسی طرح جب امام خطبہ دے رہا ہو تو اس وقت بھی نہ پڑھے کیوں کہ حضور علیہ

السلام نے اسی وقت نماز اور گفتگو سے منع فرمایا ۱۲ ہزاروی۔

میں دیکھا میں نے حضرت بلال سے پوچھا تم کس طرح مجھ سے پہلے جنت میں آگئے؟ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے عرض کیا مجھے کچھ معلوم نہیں البتہ یہ کہ میں چپ بھی وضو کرتا ہوں اس کے بعد دو رکعتیں پڑھتا ہوں۔ (۱)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

گھر میں داخل ہوتے اور نکلنے وقت کی نماز

اِذَا خَرَجْتَ مِنْ مَنْزِلِكَ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ
يَمْنَعَانِكَ مَنَحْرَجِ السُّوءِ وَإِذَا دَخَلْتَ
إِلَى مَنْزِلِكَ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ يَمْنَعَانِكَ
مَدْخَلَ السُّوءِ۔ (۲)

جب تم گھر سے نکلا تو دو رکعتیں پڑھو وہ نہیں برے نکلنے سے بچائیں گی اور جب گھر میں داخل ہو تو دو رکعتیں پڑھو وہ تمہیں برے داخلے سے محفوظ رکھیں گی۔

ہر ایسا عمل جس کی کوئی وقعت ہو اس کے شروع کرنے کا معاملہ بھی اسی طرح ہے۔ اسی لیے حدیث شریف میں ہے آتا ہے کہ "اعرام کے وقت دو رکعتیں، ابتدائے سفر کے وقت دو رکعتیں، اور سفر سے واپسی پر گھر جانے سے پہلے مسجد دو رکعتیں ہیں (۳) یہ تمام باتیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہیں: بعض بزرگ کھانے کھاتے وقت بھی دو رکعتیں پڑھتے پانی پیتے وقت بھی دو رکعتیں پڑھتے اسی طرح ہر اس کام کے وقت جو انہیں پیش آتا تھا۔

ہر کام کو شروع کرتے وقت اللہ تعالیٰ کے ذکر سے برکت حاصل کرنی چاہیے، اور اس کے تین مرتبے ہیں۔
۱) بعض کام کئی بار کئے جانے میں مثلاً کھانا اور پینا تو اس میں اللہ تعالیٰ کے نام سے ابتدا کرے۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

كُلْ أَمْزِجِي بَالٍ لَا يُبَدَأُ بِهِ بِسْمِ اللَّهِ
الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فَهُوَ بَتْرٌ (۳)

ہو تا ہے۔

(ب) وہ عمل جو تکرار کے ذریعے زیادہ نہیں ہوتا لیکن وہ اہم کام ہوتا ہے جیسے عقد نکاح، نصیحت و مشورہ کی ابتدا تو اس صورت میں مستحب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حمد کے ساتھ شروع کرے لہذا نکاح کرانے والیوں کے الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ

(۱) صحیح بخاری جلد اول ص ۱۵۲ باب تنجید۔

(۲) کنز العمال جلد ۱ ص ۲۹۸ حدیث ۵۲۰

(۳) مجمع الزوائد جلد ۲ ص ۲۸۲ باب الصلوة اذا اراد السفر۔

(۴) کنز العمال جلد اول ص ۵۵۸ حدیث ۲۵۱۱

عَلَى رَسُولِ اللَّهِ زَوْجُكَ ابْنَتِي تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے رسول پر رحمت ہو میں نے اپنی بیٹی کا نکاح
 تجھ سے کیا۔ دوسرا آدمی یوں کہے اَلْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ قَبْلَتْ النِّكَاحَ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے
 ہیں اور اللہ تعالیٰ کے رسول پر رحمت ہو میں نے نکاح کو قبول کیا صحابہ کرام کی عادت تھی کہ کوئی پیغام بھیجتے یا نصیحت و مشورہ کرتے
 تو شروع میں الحمد للہ کہتے۔

ج۔ جو عمل زیادہ تکرار کے ساتھ نہیں آتا لیکن جب واقع ہوتا ہے تو دیر پا ہوتا ہے اور وہ وقعت والا ہے جیسے سفر کرنا
 یا مکان خریدنا احرام باندھنا یا اس جیسے دوسرے اعمال تو ان سے پہلے دو رکعت پڑھنا مستحب ہے اور ان میں سے کم درجے
 کا عمل گھر سے تکلیف اور داخل ہونا ہے یہ تقریباً سفر کی ایک قسم ہے۔

نماز استخارہ :

جو شخص کسی کام کا ارادہ کرے لیکن اسے اس کے انجام کا علم نہ ہو نہ یہ معلوم ہو کہ اس کے چھوڑنے میں بہتری ہے یا اس کے
 کرنے میں، تو ایسے شخص کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ وہ دو رکعتیں پڑھے پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ اور سورہ الکافرون اور
 دوسری میں فاتحہ اور سورہ اخلاص پڑھے جب نماز سے فارغ ہو تو دعا مانگے اور یوں کہے۔

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ وَأَسْتَعِذُّكَ
 بِقُدْرَتِكَ وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ
 فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ
 وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ، اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ
 أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ خَيْرٌ لِي فِي دِينِي وَدُنْيَايَ
 وَعَاقِبَةِ أُمْرِي وَعَاجِلِيهِ وَآجِلِيهِ فَاقْدِرْهُ
 لِي وَبَارِكْ لِي فِيهِ ثُمَّ سَيِّدْهُ لِي وَإِنْ كُنْتَ
 تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِي فِي دِينِي وَدُنْيَايَ
 وَعَاقِبَةِ أُمْرِي وَعَاجِلِيهِ وَآجِلِيهِ فَاصْرِ
 فِيهِ عَنِّي وَاصْرِفْ عَنِّي وَاقْدِرْ لِي الْخَيْرَ
 أَيُّمَا كَانَ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔

یا اللہ! میں تیرے علم کے ساتھ طلب خیر کرتا ہوں اور تیری
 قدرت کے ساتھ طاقت چاہتا ہوں تیرے بہت بڑے
 فضل کا سوال کرتا ہوں بے شک تو قادر ہے اور میں قادر
 نہیں ہوں تو جانتا ہے اور میں نہیں جانتا تو غیب کی باتوں
 کو خوب جانتا ہے یا اللہ! اگر تیرے علم کے مطابق یہ کام
 میرے دین، میری دنیا اور عاقبت، اس جہاں میں اور اس
 جہاں میں، میرے لیے بہتر ہے تو اسے میرے لیے مقدر کر
 کر دے مجھے اس میں برکت عطا فرما اور پھر اسے میرے لیے
 آسان کر دے۔ اور اگر تیرے علم کے مطابق یہ کام میرے
 دین، میری دنیا میری عاقبت اس جہاں اور اس جہاں میں
 میرے لیے بُرا ہے تو اسے مجھ سے اور مجھے اس سے

دور کر دے اور میرے لیے بھلائی مقدر فرما دے جہاں بھی ہو بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔

حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے اسے روایت کیا اور فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ہر بات میں استخارہ سکھائے جس طرح ہمیں قرآن پاک کی کوئی سورت سکھاتے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کو کوئی بات پیش آئے تو وہ دو رکعتیں پڑھے (۲)

پھر بسم پڑھ کر وہ دعائے جو ہم نے ذکر کی بعض دانا لوگوں نے فرمایا کہ جس شخص کو چار چیزیں عطا کی گئیں وہ چار چیزوں سے محروم نہیں ہوگا۔ جس کو شکر کی توفیق دی گئی وہ مزید انعامات سے محروم نہ ہوگا، جسے توبہ کی توفیق عطا ہوئی وہ قبولیت سے محروم نہ ہوگا جس کو استخارہ کی توفیق عطا کی گئی ہے وہ بھلائی سے محروم نہیں کیا جائے گا اور جس کو مشورہ کرنے کی توفیق ملی وہ اچھے فیصلے سے محروم نہ ہوگا۔

نماز حاجت :

جس شخص پر کوئی تنگی آجائے اور اسے دین یا دنیا کے معاملے میں کسی ایسے معاملے کی حاجت ہو جو اس پر مشکل ہو جائے تو وہ یہ نماز پڑھے حضرت وہیب بن ورد سے مروی ہے فرماتے ہیں۔ وہ دعا جو رد نہیں ہوتی یہ ہے کہ آدمی بارہ رکعت پڑھے ہر رکعت میں سورہ فاتحہ، آیت الکرسی اور قل ہو اللہ احد پڑھے فارغ ہونے پر سجدے میں گر جائے اور یوں کہے۔

سبحان الذی لیس العزوقال بہ، سبحان الذی تعطف بالمجد وتکرّمہ، سبحان الذی احصی کل شیء بعلمہ، سبحان الذی لا ینبغی التسمیح الالہ، سبحان ذی المن والفضل، سبحان ذی العزوانکرّم، سبحان ذی الطول، اسألك بمعاقدا العزمن عرشک وفتھی الرحمة من کتابک، ویاسمک الاعظم وجدک الاعلیٰ وکلماتک الثامات العامات التي لا یجاوزهن برولا فاجرو ان تصلی علی محمد وعلی آل محمد۔

پاک ہے وہ ذات جس نے عزت کو لباس بنایا اور اسے پسند کیا وہ ذات پاک ہے جس نے بزرگی کو چادر بنایا اور اسے اپنایا وہ ذات پاک ہے جس کے احاطہ علم میں ہر چیز ہے وہ ذات پاک ہے جس کے سوا کسی کی تسبیح جائز نہیں احسان وفضل والی ذات پاک ہے عزت وکرم والی ذات پاک ہے نعمت والی ذات پاک ہے میں تجھ سے عزت کی ان نصلتوں کے وسیلے سے سوال کرتا ہوں جن کا تعلق تیرے عرش سے ہے اور تیری کتاب سے جو رحمت کی انتہا ہے تیرے عظیم نام اور بزرگ شان اور کامل و عام کلمات کے ذریعے سوال کرتا ہوں وہ کلمات جن سے کوئی نیک اور برائی تجاوز نہیں کر سکتا کہ تو

(۲)

(۱) صحیح بخاری جلد اول ص ۵۵ باب التسمیہ۔

محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل پر رحمت نازل فرما۔
 پھر اس حاجت کا سوال کرے جو گناہ نہ ہو ان شاء اللہ یہ دعا ضرور قبول ہوگی۔ حضرت وہیب فرماتے ہیں مجھے یہ
 خبر پہنچی ہے کہ کہا جاتا تھا یہ دعا سمجھ لوگوں کو نہ سکھاؤ ورنہ وہ اس کے ذریعے گناہ پر مدد حاصل کریں گے۔

نماز تسبیح

یہ نماز حدیث شریف سے ثابت ہے اور کسی وقت یا سبب کے ساتھ خاص نہیں مستحب یہ ہے کہ اسے ہفتہ میں ایک
 بار یا مہینے میں ایک بار پڑھا جائے، حضرت عکرمہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ
 وسلم نے حضرت عباس بن عبدالمطلب رضی اللہ عنہما سے فرمایا۔

”کیا میں آپ کو ایک (عمل) عطا نہ کروں کیا آپ کو عطیہ نہ دوں کہ جب آپ اس پر عمل کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کے انگلی
 پھلے، پراتے نئے، غلظی سے کٹے گئے یا جان بوجھ کر، پوشیدہ اور ظاہر تمام گناہ معاف فرمادے آپ چار رکعات اس
 طرح پڑھیں کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ اور کوئی سورت پڑھیں جب قرات سے فارغ ہو جائیں تو حالت قیام میں یہ کلمات
 پندہ بار پڑھیں۔ ”سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ“ پھر رکوع میں دس بار، رکوع سے کھڑے
 ہو کر دس بار، پھر سجدے میں دس بار جلسہ میں دس بار دوسرے سجدے میں دس بار پھر دوسرے سجدے سے اٹھ کر دس بار
 پڑھیں یہ پچیس بار ہوں گے چاروں رکعات میں اس طرح کریں اگر روزانہ پڑھ سکیں تو ٹھیک ہے ورنہ ہر ہفتہ میں ایک بار
 پڑھیں یہ بھی نہ ہو سکے تو ہر مہینے میں ایک بار، اور اگر اس طرح بھی نہ ہو سکے تو سال میں ایک بار پڑھیں (۱)

ایک دوسری روایت میں ہے کہ سبحانک اللہم آخر تک پڑھنے کے بعد پندہ بار تسبیح پڑھیں یعنی قرات سے پہلے
 پھر قرات کے بعد دس بار پڑھیں باقی اسی طرح دس دس بار جس طرح پہلے بیان ہوا۔ دوسرے سجدے کے بعد بیٹھ کر تسبیح
 نہ پڑھیں را حواف کے نزدیک اس دوسرے طریقے پر عمل ہوتا ہے ۱۲ ہزاروی) یہ زیادہ اچھا طریقہ ہے۔

حضرت ابن مبارک رحمہ اللہ نے بھی اسی کو اختیار فرمایا ہر حال دونوں روایتوں کے مطابق تسبیحات کا مجموعہ تین سو
 ہے اگر دن میں پڑھے تو ایک سلام کے ساتھ چاروں رکعات اور رات کو پڑھے تو دو سلاموں کے ساتھ مستحب ہے
 کیونکہ حدیث شریف میں ہے۔

أَنَّ صَلَاةَ اللَّيْلِ مَثْنِي مَثْنِي (۲)

بے شک رات کی نماز دو دو رکعتیں ہیں۔

اور اگر تسبیح کے بعد لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم پڑھے تو اچھا ہے کیوں کہ بعض روایات میں اس

(۱) مجمع الزوائد جلد ۲ ص ۱۸۱، ۱۸۲ باب صلوة التسبیح۔

(۲) مسند امام احمد بن حنبل جلد ۲ ص ۳۳ روایات عبد اللہ بن عمر

طرح وارد ہے۔

تو یہ نمازیں روایات سے ثابت ہیں ان میں سے کوئی بھی نماز مکروہ اوقات میں پڑھنا اچھا (بلکہ جائز) نہیں سوائے تحیۃ المسجد کے (احناف کے نزدیک اس وقت تحیۃ المسجد بھی نہ پڑھیں) وضو کے بعد جن در رکعتوں کا ذکر سواسی طرح سفر کی نماز، گھر سے نکلنے وقت کی نماز اور استخارہ کی نماز مکروہ اوقات میں جائز نہیں کیونکہ نہی توکد ہے اور اسباب ضعیف ہیں لہذا یہ نوافل نماز کسوف، خسوف اور تحیۃ المسجد اور استسقاء کے درجے کو نہیں پہنچتے ہیں نے بعض خود ساختہ صوفیوں کو مکروہ اوقات میں وضو کرتے ہوئے دیکھا حالانکہ یہ ناجائز ہے کیوں کہ وضو، نماز کا سبب نہیں بلکہ نماز وضو کا سبب ہے لہذا نماز پڑھنے کے لیے وضو کیا جائے یہ نہ کرے کہ چونکہ اس نے وضو کیا ہے لہذا وہ نماز پڑھے اور ہر بے وضو آدمی جو مکروہ وقت میں نماز پڑھنا چاہتا ہے تو وہ وضو کے بغیر نہیں پڑھ سکتا ثواب کراہیت کا کوئی معنی نہ ہوگا اسے چاہیے کہ وضو کی دو رکعتوں کی نیت نہ کرے جیسے تحیۃ المسجد کی نماز کی نیت کرتا ہے بلکہ جب وضو کرے تو دو نفل پڑھے تاکہ وضو بے کار نہ ہو جیسے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کرتے تھے اور یہ نفل بھی جو وضو کے بعد پڑھے جاتے ہیں حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی روایت اس بات پر دلالت نہیں کرتی کہ وضو خسوف اور تحیۃ المسجد کی طرح سبب ہے کہ وہ وضو کی نیت کرے بلکہ وہ نماز کے لیے وضو کی نیت کرے (احناف کے نزدیک وضو کی نیت فرض نہیں) اور یہ کیسے صحیح ہوگا کہ وضو کرتے وقت کہے کہ میں نماز پڑھنے کے لیے وضو کرتا ہوں اور نمازیں کہے کہ میں وضو کرتے کی وجہ سے نماز پڑھ رہا ہوں بلکہ جو شخص مکروہ وقت میں اپنے وضو کو بے کار ہونے سے بچانا چاہتا ہو وہ قضا کی نیت کرے کیونکہ ہو سکتا ہے اس کے ذمہ کوئی ایسی نماز ہو جس میں کسی وجہ سے نفل آیا ہو اور مکروہ اوقات میں قضا نماز پڑھنا مکروہ نہیں لیکن نفل نیت کی کوئی وجہ نہیں (۱)

مکروہ اوقات میں نماز کی ممانعت کی تین وجہیں ہیں۔

مکروہ اوقات میں نماز کی ممانعت کا فلسفہ

(۱) سورج کی پوجا کرنے والوں کی مشابہت سے بچنا (۲) شیطانوں

کے پھیلنے سے بچنا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
 اِنَّ الشَّمْسَ لَتَطْلُعُ وَمَعَهَا قَرْنُ الشَّيْطَانِ
 فَاِذَا طَلَعَتْ قَارَنَهَا وَاِذَا رَفَعَتْ قَارَنَهَا

سورج جب طلوع ہوتا ہے تو اس کے ساتھ شیطان کا
 سینک ہوتا ہے جب وہ طلوع ہوتا ہے تو یہ اس کے

(۱) مکروہ اوقات میں کوئی نماز پڑھنا جائز نہیں اس لیے قضا بھی نہیں پڑھ سکتا اور پھر جو نماز ایک مرتبہ پڑھ لے گی اسے صرف اسی شاک کی بنیاد پر کیے قضا کریں گے کہ شاید اس میں کوئی خرابی ہو ایک وضو کے لیے اتنے پاپ پھیلنے کی کیا ضرورت ہے لہذا اگر کوئی شخص مکروہ وقت میں وضو کرے تو اس وقت تحیۃ الوضو کی ضرورت نہیں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرے جس طرح مکروہ وقت میں مسجد میں جائے تو نفل نہ پڑھے بلکہ تسبیحات پڑھے ۱۲ ہزاروی۔

فَإِنْ اسْتَوَتْ قَارِنَاهَا فَإِذَا زَالَتْ
قَارِنَاهَا فَإِذَا تَصَيَّفَتْ لِلْعُرُوبِ
قَارِنَاهَا فَإِذَا انْعَرَبَتْ قَارِنَاهَا۔

(۱)

ساتھ مل جاتا ہے جب سورج بلند ہوتا ہے تو یہ جدا ہو جاتا
ہے جب دو پہر کو ٹھہرتا ہے تو مل جاتا ہے جب وہ ڈھل
جاتا ہے تو الگ ہو جاتا جب سورج غروب ہونے کے
لیے جھکتا ہے تو یہ مل جاتا ہے اور جب غروب ہوتا ہے
تو الگ ہو جاتا ہے۔

تو اس خرابی پر توجہ کرتے ہوئے ان اوقات میں نماز پڑھنے سے منع فرمایا۔

۳۔ آخرت کے راستے پر چلنے والے تمام اوقات میں نماز کی پابندی کرتے ہیں اور ایک ہی طریقہ پر مسلسل نماز پڑھنا تھکاوٹ
پیدا کرتا ہے اور جب ایک ساعت کے لیے اسے روکا جائے تو اسے زیادہ شوق اور عبادت کی رغبت پیدا ہوتی ہے اور
انسان اس چیز کی حرص کرتا ہے جس سے اسے روکا جائے تو ان اوقات میں رکاوٹ زیادہ حرص کا باعث بنتی ہے اور اسے
وقت کے ختم ہونے کی انتظار رہتی ہے لہذا یہ اوقات تسبیح و استغفار کے لیے خاص کئے گئے تاکہ تسلسل سے نماز کے
باعث طبیعت اکتانہ جائے نیز ایک عبادت سے دوسری عبادت کی طرف انتقال سے خوش ہو۔ کیونکہ حدیث میں لذت ہوتی
ہے، اور ایک ہی بات پر مستقل چلنا بوجھ اور اکتانہ ہٹ کا باعث ہوتا ہے اسی لیے نماز کو صرف سجدہ یا صرف رکوع اور
صرف قیام کی صورت میں نہیں رکھا گیا، بلکہ مختلف اعمال اور مختلف اذکار سے ترتیب دیا گیا کیوں کہ دل میں ہر عمل کے
ذریعے ایک نئی لذت پیدا ہوتی ہے جب وہ اس کی طرف منتقل ہوتا ہے اور اگر آدمی ایک ہی کام کرتا رہے تو جلدی
اکتا جاتا ہے جب کہ وہ اوقات میں نماز سے ممانعت کے سلسلے میں یہ (مذکورہ بالا) امور اہم ہیں اور اس کے علاوہ
کچھ دیگر اسرار بھی ہیں جن پر اطلاع، انسانی طاقت کے بس میں نہیں اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں تو ایسی اہم وجوہ
کو صرف اسی بنیاد پر چھوڑا جا سکتا ہے کہ شرعی طور پر اہم اسباب پائے جاتے ہیں مثلاً نماز کی قضا، نماز استسقاء، نماز
کسوف اور تحیۃ المسیر لیکن جو اسباب ضعیف ہوں تو نبی کا مقصود ان کے متصادم نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے نزدیک یہ بات
زیادہ مناسب ہے، واللہ اعلم۔

ایمانی علوم دین سے نماز کے اسرار کا بیان مکمل ہوا اس کے بعد ان شاء اللہ نزکوۃ کے اسرار کا بیان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ
کا شکر ہے اسی کی مدد اور حسن توفیق سے یہ مکمل ہوا اسی کے لیے تعریف ہے وہ ایک ہے اور اس کی مخلوق میں سے بہترین
دات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی آل اور صحابہ کرام پر رحمت اور بہت زیادہ سلام ہو۔

اسرارِ زکوٰۃ کا بیان

تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جس کے قبضہ میں سعادت و بدبختی ہے وہی مارتا اور زندہ رکھتا ہے وہی ہنساتا اور روتا ہے، وہی پیدا کرتا اور فنا کرتا ہے، محتاج و غنی بنانے والا وہی ہے، نقصان اور نفع کا مالک وہی ہے اس نے حیوان کو رحموں میں پیچنے والے مادہ متویہ سے پیدا کیا وہ صفت غنا میں مخلوق سے ممتاز ہے پھر بعض بندوں کو نیکی کے ساتھ محتسب کیا اس نے انہیں اپنی نعمتوں سے نوازا اور جسے چاہا غنی کر دیا اور حصولِ رزق میں ناکام ہونے والوں کو ان بندوں کا محتاج بنایا یہ سب کچھ لوگوں کی آزمائش اور امتحان کی خاطر کیا پھر زکوٰۃ کو دین کی بنیاد بنایا اور اس نے بیان کیا کہ اس کے بندوں میں سے جس نے پاک ہونا چاہا وہ اس کے فضل کے ساتھ پاک ہوا اور جسے مال دار کیا اگر اس نے اپنے مال کی زکوٰۃ دی تو اسے پاک کر دیا اور حضرت محمد مصطفیٰ، مخلوق کے سردار اور ہدایت کے سورج نیز آپ کے آل و اصحاب بالخصوص علم و تقویٰ کے ساتھ مخصوص لوگوں پر رحمت ہو۔

حمد و صلوة کے بعد اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کو اسلام کی بنیادوں میں سے ایک بنیاد قرار دیا اور اور نماز جو ایک بہت بڑی علامتِ دین ہے اس کے بعد زکوٰۃ ہی کا ذکر کیا ارشاد خدا

زکوٰۃ کی فرضیت

وندی ہے۔

اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔

وَأَقِمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ (۱)

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
بِنِي الْوَسْطَىٰ مُحَمَّدٍ عَلَىٰ خَمْسٍ سَهَادَةٍ
أَنَّ كَرَامَةَ إِلَهِ الْوَالِدِ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ
وَرَسُولُهُ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَىٰ
الزَّكَاةَ۔

(۲)

اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے۔ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد مصطفیٰ اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان شریف کے روزے رکھنا اور جسے طاقت ہے بیت اللہ شریف کا حج کرنا۔

زکوٰۃ کی ادائیگی میں کوتاہی کرنے والوں کو سخت وعید فرمائی ارشاد خداوندی ہے۔

اور وہ لوگ جو سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے پس ان کو دردناک عذاب کی خبر دیجئے۔

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ
بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (۳)

(۱) قرآن مجید سورہ بقرہ آیت ۱۱۰ (۲) صحیح بخاری جلد اول ص ۱۰۱ کتاب الایمان (۳) قرآن مجید سورہ توبہ آیت ۳۴

اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کا مطلب حق زکوٰۃ ادا کرنا ہے۔

حضرت احنف بن قیس فرماتے ہیں کہ میں قریش کے کچھ لوگوں کے درمیان تھا کہ حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ وہاں سے گزرے انہوں نے فرمایا ہاں جمع کرنے والوں کو بتا دو کہ ان کی پیٹھوں میں داغ لگایا جائے گا جو ان کے پہلوؤں سے نکلے گا ان کی گردن کے پھلے حصے میں لگایا جائے گا جو ان کی پیشانیوں پر ظاہر ہوگا۔ ایک روایت میں ہے کہ ان کے پستانوں کے اوپر رکھا جائے گا تو کندھوں کی نرم جگہ سے نکلے گا اور کندھوں پر لگایا جائے گا تو پستان کے اوپر سے پھر تھرتھاتا ہوا نکلے گا۔ حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا آپ کعبہ شریف کے سایے میں تشریف فرما تھے جب مجھے دیکھا تو فرمایا "خدا کی قسم! وہی زیادہ نقصان اٹھانے والے ہیں میں نے پوچھا کون لوگ؟ آپ نے فرمایا وہ لوگ جو زیادہ مال والے ہیں البتہ وہ لوگ (مستثنیٰ ہیں) جو اپنے آگے، پیچھے، دائیں، بائیں اس طرح اس طرح خرچ کریں، اور ایسے لوگ بہت کم ہیں۔ جو شخص اونٹوں کا مالک ہو یا گائے یا بکریوں کا مالک ہو اور ان کی زکوٰۃ نہ دے تو قیامت کے دن وہ جانور پہلے سے زیادہ موٹے تازے آئیں گے وہ اسے اپنے سینگوں سے ماریں گے اور پاؤں سے روندیں گے جب آخری گز جائے گا تو پید دو بارہ آئے گا حتیٰ کہ لوگوں کے درمیان فیصد ہو جائے۔ (۱)

جب صحیح بخاری و مسلم میں اس قدر وعید مذکور ہے تو زکوٰۃ کے اسرار، اس کی ظاہری و پوشیدہ شرائط اور ظاہری و باطنی معانی کو اس طرح بیان کرنا جو مسائل ادا کرنے والے اور لینے والے کے لیے ضروری ہیں ان پر اکتفا کیا جائے، ضروری ہے۔

ہم ان باتوں کو چار فصلوں میں بیان کریں گے۔
 پہلی فصل :- زکوٰۃ کی اقسام اور اس کے وجوب کے اسباب۔
 دوسری فصل :- اس کے آداب اور ظاہری و باطنی شرائط۔
 تیسری فصل :- زکوٰۃ لینے والے کے لیے شرائط استحقاق کیا ہیں اور وصولی کا طریقہ کیا ہے۔
 چوتھی فصل :- نقلی صدقہ اور اس کی فصیلت،
 پہلی فصل :-

زکوٰۃ کی اقسام اور اسباب وجوب

اپنے متعلقات کے اعتبار سے زکوٰۃ کی چھ قسمیں ہیں۔

(۱) مسند امام احمد بن حنبل جلد ۵ ص ۱۵۲ مرویات ابوذر۔

جانوروں کی زکوٰۃ، سوتے چاندی کی زکوٰۃ، مال تجارت کی زکوٰۃ، خزانے اور معدنیات کی زکوٰۃ، زمین کی فصل کی زکوٰۃ اور صدقہ فطر۔
پہلی قسم:

جانوروں کی زکوٰۃ

یہ زکوٰۃ اور اس کے علاوہ دوسری قسم کی زکوٰۃ اگر آدمی مسلمان پر واجب ہوتی ہے بالغ ہونا شرط نہیں بلکہ بچے اور پاگل کے مال میں بھی واجب ہوتی ہے یہ تو اس شخص کے لیے شرائط میں جو زکوٰۃ ادا کرتا ہے۔ جہاں تک مال کا تعلق ہے تو اس میں پانچ شرائط ہیں (۱) جانور ہونا (۲) چرنے والا ہونا (۳) سال تک باقی رہنے والا ہونا (۴) نصاب کامل ہونا اور (۵) مکمل طور پر اس کا مملوک ہونا۔

پہلی شرط۔ اس کا جانور ہونا تو اونٹ، گائے اور بکری کے علاوہ جانوروں میں زکوٰۃ فرض نہیں گھوڑوں، خچروں، گدھوں، ہرن اور بکری کے بلاپ سے پیدا ہونے والے جانور میں زکوٰۃ نہیں۔
دوسری شرط: چرنے والا ہونا ہذا جس کو چارہ دیا گیا اس پر زکوٰۃ نہیں اور اگر کبھی چرایا جانا ہو اور کبھی چارہ دیا جاتا ہو لیکن اس میں خرچ ظاہر ہو تو زکوٰۃ نہ ہوگی۔ (احناف کے نزدیک سال کا زیادہ وقت چارے دیا تو زکوٰۃ نہیں اگر زیادہ چرنے پر گزارا کیا تو زکوٰۃ فرض ہے۔

تیسری شرط: سال کا گزرنہ ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ
الْحَوْلُ۔ (۱)

جب تک مال پر سال نہ گزر جائے اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی۔

جانوروں کے پیدا ہونے والے بچے اس شرط سے مستثنیٰ ہیں کیونکہ ان پر مال کا حکم صادق آتا ہے اور ان کے اصول پر سال گزرنے کی وجہ سے ان پر بھی زکوٰۃ فرض ہوگی بعض اوقات آدمی سال کے درمیان مال بیچ دیتا ہے یا کسی کو ہبہ کر دیتا ہے تو اس طرح سال کا انقطاع ہو جاتا ہے۔

چوتھی شرط: ملک اور تصرف کا کامل ہونا ہے لہذا جو جانور کسی کے پاس رہیں رکھے ہوں ان پر بھی زکوٰۃ فرض ہوگی کیونکہ یہ مال اس نے اپنے لیے روک رکھا ہے گمشدہ اور غصب کئے گئے جانور میں زکوٰۃ فرض نہ ہوگی البتہ جب وہ اپنے پورے منافع کے ساتھ واپس آجائے اب واپسی پر گذشتہ (سالوں) کی زکوٰۃ بھی دینا ہوگی۔ اگر اس پر اتنا فرض

ہو جس کے تمام مال کو گھیر لے تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی کیوں کہ وہ اس کے باعث غنی شمار نہیں ہوتا اس لیے کہ مالدار کے مال کے ساتھ ہوتی ہے جو حاجت سے بچ جائے۔

پانچویں شرط: نصاب کا کامل ہونا ہے۔ (تو نصاب یوں ہے)

اونٹوں کی زکوٰۃ:

اونٹ جب تک پانچ نہ ہوں ان پر زکوٰۃ نہیں ہوتی پانچ اونٹوں میں ایک سالہ بھڑ سوگی (جذعہ) تو ایک سال کی ہو کر دوسرے سال میں داخل ہو جائے) یا بکری جو تیسرے سال میں داخل ہو، دس اونٹوں میں دو بکریاں ہوں گی پندرہ میں تین بکریاں اور بیس میں چار بکریاں ہوں گی پچیس اونٹوں میں اونٹ کا وہ مادہ بچہ لازم ہوگا جو دوسرے سال میں داخل ہو چکا ہو اگر ایسا بچہ نہ ہو تو ان بون روہ نہ جو تیسرے سال میں داخل ہو چکا ہو) اگر یہ نیت مخاض (جو دوسرے سال میں داخل ہے) کو خرید سکتا ہے۔ پچیس میں ایک بنت بون (دو سالہ مادہ) پھر جب چھالیس کو پہنچ جائے تو اس میں ایک حصہ ہے (جو جو تھے سال میں داخل ہو) جب ایک سٹھ ہو جائیں تو ان میں ایک جذعہ ہوگا یعنی وہ جو پانچویں سال میں داخل ہو گیا، جب چھترہ ہوں تو ان میں دو بنت بون ہوں گے۔ جب اکانوے ہو جائیں تو ان میں دو حصے ہوں گے جب ایک سو اکیس ہو جائیں تو ان میں تین بنت بون ہوں گے جب ایک سو تیس ہو جائیں تو حساب ٹھہرائے گا اب ہر پچاس پر ایک حصہ ہوگا اور ہر چالیس پر ایک بنت بون لازم ہے۔

گایوں کی زکوٰۃ:

تیس سے کم گایوں میں کچھ نہیں جب تیس ہو جائیں تو ان میں ایک تبیع ہوگا یعنی وہ بچہ جو دوسرے سال میں داخل ہو چکا ہو پھر چالیس میں ایک مستہ ہے یعنی جو تیسرے سال میں قدم رکھ چکا ہو پھر ساٹھ میں دو تبیع اس کے بعد حساب ٹھہرائے گا پس ہر چالیس پر ایک مستہ اور ہر تیس پر ایک تبیع (لازم ہوتا جائے گا)

بکریوں کی زکوٰۃ:

بکریاں جب تک چالیس کی تعداد کو نہ پہنچیں ان میں زکوٰۃ نہیں ہوتی چالیس ہوں تو ان میں بھڑ کا ایک جذعہ یا بکری کا ثنیہ ہوگا پھر ایک سو بیس تک کچھ بھی لازم نہ ہو ان میں دو بکریاں ہوں گی پھر دو سو ایک میں تین بکریاں ہوں گی چار سو میں چار بکریاں ہوں گی اور پھر حساب رک جائے گا اور اب ہر ایک سو میں ایک بکری ہوگی۔

دو آدمی شریک ہوں تو اس کی زکوٰۃ اسی طرح سے جس طرح ایک مالک نصاب کے مال میں زکوٰۃ ہوتی ہے اگر چالیس بکریاں دو آدمیوں کے درمیان مشترک ہوں تو ان میں ایک بکری ہوگی اگر تین آدمیوں کے درمیان ایک سو بیس بکریاں مشترک ہوں تو ان سب پر ایک ہی بکری ہوگی۔ پڑوسی کی شرکت حصوں کی شرکت کی طرح ہے لیکن شرط یہ ہے کہ دونوں کا بارہ ایک ہو، گھاٹ (پانی پلانے کا چشمہ) ایک ہو، ایک ساتھ دو درہوں، چراگاہ ایک ہو، زکا مادہ کو جفتی کرتا ایک ہو اور وہ دونوں اہل زکوٰۃ سے ہوں۔ اگر ذمی یا مکاتب کے ساتھ شرکت ہو تو اس کا کوئی اعتبار نہیں بعض اوقات واجب

اونٹ عمر میں کچھ کم ہوتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں بشرطیکہ نیت مخاص سے کم نہ ہو۔ اور وہ نقصان اس طرح پورا کیا جائے کہ ایک سال کی کمی کے لیے دو بکریاں یا بیس درہم، دو سال کی کمی کے لیے چار بکریاں یا چالیس درہم دیئے جائیں عمر میں زیادہ بھی دے سکتے ہیں لیکن اس کی عمر جذبہ سے نہ بڑھے اور جو زیادہ دیا اس کا عوض بیت المال کے کارندوں سے لیا جائے زکوٰۃ میں بیمار جانور نہ لیا جائے اگر مال کا کچھ حصہ صحیح ہو اگرچہ ایک ہی ہو، اور اچھے مال میں سے اچھایا جائے اور خراب میں سے خراب، لیکن زکوٰۃ میں کھانے کے لیے تیار کیا ہوا جانور بچے چھنے والا جانور، دودھ دینے والا، سانڈ اور قیمتی مال نہ لیا جائے بلکہ درمیانے قسم کا لیا جائے۔

زمین کی فصل کی زکوٰۃ

دوسری قسم:

ہر وہ اگنے والی چیز جسے بطور غذا استعمال کرتے ہیں جب بیس من ہو تو اس میں عشر واجب ہے اس سے کم میں نہیں پھلوں اور روٹی میں عشر نہیں البتہ وہ غلہ جسے بطور غذا استعمال رکھتے ہیں اس میں عشر ہے خشک کھجور (بھو ہاروں) اور کشمش میں زکوٰۃ واجب ہے اور یہ بیس من ہو تو کھجور یا انگور نہ ہو۔ خشک ہونے کے بعد ادائیگی کی جائے دو شریکوں کے مال کو ایک دوسرے کے ساتھ ملا کر لورا کیا جائے جب کہ حصوں کے اعتبار سے شراکت ہو جیسا کہ کسی شخص کے ورثا کے درمیان ایک باغ مشترک ہو اس میں من ششمش ہو تو ہر ایک پر دو من کشمش واجب ہوگی یہ ان کے حصوں کے حساب سے ہے اس میں پڑوس کی شرکت معتبر نہیں (یعنی ایک جگہ درخت ہوں ان کے مالک الگ الگ ہوں تو اب نصاب بنانے کے لیے ان کو جمع نہیں کیا جائے گا)

گندم کا نصاب جو سے پورا نہیں کیا جائے گا البتہ جو کا نصاب نلت (چھلکے کے بغیر جو جن کو پیٹری ہو کہتے ہیں) سے پورا کیا جائے گا کیونکہ وہ بھی جو کی قسم ہے یہ وجوب اس صورت میں ہے جب جاری پانی یا نالی کے ذریعے پانی پہنچا ہوا اور اگر اونٹ کے ذریعے پانی لایا جائے یا کنویں سے ڈوبوں کے ذریعے سیراب کیا جائے تو بیسواں حصہ ہو گا اور دونوں طریقے جمع ہو جائیں ربارش اور کنویں وغیرہ کا پانی) تو زیادہ غالب کا اعتبار ہو گا۔

واجب کی صورت یہ ہے کہ کھجور، کشمش خشک اور خشک غلہ سے بھوسہ وغیرہ دور کرنے کے بعد لیا جائے انگور اور تر کھجوروں سے نہ لی جائے البتہ درختوں میں کوئی آفت آجائے اور پھل پکنے سے پہلے درختوں کو کاٹنا ضروری ہو تو تر کھجوروں سے بھی زکوٰۃ لی جائے ماپ کر کے نو حصے مالک کو اور ایک حصہ فقیر کو دیں اور اس تقسیم سے ہمارا یہ

(۱) امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ کے نزدیک زمین سے ٹھوڑی فصل پیدا ہو یا زیادہ اس میں دسواں حصہ (عشر) واجب ہے) بیس من کی شرط نہیں سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کچھ زمین سے نکلے اس میں عشر ہے، نیز امام صاحب کے نزدیک پھلوں اور سبز لہوں میں بھی عشر واجب ہے البتہ گھاس وغیرہ یا خورد و پودوں میں عشر نہیں خود پیدائے ہوں تو عشر ہو گا ۱۲ ہزاروی

قول رکاوٹ نہیں بنتا کہ تقسیم توزیع میں داخل ہے یعنی جب اس کچے پھل کی خرید و فروخت جائز نہیں تو تقسیم کس طرح جائز ہوگی، بلکہ حاجت کے تحت اس کی اجازت دی گئی ہے۔

زکوٰۃ کے وجوب کا وقت وہ ہے جب پھلوں میں صلاحیت ظاہر ہو جائے اور دانا سخت ہو جائے اور ادائیگی خشک ہونے کے بعد ہوگی۔

تیسری قسم: سونے چاندی کی زکوٰۃ
جب مکہ مکرمہ کے وزن سے (دو سو درہموں پر سال پورا ہو جائے اور خالص چاندی ہو تو اس میں پانچ درہم ہوں گے اور یہ چالیسواں حصہ ہے اور زائد میں اس کے حساب سے ہوگا اگرچہ ایک درہم ہو سونے کا نصاب بیس مثقال خالص سونا ہے اور یہ بھی مکہ مکرمہ کے وزن سے ہے اس میں بھی چالیسواں حصہ ہے اور جو زیادہ ہو اس میں اس کے حساب سے ہے اور اگر نصاب سے ایک دانہ بھی کم ہو تو زکوٰۃ واجب نہ ہوگی۔ جس کے پاس ایسے درہم ہوں جن میں کھوٹ ملی ہوئی ہے تو اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہے جب اس میں خالص، چاندی بھی نصاب کی مقدار میں ہو۔ سونے کی ڈلی اور ممنوعات زیور مثلاً سونے چاندی کے برتن مردوں کے لیے کاٹھیاں وغیرہ جائز زیورات میں واجب نہیں راخان کے نزدیک عورتوں کے زیورات میں بھی زکوٰۃ واجب ہے اگر نصاب کو پہنچ جائیں) اگر ایسے آدمی کے ذمہ قرض ہو جو ادائیگی میں تاخیر کرتا ہے تو اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہے لیکن اس وقت واجب ہوگی جب وصول کر لے اور جب وقت مقرر ہو تو وقت گزرنے تک واجب نہیں ہوگی۔

چوتھی قسم: مال تجارت میں زکوٰۃ
یہ سونے چاندی کی زکوٰۃ کی طرح ہے اگر نقد رقم نصاب کے برابر ہو تو سال کا آغاز اس وقت سے ہوگا جب وہ اس رقم کا مالک ہو جس سے سامان خریدا ہے۔ اور اگر وہ کم ہو یا سامان کے بدلے میں تجارت کی نیت سے کوئی چیز خریدے تو خریدنے کے وقت سے سال کا اعتبار ہوگا، زکوٰۃ کی ادائیگی اپنے ملکی سکے سے کرے اور اسی کے ساتھ قیمت لگائی جائے۔ اور اگر کسی سکے کے ساتھ سامان خریدا اور وہ بھی نصاب کامل ہے تو اپنے شہر کے سکے کی نسبت اس سے قیمت لگانا زیادہ بہتر ہے۔ اور اگر اپنے ذاتی مال سے تجارت کی نیت کرے تو محض نیت سے سال کا آغاز نہ ہوگا جب تک اس کے ساتھ کچھ خریدنے لے اور سال ختم ہونے سے پہلے تجارت کی نیت ختم ہو جائے تو زکوٰۃ ساقط ہو جائے گی لیکن اس سال کی زکوٰۃ دنیا بہتر ہے اور سال کے آخر میں جو نفع حاصل ہوا اس میں اس وقت زکوٰۃ واجب ہو جائے گی جب اصل مال پر سال مکمل ہو جائے۔ اور اس پر ایک سال شروع نہ کرے جیسے جانوروں کے بچوں میں نہیں کرتے اور صرف افسوں کے مال میں باہمی تبادلوں سے جو ان کے درمیان جاری ہوتا ہے، سال منقطع نہیں ہوگا جس طرح باقی تجارتوں میں نہیں ہوتا۔

مال مضاربت کے نفع میں مضارب پر زکوٰۃ واجب ہوگی اگرچہ ابھی تقسیم نہ ہوا ہو قیاس کا تقاضا یہی ہے۔

پانچویں قسم: دفتینے اور معدنیات | رکاز اس مال کو کہتے ہیں جو زمانہ جاہلیت میں کہیں دفن کیا گیا اور ایسی زمین سے ملا جس پر اسلام میں ملک جاری نہیں ہوئی۔

اس خزانے کو پانے والے پر سونے اور چاندی کی صورت میں پانچواں حصہ لازم ہوگا۔ اور سال کا اعتبار نہ ہوگا۔ اولیٰ یہ ہے کہ نصاب کا بھی اعتبار نہ ہو کیوں کہ خمس پانچویں حصہ کے وجوب سے مال عنیت کے ساتھ مشابہت پائی جاتی ہے اور اس (نصاب) کا اعتبار کرنا بھی کوئی بعید از قیاس بات نہیں کیونکہ اس کا مصرف وہی ہے جو زکوٰۃ کا ہے اسی لیے صحیح قول کے مطابق دفتینے سونے چاندی کے ساتھ خاص ہے (کسی اور چیز کا نہیں ہوتا) کانوں (معدنیات نکلنے کی جگہ) میں سے جو کچھ نکلے تو سونے اور چاندی کے علاوہ کسی چیز میں زکوٰۃ نہیں ہے۔

راحات کے نزدیک اگر کان سے لوہا، سیسہ، تانیا، پتیل وغیرہ نکلیں تو ان میں بھی خمس ہے البتہ فیروزہ، یا قوت زرد اور دیگر جو اہر نیز سرحد، ٹھیکری، چونہ، قومی اور نمک میں خمس نہیں تفصیل کے لیے دیکھئے بہا شرعیہ حصہ پنجم ص ۳۲) سونے اور چاندی کو غھٹی میں سے گزارنے اور خالص کرنے کے بعد ان میں سے چالیسواں حصہ لیا جائے گا۔

دو قولوں میں سے زیادہ صحیح قول یہی ہے اس بنیاد پر نصاب معتبر ہوگا۔ سال گزرنے کے بارے میں دو قول ہیں نیز ایک قول کے مطابق خمس واجب ہے اس بنیاد پر نصاب کا اعتبار نہ ہوگا، نصاب کے بارے میں بھی دو قول ہیں زیادہ مناسب قول یہ ہے اور اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ مقدار واجب میں مال تجارت کی زکوٰۃ سے ملا دیں کیوں کہ یہ بھی ایک قسم کی کمائی ہے اور سال کے اعتبار سے عشری چیزوں کے ساتھ ملا دیں اس طرح سال کا اعتبار نہ ہوگا کیونکہ یہ اس پانے والے کے ساتھ نرمی کا سلوک ہے البتہ عشری چیزوں کی طرح نصاب کا اعتبار ہوگا لیکن احتیاط کا تقاضا ہے کہ تھوڑا ہو یا بہت پانچواں حصہ نکالا جائے نیز اختلاف کے شبہ سے بچتے ہوئے سونے اور چاندی کے عین میں سے نکالیں کیونکہ یہ گمان تعارض کے قریب ہیں اور تعارض اشتباہ کی وجہ سے ایک بات پر فتویٰ دینا ممکن نہیں۔

چھٹی قسم: صدقہ فطر | صدقہ فطر سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ہر اس مسلمان پر واجب ہے جس کے پاس اپنے اور اپنے زیر کفالت لوگوں کے لیے عید الفطر اور اس کی رات کے

کھانے سے ایک صاع زائد ان چیزوں میں سے ہو جن کو بطور غذا استعمال کیا جاتا ہے اور اس کا اندازہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاع سے ہوگا۔ (۱) اور یہ دو سیر اور ایک سیر کا تہائی حصہ ہے اس چیز کی جنس سے ہو جو وہ کھاتا ہے یا اس سے افضل ہو۔ اگر گندم کھاتے ہوں تو جو سے صحیح نہیں اور اگر مختلف غلے کھاتے ہوں تو بہتر کو اختیار

کے بہر حال جس سے بھی دے جائز ہے اور اسے اس طرح تقسیم کرے جس طرح زکوٰۃ کا مال تقسیم کیا جاتا ہے لہذا تمام مصارف زکوٰۃ (جن کو زکوٰۃ دی جاتی ہے) کو گھیرنا ضروری ہے (۱)

آٹایا ستر دنیا جائز نہیں (احناف کے نزدیک جائز ہے)

مرد پر اس کی بیوی، غلاموں، اولاد اور ہر وہ قریبی رشتہ دار جو اس کی کفالت میں ہے ان کا صدقہ فطر واجب ہے یعنی اس کے مال باپ اور اولاد میں سے جن لوگوں کا نفقہ اس پر لازم ہے ان کی طرف سے صدقہ فطر دے گا، مگر کاررو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

أَدْوَا صَدَقَاتُ الْفِطْرِ عَمَّنْ تَمُوْتُونَ - ان لوگوں کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرو جو تمہاری کفالت میں ہیں۔

(۲)

احناف کے نزدیک اگرچہ بیوی اور بالغ اولاد کا صدقہ فطر اس کے ذمہ نہیں لیکن اگر ادا کر دے تو ادا ہو جائے گا بشرطیکہ اس کی کفالت میں ہوں ورنہ اجازت ضروری ہوگی ۱۲ ہزار روپی

جو غلام دو آدمیوں میں شریک ہو تو دونوں پر صدقہ فطر ہوگا (احناف کے نزدیک کسی پر نہیں ہے) کا فر غلام کا صدقہ فطر واجب نہیں اگر عورت خود اپنی طرف سے ادا کر دے تو کفالت کرے گا لیکن خاوند اس کی اجازت کے بغیر ادا کر دے تب بھی جائز ہے اور اگر کوئی شخص بعض افراد کا صدقہ ادا کر سکتا ہو تو بعض کا ادا کر دے اور ان میں سے اولیٰ وہ ہیں جن کا نفقہ زیادہ لازم ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد کے نفقہ کو بیوی کے نفقہ پر اور بیوی کے نفقہ کو خادم کے نفقہ پر مقدم فرمایا (۳)

یہ فقہی احکام ہیں مال دار آدمی کے لیے ان کا جانا ضروری ہے اور بعض اوقات نئے واقعات رونما ہوتے ہیں جو ان مسائل سے باہر ہوتے ہیں تو اس وقت علماء کرام سے پوچھنے پر اکتفا کرے لیکن یہ مسائل یاد ہونے چاہیں۔

دوسری فصل :

ادا ہنگی اور اس کی ظاہری و باطنی شرائط

جاننا چاہئے کہ زکوٰۃ دینے والے پر پانچ باتوں کا لحاظ رکھنا لازمی ہے۔

(۱) احناف کے نزدیک عید سے پہلے جب جائیں صدقہ فطر دے سکتے ہیں نیز گندم نصف صاع (دو کلو) ہے اگر جو یا کھجوریں دیں

تو ایک کلو دیں نیز مصارف میں سے کسی ایک کو دے دیں تب بھی جائز ہے ہزار روپی۔

(۲) سنن دارقطنی جلد ۲ ص ۱۳۹ کتاب زکوٰۃ الفطر

(۳) سنن ابی داؤد جلد اول ص ۲۲۸ کتاب الزکوٰۃ

۱۔ نیت کرنا یعنی دل سے فرض زکوٰۃ کی نیت کرے مال کی تعیین سنت سے اور اگر مال غائب ہو تو یوں کہے کہ یہ میرے غائب مال کی زکوٰۃ ہے اگر وہ صحیح محفوظ ہے ورنہ نقلی صدقہ ہو جائے تو یہ کہنا جائز ہے کیونکہ تصریح نہ کرنے کی صورت میں جب مطلقاً کہتا تو بھی اس طرح ہوتا۔ مجنون اور بچے کی طرف سے ولی کی نیت قائم مقام ہو جاتی ہے۔

اور جو شخص (مالک) زکوٰۃ دینے سے گریز کرتا ہے تو بادشاہ کی نیت اس کی نیت کے قائم مقام ہو جاتی ہے لیکن یہ ظاہری طور پر دینی حکم کے حوالے سے ہے کہ اب اس سے مطالبہ نہ ہو آخرت کے اعتبار سے نہیں بلکہ اس کی ذمہ داری باقی رہے گی یہاں تک کہ وہ نئے سرے سے زکوٰۃ ادا کرے، اگر وہ ادائیگی کے لیے کسی کو وکیل بنائے اور وکیل بنانے وقت نیت کرے یا وکیل کو نیت کا بھی وکیل بنا دے تو یہ بھی کافی ہے کیوں کہ نیت کا وکیل بنانا بھی نیت ہے۔

۲۔ سال گزرنے کے بعد ادائیگی میں جلدی کرنی چاہیے اور صدقہ فطر کو عید کے دن سے مؤخر نہیں کرنا چاہیے اور اس کے وجوب کا وقت رمضان المبارک کے آخری دن غروب آفتاب سے شروع ہو جاتا ہے اور جلدی دینے کا وقت رمضان المبارک کا پورا مہینہ ہے اور جو آدمی قادر ہونے کے باوجود زکوٰۃ کی ادائیگی میں تاخیر کرے تو وہ گناہ گار ہو گا لیکن زکوٰۃ اس کے ذمہ سے ساقط نہیں ہوگی اگرچہ مال ہلاک ہو جائے اور قادر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اسے مستحق زکوٰۃ مل جائے۔ اور اگر مستحق نہ ملنے کی وجہ سے تاخیر کرے اور مال ہلاک ہو جائے تو زکوٰۃ ساقط ہو جائے گی۔ نصاب کے مکمل ہونے اور سال پورا ہونے کے بعد زکوٰۃ کی ادائیگی میں جلدی کرنا جائز ہے (بلکہ ضروری ہے) دو سالوں کی زکوٰۃ پیشگی ادا کرنا بھی جائز ہے اور جب جلدی کرے اور سال گزرنے سے پہلے مسکین مر جائے یا وہ مالک مر جائے تو جو کچھ دیا وہ زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ اب واپس لینا ناممکن ہے البتہ دیتے وقت واپسی کی شرط رکھے تو لے سکتا ہے تو جلدی دینے والے کو امور آخرت اور آخرت کی سلامتی پیش نظر رکھنی چاہیے۔ (۱)

۳۔ اس مال کے عین قیمت نہ دے بلکہ جس کے بارے میں حکم ہے وہی دے پس سونے کی جگہ چاندی اور چاندی کی جگہ سونا دینا جائز نہیں اگرچہ قیمت میں یہ زیادہ ہو۔ (احناف کے نزدیک قیمت دی جا سکتی ہے) اور شاید بعض لوگ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ کی عرض کو نہ سمجھنے کی وجہ سے اس بارے میں سستی سے کام لیں اور یوں سمجھیں کہ مقصد محتاجی کو دور کرنا ہے اور یہ بات علم سے بہت دور ہے کیونکہ حاجت کو پورا کرنا ضرور مقصود ہے لیکن تمام کا تمام مقصد یہی نہیں بلکہ شریعت کے واجبات کی تین قسمیں ہیں ایک یہ کہ وہ محض عبادت و اطاعت ہے ان میں کسی قسم کی غرض کا دخل نہیں ہوتا جس طرح حیرات

(۱) چونکہ زکوٰۃ کی ادائیگی سال پورا ہونے سے پہلے بھی جائز ہے بشرطیکہ صاحب نصاب ہو لہذا جب اس نے زکوٰۃ ادا کی تو ادائیگی ہو جائے گی بعد میں پیدا ہونے والے ان عوارض سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔

(۱۲ ہزاروی)

رہتی ہیں ستونوں) کو کنکریاں مارنا کیونکہ حجرہ تک کنکری کے پہنچنے سے کوئی عرض نہیں اس سے شریعت کا مقصود صرف اتنا ہے کہ بندے کی اس کام میں آزمائش کی جائے جو بظاہر عقل کے خلاف ہے کیونکہ عقل میں آنے والی بات کی طرف انسانی طبیعت مدد کرتی اور دعوت دیتی ہے لہذا غلامی اور بندگی کا خلوص ظاہر نہ ہوگا کیوں کہ بندگی اس صورت میں ظاہر ہوتی ہے جب صرف معبود کے حق حکم کی ادائیگی پیش نظر ہو۔ کوئی اور مقصد نہ ہو، حج کے اکثر اعمال کی یہی صورت ہے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے احرام کے دوران فرمایا۔

لَيْسَ بِكَ بِحَاجَةٍ حَقًّا تَعْبُدُ وِرًا قًا۔
میں اسی حج کے ساتھ حاضر ہوں جو محض اطاعت اور

غلامی کے طور پر ثابت ہے۔ (۱)

یہ اس بات پر آگاہی ہے کہ یہ محض امر خداوندی کی تعمیل کے ذریعے بندگی کا اظہار ہے عقل کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں کہ وہ پس کی طرف مائل ہو اور اس کی ترکیب دے دوسری قسم میں وہ واجبات شرعیہ داخل ہیں جن سے کچھ حاصل کرنا مقصود ہوتا ہے محض اطاعت ہی نہیں ہوتی جیسے لوگوں کے فرض واپس کرنا اور کوئی چیز غضب کی ہے تو اسے لوٹانا۔ لہذا یہاں اس کا فعل یا نیت معتبر نہیں کیونکہ بعض اوقات مستحق تک اس کا حق پہنچ جاتا ہے یا اس کا بدل پہنچتا ہے اور وہ اس پر راضی بھی ہوتا ہے تو اس طرح وجوب کی ادائیگی بھی ہو جاتی ہے اور شریعت کا خطاب (ادا کرو) بھی ساقط ہو جاتا ہے تو یہ دو وہ قسمیں ہیں جن میں کوئی ترکیب نہیں (دونوں الگ الگ ہیں) ان کو جاننے میں تمام لوگ مشترک ہیں۔ (۲)

تیسری قسم وہ مرکب ہے جس سے دو باتیں بیک وقت مقصود ہوتی ہیں یعنی بندوں کا حصہ اور مکلف کی عبادت کے ساتھ آزمائش، پس اس میں جہرات کو کنکریاں مارنے جیسی عبادت اور حقوق کی واپسی دونوں کا اجتماع ہوتا ہے یہ قسم ذاتی طور پر معقول ہے اور اگر شریعت کا حکم بھی آجائے تو دونوں معنوں کو جمع کرنا واجب ہوگا۔

لہذا ان کے ظاہر کو دیکھتے ہوئے تو معنی نہایت باریک ہے اسے محمول جانا مناسب نہیں۔ ممکن ہے جو زیادہ دقیق ہو وہی زیادہ اہم ہو۔ اور زکوٰۃ بھی اسی قسم سے ہے اور اس سے حضرت امام شافعی رحمہ اللہ کے علاوہ کسی نے خبردار نہیں کیا۔ محتاجی کو ختم کرنے کے سلسلے میں محتاج کا حق مقصود ہے اور یہ بات واضح اور ظاہر ہے اسے ذہن قبول کرتے

(۱)

(۲) زکوٰۃ کی ادائیگی کو کنکریاں مارنے پر قیاس کرنا صحیح نہیں کیونکہ کنکریاں ایک غیر معقول عمل ہے محض حکم خداوندی کی تعمیل ہوتی ہے جس طرح قربانی وغیرہ لیکن زکوٰۃ میں فقیر کی حاجت کو پورا کرنا ایک معقول بات ہے اگر کسی کو زکوٰۃ میں بکری دی جائے تو وہ اسے کہاں سنبھالے کہاں پر شکایت ہیں لیکن جب پیسے دیں گے تو وہ اپنی ضرورت کی ہر چیز خرید سکتا ہے فقہ حنفی میں انہی باتوں کو پیش نظر رکھا گیا ہے۔

(۱۲ ہزاروی)

ہیں اور تفصیل کی اتباع میں عبادت کا حق شریعت کا مقصود ہے اس اعتبار سے زکوٰۃ حج اور نماز کے ہم پلہ ہے کیوں کہ یہ اسلام کی بنیاد ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ملکیت جب اپنے مال کی مختلف جنموں کو الگ الگ کر کے اس کی ہر نوع جنس اور صفت سے حصہ نکالتا ہے پھر اسے اٹھ مصارف پر تقسیم کرتا ہے جیسا کہ آگے آئے گا تو اسے مشقت اٹھانا پڑتی ہے اب اس میں غفلت فقیر کے حصے کو نقصان نہیں پہنچاتی لیکن عبادت میں کوتاہی کا سبب ہے انواع مال کی تعیین سے عبادت مقصود ہے اس بات پر کچھ امور دلالت کرتے ہیں جنہیں ہم نے فقہیات میں اختلاف سے متعلق کتب میں ذکر کیا ہے ان میں سے زیادہ واضح بات یہ ہے کہ شریعت نے پانچ اونٹوں میں ایک بکری واجب کی ہے تو اونٹوں سے بکری کی طرف رُخ کیا نہ تو سونے چاندی کی طرف متوجہ کی گئی اور نہ قیمت کی طرف۔ اگر یہ بات فرض کی جائے کہ عربوں کے پاس نقدی کی کمی ہوتی تھی تو یہ بات باطل ہو جائے گی کہ نقصان کی صورت میں دو بکریوں کے ساتھ بیس درہم دیے جائیں تو نقصان کی صورت میں نقصان کا اندازہ قیمت کے ساتھ کیوں نہیں لگایا۔ اور بیس درہم اور دو بکریوں کے ساتھ کیوں اندازہ لگایا گیا۔ اگرچہ کپڑے اور دیگر سامان سب کچھ اس کے معنی میں ہے۔ تو یہ اور اس قسم کی دوسری تخصیصات اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ زکوٰۃ کو عبادت کے مفہوم سے خالی نہیں چھوڑا جیسا کہ حج میں ہی مفہوم ہے بلکہ دونوں معنوں کو جمع فرمایا اور کمزور ذہن مرکبات کو سمجھنے سے قاصر ہیں۔ اس سلسلے میں غلطی کا باعث یہی بات ہے۔

۴۔ زکوٰۃ دوسرے شہر کی طرف منتقل نہ کرے کیونکہ ہر شہر کے مساکین اس شہر کے مالوں پر نگاہ رکھتے ہیں اور اور دوسری طرف منتقل کرنے سے بدظنی پیدا ہوگی۔ اور اگر ایسا کیا تو ایک قول کے مطابق جائز ہے۔ لیکن اختلاف کے شبہ سے نکلنا زیادہ بہتر ہے لہذا پورے مال کی زکوٰۃ اسی شہر میں نکالے اور اس شہر کے تمام غریبوں پر تقسیم کرنے میں کوئی حرج نہیں۔

۵۔ اس شہر میں مصارف زکوٰۃ کی تعداد کے مطابق مال کو تقسیم کرے کیوں کہ مصارف کی تمام اقسام کو گھیرنا واجب ہے۔ (احضات کے نزدیک یہ ضروری نہیں) اس پر یہ آیت کریمہ دلالت کرتی ہے۔

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ (۱)

بے شک صدقات فقراء اور مساکین کے لیے ہیں۔ (۲)

یہ بیمار کے اس قول کی طرح ہے کہ میرے مال کا تہائی حصہ فقراء اور مساکین کے لیے ہے اور یہ اس بات کا تعاقب کرتی ہے کہ مالک بنانے میں ان سب کو شریک کیا جائے اور عبادت میں ظاہر مفہوم مراد لینے سے بچنا چاہیے اکثر شہروں

(۱) قرآن مجید، سورہ توبہ آیت ۶

(۲) اس آیت میں صرف استحقاق بیان ہوا کہ فلاں فلاں لوگ زکوٰۃ کے مستحق ہیں یہ نہیں کہ سب کو دینا ضروری ہے۔

ہیں دو قسم کے مستحق نہیں پائے جاتے ایک وہ جن کو اسلام کے لیے تالیفِ قلوب کی خاطر زکوٰۃ دی جاتی تھی دوسرے زکوٰۃ کے لیے کام کرنے والے۔ شہروں میں چار اقسام باقی جاتی ہیں۔ فقرا و مساکین، تاردار اور مسافر یعنی ابن سبیل دو قسمیں بعض شہروں میں پائی جاتی ہیں اور بعض جگہ نہیں۔ وہ جہاد کرنے والے اور مکاتب لوگ ہیں۔ مکاتب وہ غلام جس کو مالک نے کہا کہ اتنی رقم ادا کرے آزاد ہو جاؤ اب مکاتب نہیں کیوں کہ غلامی کا سلسلہ ختم ہو گیا ۱۲ ہزار ویں) اگر پانچ قسموں کے لوگ مل جائیں تو ان کے درمیان اپنے مال کی زکوٰۃ تقسیم کر دیں برابر ہوں یا قریب قریب ہوں ہر ایک کے لیے ایک حصہ مقرر کرے پھر ہر قسم کو تین قسموں میں تقسیم کرے یا زیادہ حصے کرے وہ باہم برابر ہوں یا پھوڑا بہت فرق ہو۔ ایک قسم کے تحت سب کو برابر دینا واجب نہیں۔ اس کے لیے جائز ہے کہ دس یا بیس پر تقسیم کرے پس ہر ایک کا حصہ کم ہو گا لیکن اقسام مصارف زیادتی اور کمی کو قبول نہیں کرتیں لہذا ہر قسم میں تین سے کم نہ کرے اگر وہ پائے جاتے ہوں۔ پھر اگر صدقہ فطر کا ایک ہی صالح واجب ہو یا ہوا اور پانچ قسم کے مصارف پائے جائیں تو اسے چاہیے کہ پندرہ آدمیوں کو دے اور اگر امکان کے باوجود ایک کو نہ پہنچے تو اس ایک کے حصے کا نادان بھرے اور واجب کے کم ہونے کی وجہ سے یہ مشکل ہو تو ایک جماعت کو جن پر زکوٰۃ واجب ہے اپنے ساتھ شریک کرے اور اپنے مال کو ان کے مال کے ساتھ ملائے پھر مستحقین کو جمع کرے اور ان کے سپرد کر دے تاکہ وہ آپس میں تقسیم کر دیں کیوں کہ یہ عمل ضروری ہے۔ (۱)

جان لو کہ آخرت کے راستے کا ارادہ کرنے والے پر زکوٰۃ کے سلسلے میں کچھ ذمہ داریاں باطنی آداب کی باریکیاں ہیں۔

پہلی ذمہ داری۔ وجوب زکوٰۃ اور اس کے معنی کو سمجھنا اس کے ذریعے آزمائش کی وجہ کیا ہے اسے اسلام کے بنیادی ارکان میں سے کیوں قرار دیا گیا حالانکہ یہ مالی تصرف ہے اور بدنی عبادات میں سے نہیں ہے اس میں تین معانی ہیں۔
۱۔ کلمہ شہادت کا تلفظ توحید کو اختیار کرنے کی خاطر ہے نیز یہ کہ معبود ایک ہے اور وفاداری کی تکمیل کے لیے شرط ہے کہ موقد کے لیے اس ذات واحد کے سوا کوئی محبوب نہ رہے کیونکہ محبت، شرکت کو قبول نہیں کرتی اور زبان کے ساتھ توحید میں کوئی خاص آزمائش نہیں محبت کے مقام کا امتحان محبوب کی مفارقت کے ذریعے ہوتا ہے اور مال، مخلوق کے

(۱) یہ عمل ناممکن ہے اب ایک صاع (چار کلو) پندرہ آدمیوں پر تقسیم کریں تو ایک ایک کے حصے میں کیا آئے گا اور مختلف زکوٰۃ دہندگان کو جمع کرنا بھی مشکل ہے اس لیے احناف کا طریقہ آسان ہے یعنی ضروری نہیں کہ تمام اقسام کے مصارف کو دیں کسی ایک قسم کے لوگوں میں تقسیم کر سکتے ہیں اور کسی ایک ہی دے سکتے ہیں بشرطیکہ نصاب کا مالک نہ بنائیں لہذا احناف کے طریقے پر عمل کرنے میں آسانی ہے ۱۲ ہزار ویں۔

نزدیک محبوب ہیں کیونکہ دنیا میں ان کے نفع کا آلہ ہی ہیں اور ان کے ذریعے وہ اس جہاں سے محبت کرتے اور موت سے نفرت کرتے ہیں حالانکہ اسی (موت) کے ذریعے محبوب کی ملاقات ہوتی ہے لہذا ان کے دعویٰ کی تصدیق کے لیے محبوب چیزیں ان کی آزمائش کی جاتی ہے اور ان سے اس مال کا مطالبہ کیا گیا جو ان کی منظور نظر ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ
وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ ۗ (۱)

بے شک اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور مال خرید لیے کہ اس کے بدلے میں ان کے لیے جنت ہے۔

اور یہ بات جہاد سے حاصل ہوتی ہے اور وہ شوق خداوندی میں جان کا نذرانہ پیش کرنا ہے اور مال کے ساتھ چشم پوشی کرنا آسان ہے جب مال خرچ کرنے کے سلسلے میں یہ معنی سمجھ آ گیا تو اب لوگوں کی تین قسمیں بن گئیں۔ ایک قسم ان لوگوں کی ہے جنہوں نے توحید کی تصدیق کی اپنا وعدہ پورا کیا اور اپنے تمام مال کو چھوڑ دیا انہوں نے کوئی دینار اور درہم جمع نہ کیا وہ وجوب زکوٰۃ کے درپے نہ ہوئے حتیٰ کہ ان میں سے بعض سے پوچھا گیا کہ دوسو درہموں میں کتنی زکوٰۃ واجب ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا شریعت کے مطابق عوام پر پانچ درہم واجب ہیں لیکن ہم پر سب کچھ واجب ہے اسی لیے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اپنا تمام مال خرچ کر دیا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے نصف مال خرچ کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا تو انہوں نے عرض کیا جتنا لایا ہوں اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے پوچھا آپ نے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ تو انہوں نے عرض کیا اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے آپ نے فرمایا تمہارے درمیان وہی فرق ہے جتنا تم دونوں کے کلمات میں ہے (۲) تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تمام صدق کو پورا فرمایا اور اپنے پاس محبوب یعنی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے سوا کچھ نہ چھوڑا۔

دوسری قسم کے لوگ وہ ہیں جن کا درجہ ان سے کم ہے یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مال روک کر رکھتے ہیں حاجات اور خیرات کے موسموں کے منتظر رہتے ہیں تو مال جمع کرنے سے ان کا مقصد حاجت کے مطابق خرچ کرنا ہے عیاشی مقصود نہیں وہ حاجت سے زائد مال کو نیکی کے مقامات پر خرچ کرتے ہیں جب ضرورت پڑے یہ لوگ زکوٰۃ کی مقدار پر اکتفا نہیں کرتے تابعین کی ایک جماعت اس طرف گئی ہے کہ مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی حقوق ہیں جسے حضرت شیخی حضرت شعبی حضرت عطاء اور حضرت مجاہد رحمہم اللہ۔ حضرت شعبی سے پوچھا گیا کہ کیا مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی کوئی حق ہے!

(۱) قرآن مجید سورۃ توبہ آیت ۱۱۱

(۲) سنن ابی داؤد جلد اول ص ۲۳۶ کتاب الزکوٰۃ

انہوں نے فرمایا ہاں کیا تم سے اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد نہیں سنا۔
 وَأَتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ (۱)

اور وہ اس کی محبت میں (مال) رشتہ داروں کو دیتا ہے۔
 اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے اس قول سے استدلال کیا ارشادِ خداوندی ہے۔
 وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ (۲)

نیز ارشادِ باری تعالیٰ ہے۔
 وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ (۳)
 ان حضرات کا خیال ہے کہ یہ حکم آیتِ زکوٰۃ سے منسوخ نہیں ہوا بلکہ مسلمان کے مسلمان پر حتیٰ میں داخل ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ خوشحال آدمی جب کسی محتاج کو پائے تو اس پر واجب ہے کہ مالِ زکوٰۃ سے زائد مال کے ذریعے اس کی حاجت کو پورا کرے۔

اس بات میں فقہ سے جو بات صحیح ہے وہ یہ ہے کہ جب اسے حاجت تنگ کرے تو دوسروں پر فرض کفایا ہے کہ وہ اس کا ازالہ کریں کیونکہ کسی مسلمان کو ضائع کرنا جائز نہیں لیکن یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ مال دار آدمی اسے اتنا قرض دے جس سے اس کی حاجت پوری ہو جائے اور جب اپنے مال کی زکوٰۃ دے دے تو اب مزید کچھ خرچ کرنا لازمی نہیں اور یہ بھی احتمال ہے کہ وہ اس وقت اس پر خرچ کرتے اور فقیر کو قرض لینے کی تکلیف ڈالنا جائز نہیں۔
 اس مسئلہ میں اختلاف ہے قرض لینا عوام کے درجات میں سے آخری درجہ کی طرف اترتا ہے اور یہی تیسری قسم ہے یعنی اس قسم کے لوگ واجب کی ادائیگی پر اکتفا کرتے ہیں نہ اس میں اضافہ کرتے ہیں اور نہ کمی۔ اور یہ سب سے کم مرتبہ ہے۔
 تمام عوام اس پر اکتفا کرتے ہیں کیوں کہ وہ مال میں بخل سے کام لیتے ہیں اس کی طرف مائل ہوتے ہیں اور آخرت سے محبت میں کمزور ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

إِنْ يَسْأَلْكُمُوهَا فَيُحْفِكُمْ تَبَخَّلُوا۔ (۴)
 اگر وہ تم سے مال مانگے اور اس میں مبالغہ کرے تو تم بخل کرو گے۔

(۱) قرآن مجید سورہ بقرہ آیت ۱۷۷

(۲) قرآن مجید سورہ الانفال آیت ۲

(۳) قرآن مجید سورہ منافقون آیت ۱۰

(۴) قرآن مجید سورہ محمد آیت ۳۷

تو ان دونوں بندوں میں کتنا فرق ہے کہ ایک سے اس کا مال اور جان جنت کے بدلے میں خریدتے اور دوسرا وہ ہے کہ اس کے بخل کی وجہ سے اس پر زور نہیں ڈالا جاتا۔ تو بندوں کو مال خرچ کرنے کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے حکم کی ایک وجہ یہ ہے۔

دوسرا معنی۔ بخل کی صفت سے پاک کرنا ہے کیوں کہ یہ ہلاک کرنے والے امور ہیں سے ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

ثَلَاثٌ مَّهْلِكَاتٍ شُحٌّ مَطَاعٌ وَهَوَىٰ
مَتَّبِعٌ وَأَعْجَابُ الْمَرْبِئِنْفِئِهِ -
تین باتیں ہلاکت میں ڈالنے والی ہیں وہ بخل جس کی پیروی
کی جائے خواہشات جن کی اتباع کی جائے اور آدمی کا خود
پسندی میں مبتلا ہونا۔ (۲)

اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:
وَمَنْ يُؤْتِ شُحًّا نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ
الْمُفْلِحُونَ - (۳)
اور جو لوگ اپنے نفس کو لالچ سے بچاتے ہیں وہی فلاح
پانے والے ہیں۔

مہلکات کے بیان میں آئے گا کہ یہ چیزیں باعث ہلاکت کیوں ہیں اور ان سے نجات کی صورت کیا ہے۔ بخل اس طرح دور ہوتا ہے کہ انسان مال خرچ کرنے کا عادی ہو جائے کیوں کہ کسی چیز کی محبت اسی صورت میں ختم ہو سکتی ہے جب وہ اس کے چھوڑنے پر نفس کو مجبور کرے حتیٰ کہ وہ اس کی عادت بن جائے اس معنی کے اعتبار سے زکوٰۃ پاک کرنے والی ہے یعنی مال والے کو ہلاک کرنے والے بخل سے پاک کر دیتی ہے اور پاکیزگی اسی انداز سے سے ہوگی جس قدر وہ خرچ کرے گا اور زکوٰۃ دیتے وقت جس قدر خوش ہوگا۔

تیسرا معنی نعمت کا شکر ادا کرنا ہے کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان پر اس کی جان اور مال کے اعتبار سے انعام فرمایا تو بدنی عبادت نعمت بدن کا شکر ہے اور مالی عبادت نعمت مال پر شکر ادا کرنا ہے وہ شخص کتنا گھٹیا ہے کہ جو دیکھتا ہے کہ فقیر کو رزق کی تنگی ہے اور وہ اس کا محتاج ہے پھر وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے پر آمادہ نہیں ہوتا کہ اس نے اسے سوال سے بے نیاز کر دیا۔ اور مال کے چالیسویں یا دسویں کے لیے دوسروں کو اس کا محتاج کیا۔

دوسری ذمہ داری۔ ادائیگی کے وقت سے متعلق ہے تو دین دار لوگوں کا طریقہ یہ ہے کہ وہ وجوب کے وقت سے پہلے ادا کریں کیونکہ یہ حکم خداوندی کو پورا کرنے میں رغبت کا اظہار ہے کہ وہ تقاریر کے دلوں کو خوش کر رہا ہے اور یہ کہ

(۱) کنز العمال جلد ۱۶ ص ۲۵ حدیث ۸۶۶ ۲۳

(۲) قرآن مجید، سورۃ تغابن آیت ۱۶

رہا ہے کہ رکاوٹوں سے محفوظ ہوتا ہے کہ کہیں وہ نیکیوں سے روک نہ دیں اور جاتا ہے کہ تاخیر میں نقصانات ہیں اور وقت
 و جوب سے موخر کرنے کے باعث گناہ میں مبتلا ہو جائے گا۔ بعض اوقات اندر سے نیکی کی آواز آتی ہے تو اسے غنیمت سمجھنا
 چاہیے کیونکہ یہ فرشتے کی طرف سے اقبال ہوتا ہے اور بندے کا دل اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے اور وہ بہت جلد بدل
 جاتا ہے جب کہ شیطان محتاجی سے ڈرانا اور بے حیائی و منکرات کا حکم دیتا ہے اور یہ فرشتے کی طرف سے اقبال کے
 بعد ہوتا ہے لہذا فرصت کو غنیمت سمجھے اگر زکوٰۃ اکٹھی دینا چاہتا ہو تو اس کے لیے ایک مہینہ مقرر کر دے اور کوشش
 کرے کہ وہ سب سے اچھا وقت ہو تاکہ یہ قربت کے اصالے اور زکوٰۃ کے پڑھنے کا سبب بنے اور یہ محرم جیسا مہینہ ہے
 کیوں کہ یہ سال کا پہلا مہینہ ہے اور عزت والے مہینوں میں سے ہے یا رمضان المبارک کا مہینہ مقرر کرے کیونکہ نبی اکرم
 صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق میں سب سے زیادہ سخاوت فرماتے تھے اور رمضان شریف میں انہی کی طرح ہوتے اور اس میں
 کوئی چیز باقی نہیں چھوڑے تھے (۱) رمضان المبارک کو لیلۃ القدر کی فضیلت بھی حاصل ہے اور اسی میں قرآن پاک نازل ہوا۔
 حضرت عباد فرماتے کہ "رمضان" نہ کہو کیوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے بلکہ "ماہ رمضان" کہو۔ ذوالحجہ
 بھی مشہور مہینہ ہے اور اس کی فضیلت زیادہ ہے کیونکہ یہ بھی عزت والا مہینہ ہے اور اس میں حج اکبر ہوتا (۲) اور اس
 میں (ایام معلومات) معلوم دن ہیں اور وہ پہلے دس دن میں اور ایام معدودات (گنے ہوئے دن) ہیں اور یہ ایام تشریفی
 ہیں ماہ رمضان المبارک کے بہترین دن، آخری عشرہ ہے اور ذوالحجہ کے افضل دن، پہلے دس دن ہیں۔

تیسری ذمہ داری، پوشیدہ طور پر دنیا کیونکر یہ ریاکاری اور ستانے سے زیادہ بعید ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ
 وسلم نے فرمایا۔

بہترین صدقہ کم ماہر انسان کا محنت مشقت کر کے کسی
 فقیر کو پوشیدہ طور پر دینا ہے۔

أَفْضَلُ الصَّدَقَاتِ جَهْدُ الْمُقْتَلِ إِلَى الْفَقِيرِ
 سِئْرًا - (۳)

تین چیزیں نیکی کے خزانوں سے ہیں۔ ان میں سے ایک
 پوشیدہ طور پر صدقہ دینا ہے۔

أَوْ بَعْضُ عُلَمَاءِ كَرَامٍ نَسِيَ فَرَمَايَهُ
 ثَلَاثٌ مِنْ كُنُوزٍ لَيْسَ مِنْهَا إِخْفَاءُ
 الصَّدَقَاتِ - (۴)

(۱) صحیح بخاری جلد اول ص ۵۰۳ باب المناقب

(۲) عمر سے کے مقابلے میں حج کو حج اکبر کہا جاتا یعنی عمرہ حج اصغر اور حج، حج اکبر سے ۱۲ ہزاروی

(۳) سنن ابی داؤد جلد اول ص ۲۰۲ کتاب الصلوٰۃ

(۴) کنز العمال جلد ۱۵ ص ۱۱۲ حدیث ۴۲۲۲

یہ مسند حدیث کے طور پر بھی مروی ہے۔
 اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
 اِنَّ الْعَبْدَ لَيَعْمَلُ عَمَلًا فِي السِّرِّ فَيَكْتَبُ
 اللهُ لَهٗ سِرًّا وَاِنْ اَظْهَرَكَ نَقَلَ مِنْ
 السِّرِّ وَكُتِبَ فِي الْعِلَادَةِ فَإِنْ تَحَدَّثَ
 بِهٖ نَقَلَ مِنَ السِّرِّ وَالْعِلَادَةِ وَكُتِبَ
 رِبَاءً۔ (۱)

اور مشہور حدیث میں ہے :-

سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللهُ يَوْمَ لَا ظِلَّ اِلَّا ظِلُّهُ
 اَحَدُهُمْ رَجُلٌ تَصَدَّقَ بِسَدَقَةٍ فَلَمْ
 تَسْأَلْهُ شَيْئًا لِمَا اَعْطَتْ كَيْمِيَّةً۔ (۲)

اور ایک دوسری حدیث شریفی میں ہے :

صَدَقَهُ السِّرُّ تَطْفِئُ غَضَبَ
 الرَّبِّ (۳)

اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا :-

وَاِنْ تُخْفُوها وَتُؤْتُوها الْفُقَرَاءَ فَهِيَ
 خَيْرٌ لَّكُمْ۔ (۴)

بے شک بندہ کوئی عمل پوشیدہ طور پر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ
 اس کے لیے پوشیدہ طریقے پر ثواب لکھتا ہے اور اگر
 اسے ظاہر کرے تو وہ پوشیدگی سے ظاہر کی طرف منتقل
 ہو جاتا ہے اور اللہ سے بیان کرے تو پوشیدگی اور ظاہر
 دونوں سے منتقل ہو جاتا ہے اور یا کاری لکھی جاتی ہے۔

سات قسم کے آدمی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ اس دن سایہ
 عطا فرمائے گا جس دن اس کے سائے کے علاوہ کوئی
 سایہ نہ ہوگا۔ ان میں سے ایک وہ شخص ہے جو صدقہ کرتا ہے
 تو یا نہیں ہاتھ کو پتہ نہیں ہوتا کہ دائیں ہاتھ سے کیا دیا ہے۔

پوشیدہ صدقہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو بجھا دیتا
 ہے۔

اور اگر تم صدقہ چھپا کر فقراء کو دو تو وہ تمہارے لیے
 بہتر ہے۔

پوشیدہ صدقہ کا فائدہ یہ ہے کہ دکھاوے اور سامنے کی مصیبتوں سے چھٹکارا مل جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
 نے فرمایا:

- (۱) مجمع بخاری جلد اول ص ۱۹۱ کتاب الزکوٰۃ
 (۲) مجمع الاوائل جلد ۳ ص ۱۱۵ باب صدقۃ السر
 (۳) قرآن مجید سورۃ بقرہ آیت ۲۶۱

وَيَقْبَلُ اللَّهُ مِنْ مُسْمِعٍ وَلَا مُرَاعٍ وَلَا
مَنَانٍ رَا

اللہ تعالیٰ (دوسروں کو) سنانے والے، دکھانے
والے اور احسان جملانے والے سے قبول نہیں کرتا۔
جو آدمی اپنے صدقہ کا تذکرہ کرتا ہے وہ سنانا چاہتا ہے اور لوگوں کے اجتماع میں صدقہ دینے والا ریا کاری کا تلافی
ہے البتہ پوشیدہ طور پر دنیا اور خاموشی اختیار کرنا باعث نجات ہے۔
ایک جماعت نے پوشیدگی کی فضیلت میں مبالغہ کیا ہے حتیٰ کہ انہوں نے کوشش کی کہ صدقہ لینے والا دینے والے
کو پہچان نہ سکے۔

ان میں سے بعض حضرات نابینا آدمی کے ہاتھ میں دیتے اور فقیر کے راستے میں ڈال دیتے اور وہاں دکھ دیتے جہاں
وہ بچھا ہوا وہ مال کو دیکھ لیتا لیکن دینے والا نظر نہ آتا۔ اور بعض حضرات سوکے ہوئے فقیر کے کپڑے میں باندھ دیتے
اور کچھ حضرات دوسروں کے ذریعے فقیر تک پہنچا دیتے کہ وہ دینے والے کو نہ جانتا اور وہ اس وکیل سے کہہ دیتا کہ اس
کے بارے میں نہ بتائے اور وہ اس کو پوشیدہ رکھتا۔ یہ تمام طریقے اس لئے استعمال کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے غضب
کی آگ کو بجھا دیں نیز ریا کاری اور سنانے سے بچ جائیں اور اگر ایک شخص کو پہنچانے بغیر دنیا ممکن نہ ہو تو وکیل کو دے
تا کہ وہ اس کے حوالے کر دے اور یہ مسکین کو نہ پہچان سکے کیونکہ مسکین کے پہچان لینے میں ریا کاری بھی ہوگی اور
احسان بھی۔ اور وکیل کی پہچان سے صرف ریا کاری ہوگی۔ اور جب شہرت مقصود ہو تو عمل ضائع ہو جاتا ہے کیوں کہ
زکوٰۃ نخل کو زائل کرنے اور مال کی محبت کو کمزور کرنے کا سبب ہے اور محبت مال کی نسبت محبت جاہ و مرتبہ نفس پر
زیادہ غالب آتی ہے۔ اور ان میں سے ہر ایک آخرت میں ہلاک کرنے والی ہے لیکن نخل قبر میں کاٹنے والے پھمو کی شکل
میں آتا ہے اور ریا کاری قبر میں گنجنے سانپ کی مثل بن کر آتی ہے اور انسان کو حکم ہے کہ وہ ان دونوں کی اذیت کو دور
کرنے یا کم کرنے کے لیے ان کو کمزور کرے یا قتل کر دے۔ اور جب وہ دکھاوے اور سنانے کا قصد کرے گا
تو گویا وہ پھمو کے بعض اعضاء کو سانپ کی غذا بنا دے گا اس طرح پھمو جس قدر کمزور ہوگا سانپ کی قوت زیادہ ہوگی اور
اگر معاملے کو جوڑوں کاٹوں چھوڑ دے تو اس پر کام آسان ہوگا۔ ان صفات کے تقاضے کے مطابق کام کرے تو انہیں
قوت حاصل ہوتی ہے اور ان کے تقاضے کے خلاف کرے تو یہ کمزور ہوتی ہیں تو نخل کو چاٹنے والے امور کی مخالفت
اور ریا کاری کے داعی امور کو مان لینے کا کیا فائدہ ہے اس طرح ادنیٰ کمزور ہو جاتا ہے اور جو زیادہ قوی ہے وہ مزید
مضبوط ہوتا ہے ان معانی کے اسرار، مہلکات کے بیان میں آئیں گے۔

جو تعمی ذمہ داری۔ جہاں لوگوں کو ترغیب دینے کے لیے علامیہ صدقہ دینا مناسب خیال کرے وہ ظاہری طور پر سے

اور اپنے باطن کو ریاکاری کے طریقے سے اس طرح بچائے جو طریقہ ہم ریا کے بیان میں ریا کے علاج کے سلسلے میں ذکر کریں گے۔

اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

ان تَبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ (۱)

اگر تم علانیہ صدقہ دو تو یہ کیا ہی اچھا ہے۔

اور یہ اس جگہ سے جہاں حال علانیہ دینے کا تقاضا کرے یا تو دوسروں کو اس راستے پر لانے کے لیے یا اس لیے کہ مانگنے والے نے لوگوں کی موجودگی میں مانگا۔ لہذا علانیہ دینے کی وجہ سے ریا کے خوف کے باعث ترک صدقہ مناسب نہیں بلکہ صدقہ دے کر اپنے باطن کو حتی الامکان ریاکاری سے بچائے یہ اس لیے کہ علانیہ دینے میں احسان اور ریاکاری کے علاوہ ایک تیسری بات ممنوع ہے اور وہ فقیر کا پردہ کھولنا ہے کیونکہ بعض اوقات فقیر کی صورت میں دیکھا جانا اس کے لیے اذیت کا باعث ہوتا ہے تو جس نے سوال کیا اس نے اپنا پردہ خود ہی کھول دیا لیکن علانیہ دینے میں یہ تیسری خرابی ممنوع نہ رہے گی۔ جس طرح ایک شخص پوشیدہ طور پر گناہ کرتا ہے تو اسے ظاہر کرنا ممنوع ہے لیکن اس کی ٹوہ لگانا اور اس کے ذکر کی عادت بنا لینا بھی منع ہے۔ لیکن جو آدمی علانیہ فسق کا مرتکب ہوتا ہے تو اس پر حد قائم کرنا ظاہر کرنا ہی تو ہے۔ لیکن اس کا سبب وہ خود ہے اسی سلسلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے آپ نے فرمایا:

مَنْ أَلْفَى جَلْبَابَ الْحَيَاءِ فَلَا غَيْبَةَ لَهُ - (۲)

جو آدمی جیا کی چادر کو اتار ڈالے اس کی غیبت نہیں ہوتی۔

اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

وَالْفُقُورُ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً (۳)

اور انہوں نے پوشیدہ اور ظاہر خرچ کیا۔

تو علانیہ دنیا بھی مستحب ہے کیوں کہ اس میں تزیین کا فائدہ ہے تو انسان کو وقت نظر سے اس فائدے کے وزن کا اس ممنوع سے تقابل کرنا چاہیے جو اس سلسلے میں وارد ہے کیونکہ یہ بات حالات اور شخصیات کے حوالے سے مختلف ہوتی رہتی ہے بعض حالات میں علانیہ دنیا بعض لوگوں کے لیے افضل ہوتا ہے اور جو شخص فوائد اور خرابیوں کو خواہش کی نگاہ سے ہٹ کر دیکھتا ہے اس پر اس کی حالت کے لائق اور اولیٰ بات نبی ماننے آجاتی ہے۔

(۱) قرآن مجید، سورہ بقرہ آیت ۲۷۱

(۲) السنن الکبریٰ للبیہقی جلد ۱۰ ص ۲۱۰ کتاب الشہادات

(۳) قرآن مجید، سورہ فاطر آیت ۲۸

پانچویں ذمہ داری :- احسان جتا کر اور اذیت پہنچا کر اپنے صدقہ کو فاسد نہ کرے۔

ارشاد خداوندی ہے:
 وَرَوَّابُ تَبَطَّلُوا صَدَقَاتِكُمْ يَا لَيْمَنَ وَالْوَدَى -
 اپنے صدقات کو احسان جتا کر اور اذیت دے کر
 باطل نہ کرو۔ (۱)

احسان اور اذیت کی حقیقت میں اختلاف ہے کہا گیا کہ احسان جتانے سے مراد اس کا ذکر کرنا ہے اور اسے ظاہر کرنا اذیت پہنچانا ہے۔

حضرت سفیان فرماتے ہیں۔ جو آدمی احسان جتا ہے اس کا صدقہ فاسد ہو جاتا ہے پوچھا گیا احسان جتانے کی کیا صورت ہے؟ فرمایا اسے ذکر کرنا اور بیان کرنا اور بھی کہا گیا ہے کہ عطیہ دے کر خدمت لینا بھی احسان جتانے ہے اور اسے محتاجی کی عار دلانا اذیت پہنچانا ہے بعض حضرات نے فرمایا کہ اپنے عطیہ کی وجہ سے اس پر تکبر کرے تو بہ احسان جتانے ہے اور مانگنے پر چھڑکنا اور توبیح کرنا اذیت پہنچانا ہے۔

اللہ تعالیٰ احسان جتانے والے کا صدقہ قبول نہیں کرتا۔
 لَوْ يَقْبَلُ اللَّهُ صَدَقَةَ مَنَّانٍ (۲)

اور میرے نزدیک احسان جتانے کی ایک اصل اور جڑ ہے اور وہ دل کی احوال اور صفات سے متعلق ہے پھر اس سے ظاہری حالات زبان اور اعضاء پر متفرغ ہوتے ہیں تو اس کی اصل یہ ہے کہ وہ سمجھے ہیں نے اس پر احسان و انعام کیا ہے حالانکہ حق توبہ ہے کہ فقیر کا احسان مند ہو کہ اس نے اللہ تعالیٰ کا حق قبول کیا جو اس کے لیے ظہارت اور جہنم سے نجات کا باعث ہے اگر وہ قبول نہ کرتا تو یہ اس کی وجہ سے گروی رہتا تو حقیقت یہ ہے کہ وہ فقیر کا احسان ماننے کے اس نے حق خداوندی قبول کرنے کے لیے اپنی ہتھیلی کو اللہ تعالیٰ کا نائب بنایا۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :-

بے شک صدقہ مانگنے والے کے ہاتھ میں پہنچنے سے پہلے
 اِنَّ الصَّدَقَةَ تَقَعُ بِيَدِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ قَبْلَ

اِنَّ تَقَعُ فِي يَدِ السَّائِلِ - (۳)

تو اسے یقین کرنا چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا حق اس کے سپرد کر رہا ہے اور فقیر اللہ تعالیٰ سے اپنا رزق وصول کر رہا ہے کیوں کہ اب وہ اس کے پاس پہنچ چکا ہے اگر اس شخص پر کسی کا قرض ہو اور قرض خواہ کہہ دے کہ یہ رقم اس قرض خواہ کے غلام یا خادم کو دے جو اس (قرض خواہ) کے زیر کفالت ہے تو اب قرض ادا کرنے والے کا یہ تصور کرنا کہ جن لوگوں کو اس

(۱) قرآن مجید، سورہ بقرہ ۲۶۴

(۲) کنز العمال جلد ۱۶ ص ۲۲ ص ۲۳۸۱۲ (۳)

تے پر رقم دی ہے ان پر اس نے احسان کیا ہے یہ بوقوفی اور جہالت ہے کیوں کہ احسان کرنے والا وہ ہے جو اس کے رزق کا قبیل ہے اس نے سو وہ چیز ادا کی ہے جو اپنی پسندیدہ چیز خریدنے کی وجہ اس پر لازم ہوتی تھی تو وہ اپنے ذاتی حق میں کوشش کر رہا ہے دوسروں پر اس کا کیا احسان ہے۔

اور جب وہ ان تین معانی کو سمجھ لے جو ہم نے وجوبِ زکوٰۃ کو سمجھنے کے سلسلے میں ذکر کئے ہیں یا ایک ہی کو سمجھ لے تو وہ صرف اپنی ذات پر احسان خیال کرے گا یعنی مال کو اللہ تعالیٰ کی محبت میں خرچ کر رہا ہے یا اپنے آپ کو بخل کی برائی سے پاک کر رہا ہے یا مزید حاصل کرنے کے لیے مالی نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے بہر حال جو بھی صورت ہو وہ اس کو فقیر پر احسان نہیں قرار دے سکتا کیوں کہ یہ اس کا اور فقیر کا معاملہ نہیں ہے یعنی اوقات یہ جہالت یوں ظاہر ہوتی ہے کہ وہ اسے اسی پر احسان قرار دیتا ہے تو اس سے عمل ظاہر ہوتا ہے جو احسان بتانے کے معنی میں ذکر کیا گیا یعنی وہ اسے بیان کرتا ہے اور اس کا اظہار کرتا ہے اور اس سے بدلہ طلب کرتا ہے کہ وہ اس کا شکر یہ ادا کرے اس سے دعا، خدمت، عزت افزائی، تعظیم، اس کے حقوق کی ادائیگی، مجالس میں مقدم کرنا ہر بات میں اس کی پیروی کرنا وغیرہ امور کی خواہش رکھتا ہے اور یہ تمام باتیں احسان بتانے کا نتیجہ ہیں۔ اور احسان بتانے کا باطنی معنی وہ ہے۔

جہاں تک اذیت پہنچانے کا تعلق ہے تو ظاہری طور پر اس کا مطلب جھڑکانا، سخت کلام کرنا، تڑپ رونی سے پیش آنا اسے ظاہر کر کے پردہ فاش کرنا ہے اور اس فقیر کو حقیر سمجھنے کے طریقے اختیار کرنا ہے باطنی اذیت کا مرکز دو باتیں ہیں ایک مال سے ہاتھ اٹھالینا اور اسے نفس پر گراں سمجھنا کیوں کہ یہ بات مخلوق کے لیے یقیناً تنگی کا باعث ہوتی ہے۔ دوسرا اپنے آپ کو فقیر سے اچھا سمجھنا اور یہ کہ فقیر اپنی حاجت کے سبب اس سے خیس ہے اور ان دونوں باتوں کی بنیاد جہالت ہے کسی کو مال دینے کے عمل کو ناپ نہ کرنا تو بوقوفی ہے کیوں کہ جو ایک ہزار کے برابر چیز پر ایک درہم خرچ کرنے کو ناپ نہ کرتا ہے وہ بہت زیادہ بوقوف ہے اور یہ بات معلوم ہے کہ زکوٰۃ دینے والا، اپنا مال اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی اور دارِ آخرت میں ثواب حاصل کرنے کے لیے خرچ کرتا ہے اور یہ اس مال سے بہتر ہے جسے وہ اپنے نفس کو بخل کی رزالت سے پاک کرنے یا طلبِ زائد کے لیے شکر کرنے کی خاطر خرچ کرتا ہے یا کرے گا۔ اور یہ بات کیسے فرض کی جائے جب کہ ناپ نہ کرنے کی کوئی وجہ نہیں۔

اور دوسری بات بھی جہالت ہے کیوں کہ اگر وہ غنا کے مقابلے میں فقر کی فضیلت کو جانتا اور اسے معلوم ہوتا کہ مالدار لوگوں کے لیے کتنا خطرہ ہے تو فقیر کو حقیر نہ سمجھتا بلکہ وہ اس کے ذریعے برکت حاصل کرتا اور اس کے ذریعے پر پہنچنے کی تمنا کرتا۔ کیوں کہ نیک مالدار لوگ فقرا سے پانچ سو سال بعد جنت میں جائیں گے اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

هُمُ الْاَوْخَسُونَ وَرَبُّ الْكَعْبَةِ قَالَ رَبُّ كَعْبَةٍ قَسَمَ! وَهُوَ زَيَادَةُ نَقْصَانِ اِطْمَانِ وَالسَّلَامُ!

ابُو ذَرٍّ مَعَ هُمْ ؛ قَالَ هُمَا زَكَاوُنٌ
 اَمْوَالٌ رَا
 حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ!
 کون آپ نے فرمایا جن کے پاس مال زیادہ ہے اور
 وہ راہ حق میں خرچ نہیں کرتے

پھر یہ شخص کچھ طرح فقیر کو حقیر خیال کرتا ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اسے اس کے لئے منڈی بنایا کیوں کہ یہ اپنی محنت سے کٹانا اور مال میں اضافہ کرتا ہے اور حاجت کی مقدار مال کی حفاظت کرتا ہے اور اس پر لازم کیا گیا کہ وہ فقیر کی ضرورت کے مطابق اسے دے اور جو زیادہ ہے اور اس کے لئے نقصان دہ ہے اس کو روک لے گویا فقیر کے رزق کے سلسلے میں مال دار اس کا خادم ہے پھر یہ لوگوں کے حقوق اپنے ذمہ لیتے، مشقت برداشت کرنے اور زوائد کی حفاظت کرنے میں وہ فقیر اس سے جدا ہے یہاں تک کہ یہ مر جاتا ہے تو اس کا مال دشمن کھاتے ہیں تو اس صورت میں جب کراہت خوشی اور سرور میں بدل جاتی ہے کہ اب وہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے واجب کی ادائیگی کرتا ہے اور اسے فقیر کے قبضہ میں دیتا ہے حتیٰ کہ وہ فقیر اسے قبول کرے اس شخص کو ذمہ داری سے عہدہ برا کرتا ہے تو اب ازیت پہنچتا جھڑکنا اور ترش روی وغیرہ کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور یہ باتیں خوشی، تعریف اور احسان قبول کرنے میں بدل جاتی ہیں تو احسان جتانے اور ازیت پہنچانے کا مشاویہ ہے۔

سوال :-

اگر تم ہو کہ اپنے آپ کو محسن خیال کرنا ایک باریک بات ہے تو کیا کوئی ایسی علامت ہے جس کے ساتھ دل کا امتحان ہو اور معلوم ہو سکے کہ وہ اپنے آپ کو احسان جتانے والا خیال نہیں کرتا۔

جواب :-

تم جان لو کہ اس کی ایک باریک لیکن واضح علامت ہے وہ کہ فرض کر لے اگر فقیر اس کا کوئی نقصان کر دے یا اس کے کسی دشمن کی مدد کرے تو کیا اس کی نفرت اور اس سے دوری جواب پیدا ہوئی کیا زکوٰۃ دینے سے پہلے کی نفرت سے یہ زیادہ ہے؟ اگر زیادہ ہے تو اس کا صدقہ احسان جتانے کے ثابثہ سے خالی نہیں کیوں کہ اسے اب اس بات کی توقع ہے جو صدقہ دینے سے پہلے نہ تھی۔

علاج :-

اگر تم ہو کہ یہ بھی ایک باریک بات ہے اور کسی شخص کا دل اس سے خالی نہیں ہو سکتا تو اس کا علاج کیا ہے؟
 تو جان لو کہ اس کا ایک علاج باطنی ہے اور ایک ظاہری، باطنی علاج ان حقائق کی معرفت حاصل کرنا ہے جو ہم نے

و جوہ کو سمجھنے کے سلسلے میں ذکر کئے ہیں۔ اور فقیر ہی اس پر احسان کرتا ہے کیونکہ وہ زکوٰۃ قبول کر کے اس کے مال کی طہارت کا ذریعہ بنتا ہے۔

ظاہری علاج یہ ہے کہ وہ ایسے اعمال کرے جو ممنون آدمی کرتا ہے کیوں کہ انسان کے ظاہری اخلاق و اعمال کا دل پر رنگ چڑھتا ہے جیسے کتاب کے نصف آخر میں ذکر ہوگا یہی وجہ ہے کہ بعض حضرات فقیر کے سامنے صدقہ رکھ کر اس کے سامنے کھڑے ہو جاتے اور اس سے قبولیت کی درخواست کرتے حتیٰ کہ وہ مانگنے والوں کی شکل میں ہو جاتے اور اس کے باوجود انہیں مرو کرنے کا خوف رہتا اور بعض بزرگ تو اپنی ہتھیلی آگے پھیلا دیتے تاکہ فقیران کی ہتھیلی سے پکڑ لے اور فقیر کا ہاتھ بلند رہے۔

ام المؤمنین حضرت عائشہ اور ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہما جب فقیر کی طرف خیرات بھیجیں تو لے جانے والے کو حکم دیتیں کہ اس کے دعا پتہ کلمات کو یاد رکھنا پھر اس جیسے الفاظ کے ساتھ دعا کا جواب دیتیں اور فرماتی تھیں کہ دعا کے بدلے دعا اس لیے دی ہے کہ ہمارا صدقہ بچا رہے۔ اور وہ لوگ دعا کی توقع بھی نہیں رکھتے تھے کیونکہ یہ بدلے کے مشابہ ہے۔ اور وہ دعا کے بدلے میں اسی طرح کی دعا دیتے تھے۔ حضرت عمر فاروق اور ان کے صاحبزادے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہما نے اسی طرح کیا اور دل والے لوگ اسی طرح اپنے دلوں کا علاج کرتے تھے اور ظاہری طور پر اس کا علاج صرف یہی اعمال ہیں جو عاجزی تواضع اور احسان قبول کرنے پر دلالت کرتے ہیں اور باطنی اعتبار سے وہ معارف ہیں جن کا ہم نے ذکر کیا۔ یہ عمل کے اعتبار سے ہے اور وہ علم کے حوالے سے اور دل کا علاج علم و عمل کے مرکب سے ہوتا ہے اور زکوٰۃ کی بیشتر اٹھ گار کے خشوع و خضوع کی طرح ہیں اور یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد گرامی سے ثابت ہے آپ نے فرمایا۔

لَيْسَ يَلْمُرُ عَمَلٌ مِنْ صَلَاتِهِ إِلَّا مَا عَدَلَ
مِنْهَا (۱)

انسان کے لیے اس کی نماز سے وہی کچھ ہے جسے وہ سمجھ کر ادا کرتا ہے۔

اور یہ آپ کے اس ارشاد گرامی کی طرح ہے

لَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ صَدَقَةً مَتَانٍ (۲)

اور جسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے۔

لَا تُبْطَلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى (۳)

اپنے صدقات کو احسان جتا کر اور تکلیف پہنچا کر باطل نہ کرو۔

(۱)

(۳) قرآن مجید، سورہ بقرہ آیت ۲۱۴۔

(۲) کنز العمال جلد ۱۶ ص ۳۲ حدیث ۳۱۲

البتہ فقہ کا فتویٰ کہ زکوٰۃ اپنے مقام پر پہنچ گئی، یہ شخص اس سے ہمدرد برآ ہو گیا، اس میں یہ شرط نہیں اور یہ ایک الگ بات ہے اور ہم نے نماز کے بیان میں اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے۔

پھی ڈمہ داری :- اپنے عطیہ کو معمولی سمجھے کیوں کہ اسے بڑا سمجھے گا تو خود پسندی میں مبتلا ہو جائے گا اور خود پسندی ہلاک کرنے والی ہے۔ اور اس سے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔

وَيَوْمَ نَحْنُ إِذْ نُنزِّلُ الْكُتُبَ
فَلَوْ تَعْنَنَ مِنْكُمْ شَيْئًا

اور ہم نے (جنین کے دن) تمہاری مدد کی (جب تمہیں

تمہاری کثرت نے خود پسندی میں ڈال دیا پس اس نے

تمہیں فائدہ نہ دیا۔

(۱)

کہا جاتا ہے کہ جب عبادت کو کم سمجھا جائے تو وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں عظمت والی ہوتی ہے اور برائی کو بڑا سمجھا جائے تو وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں چھوٹی ہوتی ہے اور کہا گیا ہے کہ تین امور کے بغیر نیکی مکمل نہیں ہوتی۔

(۱) اسے چھوٹا سمجھنا (۲) اس میں جلدی کرنا اور (۳) اسے پوشیدہ رکھنا لیکن بڑا سمجھنا احسان اور اذیت کے ضمن

میں نہیں آتا کیوں کہ اگر کوئی شخص اپنا مال مسجد یا سرائے کی تعمیر میں خرچ کرے تو اس میں بڑا خیال کرنے کا امکان ہے لیکن

احسان اور اذیت کا امکان نہیں بلکہ خود پسندی اور بڑا سمجھنا تو تمام عبادات میں جاری ہوتا ہے اور اس کا علاج علم و

عمل ہے علم کا مطلب یہ ہے کہ دسواں یا چالیسواں حصہ کثیر میں سے قلیل ہے اور اس نے خرچ کرنے کے سبب سے

بلکے درجہ پر قناعت کی ہے جیسا کہ ہم نے فہم و خوب کے ضمن میں ذکر کیا ہے لہذا مناسب یہ ہے کہ اس پر قناعت کرنے

میں چیکارے تو پھر کیسے اس کو بڑا خیال کرتا ہے اگرچہ وہ بلند درجے تک پہنچ جائے۔

یعنی اپنا کل مال یا اکثر خرچ کر کے تو اسے سوچنا چاہیے کہ اس کے پاس مال کہاں سے آیا اور وہ کس پر خرچ کر

رہا ہے تو مال اللہ تعالیٰ کا ہے اور اس نے اس پر احسان فرمایا کہ اسے عطا فرما کر خرچ کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائی۔ تو

اللہ تعالیٰ کے حق میں اس چیز کو بڑا نہ سمجھے جو خود اللہ تعالیٰ کا حق ہے اور اس کے مقام کا تقاضا ہے کہ آخرت کی طرف

نظر کرے اور ثواب کے لیے دے اور جس کے خرچ کرنے سے کئی گنا ملے گا اسے کیوں بڑا جانتا ہے۔ اور عملی طور

پر یوں ہے کہ وہ دیتے وقت شرمندگی ظاہر کرے کہ اس نے بخل سے کام لیتے ہوئے اپنا باقی مال اللہ تعالیٰ سے روک

کر رکھا۔ تو انکساری اور جیاد کی کیفیت ہونی چاہیے جیسے کوئی شخص امانت واپس کرتے ہوئے بعض حصہ روک لیتا ہے

اور کچھ واپس کر دیتا ہے کیوں کہ مال تو پورے کا پورا اللہ تعالیٰ کا ہے اور پورا مال خرچ کرنا ہی اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے

لیکن بندے کو اس بات کا حکم اس لیے نہیں دیا کہ (طبعی) بخل کے باعث اس کے لیے یہ بات باعث مشقت ہوگی۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔
تَبَحُّفِكُمْ يَتَّخِلُوا۔

اور اگر وہ مبالغہ کرے (اور سارے مال کا مطالبہ
کرتے) تو تم بخل کرو گے۔

(۱)

ساتویں ذمہ داری :- اپنے مال میں سے جو بارہ عمدہ ہوتا اس کو زیادہ پسند ہو اور نہایت پاک ہو وہ مال ہے
کیونکہ اللہ تعالیٰ طیب ہے اور وہ طیب (پاک) کے علاوہ کو قبول نہیں کرتا اور اگر وہ شہیہ کے طور پر حاصل ہوا ہے
تو ممکن ہے وہ مطلقاً اس کی ملک نہ ہو۔ لہذا اپنے موقع پر نہ ہوگا۔ حضرت ابان، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ
سے ایک حدیث روایت کرتے ہیں۔

طُوبَى لِعَبْدٍ انْفَقَ مِنْ مَالٍ اِكْتَسَبَهُ مِنْ
غَيْرِ مَتَصِيَّةٍ۔ (۲)

اس بندے کے لیے خوشخبری ہے جو اس مال سے
خرچ کرتا ہے جسے اس نے کسی گناہ کے بغیر کمایا۔

اگر اچھے مال سے زکوٰۃ نہیں نکالے گا تو یہ بے ادبی ہے کہ اپنے لیے اپنے غلام اور گھروالوں کے لیے عمدہ مال
رکھتا ہے تو اس نے اللہ تعالیٰ پر اس کے غیر کو ترجیح دی۔ اگر وہ اپنے مہمان کے ساتھ ایسا سلوک کرے اور اپنے گھر
اسے کے سامنے سب سے معمولی کھانا رکھے تو اس کا دل دشمنی سے بھر جائے یہ تو اس صورت میں ہے جب اس کی نظر
اللہ تعالیٰ کی طرف ہو اگر اس کے پیش نظر اپنی ذات اور آخرت کا ثواب ہے تو وہ شخص عقلمند نہیں ہو غیر کو اپنے اوپر ترجیح
دیتا ہے (کیونکہ) اس کا مال تو وہی ہے جو اس نے صدقہ کیا اور وہ باقی رہے گا یا کھا کر فنا کر دیا اور جو کچھ وہ کھاتا ہے
وہ تو وقتی ضرورت کو پورا کرنا ہے اور یہ بات بھی عقل کے مطابق نہیں کہ آدمی فوری ضرورت پر نظر کرے اور جمع کرنا
چھوڑ دے۔

اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا انْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ
مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ
الْأَرْضِ وَلَا يَتَمَنَّوْا الْخَيْثَ مِنْهُ تَتَفَقَّحُونَ
وَلَسْتُمْ بِالْحَدِيثِ إِلَّا أَنْ تُعْمِضُوا
فِيهِ (۳)

اے ایمان والو! ان پاکیزہ چیزوں میں سے خرچ کرو
جنہیں تم نے کمایا اور جو کچھ ہم نے تمہارے لیے زمین
سے نکالا، اس میں سے ناپاک کا ارادہ نہ کرو کہ تم اسے
خرچ کرو حالانکہ تم خود اسے نہیں لیتے البتہ یہ کہ اس میں
چشم پوشی کرو۔

(۱) قرآن مجید، سورہ محمد آیت ۲۷

(۲) مجمع الزوائد جلد: ۱ ص ۲۹ باب جامع فی المواعظ۔ (۳) قرآن مجید سورہ بقرہ آیت ۲۶۷

یعنی تم ناپند کرتے ہوئے اور حیا کرتے ہوئے لے لیتے ہو۔ اور چشم پوشی کا یہی مطلب ہے تو اپنے رب کے لیے ایسی بات کو ترجیح نہ دو حدیث شریف میں ہے۔

سَبَقَ دَرَّهَمٌ مِّائَةَ أَلْفٍ دِرْهَمٍ (۱)

ایک درہم، ایک ہزار درہموں سے سبقت لے گیا۔ اس کی صورت یہ ہے کہ انسان اپنے حلال اور عمدہ مال میں سے خرچ کرے اور یہ اس کی خوشی اور رضامندی سے ادا کرتا ہے۔ اور بعض اوقات ایک لاکھ درہم خرچ کرتا ہے لیکن یہ اس مال سے ہوتا ہے جس کو وہ خریدتا نہیں کرتا تو یہ اس بات پر ولایت ہے کہ وہ جس چیز کو پسند کرتا ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات کو ترجیح نہیں دیتا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی مذمت فرمائی جو ناپسندیدہ مال اللہ تعالیٰ کے لیے منتخب کرتے ہیں۔

ارشاد خداوندی ہے:

اور وہ لوگ جس مال کو خریدتا نہیں کرتے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے مقرر کرتے ہیں اور ان کی زبانوں سے جھوٹ نکلتا ہے کہ ان کے لیے بھلائی رحمت ہے ایسا ہرگز نہیں۔

وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُوا
أَلْسِنَتَهُمُ الْكَذِبَ إِنَّ لَهُمْ
عِندَ اللَّهِ حَسْبًا لَّهُمْ

(۲)

بعض فراد حضرات نے نفی "ولا" پر و نف کیا اور اس طرح ان کو جھٹلایا، پھر ابتداء کرتے ہوئے یوں پڑھا۔ انہوں نے یہ کسب کیا تو ان کے لیے جہنم ہے۔

جَرَمَ أَنْ لَهُمُ النَّارُ (۳)

جرم کا معنی کسب ہے یعنی اس عمل کی وجہ سے وہ جہنمی ہوئے اور عام قرأت لا جرم کے ساتھ ہے یعنی یقیناً ان کے لیے جہنم کی آگ ہے) آٹھویں ذمہ داری: اپنے صدقہ کے لیے ایسے لوگوں کو تلاش کرے جن کے ذریعے صدقہ کو پاکیزگی حاصل ہو جائے آٹھ مزارف کے عام لوگوں پر اکتفا نہ کرے ان کے عموم میں خاص صفات ہوتی ہیں انہذا ان صفات کا خیال رکھے اور وہ چھ ہیں۔

پہلی صفت: بر متقی لوگوں کو تلاش کرے جو دنیا سے اعراض کرتے ہوں اور انہوں نے اپنے آپ کو آخرت کی تجارت کے لیے خاص کر لیا ہو۔

(۱) مستدرک للحی کم جلد اول ص ۴۱۶ کتاب الزکوة

(۲) قرآن مجید سورہ نحل آیت ۶۲

(۳) قرآن مجید سورہ نحل آیت ۶۲

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

لَوْ تَأْكَلُ إِلَّا طَعَامَ تَقْوَىٰ وَلَا يَأْكُلُ طَعَامَكَ إِلَّا تَقْوَىٰ (۱)

تو صرف متقی آدمی کا کھانا کھا اور تیرا کھانا بھی وہی کھاتے جو متقی ہے۔

اس لیے کہ متقی آدمی اس کھانے کے ذریعے تقویٰ پر مدد حاصل کرتا ہے تو اس طرح یہ شخص اس کی مدد کر کے اس کے ساتھ عبادت میں شریک ہوتا ہے۔

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

أَطْعِمُوا طَعَامَكُمْ وَلَا تَقْبَاءَ دَاوُلُوا مَعَدْرُ فِكْم - (۲)

اپنا کھانا پرہیزگار لوگوں اور نیکی کرنے والے مومنوں کو کھلایا کرو۔

دوسری روایت میں یہ الفاظ ہیں:

أَصِيفُ بِطَعَامِكَ مَنْ تُحِبُّهُ فِي اللَّهِ تَعَالَى - (۳)

اپنے کھانے کے ساتھ اس شخص کی مہمان نوازی کرو جسے تم اللہ تعالیٰ کے لیے پسند کرتے ہو۔

اور بعض علماء کرام اپنے کھانے کے ساتھ صوفیا کرام کو دوسروں پر ترجیح دیتے تھے کہا گیا کہ اگر آپ تمام فقراء کے ساتھ عجمی طور پر نیکی کریں تو افضل ہے انہوں نے فرمایا نہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی ہمت و ارادہ کو اللہ تعالیٰ کی طرف لگا رکھا ہے اور جب ان کو فاقہ پیش آتا ہے تو اس کی توجیہ اللہ تعالیٰ سے ہٹ جاتی ہے تو اگر میں ایک شخص کی توجیہ کو اللہ تعالیٰ کی طرف مبذول کر دوں تو یہ اس سے بہتر ہے کہ میں ایسے ہزار آدمیوں کو دوں جن کا مقصد دنیا ہے حضرت جنید بغدادی کی خدمت میں یہ بات عرض کی گئی تو انہوں نے اسے عمدہ قرار دیا۔ اور فرمایا یہ شخص اللہ تعالیٰ کے اولیاء کرام میں سے ایک ولی ہے نیز فرمایا کہ میں نے ایک زمانے سے ایسا عمدہ کلام نہیں سنا پھر پتہ چلا کہ اس شخص کی حالت میں خلل آ گیا تو انہوں نے دوکان چھوڑنے کا ارادہ کیا تو حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ نے ان کے پاس مال بھیجا اور فرمایا اسے خرچ کرو اور دوکان نہ چھوڑو کیونکہ آپ جیسے لوگوں کو تجارت کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی یہ شخص ایک سبزی فروش تھے اور وہ فقراء سے اس چیز کی قیمت نہیں لیتے تھے جو کچھ وہ ان سے خریدتے۔

دوسری صفت: (جس کو زکوٰۃ دیں) وہ خاص اہل علم سے ہو کیونکہ یہ علم پر اس کی مدد ہے اور علم سب سے

(۱) مستدرک للحاکم جلد ۴ ص ۲۸ کتاب الاطعمہ

(۲)

(۳) کتاب الزهد والرفاق ص ۱۲۶ حدیث ۳۶۶۔

معزز عبادت ہے جب کہ اس کی نیت صحیح ہو حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ اپنا صدقہ اہل علم کو دیا کرتے تھے ان سے عرض کیا گیا اگر عمومی طور پر دیں تو کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا میں مقام نبوت کے بعد علماء سے بڑھ کر کسی کے مقام کو افضل نہیں سمجھتا اور جب کسی شخص کا دل کسی کام میں لگ جائے تو وہ علم کے لیے فارغ نہیں ہوگا۔ اور وہ سیکھنے کے عمل کو قبول نہیں کرے گا لہذا ان لوگوں کو علم کے لیے فارغ کر دینا افضل ہے۔

تیسری صفت:۔ (جس کو زکوٰۃ دی جا رہی ہے) وہ اپنے تقویٰ اور توحید کے علم میں سچا ہو اس کی توجیہ یہ ہے کہ جب وہ عطیہ وصول کرے تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء کرے اور اس کا شکر بجالائے اور یہ عقیدہ رکھے کہ یہ نعمت اسی ذات والا صفات کی طرف سے حاصل ہوئی ہے درمیانے واسطہ کی طرف نہ دیکھے یہ شخص اللہ تعالیٰ کا سب سے زیادہ شکر گزار بندہ ہے یعنی اس کا نظریہ یہ ہے کہ تمام نعمت اسی کی طرف سے ہے حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو جو وصیت کی ہے اس میں یہ بھی ہے کہ اپنے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کسی کو انعام دینے والا نہ سمجھنا اور دوسرے کی طرف سے ملنے والی نعمت کو اپنے اور قرض سمجھنا اور جس نے (خدا کی بجائے) غیر خدا کا شکر یہ ادا کیا گویا اس نے انعام دینے والے کو نہیں پہچانا اور اسے اس بات کا یقین نہیں کہ جو واسطہ ہوتا ہے وہ مغلوب اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے مستخر ہوتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عمل کی طرف دعوت دینے والے امور اس پر مسدط کئے اور اس کے لیے اسباب کو آسان کر دیا لہذا وہ اس صورت میں دے رہا ہے کہ وہ بارگاہ خداوندی میں مغلوب ہے اور اگر وہ اس فعل کو چھوڑنا چاہے تو ایسا نہیں کر سکتا کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں یہ بات ڈال دی ہے کہ اس عمل میں اس کی دینی و دنیوی بھلائی ہے پس جب بھی اس پر پرانگیختہ کرنے والی بات مضبوط ہوگی تو اس سے ارادہ پختہ ہوگا اور طاقت ابھرے گی۔ اور بندہ ترغیب دینے والی اس بات کی مخالفت نہیں کر سکتا جو مضبوط ہے اور اس میں کوئی تردد نہیں ہے۔

ان امور ترغیبیہ کو پیدا کرنے اور انہیں حرکت دینے والا اللہ تعالیٰ ہے وہی ان سے کمزوری اور تردد کو دور کرتا ہے اور ان امور کے تقاضے کے مطابق قدرت کو مستخر کرتا ہے، پس جس آدمی کو یقین حاصل ہو تو اس کی نظر مسبب الاسباب کی طرف ہوتی ہے اور اس قسم کے بندے کا یقین دوسروں کی طرف سے تعریف اور شکر یہ سے زیادہ مفید ہے کیونکہ وہ تو محض زبان کی حرکت ہے جس کا نفع عام طور پر کم ہوتا ہے اور اس قسم کے موجد بندے کی مدد منافع نہیں ہوتی اور وہ آدمی جو زکوٰۃ ملنے پر تعریف کرتا ہے اور بھلائی کی دعا مانگتا ہے تو نہ دینے پر وہ مذمت بھی کرے گا اور جب ایذا پہنچے گی تو بد دعا کرے گا۔ اور اس کے حالات مختلف ہیں۔

ایک روایت میں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض فقراء کے پاس صدقہ بھیجا اور قاصد سے فرمایا۔ جو الفاظ وہ شخص استعمال کرے انہیں یاد رکھنا جب اس نے صدقہ وصول کیا تو کہا اس ذات کے لیے تمام تعریفیں ہیں جو اپنے ذکر کرنے والوں کو بھلاتا نہیں اور اپنے شکر گزار کو ضائع نہیں کرتا پھر کہا اسے اللہ! تو نے فلاں (اپنے بارے میں کہا،

کو نہیں بھلایا تو اسے (یعنی مجھے) یوں بتا دے کہ وہ تجھے نہ بھلائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتائی گئی تو آپ خوش ہوئے اور فرمایا میں جانتا تھا کہ وہ یہی الفاظ کہے گا (۱)۔ تو دیکھو کہ اس نے کس طرح اپنی توجہ صرف اللہ تعالیٰ تک محدود رکھی نیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے فرمایا "توبہ" کرو اس نے کیا میں صرف اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ کرتا ہوں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف توبہ نہیں کرتا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے حق والے کے حق کو پہنچانا۔ (۲)

جب واقعہ افک کے سلسلے میں ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی برأت کا حکم نازل ہوا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا اٹھو اور سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سراندر کو بوسہ دو، انہوں نے فرمایا اللہ کی قسم میں ایسا نہیں کروں گی اور اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی حمد بھی نہیں کروں گی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے ابوبکر! انہیں چھوڑ دیجئے (۳) اور دوسری روایت میں ہے ام المومنین نے فرمایا میں صرف اللہ تعالیٰ کی حمد کروں گی۔ آپ کی اور آپ کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد نہیں کروں گی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کوئی اعتراض نہیں فرمایا حالانکہ ان تک (برأت کی) خبر سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پہنچی تھی اور چیتروں کو غیر خدا کی طرف سے دیکھنا کافروں کا طریقہ ہے۔

اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْتَعَبَتِ
قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ
وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذَا هُمْ
يَسْتَبْشِرُونَ۔ (۴)

جب صرف اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان لوگوں کے دل
گڑھنے لگتے ہیں جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور
جب اس کے سوا کسی اور کا ذکر کیا جاتا ہے تو اسی
وقت وہ خوشیاں منانے لگتے ہیں۔

اور جس شخص نے اپنے دل میں وسائل کو محض وسائل نہ سمجھا (یعنی مسبب سمجھا) تو اس کا دل شرک خفی سے پاک
نہیں تو اسے چاہیے کہ شرک کی بنیاد اور اس کے شبہوں سے پاک رکھے۔
پوچھی صفت ۱۔ (زکوٰۃ وصول کرنے والا) اپنی حاجت کو چھپانے والا ہونہ تو اس کو زیادہ پھیلے اور نہ ہی سکون

(۱) قوت القلوب جلد ۲ ص ۱۱۰ کتاب الزکوٰۃ

(۲) مسند امام احمد بن حنبل جلد ۳ ص ۴۳۸ مرویات اسود بن سریج

(۳) صحیح بخاری جلد ۲ ص ۵۹۶ کتاب المغازی

(۴) قرآن مجید سورہ ذراریت ۵۴

کرے یا وہ مروت والوں میں سے ہو جس کی نعمت چلی گئی لیکن عادت باقی رہ گئی وہ حسنِ رخولی کی چادر اوڑھتا ہے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

يَخْسِبُهُمُ الْجَاهِلُ أَعْيَانَهُمِ مِنَ التَّعَفُّفِ
تَعْرِفُهُمْ سِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ
إِلْحَافًا - (۱)

یعنی وہ مانگنے میں مبالغہ نہیں کرتے کیونکہ وہ اپنے یقین کے باعث غنی ہیں اور اپنے کی وجہ سے مغز نہیں تو ہر محلے میں اس کے دیدار لوگوں کو تلامس کیا جائے اور نیکو کار لوگوں کے اندرونی حالات کو معلوم کرنے کی کوشش کرے تو ان کو صدقہ دینے کا ثواب ان لوگوں کو دینے کی نسبت کئی گنا زیادہ ہے جو ظاہراً مانگتے ہیں۔

پانچویں صفت :- وہ شخص عیال دار ہو یا بیماری کی وجہ سے مجبور ہو یا کسی اور وجہ سے وہ کمانے سے رکا ہوا ہو اس میں اللہ تعالیٰ کے اس ارشادِ گرامی کا مفہوم پایا جاتا ہے۔

بِالْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أَحْسَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ -
یہ زکوٰۃ ان فقراء کے لیے ہے جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں روکے گئے۔ (۲)

یعنی کسی بیماری، معیشت کی تنگی یا قلبی اصلاح کی وجہ سے وہ زمین میں جانے کی طاقت نہیں رکھتے تو اس طرح یہ لوگ آخرت کے رشتے میں روکے گئے ہیں کیونکہ ان لوگوں کے پڑکٹے ہوئے ہیں اور ان کے پاؤں ٹکے ہوئے ہیں۔ انہی اسباب کی بنیاد پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اہل بیت کو بکریوں کا ایک ریوڑ دیتے جس میں دس یا زائد بکریاں ہوتی ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی شخص کو اس کے اہل و عیال کے حساب سے مال عطا فرماتے تھے (۳)

حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ”جہد البلاء“ (ابتلائے مشقت) کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا عیال کی کثرت اور مال کی قلت۔

چھٹی صفت :- جس کو زکوٰۃ دے اس کے اقارب اور رشتہ داروں میں سے ہو تو یہ صدقہ بھی ہے اور صلہ رحمی بھی۔ اور صلہ رحمی کا ثواب شمار سے باہر ہے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھے بیس درہم خرچ کرنے سے زیادہ پسند اپنے کسی بھائی پر ایک درہم خرچ کرنا ہے اور اگر میں بیس درہموں کے ذریعے اس کے ساتھ صلہ رحمی کروں تو

(۱) قرآن مجید سورہ بقرہ آیت ۲۶۳

(۲) قرآن مجید، سورہ بقرہ آیت ۲۶۳

(۳) المعجم الکبیر للطبرانی جلد ۸ ص ۲۵ حدیث ۸۰

مجھے یہ بات ایک سو درہم خرچ کرنے سے زیادہ پسند ہے ایک سو درہم خرچ کرنے کے صلہ رحمی کرنا، ایک غلام آزاد کرنے سے زیادہ پسند ہے دوست اور دینی بھائی بھی صدقات کے سلسلے میں دوسروں سے مقدم ہیں جس طرح اجنبی لوگوں کی نسبت رشتہ دار مقدم ہیں تو ان باریک باتوں کی رعایت کی جائے یہی صفات مطلوب ہیں اور ہر صفت کے تحت کئی درجے ہیں لہذا ان میں سے بلند درجہ کی طلب ہونی چاہیے پس اگر یہ تمام صفات مجموعی طور پر حاصل ہو جائیں تو یہ بہت بڑا ذخیرہ اور بہت بڑی نعمت ہے، اور جب اس سلسلے میں کوشش کرے اور صحیح نتیجے تک پہنچے تو اس کے لیے دو اجر ہوں گے۔ اگر خطا ہو جائے تو ایک اجر ہوگا ان دراجروں میں سے ایک فی الحال ملتا ہے یعنی اس کا نفس سخیل سے پاک ہو جاتا ہے اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت اور عبادت میں کوشش مضبوط ہو جاتی ہے انہی صفات اس کے دل کا تقویٰ ہے جو اسے ملاقاتِ خداوندی کا شوق دلاتی ہیں دوسرا اجر زکوٰۃ لینے والے کی دعا اور توجہ کا فائدہ حاصل ہوتا ہے بے شک نیک لوگوں کے دلوں کے لیے فی الحال اور مستقبل کی علامات ہوتی ہیں اگر صحیح نتیجہ نکلے تو دو اجر حاصل ہوں گے اور اگر غلطی ہو جائے تو پہلا فائدہ حاصل ہوگا دوسرا نہیں اسی لیے صحیح اجتہاد کرنے والے کو دو گنا ثواب میں ملتا ہے اس صورت میں بھی اور دوسرے مقامات پر بھی۔

تیسری فصل :-

زکوٰۃ وصول کرنے والا، اسباب استحقاق اور قبضہ کے وظائف

اسباب استحقاق | جان لو کہ زکوٰۃ کا مستحق وہی شخص ہوتا ہے جو آزاد ہو، مسلمان ہو، وہ ہاشمی ہو نہ مطلبی، اور ان آٹھ صفات میں سے کسی ایک سے موصوف ہو جو قرآن پاک میں مصارف زکوٰۃ کے سلسلے میں ذکر کی گئی ہیں۔

کافر کو زکوٰۃ نہ دی جائے اسی طرح غلام، ہاشمی، مطلبی کو بھی زکوٰۃ نہ دی جائے بچے اور پاگل پر خرچ کرنا جائز ہے جب کہ ان کا ولی قبضہ کرے مصارف زکوٰۃ کی آٹھ قسموں کو ہم ذکر کریں گے۔

پہلی قسم فقراء :-

فقیر وہ شخص ہے جس کے پاس نہ مال ہو نہ وہ کمانے پر قادر ہو، اگر اس کے پاس ایک دن کا خرچ اور فی الحال پینے کے پڑے ہوں تو وہ فقیر نہیں بلکہ مسکین ہے اگر اس کے پاس نصف دن کی روزی ہو تو وہ فقیر ہے اگر اس کے پاس قیص ہو لیکن نہ اس کے پاس رو مال ہو نہ موزہ اور نہ سلوار ہو، اور قیص کی اتنی قیمت نہیں جو فقراء کے حال کے مطابق ان تمام چیزوں کی قیمت کو پہنچ سکے تو وہ فقیر سے کیوں کہ فی الحال اس کے پاس وہ تمام اشیاء نہیں ہیں جن کا وہ محتاج ہے اور ان سے عاجز ہے پس فقیر میں یہ شرط رکھنا کہ اس کے پاس ستر ڈھائی پینے کے علاوہ لباس ہو، مناسب نہیں کیونکہ یہ زیادتی ہے

اور عام طور پر ایسا آدمی نایاب ہوتا ہے اگر اسے مانگنے کی عادت ہو تو اس سے وہ فقرا کے زمرہ سے خارج نہیں ہوگا اور مانگنے کو کسب قرار نہیں دیا جائے گا۔ البتہ وہ مکینے پر قادر ہو تو اس سے وہ فقیر نہیں رہے گا اور اگر کسی آلہ کے ذریعے کمانے پر قادر ہو تو وہ فقیر ہے اور اس کے لیے اور زر خرید تا جائز ہے اور اگر وہ ایسے کسب پر قادر ہو جو اس کی شان کے موافق نہیں تو بھی وہ فقیر سمجھا جائے گا اور اگر کوئی شخص فقیہ عالم ہو اور کسی کام میں مشغول ہونے سے فقہ حاصل کرنے سے اسے رکاوٹ ہوتی ہو تو وہ فقیر ہے اور اس کی قدرت معتبر نہیں ہوگی اور اگر وہ عابد ہے اور کوئی پیشہ اختیار کرنے سے عبادت کے وظائف اور معمول کے اور وہیں خلل آتا ہے تو محنت مزدوری کرے کیونکہ اس سے کما کرنا اولیٰ ہے

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

طَلَبُ الْحَدَلِ فَرِيضَةٌ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ - (۱)

اور اس سے مراد کمانے کے سلسلے میں کوشش کرنا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا شبہ کے ساتھ کمانا مانگنے سے بہتر ہے اور اگر اس کے پاس اس قدر مال ہو جو اپنے باپ یا دیگر زیر کفالت لوگوں کو کفایت ہو تو یہ کمانے سے آسان ہے پس یہ شخص فقیر نہیں ہے۔

دوسری قسم - مساکین، مسکین وہ شخص ہے کہ اس کی آمدنی سے خرچ پورا نہ ہوتا ہو تو ہو سکتا ہے وہ ہزار درہم کا مالک ہونے کے باوجود مسکین ہو، اور بعض اوقات وہ ایک کلباڑی اور رسی کا مالک ہوتا ہے لیکن مالدار کہلاتا ہے چھوٹا سا مکان جس میں وہ رہتا ہے اور وہ کپڑا جس کے ساتھ وہ حسب حال ستر ڈھانپتا ہے، اس سے مسکین کا نام سلب نہیں کرتا یعنی وہ مسکین ہی رہتا ہے (گھر کے سامان کا بھی یہی حکم ہے اس سے مراد وہ سامان ہے جس کا وہ محتاج ہو اور یہ وہ سامان ہے جو اس کی حالت کے لائق ہے، اسی طرح کتب فقہ اس کو مسکین ہونے سے خارج نہیں کرتیں اور جب وہ صرف کتب کا مالک ہو تو صدقہ فطر لازم نہیں ہوگا، اور کتابوں کا حکم، کپڑوں اور گھریلو سامان کی طرح ہے کیوں ان چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن اسے چاہیے کہ کتاب کی حاجت ختم ہونے کے سلسلے میں محتاط رہے تین مقاصد کے لیے کتاب کی ضرورت رہتی ہے، (۱) تعلیم اور استفادہ اور (۲) مطالعہ کے ذریعے ضرور حاصل کرنا۔ جہاں تک محض خوشی اور سرور کے حصول کا تعلق ہے تو اس کا اعتبار نہیں جس طرح اشعار کی کتب اور تاریخی کتابیں اور اس طرح کی دوسری کتب جو آخرت میں نفع نہیں دیتیں، اور دنیا میں بھی محض خوشی اور دلچسپی پیدا ہوتی ہے اس قسم کی کتابوں کو کفارتوں اور صدقہ کی ادائیگی کے لیے بیچا جائے اور ایسا شخص مسکین نہیں کہلا سکتا۔ جہاں تک تعلیمی حاجت کا تعلق ہے تو اگر یہ تعلیم کماٹی کے طور پر ہے جیسے ادب سکھانے والے اور مدرس وغیرہ تنخواہ پر کام کرتے ہیں تو یہ کتب اگر ہیں لہذا ان کو فطرانہ وغیرہ کے لیے نہ بیچا جائے جیسے درزی اور دوسرے

پیشوں کے لوگوں کے اوزار ہوتے ہیں اور اگر وہ فرض کفایہ کے طور پر پڑھانا ہے تو اس کی کتابیں نہ بھی جائیں اور اس سے وہ مسکین کی تعریف سے خارج بھی نہیں ہوتا کیونکہ یہ اہم حاجت ہے اور کتاب سے استفادہ کرنا یا دیکھنا جیسے طب کی کتابیں جمع کرنا تاکہ ان کے ذریعے اپنا علاج کرے یا وعظ ہوگی کتابیں کہ ان کا مطالعہ کر کے وعظ کرے پس اگر شہر میں طبیب اور واعظ ہو تو اس کو ان کتب کی ضرورت نہیں اور اگر نہ ہو تو اسے حاجت ہے پھر بعض اوقات کسی کتاب کے مطالعہ کی ضرورت ایک مدت کے بعد پڑتی ہے تو اسے مدت حاجت کو دیکھنا چاہیے زیادہ قریب بات یہ ہے کہ کہا جائے کہ سال بھر تک جس کتاب کی ضرورت نہیں پڑتی تو یہ ضرورت میں شامل نہیں جس شخص کے پاس ایک دن کے رزق سے زائد ہو تو اس پر صدقہ فطر لازم ہوتا ہے تو جب ہم نے رزق کے سلسلے میں ایک دن کا اندازہ مقرر کیا تو گھر کے سامان اور بدن کے کپڑوں کی حاجت کے سلسلے میں ایک سال کا اندازہ ہونا چاہیے گرمیوں کے کپڑے، سردیوں میں نہیں بیچے جاتے اور کتابیں، کپڑوں اور گھر پر سامان کے زیادہ مشابہہ ہیں اور بعض اوقات آدمی کے پاس ایک کتاب کے دو نسخے ہوتے ہیں تو ان میں سے ایک کی حاجت نہیں ہوتی اور اگر وہ کہے کہ ایک نسخہ زیادہ صحیح اور دوسرا زیادہ عمدہ ہے اور میں دونوں کا محتاج ہوں تو ہم کہیں گے کہ اصح پر اکتفا کرو اور احسن کو بیچ دو اور عیاشی کو ترک کر دو اور اگر ایک ہی علم سے متعلق دو نسخے ہیں جن میں سے ایک بڑی اور دوسری مختصر ہو تو اگر اس کا مقصد استفادہ ہو تو وہ بڑی کتاب پر اکتفا کرے اور اگر پڑھانے کا ارادہ ہے تو دونوں کا محتاج ہے کیونکہ ان میں سے ہر ایک میں جو فائدہ ہے وہ دوسری میں نہیں اور اس قسم کی بے شمار مثالیں ہیں اور فن حقہ میں ان کو نہیں چھیڑا گیا ہم نے اسے بیان کرنے کا ارادہ اس لیے کیا کہ اس میں عام طور پر لوگ مبتلا ہیں نیز اس بات کا لحاظ دوسری چیزوں میں بھی کریں کیونکہ ان سب صورتوں کا ذکر کرنا ممکن نہیں کیوں کہ اس قسم کی نظر گھر کے سامان میں اس کی مقدار، تعداد اور اقسام کے اعتبار سے متعدد ہوتی ہے بدن کے کپڑوں اور مکان میں اس کی وسعت اور تنگی کو دیکھا جاتا ہے اور ان امور کے لیے کوئی حدود مقرر نہیں ہیں۔ لیکن مجتہد اپنی رائے سے اجتہاد کرتا ہے اور جو مناسب سمجھتا ہے حد بندی کرتا ہے اور شبہات کے خطرے میں داخل ہوتا ہے جب کہ پرہیزگار آدمی احتیاط سے کام لیتا ہے اور شک والی بات کو چھوڑ کر غیر مشکوک کو اختیار کرتا ہے اور جو درجات درمیان میں ہیں اور دونوں طرف کے ظاہری امور کے درمیان ہیں وہ غیر واضح اور بہت زیادہ ہیں اور ان سے نجات کا طریقہ یہی ہے کہ احتیاط سے کام لیا جائے۔

تیسری قسم: زکوٰۃ وصول کرتے والے میں، یہ وہ لوگ ہیں جو محنت کر کے زکوٰۃ وصول کرتے ہیں خلیفہ اور قاضی ان میں شامل نہیں ہیں۔ ان میں نگران رچھوٹا رئیس، کاتب، وصول کرنے والا، حفاظت کرنے والا اور نقل کرنے والا شامل ہیں ان میں سے کسی کو بھی عام مزدوری سے زیادہ نہیں دینی چاہیے اور اگر اٹھویں حصے میں تمام اجرت سے کچھ بچ جائے تو دوسرے مسافروں کو دیں اور اگر ہو جائے تو دیگر ضرورتوں کے مال سے مکمل کیا جائے۔

پوتھی قسم :- وہ لوگ جن کے دلوں کو اسلام کے لیے نرم کیا جائے (مولقۃ القلوب) یہ معزز لوگ ہوتے تھے جو اسلام قبول کرتے اور قوم ان کی اطاعت کرتی تھی تو ان کو دینے کا مقصد یہ تھا کہ وہ اسلام پر برقرار رہیں اور ان جیسے دوسرے لوگوں نیز ان کی اتباع کرنے والوں کو بھی ترغیب دیں۔ (اب یہ مصرف ساقط ہے)

پانچویں قسم :- مکاتب ہیں۔ مکاتب کا حصہ اس کے سردار کو دیا جائے اور اگر مکاتب کو بھی دیا تو جائز ہے سید کو اور اپنے مکاتب کو زکوٰۃ نہ دی جائے کیوں کہ یہ اپنا غلام شمار ہوتا ہے۔

چھٹی قسم :- قرض دار۔ غلام اس شخص کو کہتے ہیں جو کسی عبادت یا کسی جائز کام کے لیے قرض لیتا ہے اور یہ فقیر ہے اور اگر گناہ کے کام کے لیے قرض لے تو جب تک توبہ نہ کرے اسے زکوٰۃ نہ دی جائے اور اگر قرض کسی امیر کے ذمہ ہو تو اس کا قرض ادا نہ کیا جائے البتہ یہ کہ اس نے کسی مصلحت یا کسی فتنے کو ختم کرنے کے لیے قرض لیا ہو۔

ساتویں :- وہ مجاہدین میں جن کا وظیفہ، وظیفہ خوروں کے رجسٹر میں نہ ہو تو انہیں ایک حصہ دیا جائے اگرچہ وہ مالدار ہوں کیونکہ یہ جہاد پر مدد کرنا ہے۔

آٹھویں قسم :- مسافر ہیں یعنی وہ شخص جو اپنے شہر سے سفر کی نیت سے نکلا اور یہ سفر گناہ کے لیے نہ ہو یا وہ زکوٰۃ دینے والے کے شہر سے گزرا تو اگر وہ فقیر ہے تو اسے زکوٰۃ دی جائے اور اگر اس کا مال دوسرے شہر میں ہے تو اتنا دیا جائے کہ وہ وہاں تک پہنچ سکے۔

اگر تم کہو کہ یہ صفات کس طرح معلوم ہوں گی تو ہم کہتے ہیں فقر اور مسکنت تو لینے والے کے قول سے معلوم ہوگی۔ اور اس پر گواہوں کا مطالبہ نہ کیا جائے۔ اور نہ قسم دی جائے بلکہ اس کی بات پر اعتماد کیا جائے جب کہ اس کا جھوٹ معلوم نہ ہو جہاد اور سفر مستقبل کا معاملہ ہے تو اس کے کہنے پر کہ وہ غازی ہے دے دیا جائے اور اگر وہ اپنے قول کو پورا نہ کرے تو واپس لے لیا جائے اور جہاں تک دوسری اقسام کے لوگوں کا تعلق ہے تو اس میں گواہوں کا ہونا ضروری ہے۔ توبہ استحقاق کی شرائط ہیں اور ایک ایک کو کتنا دینا چاہیے تو اس کا بیان عنقریب آ رہا ہے۔

یہ پانچ آداب ہیں

لینے والے کے آداب :-

پہلا آداب :- اسے یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے دوسروں پر اس کے لیے زکوٰۃ اس لیے فرض کی ہے تاکہ اس کے تفکرات ختم ہو کر صرف ایک باقی رہ جائے اللہ تعالیٰ نے بندوں پر لازم کیا کہ ان کے تمام فکر ایک فکر میں جمع ہو جائیں اور وہ اللہ تعالیٰ اور آخرت کی فکر ہے اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد گرامی کا بھی یہی مطلب ہے۔

اور میں نے جنوں اور انسان کو صرف اپنی عبادت کیلئے پیدا کیا ہے۔

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ (۱)

لیکن جب حکمت کا تقاضا ہے کہ بندوں پر خواہشات اور حاجات مسلط کی جائیں اور یہ ان کی سوچ کا بکھڑا ہے تو اس کے کرم کا تقاضا ہے کہ نعمت کا ایسا فیضان ہو جو حاجات کو کافی ہے۔ تو اس نے مال کو بہت زیادہ کیا اور بندوں کے ہاتھوں میں سے دیا تاکہ یہ مال ان کی حاجات کو پورا کرنے کا اور عبادات کے لیے فراغت کا وسیلہ بن جائے تو ان میں سے کئی لوگوں کے لیے مال کی کثرت فتنے اور آزمائش کا باعث بن گئی تو وہ خط سے میں پڑ گئے اور ان میں سے بعض کو محبوب بنایا تو انہیں دنیا سے بچا لیا جیسے کوئی شفیق شخص اپنے مریض کی حفاظت کرتا ہے یعنی ان سے زیادہ مال کو دور رکھا اور حاجت کی مقدار، مالدار لوگوں کے ذریعے ان تک پہنچائی تاکہ کمانے نیز جمع کرنے اور حفاظت کرنے کی مشقت ان پر آسان ہو اور اس کا فائدہ فقرا کو پہنچتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور موت کے بعد کی تیاری کے لیے فارغ ہو جاتے ہیں ان کو دنیا کا زیادہ مال اس عبادت سے نہیں پھیرتا اور اس تیاری سے فائدہ رکاوٹ نہیں بنتا۔ اور یہ نعمت کی انتہا سے توفیق پر لازم ہے کہ فقر کی نعمت کی قدر کو پہچانے۔ اور اس بات کو اچھی طرح جان لے کہ مجھ پر اللہ تعالیٰ کا فضل اس چیز کے مقابلے میں جو عطا فرمائی ہے اس میں زیادہ ہے جسے مجھ سے دور رکھا ہے۔ فقر کے بیان میں اس کی تحقیق آسے گی ان شاء اللہ تو وہ جو کچھ اللہ تعالیٰ سے حاصل کرتا ہے اسے عبادت پر رزق اور مدد بنائے، اور اس کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ وہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی عبادت پر قوت حاصل کرے اور اگر اس پر قادر نہ ہو تو جو کچھ اللہ تعالیٰ نے جائز قرار دیا اس پر خرچ کرے اور اگر وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر مدد حاصل کرے گا تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کرنے والا ہوگا، رحمت خداوندی سے دوری اور اس کی ناراضگی کا مستحق ہوگا۔

دوسرا ادب :- دینے والے کا شکریہ ادا کرے اس کے لیے دعا مانگے اور اس کی تعریف کرے لیکن اس شکریہ اور دعا کے ذریعے اس کو واسطہ ہونے سے نہ نکالے (یعنی اصل معطلی نہ بنائے) بلکہ اسے اللہ تعالیٰ کی نعمت کے اس تک پہنچنے کا وسیلہ اور راستے سمجھے۔ اور راستے کا بھی حق ہے کیوں کہ اللہ تعالیٰ تے اسے راستہ اور واسطہ بنایا اور یہ اللہ کی طرف سے نعمت کہنے بلنے (کے عقیدے) کے خلاف نہیں ہے کیوں کہ سب کا ردو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: **مَنْ لَمْ يَشْكُرِ النَّاسَ لَمْ يَشْكُرِ اللَّهَ (۱)** جو آدمی لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا نہیں کرتا۔

بعض مقامات پر اللہ تعالیٰ نے بندوں کے اعمال کے باعث ان کی تعریف فرمائی ہے۔
جیسے ارشاد خداوندی ہے۔

(۱) مسند امام احمد بن حنبل جلد ۲ ص ۲۵۸ مرویات ابی ہریرہ

وہ حضرت ایوب علیہ السلام) اچھا بندہ ہے بے شک
وہ ہماری طرف رجوع کرنے والا ہے۔

نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ۔

(۱)

اور اس کے علاوہ آیات میں تو زکوٰۃ وصول کرنے والا اپنی دعائیں یوں کہے۔
”اللہ تعالیٰ تمہارے دل کو نیکو کار لوگوں کے دل کے ساتھ پاک کرے نیک لوگوں کے عمل کے ساتھ تیرے
عمل کو پاک کرے اور ارواح شہداء کے ساتھ تیری روح پر رحمت نازل فرمائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
مَنْ أَسْنَدِي أَيْكُمْ مَعْرُوفًا فَكَافِيَتْهُ فِرَانٌ جو شخص تم سے نیک کرے تو اس کا اچھا بدلہ دو اگر
لَمْ تَسْتَطِيعُوا فَاذْمُوهُ حَتَّى تَعْلَمُوا اس کی طاقت نہ ہو تو اس کے لیے دعا مانگو حتیٰ کہ تم
إِنَّكُمْ قَدْ كَفَانْتُمْ۔ (۲)
جان لو کہ تم نے بدلہ دے دیا۔

مکمل شکر کا تقاضا ہے کہ اگر عطیہ میں عیب ہو تو اسے چھپائے نہ اسے حقیر جانے نہ اس کی بُرائی بیان کرے اور اگر وہ
شخص نہ دے تو اس منع پر اسے شرم نہ دلائے۔ نیز (دینے کی صورت میں) اس کے عمل کو اپنے نزدیک اور لوگوں کے سامنے
بھی بڑا قرار دے دینے والے کی ذمہ داری ہے کہ اسے (دینے کو) حقیر جانے اور لینے والے کا فرض ہے کہ اس کا احسان
مند ہو اور اسے بڑا خیال کرے ہر بندے پر لازم ہے کہ اپنے حق پر قائم رہے اور اس مسئلے میں کوئی تضاد نہیں کیوں کہ چھوٹا
اور بڑا ماننے کے اسباب مختلف ہیں پس دینے والے کے لیے چھوٹائی کے اسباب کا لحاظ نفع بخش ہے اور اس
کے خلاف نقصان دہ ہے اور لینے والے کا معاملہ اس کے الٹ ہے اور دونوں صورتوں میں نعمت کو اللہ تعالیٰ کی طرف
سے جاننے میں کوئی تناقض نہیں کیونکہ جو شخص واسطہ کو واسطہ نہیں جانتا وہ جاہل ہے اور منکر وہ ہے جو واسطہ کو اصل
سمجھتا ہے۔

تیسرا دہ۔ یہ ہے کہ جو چیزے رہا ہے اسے دیکھے اگر وہ حلال نہ ہو تو پرہیز کرے ارشاد خداوندی ہے:
وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ
مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔
اور جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے
لیے راستے بنا دیتا ہے اور اسے وہاں سے رزق عطا
کرتا ہے جہاں اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔

(۱۳)

حرام سے بچنے والا حلال کے بننے سے محروم نہیں ہوتا۔ لہذا ترکوں (سرکاری لوگوں) لشکریوں اور بادشاہوں سے

(۱) قرآن مجید، سورہ طلاق آیت ۲۔۳

(۲) منتر العمال جلد ۶ ص ۲۶۶ حدیث ۱۶۵۷۳

(۳) قرآن مجید، سورہ طلاق آیت ۲۔۳

نیز ان لوگوں سے جن کی زیادہ کمائی حرام سے ہوتی ہے، نہ لے البتہ یہ کہ معاملہ تنگ ہو جائے اور اسے جو مال دیا جا رہا ہے اس کا معین مالک معلوم نہ ہو تو حاجت کے مطابق لے سکتا ہے اس قسم کی صورت میں شرعی فتویٰ یہ ہے کہ اسے خیرات کر دے جیسا کہ حلال و حرام کے بیان میں آئے گا اور یہ اس صورت میں ہے جب حلال سے عاجز ہو جائے اور جب لے گا تو زکوٰۃ لینے والا نہیں ہوگا کیونکہ حرام مال سے دینے والے کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔

چوتھا ادب۔ جو کچھ وہ لے رہا ہے اس کی مقدار کے سلسلے میں شک اور شبہ سے بچے اور اتنی مقدار لے جو اس کے لیے جائز ہے اور اس وقت لے جب ثابت ہو جائے کہ وہ استحقاق کی صفت سے موصوف ہے اور اگر مکاتیب یا قرض کے باعث لیتا ہے تو قرض کی مقدار سے زیادہ نہ لے اور اگر عمل زکوٰۃ کی وصولی کی وجہ سے لیتا ہے تو عام اجرت سے زیادہ نہ لے اگر اسے زیادہ دیا جائے تو انکار کر دے کیوں کہ مال دینے والے کا نہیں کہ وہ اپنی طرف سے زیادہ دے اگر وہ مسافر ہے تو زاد راہ اور منزل تک سواری کے کرایہ سے زیادہ نہ لے اور اگر وغازی ہو تو اسی قدر لے جس کے لیے وہ گھوڑے، اسلحہ اور نفقے کا محتاج ہے۔

اس کا اندازہ غور و فکر سے ہوتا ہے کوئی حد مقرر نہیں۔ اسی طرح زاد سفر کا معاملہ ہے تقویٰ یہ ہے کہ شک والی بات کو چھوڑ کر شک سے پاک کی طرف جائے اگر وہ مسکین ہونے کی وجہ سے لے رہا ہے تو پہلے اپنے گھر کے سامان کپڑوں اور کتابوں کو دیکھے کہ کیا ان میں کوئی ایسی چیز ہے جو ذاتی طور پر اس کی ضرورت سے باہر ہے یا اس کی عمدگی کی ضرورت نہیں لہذا ممکن ہے کہ اسے بدل کر وہ حاصل کرے جو اسے کفایت کرے اور اس کی قیمت میں سے کچھ رقم بچ بھی جائے یہ تمام امور انسان کی سوچ سے متعلق ہیں اس کا ایک ظاہری پہلو ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ مستحق ہے اور اس کے مقابلے میں ایک دوسرا پہلو ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ مستحق نہیں ہے اور ان کے درمیان کچھ مشابہت ہیں اور جو آدمی (سرکاری) چرگاہ کے گرد چراتا ہے قریب کہ وہ (جانور) اندر چلا جائے۔ اور اس سلسلے میں زکوٰۃ لینے والے کے ظاہری قول پر اعتماد ہوگا۔

محتاج کے لیے تنگی اور وسعت کے اعتبار سے حاجات کا اندازہ لگاتے ہوئے کئی مقامات ہیں اور یہ مراتب محدود نہیں ہیں تقویٰ کا میدان تنگی کی طرف ہوتا ہے جب کہ سستی کرنے والے کا جھکاؤ تو وسیع کی طرف ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ وہ اپنے نفس کو کئی ضرورتوں کے لیے محتاج سمجھتا ہے اور یہ بات شریعت میں بری ہے۔

پھر جب حاجت ثابت ہو جائے تو بیت مال نہ لے بلکہ اس قدر لے جو اس وقت سے ایک سال گزرنے تک اسے کافی ہو نہت کی آخری حد یہی (ایک سال) ہے کیونکہ سال گزرنے کے بعد کدنی کے ذرائع بھی دوبارہ سامنے آتے ہیں نیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں کے لیے ایک سال کا رزق جمع فرمائے تھے (۱) فقیر اور مسکین کے

لیے یہ حد بندی زیادہ مناسب ہے اور اگر صرف ایک مہینے یا ایک دن کی حاجت پوری کرنے پر اکتفا کرے تو یہ تقویٰ کے زیادہ قریب ہے۔ زکوٰۃ اور صدقہ میں کس قدر لیا جائے؛ اس سلسلے میں علماء کے مختلف مذاہب ہیں۔ بعض نے کمی میں مبالغہ کیا یہاں تک ایک دن اور رات کی روزی پر اکتفا کو واجب قرار دیا اور حضرت سہل بن خنظلہ رضی اللہ عنہما کی روایت سے استدلال کیا وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مالدار کی صورت میں مانگنے سے منع فرمایا آپ سے مالدار کی (غنا)

کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا صبح اور شام کا کھانا (مالدار ہے) (۱)

دوسرے حضرات نے فرمایا غنا کی حد تک لے سکتا ہے اور وہ نصاب زکوٰۃ ہے کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ انبیاء پر ہی لازم کی ہے انہوں نے زکوٰۃ لینے والے کے بارے میں فرمایا کہ وہ اپنے لیے اور اپنے اہل و عیال میں سے ہر ایک کے لیے نصاب زکوٰۃ لے سکتا ہے کچھ دوسرے حضرات نے فرمایا کہ غنا کی حد پچاس درہم یا اتنی قیمت کا سونا ہے۔ کیوں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

مَنْ سَأَلَ وَلَدًا مَالًا يُعِينُهُ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
وَفِي وَجْهِهِ خُمُوشٌ

جو شخص مانگتا ہے حالانکہ اس کے پاس اتنا مال ہے
جو اسے غنی کر دے تو وہ قیامت کے دن اس حالت
میں آئے گا کہ اس کے چہرے پر خراشیں ہوں گی۔

(۲)

پوچھا گیا کہ غنا کیا ہے آپ نے فرمایا پچاس درہم یا ان کی قیمت کا سونا۔ کہا گیا کہ اس حدیث کا زاوی مضبوط نہیں ہے ایک قوم نے کہا چالیس درہم کیوں کہ حضرت عطاء بن یسار رضی اللہ عنہ سے ایک منقطع حدیث میں مروی ہے۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

مَنْ سَأَلَ رَكْلًا أَوْ قِيَةً فَقَدْ أَحْفَافٌ فِي

جو آدمی سوال کرے اور اس کے پاس ایک اوقیہ (چالیس
درہم) ہو تو اس نے سوال میں مبالغہ کیا۔

السُّؤَالِ (۳)

کچھ دوسرے حضرات نے توسیع میں مبالغہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اس کے لیے جائز ہے کہ وہ اتنی مقدار لے جس کے ساتھ سامان خرید کر بھر کے لیے بے نیاز ہو جائے۔ یا سامان تیار کر کے تجارت کرے اور زندگی بھر کے لیے مالدار ہو جائے کیونکہ غنا تو یہی ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اتنا دو کہ وہ لوگ غنی ہو جائیں، حتیٰ کہ ایک جماعت

(۱) سنن ابی داؤد جلد اول ص ۲۳۰ کتاب الزکوٰۃ

(۲) مستدرک للحاکم جلد اول ص ۶۰۰ کتاب الزکوٰۃ

(۳) سنن ابی داؤد جلد اول ص ۲۳۰ کتاب الزکوٰۃ

اس طرف گئی ہے کہ جو شخص محتاج ہو وہ اس قدر لے سکتا ہے کہ پہلی حالت کی طرف لوٹ جائے اگرچہ دس ہزار درہم ہوں۔
البتہ حد اعتدال سے نہیں نکلنا چاہیے۔ اور حجب اپنے باغ کی وجہ سے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کی توجہ نماز سے ہٹ
گئی تو انہوں نے فرمایا میں نے اسے صدقہ کر دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے اپنے رشتہ داروں کو دے دو یہ تمہارا
لیے بہتر ہے (۱) تو انہوں نے حضرت حسان بن ثابت اور حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہما کو دے دیا۔ تو کھجوروں کا ایک باغ
دو آدمیوں کے لیے کثیر ہے اور غنی بنانے والا ہے۔

حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک اعرابی کو ادبٹی اور اس کے ساتھ دو دھپتیا بچہ عنایت فرمایا اس سلسلے میں یہ

کچھ منقول ہے۔

جہاں تک ایک دن کے رزق کی صورت میں یا ایک اوقیہ دینے کی صورت میں قلت کا تعلق ہے تو یہ سوال کی کراہیت
اور دروازوں پر جانے کی کراہیت کے بارے میں ہے اور یہ بات ناپسندیدہ ہے اور اس کا حکم الگ ہے بلکہ یہ تجویز
کہ وہ سامان خرید کر اس سے غنی ہو جائے یہ احتمال زیادہ قریب ہے لیکن یہ بھی فضول خرچی کی طرف مائل ہے۔
اعتدال کے زیادہ قریب یہ ہے کہ ایک سال کے لیے کفایت کرے اس سے جو کچھ زیادہ ہے اس میں خطرہ ہے اور کم
میں تنگی ہے۔ ان امور میں جہاں کوئی انداز مقرر نہیں کیا جاسکتا وہاں اس طریقے پر عمل کیا جائے تو فقیہی ہے (یعنی احادیث سے
معلوم ہوا) کیونکہ مجتہد کے لیے حکم ہے کہ وہ اپنے اجتہاد کے مطابق عمل کرے۔

پھر یہ ہنرگار سے کہا جائے گا کہ تم اپنے دل سے فتویٰ لو اگرچہ لوگ تمہیں کچھ فتویٰ دیں اگرچہ لوگ تمہیں فتویٰ دیں جیسا کہ نبی
اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا (۲)

کیوں کہ گناہ دلوں کی چھین ہیں اور حجب زکوٰۃ لینے والا اپنے دل میں اس مال کی طرف سے کوئی بات محسوس کرے تو اس
کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرے اور علمائے ظاہر کے فتویٰ کو علت بنا کر رخصت تلاش نہ کرے کیونکہ ان کے فتویٰ میں
کچھ قیود ہوتی ہیں اور وہ ضرورتوں سے مطلق بھی ہوتے ہیں ان میں تنجیستے اور شبہات پائے جاتے ہیں اور شبہات سے بچنا
دین داروں کے طریقے اور آخرت کے راستے پر چلنے والوں کی عادات سے ہے۔

پانچواں ادب: وہ صاحب مال سے پوچھے کہ اس پر کتنی زکوٰۃ واجب ہے اور اگر وہ مال جو اسے دیا ہے اکٹھویں
حصے سے زیادہ ہو تو اس سے نہ لے لے یہ پابندی احناف کے ہاں نہیں ہے کیونکہ وہ اپنے شریک کے ساتھ صرف
اکٹھویں حصے کا مستحق ہے تو اکٹھویں حصے سے بھی اتنا کم کرے جو اس کے دو ساتھیوں کو مل سکے۔ اکثر لوگوں پر یہ بات

(۱) مسند امام احمد بن حنبل جلد ۳ ص ۲۶۲ مرویات حضرت انس رضی اللہ عنہ

(۲) کنز العمال جلد ۱۰ ص ۲۵۰ حدیث ۲۹۳۲۹

پوچھنا واجب ہے کیوں کہ وہ جہالت پاستی کی وجہ سے اس تقسیم کی پرواہ نہیں کرتے البتہ جب حرمت کا غالب گمان نہ ہو
تو سوال نہ کرنا جائز ہے سوال کے مواقع اور احتمال کے درجے کا بیان حلال و حرام کے ضمن میں آئے گا۔ ان شاء اللہ تعالیٰ (۱)
چوتھی فصل:

نہلی صدقہ اور لینے دینے کے آداب

صدقہ کی فضیلت:

اس سلسلے احادیث مبارکہ اس طرح ہیں۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

تَصَدَّقُوا وَ لَوْ بِتَمْرَةٍ فَإِنَّهَا تَسُدُّ مِنْ الْجَائِعِ
وَتُطْفِئُ مِنَ الْخَطِيئَةِ كَمَا يُطْفِئُ الْمَاءُ
النَّارَ۔ (۲)

اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

اتَّقُوا النَّارَ وَ لَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ فَإِنَّكُمْ تَجِدُوا
فِي كَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ۔ (۳)

آپ نے ارشاد فرمایا:

مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يَتَصَدَّقُ بِصَدَقَةٍ مِنْ
كَسْبٍ طَيِّبٍ وَلَا يَقْبَلُ اللَّهُ إِلَّا طَيِّبًا إِلَّا
كَانَ اللَّهُ أَخَذَهَا بِيَمِينِهِ فَبَرَّئَهَا كَمَا
يُرِيحِي أَحَدُكُمْ فِصِيكَ حَتَّى تَبْلُغَ

صدقہ کرو اگرچہ ایک کھجور ہو یہ بھوکے کی بھوک کو ختم کرتا ہے
اور گناہوں کو اس طرح مٹا دیتا ہے جس طرح پانی آگ
کو بجھا دیتا ہے۔

جہنم سے بچو اگرچہ کھجور کے ایک ٹکڑے کے ذریعے ہو
اگر نہ پاؤ تو اچھے کلمہ کے ذریعے بچو۔

جو مسلمان بندہ حلال کمائی سے کچھ صدقہ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ
حلال سے ہی قبول کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے داہنے
ہاتھ جیسے اس کے شایانِ شان ہے) سے پکڑتا ہے
اور اسے بڑھاتا ہے جس طرح تم میں سے کوئی ایک

(۱) چونکہ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک معارف زکوٰۃ جو اٹھ ہیں ان میں سے ہر مصرف کے کم از کم تین آدمیوں کو زکوٰۃ دینا لازمی ہے
لہذا ایک مصرف کا اٹھواں حصہ سو چوتھیں آدمیوں میں تقسیم ہوگا احاف کے ہاں یہ پابندی نہیں ہے ایک ہی مصرف کے ایک آدمی کو بھی زکوٰۃ
دے سکتے ہیں بشرطیکہ نصاب سے زیادہ نہ دیں ۱۲ ہزار روپی۔

(۲) کتاب الزیاد والرقائق ص ۲۲۹ حدیث ۶۵۱

(۳) صحیح بخاری جلد ۲ ص ۶۸ کتاب الوضوء

الثَّمَرَةُ مِثْلَ أَحَدٍ - (۱)

اونٹ کے بچے کو پانتا ہے حتیٰ کہ ایک کھجور (ثواب میں)
اُحد پہاڑ کے برابر ہو جاتی ہے۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ سے فرمایا:

جب تم شوربہ پکاؤ تو اس میں زیادہ پانی ڈالو پھر اپنے
پڑوسیوں کو دیکھو اور ان کو دسے کہ حسن سلوک کا مظاہرہ
کو۔

إِذَا طَبَخْتَ مَرَقَةً فَأَكْثِرْ مَاءَهَا ثُمَّ
انظُرْ إِلَى أَهْلِ بَيْتِكَ مِنْ جِوَارِنِكَ
فَأَصْبِهِمْ مِنْهُ بِمَعْرُوفٍ - (۲)

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

جو بندہ اچھا صدقہ دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے متروکہ مال
میں برکت دیتا ہے۔

مَا أَحْسَنَ عَبْدًا صَدَقَةً إِذَا أَحْسَنَ اللَّهُ
عَزَّ وَجَلَّ الْخَلْقَ فَتَعَلَى تَرِكْتِهِ - (۳)

ہر شخص اپنے صدقہ کے سائے میں ہو گا یہاں تک کہ لوگوں
کے درمیان فیصلہ ہوئے۔

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
كُلُّ أَمْرٍ فِي ظِلِّ صَدَقَتِهِ حَتَّى يُقْضَى
بَيْنَ النَّاسِ - (۴)

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

صدقہ برائی کے ستر دروازوں کو بند کرتا ہے۔

الصَّدَقَةُ تُسَدُّ سَبْعِينَ بَابًا مِنَ الشَّرِّ - (۵)

آپ نے ہی ارشاد فرمایا:

پوشیدہ صدقہ اللہ تعالیٰ کے غضب رکی آگ کو بجھا
دیتا ہے۔

صَدَقَةُ السَّيْرِ تُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ
عَزَّ وَجَلَّ - (۶)

نیز آپ نے ارشاد فرمایا:-

(۱) صحیح بخاری جلد اول ص ۱۸۹ کتاب الزکوٰۃ

(۲) مشکوٰۃ المصابیح ص ۱۷۱ باب افضل الصدقة

(۳) کنز العمال جلد ۶ ص ۳۶۳ حدیث ۱۶۰۷۱

(۴) مسند امام احمد بن حنبل جلد ۴ ص ۱۴۸ روایت عقبہ بن عامر

(۵) کنز العمال جلد ۶ ص ۳۷۱ حدیث ۱۶۱۱۰

(۶)

مَا الَّذِي أُعْطِيَ مِنْ سَعَةٍ بِأَفْضَلِ أَجْرًا
مِنَ الَّذِي يَقْبَلُ مِنْ حَاجَةٍ - (۱)

کشاہدگی کی حالت میں جو صدقہ دیتا جاتا ہے وہ حاجت
کی وجہ سے لینے سے زیادہ اجر کا باعث ہے۔
شاید اس سے مراد یہ ہے ہو کہ وہ حاجت جو دین کے لیے فراغت حاصل کرنے کی خاطر لوپری کی جاتی ہے اس
طرح پر لینے والا اس دینے والے کے برابر ہوگا جو اپنے دین کی تعمیر کے لیے دیتا ہے۔

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کونسا صدقہ افضل ہے؟ آپ نے فرمایا:
أَنْ تَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَاحِبٌ شَحِيحٌ وَتَأْمَلُ
الْبَقَاءَ وَتَخْشَى الْفَاقَةَ وَلَا تُمَهِّلُ حَتَّى
إِذَا بَلَغَتِ الْحُلُقُومَ قُلْتَ يَا فُلَانُ كَذَا
وَيُفْلَانُ كَذَا وَقَدْ كُنْتَ
يُفْلَانًا (۲)

تم اس حال میں صدقہ کرو کہ تندرست ہو مال کی حرص رکھنے
والے ہو زندگی کی امید رکھتے ہو اور فاقے سے ڈرتے
ہو تاخیر نہ کرو یہاں تک کہ جب موت حلق تک پہنچ جائے
تو اب کہو فلاں کے لیے اتنا ہے فلاں کے لیے اتنا ہے
حالانکہ وہ تو فلاں کے لیے ہو چکا۔

ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے فرمایا صدقہ کرو، ایک صحابی نے عرض کیا "میرے پاس
ایک دینار ہے" آپ نے فرمایا "اسے اپنی ذات پر خرچ کرو" اس نے کہا ایک اور بھی ہے فرمایا "اسے اپنی بیوی پر
خرچ کرو" اس نے عرض کیا "اور بھی ہے" آپ نے فرمایا "اسے اپنی بیوی پر خرچ کرو" اس نے عرض کیا "اس کے
علاوہ بھی ہے" آپ نے ارشاد فرمایا "اسے اپنے خادم پر خرچ کرو" اس نے عرض کیا "اور بھی ہے" فرمایا تم زیادہ بہتر
جاتے، (۳) یعنی جہاں مناسب سمجھو خرچ کرو

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِزَوَالِ مُحَمَّدٍ إِنَّمَا هِيَ
أَوْ سَاحُ النَّاسِ (۴)

آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہم کے لیے صدقہ
جائز نہیں کیونکہ یہ لوگوں کی میل ہے۔

اور آپ نے ارشاد فرمایا:
رُدُّوْا مَدْمَةَ السَّائِلِ وَكُوَيْمِثِلِ رَأْسِ

سائل کے حق کی ادائیگی کرو اگرچہ پرندے کے سر کے

(۱) مجمع الزوائد جلد ۳ ص ۱۰۱ کتاب الزکوٰۃ

(۲) صحیح مسلم جلد اول ص ۳۴۶ کتاب الزکوٰۃ

(۳) سنن ابی داؤد جلد اول ص ۲۳۸ کتاب الزکوٰۃ

(۴) صحیح مسلم جلد اول ص ۳۴۶ کتاب الزکوٰۃ

برابر کھانا ہو۔

الطَّائِرِينَ الطَّلَامِ (۱)

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

لَوْ صَدَّقَ السَّائِلُ مَا أَفْلَحَ مَثَلٌ

رَدَّكَ (۲)

اگر مانگنے والا سچا ہو تو اسے رد کرنے والا فلاح نہیں پاسکتا۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا: جو شخص اپنے گھر سے سائل کو خالی ہاتھ واپس کرتا ہے تو سات دن تک اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دو کاموں کو دوسروں کے سپرد نہیں کرتے تھے۔ رات کے وقت وضو کے لیے پانی خود رکھتے اور اسے ڈھانپ کر رکھتے اور مسکین کو صدقہ اپنے ہاتھوں سے دیتے تھے (۳)

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

لَيْسَ الْمُسْكِينُ الَّذِي تَرُدُّهُ التَّمْرُ وَالْتَّمْرَانِ
وَاللُّقْمَةُ وَاللُّقْمَتَانِ إِنَّمَا الْمُسْكِينُ
الْمُتَعَفِّفُ إِعْرُؤُ وَإِنْ شِئْتُمْ لَا يُسْأَلُونَ
النَّاسَ الْحَافِئًا (۴)

مسکین وہ نہیں جو ایک یاد و کھوریں یا ایک دو لقمے لے کر واپس ہو جاتا ہے مسکین وہ ہے جو مانگنے سے بچتا ہے اور اگر تم چاہو تو پڑھو کہ وہ لوگوں سے چھٹ کر (بالآخر) کے ساتھ نہیں مانگتے۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَكْسُو مُسْلِمًا إِذْ كَانَ
فِي حِفْظِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مَا وَامَتْ عَلَيْهِ
مِنْهُ رُقْعَةٌ (۵)

جو مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو لباس پہناتا ہے تو جب تک اس پر رکیز کا ایک ٹکڑا بھی ہے وہ (دینے والا) اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہتا ہے۔

اقوال صحابہ تابعین:

حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے سچا س ہزار درہم صدقہ کے اور آپ کی قمیص پر پونڈ لگے ہوئے تھے اللہ تعالیٰ کے ارشادِ گرامی۔

(۱) العلل المتناہیہ جلد ۲ ص ۱۳ حدیث ۸۲۱

(۲) التخصیص جلد ۵ ص ۲۹۷

(۳) مصنف ابن ابی شیبہ جلد ۳ ص ۲۰۶ کتاب الزکوٰۃ

(۴) صحیح مسلم جلد اول ص ۳۳۳ کتاب الزکوٰۃ

(۵) مشکوٰۃ المصابیح ص ۱۶۹ باب فضل الصدقہ

وَيُطْعَمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حَيْثُ مَسْكِينًا
وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ (۱)

اور وہ کھانے کی محبت باوجود مسکینوں یتیموں اور قیدیوں کو کھلاتے ہیں۔

کی تفسیر میں حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ وہ کھانے کی خواہش کے باوجود کھلاتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں دعا کیا کرتے تھے۔

اے اللہ! ہمارے اچھے لوگوں کو دولت عطا فرما کہ وہ اس کے ذریعے ہمارے حاجت مندوں کی خبر گیری کریں۔ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ فرماتے تھے "نماز تمہیں راستے کے درمیان تک پہنچاتی ہے روزہ تمہیں بادشاہ کے دروازے تک پہنچاتا ہے اور صدقہ تمہیں اس کے پاس داخل کر دیتا ہے۔

حضرت ابن ابی جعد فرماتے ہیں "صدقہ برائی کے ستر دروازوں کو دور کرتا ہے۔ اور ظاہر ادا دینے نسبت پوشیدہ دینے کی فضیلت ستر گنا ہے اور صدقہ ستر شیطانوں کے جہڑے چیر دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک شخص نے ستر سال اللہ تعالیٰ کی عبادت کی پھر بے حیائی کا ارتکاب کیا تو اس کا عمل ضائع ہو گیا پھر ایک مسکین کے پاس سے گزرا تو اس پر ایک روٹی کا صدقہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کا گناہ بخش دیا اور ستر سال کے اعمال واپس کر دیئے حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا کہ جب تم سے کوئی غلطی ہو جائے تو صدقہ دو۔ حضرت یحییٰ بن معاذ فرماتے ہیں میں صدقہ کے دانے کے علاوہ کسی دانے کو نہیں جانتا جو دنیا کے پاٹروں کے برابر ہو۔

حضرت عبداللہ بن ابی رواد فرماتے ہیں کہا جاتا تھا کہ تین باتیں جنت کے خزانوں سے ہیں (۱) بیماری کو چھپانا صدقہ چھپا کر دینا اور (۲) مصائب کو چھپانا۔ یہ روایت مسند بھی آئی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اعمال نے ایک دوسرے پر فخر کیا تو صدقہ نے کہا میں تم سب سے افضل ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما خیرات میں شکر دیا کرتے تھے اور فرماتے تھے میں نے اللہ تعالیٰ کا کلام سنا وہ فرماتا ہے۔

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ۔
تم ہرگز نیکی نہیں پاؤ گے یہاں تک اپنی پسندیدہ چیز خرچ کرو۔

(۱) اور فرماتے تھے اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ مجھے شکر پسند ہے۔

حضرت امام نسفی رحمہ اللہ فرماتے تھے جب کوئی چیز اللہ تعالیٰ کے لیے ہو تو مجھے یہ بات پسند نہیں کہ اس میں عیب ہو۔ حضرت عبید بن عمیر فرماتے ہیں قیامت کے دن لوگ اس قدر بھوکے اٹھائے جائیں گے کہ کبھی اتنے نہ ہونے

(۱) قرآن مجید، سورہ دھر آیت ۸

(۲) قرآن مجید سورہ آل عمران آیت ۲۹

ہوں گے اتنے پیاسے کہ کبھی نہ ہوں گے اور ایسے تنگے کہ کبھی ایسے تنگے نہ ہوتے ہوں گے تو جیسے اللہ تعالیٰ کے لیے کھانا کھلایا اسے اللہ تعالیٰ پیٹ بھر کر کھلائے گا اور جس نے اللہ تعالیٰ کے لیے کسی کو پانی پلایا اسے اللہ تعالیٰ سیراب کرے گا اور جس نے کسی کو کپڑے پہنائے ہوں گے اللہ تعالیٰ اسے لباس پہنائے گا۔

حضرت حسن فرماتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو تم سب کو مالدار کر دیتا تم میں کوئی فقیر نہ ہوتا لیکن تم میں سے بعض کو ذریعے آزمایا گیا۔ حضرت شعبی فرماتے ہیں جو شخص اپنے آپ کو ثواب کا اس سے زیادہ محتاج نہ سمجھے جتنا فقیر صدقے کا محتاج ہوتا ہے تو اس نے اپنے صدقہ کو باطل کر دیا اور اسے اپنے چہرے پر مار دیا۔

حضرت مالک فرماتے تھے خوش حال آدمی صدقے کے پانی سے اور جو مسجد میں پلایا جاتا ہے۔ اس سے پئے تو میں اس میں کوئی حرج نہیں سمجھتا کیوں کہ وہ پیاسوں کے لیے ہے جو بھی پیاسا ہو اس سے صرف حاجتمند اور مسکین لوگوں کو پلانا مقصود نہیں ہوتا کہا جاتا ہے کہ ایک دلائل ایک لوندی کے ساتھ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کے پاس سے گزرا تو انہوں نے دلائل سے فرمایا کیا تم اس کی قیمت ایک یا دو درہم پر راضی ہو؟ اس نے کہا نہیں انہوں نے فرمایا جاؤ اللہ تعالیٰ جتنی خوراک ایک پیسے اور ایک لقمہ کے بدلے میں دینے پر راضی ہوتا ہے

اس سلسلے میں اخلاص کے متلاشی لوگوں کا راستہ مختلف ہے ایک جماعت اس طرف گئی ہے کہ پوشیدہ دنیا افضل ہے اور دوسری جماعت کے نزدیک ظاہر دنیا بہتر ہے ہم ان دونوں میں پوشیدہ معانی اور آفات کی طرف اشارہ کرتے ہیں پھر حق بات سے پردہ اٹھائیں گے۔

پوشیدگی میں پانچ معانی ہیں:

۱۔ اس طرح لینے والے کا پردہ رہ جاتا ہے کیوں کہ ظاہری طور پر لینے سے اس کی عزت وقار کا پردہ اٹھ جاتا ہے۔ حاجت سامنے آجاتی ہے اور اس عفت کی صورت سے خارج ہوجاتا ہے جو پوشیدہ ہے اور اس سے متصف شخص کو جاہل لوگ مالدار سمجھتے ہیں۔ کیوں کہ وہ مانگتے سے پرہیز کرتا ہے۔

۲۔ اس طرح لوگوں کے دل اور زبانیں زیادہ محفوظ رہتی ہیں کیونکہ وہ بعض اوقات حد کرتے ہیں یا اس کے لینے پر اعتراض کرتے ہیں اور ان کے خیال میں وہ بلا ضرورت لے رہا ہے یا زیادہ لینے کی طرف نسبت کرتے ہیں اور حد، بدگمانی اور غیبت کبیرہ گناہوں سے ہیں اور ان جرائم سے ان کا بچنا بہتر ہے حضرت ابوالیوب سختیانی فرماتے ہیں۔ میں نے کپڑے نہیں پہناتا تاکہ میرا پروسی حد نہ کرے ایک عبادت گزار نے فرمایا کہ میں نے کئی مرتبہ اپنے بھائیوں کی وجہ سے کسی چیز کے استعمال کو چھوڑ دیا کیونکہ وہ کہتے ہیں اس کے پاس یہ کہاں سے آئی ہے۔

حضرت ابراہیم تیمی فرماتے ہیں کہ ان پر ایک نئی قمیص دیکھی گئی تو ان کے بعض بھائیوں نے کہا یہ آپ کے پاس

کہاں سے آئی ہے۔ انہوں نے فرمایا مجھے یہ حضرت عیثمہ نے پہنائی ہے اور اگر مجھے معلوم ہوتا کہ ان کے گھر والوں کو معلوم ہو جائے گا تو میں اسے قبول نہ کرتا۔

۱۵۔ اس طرح دینے والے کے عمل کو پوشیدہ رکھنے میں اس کی مدد کرنا ہے کیونکہ ظاہراً دینے کی نسبت چھپا کر دینے کی زیادہ فضیلت ہے اور نیکی کو پورا کرنے پر مدد کرنا بھی نیکی ہے اور کسی چیز کو چھپانا دو آدمیوں کے ذریعے ممکن ہے جب ظاہر ہو گیا تو دینے والے کا معاملہ کھل گیا۔

ایک شخص نے کسی عالم کو کوئی چیز کھلم کھلا دی تو انہوں نے واپس کر دی دوبارہ پوشیدہ طور پر دی تو انہوں نے قبول کر لی ان سے اس بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا کہ اس شخص نے اپنا صدقہ چھپا کر دینے میں اب سے کام لیا تو میں نے قبول کر لیا اور اس نے اپنے عمل میں بے ادبی سے کام لیا تو میں نے واپس کر دیا کسی شخص نے ایک ٹھوٹی کو مجلس میں ایک چیز دی تو انہوں نے واپس کر دی اس نے کہا آپ نے اللہ تعالیٰ کا عطیہ کیوں واپس کر دیا تو انہوں نے جواب دیا تو نے اس چیز میں جو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے تھی اس کے غیر کو شریک کیا اور اللہ تعالیٰ پر قناعت نہ کی تو میں نے تیرا شریک واپس کر دیا۔

ایک بزرگ نے پوشیدگی میں وہی چیز قبول کر لی جو علانیہ ملنے پر رد کر دی تھی۔ اس سلسلے میں ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا تم نے علانیہ دے کر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تو میں گناہ پر تمہارا مددگار نہیں ہو سکتا۔ اور خفیہ طور پر دیتے ہوئے تم نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی تو میں نے تیری نیکی پر مدد کی۔ حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر مجھے معلوم ہو کہ ان میں سے کوئی ایک اپنے صدقے کا ذکر نہیں کرے گا اور نہ کسی سے بیان کرے گا تو میں اس کا صدقہ قبول کر لیتا۔

۴۔ ظاہری طور پر لینے میں رسوائی اور توہین ہے اور مومن اپنے نفس کو رسوا نہیں کرتا ایک عالم پوشیدہ طور پر لے لیتے اور ظاہراً نہ لینے اور فرماتے کہ ظاہری طور پر لینے میں علم کی رسوائی اور اہل علم کی توہین ہے تو میں علم کو توہین سے توہین علم کو سبت کر کے اور اہل علم کو رسوا کر کے کسی دینی چیز کو بلندی نہیں دے سکتا۔

۵۔ شرکت کے شہ سے بچاؤ ہوتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔
مَنْ أَهْدَىٰ كَلْمَةٍ وَعِنْدَهُ قَوْمٌ فَهُمْ
شُرَكَاءُ فِيهَا۔ (۱)

وہ اگر چاندی یا سونا بھی ہو تو بدیہی رہے گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:
اَفْضَلُ مَا يَهْدِي الرَّجُلَ إِلَىٰ اٰخِرَتِهِ وَرِقًّا
کسی شخص کا اپنے بھائی کے لیے افضل صدقہ چاندی

(۱) السنن الکبریٰ للبیہقی جلد ۶ ص ۸۳ کتاب الہیات۔

وَيُطْعَمُهُ خَيْرًا - (۱)

سے یا اسے روٹی کھلاتا ہے۔

آپ نے صرف چاندی کو بھی ہدیہ قرار دیا تو مجلس میں سب کی رضا کے بغیر کسی ایک کو دنیا لکروہ ہے اور شبہ سے خالی نہیں ہے جب وہ علیحدگی میں دسے گا تو اس شبہ سے بچ جائے گا۔

علائیہ صدقہ دینا | علائیہ صدقہ دینے اور اسے بیان کرنے میں چار معانی ہیں۔

(۱) اخلاص، سچائی، اپنے مال کو لوگوں کے دھوکے سے بچانا اور رہا کاری سے محفوظ رکھنا۔

(۲) جاہ و مرتبہ کو دور کر دینا، بندگی اور سکینت کو ظاہر کرنا بڑائی اور استثناء کے دعویٰ سے بری ہونا اور لوگوں کی نگاہوں سے نفس کو گرانما (۲)

ایک خدارسیدہ شخص نے اپنے شاگرد سے کہا اگر تم صدقہ لو تو ہر حالت میں ظاہر کر کے لو کیوں کہ تم، دو میں سے ایک شخص سے خالی نہ ہو گے، ایک وہ شخص کہ جب تم ایسا کرو گے تو اس کے دل سے گرجاؤ گے اور یہی مقصود ہے کیونکہ اس میں تمہارے دین کی سلامتی زیادہ اور نفس کی آفات کم ہیں یا سچ کو ظاہر کرنے کی وجہ سے کچھ لوگوں کے دلوں میں تمہاری عظمت بڑھے گی اور تمہارا بھائی بھی تو یہی بات چاہتا ہے کیونکہ وہ تم سے جس قدر زیادہ محبت کرے گا اس کا ثواب زیادہ ہوگا، اور وہ تیری تنظیم کرے گا تو چونکہ تو اس کے لیے ثواب کے اضافے کا باعث بنا لہذا تجھے اجر ملے گا۔

(۳) عارف کی نظر اللہ تعالیٰ پر ہوتی ہے اور اس کے حق میں پوشیدہ اور علانیہ برابر ہے تو حال کا اختلاف توحید میں شرک ہے کسی عارف نے فرمایا ہم اس شخص کی دعا کا اعتبار نہیں کرتے تو پوشیدہ طور سے لے اور علانیہ کو رد کر دے لوگ موجود ہوں یا غائب ان کی طرف توجہ کرنا یعنی پیش نظر رکھنا فوری نقصان کا باعث ہے بلکہ انسان کی نظر صرف ذات واحد پر لگی رہے، کہا گیا کہ ایک بزرگ اپنے ایک مرید کی طرف سب سے زیادہ توجہ کرتے تھے، دوسروں کو یہ بات ناگوار گزرتی تھی چنانچہ اس بزرگ نے ان پر اس مرید کی فضیلت کو ظاہر کرنے کا ارادہ کیا تو ان میں سے ہر ایک کو ایک مرغی دے دی اور فرمایا تم میں سے ہر ایک اسے لے جائے اور وہاں ذبح کرے جہاں کوئی دیکھتا نہ ہو وہ تمام لے گئے اور ذبح کر دیا البتہ وہ مرید مرغی کو واپس لے آیا۔

ان تمام سے پوچھا تو انہوں نے کہا ہم نے اپنے شیخ کے حکم کی تعمیل کی ہے شیخ نے اس مرید خاص سے پوچھا تم نے دوسرے ساتھیوں کی طرح مرغی کیوں ذبح نہیں کی؟ اس مرید نے جواب دیا مجھے ایسی جگہ نہیں ملی جس میں مجھے

(۱) مستدام احمد بن حنبل جلد ۴ ص ۲۷۲ مرویات تھان بن بشر

(۲) مقصد یہ ہے کہ ظاہری طور پر دینے سے لوگوں کو دھوکہ نہیں دیا جاتا کہ شاید یہ شخص اندر سے کتنا مال دار یا کتنا بڑا صدقہ دیتا ہو گا وہ

سب کچھ سامنے لاکر دھوکہ دینے سے محفوظ رہتا ہے ۱۲ ہزاروی

کوئی نہ دیکھتا ہوا اللہ تعالیٰ مجھے ہر جگہ دیکھ رہا ہے۔ تو وہ بزرگ فرمانے لگے میں اسی لیے اس کی طرف زیادہ میلان رکھتا ہوں کہ یہ غیر خدا کی طرف توجہ نہیں رکھتا۔

۴۔ ظاہری طور پر دینے میں سنتِ شکر کو قائم کرنا ہے ارشادِ خداوندی ہے۔

دَائِمًا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ - (۱)

اور اپنے رب کی نعمت کا ذکر کیا کرو۔

خفیہ رکھنا نعمت کی ناشکری ہے اور اللہ تعالیٰ نے جو کچھ عطا کیا ہے اس کو پوشیدہ رکھنے پر اللہ تعالیٰ نے مذمت فرمائی اور ایسے شخص کو بخیل کا سا تھی قرار دیا۔ ارشادِ خداوندی ہے۔

الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا مَرُّوا النَّاسَ
بِالْبَخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ
فَضْلِهِ - (۲)

وہ لوگ جو بخیل سے کام لیتے ہیں اور دوسروں کو بھی بخیل کا حکم دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے انہیں جو فضل عطا فرمایا اسے چھپاتے ہیں۔

اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

إِذَا أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَى عَبْدٍ نِعْمَةً أَحَبَّ أَنْ
تُرَى نِعْمَتَهُ عَلَيْهِ - (۳)

جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو نعمت عطا کرتا ہے تو وہ پسند فرماتا ہے کہ وہ نعمت اس پر دکھائی دے۔

ایک شخص نے کسی عارت کو کوئی چیز چھپا کر دی تو انہوں نے ہاتھ میں اٹھا کر فرمایا یہ دنیا سے ہے اور اسے ظاہر کرنا افضل ہے جب کہ امورِ آخرت کو پوشیدہ رکھنا زیادہ بہتر ہے اسی لیے ان میں سے بعض حضرات نے فرمایا جب تمہیں علاتیہ دیا جائے تو لے لو اور پھر پوشیدگی کے ساتھ واپس کر دو اور اس پر شکر یہ ادا کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

مَنْ تَشَكَرَ النَّاسَ كَشَكَرَ اللَّهَ
عَزَّ وَجَلَّ - (۴)

جس نے لوگوں کا شکر یہ ادا نہ کیا اس نے اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا نہیں کیا۔

اور شکر یہ ادا کرنا بدلہ دینے کے قائم مقام ہے حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

مَنْ آسَدَى إِلَيْكُمْ مَعْرُوفًا فَكَا فِسْوَا فَيَا
جَوَادِي تَمَّ سَيْكِي كَا بَرَاؤُ كَرِي تَوَا سَ بَدَلِ دَوَا كَر

(۱) قرآن مجید، سورۃ والضحیٰ آیت ۱۱

(۲) قرآن مجید، سورۃ تاسو آیت ۳۷

(۳) التہذیب جلد ۳ ص ۲۵۴

(۴) مستدرک احمد بن حنبل جلد ۲ ص ۲۵۸ مرویات ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ

لَمْ تَسْتَطِيعُوا فَاثْنُوا عَلَيْهِ خَيْرًا
وَادْعُوا لَدَيْ حَتَّى تَعْلَمُوا أَنَّكُمْ قَدْ
كَافَأْتُمْوه - (۱)

اس کی طاقت نہ ہو تو اس کے بارے میں اچھے کلمات
کہو اور اس کے لیے دعا کرو حتیٰ کہ تم جان لو کہ تم نے
اسی کا بدلہ دے دیا ہے۔

جب مہاجرین صحابہ کرام نے (انصار کے) شکر یہ کے سلسلے میں عرض کیا یا رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) ہم ان لوگوں
سے بہتر کسی کو نہیں دیکھتے جن کے پاس ہم آئے تو انہوں نے ہمارے لیے اپنے مال بھی تقسیم کر دیئے حتیٰ کہ ہمیں ڈر ہوا کہ
وہ پورا اجر لے جائیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم جو کچھ ان کا شکر یہ ادا کرو یا ان کی تعریف میں کلمات کہو تو یہ
اس کا بدلہ ہے (۲)

اب جب تم نے ان معافی کو سمجھ لیا تو جان لو کہ اس میں اختلاف (اصل) مسئلہ میں اختلاف نہیں بلکہ حالت میں اختلاف
تو اس کی حقیقت اس طرح واضح ہوگی کہ ہم قطعی فیصلہ نہیں دے سکتے کہ پوشیدہ طور پر دیتا ہر حال میں افضل ہے
یا علانیہ دنیا؛ بلکہ نیتوں کے بدلنے سے حکم بدلتا ہے اور نیتوں کی تبدیلی احوال و اشخاص کی تبدیلی سے ہوتی ہے لہذا مخلص
آدمی کو اپنے نفس کی حفاظت کرنی چاہیے حتیٰ کہ وہ دھوکے کی رسی میں لٹک نہ جائے طبیعت کے دھوکے اور شیطان کے
قریب میں نہ آئے، تیز علانیہ دینے کی نسبت پوشیدگی میں دھوکہ اور قریب زیادہ ہے اس کے باوجود دونوں صورتوں میں
اس کا عمل دخل ہے۔

پوشیدگی میں دھوکے کا دخل یوں ہے کہ طبیعت کا اس طرف میدان ہوتا ہے اس لیے کہ اس میں لوگوں کے ہاں
جاہ مرتبہ کی حفاظت ہوتی ہے لوگوں کی نگاہوں سے اپنی قدر و منزلت کو گرنے سے بچانا ہے اس سے بھی محفوظ رہتا ہے کہ
لوگ اسے توہین آمیز نگاہوں سے دیکھیں اور دینے والے کو منعم اور محسن سمجھیں یہ لا علاج بیماری ہے اور نفس میں جڑ
پکڑتی ہے۔

اور شیطان اس کے ذریعے اچھے معافی کو ظاہر کرتا ہے حتیٰ کہ وہ ان پانچوں مذکورہ معافی کو علت بنا کر پیش کرتا ہے۔ (یعنی
اس کو دھوکہ دیتا ہے کہ یہ کام اچھا ہے) ان تمام باتوں کا معیار ایک ہی بات ہے وہ یہ کہ اسے اپنے صدقہ لینے کا حال
کھل جانے کا اتنا ہی دکھ ہو جتنا اس کے دوسرے احباب کے صدقہ کے ظہور سے دکھ ہوتا ہے۔ اگر اس کا
مقصد یہ ہے کہ لوگ غیبت حسد، اور بدظنی سے بچ جائیں یا پردہ کھل جانے سے بچنا مقصود ہو یا دیشے والے کو پوشیدہ
دینے پر ددوینا یا علم کو ذلت سے بچانا مقصود ہو تو یہ تمام باتیں دوسرے بھائی کے صدقہ کا حال کھلنے سے بھی ہوں گی

(۱) کنز العمال جلد ۶ ص ۴۶۶ حدیث ۱۶۵۴۳

(۲) السنن الکبریٰ للبیہقی جلد ۶ ص ۱۸۳ کتاب البیات

اگر دوسروں کا حال کھلنے کے مقابلے میں اپنے حال کا ظاہر ہونا زیادہ بوجھل محسوس ہو تو اس وقت خفیہ لینے کے ان فوائد کا بیان بنانا محض مخالطہ اور جھوٹ ہے جو شیطان کے مکر و فریب سے ہے کیوں کہ علم کو رسوا کرنا اس کے محض علم ہونے کی وجہ سے ہے اس لیے نہیں کہ وہ زہید کا علم ہے یا عمرو کا۔ اور عنینیت اس لیے منع ہے کہ وہ کسی محفوظ عزت کے درپے ہونا ہے اس لیے نہیں کہ وہ خاص فرید کی عزت ہے۔ اور جو آدمی اس بات کا اچھی طرح لحاظ کرتا ہے تو بعض اوقات شیطان اس سے عاجز ہو جاتا ہے ورنہ وہ ہمیشہ عمل زیادہ کرتا اور حصہ کم پاتا ہے جہاں تک ظاہر کا مسئلہ ہے تو اس کی طرف طبیعت اس لیے مائل ہوتی ہے کہ اس سے دینے والے کے دل کو خوشی حاصل ہوتی ہے اور اسے ایسے کاموں پر ترغیب دیتا ہے اور دوسروں کے سامنے ذکر کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ شخص بہت زیادہ شکر یہ ادا کرنے والوں میں سے ہے تاکہ وہ اس کی عزت کریں اور اس پر مال خرچ کریں اور یہ ایک باطنی لا علاج مرض ہے۔ اور دین دار آدمی پر شیطان اسی صورت میں قادر ہوتا ہے کہ وہ اس نجاست کو اس کے سامنے سنت بنا کر پیش کرے اور اسے کہے کہ شکر یہ ادا کرنا سنت سے ہے اور پوشیدہ رکھنا یا کاری ہے اور اس کے سامنے ان فوائد کا ذکر کرے جو ہم نے بیان کئے ہیں تاکہ وہ اسے ظاہر کرنے پر ابھارے حالانکہ اس کا باطنی مقصد وہی ہے جو ہم نے ذکر کیا۔

اس کا معیار یہ ہے کہ شکر کی طرف نفس کے میدان کی حفاظت کرے حتیٰ کہ اس کی خبر دینے والے کو بھی نہ پہنچے اور نہ ان لوگوں تک پہنچے جو اسے دینے کی رغبت رکھتے ہیں اور ایسی جماعت تک پہنچے جو ظاہر کر کے عطیہ دینے کو مکروہ جانتے ہیں اور اس کو پوشیدہ رکھنے میں رغبت رکھتے ہیں ان کی عادت یہ ہے کہ وہ اسی کو دیتے ہیں جو پوشیدہ رکھتا ہے اور شکر یہ بھی ادا نہیں کرتا اور اگر اس کے نزدیک یہ حالات برابر ہوں تو جان لے کہ اس کا مقصد شکر یہ ادا کرنے میں سنت کو قائم کرنا اور نعمت کا اظہار کرنا ہے ورنہ یہ دھوکہ ہے۔

پھر جب وہ جان لے کہ اس کا سبب شکر یہ ادا کرنے میں سنت کو اپناتا ہے تو دینے والے کا حق پورا کرنے سے غافل نہ ہو۔ لہذا دیکھئے اگر وہ ایسا شخص ہے جو شکر یہ ادا کرے اور اس کے ظاہر ہونے کو پسند کرتا ہے تو چاہیے کہ پوشیدہ رکھے اور شکر یہ ادا نہ کرے کیوں کہ اس کے حق کی ادائیگی یہ ہے کہ ظلم پر اس کی مدد نہ کرے اور جس کو صدقہ دیا اس سے شکر یہ کا مطالبہ (یا خواہش) ظلم ہے اور جب معلوم ہو کہ وہ شکر یہ ادا کرنے کو پسند نہیں کرتا اور نہ ہی اس کا قصد کرتا ہے تو اس وقت اس کا شکر یہ ادا کرے اور اس کے صدقہ کو ظاہر کرے یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص کی تعریف کی گئی تو آپ نے فرمایا تم نے اس کی گردن مار دی اگر وہ سنے گا تو کامیابی نہیں پائے گا (۱)

(۱) صحیح بخاری جداول ص ۶۷۷ کتاب الشہادت

حالانکہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود لوگوں کے منہ پر ان کی تعریف کیا کرتے تھے کیونکہ آپ کو ان کے یقین پر اعتماد تھا اور آپ جانتے تھے کہ یہ تعریف ان کو نقصان نہیں پہنچائے گی بلکہ نیکی میں ان کی رغبت کو زیادہ کرے گی آپ نے ایک شخص کے بارے میں فرمایا کہ یہ جنگل والوں کا سردار ہے (۱) اور دوسرے کے بارے میں فرمایا جب تمہارے پاس قوم کا معزز آدمی آئے تو اس کی عزت کرو۔ (۲)

آپ نے ایک شخص کا کلام سن کر پسند فرمایا تو ارشاد فرمایا،
 اِنَّ مِنَ الْبَيَانَ لَسِحْرًا (۳)
 بے شک بعض بیان جادو ہوتے ہیں۔

جب تم میں سے کسی کو اس کے (مسلمان) بھائی کے بارے میں بھلائی کی اطلاع ہو تو اسے تباہی کے یونکہ اس سے نیکی میں رغبت ہوتی ہے۔

بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا :-
 اِذَا عَلِمَ أَحَدٌ كُفْرًا مِنْ أَخِيهِ خَيْرًا فَلْيُخْبِرْهُ
 فَإِنَّهُ يَزِدُّ دَارَ رَغْبَةٍ فِي الْخَيْرِ (۴)

جب کسی مومن کی تعریف کی جائے تو اس کے دل میں ایمان بڑھ جاتا ہے۔

بیر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
 اِذَا مَدِحَ الْمُؤْمِنُ رَبًّا اَوْ اِيْمَانًا فِي
 قَلْبِهِ - (۵)

حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں :-

”جو شخص اپنے آپ کو پہچان لے اسے لوگوں کی تعریف کوئی نقصان نہیں دیتی ہے،“ انہوں نے یوسف بن اسباط سے فرمایا جب میں تمہارے ساتھ کوئی حسن سلوک کروں اور اس پر تجھ سے زیادہ خوش ہو جاؤں اور اسے اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی نعمت شمار کروں تو تم میرا شکر یہ ادا کرو ورنہ میرا شکر یہ ادا نہ کرو۔ جو شخص اپنے دل کی خبر گیری رکھتا ہے اسے ان معانی کا لحاظ کرنا چاہیے کیونکہ ان مقاصد سے غفلت کے باوجود اعضا کو عمل میں لگا دینا شیطان کی ہنسی اور خوشی ہے کیوں کہ اس میں تھکاوٹ زیادہ اور تفریح کم ہے۔ اور اس قسم کے علم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایمان

(۱) المستدرک للحاکم جلد ۳ ص ۱۱۱ کتاب معرفۃ الصحابة -

(۲) المعجم الکبیر للطبرانی جلد ۲ ص ۴۳۰ حدیث ۶۶۶۶

(۳) صحیح بخاری جلد ۲ ص ۵۸ کتاب الطب

(۴)

(۵) مجمع الزوائد جلد ۸ ص ۱۱۹ باب جادو فی الحمد

سئلہ معلوم کرنا ایک سال کی عبادت سے افضل ہے کیوں کہ اس علم کے ذریعے عمر بھر کی عبادت زندہ رہتی ہے اور اس سے جہالت کی وجہ سے عمر بھر کی عبادت مرجاتی ہے اور معطل ہو جاتی ہے خلاصہ کلام یہ ہے کہ مجلس میں لینا اور علیحدگی میں پس کر دینا تمام راستوں سے اچھا اور محفوظ راستہ ہے۔ اسے چکنی چٹری باتوں سے دور نہیں کرنا چاہیے البتہ معرفت کی بل ہو جائے یعنی پوشیدہ و ظاہر برابر ہو جائے تو ایگ بات ہے لیکن ایسا شخص عقلمند ہے جس کا ذکر ہوتا ہے لیکن عالی نہیں دیتا۔ ہم اللہ کریم سے اچھی مدد اور توفیق کا سوال کرتے ہیں۔

حضرت ابراہیم خواص حضرت جنید اور ایک جماعت رحمہم اللہ کے خیال میں صدقہ کے مال میں سے لینا افضل ہے کیوں کہ

زکوٰۃ اور صدقات میں سے کیا لینا افضل ہے

زکوٰۃ میں سے لینے کی صورت میں مساکین کی مزاحمت اور ان پر تنگی کرنا ہے اور بعض اوقات زکوٰۃ لینے میں صفت استحقاق تکمیل نہیں ہوتی جیسے قرآن پاک میں اوصاف کا ذکر ہے لیکن صدقہ کے معاملے میں زیادہ وسعت ہے اور کچھ کہنے والوں کے کہنا کہ زکوٰۃ لینے چاہیے صدقہ نہیں کیونکہ یہ واجب کی ادائیگی پر مدد کرنا ہے اور اگر تمام مساکین زکوٰۃ لینا چھوڑیں تو گناہ گاروں کے۔ نیز زکوٰۃ میں کوئی احسان بھی نہیں کیونکہ یہ وہ حق ہے جو اللہ تعالیٰ کے لیے واجب ہے اور محتاج بندوں کا رفق ہے نیز یہ حاجت کے باعث لی جاتی ہے اور انسان اپنی ذاتی حاجت کو قطعی طور پر جانتا ہے اور صدقہ دین کے بارے میں لینا ہے کیونکہ غالب یہی ہے کہ صدقہ دینے والا اسی کو دیتا ہے جس میں کوئی بھلائی دیکھتا ہے۔ نیز مساکین کا رفیق بناؤلت اور مسکینی میں زیادہ داخل کرتا ہے اور تکبر سے دور رکھتا ہے کیوں کہ انسان بعض اوقات صدقہ ہدیہ کی جگہ پر لیتا ہے اور دن میں فرق نہیں رہتا اور زکوٰۃ میں لینے والے اور اس کی حاجت کی رسوائی ہے۔

اس میں حق بات یہ ہے کہ یہ بات شخصیات کے بدلنے سے مختلف ہوتی ہے کہ اس پر کیا غالب ہے اور اس کی نیت کیا ہے۔ اگر اسے صفت استحقاق میں شبہ ہو تو زکوٰۃ نہیں لینے چاہیے اور جب معلوم ہو کہ وہ قطعی طور پر مستحق ہے تو اس صورت میں زکوٰۃ اور صدقہ کے درمیان اختیار ہے۔ پس جب صدقہ دینے والے کی یہ صورت ہو کہ اگر یہ آدمی نہ لیتا تو وہ صدقہ نہ دیتا تو صدقہ لے لے تاکہ زکوٰۃ دینے والا اسے اس کے مستحق تک پہنچا دے۔ اس میں بھلائی کو بڑھانا اور مساکین کے لیے وسعت پیدا کرنا ہے اور اگر مال صدقہ کے لیے رکھا ہو اور صدقہ لینے کی صورت میں مساکین پر کچھ تنگی بھی نہ آئی ہو تو اب اسے اختیار ہے اور ان دونوں صورتوں میں معاملہ مختلف ہے لیکن زکوٰۃ نفس کی سرکشی کو مٹانے اور اسے عام حالات میں رسوا کرنے میں زیادہ مؤثر ہے۔ واللہ اعلم اللہ تعالیٰ کی حمد، مدد اور حسن توفیق سے اسرار زکوٰۃ کا بیان مکمل ہو اس کے بعد روزوں کے اسرار کا بیان ہو گا۔

تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمارے سردار حضرت محمد مصطفیٰ اور تمام انبیاء و مرسلین (علیہم السلام) پر ہو۔ نیز ملائکہ اور آسمانوں اور زمین کے مقربین پر نیز آپ کے

آج صحابہ کرام پر رحمت نازل ہو اور بہت بہت سلام ہو جو قیامت تک رہنے والا ہو۔
تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو ایک ہے ہیں اللہ تعالیٰ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔

روزے کے اہم ارکان کا بیان

تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کیلئے ہیں جس نے اپنے بندوں پر بہت بڑا احسان فرمایا کہ ان سے شیطان کے مکر و فریب کو دور کیا اس کی امید کو رد اور اس کے گمان کو نامراد کیا اس طرح کہ روزے کو اپنے دوستوں کے لیے قلعہ اور ڈھال بنایا ان کے لیے جنت کے دروازوں کو کھولا اور انہیں بتایا کہ ان کے دلوں تک شیطان کے پہنچنے کا وسیلہ وہ خواہشات ہیں جو وہاں جاگزیں ہیں اور ان خواہشات کے ختم کرنے سے نفس مطمئنہ دشمن کو ختم کر میں غالب اور بہت قوی ہوتا ہے مخلوق کے قائد اور صراطِ مستقیم پر چلنے والے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے آل و اصحاب پر رحمت ہو جو روکشنگ نگاہوں اور توجیح یافتہ عقلوں والے ہیں اور بہت زیادہ سلام ہو۔ حمد و صلوات کے بعد بے شک روزہ ایمان کا چوتھا حصہ ہے جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

ایمان، صبر کا نصف ہے۔

الْمُؤْمِنُ نِصْفُ الصَّابِرِ (۱)

اور آپ نے ارشاد فرمایا:

صبر، ایمان کا نصف ہے۔

الصَّبْرُ نِصْفُ الْإِيمَانِ (۲)

پھر روزے کو یہ امتیاز حاصل ہے کہ دوسرے ارکان کی نسبت اسے اللہ تعالیٰ سے خصوصی نسبت حاصل ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے حکایت کرتے ہیں کہ وہ فرماتا ہے۔

ہر نیکی کا ثواب دس مثل سے لے کر سات سو گنا تک ہے سوائے روزے کے، بے شک وہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔

كُلُّ حَسَنَةٍ بَعَثْتُ بِهَا إِلَى سَبْعِينَ مِائَةً
صِعْفِ إِلَّا الصِّيَامَ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي
بِهِ (۳)

اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

بے شک صبر کرنے والوں کو ان کا اجر حساب کے بغیر لے گا۔

إِنَّمَا لِي فِي الصَّابِرِينَ أَجْرُهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ

(۱) مسند امام احمد بن حنبل جلد ۴ ص ۲۶۰

(۲) التزئیب والتزئیب جلد ۴ ص ۲۷۷ التزئیب فی الصبر

(۳) صحیح مسلم جلد اول ص ۳۶۳ کتاب الصیام

اور روزہ نصف صبر ہے اور اس کا ثواب تقدیر و حساب سے متجاوز ہے اور اس کی فضیلت کی پہچان میں تمہارے
ہے اتنی بات ہی کافی ہے کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

وَالنَّبِيُّ تَفْسِي بَيْدِهِ لَخَلُوفٌ فِيمَا لَصَائِمِي
أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمَسْكِ
يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِنَّمَا يَذُرُ
شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ وَشَرَابَهُ جَلِي
فَالصَّوْمُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ - (۱)

اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان
ہے البتہ روزے دار کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کے نزدیک
کستوری سے زیادہ خوشبودار ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا
کہ یہ شخص اپنی خواہش رکھانے اور پینے کو میری وجہ سے
چھوڑتا ہے تو روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس
کی جزا دوں گا۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:
لِلْجَنَّةِ بَابٌ يُقَالُ لَهُ الرَّيَّانُ لَا يَدْخُلُهُ
إِلَّا الصَّائِمُونَ - (۲)

جنت میں ایک دروازہ ہے جس کو ریّان (سیرابی کا دروازہ)
کہا جاتا ہے اس سے صرف روزہ دار داخل ہوں گے۔
روزے کی جزا کے طور پر اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا وعدہ دیا گیا ہے۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ فَرْحَةٌ عِنْدَ
إِفْطَارِهِ وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ
(۳)

روزہ دار کے لئے دو خوشیاں ہیں ایک خوشی افطار کے
وقت اور دوسری خوشی اپنے رب سے ملاقات کے
وقت۔

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
يَكُلُّ شَيْءٍ عَرَبِيًّا وَبَابُ الْعِبَادَةِ
الصَّوْمُ - (۴)

ہر چیز کا ایک دروازہ ہے اور عبادت کا دروازہ
روزہ ہے۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

(۱) صحیح بخاری جلد اول ص ۲۵۲ کتاب الصوم

(۲) صحیح بخاری جلد اول ص ۲۵۲ کتاب الصوم

(۳) صحیح بخاری جلد اول ص ۲۵۵ کتاب الصوم

(۴) کنز العمال جلد ۸ ص ۲۲۸ حدیث ۲۳۵۹۱

روزے دار کا سونا (بھی) عبادت ہے۔

ثُمَّ الصَّائِمِ عِبَادَةً (۱)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

جب رمضان المبارک کا مہینہ داخل ہوتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں شیطانوں کو بیڑیاں ڈال دی جاتی ہیں اور ایک پکارنے والا پکارتا ہے اسے تیر کے منگاشی آگے بڑھا اور برائی دھونڈتے والے رک جا۔

إِذَا دَخَلَ شَهْرُ رَمَضَانَ فَتُفْتَحُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ وَتُغْلَقُ أَبْوَابُ النَّارِ وَصَفَلَاتِ الشَّيَاطِينِ وَتَنَادِي مُنَادٍ يَا بَاغِيَ الْشَّرِّ اقْصِرْ (۲)

ارشاد خداوندی ہے۔

جو کچھ تم نے گذشتہ دنوں میں آگے بھیجا تو اس کے بدلے میں کھاؤ پیو اور مزے اڑاؤ۔

كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ (۳)

حضرت وکیع فرماتے ہیں ان سے روزوں کے دن مراد ہیں کیونکہ انہوں نے ان دنوں میں کھانا پینا ترک کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں زبرد اختیار کرنے اور روزے رکھنے کے رتبہ پر فخر کو جمع فرمایا اور فرمایا۔

اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے عابد نوجوان یہ فخر فرمائے گا اور ارشاد فرمائے گا اے نوجوان میرے لیے خواہشات کو چھوڑنے والے اپنی جوانی کو میری رضا کی خاطر خرچ کرنے والے تو میرے نزدیک میرے بعض فرشتوں کی طرح ہے۔

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَبْأُهِ مَلَكًا مِّنْكَ بِاللَّيْلِ الْعَابِدِ يَقُولُ أَيُّهَا الشَّابُّ اتَّكْرًا شَهْوَتُهُ رِجْلِي الْمُبْدِلُ شَابًا لِي أَنْتَ عِنْدِي كَبَعُضٍ مَلَكًا لِي (۴)

روزہ دار کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

اے میرے فرشتو میرے بندے کی طرف دیکھو اس نے اپنی شہوت کھانے اور پینے کو میری رضا کی خاطر چھوڑ دیا۔

أَنْظُرُوا يَا مَلَكًا لِي إِلَى عَبْدِي تَرَكَ شَهْوَتَهُ وَكَذَمَهُ وَطَعَامَهُ وَشْرَابَهُ مِنْ أَجْلِ رِي (۵)

(۱) کنز العمال جلد ۸ ص ۲۲۳ حدیث ۳۵۶۲

(۲) جامع الترمذی جلد اول ص ۱۳۲ ابواب الصوم (۳) قرآن مجید، سورۃ الحاقۃ آیت ۲۴

(۴) البدایہ والنہایہ جلد ۹ ص ۲۵ ترجمہ شرح ابن حارث

(۵) کنز العمال جلد ۵ ص ۷۷۶ حدیث ۲۰۵۷

اللہ تعالیٰ کے اس ارشادِ گرامی کی تفسیر میں فرمایا گیا کہ ان کا عمل روزہ تھا۔

ارشادِ خداوندی یہ ہے:

فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ
أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (۱)

کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

إِنَّمَا يُؤْتِي السَّابِقُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ

حِسَابٍ - (۲)

کوئی نفس نہیں جانتا کہ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے
لیئے کیا چیز چھپا رکھی گئی ہے یہ ان کے اعمال کا بدلہ ہے

بے شک صبر کرنے والوں کو ان کا اجر حساب کے بغیر
دیا جائے گا۔

تو روزے دار کو اس کی جزا اذیل دی جائے گی اور بے حساب دی جائے گی وہ کسی حساب اور پیمانے کے
تحت نہیں ہوگی۔ اور ایسا ہونا ہی مناسب ہے کیونکہ روزہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے اور اسی کی طرف نسبت سے مشرف
ہے اگرچہ تمام عبادات اسی کے لیے ہیں جس طرح اس نے بیت اللہ شریف کو اپنی طرف منسوب کیا حالانکہ تمام زمین اسی
کی ہے اس کی دو وجہ ہیں۔

ایک یہ کہ روزہ عمل کو چھوڑنے اور اس سے رکنے کا نام ہے اور وہ ذاتی طور پر پوشیدگی ہے اس میں عمل
دکھائی نہیں دیتا جب کہ دوسرے تمام اعمال لوگوں کے سامنے ہوتے ہیں اور دکھائی دیتے ہیں جب کہ روزے
کو صرف اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے اور وہ محض صبر کے ذریعے ایک باطنی عمل ہے دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ دشمنِ خدا پر قہر
اور غلبہ کا ذریعہ ہے کیونکہ شیطان ملعون کا ذریعہ خواہشات ہیں اور شہوات کھانے پینے سے زیادہ ہوتی ہیں اسی لیے
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

بے شک شیطان انسان میں خون کی طرح دوڑتا ہے
پس بھوک کے ذریعے اس کے راستوں کو تنگ کر دو۔

إِنَّ الشَّيْطَانَ لَيَجْرِي مِنَ ابْنِ آدَمَ مَجْرَى
الْوَدِّ فَضَيِّقُوا مَجَارِيَهُ بِالْجُوعِ - (۳)

اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا:

جنت کا دروازہ ہمیشہ کھٹکھٹاتی رہے۔

دَاوِعِي قَرْنَةَ بَابِ الْجَنَّةِ -

انہوں نے عرض کیا کس کے ساتھ؟ آپ نے فرمایا بھوک کے ساتھ بھوک کی فضیلت کا بیان ہلاک کرنے والے

(۱) قرآن مجید سورہ سجدہ آیت ۱۷

(۲) قرآن مجید سورہ سجدہ آیت ۱۷

(۳) صحیح بخاری جلد اول ص ۲۷۳ باب اعطاف الفسرة الاخیر

(۴) الاسترات المرغوبہ ص ۱۳۱ حدیث ۲۶۶

امور کے بیان میں کھاتے کی خرابی اور اس کے علاج کے ضمن میں آئے گا۔

توجیب روزہ خاص طور پر شیطان کی جڑ کاٹنے والا اور اس کے راستوں کو بند اور تنگ کرتے والا ہے تو روزہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خصوصی نسبت کا مستحق ہوا کیونکہ اللہ تعالیٰ کے دشمن کی بیخ کنی اللہ تعالیٰ کی مدد سے اور اللہ تعالیٰ کی مدد سے اس بات پر موقوف ہے کہ بندہ اس کے دین کی مدد سے ارشاد خداوندی ہے۔

إِنَّ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُخْرِجْ أَيْدِيَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْكُمْ
اگر تم اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد کرو تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں ثابت قدم رکھے گا۔

تو محنت کے ساتھ ابتدا بندے کی طرف سے اور ہدایت کے ساتھ بدلہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ
سُبُلَنَا۔ (۲)

اور وہ لوگ جو ہمارے راستے میں مجاہدہ (محنت) کرتے ہیں ہم انہیں اپنے راستے دکھاتے ہیں۔

اور ارشاد خداوندی ہے:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَضُرُّ مَا دَرَجَتْ حَتَّىٰ يَغَيِّرُوا مَا
بِأَنْفُسِهِمْ۔ (۳)

بے شک اللہ تعالیٰ کسی قوم کی (اچھی) حالت کو نہیں بدلتا جب تک وہ خود نہ بدل دیں۔

تو یہ تبدیلی شہوات کی کثرت سے ہوئی ہے کیونکہ یہ خواہشات شیطان کی چراگاہیں ہیں تو جب تک یہ سرسبز و شاداب رہتی ہیں شیطانوں کی آمدورفت بند نہیں ہوتی اور جب تک وہ آتے جاتے رہیں بندے کے لیے اللہ تعالیٰ کا جہل منکشف نہیں ہوتا اور وہ اس کی ملاقات سے پردے میں رہتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

كُلُّ مَا أَنْ الشَّيَاطِينُ يَجْرُمُونَ عَلَىٰ قُلُوبِ
بَنِي آدَمَ لَنَنْظُرُوا إِلَىٰ مَمْلُوكَاتِ السَّمَوَاتِ (۴)

اگر انسانوں کے دلوں پر شیطانوں کی آمدورفت نہ ہو تو وہ آسمانوں کی بادشاہی دیکھ لیں۔

اسی وجہ سے روزہ، عبادت کا دروازہ اور ڈھال بن گیا۔ جب اس کی اس قدر فضیلت ہے تو اس کی ظاہری اور باطنی شرائط کو ذکر کیا جائے اور ہم اسے تین فصلوں میں بیان کریں گے۔

(۱) قرآن مجید سورہ محمد آیت ۷

(۲) قرآن مجید، سورہ عنکبوت آیت ۶۹

(۳) قرآن مجید، سورہ رعد آیت ۱۱

(۴) مسند امام احمد بن حنبل جلد ۲ ص ۲۵۳ مرویات ابن ہریرہ

ظاہری واجبات اور سنتیں نیز توڑنے والے امور

روزے کے ظاہری واجبات چھ ہیں۔

ظاہری واجبات | ۱۔ رمضان المبارک کے آغاز کا خیال رکھنا اور یہ چاند کے دیکھنے سے ہوتا ہے اگر چاند نظر نہ آئے تو شعبان کے تیس دن پورے کرنا ہوں گے دیکھنے سے ہماری مراد (چاند کے طلوع ہونے کا) علم ہے۔ اور یہ ایک عادل شخص کے قول سے حاصل ہو جاتا ہے لیکن سوال کا چاند دو عادل آدمیوں کی شہادت سے ثابت ہوتا ہے کیونکہ عبادت میں احتیاط کا یہی تقاضا ہے۔

جس آدمی نے کسی عادل سے سنا اس کے قول پر یقین کیا اور اس کے غالب گمان کے مطابق وہ آدمی سچا ہے تو اس پر روزہ لازم ہے اگرچہ قاضی اس کا فیصلہ نہ کرے تو ہر انسان اپنی عبادت کے سلسلے میں اپنے گمان کے مطابق چلے اور اگر کسی ایک شہر میں چاند دکھائی دے اور دوسرے شہر میں چاند دکھائی دے اور دوسرے شہر میں دکھائی نہ دے اور ان کے درمیان دو مسافت دو دن میں طے کی جائے اسے کم فاصلہ ہو تو سب پر روزہ واجب ہے اور اگر زیادہ ہو تو ہر شہر کے لیے الگ حکم ہوگا اور جو ب متعدی نہیں ہوگا۔ (۱)

۲۔ نیت ہر رات (ہر روزے) کے لئے رنگ نیت رات کو کرنا اور اسے متعین کرنا ضروری ہے اور اگر پورے رمضان شریف کی ایک مرتبہ ہی نیت کر لی تو کافی نہ ہوگی ہم نے جو ہر رات کا لفظ بولا ہے اس کا یہی مطلب ہے اور اگر دن کو نیت کی تو نہ تو رمضان شریف کا روزہ ہو گا نہ کوئی دوسرا روزہ ہو گا بلکہ تعلق روزہ ہو گا ہم نے جو کہا کہ رات کے وقت نیت ہو اس کا یہی مطلب ہے اور اگر مطلقاً روزے یا مطلق فرض روزے کی نیت کی تو صحیح نہ ہوگی جب تک یہ نیت نہ کرے کہ یہ رمضان المبارک کا فرض روزہ ہے۔ (۲) اور اگر شک کی رات میں یوں نیت کرے کہ اگر صبح رمضان المبارک کا دن ہوا تو روزہ رکھوں گا تو نیت صحیح نہیں ہوگی کیونکہ یہ قطعی یقینی نہیں ہے البتہ یہ کہ وہ اپنی نیت کسی عادل شاہد کے

(۱) اگر ایک جگہ چاند ہوا تو وہ صرف وہی کے لیے نہیں بلکہ تمام جہان کے لیے ہے بشرطیکہ شرعی طور پر ثابت ہو (بہار شریعت)
(۲) احکامات کے نزدیک رمضان المبارک کے روزے خاص دن کی نذر کے روزے اور تعلق روزے کی نیت غروب آفتاب سے لے کر زوال سے پہلے تک ہو سکتی ہے رات کو ضروری نہیں اسی طرح مطلق روزے سے بھی رمضان المبارک کا روزہ رکھ سکتا ہے۔ (بہار شریعت جلد ۵ ص ۷۰)

قول کی طرف نسبت کرے یعنی اس کے کہنے پر کر رہا ہے) اور اس عادل کے قول میں غلطی کا احتمال یقین کو نہیں بدلتا یا موجودہ حالت کی طرف منسوب کرے جیسے رمضان المبارک کی آخری رات شک پڑ جاتا ہے اور وہ یقین کو نہیں بدلتا یا اپنے اجتہاد کی طرف منسوب کرے جیسے کوئی شخص کسی تہہ خانے میں قید ہو اور اجتہاد بنیاد پر میرا اس کو ظن غائب حاصل ہو جائے کہ رمضان شریف داخل ہو چکا ہے۔ تو اس کا شک اسے نیت سے نہیں روکے گا اور جب شک کی رات میں شک لاحق ہوگا تو زبان سے نیت کا پکا کرنا کچھ فائدہ نہیں دے گا۔

کیونکہ نیت کا محل تو دل ہے۔ اور دل میں شک کے ساتھ ارادہ کی پختگی کا تصور نہیں ہو سکتا۔ جیسے کوئی شخص رمضان المبارک کے درمیان کہے کہ میں کل روزہ رکھوں گا اگر رمضان کا دن ہو تو یہ نقصان نہیں دیتا کیوں کہ یہ لفظ میں تردد ہے اور نیت کے محل (دل) میں تردد نہیں ہے بلکہ اسے یقین ہے کہ یہ رمضان المبارک کا دن ہے اور جس نے رات کو نیت کی پھر کھانا کھایا تو نیت فاسد نہ ہوگی۔ اور اگر عورت نے حیض کی حالت میں نیت کی اور صبح سے پہلے حیض ختم ہو گیا تو نیت صحیح ہوگی۔

۳۔ روزہ یاد ہوتے ہوئے جان بوجھ کر کوئی چیز پیٹ میں نہ جانے دینا لہذا کھانے، پینے ناک میں دوائی چڑھانے، حقہ (پجکاری) کرانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے رگ کٹوانے پھینکے لگوانے، سرمہ لگانے کان یا عضو تناسل کے سوراخ میں سداٹی ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا البتہ عضو تناسل میں سداٹی ڈالنے کی صورت میں اگر اس میں ایسی چیز ڈال دے جو مثلاً تنگ پہنچ جائے تو ٹوٹ جائے گا۔ اور اگر ارادے کے بغیر راستے کی گرد وغبار یا کھٹی وغیرہ پیٹ تک پہنچ جائے یا کلی کرتے ہوئے پانی پیٹ تک پہنچ جائے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا البتہ کلی کرتے ہوئے مبالغہ کرے تو روزہ ٹوٹ جائے گا کیوں کہ اس نے کوتاہی کی ہے ہم نے جو ”عمداً (جان بوجھ کر) کا لفظ بولا ہے تو اس کا یہی مطلب ہے روزے کے یاد ہونے کا ذکر کر کے بھولنے والے سے احتراز کیا کیونکہ اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا، اور جو شخص دن کے دونوں کناروں میں جان بوجھ کر کھائے پھر اس پر واضح ہو کہ یہ اس نے دن کے وقت میں کھایا ہے تو اس پر روزے کی قضا ہے اور اگر اپنے گمان اور اجتہاد پر باقی رہا تو اس پر قضا نہ ہوگی۔ اور دن کے شروع اور اختتام میں رات کے گمان کے بغیر نہ کھائے۔

۴۔ جماع سے رکنا۔ اور اس (جماع) کی حد خشقہ کا غائب ہوتا ہے اگر بھول کر جماع کیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اگر رات کو جماع کیا یا اختلام ہو گیا اور صبح حالت جنابت میں تھا رات روزہ رکھا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اگر فجر طلوع ہو جائے اور وہ اپنی بیوی سے محبت کر رہا تھا اسی وقت الگ ہو گیا تو روزہ صحیح ہو جائے گا اور پھر رہا تو روزہ فاسد ہو جائے گا اور کفارہ لازم ہوگا بشرطیکہ روزے کی نیت کی ہو ورنہ صرف قضا لازم ہوگی۔

۵۔ منی خارج کرنے سے رکنا۔ یعنی جماع یا غیر جماع کے ذریعے ماہہ منویہ نکالنا اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے بیوی کا بوسہ لینے سے یا اس کے ساتھ لیٹنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا جب تک انزال نہ ہو البتہ یہ مکروہ ہے ہاں بوڑھا

آدمی ہو یا اپنے آپ پر کنٹرول کر سکتا ہو تو بوسہ لینے میں کوئی حرج نہیں لیکن چھوڑنا زیادہ بہتر ہے اور بوسہ لینے سے انزال کا ڈر ہو اس کے باوجود بوسہ لے لے اور مادہ منویہ خارج ہو جائے تو اس کی کوتاہی کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔
۴۔ قے نکلانے سے پرہیز کرنا۔ خود قے نکلانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور اگر قے غالب آجائے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اور اگر اپنے حلق یا سینے سے بلغم کھینچ کر نکل لے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا کیونکہ اس میں ابتداء عام ہے البتہ منہ میں پینے کے بعد نکلے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ (۱)

روزہ توڑنے کے لوازم :

روزہ توڑنے سے چار باتیں لازم ہوتی ہیں۔

۱۔ قضا، کفارہ، ذبیہ، روزہ داروں سے مشابہت اختیار کرتے ہو دن کا باقی حصہ کھانے پینے سے باز رہنا۔
۲۔ قضا۔ اس کا وجوب ہر مسلمان مکلف پر ہے عذر کی وجہ سے روزہ چھوڑے یا کسی عذر کے بغیر چھوڑے حیض والی عورت روزے کی قضا کرے گی، اسی طرح مرتد بھی (جب دوبارہ اسلام لائے) کافر، نپھے اور پاگل پر قضا نہیں۔
۳۔ قضا۔ رمضان کے روزے مسلسل رکھنا ضروری نہیں۔ جس طرح چاہے قضا کرے متفرق طور پر یا اکٹھے۔
۴۔ کفارہ۔ کفارہ صرف جماع سے لازم آتا ہے۔ منی نکلانے پینے اور جماع کے علاوہ امور سے کفارہ واجب نہیں ہوتا (۲) کفارہ ایک غلام آزاد کرنا ہے اگر مشکل ہو تو مسلسل دو مہینے کے روزے رکھنا اگر اس سے بھی عاجز ہو تو ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلاتا ہے ہر ایک کو ایک ایک مد (یعنی ایک کلو گرام) دینا ہے (احناف کے نزدیک دو کلو گرام ہے)۔

باقی دن میں نہ کھانا : جو آدمی روزے توڑنے سے گناہ گار ہوتا ہے وہ کوتاہی کرنے والا شمار ہوتا ہے اسے چاہیے کہ دن کے باقی حصے میں کھانے پینے وغیرہ سے اجتناب کرے۔ لیکن جو عورت حیض سے پاک ہوئی اس پر واجب نہیں کہ دن کا باقی حصہ کھانے پینے سے باز رہے اسی طرح جب مسافر نے روزہ نہ رکھا ہو اور گھر آجائے تو اس پر بھی واجب نہیں اور اگر شک کے دن ایک عادل آدمی چاند کی گواہی دے تو رکنا واجب ہے سفر کے دوران اخطار کی نسبت روزہ رکھنا افضل ہے البتہ طاقت نہ ہو تو نہ رکھے جس دن سفر شروع کرے اور دن کے پہلے حصے میں گھر میں ہو اس دن کا روزہ نہ چھوڑے اور روزے کی حالت میں سفر سے آئے تو بھی روزہ نہ توڑے۔

(۱) احناف کے نزدیک منہ بھر کر قے کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے کم سے نہیں اور بلا اختیار قے آئے اور منہ بھر کر ہو تو اسے ٹوٹانے کی صورت میں روزہ ٹوٹے گا اس کے علاوہ قے کی کوئی صورت روزے کو نہیں توڑتی تفصیل کے لیے دیکھئے۔

بہار شریعت حصہ پنجم ص ۸۱، ۸۲ (۲) احناف کے نزدیک جان بوجھ کر کھانے پینے سے بھی کفارہ لازم ہوتا ہے ۱۲ ہزار دی

قدیمہ۔ عالم اور دودھ پلانے والی عورت کو اگر اپنے پیچے پر خوف کی وجہ سے روزہ چھوڑنا پڑے تو ان پر فدیہ واجب ہے ہر دن کے بدلے ایک مسکین کو ایک مدگندم دیں اور قضا بھی کریں اور بہت بوڑھا آدمی (شیخ فانی) ہر دن کے بدلے ایک مدگندم دے (۱)

سنتیں :- روزہ دار کے لیے چھ باتیں سنت ہیں۔ سحری میں تاخیر کرنا، نماز مغرب سے پہلے افطاری میں جلدی کرنا اور کھجور یا پانی کے ساتھ افطار کرنا زوال کے بعد مساکین نہ کرنا، رمضان المبارک کے مہینے میں سخاوت کرنا جیسا کہ اس کی فضیلت زکوٰۃ کے بیان میں گزر چکی ہے، قرآن پاک کا دور کرنا (پڑھنا پڑھانا) مسجد میں اعتکاف پڑھنا بالخصوص آخری دنوں میں۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک تھا کہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ شروع ہو جاتا تو آپ ہتھ لپیٹ دیتے اور کمر بستہ ہو جاتے خود بھی (عبادت میں) محنت کرتے اور گھر والوں کو بھی ترغیب دیتے۔ (۲)

یعنی آپ مسلسل عبادت کرے کیونکہ اس عشرہ میں لیلۃ القدر ہوتی ہے اور غالب گمان یہ ہے کہ وہ طاق راتوں میں سے بھی زیادہ امکان اکیسویں تیسویں پچیسویں اور ستائیسویں رات کا ہے اس اعتکاف میں تسلسل قائم رکھنا زیادہ مناسب ہے اگر مسلسل اعتکاف کی نذر مافی یا اس کی نیت کی تو بلا ضرورت مسجد سے نکلنے کی صورت میں اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ جیسے کسی کی عبادت، گواہی دینے، نماز جنازہ میں شرکت یا کسی کی زیارت یا تازہ وضو کے لیے نکلے جب کہ پہلے سے با وضو ہو۔)

اگر قضاے حاجت کے لیے نکلا تو اعتکاف نہیں ٹوٹے گا اس کو چاہیے کہ گھر میں وضو کرے اور کسی دوسرے کام میں مشغول نہ ہو۔ — حدیث شریف میں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صفت قضاے حاجت انسانی کے لیے تشریف لے جاتے اور گزرتے گزرتے عیار پرسی فرماتے (۳)

جماع کرنے سے اعتکاف کا تسلسل ٹوٹ جاتا ہے پوسہ لینے سے نہیں ٹوٹتا۔ مسجد میں خوشبو لگانے اور عقد نکاح نیز کھانے، سونے اور کسی برتن میں ہاتھ دھونے سے اعتکاف نہیں ٹوٹتا کیوں کہ۔ اعتکاف کے تسلسل کی صورت میں ان کاموں کی حاجت ہوتی ہے بدن کے کسی حصے کو باہر نکالنے سے بھی نہیں ٹوٹتا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک حجرہ شریف کی طرف جھکا دیتے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا آپ کے سر انوں میں کنگھی کرتی تھیں وہ حجرہ میں ہوتی تھیں۔ (۴)

(۱) احبات کے نزدیک اگر عالم اور دودھ پلانے والی اسی طرح مسافر وغیرہ کو قضا کا وقت ملا تو وہ قضا کریں گے اور اگر وقت نہ ملا یعنی اسی عذر میں فوت ہو گئے تو ان روزوں کا فدیہ دیا جائے اور قدیم کی مقدار وہی ہے جو صدقہ فطر کی ہے یعنی ایک روزے کے بدلے دو کلو گندم یا اس کی قیمت دینا ہوگی ۱۲ ہزار روپی

(۲) صحیح مسلم جلد اول ص ۴۲ کتاب الاعتکاف (۳) سنن ابی داؤد جلد اول ص ۳۳ کتاب الصیام (۴) صحیح مسلم جلد اول ص ۴۲ کتاب الحج

روزے کے اسرار اور باطنی شرائط

جان لو کہ روزے کے تین درجات ہیں (۱) عام لوگوں کا روزہ (۲) خاص لوگوں کا روزہ (۳) خاص النحاس لوگوں

کا روزہ۔

عام لوگوں کا روزہ پیٹ اور شرنگاہ کو خواہش کی تکمیل سے روکتا ہے جس طرح پہلے گزر چکا ہے۔
خاص لوگوں کا روزہ، کان، آنکھ، زبان، ہاتھ اور پاؤں اور تمام اعضاء کو گناہوں سے روکتا ہے۔

اور خاص النحاس لوگوں کا روزہ دل کو تمام برے خیالات اور دنیوی افکار بلکہ اللہ تعالیٰ کے سوا ہر چیز سے کلیتاً
خالی کر دیتا ہے، اس صورت میں جب اللہ تعالیٰ اور قیامت کے سوا کوئی دوسری فکر آئے گی تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔
دنیوی فکر سے اگر دین کا قصد نہ ہو تو بھی یہی حکم ہے کیوں کہ دین کی فکر زادِ آخرت سے ہے دنیا سے نہیں حتیٰ کہ اہل دل حضرت
نے کہا ہے کہ جو شخص دن کے وقت یہ بات سوچے کہ رات کو کس چیز کے ساتھ افطار کرے گا اس کے ذمہ گناہ
لکھ دیا جاتا ہے کیوں کہ یہ اللہ تعالیٰ پر کامل اعتماد اور اس کے رزق موعود پر مکمل یقین نہ ہونے کی علامت ہے یہ
درجہ انبیاء کرام، صدیقین اور مقربین کا ہے اس کی تفصیل میں پر زیادہ گفتگو نہیں کی جائے گی البتہ اس کی عملی تحقیق بیان
کرنی گے یعنی یہ روزہ اس وقت حاصل ہوتا ہے کہ آدمی اپنی مکمل توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف کر دے اور غیر خدا سے پھیرے
اللہ تعالیٰ کے اس ارشادِ گرامی کو لیا سنا ہے۔

آپ فرما دیجئے اللہ تعالیٰ ہے پھر انہیں چھوڑ دیں اپنی
بیہودگیوں میں کھیلنے رہیں۔

قُلْ اِنَّ اللّٰهَ لَمَعْلَمٌ بِمَا تَحُوْضُوْنَ
يَلْعَبُوْنَ - (۱)

خاص لوگوں کا روزہ، اولیاء کرام کا روزہ ہے اور یہ اپنے اعضاء کو گناہوں سے بچانا ہے یہ روزہ چھ باتوں

سے مکمل ہوتا ہے۔

۱۔ ان چیزوں کو دیکھنے سے نظر کو روکنا جو بری اور مکروہ ہیں نیز وہ چیزیں جو دل کو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے روکتی

نظر زہریں بچھا ہوا ایک شیطانی تیر ہے اللہ اس پر
لعنت بھیجے پس جس شخص نے اسے (غیر محرم کو دیکھنا)

ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
النَّظْرَةُ سَهْمٌ مَّسْمُومٌ مِّنْ سِهَامِ ابْلِيسَ
لَعْنَةُ اللّٰهِ فَمَنْ تَرَكَهَا خَوْفًا مِّنَ اللّٰهِ

اِنَّهُ الَّذِي عَزَّوَجَلَّ اِيْمَانًا يَجِدُ حَلَوَاتَهُ
فِي قَلْبِهِ - (۱)

چھوڑ دیا اسے اللہ تعالیٰ ایسا ایمان عطا فرماتا ہے جس کی
شیرینی وہ اپنے دل میں پاتا ہے۔

حضرت جابر، حضرت انس رضی اللہ عنہما سے اور وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ نے
ارشاد فرمایا:

تَحَمُّسٌ يُفْطِرُنَ الصَّائِمَ الْكُذِبَ وَالْعَيْبَةَ
وَالنِّمْمَةَ وَالْيَمِينَ الْكَارِيزَةَ وَالنَّظْرَ
بِشَهْوَةٍ (۲)

پانچ چیزیں روزہ دار کے روزے کو توڑ دیتی ہیں چھوٹ
بولنا، غیبت کرنا چغلی کھانا، جھوٹی قسم کھانا اور شہوت
کے ساتھ کسی کو دیکھنا۔

۲۔ زبان کو بیہودہ گفتگو، جھوٹ، غیبت، چغلی، فحش کلامی، ظلم و زیادتی، جھگڑے دکھا دے اور خاموشی اختیار کرنے
سے محفوظ رکھنا اور اسے اللہ تعالیٰ کے ذکر اور تلاوتِ قرآن مجید میں مشغول رکھنا۔ یہ زبان کا روزہ ہے حضرت سفیان ثوری
رحمہ اللہ نے فرمایا غیبت روزے کو توڑ دیتی ہے یہ بات ان سے حضرت بشر بن حارث نے نقل کی ہے۔ حضرت لیث،
حضرت مجاہد سے روایت کرتے ہیں انہوں نے فرمایا کہ دو باتیں روزے کو توڑ دیتی ہیں (۱) غیبت اور (۲) چغلی۔

نَبِيٍّ اَكْرَمَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَسِيَ
اِنَّهَا الصَّوْمُ وَجَنَّةٌ فَاِذَا زَمَانَ اَحَدَكُمْ
صَائِمًا فَلَا يَدْرِي وَلَا يَجْهَلُ وَاِنْ اَمْرًا
قَاتَلَهُ اَوْ شَاَمَهُ فَلْيَقْدِرْ اِلَيَّ صَائِمًا
اِلَيَّ صَائِمًا - (۳)

بے شک روزہ ڈھال ہے پس جب تم میں سے کوئی
روزہ دار ہو تو نہ وہ بے حیائی کی سے کوئی روزہ دار
ہو تو نہ وہ بے حیائی کی بات کرے اور نہ جہالت کی۔
اور اگر کوئی شخص اس سے لڑے یا گالی گلوچ کرے
تو کہہ دے کہ میں روزے سے دار ہوں میں روزے دار ہوں۔

ایک حدیث شریف میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دو عورتوں نے روزہ رکھا تو ان کے
آخر میں انہیں بھوک اور پیاس نے ستایا حتیٰ کہ قریب تھا وہ اپنے روزے کو ضائع کر دیں انہوں نے کسی کو رسول اکرم
صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیج کر روزہ توڑنے کی اجازت طلب کی آپ نے ان کی طرف ایک پیالہ بھیجا اور فرمایا کہ
ان سے کہو جو کچھ کھایا تھا اس میں تھے کر دیں تو ان میں سے ایک نے تازہ بخون اور تازہ گوشت کی تھے کی اور دوسری

(۱) المشدک للحاکم جلد ۲ ص ۲۱ کتاب الرقاق
(۲) کنز العمال جلد ۸ ص ۶۹۷ حدیث ۲۳۸۱۳
(۳) صحیح بخاری جلد اول ص ۲۵۵ کتاب الصوم

نے بھی اس جیسی تہ کی حتیٰ کہ دونوں نے پیالہ بھر دیا لوگوں کو اس پر تعجب ہوا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دونوں نے اس چیز سے روزہ رکھا جسے اللہ تعالیٰ نے حلال کیا اور جسے اللہ تعالیٰ نے حرام کیا اس سے روزہ توڑ دیا۔ ان دونوں نے ایک دوسری کے پاس بیٹھ کر لوگوں کی نصیحت کی تو یہ لوگوں کا گوشت ہے جو انہوں نے رغبت کی صورت میں کھایا۔ (۱)

۳۔ پر مکر وہ بات کو سننے سے کالوں کو روکنا، کیونکہ جو بات کہنا حرام ہے اس کی طرف کان لگانا بھی حرام ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے غور سے سننے والے اور حرام مال کھانے والے کو پرہیز قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

وہ جھوٹ کو خوب سننے والے اور خوب حرام کھانے والے ہیں۔

سَمَاعُونَ بِالْكَذِبِ أَكْثَرُونَ
بَلَسَّحْتِ (۲)

اور ارشاد خداوندی ہے:

ان کے علماء اور درویش ان کو گناہ کی بات اور حرام کھانے سے کیوں نہیں روکتے۔

تو رغبت سن کر خاموشی اختیار کرنا حرام ہے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔

بے شک تم اس وقت ان کی مثل ہو گے۔

قَوْلِهِمْ أَلَيْسَ لَنَا بِمَنُونٍ وَالْأَجْبَارُ عَن قَوْلِهِمْ أَلَيْسَ لَنَا بِمَنُونٍ وَالسَّحْتِ (۳)

اَنكُمْ اِذَا مَثَلْتُمْ۔ (۴)

اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

غیبت کرنے والا اور اسے (قصداً) سننے والا دونوں گناہوں میں شریک ہیں۔

الْمُعْتَابُ وَالْمُسْتَمِعُ شَرِيكَاَنِ فِي الْاِثْمِ۔ (۵)

۴۔ باقی اعضاء یعنی ہاتھ اور پاؤں وغیرہ کو بھی گناہوں سے نیز مکر وہ امور سے بچانا اور افطار کے وقت پیٹ کو شے والی اشیاء سے بچانا اگر وہ حلال چیز سے روزہ رکھے اور حرام سے افطار کرے تو روزے کا کیا مطلب ہوگا؟

ایسے روزے دار کی مثال اس شخص جیسی ہے جو محل بنا تا ہے اور شہر کو گرا دیتا ہے کیونکہ حلال کھانا زیادہ ہونے کی وجہ سے

(۱) مسند امام احمد بن حنبل جلد ۵ ص ۲۲۱ مرویات عبید۔

(۲) قرآن مجید، سورہ مائدہ آیت ۲۲

(۳) قرآن مجید سورہ مائدہ آیت ۶۳۔

(۴) قرآن مجید سورہ نسا آیت ۱۰۲۔

۵۔ الاسرار المرفوعہ ص ۸۳ حدیث ۸۴۵۔

سے نقصان دیتا ہے اپنی کسی نوح کی وجہ سے نہیں اور روزے کا مقصد کھانے کو کم کرنا ہے اور زیادہ دوائی کو اس کے نقصان کے باعث چھوڑ کر نہ کھانے والا جو قوت ہوتا ہے اور عرام بھی ایک نہ رہے جو دین کو ہلاک کرتا ہے اور حلال چیز دوا ہے جو تھوڑی ہو تو نافع ہے اور زیادہ ہو تو نقصان دیتی ہے۔ اور روزے کا مقصد اس حلال غذا کو کم کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

كَمْ مِنْ صَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ صَوْمِهِ
إِلَّا الْجُوعُ وَالْعَطَشُ - (۱)

کتنے ہی روزہ دار ہیں جن کو اپنے روزے سے بھوک اور پیاس کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔

کہا گیا ہے کہ اس سے مراد وہ شخص ہے جو عرام کی طرف نظر کرتا ہے اور بعض نے کہا کہ اس سے مراد وہ شخص ہے جو حلال کھانے سے رکھتا ہے اور غیبت کے ذریعے لوگوں کے گوشت سے روزہ توڑ دیتا ہے کیونکہ غیبت حرام ہے اور یہ قول بھی ہے کہ وہ شخص مراد ہے جو اپنے اعضاء کو گناہوں سے محفوظ نہیں رکھتا۔

۵۔ افطار کے وقت حلال کھانا بھی زیادہ نہ کھائے اس طرح کہ پیٹ بھرے اللہ تعالیٰ کے ہاں اس پیٹ سے برابرین کوئی نہیں جو حلال رزق سے بھر جائے۔ روزے سے اللہ تعالیٰ کے دشمن پر غلبہ پانے اور شہوت کو توڑنے کا فائدہ کیسے حاصل ہوگا جب وہ دن کے وقت جو کچھ رہ گیا اس کی کسر افطاری کے وقت نکال لے۔

اور بعض اوقات اس کے پاس طرح طرح کے کھانے جمع ہو جاتے ہیں حتیٰ کہ یہ عادت بن گئی ہے کہ رمضان المبارک کے لیے کھانے جمع کئے جاتے ہیں اور اس وقت وہ کھانے کھائے جاتے ہیں جو دوسرے مہینوں میں نہیں کھائے جاتے اور یہ بات معلوم ہے کہ روزے کا مقصد پیٹ کو خالی رکھنا اور خواہش کو توڑنا ہے تاکہ نفس کو تقویٰ پر قوت حاصل ہو اور جب صبح سے شام تک معدے کو ٹالتا رہا حتیٰ کہ خواہش جوش میں آتی اور رغبت مضبوط ہو گئی پھر اسے لذت کھانے دے کر سیر کیا گیا اور اس کی قوت زیادہ ہوگی اور وہ خواہشات ابھریں جو عام عادت پر رہنے کی صورت میں پیدا نہ ہوتیں پس روزہ کی روح اور راز تو یہ ہے کہ ان قوتوں کو کمزور کیا جائے جو برائیوں کی طرف لوٹنے کو کم کرنے سے ہی حاصل ہوتا ہے یعنی ہر رات اتنا کھانا ہی کھائے جو روزہ نہ رکھنے کی صورت میں کھانا ہے اور اگر دن اور رات کا کھانا جمع کر کے کھائے تو روزے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا بلکہ مستحب یہ ہے کہ دن کے وقت زیادہ نہ سوئے تاکہ اسے بھوک اور پیاس کا احساس ہو اور اعضاء کی کمزوری محسوس ہو اس وقت اس کا دل صاف ہو جائے گا اور ہر رات اسی قدر کمزوری پیدا ہوگی تو اس پر تہجد اور وظائف پڑھنا آسان ہو جائے گا اور ممکن ہے شیطان اس کے دل کے قریب نہ آئے اور وہ آسمانی بادشاہت کا نظارہ کرے اور لیلۃ القدر اسی رات کو کہتے ہیں جس میں ملکوت سے کوئی چیز اس پر

منکشف ہو اور اللہ تعالیٰ اس ارشاد گرامی کا یہی مطلب ہے فرمایا:
 اِنَّا نَزَّلْنَاكَ فِي لَيْلَاتِ الْقَدْرِ - بے شک ہم نے اس (قرآن پاک) کو لیلۃ القدر میں
 اتارا۔ (۱)

اور جو آدمی اپنے دل اور اپنے سینے کے درمیان کھانے کی رکاوٹ ڈال دے وہ اس سے پردے میں رہتا ہے اور جس نے اپنے معدے کو خالی رکھا تو صفت یہ بات بھی پردہ اٹھنے کے لیے کافی نہیں جب تک وہ اپنی توجہ غیر خدا سے ہٹانے سے یہی سارا معاملہ ہے اور اس تمام معاملے کی بنیاد کم کھانا ہے اس کا مزید بیان ان شاء اللہ کھانے کے بیان میں آئے گا۔

۴۔ افطار کے بعد اس کا دل خوف اور امید کے درمیان معلق اور متردد رہے کیوں کہ اسے معلوم نہیں کہ اس کا روزہ قبول ہوا اور وہ مقربین میں سے ہے یا رد کر دیا گیا اور وہ ان لوگوں میں سے ہے جن پر اللہ تعالیٰ ناراض ہے اسے ہر عبادت سے فراغت کے بعد اسی طرح ہونا چاہیے حضرت حسن بن ابوالحسن بصری رحمہ اللہ سے مروی ہے آپ ایک جماعت کے پاس سے گزرے اور وہ لوگ ہنس رہے تھے انہوں نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کے مہینے کو لوگوں کے لیے مقابلے کا میدان بنایا ہے وہ اس کی عبادت میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں ایک جماعت آگے بڑھ گئی اور کامیاب ہوئی اور دوسرا گروہ پیچھے رہ گیا اور اس نے نقصان اٹھایا تو اس شخص پر بہت زیادہ تعجب ہے جو اس دن ہنستا اور کھیلتا ہے جس میں سبقت کرنے والے کامیاب اور پیچھے رہنے والے ناکام ہوئے سنو! اللہ تعالیٰ کی قسم! اگر پردہ اٹھ جائے تو نیکی کرنے والے اپنی نیکی میں اور برائی کرنے والے اپنی برائی میں مشغول ہو یعنی مقبول کی خوشی اسے کھیل سے روک دے اور مردود کا افسوس اس پر ہنسی کا دروازہ بند کرنے حضرت اخف بن قیس رحمہ اللہ سے منقول ہے ان سے کہا گیا کہ آپ بہت بوڑھے ہیں اور روزہ آپ کو کمزور کر دے گا انہوں نے فرمایا میں اسے ایک طویل سفر کا سامان بناتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر صبر کرنا اس کے عذاب پر صبر کرنے سے زیادہ آسانی ہے تو روزے میں باطنی امور یہ ہیں۔

سوال :
 جو شخص پیٹ اور شرمگاہ کی شہوت سے رکنے پر اکتفا کرے اور ان امور کو نظر انداز کر دے تو فقہاء فرماتے ہیں اس کا روزہ صحیح ہے اس کا کیا مطلب ہے۔
 جواب :۔

جان لو کہ ظاہری فقہاء کرام ظاہری شرط کو نہایت کمزور دلائل سے ثابت کرتے ہیں یعنی وہ دلائل ہماری ذکر کردہ باطنی شرائط کے مقابلے میں کمزور ہیں خصوصاً غیبت اور اس جیسی دوسری باتیں — فقہائے ظاہر ان تکلیفات کا ذکر کرتے ہیں جو عام غافل اور دنیا کی طرف متوجہ ہوتے والے لوگوں کے لیے آسان ہوں لیکن علمائے آخرت روز کی صحت سے قبولیت مراد لیتے ہیں اور قبولیت سے مراد مقصود نیک پہنچا ہے اور وہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ روزے کا مقصد اللہ تعالیٰ کے اخلاق سے متصف ہونا ہے اور وہ بے نیازی ہے اور جس قدر ممکن ہو شہوات سے بچ کر فرشتوں کی اقتدا کرے کیوں کہ وہ شہوات سے پاک ہیں اور انسان کا رتبہ جانوروں کے رتبہ سے بلند ہے کیوں کہ وہ نور عقل کے ذریعے شہوات کو ختم کر سکتا ہے اور فرشتوں کے رتبہ سے اعام انسانوں کا رتبہ کم ہے کیوں کہ اس پر شہوات کا غلبہ ہے اور اسے مجاہدے میں مبتلا کیا گیا لہذا جب وہ شہوات میں پڑھتا ہے تو سب سے نچلے گڑھے میں گرتا ہے اور جانوروں کے درجہ میں چلا جاتا ہے اور جب شہوات کا قلع قمع ہوتا ہے تو وہ اعلیٰ علیین میں چلا جاتا ہے اور ملائکہ کی دنیا سے جانتا ہے اور فرشتے اللہ تعالیٰ کے مقرب ہیں اور جو شخص فرشتوں کی اقتدا کرتا اور ان کے اخلاق سے مشابہت رکھتا ہے وہ بھی ان کی طرح اللہ تعالیٰ کا مقرب بن جاتا ہے کیونکہ قریب کی مشابہت اختیار کرنے والا بھی قریب ہوتا ہے اور وہاں مکان کا قریب نہیں بلکہ صفات کا قریب ہوتا ہے۔

جب عقلمندوں کے اور اہل دل کے نزدیک روزے کا مقصد اور راز یہ ہے تو ایک کھانے کو مؤخر کر کے دونوں کو شام کے وقت اٹھا کر لے نیز دن بھر شہوات میں غرق رہنے کا کیا فائدہ ہے اگر اس کا کوئی فائدہ ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد گرامی کا کیا مطلب ہوگا آپ نے فرمایا۔

كَمْ مِنْ صَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ صَوْمِهِ إِلاَّ الْجُوعُ وَالْعَطَشُ (۱)

کتنے ہی روزہ دار ہیں جن کو اپنے روزے سے بھوک اور پیاس کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔

اسی لیے حضرت ابو دردا رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ دانا آدمی کا سونا اور افطار کرنا کیسا اچھا ہے وہ کیسے بیوقوف آدمی کے روزے اور بیداری کو برانہ جانتے البتہ یقین اور تقویٰ والوں کا ایک ذرہ دھوکے میں مبتلا لوگوں کی بناٹوں کے برابر عبادت سے افضل اور راجح ہے اسی لیے بعض علماء کرام نے فرمایا کہ کتنے ہی روزے دار، روزے کے پیپر اور کتنے ہی بے روزہ، روزہ دار ہوتے ہیں، روزہ نہ رکھنے کے باوجود روزہ دار وہ شخص ہے جو اپنے اعضاء کو لگا ہون سے بچاتا ہے اگرچہ وہ کھاتا پیتا بھی ہے اور روزہ رکھنے کے باوجود بے روزہ وہ شخص ہے جو بھوکا اور پیاسا رہتا ہے اعضاء کو کھلی چھٹی دیتا ہے۔

روزے کے مفہوم اور اس کی حکمت کو سمجھنے سے یہ بات معلوم ہوئی کہ جو شخص کھانے اور جماع سے رُکے اور گناہوں میں ملوث ہونے کے باعث روزہ توڑ دے وہ اس شخص کی طرح ہے جو وضو میں اپنے کسی عضو پر تین بار مسح کرے اس نے ظاہر میں تعداد کو پورا کیا لیکن مقصود یعنی انصاف کو دھونا جو کھانے کے ذریعے روزہ دار نہیں لیکن ناپسندیدہ افعال سے اعضا کو روکنے کی وجہ سے روزہ دار ہے وہ اس آدمی کی طرح ہے جو اپنے اعضا کو ایک ایک بار دھونا ہے تو اس کی نماز ان شاء اللہ قبول ہوگی کیونکہ اس نے اصل کو پکا کیا اگرچہ زائد کو چھوڑ دیا اور جو آدمی دونوں کو جمع کرے وہ اس آدمی جیسا ہے جو ہر عضو کو تین تین بار دھونا ہے اس نے اصل اور زائد دونوں کو جمع کیا اور یہی کمال ہے نبی اکرم

صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔
 اِنَّ الصَّوْمَ اَمَانَةٌ فَلْيَحْفَظْ أَحَدُكُمْ
 اَمَانَتَهُ (۱)

یہ شک روزہ امانت ہے تو تم میں سے ایک کو چاہیے کہ وہ اپنی امانت کی حفاظت کرے۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی یہ آیت تلاوت فرمائی۔
 اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُوَدُّواْ اِلَّا مَآثِمًا
 اِلٰى اَهْلِهَا۔ (۱)

بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے مالکوں کی طرف لوٹا دو۔

تلاوت کے بعد آپ نے اپنا ہاتھ مبارک اپنے کان اور آنکھ پر رکھ کر فرمایا سماعت و بصارت بھی امانت ہے۔ اور اگر یہ روزے کی امانتوں میں سے نہ ہوتی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات نہ فرماتے کہ اسے کہنا چاہیے کہ میں روزے سے ہوں (۳) دوسری حدیث میں گزر چکا ہے (یعنی میرے پاس میری زبان امانت ہے تاکہ میں اس کی حفاظت کروں تو میں کس طرح تجھے جواب دینے کے لیے اسے کھلا چھوڑ دوں۔

اب یہ بات ظاہر ہو گئی کہ ہر عبادت کا ظاہر بھی ہے اور باطن بھی، چھلکا بھی ہے اور مغز بھی اور اس کے چھلکوں کے کسی سدرجات ہیں اور ہر درجے کے کسی طبقے ہیں اب تجھے اختیار ہے کہ تو مغز کو چھوڑ کر چھلکے پر قناعت کرے یا عقل مند لوگوں کی جماعت میں شامل ہو۔

(۱) قرآن مجید، سورہ نساء آیت ۵۸
 (۲) صحیح بخاری جلد اول ص ۵۵ کتاب الصوم

نفل روزوں اور ان کی ترتیب

جان لو کہ اچھے دنوں میں روزوں کا مستحب ہونا موکد ہے اور فضیلت والے دنوں میں سب سے بعض سال میں ایک ایک بار پائے جاتے ہیں بعض ہر مہینے میں اور بعض ہر ہفتے میں پائے جاتے ہیں۔ سال میں رمضان المبارک کے بعد عرفہ (نویں ذوالحجہ) کا دن، دسویں محرم کا دن ذوالحجہ کے پہلے دس دن (ربیع الثانی) کے دن روزے رکھنا جائز نہیں (محرم الحرام کے پہلے دس دن اور عزت والے مہینے (ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب) روزے کے لیے عمدہ دن ہیں اور یہ فضیلت والے اوقات ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان المعظم میں زیادہ روزے رکھتے تھے حتیٰ کہ گمان ہوتا یہ ماہ رمضان ہے (۱)

اور حدیث شریف میں ہے۔

أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ شَهْرُ اللَّهِ الْمُحَرَّمِ۔ (۲)

ماہ رمضان کے بعد افضل روزے اللہ تعالیٰ کے مہینے محرم کے روزے ہیں۔

کیوں کہ اس مہینے سے سال کی ابتدا ہوتی ہے لہذا اس کو نیکی میں گزارنا زیادہ پسندیدہ ہے اور دائمی برکت کی امید ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

صَوْمٌ كَوَيْدٍ مِنْ شَهْرِ حَرَامٍ أَفْضَلٌ مِنْ ثَلَاثِينَ مِنْ غَيْرِهِ وَصَوْمٌ يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ أَفْضَلٌ مِنْ ثَلَاثِينَ مِنْ شَهْرِ حَرَامٍ۔ (۳)

محرم کے مہینے کا ایک روزہ دوسرے مہینوں کے تیس روزوں سے افضل ہے اور رمضان المبارک کا ایک روزہ محرم کے تیس روزوں سے افضل ہے۔

اور حدیث شریف میں ہے:

مَنْ صَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ شَهْرِ حَرَامٍ الْخَمِيسَ وَالْجُمُعَةَ وَالسَّبْتَ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ عِبَادَةً تَسَعِمَانَةَ عَامٍ۔ (۴)

جو آدمی محرم الحرام کے مہینے میں تین دنوں جمعرات، جمعہ اور ہفتہ کا روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر دن کے بدلے نو سال کی عبادت لکھتا ہے۔

(۱) مجمع بخاری جلد اول ص ۴۶ کتاب الصوم

(۲) مجمع مسلم جلد اول ص ۳۶۸ کتاب الصیام

(۳) مجمع الزوائد جلد ۲ ص ۱۹۰ کتاب الصیام (۴) العنق المناسیہ جلد ۲ ص ۶۲ حدیث ۹۱۱

اور حدیث شریف میں ہے کہ جب شعبان کا نصف ہو جائے تو اب رمضان المبارک تک کوئی روزہ نہیں (۱)۔ اسی لیے مستحب ہے کہ رمضان المبارک سے چند دن پہلے روزہ رکھنا ترک کر دے تا کہ رمضان المبارک کے لیے تیار ہو سکے) اور اگر شعبان المعظم کو (روزے کے ذریعے) رمضان المبارک سے ملائے تو بھی جائز ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ملایا (۲) اور کئی مرتبہ دونوں کو الگ الگ کیا (۳) یعنی شعبان کے آخر میں روزہ رکھنا چھوڑ دیا اور رمضان المبارک سے دو تین پہلے کے روزے نہ رکھے البتہ اس کے وظیفہ معمول کے موافق ہو جائے تو رکھ سکتا ہے اور بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے پورے رجب کے روزے رکھ کر اسے رمضان کے مشابہ بنانے کو مکروہ قرار دیا۔ فضیلت والے مہینے ذوالحجہ، محرم الحرام، رجب المرجب اور شعبان المعظم ہیں جب کہ حرمت والے مہینے ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم الحرام اور رجب المرجب ہیں ان میں سے ایک (رجب المرجب) الگ ہے اور تین (ذوالقعدہ وغیرہ) مسلسل ہیں۔ ان مہینوں میں سے افضل ذوالحجہ ہے کیونکہ اس میں حج ہے اور وہ دن ہیں جن کو ایام معلومات اور ایام معدودات کہا گیا ہے ذی قعدہ، حج کے مہینوں سے ہے لیکن حرمت والے مہینوں میں شامل نہیں جب کہ محرم اور رجب کے مہینے حج کے مہینوں میں سے نہیں ہیں حدیث شریف میں ہے۔

اللہ تعالیٰ کے نزدیک ذوالحجہ کے دس دنوں سے بڑھ کر کوئی دن نہیں جن میں اعمال افضل اور زیادہ محبوب ہوں اس ایک دن کا روزہ ایک سال کے روزوں کے برابر ہے اور ایک رات کا قیام لیلۃ القدر کے قیام کی طرح ہے عرض کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد بھی نہیں، آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد بھی نہیں مگر وہ شخص جو اپنے گھوڑے کو زخمی کرے اور اس کا خون بہائے (۴) مطلب یہ ہے کہ خوب دائر شجاعت رہے) جو دن مہینے میں تکرار سے آتے ہیں یعنی ہر مہینے میں آتے ہیں وہ مہینے کا اول درمیان اور آخر ہے درمیان میں ایام بین تیزہ چودہ اور پندرہ تاریخ ہے۔ اور ہر ہفتے میں آنے والے دن سوموار، جمعرات اور جمعہ کے دن ہیں یہ فضیلت والے دن ہیں اور ان میں روزہ رکھنا مستحب ہے نیز زیادہ خیرات کی جائے تاکہ ان اوقات کی برکت سے ثواب میں کمی گنا اضافہ ہو۔

جہاں تک عمر بھر کے روزے رکھنے کا تعلق ہے تو وہ کچھ اضافہ کے ساتھ ان سب دنوں کو شامل ہے لیکن سب

(۱) جامع ترمذی جلد اول ص ۱۲۰ ابواب الصوم

(۲) السنن الکبریٰ للبیہقی جلد ۳ ص ۲۰۶ کتاب الصیام

(۳) سنن ابی داؤد جلد اول ص ۳۱۸ کتاب الصیام

(۴) جامع الترمذی جلد اول ص ۱۳۲ ابواب الصوم۔

کے اس سلسلے میں کئی مذاہب ہیں ان میں سے بعض نے اس کو مکروہ خیال کیا ہے کیوں کہ احادیث میں ان کی کراہیت مروی ہے (۱) لیکن صحیح یہ ہے کہ یہ دو وجہ سے مکروہ ہے ایک یہ کہ عیدین اور ایام تشریفی میں بھی روزہ نہ چھوڑے اور یہ دہر کا روزہ ہے دوسرا یہ کہ افطار کے سلسلے میں سنت کو ترک کر کے روزہ کو لازم کر لے حالانکہ اللہ تعالیٰ رخصت کو بھی پسند کرتا ہے جس طرح وہ عزیمت پر عمل کو پسند کرتا ہے جب ان دونوں باتوں میں سے کوئی بات نہ ہو اور ہمیشہ روزہ رکھنے میں نفس کی اصلاح سمجھے تو ایسا کرے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور تابعین رحمہم اللہ کی ایک جماعت نے ایسا کیا ہے اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

مَنْ صَامَ الدَّهْرَ كُلَّهُ صَيِّقَتْ عَلَيْهِ جَهَنَّمَ
وَعَقَدَ لِسْتَحِينَ - (۲)

جو آدمی ہمیشہ روزہ رکھے اس پر جہنم تنگ کر دی جاتی ہے اور آپ نے (ہاتھ سے) نوٹے کا غلہ بنایا۔

اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے لیے جہنم میں جگہ نہیں رہتی۔

اس سے کم ایک اور درجہ ہے اور وہ نصف دہر کا روزہ ہے یعنی ایک دن روزہ رکھے اور ایک دن افطار کرے یہ نفس پر زیادہ سخت اور اسے مغلوب کرنے میں زیادہ قوت کا باعث ہے۔ اور اس کی فضیلت میں بہت سی احادیث آئی ہیں کیوں کہ اس طرح بندہ ایک دن روزے میں اور دوسرا دن شکر میں گزارتا ہے۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

عُرِضَتْ عَلَيَّ مَفَاتِيحُ خَزَائِنِ الدُّنْيَا
وَكُنُوزِ الدَّرَجِ خَزَائِنِهَا وَقُلْتُ اجُوعُ يَوْمًا وَاشْبَعُ
يَوْمًا أَحْمَدُكَ إِذَا شَبِعْتُ وَانْتَصِرْتُ إِلَيْكَ
إِذَا جَعْتُ -

(۳)

مجھ پر دنیا کے خزانوں اور زمین کے خزانوں کی چابیاں پیش کی گئیں اور میں نے واپس کر دیں ہیں نے کہا میں ایک دن بھوکا رہوں گا اور دوسرے دن سیر ہو کر کھاؤں گا روزہ رکھنا مراد ہے ورنہ حضور علیہ السلام کبھی سیر ہو کر نہیں کھاتے تھے) جب شکم سیر ہو گا تو تیرا شکر ادا کروں گا اور جب بھوکا ہوں تو تیرے حضور کو کراؤں گا۔

اور آپ نے ارشاد فرمایا:

أَفْضَلُ الصِّيَامِ صَوْمُ أَخِي دَاوُدَ كَمَا

بہترین روزے میرے بھائی حضرت داؤد علیہ السلام

(۱) صحیح بخاری جلد اول ص ۱۳۲ ابواب الصوم

(۲) مسند امام احمد بن حنبل جلد ۳ ص ۴۴ مرویات ابی موسیٰ

(۳) مسند امام احمد بن حنبل جلد ۵ ص ۲۵۴ مرویات ابی امامہ

کے روزے میں وہ ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن افطار کرتے تھے۔

يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا (۱)

اس کی تاکید اس حدیث سے بھی ہوتی ہے کہ جب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ میں اس سے ایک دن روزہ اور ایک دن افطار سے ہزارہ کی طاقت رکھتا ہوں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دن روزہ رکھو اور ایک دن چھوڑ دو انہوں نے عرض کیا کہ میں سے افضل کا ارادہ کرتا ہوں تو آپ نے فرمایا اس سے افضل

کچھ نہیں (۲)

اور مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی رمضان المبارک کے علاوہ کسی مہینے کے مکمل روزے نہیں رکھے (۳) اگر کوئی شخص نصف زمانے کے روزے رکھنے پر قادر نہ ہو تو تنہائی حصے میں کوئی حرج نہیں یعنی ایک دن روزہ رکھے اور دو دن چھوڑ دے اور جب مہینے کے شروع میں تین، درمیان میں سے تین اور آخر میں تین روزے رکھے تو یہ بھی تنہائی سے اور یہ فضیلت والے اوقات میں واقع ہوں گے اور سوموار، جمعرات اور جمعہ کا روزہ رکھے تو یہ بھی تنہائی کے قریب ہے اور فضیلت کے اوقات ظاہر ہو گئے تو کمال یہ ہے کہ انسان روزے کا معنی سمجھے اور یہ کہ اس کا مقصود دل کو پاک کرنا اور اپنی تمام فکر کو اللہ تعالیٰ کی طرف مبذول کرنا ہے باطن کی باریکیوں کو سمجھنے والا شخص اپنے حالات کو دیکھتا ہے کبھی اس کے حال کا تقاضا ہوتا ہے کہ ہمیشہ روزہ رکھے، کبھی ہمیشہ روزے کے بغیر رہنے کا تقاضا کرتا ہے اور کبھی روزے اور افطار کو ملانے کا تقاضا ہوتا ہے پس جب وہ معنی کو سمجھ جائے اور دل کی نگرانی کے ذریعے طریق آخرت پر چلنے میں اس کی حد ثابت ہو جائے تو دل کی درستگی محقق نہیں رہے گی۔ اور یہ ہمیشہ کی ترتیب کو نہیں چاہتا اسی لیے روایات میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھنے چلے جاتے حتیٰ کہ کہا جاتا ہے نہیں چھوڑیں گے اور روزہ رکھنا چھوڑ دیتے حتیٰ کہ کہا جاتا ہے اب روزہ نہیں رکھیں گے اور آپ آرام فرما سوتے یہاں تک کہ کہا جاتا ہے نماز و نفل نماز کے لیے قیام نہیں فرمائیں گے اور بعض اوقات آپ قیام فرماتے حتیٰ کہ کہا جاتا ہے آرام نہیں فرمائیں گے (۴) اور یہ اس حساب سے ہوتا تھا جو آپ کے لیے اوقات حقوق کے قیام کے سلسلے میں نور نبوت سے کشف ہوتا۔

علماء کرام راویا کرام نے چار دن مسلسل روزہ نہ رکھنے کو مکروہ قرار دیا ہے انہوں نے عید کے دن اور ایام تشریق

(۱) صحیح بخاری جلد اول ص ۲۶۶ کتاب الصوم

(۲) صحیح بخاری جلد اول ص ۲۶۶ کتاب الصوم

(۳) صحیح بخاری جلد اول ص ۲۶۶ کتاب الصوم

(۴) صحیح بخاری جلد اول ص ۲۶۶ کتاب الصوم

سے اندازہ لگایا یعنی عید الاضحیٰ اور اس کے بعد تین دن کل چار دن مسلسل روزہ نہیں رکھا جاتا لہذا جو لوگ آخرت کے راستے پر چلنے والے ہیں انہیں بھی چار دن سے زیادہ روزے کے بغیر نہیں رہنا چاہیے یہ فقہی حکم نہیں بلکہ اہل تصوف کے نزدیک ہے ۱۲ ہزاروی

انہوں نے ذکر کیا کہ اس طرح رہنے سے دل سخت ہو جاتا ہے اور بڑی عادات پیدا ہوتی ہیں اور شہوتوں کے دروازے کھلتے ہیں، یقیناً اکثر لوگوں کے حق میں اس طرح ہے۔ خصوصاً وہ لوگ جو رات اور دن میں دو مرتبہ کھاتے ہیں ہم نے نفلی روزے کی ترتیب کے سلسلے جو کچھ ذکر کرنے کا ارادہ کیا تھا وہ یہ مذکورہ ہے، واللہ اعلم بالصواب۔

روزے کے اسرار کا بیان ختم ہوا۔ اللہ تعالیٰ اپنی تمام حمد کے ساتھ مستحق حمد ہے ہم اس میں سے کچھ جانتے ہیں یا نہیں جانتے اور اس کے تمام انعامات پر جن کا ہمیں علم ہے اور جن کا علم نہیں، اس کا شکر ہے۔

اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمارے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے آل و اصحاب پر ہو نیز سلام و کرم ہو اور ہر بخار بندے پر جو آسمان والوں میں سے ہے یا زمین والوں سے رحمت نازل ہو۔

اس کے بعد ان شاء اللہ حج کے اسرار کا بیان ہو گا اور اللہ تعالیٰ ہی مددگار ہے اس کے سوا کوئی رب نہیں اور مجھے اسی اللہ تعالیٰ کی مدد سے توفیق حاصل ہوتی اللہ تعالیٰ ہمیں کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔

اسرار حج کا بیان

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جن نے کلمہ توحید کو اپنے بندوں کے لیے پناہ گاہ اور قلعہ بنایا اور اپنے قدیم گھر رکبتہ اللہ کو لوگوں کے لوٹنے اور امن کی جگہ بنایا۔ اور اس گھر کو عزت بخشے ہوئے، اسے قاص کرتے ہوئے اور احسان فرماتے ہوئے اس کی اپنی طرف نسبت کر کے اعتراف بخشا اس کی زیادت اور طواف کو بندے اور عذاب کے درمیان پردہ اور ڈھال بنایا اور رحمت کاملہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نبی رحمت اور امت کے سردار ہیں اور آپ کے آل و اصحاب پر جو حق کی طرف لانے والے اور مخلوق کے راہنما ہیں اور بیت بیت سلام ہو۔

حمد و صلوات کے بعد۔ حج اسلام کے ارکان اور بنیادی امور میں سے ہے یہ عمر بھر کی عبادت، انجام کار تکمیل اسلام اور دین کا کمال ہے اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی ہے: ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ﴾ (۱)

آج کے دن ہم خطے تمہارے سے یعنی تمہارے سے دین کو مکمل کیا تم پر اپنی نعمت کو پورا کیا اور تمہارے لیے دین کو (۲)

(۱) صحیح مسلم ج ۱ ص ۱۱۶ (۲) صحیح مسلم ج ۱ ص ۱۱۶

اسلام کو پسند کیا۔

الرَّشِدَ مَدِينًا (۱)

اور اسی کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
مَنْ مَاتَ وَكَفَرًا يَجِيءُ فَلَيْمَتْ اِنْ شَاءَ
وہ چاہے تو یہودی ہو کر مرے اور چاہے تو عیسائی ہو
یہودی یا وان شَاءَ نَصْرَانِيًا (۲)
کر مرے۔

تو اس عبارت کی کس قدر عظمت ہے کہ اس کے نہ ہونے سے دین کا کمال ختم ہو جاتا ہے اور اس کو چھوڑنے
والا مگر اسی میں یہودیوں اور عیسائیوں کی طرح ہے تو اب یہ بات نہایت مناسب ہے اپنے ارادے کی لگام کو اس کی
مشریح ارکان کی تفصیل، مستحبات، فضائل اور حکومتوں کے بیان کی طرف پھیری جائے بعد یہ تمام باتیں توفیق
دادندی سے تین بابوں میں واضح ہو جائیں گی۔

پہلا باب :- حج کی فضیلت، مکہ مکرمہ، بیت اللہ شریف کے فضائل اس کے تمام ارکان، اور وجوب کی شرائط
کے بارے میں ہے :-

دوسرا باب :- اس کے ظاہری اعمال جو سفر سے لے کر واپسی تک ہیں، بالترتیب بیان ہوں گے۔

تیسرا باب :- اس کے باریک آداب پوشیدہ اسرار اور باطنی اعمال کے بارے میں ہے۔

پہلا باب

ہم پہلے باب سے شروع کرتے ہیں اور اس میں دو فصلیں ہیں۔ پہلی فصل حج کے فضائل، بیت اللہ شریف، مکہ مکرمہ
اور مدینہ طیبہ اللہ تعالیٰ ان دو مقدس مقامات کی حفاظت فرمائے، کے فضائل اور مساجد کی طرف جانے کے قصد و
ارادہ کے بیان میں ہے۔

پہلی فصل :-

فضیلت حج

اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

اور اسے ابراہیم علیہ السلام، آپ لوگوں میں حج کا اعلان
کر دیجئے آپ کے پاس پیدل اور کمزور اور نمینوں پر

وَاذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا
وَعَلَى كُلِّ ضَلَأٍ مِّنْ كُلِّ فَجٍّ

(۱) قرآن مجید، سورہ ماڈہ آیت ۲

(۲) جامع تفسیر جلد اول ص ۱۴۰ ابواب الحج

تعمیق (۱)

ہر دور کے راستے سے اُپڑ گئے۔

حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حبیب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا اللہ تعالیٰ کی رحمت ان پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ہر مختار بندے پر ہو کہ لوگوں میں حج کا اعلان کریں تو آپ نے پکارا "اے لوگو! اللہ تعالیٰ نے ایک گھر بنایا جسے تو تم اس کا حج کرو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔

لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ ۗ (۲)

تاکہ وہ اپنے منافع کے لئے حاضر ہوں۔

کہا گیا ہے کہ اس سے مراد موسم حج کی تجارت اور آخرت کا اجر ہے۔

اور جب بعض بزرگوں نے یہ بات سنی تو فرمایا رب کعبہ کی قسم ان کی بخشش ہو گئی اور اللہ تعالیٰ کے ارشاد گرامی۔

لَا تَعُدَّنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ۔

شیطان نے کہا میں ضرور یضروان کے سپرد ہے

راستے پر بیٹھوں گا۔

(۳)

کی تفسیر میں کہا گیا کہ اس سے ملکہ مکرمہ کا راستہ مراد ہے اس پر شیطان بیٹھتا ہے تاکہ لوگوں کو اس سے روکے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

مَنْ حَجَّ الْبَيْتَ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَا يَسُوقْ خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمٍ وَّكَذَلِكَ أُمَّةٌ۔ (۴)

جس نے بیت اللہ شریف کا حج کیا اور اس میں نہ تو بے حیالی کی بات کی اور نہ گناہ کیا تو وہ اپنے گناہوں سے اس طرح باہر آئے گا جس طرح وہ بچہ جسے اس کی ماں نے

را بھی بنا ہوا

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا۔

مَا رَوَى الشَّيْطَانُ فِي يَوْمٍ اصْغَرَ وَلَا اَدْحَرَ وَلَا احْقَرَ وَلَا اعْيَطَ هَذِهِ يَوْمَ عَرَفَةَ۔ (۵)

شیطان، یوم عرفہ میں جس قدر ذلیل، رانڈہ ہوا، حقیر اور غضب ناک ہوتا ہے ایسا کبھی نہیں دیکھا گیا۔

(۱) قرآن مجید، سورہ حج آیت ۲۷

(۲) قرآن مجید، سورہ حج آیت ۲۸

(۳) قرآن مجید، سورہ اعراف آیت ۱۶

(۴) صحیح مسلم جلد اول ص ۳۶، کتاب الحج

(۵) الدر المنثور جلد اول ص ۲۲۸ تحت آیت استغفر اللہ

اور یہ اس لیے ہوتا ہے کہ وہ رحمت کا نزول دیکھتا ہے نیز اللہ تعالیٰ بڑے بڑے گناہوں کو مہلت کر دیتا ہے اسی لیے کہا جاتا ہے۔

إِنَّ مِنَ الذَّنُوبِ ذُنُوبًا يُكَفِّرُهَا إِلَّا
الْوَقُوفَ بِعَرَفَاتٍ (۱)

کچھ گناہ ایسے ہیں جو صرف وقوف عرفات سے مٹتے ہیں

اس حدیث کو حضرت جعفر بن محمد رضی اللہ عنہما نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیا ہے۔ بعض مفسرین اہل مکاشفہ نے دیکھا کہ عرفات میں شیطان ملعون اس کے سادھے ایک آدمی کی صورت میں پیش کیا گیا کہ وہ دبلا پتلا ہے رنگ زرد ہے، گریباں ختم ہے اور اس کی پیٹھ ٹوٹی ہوئی ہے اس بزرگ نے پوچھا تو کیوں رویا ہے؟ اس نے کہا اس لیے کہ حاجی حضرات تجارت کے بغیر اس کی طرف نکلے ہیں اور میں کہتا ہوں انہوں نے تو صرف اللہ تعالیٰ کا ہی قصد کیا ہے مجھے ڈر ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں رسوا نہیں کرے گا۔ اس بات پر غمگین ہوں انہوں نے پوچھا کہ تیرا جسم کیوں کمزور ہے اس نے جواب دیا اللہ کی راہ میں گھوڑوں کے ہنھانے کی وجہ سے، اگر یہ میرے راستے میں ہوتے تو مجھے یہ بات زیادہ پسند تھی۔ انہوں نے پوچھا تیرا رنگ کیسے بدل گیا اس نے کہا عبادت پر لوگوں کی ایک دوسرے کی مدد کرنے کی وجہ سے، پوچھا تیری پیٹھ کس طرح ٹوٹ گئی اس نے کہا اس لیے کہ بندہ کہتا ہے اے اللہ! میں تجھ سے اچھے خاتمے کا سوال کرتا ہوں میں کہتا ہوں ہائے افسوس یہ کب اپنے عمل پر اتراؤں گا مجھے ڈر ہے کہ اسے کہیں یہ بات معلوم نہ ہو جائے کہ اپنے عمل پر اترا نا نہیں چاہیے بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید رکھتی چاہیے

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

مَنْ خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ حَاجًّا أَوْ مُعْتَمِرًا
فَمَاتَ أُجْرِي لَهُ أَجْرُ الْحَاجِّ الْمُعْتَمِرِ
إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ مَاتَ فِي أَحَدَى
الْحَرَمَيْنِ كَمُيَعَّرٍ وَكَمُيَحْسَبٍ
وَقَبِيلٍ لَمْ يَدْخُلِ الْجَنَّةَ (۲)

جو شخص اپنے گھر سے حج یا عمرہ کی غرض سے نکلے اور مر جائے تو اسے قیامت تک حج و عمرہ کرنے والے کا اجر دیا جاتا رہے گا اور جو شخص حرمین طیبین میں سے ایک حرم شریف میں انتقال کر جائے تو اسے نہ تو حساب کے لیے پیش کیا جائے گا اور نہ اس کا حساب ہوگا اور کہا جائے گا جنت میں داخل ہو جا۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

(۱) قوت القلوب جلد دوم ص ۱۲۰ کتاب الحج

(۲) شعب الایمان جلد ۲ ص ۲، ۳، حدیث ۱۰۰، السنن الیکبری للبیہقی جلد ۵ ص ۲۴۴ کتاب الحج

مقبول حج ، دنیا اور جو کچھ اس میں ہے ، سے بہتر ہے اور مقبول حج کی جزا جنت ہی ہے۔

حَجَّةٌ مَبْرُورَةٌ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا
وَحَجَّةٌ مَبْرُورَةٌ لَيْسَ لَهَا جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةُ (۱)

حج اور عمرہ کرنے والے اللہ تعالیٰ کا وفد اور اس کی زیارت کرنے والے ہیں اگر وہ اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگیں تو وہ عطا کرتا ہے اور بخشش طلب کریں تو وہ انہیں بخش دیتا ہے اور اگر دعا مانگیں تو وہ قبول کرتا ہے اگر کسی کی شفاعت کریں تو ان کی شفاعت قبول ہوتی ہے۔

اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:
الْحَجَّاجُ وَالْعَمَّارُ وَفَدَاؤُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَرُؤَاكُمَا
وَإِنْ سَاءَ لَوْهٌ أَعْطَاهُمْ وَإِنْ
اسْتَعْفَرُوا غُفِرَ لَهُمْ وَإِنْ دَعَوْا
اسْتَجِيبَ لَهُمْ وَإِنْ شَفَعُوا
شَفَعُوا (۲)

ایک سند حدیث میں جو اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے طریقے سے مروی ہے یوں ہے۔
وہ شخص لوگوں میں سے سب سے بڑا گناہ گار ہے جو عرفات میں کھڑا ہو اور یہ خیال کرے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت نہیں فرمائی۔

أَكْبَرُ النَّاسِ ذُنُوبًا مَنْ وَقَفَ بِعَرَفَاتٍ
فَطَنَّ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى كَمَا يُغْفِرُ لَهُ (۳)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ تھے فرمایا،
اس بیت اللہ شریف پر ہر دن ایک سو بیس رحمتیں نازل ہوتی ہیں ان میں سے ساٹھ طواف کرنے والوں کے لیے چالیس نماز پڑھنے والوں اور بیس بیت اللہ شریف کی زیارت کرنے والوں کے لیے ہیں۔

يُنزَلُ عَلَى هَذَا الْبَيْتِ مِنْ كُلِّ يَوْمٍ مِائَةٌ
وَعِشْرُونَ رَحْمَةً سِتُونَ لِمَطَائِفِ بْنِ
وَأَرْبَعُونَ لِلْمُصَلِّينَ وَعِشْرُونَ
لِلنَّاطِرِينَ (۴)

اور حدیث شریف میں ہے:

بیت اللہ شریف کا طواف کثرت سے کیا کرو کیونکہ یہ ان میں سے سب سے زیادہ قدر و منزلت والا ہے جنہیں

اسْتَكْتَبُوا مِنَ الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ فَإِنَّ
مِنْ أَجْلِ شَيْءٍ تَجِدُ وَنَهْ فِي صُحُفِكُمْ

(۱) صحیح مسلم جلد اول ص ۲۶ کتاب الحج

(۲) سنن کبریٰ للبیہقی جلد ۵ ص ۲۶۲ کتاب الحج

(۳) الفردوس باثر الخطاب جلد اول ص ۲۵۹ حدیث ۱۲۵۲

(۴) صحیح الزوائد جلد ۳ ص ۲۹۲ کتاب الحج

یَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاعْبُدْ عَمَلٍ تَجِدُ وَنَدَّ -
 تو تم قیامت کے دن اپنے نامہائے اعمال میں پاؤ گے اور
 تمہارے اعمال میں سے سب سے زیادہ قابل رشک ہے۔

(۱)

اسی لیے حج اور عمرہ کے شروع میں طواف مستحب (سنت) ہے اور ایک حدیث شریف میں ہے۔
 مَنْ طَافَ أُسْبُوعًا حَافِيًا حَاسِرًا كَانَ
 لَهُ كَعْتَقِ رَقَبَةٍ وَمَنْ طَافَ أُسْبُوعًا
 فِي الْمَطَرِ غُفِرَ لَهُ مَا سَلَفَ مِنْ ذَنْبِهِ -
 جو شخص طواف کے سات چکر ننگے پاؤں ننگے
 سر لگائے اسے ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے
 گا۔ اور جو آدمی بارش میں طواف کے سات چکر لگائے
 اس کے گزشتہ گنہ بخش دیئے جائیں گے۔

(۲)

اور کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب عرفات میں کسی بندے کے گناہ بخش دیتا ہے تو جو شخص اس جگہ پر پہنچتا ہے اس کے
 گناہ بھی بخش دیتا ہے۔

کسی بزرگ نے فرمایا کہ جب عرفہ (نویں ذوالحجہ) کا دن جمعہ المبارک کو آجائے تو تمام اہل عرفات کی بخشش ہو جاتی ہے
 اور یہ دن زبوی ایام سے افضل ہے اور اسی دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع ادا فرمایا اور آپ حالتِ وقوف
 میں تھے جب یہ آیت نازل ہوئی (۳)

آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل
 کر دیا اور تم پر اپنی نعمت کو پورا کیا۔ اور تمہارے لیے
 دینِ اسلام کو پسند کیا۔
 الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ
 عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ
 دِينًا (۴)

اہل کتاب نے کہا اگر یہ آیت ہم پر نازل ہوتی تو ہم اس دن کو عید کا دن بنا دیتے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے
 فرمایا میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ آیت دو عیدوں کے دن یعنی ایک عرفہ اور دوسرا جمعہ المبارک کے دن نبی اکرم صلی اللہ
 علیہ وسلم پر اس وقت نازل ہوئی جب آپ عرفات میں وقوف فرما رہے تھے۔

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی ہے۔

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْحَاجِرِ وَلِلْمَسْكِينِ اسْتَغْفِرُكَ
 اے اللہ! حج کرنے والے کو بخش دے اور جس کے لیے

(۱) المستدرک للحاکم جلد اول ص ۴۴۴ کتاب الحج المناسک

(۲) مستد امام احمد بن حنبل جلد ۲ ص ۹۵ مرویات ابن عمر رضی اللہ عنہما۔

(۳) صحیح بخاری جلد ۲ ص ۶۶۲ کتاب التفسیر

(۴) قرآن مجید، سورہ ماڈہ آیت ۲

حاجی بخشش مانگے اسے بھی بخش دے۔

واقعات میں منقول ہے کہ حضرت علی بن موقوف رحمہ اللہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کئی حج کئے اور فرمایا کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا آپ نے مجھ سے فرمایا اسے ابن موقوف! تم نے میری طرف سے حج کئے ہیں، میں نے عرض کیا جی ہاں، فرمایا تم نے میری طرف سے تلبیہ کہا، میں نے عرض کیا جی ہاں، آپ نے فرمایا میں قیامت کے دن تمہاری طرف سے کفایت کروں گا میں موقت میں تیرا ہاتھ پکڑ کر تجھے جنت میں داخل کروں گا اور ابھی لوگ حساب کے سختی میں ہوں گے حضرت مجاہد اور دوسرے علماء رحمہم اللہ نے فرمایا کہ حاجی صاحبان جب مکہ مکرمہ میں آتے ہیں تو فرشتے ان سے ملاقات کرتے ہیں وہ اونٹ پر سوار حاجیوں کو سلام کرتے اور دروازہ گوش پر سوار حضرات سے مصافحہ کرتے ہیں اور جو لوگ پیدل ہوتے ہیں ان سے گلے ملتے ہیں۔

حضرت حسن رحمہ اللہ نے فرمایا جو آدمی رمضان المبارک کے بعد یا جہاد یا حج کے بعد انتقال کر جائے وہ شہادت کا درجہ پاتا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا حج کرنے والے اور شب کے لیے وہ بخشش مانگے ذوالحجہ محرم، صفر اور ربیع الاول کے بیس دنوں میں ان کی بخشش ہوتی ہے۔

بزرگوں کے طریقے میں سے ہے کہ وہ مجاہدین کو رخصت کرتے اور حاجیوں کا استقبال کرتے ہیں ان کے گناہوں سے آلودہ ہونے سے پہلے پہلے یہ کام کرتے ہیں۔

حضرت علی بن موقوف سے مروی ہے فرماتے ہیں میں نے ایک سال حج کیا جب نو ذوالحجہ کی رات ہوئی تو میں منیٰ کی مسجد حنیف میں سو گیا خواب میں دیکھا کہ گویا دو فرشتے آسمان سے اترے ہیں اور ان پر سبز کپڑے ہیں ان میں ایک اپنے ساتھی کو پکارتا ہے اے عبداللہ! دوسرے نے کہا اے اللہ! میں حاضر ہوں اس نے کہا تمہیں معلوم ہے اس سال ہمارے رب کے گھر کا کتنے لوگوں نے حج کیا اس نے کہا حج معلوم نہیں اس نے کہا چھ لاکھ آدمیوں نے ہمارے رب کے گھر کا حج کیا ہے تمہیں معلوم ہے کہ ان میں سے کتنے لوگوں کا حج منظور ہوا؟ اس نے کہا مجھے معلوم نہیں، دوسرے فرشتے نے کہا صرف چھ آدمیوں کا حج قبول ہوا۔ پھر وہ دونوں اوپر چلے گئے اور مجھ سے پوشیدہ ہو گئے میں گھبرا کر اٹھا اور بہت زیادہ غمگین ہو گیا مجھے میرے اپنے معاملے نے پریشان کر دیا میں نے سوچا جب صرف چھ آدمیوں کا حج قبول ہوا تو میں ان چھ میں کہاں ہوں گا جب میں عرفات سے واپس آیا تو شعر حرام کے پاس کھڑا ہو گیا اور لوگوں کی کثرت اور ان لوگوں کی قلت کے بارے میں سوچنے لگا جن کا حج قبول ہوا پھر مجھ پر نیند غالب آگئی تو دیکھا دو آدمی آسمان سے اترے وہ ان پہلے دو کی شکل پر تھے ان میں سے ایک نے دوسرے کو مخاطب کیا اور پھر اسی طرح کا کلام کیا پھر کہا

نہیں معلوم ہے اس رات ہمارے رب کا کیا حکم ہے؟ دوسرے نے کہا نہیں اس نے کہا اللہ تعالیٰ نے ان چھہ میں سے ہر ایک کو ایک لاکھ دسے دیئے فرماتے ہیں میں بیدار ہوا تو مجھے اتنی خوشی ہو جو بیان سے باہر ہے۔
 ان ہی سے منقول ہے فرماتے ہیں میں نے ایک سال حج کیا جب میں مناسک حج مکمل کر چکا تو ان لوگوں کے بارے میں متفکر ہوا جن کا حج مقبول نہیں ہو گا میں نے عرض کیا اے اللہ! میں نے اپنا حج اور اس کا ثواب ان لوگوں کو دے دیا جن کا حج مقبول نہیں ہو گا فرماتے ہیں میں نے خواب میں رب العزت کو دیکھا اس نے مجھے فرمایا۔
 اے علی! مجھ پر سخاوت کرتا ہے حالانکہ میں نے سخاوت اور سخیوں کو پیدا کیا، میں سب سے زیادہ سخاوت کرنے والا اور سب سے زیادہ بخشنے والا ہوں اور تمام جہانوں والوں کی نسبت سخاوت و کرم کا زیادہ حق رکھتا ہوں میں نے ان تمام لوگوں کو جن کا حج قبول نہیں کروں گا ان کے حوائج کو دیا جن کا حج قبول کروں گا۔

بیت اللہ شریف اور مکہ مکرمہ کی فضیلت

اللہ تعالیٰ نے اس گھر سے وعدہ فرمایا کہ ہر سال چھ لاکھ آدمی اس کا حج کریں گے اگر کم ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ انہیں فرشتوں کے ذریعے پورا کرے گا اور قیامت کے دن اکبۃ اللہ کو پہلی رات کی دامن کی طرح اٹھائے گا اور جن جن لوگوں نے اس کا حج کیا وہ اس کے پردوں سے لٹکے ہوں گے اور اس کے گرد چکر لگا رہے ہوں گے حتیٰ کہ وہ جنت میں داخل ہو گا اور وہ لوگ بھی اس کے ساتھ داخل ہوں گے۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
 إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ وَعَدَ هَذَا الْبَيْتَ
 أَنْ يَحْجَّ فِي كُلِّ سَنَةٍ سِتْمِائَةَ أَلْفٍ
 فَإِنْ تَقَصَّوْا أَمَلَهُمْ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ
 الْمَلَائِكَةِ، وَإِنَّ الْكَعْبَةَ تُحْتَرُّ بِالْعَرُوسِ
 الْمَرْفُوقَةِ وَكُلُّ مَنْ حَجَّهَا يَتَعَلَّقُ
 بِأَسْتَارِهَا يَشْعُونَ حَوْلَهَا حَتَّى تَدْخُلَ
 الْجَنَّةَ فَيَدْخُلُونَ مَعَهَا۔

(۱)

بے شک حجر اسود جنت کے یا قوتوں میں سے ایک یا قوت ہے اور وہ قیامت کے دن اس طرح اٹھایا جائے گا کہ اس کی دو آنکھیں اور ایک زبان ہوگی جس کے ذریعے

ایک حدیث شریف میں ہے:
 إِنَّ الْحَجَرَ الْأَسْوَدَ يَأْتِي قُوَّةً مِنْ يَوَاقِيتِ
 الْجَنَّةِ وَأَنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِدَعْوَانِ
 عَيْنَانِ وَلِسَانٍ يَنْطَوِي بِهِ يَشْهَدُ كُلِّ مَنْ

اِسْتَعْمَهُ بِحَقِّ وَصِدْقٍ (۱)

وہ کلام کرتے کا اور ہر اس شخص کے لیے گواہی دے گا
جس نے اسے حق و صداقت کے ساتھ بوسہ دیا۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حجر اسود کو بہت زیادہ بوسہ دیا کرتے تھے۔ (۲)

ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر سجدہ کیا۔ (۳)

اور آپ اپنی اونٹنی پر طواف کرتے ہوئے اپنے عصا مبارک کا مڑا ہوا کنارہ اس پر رکھ دیتے اور پھر اس کنارے کو بوسہ دیتے (۴)

حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اسے بوسہ دیا پھر فرمایا ہے شک میں جانتا ہوں کہ تو پتھر ہے نہ نقصان دے سکتا ہے اور نہ نفع اور اگر میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھا ہوتا کہ آپ نے مجھے بوسہ دیا تو میں کبھی بھی مجھے بوسہ نہ دیتا پھر آپ رو پڑے حتیٰ کہ آپ کے رونے کی آواز بلند ہو گئی پھر پیچھے مڑ کر دیکھا تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ پر نظر پڑی فرمایا اسے ابوالحسن یہاں آنسو گراتے جاتے ہیں اور دعائیں قبول ہوتی ہیں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اسے امیر المؤمنین یہ نفع بھی دیتا ہے اور نقصان بھی، فرمایا کس طرح؟ تو انہوں نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ سے اولاد آدم (علیہ السلام) سے وعدہ لیا تو ان پر ایک تحریر لکھ کر اس پتھر کو کھادی تو یہ مومن پر وفا کے عہد اور کافر کے خلاف اس کے انکار گواہی دے گا۔ (۵)

کہا گیا ہے اس کو بوسہ دیتے وقت جو یہ کلمات پڑھے جائے ہیں ان کا یہی مطلب ہے وہ کلمات یہ ہیں۔

اَللّٰهُمَّ اِيْمَانًا بِكَ وَتَصَدِيقًا بِكِتَابِكَ
وَوَفَاءً بِعَهْدِكَ۔
اے اللہ! میں تجھ پر ایمان لائے ہوئے تیری کتاب کی
تصدیق کرتے ہوئے اور تیرے وعدے کو پورا کرتے
ہوئے (اسے بوسہ دیتا ہوں)

حضرت حسن بصری رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ مکہ بکریمہ میں ایک دن کاروزہ ایک لاکھ روزوں کے برابر ہے ایک درہم کا صدقہ ایک لاکھ درہموں کے برابر ہے اسی طرح ہر نیکی ایک لاکھ کے برابر ہے اور کہا گیا ہے کہ سنات طواف (کل انچاس چکر) ایک عمر کے برابر ہیں اور تین عمر کے برابر ہیں۔

(۱) جامع ترمذی جلد اول ص ۱۴۸ ابواب الحج

(۲) صحیح مسلم جلد اول ص ۱۳۳ کتاب الحج

(۳) المستدرک للحاکم جلد اول ص ۵۵ کتاب المناسک۔

(۴) صحیح مسلم جلد اول ص ۱۳۳ کتاب الحج

(۵) المستدرک للحاکم جلد اول ص ۵۴ کتاب المناسک۔

ماہ رمضان المبارک میں عمرہ کرنا میرے ساتھ (حنور علیہ السلام کے ساتھ) حج کی طرح ہے۔

سب سے پہلے میرے لیے زمین پھٹے گئی پھر جنت البقیع والوں کے پاس جاؤں گا تو وہ میرے ساتھ اٹھیں گے پھر میں اہل مکہ کے پاس جاؤں گا تو دونوں عمروں کے درمیان میرا حشر ہوگا۔

جب آدم علیہ السلام نے مناسک حج مکمل کر لیے تو فرشتوں نے ان سے ملاقات کر کے کہا اے آدم علیہ السلام آپ کا حج مقبول ہوا ہم نے آپ سے دو ہزار سال پہلے اس گھر کا حج کیا۔

اللہ تعالیٰ ہر رات زمین والوں کی طرف نظر فرماتا ہے تو سب سے پہلے جن کی طرف نظر فرماتا ہے وہ حرم وائے میں اور حرم ولوں میں سے سب سے پہلے مسجد حرام والوں کی طرف نظر فرماتا ہے تو جسے طوان کرتے ہوئے دیکھتا ہے اسے بخش دیتا ہے اور جس کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھتا ہے اسے بخش دیتا ہے اور جس کو کعبۃ اللہ کی طرف رخ کئے ہوئے کھڑا دیکھتا ہے اسے بھی بخش دیتا ہے۔

ایک صحیح حدیث میں ہے۔
عُمْرَةٌ لِي فِي رَمَضَانَ كَحَجَّةٍ مَعِيَ (۱)

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
أَنَا أَوَّلُ مَنْ تَشَقُّ عَنْهُ الْأَرْضُ ثُمَّ
أَتَى أَهْلَ الْبَقِيعِ يَحْشُرُونَنِي ثُمَّ
أَتَى أَهْلَ الْمَكَّةِ فَأَحْشُرُ بَيْنَ
الْحَرَمَيْنِ - (۲)

ایک حدیث شریف میں ہے:
إِنَّ أَدَمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا قَضَى
مَنَاسِكَ لِقَيْتُهُ الْمَلَائِكَةُ فَقَالُوا
بَرَّحَجَّتْ يَا أَدَمُ لَقَدْ حَجَّجْنَا هَذَا
الْبَيْتَ قَبْلَكَ بِالْفِي عَامٍ - ایک روایت میں ہے۔ اس گھر کا حج کیا۔

إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَنْظُرُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ إِلَى أَهْلِ
الْأَرْضِ فَأَوَّلُ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْهِ أَهْلُ الْحَرَمِ
وَأَوَّلُ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْهِ مِنْ أَهْلِ الْحَرَمِ أَهْلُ
الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَمَنْ رَأَاهُ طَائِفًا غَفَرَ لَهُ
وَمَنْ رَأَاهُ مُفْتَدًا غَفَرَ لَهُ وَمَنْ رَأَاهُ قَائِمًا
مُسْتَقْبِلَ الْكَعْبَةِ غَفَرَ لَهُ -

(۳)

(۱) المستدرک للحاکم جلد اول ص ۵۷ کتاب المناسک۔

(۲) المستدرک للحاکم جلد ۲ ص ۲۶۷ کتاب التفسیر۔

(۳) قوت القلوب جلد ۲ ص ۲۱ کتاب الحج۔

(۴) قوت القلوب جلد ۲ ص ۲۱ کتاب الحج۔

کسی دل کو کشف ہو تو وہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ تمام وادیوں کے کشارہ مقامات جزیرہ عبادان کو مسجد کر رہے ہیں اور عبادان، جدہ کو مسجد کر رہا ہے اور کہا جاتا ہے کہ جب تک ابدال میں سے ایک شخص اس گھر کا طواف نہ کرے اس دن کا سورج غروب نہیں ہوتا اور رات سے فجر طلوع نہیں ہوتی جب تک اوتاد میں سے کوئی اس کا طواف نہ کرے اور جب یہ سلسلہ ختم ہو جائے گا تو یہی اس (کعبۃ اللہ) کے زمین سے اٹھ جائے گا سبب ہو گا لوگ صبح کریں گے تو کعبہ شریف اٹھار یا گیا ہو گا وہ اس کا نشان تک نہ دیکھیں گے اور یہ بات اس وقت ہوگی جب سات سال تک کعبہ اللہ کا حج نہ ہوگا پھر قرآن پاک کو مصاحف میں سے اٹھایا جائے گا لوگ صبح اٹھیں گے تو کاغذ سفید چمکتے ہوں گے اور ان پر صوف نہیں ہوں گے پھر قرآن پاک کو دلوں سے نکالا جائے گا تو اس کا ایک کلمہ بھی یاد نہیں رہے گا پھر لوگ اشعار، گانوں اور دور جاہلیت کی خبروں کی طرف رجوع کریں گے اس کے بعد دجال نکلے گا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے اور اس کو قتل کر دیں گے اس وقت قیامت اتنی قریب ہوگی جیسے عورت کے ہاں بچہ پیدا ہونے کی توقع کا وقت ہوتا ہے۔

ایک حدیث شریف میں ہے :

اس بیت ابد شریف کے اٹھائے جانے سے پہلے اس کا بہت طواف کرو یہ دو مرتبہ گرایا گیا اور تیسری مرتبہ اٹھایا جائے گا۔

اسْتَكْتَرُوا مِنْ اَطْوَافِ لِهَذَا الْبَيْتِ
قَبْلَ اَنْ يُدْفَعَنَّ قَدَمَهُمَا مَدْرَتَيْنِ وَبِيْرَفٍ
فِي الْبَالِثَةِ - (۱)

اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا :-

میں جب دنیا کو ختم کرنے کا ارادہ کروں گا تو اپنے گھر سے ابتدا کروں گا پس اسے بے آباد کر کے پھر اس کے بعد دنیا کو ختم کر دوں گا۔

اِذَا رَدْتُ اَنْ اُخْرِبَ الدُّنْيَا بَدَأْتُ
بِنَبِيِّيْ فَخَرَّبْتُهُ ثُمَّ اُخْرِبُ الدُّنْيَا عَلَيَّ
اَثَرُهُ (۲)

مکہ مکرمہ (اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے) میں ٹھہرنے کی فضیلت اور کرامت

ڈرنے والے اور محتاط علماء کرام نے تین وجہ سے مکہ مکرمہ میں ٹھہرنا پسند نہیں کیا۔

(۱) المستدرک للحاکم جلد اول ص ۴۴ کتاب المناسک

(۲) قوت القلوب جلد ۲ ص ۱۲۶، ۲۳۳ کتاب الحج

۱۔ وہاں ٹھہرتے سے اکتا جانے اور بیت اللہ شریف سے اٹس پیدا ہونے کا خوف ہو کیونکہ یہ بات بعض اوقات احرام کے سلسلے میں دل کی حرارت کو مٹا دیتی ہے اسی سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ حاجیوں کو حج کے بعد مارتے تھے اور فرماتے تھے میں والوایمن کو جاؤ، اسے اہل شام ایشام کی طرف جاؤ اسے عراقیوں عراق کی طرف جاؤ اور اسی لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو زیادہ طواف کرنے سے روکنے کا ارادہ فرمایا اور فرمایا مجھے ڈر ہے کہ کہیں لوگوں کو بیت اللہ شریف سے اٹس نہ ہو جائے۔

۲۔ وہاں سے جدا ہونے کی وجہ سے دوبارہ آنے کا شوق پیدا ہوتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کعبۃ اللہ کو لوٹنے اور امن کی جگہ بنایا ہے یعنی وہ اس کی طرف بار بار آئیں اور اپنی حاجت کو اس سے پوری نہ کر سکیں۔ بعض علماء کرام نے فرمایا کہ تم اپنے شہر میں ہو اور تمہارا دل مکہ مکرمہ کا مشتاق ہو اور اس گھر سے لگا ہوا ہو تو یہ بات تمہارے لیے اس بات سے بہتر ہے کہ تم اس (مکہ مکرمہ) میں ہو اور اس سے اکتا جاؤ اور تمہارا دل کسی دوسرے شہر میں ہو۔

بعض بزرگوں نے فرمایا کتنے ہی لوگ خراسان میں ہیں اور طواف کرنے والوں کی نسبت وہ اس گھر کے زیادہ قریب ہیں۔ اور کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ بندے ایسے ہیں کہ کعبۃ شریف اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ان بندوں کا طواف کرتا ہے۔

۳۔ اس خوف سے (وہاں ٹھہرنا ناپسندیدہ ہے) کہ کہیں گناہ اور خطاؤں کا ارتکاب نہ ہو جائے اور یہ بہت خطرناک ہے اور اس بات کے لائق ہے کہ اس مقام کی شرافت کے باعث یہ شخص اللہ تعالیٰ کے غضب کا نشانہ بنے۔

حضرت وہیب بن وردی رحمہ اللہ سے منقول ہے فرماتے ہیں میں ایک رات حطیم میں نماز پڑھ رہا تھا تو میں نے کعبۃ اللہ اور اس کے پیروں کے درمیان سے کلام سنا کہ اے جبریل ہمیرے گرد طواف کرتے والے جو دنیوی باتیں سوچتے اور لغو بے ہودہ باتیں کرتے ہیں تو میں اللہ تعالیٰ سے اور پھر تم سے اس کی شکایت کرتا ہوں اگر وہ اس سے باز نہ آئے تو میں ایسی انگڑائی لوں گا کہ میرا سر تھیرا اس پہاڑ پر چلا جائے گا جہاں سے اسے توڑ کر لایا گیا تھا۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مکہ مکرمہ کے علاوہ کوئی ایسا شہر نہیں جہاں بندے سے عمل کے بغیر محض نیت پر موافقہ ہوا اور انہوں نے یہ آیت پڑھی۔

وَمَنْ يُّدْرِقْهُ بِالْحَدِّ يَنْظُمِ نَدِيْقَهُ
مِنْ عَذَابٍ أَلِيْمٍ (۱)

اور جو آدمی اس شہر میں زیادتی کرتے ہوئے بے دینی کا ارادہ کرے تو ہم اسے دردناک عذاب چکھائیں گے۔

یعنی محض ارادے پر پکڑا لے گی۔ اور کہا جاتا ہے کہ نیکیوں کی طرح یہاں گناہوں کی سزا میں بھی اضافہ ہوتا ہے

کی زیارتوں کے لیے سفر کرنے سے منع کیا ہے لیکن میرے خیال میں یہ بات اس طرح نہیں بلکہ زیارت کا تو حکم دیا گیا ہے
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَذَرُوهَا
وَلَا تَقُولُوا هَجْدًا (۱)

میں تمہیں زیارت قبور سے روکا کرتا تھا پس (اب) زیارت
کو رو لیکن نامناسب گفتگو نہ کرو۔

یہ حدیث مساجد کے بارے میں آئی ہے (۲) اور مقامات مقدسہ اس معنی میں نہیں ہیں کیوں کہ ان تین مساجد کے علاوہ
تمام مساجد رثواب کے اعتبار سے برابر ہیں۔ اور شہر میں مسجد ہوتی ہے لہذا کسی دوسری مسجد کی طرف جانے کا کوئی
مطلب نہیں لیکن مقامات مقدسہ ایک جیسے نہیں ہیں۔ بلکہ ان کی زیارت کی برکت ان درجات کے مطابق ہوتی ہے جو انہیں
اللہ تعالیٰ کے ہاں حاصل ہیں ہاں اگر کسی جگہ مسجد نہ ہو تو اس شہر کی طرف جانا جس میں مسجد ہے جائز ہے، اور اگر چاہے
تو مکمل طور پر اس کی طرف منتقل ہو جائے، پھر مجھے معلوم نہیں کہ یہ منکر انبیاء کرام مثلاً حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ حضرت
یحییٰ اور دیگر انبیاء کرام علیہم السلام کے مزارات کی طرف جانے سے بھی منع کرے گا ان سے منع کرنا تو بہت محال ہے نہ
جب یہ جائز ہے تو انبیاء کرام علیہم السلام اور صلی و عظام کے مزارات بھی اسی معنی میں ہیں۔ لہذا یہ بات بعید نہیں کہ ان کی
طرف سفر کے اغراض میں سے ہو جیسے علماء کرام کی زندگی میں ان کی زیارت کے لیے سفر کرنا مقصود ہوتا ہے۔
جہاں تک مقام رٹھرنے کا تعلق ہے تو اگر مرید کے لیے سفر سے علم کا استفادہ مطلوب نہ ہو تو اپنے گھر
میں رہے جب کہ اپنے وطن میں ٹھہرنے میں سلامتی ہو۔

اگر وطن میں محفوظ نہ ہو تو ایسی جگہ تلاش کرے جہاں اسے کوئی نہ جانتا ہو اس کا دین زیادہ محفوظ رہے دل خارج
رہے اور عبادت میں آسانی ہو۔ اس کے لیے ایسی جگہ سب سے افضل ہے۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
الْبَلَدُ بِلَادِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَالْخَلْقِ
عِبَادَةٌ فَأَيُّ مَوْضِعٍ رَأَيْتَهُ فَيُنْفِقُ فِيهِ رَفْعًا

تمام شہر اللہ تعالیٰ کے شہر ہیں اور تمام مخلوق اس
کے بندے ہیں تم جس جگہ آسانی دیکھو وہاں ٹھہرو اور

(۱) سنن ابی داؤد جلد ۲ ص ۱۰۵ کتاب الجنائز۔

(۲) یہاں استثناء مساجد سے ہو رہی یعنی لا تشد الرحال الی مساجد الا الی ثلثہ مساجد مطلب یہ ہے کہ ان تین مساجد کے علاوہ تمام مساجد
میں ثواب برابر ہے لہذا اس نیت سے نہ جاؤ محض کسی مسجد کی زیارت یا بزرگان دین کے مزارات سے منع نہیں کیا گیا ان لوگوں
کو اپنے غلط عقیدے سے توبہ کرنی چاہیے جو کہتے ہیں کہ مسجد نبوی کے ارادے سے جائیں حضور علیہ السلام کے بروقتہ منظرہ کی
نیت سے نہ جائیں العبادۃ جلد ۱۲ ہزاروی۔

اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرو۔

فَاتِمَّةٌ وَأَحْمَدُ اللَّهُ تَعَالَى (۱)

ایک حدیث شریف میں ہے۔

مَنْ بَوَّأَكَ لَكَ فِي شَيْءٍ فَلْيَلْزِمَهُ وَمَنْ
جُعِلَتْ مَعِيشَتُهُ فِي شَيْءٍ فَلَا يَنْتَقِلُ
عَنْهُ حَتَّى يَتَغَيَّرَ عَلَيْهِ۔

(۲)

جس آدمی کو کسی چیز میں برکت دی جائے تو وہ اسے
اختیار کئے رکھے اور جس شخص کی روزی کسی چیز میں
کردی گئی تو وہ اس سے دوسری طرف منتقل نہ ہو جب
تک وہ ذریعہ معاش (خود نہ بدل جائے۔

حضرت ابو نعیم فرماتے ہیں میں نے حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ کو دیکھا انہوں نے اپنی تھیلی اپنے کاندھے پر رکھی
ہوئی تھی اور جوتے ہاتھ میں تھے۔ میں نے پوچھا اسے ابو عبد اللہ کہاں جا رہے ہیں؟ فرمایا میں ایسے شہر میں جا رہا ہوں
جہاں اپنی تھیلی کو درصموں سے بھر دوں گا۔ ایک دوسرے واقعہ میں ہے انہوں نے فرمایا مجھے معلوم ہوا کہ فلاں بستی
میں آسانی ہے وہاں ٹھہروں گا۔ میں نے کہا اسے ابو عبد اللہ! آپ ایسا کر رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا ہاں اور جب تم کسی
شہر میں ارزانی دیکھو تو وہاں کا ارادہ کرو اس سے تمہارا دین محفوظ ہوگا اور تمہارے تفکرات کم ہو جائیں گے وہ فرمایا کرتے
تھے یہ زمانہ برے لوگوں کا ہے اس میں گنہگار لوگ محفوظ نہیں رہ سکتے مشہور لوگوں کا کیا حال ہوگا یہ زمانہ انتقال ہے
آدمی اپنے دین کو فتنوں سے بچانے کے لیے ایک بستی سے دوسری بستی کی طرف منتقل ہوتا ہے۔

ان ہی کے بارے میں منقول ہے کہ انہوں نے فرمایا اللہ کی قسم میں نہیں جانتا کہ میں کس شہر میں سکونت اختیار کروں
تو ان سے کہا گیا ”خراسان میں“ فرمایا وہاں مختلف مذاہب اور فاسد آراء ہیں کہا گیا ”شام میں“ فرمایا تمہاری طرف انگلیوں
سے اشارہ کیا جائے گا یعنی شہرت ہوگی کہا گیا عراق میں فرمایا جا بر لوگوں کا ملک ہے کہا گیا مکہ مکرمہ میں تو فرمایا مکہ مکرمہ
عقل کو اور بدن کو تحلیل کر دیتا ہے ایک اجنبی شخص نے ان سے کہا کہ میں نے مکہ مکرمہ میں ٹھہرنے کی نیت کر لی ہے تو مجھے کوئی
تصیحت کیجئے انہوں نے فرمایا میں تجھے تین باتوں کی نصیحت کرتا ہوں پہلی صفت میں نماز مت پڑھنا، کسی قریشی کی صحبت
اختیار نہ کرنا اور صدقہ ظاہر نہ کرنا، پہلی صفت کو اس لیے ناپسند فرمایا کہ اس سے آدمی مشہور ہو جاتا ہے پس جب غائب
ہو تو اس کو گم پایا جاتا ہے یعنی اسے تلاش کیا جاتا ہے، اس طرح اس کے عمل میں تصنع و بناوٹ آجاتی
ہے۔

(۱) مستدام احمد بن حنبل جلد اول ص ۱۶۶ مرویات زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ

(۲) سنن ابن ماجہ ص ۱۵۶ ابواب التجارۃ

حج کی شرائط، اس کے ارکان و اجبا کی صحت اور ممنوعیت

شرائط | حج کے صحیح ہونے کی دو شرطیں ہیں (۱) وقت کا پایا جانا اور مسلمان ہونا پس بچے کا حج صحیح ہوتا ہے اگر وہ سمجھدار ہے تو خود نیت کرے اور اگر چھوٹا ہو تو اس کا ولی اس کی طرف سے نیت کرے اور اسے وہ تمام کام کروائے جو حج میں کئے جائے ہیں یعنی طواف اور سعی وغیرہ۔ — حج کا وقت شوال، ذی قعدہ اور ذوالحجہ کے نو دن ہیں اور قربانی کے دن طلوع فجر تک کا وقت ہے تو جس نے اس مدت کے علاوہ حج کا احرام باندھا تو وہ عمرہ ہوگا اور عمرے کا وقت پورا سال ہے لیکن جو شخص منیٰ کے دنوں میں حج کے احکام کا پابند ہوا سے عمرے کا احرام نہیں باندھنا چاہیے کیوں کہ وہ منیٰ کے مناسک کی ادائیگی میں مشغولیت کی وجہ سے عمرے کے افعال ادا نہیں کر سکے گا۔ حج اسلام کے وقوع کے لیے پانچ شرائط میں اسلام، آزادی، بالغ ہونا عقل اور وقت۔

اگر بچے یا غلام نے احرام باندھا لیکن عرفات میں یا مزدلفہ میں غلام کو آزاد کر دیا گیا یا بچہ بالغ ہو گیا اور وہ عرفات کی طرف لوٹ گیا اور ابھی (دسویں ذوالحجہ کی) صبح طلوع نہ ہوئی تھی تو دونوں کی طرف سے اسلام کا حج (فرض حج) ادا ہو گیا کیوں کہ حج وقوف عرفات کا نام ہے اور ان پر صرف ایک بکری لازم ہوگی۔

(یعنی کوتاہی کا دم (ذبح) لازم نہ ہوگا) عمرے کے لیے بھی یہی شرائط ہیں البتہ اس میں وقت شرط نہیں۔ آزاد بالغ آدمی کی طرف سے نفلی حج کے وقوع کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ فرض حج سے فارغ ہو چکا ہو کیوں کہ فرض حج مقدم ہے پھر اس حج کی قضا ہے جسے حالت وقوف میں فاسد کیا پھر نذر کا حج پھر دوسرے کی نیابت میں حج کرنا اور اس کے بعد نفلی حج ہے، یہ ترتیب ضروری ہے اور حج اسی ترتیب سے واقع ہوگا اگرچہ اس کے خلاف نیت کرنے۔

صبح فرض ہونے کی شرائط پانچ ہیں بالغ ہونا، مسلمان ہونا، عاقل ہونا، آزاد ہونا اور طاقت رکھنا۔ جس آدمی پر فرض حج لازم ہو تو اس پر فرض عمرہ بھی لازم ہو جاتا ہے۔ راحات کے نزدیک عمرہ فرض نہیں ہوتا بلکہ وہ سنت ہے جب تک خود اپنے اوپر لازم نہ کرے (۱۲ ہزار روپی) جو شخص مکہ مکرمہ میں زیارت یا تجارت کی نیت سے داخل ہو اور لکڑیاں بیچنے والا نہ ہو تو ایک قول کے مطابق اس پر احرام لازم ہے پھر وہ عمرہ یا حج کے عمل کے ذریعے اس سے باہر آئے۔

استطاعت کی دو قسمیں ہیں ایک تو خود حج کرنے کے حوالے سے ہے اور یہ اس کے کئی اسباب ہیں اور وہ یا تو اس کی ذات سے متعلق ہے یعنی وہ تندرست ہو یا راستے سے متعلق ہیں کہ راستہ سرسبز اور امن والا ہو نہ تو سمندری خطرہ ہونہ ظالم دشمن ہو۔ اور مال سے متعلق استطاعت یہ ہے کہ جانے اور واپس وطن لوٹتے تک کے اخراجات اس کے پاس

پا ہے اس کے اہل و عیال ہوں یا نہ۔ کیوں کہ وطن کو چھوڑنا ناگوار ہوتا ہے۔ اور وہ اس دوران ان لوگوں کو بھی
فقہ دینے کی طاقت ہو جن کا فقہ اس کے ذمہ ہے فرض کے ادائیگی کے لیے بھی اس کے پاس مال ہو سواری یا اس کے
بے پر قادر ہو کجا وہ ہو یا سواری ہو اگر وہ اس پر ٹھہر سکتا ہو دوسری قسم اپنا بیج آدمی کی استطاعت ہے تو اس کی استطاعت
ہے کہ وہ اپنے مال سے دوسرے شخص کو حج پر بھیج سکے یعنی ایسے شخص کو حج پر بھیجنے کی طاقت رکھتا ہو جو اپنے فرض
سے فارغ ہو چکا ہو اور اس قسم میں جانے کے لیے سواری کا خرچ کافی ہے اگر اپنا بیج آدمی کا بیٹا باپ کی خدمت کے
بے تیار ہو جائے تو وہ استطاعت والا شمار ہوگا اور اگر بیٹا سے مال دے دے تو یہ استطاعت نہ ہوگی۔

کیوں کہ بدن کے ساتھ خدمت کرنا بیٹے کی سعادت و عزت ہے جب کہ اپنا مال خرچ کرنا باپ پر احسان کرنا ہے۔
اور جس شخص کو استطاعت حاصل ہو اس پر حج لازم ہو جاتا ہے اور اسے تاخیر کا بھی حق حاصل ہے لیکن اس میں
ملا ہے اور اگر آخری عمر میں بھی حج کرے تو اس لیے فرض ساقط ہو جائے گا اور اگر حج کرنے سے پہلے مر جائے تو ترک
کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے حالت گناہ میں ملاقات کرے گا۔ اور اب اس کے ترکہ سے حج ہوگا اگر وہ وصیت کر کے نہ
کے جس طرح اس کے دوسرے فرض ادا کئے جاتے ہیں اور اگر وہ کسی سال حج پر قادر ہو اور لوگوں کے ساتھ نہ گیا اور اس کا
ل اسی سال ہلاک ہو گیا جب کہ ابھی تک لوگوں نے حج نہیں کیا تھا تو اللہ تعالیٰ سے اس طرح ملاقات کرے گا کہ اس کے
بے حج نہیں ہوگا۔ اور جو آدمی طاقت کے باوجود حج نہ کرے اور مر جائے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا معاملہ نہایت سخت ہے،
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا:

”میں نے ارادہ کیا ہے کہ میں مختلف شہروں میں (وہاں کے) امراء کو لکھ دوں کہ جو شخص حج کی طاقت رکھنے کے
باوجود حج نہیں کرتا اس پر جزیہ (غیر مسلموں سے لی جانے والی رقم) نافذ کرو“ (۱)
حضرت سعید بن جبیر، حضرت ابراہیم نخعی، حضرت مجاور حضرت طاؤس رحمہم اللہ۔ میں سے ہر ایک نے یہ بات فرمائی۔
اگر مجھے کسی مالدار آدمی کا علم ہو جس پر حج واجب ہو پھر وہ حج کرنے سے پہلے مر جائے تو میں اس کی نماز جنازہ نہیں
پڑھوں گا۔

اور ان حضرات میں بعض کے پڑوسی نے طاقت کے باوجود حج نہیں کہا اور مر گیا تو انہوں نے اس کی نماز جنازہ نہیں
پڑھی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرمایا کرتے تھے ”جو شخص یوں مر جائے کہ اس نے زکوٰۃ نہیں دی اور نہ حج کیا تو
دنیا میں لوٹنے کا سوال کرے گا۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی پڑھا۔

(۱) گویا آپ نے بتایا کہ طاقت کے باوجود حج نہ کرنے والے شخص اور اہل کتاب میں کوئی فرق نہیں جس طرح حضور علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ
جو آدمی طاقت کے باوجود حج نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ کو اس بات کی پرواہ نہیں کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر ۱۲ ہزار دی۔

اے میرے رب مجھے واپس بھیج دے تاکہ میں اس
مال میں جو چھوڑا آیا ہوں، اچھے اعمال کرو۔

رَبِّ الرَّحْمٰنِ لَعَلِّيْ اَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا
فَرَّقْتُمْ (۱)

انہوں نے فرمایا کہ اس سے حج مراد ہے۔

وہ ارکان جن کے بغیر حج صحیح نہیں ہوتا وہ پانچ ہیں۔

ارکان حج

(۱) احرام (۲) طواف (۳) اس (طواف) کے بعد سعی (۴) وقوف عرفات اور اس کے بعد (۵) سرمنڈوانا
ایک قول کے مطابق یہ (سرمنڈوانا) بھی ارکان میں شامل ہے۔ عمرہ کے ارکان بھی یہی ہیں صرف وقوف عرفات ان میں شامل
نہیں (۲) وہ واجبات جن کے رہ جانے کی وجہ سے دم لازم آتا ہے وہ پچھ ہیں۔

میقات سے (یا اس سے پہلے ہی) احرام باندھنا۔ جو شخص اس واجب کو چھوڑ دے اور میقات کے مقام سے
اندر چلا جائے اس پر ایک بکری لازم ہے حیرات کو کنکریاں مارتا اور اس کے چھوڑنے پر ایک قول کے مطابق دم (قربانی واجب
ہے سورج غروب ہونے تک عرفات میں ٹھہرنا، مزدلفہ میں رات گزارنا، پھر منیٰ میں رات گزارنا اور طواف و دایع کرنا بھی واجب
ہے یہ آخری چارہ جائیں تو ایک قول کے مطابق دم دے کر نقصان کو لوپرا کیا جاسکتا ہے اور دوسرے قول کے مطابق ان
صورتوں میں دم مستحب ہے۔

حج اور عمرہ (یعنی حج کے ساتھ والا عمرہ) کی ادائیگی تین میں سے ایک طریقے پر ضروری ہے یہاں طریقہ حج
حج کی اقسام | افراد ہے اور وہ افضل ہے (۳)

وہ یہ کہ پہلے صرف حج کرے جب حج سے فارغ ہو جائے تو حرم سے باہر چلا جائے اور احرام باندھ کر عمرہ کرے ،
عمرہ کے احرام کے لیے حل کا بہترین مقام جعرانہ ہے ، پھر نغیم اور اس کے بعد حدیبیہ ہے۔ حج افراد کرنے والے پر قربانی
لازم نہیں البتہ مستحب ہے۔

دوسرا طریقہ حج قرآن ہے یعنی حج اور عمرہ کو جمع کرتے ہوئے یوں تلبیہ کہے ،

لَبَّيْكَ بِحَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ۔
میں حج اور عمرہ کے ساتھ حاضر ہوں۔

اسے حج کے اعمال کافی ہیں اور عمرہ حج کے تحت آجائے گا جیسے وضو غسل کے ضمن میں ادا ہو جاتا ہے البتہ یہ کہ

(۱) قرآن مجید سورہ مومنوں آیت ۹۹

(۲) احاف کے نزدیک احرام شرط ہے جب کہ وقوف عرفات اور طواف زیارت حج کے دو فرض ہیں ۱۲ ہزار دی۔

(۳) احاف کے نزدیک قرآن افضل ہے کیونکہ حج افراد کی طرح اس میں بھی مشقت زیادہ ہے اور پھر ایک سفر سے دو فائدے

حاصل ہوتے ہیں یعنی عمرہ بھی اور حج بھی ۱۲ ہزار دی۔

جب وہ وقوفِ عرفات سے پہلے طوافِ ادرسی کرے تو اس کی سعی دونوں عبادتوں کی طرف سے شمار ہوگی۔ (۱)

لیکن طوافِ شمار نہیں ہوگا کیونکہ حج کے لیے فرض طواف کی شرط یہ ہے کہ وہ وقوفِ عرفات کے بعد ہو، فارغِ زقارن والے پر بکری کی قربانی واجب ہے البتہ وہ کمی ہو تو کچھ بھی لازم نہیں کیونکہ اس نے اپنی میقات کو نہیں چھوڑا اس لئے کہ اس کی میقات مکہ مکرمہ ہے۔

حج کی تیسری قسم متمتع ہے وہ یہ کہ میقات سے عمرہ کے احرام کے ساتھ اندر جائے اور عمرہ کرنے کے بعد احرام کے بغیر مکہ مکرمہ میں رہے اور حج کے وقت تک ممنوعاتِ احرام سے نفع اٹھائے پھر حج کا احرام باندھے اور متمتع کے لیے پانچ شرائط ہیں۔

۱۔ وہ مسجدِ حرام کے پاس رہنے والا حاضر نہ ہو (اس سے وہ مسافت، مراد ہے جس میں نماز کی قصر نہیں ہوتی یعنی سفر کی مسافت سے کم ہو تو وہ متمتع نہیں کر سکتا)

۲۔ عمرہ کوچ سے مقدم کرے۔

۳۔ عمرہ، حج کے مہینوں میں ہو۔

۴۔ اس دوران حج کا احرام باندھنے کے لیے حج کی میقات یا اس کے برابر مسافت کی طرف نہ آئے۔

۵۔ اس کا حج اور عمرہ ایک ہی شخص کی طرف سے نہ ہوں۔

جب یہ اوصاف پائے جائیں تو وہ متمتع ہوگا اور اس پر قربانی لازم ہوگی اگر قربانی کے لیے جانور نہ پائے تو یومِ نحر سے پہلے حج کے دنوں میں تین روزے رکھے الگ الگ رکھے یا ملا کر دونوں طرح اختیار ہے۔ اور سات روزے وطن واپس آ کر رکھے اور گھر لوٹتے تک تین روزے نہیں رکھے تو اب دس روزے رکھے چاہے متفرق طور پر رکھے یا ملا کر۔ قرآن اور متمتع کی قربانی ایک جیسی ہے (ان میں سے) افضل، حج افراد سے پھر متمتع اور پھر قرآن (احناف کے نزدیک اگر نو ذوالحجہ تک تین روزے نہیں رکھے تو اب قربانی دینا ہوگی روزے کافی نہ ہوں ۱۲ ہزار دی)

حج اور عمرہ کے دوران چھ کام ممنوع ہیں۔

حج اور عمرہ کے ممنوعات

۱۔ قمیص، شلوار، موزہ اور عمامہ پیننا اور باندھنا بلکہ اسے ازار اور ردا (دو چادریں) اور چپل پیننا چاہیے اگر چپل نہ ہوں تو جوتوں کو ٹخنوں کے نیچے سے کاٹ کر چپل کی طرح بنالے اور چادر نہ ہو تو شلوار پین لے (۲) اور کمز میں کمر باندھنے یا کجاوے کے سامنے میں بیٹھنے میں کوئی حرج نہیں لیکن اسے اپنا سر ڈھانپنا نہیں

(۱) حج کے لیے الگ سعی کرنا ہوگی چاہے عمرہ سے فارغ ہو کر طوافِ قدم کے ساتھ کرے طوافِ زیارت کے بعد ۱۲ ہزار دی

(۲) شلوار پیننے کی صورت میں حضرت امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک اس پر قربانی لازم ہوگی ۱۲ ہزار دی

چاہیے کیوں کہ اس کے احرام کا تعلق سر کے ساتھ ہے۔ عورت پر قسم کے سلا ہوا لباس پہن سکتی ہے البتہ چہرے کو ایسی چیز سے نہ ڈھانپے جو اس چہرے کو چھوتی ہو کیوں کہ اس کا احرام چہرے میں ہے۔

۲۔ خوشبو لگانا۔ ہر وہ چیز جسے عقلمند لوگ خوشبو کہتے ہیں اس سے بچے اگر اس نے خوشبو لگائی یا سلا ہوا کپڑا پہنا تو اس پر ایک بکری کی قربانی واجب ہوگی۔

۳۔ بال مندوانا اور ناخن تراشنا ان دونوں صورتوں میں قدیم سے یعنی ایک بکری کا خون بہانا ہے، سر مہ لگانے، حمام میں داخل ہونے، پھپھنہ یا سینگی لگوانے اور بالوں کو کنگھی کرنے میں کوئی حرج نہیں۔

۴۔ جماع۔ اگر دس ذوالحجہ کو جانور ذبح کرتے اور سر مندوانے سے پہلے جماع کرے تو یہ جماع حج کو توڑ دیتا ہے اور اس میں اونٹ یا گائے یا سات بکریاں لازم ہو جاتی ہیں اور اس کے بعد ہوا تو ایک اونٹ لازم ہوگا لیکن حج نہیں ٹوٹے گا۔

۵۔ جماع کی طرف لے جانے اور جیسے بوسہ لینا اور اس طرح ہاتھ لگانا کہ عورتوں کے ساتھ یہ معاملہ کیا جائے

تو مذی نکلنے کی وجہ سے، وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ عمل حرام ہے اور اس میں ایک بکری لازم ہے اسی طرح مشت زنی کرنا بھی نکاح کرنا اور نکاح کر کے دنیا بھی حرام ہے لیکن، اس میں خون بہانا لازم نہیں ہوتا کیونکہ نکاح منعقد نہیں ہوتا (۱)

۶۔ خشکی کا شکار کرنا یعنی وہ جانور جسے کھایا جاتا ہے یا وہ جو عدل اور حرام جانوروں کے ملاپ سے پیدا ہوا اگر وہ

کسی جانور کو قتل کرے تو اس کی مثل جانور لازم ہوگا یعنی جو جسم میں اس کے قریب ہو سمندر کا شکار عدل ہے اور اس میں کوئی جزا نہیں۔

دوسرا باب

سفر کے شروع سے واپسی تک کے ظاہری اعمال

یہ دس آداب ہیں جن میں سے:

۱۔ پہلا آداب گھر سے نکلنے سے لے کر احرام تک سفر سے متعلق ہے اور اس میں آٹھ امور ہیں۔
اس میں مال سے متعلق ہے تو اسے توبہ کے ساتھ ابتدا کرنی چاہیے لوگوں کے حقوق ادا کر کے قرض واپس کر کے اس پر جن لوگوں کا نفقہ لازم ہے واپسی تک ان کے نفقہ کا انتظام کر کے اس کے پاس جو امانتیں ہوں وہ بھی واپس لوٹائے اپنے ساتھ پاک حلال مال لے جائے جو جانے اور واپسی کے لیے کافی ہو یہ مال کم نہیں ہونا چاہیے بلکہ اس قدر ہو کہ خرچ کرنے میں نیز کمزور اور فقیر لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کی گنجائش ہو جائے سے پہلے کچھ صدقہ کر کے اپنے لیے ایک سوہری خریدے جو اسے لے جانے کی طاقت رکھتی ہو کمزور نہ ہو یا کرایہ پر حاصل کر لے اگر کرایہ پر لے تو کرایہ سینے والوں کو سب کچھ واضح طور پر بتا دے یعنی وہ کس قدر سامان رکھے گا وہ تھوڑا ہے یا زیادہ، اس طرح اس کی رضامندی حاصل کرے۔

۲۔ ایک نیک، بھلائی چاہنے والا اور مددگار قسم کا ساتھی تلاش کرے کہ اگر یہ بھول جائے تو وہ یاد دلا دے اگر اسے یاد ہو تو وہ اس کی مدد کرے اگر یہ بزدلی کا مظاہرہ کرے تو وہ اسے شجاعت پر آمادہ کرے اگر یہ عاجز ہو جائے، تو وہ اسے طاقتور کر دے اگر اس کے سینے میں کوئی تنگی پیدا ہو (پریشانی ہو) تو وہ اسے صبر کی تلقین کرے، مقیم دوستوں، بھائیوں اور بڑوں کو رخصت کرے اور انہیں رخصت کرتے ہوئے ان سے دعاؤں کی گزارش کرے کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعاؤں میں بھلائی رکھی ہے۔ رخصت کے وقت یہ الفاظ کہنا سنت ہے۔

اَسْتَوِدِعُ اللّٰهَ دِيْنَكَ وَاَمَانَتَكَ وَخَوَائِفَكَ
مِنْ تِيْرِ دِيْنٍ، تِيْرِ اِمَانَتٍ اَوْ تِيْرِ عَمَلِكَ
کُو اللّٰه تعالیٰ کے سپرد کرتا ہوں۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، سفر کا ارادہ کرنے والے شخص سے فرمایا کرتے تھے۔
فِي حِفْظِ اللّٰهِ وَكَيْفِ زَوْدِكَ، اللّٰهُ اَلْتَّقْوَى
وَعَفْرَ ذَنْبِكَ وَوَجْهَكَ لِخَيْرِ اَيْنِمَا
مِنْ تَجَهُّدِ اللّٰهِ تَعَالَى كِي حِفْظَتِ اَوْ مِيْنَاهِ مِيْنِ دِيْتِي اَمْ اللّٰهُ
تَعَالَى تَجَهُّدِ تَقْوَى كَانَا مَانِ عَطَا كَرِي تِيْرِ كِنَا نَحْشِ مِي
اور تیری طرف بھلائی کو متوجہ کرے تو جہاں بھی ہو۔

(۱) مستدرک للحکم جلد اول ص ۲۲۲ کتاب المناک (۲) المطالب العالیہ جلد ۲ ص ۱۵۲، ۱۵۳ حدیث ۱۹۰۸

سارے گھر سے نکلنا۔ جب نکلنے کا ارادہ کرے تو پہلے دو رکعتیں پڑھنی چاہیں پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد "قل یا ایہا
الکس ون" اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد "قل هو اللہ احد"، پڑھے۔ جب فارغ ہو جائے تو ہاتھ اٹھا کر
خلوص اور سچی نیت کے ساتھ دعائے مانگے، اور یوں کہے اسے اللہ اتوی سفر کا ساتھی ہے اہل و مال، اولاد اور احباب کی
حفاظت کرنے والا تو ہی ہے ہمیں اور ان کو بھی ہر آفت اور مصیبت سے محفوظ رکھنا یا اللہ! ہم اپنے سفر میں تجھ سے نیکی
تقویٰ اور اس عمل کا سوال کرتے ہیں جس پر تو راضی ہے۔ یا اللہ! ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں کہ ہمارے لیے زمین کو لپیٹ
دے، ہم پر سفر کو آسان فرما، ہمارے اس سفر میں ہمیں بدن، دین اور مال کی سلامتی عطا فرما ہمیں اپنے پاک گھر کے حج اور
اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کی زیارت تک پہنچا دے اسے اللہ! ہم سفر کی سختی بڑی واپسی اور
اہل و مال نیز اولاد و اصحاب کے بُرے حالات دیکھنے سے تیری پناہ چاہتے ہیں۔ یا اللہ! ہمیں اور ان کو اپنے جوار رحمت
میں جگہ عطا فرما ہم سے اور ان سے اپنی نعمت کو واپس نہ لینا اور تو نے جو آرام ہمیں اور ان کو عطا کیا ہے اسے بدل
نہ دینا۔

۴۔ جب گھر کے دروازے پر پہنچے تو کہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ وَلَا حَوْلَ
وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ رَبِّ اعُوذُ بِكَ أَنْ أَضِلَّ
أَوْ أَضِلَّ أَوْ أَذِلَّ أَوْ أَذِلَّ أَوْ أَزِلَّ
أَوْ أَظْلِمَ أَوْ أَظْلَمَ أَوْ أَجْهَدَ أَوْ يَجْهَدَ
عَلَيَّ اللَّهُمَّ إِنِّي لَمَّا خَرَجْتُ أَشْرَأُ بَطْلًا
وَلَا رِبَاءً وَلَا سَمْعَةً بَلْ خَرَجْتُ
إِتْقَاءَ سَخَطِكَ وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِكَ
رِقْضًا قَرْضِكَ وَاتِّبَاعَ سُنَّةِ
نَبِيِّكَ وَشَوْقًا إِلَى لِقَائِكَ۔

اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ (چار بار ہوں) میں نے اللہ تعالیٰ
پر بھروسہ کیا نیکی کرنے اور برائی سے بچنے کی طاقت
دینے والا وہی ہے اسے اللہ میں تجھ سے پناہ چاہتا
ہوں کہ میں گمراہ ہو جاؤں یا گمراہ کیا جاؤں ذلیل ہو جاؤں
پھسل جاؤں یا پھسلنا یا جاؤں کسی پر زیادتی کرو یا مجھ پر
زیادتی ہو جہالت کا ارتکاب کروں یا میرے خلاف
جہالت کا رویہ اختیار کیا جائے یا اللہ میں کفرانِ نعمت
اور اکرے کے ساتھ نہیں نکل رہا نہ ریاکاری مقصود ہے
بلکہ میں تیری ناراضگی سے بچنے ہوئے تیری رضا تلاش کرتے
ہوئے تیرے فریضہ کی ادائیگی اور تیرے نبی کی سنت پر عمل
کرنے اور تیری ملاقات کے شوق کے ساتھ جا رہا ہوں۔

اور جب چل پڑے تو یوں کہے۔

اللَّهُمَّ بِكَ إِنْتَشَرْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ
وَبِكَ اعْتَصَمْتُ وَإِلَيْكَ تَوَجَّهْتُ

اسے اللہ! میں تیرے سہارے پر جا رہا ہوں تجھ ہی پر
بھروسہ کرتا ہوں تیرے دامنِ رحمت میں پناہ لینا ہوں۔

تیری طرف ہی متوجہ ہوں اسے اللہ! مجھے تجھ پر بھروسہ ہے اور تو ہی میری امید گاہ ہے پس تو مجھے اس چیز میں کفایت کر جو مجھے پیش آئے اور جس کا میں اہتمام نہ کر سکوں اور وہ بات جسے تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے۔

اللَّهُمَّ أَنْتَ تَقِيٌّ وَأَنْتَ رَجَائِي فَأَكْفِنِي مَا
أَهَمَّنِي وَمَا لَوِ اهْتَمَمْتُ بِهِ وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ
بِهِ مِنِّي عَزَّ جَارُكَ وَجَلَّ شَأْنُكَ وَلَا
الِدَعِيرُكَ اللَّهُمَّ زِدْ دِينِي التَّقْوَى وَاعْفِرْ لِي
ذَنْبِي وَرَجِّعْنِي لِلْخَيْرِ إِنَّمَا تُوَجِّهْتُمْ

تیری پناہ میں آنے والا معزز ہے تیری شان بلند ہے اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں یا اللہ! مجھے تقویٰ کی دولت عطا فرما اور میرے لیے میرے گناہ بخش دے مجھے بھلائی کی طرف متوجہ فرما میں جدھر بھی جاؤں۔ وہ جہں منزل میں داخل ہو یہ (مذکورہ بالا) دعا پڑھے۔

۵۔ سواری کے بارے میں آداب یہ ہیں کہ جب سواری پر سوار ہو تو یہ الفاظ کہے۔

اللہ تعالیٰ کے نام سے اور اللہ تعالیٰ کی مدد سے سوار ہوتا ہوں اللہ تعالیٰ اسب سے بڑا ہے میں نے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیا نیکی کرنے اور برائی سے بچنے کی طاقت اللہ تعالیٰ کے سوا نہیں وہ بلند، عظیم ہے وہ جو کچھ چاہے ہو جاتا ہے اور جو کچھ نہ چاہے، نہیں ہوتا۔ وہ ذات پاک ہے جس نے ہمارے لیے اس سواری کو مسخر کیا حالانکہ ہم اس کو قابو نہیں کر سکتے تھے ہم اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں اسے اللہ! میں نے اپنے آپ کو تیری طرف متوجہ کیا اور اپنے تمام معاملات کو تیرے سپرد کیا میں نے اپنے تمام امور میں تجھ پر بھروسہ کیا تو مجھے کافی ہے اور بہترین کار ساز ہے۔

بِسْمِ اللَّهِ وَيَا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ تَوَكَّلْتُ
عَلَى اللَّهِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ
الْعَظِيمِ مَا شَاءَ اللَّهُ كَانَ وَمَا لَمْ
يَشَأْ لَمْ يَكُنْ سُبْحَانَ الَّذِي
سَخَّرْنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَمُقْرَبِينَ
وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ اللَّهُمَّ اخْتِ
وَجِّهْتُمْ وَجْهِي إِلَيْكَ وَفَوَّضْتُ
أَمْرِي كُلَّهُ إِلَيْكَ وَتَوَكَّلْتُ فِي
جَمِيعِ أُمُورِي عَلَيْكَ أَنْتَ حَسْبِي
وَنِعْمَ الْوَكِيلُ

جب سواری پر اچھی طرح بیٹھ جائے اور وہ ٹھہر جائے تو سات مرتبہ یہ کلمات پڑھے۔

اللہ تعالیٰ پاک ہے اور تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے۔

سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا
اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ

اور یہ الفاظ بھی پڑھے۔

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا
لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ اللَّهُمَّ
أَنْتَ الْعَامِلُ عَلَى الظُّهُرِ وَأَنْتَ
الْمُسْتَعَانُ عَلَى الْأُمُورِ -

تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے اس کی
طرف ہماری راہنمائی کی اور اگر اللہ تعالیٰ راستہ نہ
دکھاتا تو ہمیں راستہ نہ ملتا اسے اللہ تو اس کی پیٹھ پر
سوار کرنے والا ہے۔ اور تمام امور پر تجھ ہی سے مدد
مانگی جاتی ہے۔

۶۔ کسی جگہ پڑاؤ کرنا، سنت یہ ہے کہ حیب تک دن گرم نہ ہو جائے (کسی مقام پر) نہ آترے اور سفر کا زیادہ حصہ
رات کے وقت ہونا چاہیے۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
عَلَيْكُمْ بِاللَّيْلِ فَإِنَّ الْأَرْضَ تَطْوَى
بِاللَّيْلِ مَا لَا تَطْوَى بِالنَّهَارِ (۱)

تم پر رات کے وقت سفر کرنا لازم ہے کیوں کہ رات کو
زمین لپیٹ دی جاتی ہے جو دن کو نہیں لپیٹی جاتی۔

رات کو کم سوئے تاکہ اسے سفر پر مدد حاصل ہو۔ اور حیب کسی منزل پر آترے تو یوں کہے۔
اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَمَا أَلْمَلْنَ
وَرَبَّ الْأَرْضِينَ السَّبْعِ وَمَا أَقْلَمْنَ
وَرَبَّ الشَّيَاطِينِ وَمَا امْلَأْنَ وَرَبَّ
الرياحِ وَمَا ذَرَيْنِ وَرَبَّ الْبِحَارِ
وَمَا جَرَيْنِ اسْأَلُكَ خَيْرَ هَذَا الْمَنْزِلِ
وَخَيْرَ هَلِيهِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهِ
وَشَرِّ مَا قَبِيهِ أَصْرِي عَنِّي شَرِّ شَرَارِهِمْ

اسے اللہ! ساتوں آسمانوں اور جن پران کا سایہ ہے، کے
رب، اسے ساتوں زمینوں اور جو کچھ انہوں نے اٹھا
رکھا ہے، کے رب، شیطانوں اور جن کو انہوں نے
گمراہ کیا، کے رب، ہواؤں اور جن کو وہ پراگندہ کریں، کے
رب سمندروں اور جن چیز کے ساتھ وہ چلتے ہیں، کے رب
میں تجھ سے اس منزل اور یہاں کے رہنے والوں کی
بھلائی کا سوال کرتا ہوں اس کے شر اور جو کچھ اس میں ہے
کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں مجھ سے ان کے شر پر
لوگوں کے شر کو دور کر دے۔

جب کسی مقام پر آترے تو دو رکعتیں پڑھے پھر یہ کلمات کہے۔

میں اللہ تعالیٰ کے ان کامل کلمات کے ساتھ اس کی
مخلوق کے شر سے پناہ چاہتا ہوں جن (کلمات) سے

أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ الَّتِي
لَا يَجَاوِزُهُنَّ بَدُونًا فَاجِدْ مِنْ

کوئی نیک اور براتجاوز نہیں کر سکتا۔

شَرِّ مَا خَلَقَ -

جب رات چھا جائے تو یوں کہے۔

يَا اَرْضُ رَبِّي وَرَبِّكَ اللهُ اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ
شَرِّكَ وَشَرِّ مَا فِيكَ وَشَرِّ مَا دَبَّ
عَلَيْكَ اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ شَرِّ كُلِّ اَسَدٍ وَّ
اَسْوَدٍ وَّحَيَّةٍ وَّعَقْرَبٍ وَّمِنْ شَرِّ سَاكِنِ
الْبَيْتِ وَّوَالِدٍ وَّمَا وَّلَدَ -

اسے زمین میرا اور تیرا رب اللہ تعالیٰ ہے میں تیرے
شر، جو کچھ تمہارے میں ہے اس کے شر، جو چیز تمہارے پر چلتی
ہے اس کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں میں
ہر شیر، اژدھا، سانپ، بچھو، شہر میں رہنے والے
باپ اور اس کی اولاد سب کے شر سے اللہ تعالیٰ
کی پناہ چاہتا ہوں۔

❖ ❖ ❖

ارشاد خداوندی ہے،

وَلَمْ يَأْتِ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ
السَّمِيعُ الْعَلِيمُ - (۱)

جو کچھ رات اور دن میں سکونت پذیر ہے وہ اللہ تعالیٰ کی
ملکیت ہے اور وہی سنتے والا جاننے والا ہے۔

۴۔ یہ حفاظت سے متعلق ہے۔ مناسب ہے کہ دن کے وقت احتیاط برتے اور قافلے سے الگ ہو کر اکیلا نہ چلے کیونکہ
بعض اوقات غفلت میں ہلاک کر دیا جاتا ہے یا قافلہ سے پھٹ جاتا ہے اور رات کے وقت سونے کی وجہ سے حفاظت
میں ہوتا ہے اگر رات کے ابتدائی حصے میں سوئے تو بازو کو بچھائے اور اگر رات کے آخری حصے میں سوئے تو اپنے بازو
کو کھڑا کرے اور سر کو تھیلی پر رکھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سقر کی حالت میں اسی طرح آرام فرمایا کرتے تھے (۲)
کیونکہ بعض اوقات نیند غالب آجاتی ہے اور سورج طلوع ہو جاتا ہے اور اسے خبر تک نہیں ہوتی اور جو نماز فوت
ہوگئی وہ صبح سے حاصل ہونے والے ثواب سے افضل ہے۔ رات کے وقت زیادہ مناسب طریقہ یہ ہے کہ دو ساتھی باری
باری حفاظت کریں جب ایک ساتھی سو جائے تو دوسرا حفاظت کرے یہی سنت ہے (۳)

اگر رات یاروں کے وقت دشمن یا کوئی درندہ اسے نقصان پہنچانے کا ارادہ کرے تو آیت الکرسی (خالد دؤن تک)
اور "سَيَهْدِي اللهُ اُمَّةً لِّدَالِ الْاِلَهِ" نیز سورۃ اخلاص، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھے اور
یہ الفاظ کہے۔

(۱) قرآن مجید سورۃ انعام آیت ۱۳

(۲) جامع ترمذی ص ۵۸۹ البواب الثمانی۔

(۳) مسند امام احمد بن حنبل جلد ۲ ص ۲۴۲ مرویات جابر رضی اللہ عنہ

بِسْمِ اللَّهِ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ حَسْبِيَ
 اللَّهُ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا
 يَأْتِي بِالْخَيْرِ إِلَّا اللَّهُ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا
 يُصْرِفُ السُّوءَ إِلَّا اللَّهُ حَسْبِيَ اللَّهُ وَكَفَى
 سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ دَعَا لَيْسَ وَرَاءَ اللَّهِ مَنْتَهَى
 وَلَا دُونَ اللَّهِ مَلْجَأُ كَتَبَ اللَّهُ لِأَعْلِينَ
 أَنَا وَرُسُلِي إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ تَحَصَّنْتُ
 بِاللَّهِ الْعَظِيمِ وَاسْتَعْتَمْتُ بِالْحَقِّ الَّذِي
 لَا يَمُوتُ اللَّهُمَّ احْرُسْنَا بِعَيْنِكَ
 الَّتِي لَا تَنَامُ وَانْقِضَا بِرُكْنِكَ الَّذِي
 لَا يَرْمَا اللَّهُمَّ ارْحَمْنَا بِقُدْرَتِكَ
 عَلَيْنَا فَلَا تَهْلِكْ وَأَنْتَ تَقْتُمُنَا
 وَرَجَّاعُنَا اللَّهُمَّ اعْطِنَا قُلُوبَ
 عِبَادِكَ وَإِمَائِكَ بِرَأْفَةٍ وَرَحْمَةٍ إِنَّكَ
 أَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ -

اللہ تعالیٰ کے نام سے جو کچھ اللہ تعالیٰ چاہے اللہ تعالیٰ کے
 سوا کوئی (حقیقی) قوت نہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے کافی سے میں
 نے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیا اللہ تعالیٰ جو چاہے وہی ہوتا
 ہے (اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھلائی لائے والا نہیں اور
 اس کے سوا کوئی برائی کو دور کرنے والا نہیں اللہ تعالیٰ
 مجھے کافی ہے وہ دعا کرنے والا کی دعا سنتا ہے اللہ تعالیٰ
 کے سوا کوئی انتہا اور ٹھکانہ نہیں اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا کہ
 میں اور میرے رسول ضرور غالب ہوں گے۔ بے شک اللہ
 تعالیٰ قوت والا غالب ہے میں نے عظمت والے اللہ تعالیٰ
 کے قلعہ رحمت میں پناہ لی اور اس زندہ ذات سے مدد
 طلب کی جسے موت نہیں یا اللہ اس آنکھ کے ساتھ ہماری
 حفاظت فرما جو سوتی نہیں اور اپنے اس غلبہ کے ساتھ
 ہماری مدد فرمایا جو جدا نہیں ہوتا یا اللہ اپنی قدرت کے ساتھ
 ہم پر رحم فرماتا کہ ہم ہلاک نہ ہوں جب کہ تو ہمارے اعتماد
 کی جگہ اور امید گاہ ہے یا اللہ! اپنے بندوں مردوں اور
 عورتوں کے دلوں کو رحمت اور مہربانی کے ساتھ ہماری
 طرف متوجہ کر دے بیشک تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔

۱۔ جب میں کے کسی بلند مقام کی طرف جائے تو مستحب ہے کہ تین بار اللہ اکبر کہے پھر یہ الفاظ کہے۔
 اللَّهُمَّ نَبِّكَ الشَّرِيفِ عَلَى كُلِّ شَرِيفٍ وَلَكَ
 الْحَمْدُ عَلَى كُلِّ حَالٍ -

جب پستی میں جائے تو بیس کہے اور جب سفر کے دوران وحشت کا دور ہو تو یوں کہے۔
 سُبْحَانَ اللَّهِ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ رَبِّ
 الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ جَلَّتِ السَّمَاوَاتُ
 بِالْعِزَّةِ وَالْجَبَرُوتِ -

پاک ہے اللہ تعالیٰ جو مقدس بادشاہ ہے وہ فرشتوں اور
 جبریل علیہ السلام کا رب ہے اس کی عزت و غلبہ کے
 ساتھ آسمانوں کو بزرگی حاصل ہوئی۔

دوسرا ادب:

میقات سے احرام باندھنے سے لے کر دخول مکہ کمر تک یہ پانچ امور ہیں۔

۱۔ غسل کرے اور اس غسل کے ساتھ احرام کی نیت کرے یعنی جب اس مشہور میقات تک پہنچے جہاں سے لوگ احرام باندھتے ہیں (تو غسل کرے) اور اچھی طرح پاکیزگی حاصل کرنے کے ذریعے غسل کو مکمل کرے سر اور داڑھی میں کنگھی کرے ناخن اور مونچھیں کاٹے اور اس پاکیزگی کو مکمل کرے جس کا ذکر ہم نے طہارت کے بیان میں کہا ہے۔

۲۔ اپنے آپ سے ہونے کپڑے دور کرے اور احرام کے دو کپڑے چادریں اپنے دو سفید چادروں میں سے ایک کو بطور تہنڈ باندھے اور دوسری اوپر لے سفید کپڑا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے اپنے کپڑوں اور جسم پر خوشبو لگائے اور ایسی خوشبو میں بھی کوئی عرج نہیں جس کا وجود احرام کے بعد بھی باقی رہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا اور پر احرام باندھنے کے بعد بھی کچھ خوشبو دیکھی گئی، اور یہ وہ خوشبو تھی جو آپ نے احرام سے پہلے استعمال کی تھی۔ (۱)

۳۔ (احرام کا) لباس پہننے کے بعد کچھ دیر ٹھہرے یہاں تک کہ سواری لے کر اسے اٹھے اگر وہ سوار ہو اور اگر پیدل ہو تو عینا شروع کر دے اس وقت حج یا عمرہ کی نیت کرے حج قرآن ہو یا افراد جیسے اس کا ارادہ ہوا نعت احرام کے لیے صرف نیت کافی ہے لیکن سنت یہ ہے کہ نیت کے ساتھ تلبیہ بھی پڑھے یوں کہے۔

میں حاضر ہوں اے اللہ میں حاضر ہوں میں حاضر ہوں تیرا کوئی شریک نہیں میں حاضر ہوں بے شک حمد اور نعمت اور بادشاہی تیرے لیے ہے تیرا کوئی شریک نہیں۔

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ
لَكَ لَبَّيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَ
وَالْمُلْكَ، لَا شَرِيكَ لَكَ۔

میں حاضر ہوں اور بار بار حاضر ہوں تمام بھلائی تیرے قبضے میں ہے تیری طرف رغبت ہے میں حج کے لیے حتیٰ کے ساتھ حاضر ہوں تیری بندگی کرتے ہوئے اے اللہ حضرت محمد مصطفیٰ اور آپ کی آل پر رحمت نازل فرما۔

اور اگر اس میں اضافہ کرنا چاہے تو یوں کہے،
لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ كُلُّهُ بِيَدَيْكَ
وَالزَّعْبَاءُ إِلَيْكَ لَبَّيْكَ بِحَجَّتِ حَقًّا
تَعَبَّدَ أَوْ رَفَا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ
وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ۔

۴۔ جب مذکورہ تلبیہ کے ساتھ اس کا احرام متفق ہو جائے تو یہ کلمات کہنا مستحب ہے۔
اے اللہ! میں نے حج کا ارادہ کیا اسے میرے لیے آسان کر دے اور اس کے فرض کی ادائیگی پر میری مدد

اللَّهُمَّ اجْعَلْ لِي الْحَجَّ قَيْسَرًا لِي وَأَعِزِّبْ
عَلَى إِدَائِهِ قَرْضِيهِ وَتَقَبَّلْهُ مِنِّي اللَّهُمَّ

(۱) صحیح مسلم جلد اول ص ۳۷۸ کتاب الحج

إِنِّي تَوَيْتُ أَدَاءَ فَرِيضَتِكَ فِي الْحَجِّ فَأُجْعَلَنِي
مِنَ السَّادِّينَ اسْتَجَابُوا لَكَ وَأَمَّنُوا بِوَعْدِكَ
وَاتَّبَعُوا أَمْرَكَ وَأُجْعَلَنِي مِمَّنْ وَفَدِكَ
الَّذِينَ رَضِيتَ عَنْهُمْ وَأَرْضَيْتَ وَقِيلَتْ
مِنْهُمْ اللَّهُمَّ فَيَسِّرْ لِي أَدَاءَ مَا تَوَيْتُ
مِنَ الْحَجِّ اللَّهُمَّ قَدْ أَحْرَمَ لَكَ
لَحْمِي وَشَعْرِي وَدَمِي وَعَصْبِي وَمَخْيِي
وَعِظَامِي وَحَدَمْتُ عَلَى نَفْسِي السَّاءَ
وَالطَّيِّبَ وَلَبَسْتُ الْمَخِيطَ ابْتِغَاءً
وَجْهِكَ وَالِدَارَ الْآخِرَةَ۔

فرما اور مجھ سے قبول کر اسے اللہ بے شک میں نے حج کے
سلسلے میں تیرے فریضہ کی ادائیگی کی نیت کی پس تو مجھے ان
لوگوں میں سے کر دے جنہوں نے تیرا حکم مانا تیرے وعدے
پر ایمان لائے اور تیرے حکم کی پیروی کی مجھے اپنے اس
وقد میں کر دے جن سے تو راضی ہوا اور ان سے (حج کو)
پسند کیا اور قبول کیا اسکا اللہ میرے لیے اس حج کی
ادائیگی آسان کر دے جس کی میں نے نیت کی ہے یا اللہ
میرے گوشت، بالوں، خون، اعصاب، مغز اور ہڈیوں
تے تیرے لیے احرام باندھا اور میں نے تیری رضا اور
آخرت کے گھر کی خاطر اپنے اوپر عورتوں، خوشبو اور سلعے
ہوئے کپڑوں کو پہنا حرام کیا۔

احرام کے وقت سے ہی اس پر وہ چھ ممنوعات حرام ہو جاتے ہیں جن کا ہم نے پہلے ذکر کیا لہذا ان سے بچنا چاہیے۔
۵- احرام کے دوران بار بار تلبیہ کہنا مستحب ہے بالخصوص جب دوستوں سے ملاقات ہو یا لوگ جمع ہوں اونچی جگہ
پر چڑھنے یا نیچے اترتے وقت سواری پر سوار ہونے یا اترنے کے وقت اونچی آواز سے تلبیہ کہے لیکن نہ تو کلمہ چھاڑے
اور نہ سانس رے۔ کیونکہ وہ کسی پرے یا غائب کو نہیں پکارتا جسے حدیث شریف میں آیا ہے (۱)
تین مسیروں یعنی مسجِدِ حَرَامِ مَسْجِدِ خَيْفِ اور مَسْجِدِ مِيقَاتِ میں بلند آواز سے تلبیہ کہنے میں کوئی حرج نہیں کیوں کہ یہ احکام حج کے
مقامات ہیں لیکن دوسری مساجد میں آواز بلند کے بغیر تلبیہ کہنے میں کو حرج نہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی
چیز پسند آتی تو آپ فرماتے۔

میں حاضر ہوں بے شک زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔

لَتَيْتُكَ اِنَّ الْعَيْشَ عَيْشٌ الْآخِرَةُ (۲)

تیسرا ادب :-

اس کا تعلق مکہ مکرمہ میں داخل ہونے سے طواف تک کے امور سے ہے اور یہ چھ باتیں ہیں۔
۱- مکہ مکرمہ میں داخل ہونے کے لیے مقام ذی طوی میں غسل کرے اور حج کے سلسلے میں مستحب غسل تو نہیں۔ مِيقَاتِ

(۱) سنن ابی داؤد جلد اول ص ۱۴۴ کتاب الصلوٰۃ

(۲) سنن ابی کبیر للبیہقی جلد ۵ ص ۴۵ کتاب الحج

سے احرام کے لیے، مکہ مکرمہ میں داخل ہونے کے لیے طوافِ قدوم کے لیے، پھر وقوفِ عرفات کے لیے اور پھر مزدلفہ میں وقوف کے لیے۔ پھر تین جمرات کو کنکریاں مارنے کے لیے تین غسل ہیں جہرہ عقبہ کو کنکریاں مارنے کے لیے غسل نہیں۔ پھر طوافِ وداع کے لیے غسل ہے۔ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ کے جدید قول کے مطابق طوافِ زیارت اور طوافِ وداع کے لیے غسل نہیں ہے اس طرح یہ سات غسل رہ جاتے ہیں۔

۲۔ حرم شریف میں جو مکہ مکرمہ سے باہر سے شروع ہوتا ہے داخل ہوتے وقت یہ الفاظ کہے۔
 اللَّهُمَّ هَذَا أَحْرَمُكَ وَأَمْنُكَ فَحَرِّمْ كَحَيْ
 وَدَعِي وَشَعْرِي وَبَشْرِي عَلَى النَّارِ وَأَمْتِي
 مِنْ عَذَابِكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عَبَادَكَ
 وَاجْعَلْنِي مِنْ أَوْلِيَائِكَ وَاهْلِ طَاعَتِكَ۔
 اسے اللہ! یہ تیرا حرم اور امن کی جگہ ہے میرے گوشت،
 میرے خون، میرے بالوں اور میری کھال کو جہنم پر حرام
 کر دے اور مجھے اپنے عذاب سے محفوظ رکھنا جس
 دن تو اپنے بندوں کو اٹھائے گا اور مجھے اپنے دوستوں
 اور اطاعت گزار لوگوں میں سے کر دے۔

۳۔ مکہ مکرمہ میں واوی ابطح کی طرف سے داخل ہوا اور یہ تینہ گدا رکاف پرزیر ہے) ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عام راستہ چھوڑ کر یہ راستہ اختیار فرمایا تھا (۱) پس آپ کی اقتدا زیادہ بہتر ہے اور جب باہر نکلے تو تینہ کدی رکاف پر پیش ہے، ہولیت گھاٹی ہے نکلے اور پہلی گھاٹی بلند ہے۔

۴۔ جب مکہ مکرمہ میں داخل ہوا اور دیوار تک پہنچے (۲) تو اس وقت اس کی نگاہ بیت اللہ شریف پر پڑے گی اب یوں کہے۔
 لَوْلَا اِلَّا اللهُ وَاللهُ اَكْبَرُ اللَّهُمَّ اِنَّا
 السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ وَدَارُكَ
 دَارُ السَّلَامِ مِ تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ
 وَالْاِكْرَامِ اللَّهُمَّ اِنَّ هَذَا بَيْتُكَ
 عَظَمْتَهُ وَكَرَّمْتَهُ وَسَرَّوْتَهُ اللَّهُمَّ
 فَرِّدْهُ تَعْلِيمًا وَزِدْهُ تَشْرِيقًا وَتَكْرِيمًا
 وَزِدْهُ مَهَابَةً وَزِدْهُ مِنْ حَاجَةِ كِبْرًا
 اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اللہ تعالیٰ سب
 سے بڑا ہے اسے اللہ تو ہی سلامتی والا ہے سلامتی تیری
 طرف سے ہے اور تیرا گھر سلامتی کا گھر ہے تو برکت والا
 ہے جلال اور عزت والا ہے۔ اسے اللہ! یہ تیرا گھر ہے
 تو نے اس کو عظیم بنایا اسے عزت بخشی اور شرافت
 عطا کی اسے اللہ! اس کی تعظیم اور عزت و تکریم میں اضافہ
 فرمایا اس کی ہیبت کو زیادہ کرنے جو شخص اس کا حج کرے

(۱) مستند امام احمد بن حنبل جلد ۲ ص ۱۴۲ روایات ابن عمر رضی اللہ عنہما۔

(۲) آج کل ایسی کوئی دیوار نہیں اب اردو عمارت میں یہ پہلے دیوبند کی بات ہے ۱۲ ہزاروی

اس کی نیکی اور عزت کو بڑھا دے اسے اللہ! میرے لیے
اپنی رحمت کے دروازے کھول دے مجھے اپنی بہت
میں داخل کر دے اور مجھے شیطان مردود سے اپنی پناہ
میں لے لے۔

رَكَامَةَ اللَّهِ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ
وَادْخُلْنِي جَنَّاتِكَ وَأَعِزَّنِي مِنَ الشَّيْطَانِ
الرَّحِيمِ۔

۵۔ جب مسجد حرام میں داخل ہونا چاہے تو باب بنی شیبہ سے داخل ہو اور یوں کہے۔
اللہ تعالیٰ کے نام سے اور اللہ تعالیٰ کی مدد سے اللہ تعالیٰ
کی طرف سے اور اللہ کی طرف نیز اسی کے راستے اور
اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر قائم ہوتے
ہوئے داخل ہوتا ہوں۔

بِسْمِ اللَّهِ وَبِاللَّهِ وَمِنَ اللَّهِ وَإِلَى اللَّهِ وَ
فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَعَلَىٰ مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ۔

تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں اور اس کے منتخب
بندوں پر سلام ہو اسے اللہ! حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم
پر رحمت نازل فرما جو تیرے بندے اور تیرے رسول ہیں
اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پر جو تیرے خلیل ہیں اور
اپنے تمام انبیاء و رسل علیہم السلام پر رحمت نازل فرما۔

جب بیت اللہ شریف کے قریب ہو تو یوں کہے۔
الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ
اصْطَفَىٰ اللَّهُ صَلَّىٰ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ
وَرَسُولِكَ وَعَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلِكَ
وَعَلَىٰ جَمِيعِ أَنْبِيَائِكَ وَرُسُلِكَ۔

اور ہاتھ اٹھا کر یوں دعا مانگے۔

اسے اللہ! میں اس مقام پر اور پہلے عمل حج کے موقعہ
پر تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ میری توبہ قبول فرما میری
خطاؤں سے درگزر فرما میرا بوجھ مجھ سے اتار دے
تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے مجھے اپنے
عزت والے گھر میں پہنچایا جسے اس نے لوگوں کے ٹوٹنے
اور امن کی جگہ بنایا اسے مبارک اور تمام جہان والوں
کے لیے ہدایت قرار دیا اسے اللہ! میں تیرا بندہ ہوں
یہ شہر تیرا شہر اور یہ حرم تیرا حرم ہے یہ گھر تیرا گھر ہے
میں تیری بارگاہ میں تیری رحمت طلب کرنے آیا ہوں

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ فِي مَقَامِي هَذَا فِي
أَوَّلِ مَنْاسِكِي أَنْ تَقْبَلَ تَوْبَتِي وَأَنْ
تَتَجَاوَزَ عَنِّي خَطِيئَتِي وَتَضَعِ عَنِّي وِزْرِي
الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي بَلَّغَنِي بَيْتَهُ الْحَرَامَ
الَّذِي جَعَلَ مَثَابَةَ بَيْتِنَا سَبْ
وَأَمْنَا وَجَعَلَهُ مَبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ
اللَّهُمَّ إِنِّي عَبْدُكَ وَالْبَدَدُ بِكَ
وَالْحَرَمُ حَرَمُكَ وَالْبَيْتُ بَيْتُكَ
جَنَّاتِكَ أَطْلُبُ رَحْمَتَكَ وَأَسْأَلُكَ

مَسْئَلَةُ الْمُضْطَرِّ الْخَائِفِ مِنْ عَقُوبَتِكَ
الرَّاجِي لِرَحْمَتِكَ الطَّالِبِ مَرْضَاتِكَ -
یا اللہ! میں تجھ سے اس طرح سوال کرتا ہوں جس طرح
کوئی مجبور شخص، تیرے عذاب سے ڈرتے والا، تیری
رحمت کی امید رکھنے والا اور تیری رضا تلاش کرنے
والا سوال کرتا ہے۔

۶۔ اس کے بعد حجرِ اسود کا قصد کرو اسے اپنے دائیں ہاتھ کے ساتھ چھونے کے بعد اسے بوسہ دو اور یوں کہو۔
اللَّهُمَّ أَمَانَتِي أَدِيَّتُهَا وَمِيثَاقِي وَقَيْتُهُ
إِنَّهُدَى يَا لَمَوْفَاةٍ -
اے اللہ! میں نے اپنی امانت ادا کر دی اور اپنا وعدہ
پورا کر دیا تو اس وفا پر گواہ رہنا۔

اگر بوسہ نہ دے سکے تو اس کے سامنے کھڑا ہو کر مذکورہ بالا الفاظ کہنے پھر کوئی دوسرا عمل نہ کرے صرف طوافِ قدوم
کرے البتہ لوگوں کو فرض نماز میں پائے تو ان کے ساتھ نماز پڑھ کر طواف کرے۔

چوتھا ادب :
یہ طواف سے متعلق ہے تو جب طواف کا ارادہ کرے چاہے طوافِ قدوم ہو یا کوئی دوسرا طواف، تو چھ باتوں کا خیال
۱۔ نماز کی شرائط ملحوظ رہیں یعنی با وضو ہو (اور غسل فرض ہو تو وہ کیا ہو) کپڑے، بدن اور مکان کا پاک ہونا اور شرمگاہ
کا ڈھانپا ہوا ہونا۔ کیونکہ بیت اللہ شریف کا طواف بھی ایک قسم کی نماز ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں گفتگو کو جائز قرار
دیا طواف سے پہلے اضطباع کرے اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ چادر کے درمیان والے حصے کو دائیں بغل کے نیچے سے
لے جا کر اس کے دونوں کناروں کو بائیں کاندھے پر جمع کر دے اس کے ایک کنارے کو پیٹھ کے پیچھے اور دوسرے
کو سینے پر ٹکادے طواف شروع کرتے ہی تلبیہ کہنا چھوڑ دے اور ان دعاؤں میں مشغول ہو جائے جن کا ہم ذکر
کریں گے۔

۲۔ جب چادر کو کاندھے پر ڈالنے سے فارغ ہو جائے تو بیت اللہ شریف کو اپنی بائیں جانب کرتے ہوئے حجرِ اسود
کے قریب کھڑا ہو جائے لیکن اس سے کچھ دور رہے تاکہ حجرِ اسود اس کے سامنے نہ رہے پس طواف کے آغاز میں بوسے
بدن کے ساتھ بوسے حجرِ اسود کے سامنے سے گزرے اپنے اور حجرِ اسود کے درمیان تین قدموں کو فاصلہ رکھے تاکہ
بیت اللہ شریف کے قریب ہو اس لیے کہ یہ افضل ہے اور تاکہ وہ شاذ دوران کے اندر طواف کرنے والا بھی نہ ہو کیونکہ
وہ بیت اللہ شریف کا حصہ ہے اور حجرِ اسود کے پاس شاذ دوران زمین سے ملی ہوئی ہے اور اس میں طواف کرنے والے
کا طواف صحیح نہیں کیونکہ ایسا شخص بیت اللہ شریف کے اندر طواف کرنے والا شمار ہوتا ہے۔
شاذ دوران وہ جگہ ہے جو بیت اللہ شریف کی دیوار کی چوڑائی سے بیچ گئی جب اوپر سے دیوار تنگ ہو گئی (۱)

(۱) جس طرح عمارت کی بنیاد چوڑی ہوتی ہے اور پھر اوپر دیوار تنگ ہو جاتی ہے تو نیچے کچھ حصہ جو زمین سے ملا ہوتا رہتا باقی اگلے صفحہ پر

پھر اسی جگہ سے طواف کا آغاز کرے۔

(۳) حجر اسود سے گزرنے سے پہلے بلکہ طواف کے شروع میں یہ الفاظ کہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُمَّ اِيْمَانًا
بِكَ وَتَصَدِيقًا بِكِتَابِكَ وَوَفَاءً بِعَهْدِكَ
وَاتِّبَاعًا لِسُنَّتِ نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ صَلَّى
اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ۔

اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ
سب سے بڑھے اسے اللہ! میں تجھ پر ایمان رکھتے ہوئے
تیری کتاب کی تصدیق کرتے ہوئے تیرے وعدے کو پورا
کرتے ہوئے اور تیرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ اصلی اللہ علیہ وسلم
کی سنت پر چلتے ہوئے طواف کرتا ہوں۔

اب طواف کرے حجر اسود سے آگے بڑھنے کے بعد سب سے پہلے بیت اللہ شریف کا دروازہ آتا ہے یہاں یہ الفاظ کہے
اللّٰهُمَّ هَذَا الْبَيْتُ بَيْتُكَ وَهَذَا الْحَرَمُ
حَرَمُكَ وَهَذَا الْأَمْنُ مِنْ أَمْنِكَ وَهَذَا
مَقَامُ الْعَائِدِ بِكَ مِنَ النَّارِ۔

اسے اللہ! یہ گھر، تیرا گھر ہے اور یہ عرم تیرا حرم ہے
یہ امن گیری طرف سے ہے اور یہ وہ مقام ہے جہاں
جہنم کی آگ سے تیری پناہ طلب کی جاتی ہے۔

جب مقام کا ذکر کرے تو آنکھوں کے ساتھ مقام ابراہیم کی طرف اشارہ کرے، اور پھر یوں کہے۔

اللّٰهُمَّ اِنَّ بَيْتَكَ عَظِيْمٌ وَّوَجْهَكَ
كَبِيْرٌ وَّاَنْتَ اَرْحَمُ الرَّاحِمِيْنَ وَاَعِزَّنِيْ
مِنَ النَّارِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ وَحَرِّمُ
لِحْمِيْ وَدَمِيْ عَلٰى النَّارِ وَاَمْتِيْ مِنْ
اَهْوَالِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَاَلْفِتْنِيْ مَوْتَةَ الدُّنْيَا
وَالْآخِرَةِ۔

اسے اللہ بے شک تیرا گھر عظیم اور تیری ذات کریم ہے
تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے مجھے جہنم کی آگ
سے اور شیطان مردود سے پناہ دے میرے گوشت
اور خون کو جہنم پر حرام کر دے اور مجھے قیامت
کی تکالیف سے امن دے اور دنیا اور آخرت کی
مشقتوں سے مجھے کفایت فرما۔

پھر اللہ تعالیٰ کی حمد و تسبیح کرنے ہوئے جب رکن عراقی (۱) تک پہنچے تو یوں کہے۔

اللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الشِّرْكِ وَالشُّكِّ
وَالْكَفْرِ وَالنِّفَاقِ وَالسَّقَاتِ وَسُوْرِ الْاَخْلَاقِ

اسے اللہ! میں شکر، شک، کفر، نفاق، بدبختی،
برے اخلاق اہل، مال اور اولاد میں برائی دیکھنے سے

(عاشیہ صغریٰ گدشتہ) ہے باہر کو بیچ جاتا ہے اسے شان دوران کہا گیا ہے کیونکہ یہ بنیاد کا حصہ ہوتے کی وجہ سے بیت اللہ شریف کا اندر والا
حصہ شمار ہوتا ہے لیکن اب ایسی صورت نہیں ہے ۱۲ ہزاروی۔

(۱) خانہ کعبہ کی جس دیوار میں دروازہ ہے اس میں عظیم کی طرف کا کونہ رکن عراقی کہلاتا ہے ۱۲ ہزاروی۔

تیری پناہ چاہتا ہوں۔

اے اللہ! میں اس دن اپنے عرش کی سائے میں
جگہ دینا جس دن تیرے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا
یا اللہ! مجھے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے
مبارک پیالے کے ساتھ پلانا کہ میں اس کے بعد کبھی پیسا
نہ ہوں۔

وَسُوْرَ الْمَنْظَرِ فِي الْاَهْلِ وَالْمَالِ وَالْوَالِدِ
جَب مِيزَابِ رَحْمَتِ كَيْ مَقَابِلِ سِنِي (۱) تَوِيْبِي كَيْ
اَللّٰهُمَّ اَظِلْنَا تَحْتَ عَرْشِكَ يَوْمَ لَا ظِلَّ
اِلَّا ظِلُّكَ اَللّٰهُمَّ اسْتَفِنِيْ بِكَاسِ مُحَمَّدٍ
صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَرِبَةً لِّاَظْمَاءِ
بَعْدَهَا اَبَدًا

اے اللہ! اس حج کو مقبول فرما اور اس پر کوشش
کو شرف قبولیت عطا فرما گناہ بخش دے اور اسے
ایسی نہ ختم ہونے والی تجارت بنا اسے بخشے تو اے
میرے رب بخش دے اور رحم فرما اور میرے جن گناہوں
کو تو جانتا ہے وہ معاف فرما دے بے شک ہی بت
عزت و اکرام والا ہے۔

پھر حیب رکن شامی پر پینچے (۲) تویبوں کے۔
اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ حَجًّا مَبْرُورًا وَسَعْيًا عَلِيًّا
مَشْكُورًا وَذَنْبًا مَغْفُورًا وَتِجَارَةً لَبَّ
قَبُوْرِيًّا عَزِيْزًا يَغْفُوْرُ رِيْبًا اَغْفِرْ وَاَرْحَمْ
وَتَجَاوَزْ عَمَّا تَعْلَمُ اَنَّكَ اَنْتَ الْاَعَزُّ
وَالْاَكْرَمُ

اے اللہ! میں کفر سے تیری پناہ چاہتا ہوں، فقر سے اور
عذابِ قبر سے نیز زندگی اور موت کے قتنوں سے تیری
پناہ چاہتا ہوں نیز میں دنیا اور آخرت کی رسوائی سے
تیری پناہ طلب کرتا ہوں۔

پھر حیب رکن یمانی پر پینچے (۳) تو اس طرح کہے۔
اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْكُفْرِ وَاَعُوْذُ بِكَ
مِنَ الْفَقْرِ وَمِنَ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنَ
فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَاَعُوْذُ بِكَ
مِنَ الْخِزْيِ فِي الْاَلْبَا وَاَلْاِخْتِ
رکن یمانی اور حجرِ اسود کے درمیان یوں پڑھے۔

(۱) رکن عراقی کے بعد حطیم سے جو نصف دائرے کی شکل میں ہے اس کے باہر سے طواف کرتے ہوئے جب اس نصف دائرے کے دریا

میں ردیوار سے باہر پہنچیں تو مِيزَابِ رَحْمَتِ كَا پَرْنَا لہٰہ بالکل مقابل میں ہے ۱۲ ہزاروی

(۲) رکن عراقی کے بعد جو اگلا کونہ ہے وہ رکن شامی کہلاتا ہے۔ یہ شمال مغرب میں ہے ۱۴ ہزاروی

(۳) خانہ کعبہ کا وہ کونہ جو جنوب مغرب کی طرف ہے اور حجرِ اسود والے کونے کے مقابل ہے رکن یمانی کہلاتا ہے ۱۲ ہزاروی

اللَّهُمَّ رَبَّنَا إِنَّا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَفِي
الْآخِرَةِ حَسَنَةٌ وَقِنَا بِرَحْمَتِكَ فِتْنَةَ
الْقَبْرِ وَعَذَابِ النَّارِ۔

اے اللہ! ہمارے رب! ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما اور
آخرت میں بھلائی مرحمت فرما اور آخرت میں بھلائی مرحمت
فرما اور اپنی رحمت کے ساتھ قبر کے فتنہ اور جہنم کے عذاب
سے بچا۔

❖ ❖ ❖

جب حجر اسود پر پہنچے تو کہے۔

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي بِرَحْمَتِكَ اَسُوذُ بِرَبِّ
هَذَا الْحَجَرِ مِنَ الدَّيْنِ وَالْفَقْرِ وَصَيْقِ
الْمَقْدَرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ۔

اے اللہ! اپنی رحمت سے مجھے بخش دے میں، قرض،
فقر، سینے کی تنگی اور عذاب قبر سے اس مبارک پتھر کے
رب کی پناہ چاہتا ہوں۔

اس وقت (طواف کا) ایک چکر پورا ہو گیا اسی طرح سات چکر پورے کر کے اور ہر چکر میں یہ (مذکورہ بالا) دعائیں مانگے۔
۴۔ پہلے تین چکروں میں پہلو انوں کی طرح چلے اور باقی چار میں اپنی عادت کے مطابق چلے اسے رمل کہتے ہیں (۱) رمل کا مطلب
یہ ہے کہ قدم قریب قریب رکھتے ہوئے تیز تیز چلے اور یہ دوڑتے سے کم لیکن عام عادت سے ذرا تیز ہے۔

رمل اور اضطباع کا مقصد بے خوفی اور قوت کا اظہار ہے شروع شروع میں اس کا مقصد یہی تھا تا کہ کفار کا طبع

نہم ہو جائے اور اب یہ سنت برقرار ہے (۲) افضل یہ ہے کہ بیت اللہ شریف کے قریب قریب رمل کرے اور اگر بھیڑ کی

وجہ سے ایسا ممکن نہ ہو تو دور رہ کر رمل کرنا افضل ہوگا لہذا مقام طواف کے کنارے پر چلا جائے اور تین چکروں میں رمل کرنے

کے بعد بیت اللہ شریف کے قریب ہجوم میں آجائے اور چار چکروں میں عام طریقے پر چلے۔ اگر ہر چکر پر حجر اسود کو بوسہ دے

سکے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ اور اگر ہجوم کی وجہ سے نہ ہو سکے تو ہاتھ سے اشارہ کر کے ہاتھ کو بوسہ دے دے رکن یمنی کو بوسہ

دینا بھی مستحب ہے باقی ارکان کو نہیں یعنی رکن عراقی اور رکن شامی کو بوسہ دینا مستحب نہیں) روایت میں ہے کہ نبی اکرم صلی

اللہ علیہ وسلم رکن یمنی کو استلام کرتے (۳) اور بوسہ دیتے تھے اور اپنا چہرہ مبارک اس پر رکھتے تھے۔ (۴)

اور جو شخص صرف حجر اسود کو بوسہ دینا اور رکن یمنی کا صرف استلام کرنا یعنی صرف ہاتھ لگانا چاہتا ہو تو یہ اولیٰ ہے۔ (کیوں کہ

زیادہ مشہور روایت یہی ہے۔)

۵۔ جب طواف کے سات چکر پورے ہو جائیں تو ملتزم کے پاس آئے اور یہ حجر اسود اور دروازے کے درمیان

(۱) رمل اس طواف میں ہوگا جس کے بعد کسی کرنا ہونا اور نہ رمل کے بغیر طواف کریں گے ۱۲ ہزاروی

(۲) صحیح مسلم جلد اول ص ۱۱۱ کتاب الحج

(۳) صحیح مسلم جلد اول ص ۱۲ کتاب الحج (۴) مستدرک للحاکم جلد اول ص ۵۶ کتاب المناسک

نے یہاں دعا قبولیت کا شرف حاصل کرتی ہے یہاں بیت اللہ شریف سے چمٹ جائے اور پردوں سے لٹک جائے،
نئے پٹ کو بیت اللہ شریف سے ملا دے اس پر دایاں رخسار رکھے اور بازوؤں اور ہتھیلیوں کو اس پر کھول دے اور
کہے۔

اے اللہ! اے اس قدیم گھر کے رب، میری گردن کو
جہنم سے آواز رکھ مجھے شیطان مردود سے پناہ دے اور
بہر برائی سے پناہ عطا فرما مجھے اس چیز پر صبر عطا فرما جو
تو نے عطا فرمائی ہے اور جو کچھ مجھے عطا کیا اس میں برکت
پیدا فرما یا اللہ یہ گھر تیرا گھر ہے بندہ، تیرا بندہ ہے اور یہ
جہنم سے تیری پناہ طلب کرنے والوں کا مقام ہے یا اللہ
تعالیٰ کی مجھے اپنے پاس آنے والوں میں سے بہتر لوگوں
میں کرے۔

اللَّهُمَّ يَا رَبَّ الْبَيْتِ الْعَتِيقِ اغْنِنِي رَقَبَتِي
مِنَ النَّارِ وَاغْنِنِي مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ
وَاعْنِنِي مِنْ كُلِّ سُوءٍ وَفَنِّعْنِي مِمَّا رَزَقْتَنِي
وَبَارِكْ لِي فِي مَا آتَيْتَنِي اللَّهُمَّ إِنَّ
هَذَا الْبَيْتَ بَيْتُكَ وَالْعَبْدَ عَبْدُكَ
وَهَذَا مَقَامُ الْعَائِدِ بِكَ مِنَ
النَّارِ اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي أَكْرَمَ وَفْدِكَ
عَلَيْكَ۔

پھر اس مقام پر کثرت سے اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء کرام علیہم السلام
پر درود شریف بھیجے۔ اپنی خاص حاجات کے لیے دعائیں مانگے اور اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرے اور بعض بزرگ اس
جگہ اپنے غلاموں سے فرماتے کہ مجھ سے دوسرا جاؤ تاکہ میں اپنے رب کے حضور اپنے گناہوں کا اقرار کروں۔
۶۔ جب اس سے فارغ ہو جائے تو مقام ایسا ہی کے پیچھے دو رکعتیں پڑھے پہلی رکعت میں سورۃ الکافروں اور
دوسری میں سورۃ اخلاص پڑھے اور یہ طواف کی دو رکعتیں ہیں۔

اور اگر کئی مرتبہ طواف کر کے آخر میں دو رکعتیں پڑھے تو بھی جائز ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کیا ہے (۱)
ہر سات چکر ایک طواف ہے، طواف کی دو رکعتوں کے بعد دعائیں مانگے اور یوں کہے۔

اے اللہ! میرے لیے آسانی کو آسان کر دے اور
مجھے تنگی سے بچا مجھے آخرت اور دنیا میں بخش دے
مجھے اپنی مہربانیوں کے ذریعے بچائے تاکہ میں تیری نافرمانی
نہ کروں اپنی توفیق سے اپنی عبادت پر میری مدد فرما
اور مجھے گناہوں سے دوزخ رکھ مجھے ان لوگوں میں سے

اللَّهُمَّ بَسِّدْ لِي الْبُسْرَى وَخَبِّبْ لِي الْعُسْرَى
وَاعْفِرْ لِي فِي الْأَخِرَةِ وَالْأُولَى وَاعْصِمْنِي
بِاطِّفَالِكَ عَنِّي لَا أَعْصِيكَ وَأَعِيفْ
عَلَى مَا عَتَيْكَ بِتَوْفِيقِكَ وَخَبِّبْ لِي
مَعَاصِيكَ وَاجْعَلْنِي مِمَّنْ يُحِبُّكَ

وَيُحِبُّ مَلَائِكَتَكَ وَرُسُلَكَ وَيُحِبُّ
عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ اللَّهُمَّ حَبِّبْنِي إِلَى
مَلَائِكَتِكَ وَرُسُلِكَ وَإِلَى عِبَادِكَ
الصَّالِحِينَ اللَّهُمَّ فَكَمَا هَدَيْتَنِي إِلَى
الْإِسْلَامِ فَتَبِّئْنِي عَلَيْهِ بِالطَّائِفَاتِ
وَوَلَايَتِكَ وَاسْتَعْمِلْنِي بِطَاعَتِكَ
وَطَاعَةِ رَسُولِكَ وَأَجِرْنِي مِنْ مُضَلَّاتِ
الْفِتَنِ -

کردے جو تجھ سے محبت کرتے ہیں تیرے فرشتوں اور
رسولوں سے محبت کرتے ہیں اور تیرے نیک بندوں
سے محبت کرتے ہیں یا اللہ! اپنے فرشتوں اپنے رسولوں
اور اپنے نیک بندوں کے نزدیک مجھے محبوب بنا دے
یا اللہ! جس طرح تو نے اسلام کی طرف میری راہنمائی کی ہے
اپنی مہربانیوں سے مجھے اس پر ثابت قدم رکھ مجھے اپنی
فرمانبرداری اور اپنے رسول کی فرمانبرداری پر لگا دے اور
مجھے گمراہ کن فتنوں سے بچالے۔

پھر حجرِ اسود کی طرف لوٹے اور اس کا استلام کر کے طواف کو ختم کر دے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ اسْبُوعًا وَصَلَّى
رَكْعَتَيْنِ فَلَهُ مِنَ الْجَزْرِ كَتَبْتُ رَكْبَةً -
جس شخص نے بیت اللہ شریف کا طواف سات چکروں
میں کیا اور دو رکعتیں پڑھیں اس کے لیے ایک غلام
آزاد کرنے کے برابر ثواب ہے۔

(۱)

توبہ مذکورہ بالا طریقہ، طواف کا طریقہ ہے،

نماز کی شرائط کے بعد ان مذکورہ امور میں سے واجب یہ ہے کہ پورے بیت اللہ شریف کے ساتھ چکر لورے کرے،
حجرِ اسود سے شروع کرے اور بیت اللہ شریف کو اپنی بائیں جانب رکھے مسجد کے اندر طواف کرے لیکن بیت اللہ شریف کے
باہر سورۃ توبہ یا دیگر طواف کرے اور زہد عظیم کے اندر کرے سات چکروں کو ملائے اور ان میں عام عادت سے زیادہ تفریق نہ
کرے اس کے علاوہ امور سنت اور مستحبات ہیں۔

پانچواں ادب :-

صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا

جب طواف سے فارغ ہو جائے تو بابِ صفا سے نکل جائے اور وہ اس دیوار کے مقابل ہے جو رکنِ یمنی اور حجرِ
اسود کے درمیان ہے جب اس دروازے سے نکل کر صفا پر پہنچے، اور یہ ایک پہاڑی ہے تو پہاڑی کے نیچے سے

(۱) سنن ابن ماجہ ص ۲۱۸ ابواب المناسک (۲) آجکل یہ صورت نہیں کیونکہ صفا مروہ کے ارد گرد دیوار ہے اب صفا پر جانے کے لیے اندر سے راستہ
ہے باب صفا سے باہر نکل کر جائیں تو پھر باب مروہ سے اندر آنا پڑتا ہے لہذا اندر سے بھی صفا پر جاتے ہیں ۱۲ ہزار وی

انسانی قد کے برابر کچھ زینے اور چلا جائے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اوپر چڑھے حتیٰ کہ آپ کو کعبہ شریف نظر آتا اور اپنی ہاٹی کے دامن سے سعی شروع کرنا بھی کافی ہے یہ اضافہ (اور چڑھنا) مستحب ہے لیکن اب کچھ نئی سیرٹھیاں بنائی گئی ہیں تو انہیں اپنی ٹیچے کے پیچھے نہیں چھوڑنا چاہیے کیوں کہ اس طرح سعی مکمل نہیں ہوگی جب یہاں سے شروع کرے تو صفا اور مروہ کے درمیان سات چکر پورے کرے (آج کل صفا اور مروہ کے اوپر ٹھپت پڑی ہوئی ہے صفا کے اوپر اتنا جانا چاہیے کہ کعبہ شریف نظر آجائے پھر سعی شروع کر دیں زیادہ اور نہیں جانا چاہیے ۱۲ ہزار ویں) جب صفا پر چڑھے تو بیت اللہ شریف کی طرف رخ کرے یہ کلمات کہے۔

اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں کہ اس نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی تمام تعریفوں کے ساتھ اس کی تمام نعمتوں پر اس کی حمد ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اس کا کوئی شریک نہیں اسی کی بادشاہی ہے اور وہی لائق حمد ہے زندہ رکھا اور مارتا ہے اسی کے قبضے میں بھلائی ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ ایک ہے اس نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا اپنے بندے کی مدد کی اپنے شکر کو غلبہ عطا کیا اور تہاد شمنوں کے شکروں کو بھگا دیا اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہم صرف اسی کی عبادت کرتے ہیں اگرچہ کافروں کو ناپسند ہو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہم اسی کی خالص عبادت کرتے ہیں تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے جب شام ہو یا صبح اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی بیان کرو آسمانوں اور زمین میں اسی کے لیے تعریف ہے عشاء کے وقت اور صبح تم ظہر کرتے ہو زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور مردہ کو

اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، اَلْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَيَّ
مَا هَدَانَا، اَلْحَمْدُ لِلَّهِ بِمَجَامِدِهِ كُلِّهَا عَلَيَّ
جَمِيعِ نِعْمَتِهِ كُلِّهَا، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ
لَا شَرِيكَ لَهُ، اَلْمَلِكُ وَلَهُ اَلْحَمْدُ
يُحْيِي وَيُمِيتُ، بِيَدِهِ اَلْخَيْرُ وَهُوَ عَلَيَّ
كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ،
صَدَقَ وَعْدُهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَأَعَزَّ جُنْدَهُ،
وَهَزَمَ اَلْأَحْزَابَ وَحْدَهُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
مُخْلِصِينَ لَهُ اَلدِّينَ وَكَوَفَّرَهُ اَلْكَافِرُونَ،
لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ اَلدِّينَ، اَلْحَمْدُ
لِلَّهِ رَبِّ اَلْعَالَمِينَ، فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ
تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ، وَلَهُ اَلْحَمْدُ
فِي السَّمَاوَاتِ وَاَلْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ
تُطَهَّرُونَ يَخْرِجُ اَلْحَيَّ مِنَ اَلْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ
اَلْمَيِّتَ مِنَ اَلْحَيِّ وَيُحْيِي اَلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَ
كَذَلِكَ تُخْرِجُونَ، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ
مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا اَنسُمْتُمْ مُنْتَشِرُونَ،

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ إِيْمَانًا دَائِمًا وَبِقِيْنًا
صَادِقًا، وَعِلْمًا نَافِعًا، وَقَلْبًا خَاشِعًا،
وَلِسَانًا ذَاكِرًا، وَأَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ
وَالْعَافِيَةَ وَالْمَعَاوَاتَةَ الْإِئْتِمَارَ فِي
الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ۔

زندہ ہے نکالتے زمین کو بے آباد ہونے کے بعد آباد
کرتا ہے اسی طرح تمہیں بھی (قبروں سے) نکالا جائے گا
اس کی نشانیوں سے ہے کہ اس نے تمہیں مٹی سے پیدا
کیا پھر جب تم ظاہری شکل و صورت میں آئے تو پھیل گئے
یا اللہ! میں تجھ سے دائمی ایمان، یقین صادق، علم نافع،
خشوع والے دل اور ذکر والی زبان کا سوال کرتا ہوں میں تجھ
سے معافی، عافیت اور ہمیشہ کے لیے دنیا و آخرت میں
معافی کا سوال کرتا ہوں۔

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھے اور اس دعا کے بعد جو حاجت چاہے مانگے۔ پھر نیچے اتر کر
سعی شروع کرے اور یوں دعا مانگے۔

اے میرے رب مجھ بخش دے اور رحم فرما اور اپنے
علم کے مطابق میرے گناہ معاف کر دے بے شک تو
عزت و اکرام والا ہے اے اللہ! ہمیں دنیا میں بھلائی
عطا فرما اور آخرت میں بھلائی دے اور ہمیں آگ کے
عذاب سے بچا۔

رَبِّ اعْفِدْ وَارْحَمْ وَتَجَاوَزْ عَمَّا تَعْلَمُ
إِنَّكَ أَنْتَ الْأَكْرَمُ اللَّهُمَّ
إِنِّي فِي الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَفِي الْآخِرَةِ
حَسَنَةٌ وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔

پھر اپنی عام رفتار کے ساتھ جائے یہاں تک کہ سبز میل پر پہنچ جائے۔ (اب وہاں سبز ستون میں چھت میں بھی
سبز رنگ کیا گیا ہے اور سبز رنگ کی ٹیوبیں لگائی گئی ہیں ۱۲ ہزاروی) اور یہ صفا سے اترنے کے بعد فوراً اکھٹا ہے اور یہ مسجد
حرام کے کونے پر ہے جب اس کے اور اس میل کے درمیان چھ گز شرعی گز جو دو فٹ کا ہوتا ہے رہ جائیں تو تیز تیز چلے
یعنی ریل کرے یہاں تک کہ دو سبز میلوں تک پہنچ جائے اب اپنی عام رفتار پر چلے آگے پھر سبز ستون اور سبز ٹیوب میں ہیں
جب مروہ کے پاس پہنچے تو اس پر اسی طرح چڑھے جس طرح صفا پر چڑھا تھا اور اب صفا کی طرف متوجہ ہو کر اسی قسم کی
دعا مانگے (جو صفا پر مانگی تھی) یہ ایک مرتبہ سعی ہوگی جب صفا پر واپس آئے گا تو سعی کے دو پھیرے ہو جائیں گے سات
مرتبہ ایسا کرے اور تیز چلنے کی جگہ تیز چلے اور آرام سے چلنے کی جگہ آرام سے چلے تمام حکموں میں اسی طرح کرے جب کہ
پہلے گزر گیا ہے ہر بار صفا اور مروہ کے اوپر جائے۔ جب یہ کام مکمل ہو جائے گا تو اب طواف قدم اور سعی دونوں
مکمل ہو گئے اور یہ سنت ہیں سعی کے لیے وضو مستحب ہے واجب نہیں جب کہ طواف کے لیے واجب ہے جب سعی کر لی تو
اب وقوف عرفات کے بعد سعی کی ضرورت نہ ہوگی اور بطور رکن (واجب) یہ سعی کافی ہوگی کیونکہ سعی کے لیے یہ شرط نہیں

وہ وقوف کے بعد وہاں یہ شرط فرض طواف کے لیے ہے البتہ سعی کے لیے یہ شرط ہے کہ وہ جب بھی ہو طواف کے بعد وہ کوئی بھی طواف ہو (طواف قدوم یا طواف فرض)

چھٹا ادب:-

وقوف عرفات اور اس سے پہلے کے امور

اگر حاجی عرفہ کے دن (نو ذوالحجہ کے دن) سیدھا عرفات پہنچ جائے تو وقوف عرفات سے پہلے طواف قدوم اور مکہ مکرمہ کی حاضری کے لیے نہ جائے اور اگر اس سے کچھ دن پہلے پہنچے تو طواف قدوم کرے اور ذوالحجہ کی سات تاریخ تک حالت احرام میں ہی رہے اگر اس نے حج افراد یا حج خران کی نیت کی ہو) ساتویں ذوالحجہ کو امام ظہر کے بعد کعبہ شریف کے پس خطیبہ دیتا ہے اور لوگوں کو بتاتا ہے کہ وہ آٹھ ذوالحجہ کو منیٰ میں جانے کی تیاری کریں وہاں رات رہیں اور دوسرے دن صبح عرفات میں جائیں تاکہ وہاں زوال کے بعد وقوف کر کے فرض کی ادائیگی کریں کیونکہ وقوف کا وقت (نو ذوالحجہ کے زوال سے لے کر قربانی کے دن کی طلوع صبح صادق تک سے تلبیہ کہتے ہوئے منیٰ کی طرف جانا چاہیے اور مستحب ہے کہ مکہ مکرمہ سے مناسک حج کی ادائیگی کے لیے آخر تک پیدل چل کر جائے اگر ایسا کر سکے۔ مسجد ابراہیم (عیدہ السلام) سے جائے وقوف تک پیدل چلنا افضل ہے اور اس کی زیارۃ تاکید ہے (مسجد ابراہیم عرفات میں ہے) جب منیٰ میں پہنچے تو یوں کہے۔

اللَّهُمَّ هِدِيْهِ مِنِّيْ فَاْمَنْ عَلَيَّ بِمَا مَنَنْتَ
بِيْ عَلَيَّ اَوْلِيَاءِكَ وَاَهْلِ طَاعَتِكَ۔
یا اللہ! یہ منیٰ ہے تو مجھ پر اس چیز کے ساتھ احسان فرما
جس کے ساتھ تو نے اپنے اولیاء کرام اور اطاعت گزار
بندوں پر احسان فرمایا۔

یہ رات منیٰ میں گزارے اور یہاں صبح رات گزارنا ہے حج کا کوئی عمل اس سے متعلق نہیں ہے جب نویں ذوالحجہ کی صبح ہو تو صبح کی نماز پڑھے جب کوہ شہر پر سورج طلوع ہو جائے تو عرفات کی طرف جائے اور یوں کہے۔

اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا خَيْرَ عِدْوَةٍ عَدَوْتُهَا
قَطْرًا وَقَرَّبَهَا مِنِّيْ رِضْوَانِكَ وَاَبْعَدْهَا مِنِّيْ
سَخَطِكَ اللَّهُمَّ اَلْبِكْ عِدْوَتِيْ وَاَيَّامِيْ
رَجَوْتِيْ وَعَلَيْكَ اَعْتَمَدْتِيْ وَوَجْهَكَ
اَرَدْتِيْ فَاَجْعَلْنِيْ مِمَّنْ تَبَاهِيْ بِهِ الْيَوْمَ
مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّيْ وَاَفْضَلُ۔
یا اللہ! میری اس صبح کو بہتر صبح کر دے جو صبح میں نے
کی ہے اس اپنی رضا کے قریب کر دے اور انہی ناراضگی
سے دور رکھ یا اللہ! میں نے تیری طرف صبح کی تجھ سے
امید رکھی تجھ پر بھروسہ کیا تیری ذات کا ارادہ کیا پس مجھے
ان لوگوں میں سے کر دے جن پر تو آج ان کے سامنے فخر
کرے جو مجھ سے بہتر اور افضل ہیں (یعنی فرشتے)

جب عرفات میں آئے تو مقامِ نمرہ میں مسجد کے قریب خیمہ لگائے کیوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مقام پر خیمہ لگایا تھا (۱) نمرہ، عرفہ کا نچلا حصہ ہے جو موقف (وقوف کی جگہ) اور عرفات کی دوسری طرف سے نیز وقوف کے لیے غسل کرنا چاہیے۔ (۲) جب سوزج ڈھل جائے تو امام ایک مختصر خطبہ دے کر بیٹھ جائے اور مؤذن اذان دے امام دو خطبہ پڑھے اور اقامت و اذان کو ملایا جائے اس طرح مؤذن کے اقامت کہنے کے ساتھ امام خطبہ سے فارغ ہو جائے گا پھر ایک اذان اور دو اقامتوں کے ساتھ ظہر اور عصر کو ملائے اور نماز میں قصر کرے۔

اس کے بعد موقف کی طرف چل پڑے اور عرفات میں ٹھہر جائے لیکن وادیِ عرنہ میں ہرگز نہ ٹھہریں۔ مسجد ابراہیم کا اگلا حصہ وادیِ عرنہ میں ہے اور پچھلا حصہ عرفات میں ہے۔ لہذا جو شخص مسجد ابراہیم کے اگلے حصے میں وقوف کرے گا اسے وقوف عرفات حاصل نہ ہوگا۔ مسجد میں عرفات کی جگہ کو کچھ پتھروں کے ذریعے ممتاز کیا گیا ہے جو وہاں پچھلے گئے ہیں چاہیے کہ ان پتھروں کے پاس امام کے قریب قبلہ رخ ہو کر سواری پر کھڑا ہو (۳) اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، تسبیح تہلیل، دعا اور توبہ کثرت سے کرے اس دن روزہ نہ رکھے تاکہ دعا کو جاری رکھنے پر قوت حاصل ہو۔ عرفہ کے دن تلبیہ ختم نہ کرے بلکہ یوں کرے کہ کبھی تلبیہ کہے اور کسی وقت دعا کی طرف متوجہ ہو۔

عرفات سے غروبِ آفتاب سے پہلے نہیں نکلنا چاہیے تاکہ عرفات میں دن اور رات کا اجتماع ہو جائے اور اگر چاند میں شک کی وجہ سے آٹھویں تاریخ ایک ساعت وہاں ٹھہرنا ممکن ہو تو یہ احتیاط کے مطابق ہے اور قوت ہونے کے امن ہو جائے گا۔ اور جو شخص یومِ نحر (دس ذوالحجہ) کی صبح تک وقوف نہ کرے تو اس کا حج قوت ہو گیا تو اسے چاہیے کہ عمرہ کے افعال ادا کرے احرام کھول دے اور حج کے قوت ہونے کے سبب قربانی کا جانور ذبح کرے اور اُمّہ سال قضا کرے اس دن زیادہ تر دعائیں مشغول رہے کیوں کہ اس قسم کی جگہ اور اس قسم کے اجتماع میں دعاؤں کی قبولیت کی امید ہوتی ہے۔

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور بزرگوں سے جو دعائیں اس دن کے لیے منقول ہیں وہ دعا مانگنا زیادہ بہتر ہے لہذا یہ دعائیں مانگیں۔

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ ایک ہے اس کا

(۱) صحیح مسلم جلد اول ص ۳۹۶ کتاب الحج

(۲) آج کل حجاج کرام کی تعداد نہ زیادہ ہوتی ہے نیز معیّن کا انتظام ہوتا ہے لہذا جہاں جگہ مل جائے خیمہ لگایا جائے یا معلم کی طرف سے جہاں خیمہ لگایا گیا وہاں وقوف کیا جائے نیز غسل کے لیے پانی کا مٹا بھی مشکل ہوتا ہے ۱۲ ہزار دی

(۳) آج کل جہاں جگہ مل جائے وہاں ہی وقوف کرنا چاہیے البتہ عرفات سے باہر نہ ہو اب وہاں عرفات کی حدود متعین کر دی گئی ہیں ۱۲ ہزار دی

کوئی شریک نہیں اسی کی بادشاہی ہے اور اسی کے لیے تعریف ہے وہ زندہ رکھتا اور مارتا ہے وہ زندہ ہے اس کے لیے موت نہیں اسی کے قبضے میں بھلائی ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے یا اللہ! میرے دل میں نور ڈال دے میرے کانوں اور میری آنکھوں کو نیر میری زبان کو نورانی بنا دے یا اللہ! میرے لیے میرے سینے کو کھول دے اور میرے لیے میرے کام کو آسان کر دے۔

لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ
وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ
عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (اللَّهُمَّ اجْعَلْ فِي
قَلْبِي نُورًا وَفِي سَمْعِي نُورًا وَفِي بَصَرِي
نُورًا وَفِي لِسَانِي نُورًا اللَّهُمَّ اسْرَحْ
لِي صَدْرِي وَتَبِّرْ لِي أَمْرِي -

اور یوں کہے:

اے اللہ! حمد کے رب تیرے لیے حمد ہے جیسے تو قرأت
اور اس سے بھی بہتر جو تو فرماتا ہے میری نماز اور میری
قرآنی، میری زندگی اور میری موت تیرے ہی لیے ہے میرا
ٹھکانہ اور میرا ثواب تیرے پاس ہے یا اللہ! میں دل کے
دوسوں اور کام کے بکھرنے نیز عذابِ قبر سے تیری پناہ
چاہتا ہوں میں اس چیز کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں
جو رات میں داخل ہوتی ہے اور اس چیز کے شر سے
جو دن میں داخل ہوتی ہے اس چیز کے شر سے جیسے
ہوائیں اڑاتی ہیں اور زمانے کے مصائب کے شر سے۔
یا اللہ! میں عاقبت کے پھر جانے اور اچانک آنے والے
عذاب سے اور تیری تمام ناراضگیوں سے تیری پناہ
چاہتا ہوں یا اللہ! مجھے ہدایت عطا فرما اور آخرت اور
دنیا میں مجھے بخش دے اسے بہترین مقصود اور اسے
وہ ذات جو ان تمام میں سے بہتر ہے جن کے پاس اترتے
ہیں جن سے مانگا جاتا ہے ان سب سے بہتر کرم کرنے

اللهم رب الحمد لك الحمد كما
نقول وخير مما نقول لك صلواتي وتسلي
وحياتي ومماتي، واليك ماكي واليك
ثوابي اللهم اني اعوذ بك من وساوس
الصدر وشتات الامر وعذاب القبر،
اللهم اني اعوذ بك من شر ما يلج في
الليل، ومن شر ما يلج في النهار، ومن
شر ما تهب به الرياح ومن شر بوائق
الدهر، اللهم اني اعوذ بك من
تحول عاقبتك وفجأة نعمتك و
جميع سخطك، اللهم اهدني بالهدى،
واغفر لي في الآخرة والاولى، يا خير
مقصود، وأسنن منزل به، واكرم
مسئول مالدیه، اعطني العشية افضل
ما اعطيت احدا من خلقك وحجاج

بیتک یا ارحم الراحمین اللهم یا
 رفیع الدرجات، ومنزل البرکات، ویافاظر
 الارضین والسموات: ضجت الیلک
 الاصوات بصوت اللغات یسألونک
 الحاجات، وحاجتی الیک ان لا تنانی
 فی دار البلاء عاذا نسینی اهل الدنیا، اللهم
 انک تسمع کلومی وتتری مکانی وتعلم
 سری وعلا نیتی ولا یخفی علیک شیء من
 امری، انا البائس الفقیر المستغیث
 المستجیر، الوجل المشفق المعترف
 بذنبه، اسألك مسالة المسکین، وایتهل
 الیک ایتھال المذنب الذلیل، وادعوك
 دعاء الخائف الصریر، دعاء من خضعت
 لک رقبته، وقاضت لک عبرته، وذل
 لک جسده، ورغم لک انفسه - اللهم
 لا تجعلی بدعائک رب شقیاء، وکن بحی
 رعوفا - رحیما، یاخیر المسؤلین، واکرم
 المعطین الھی من مدح لک نفسه فانی
 لا ثم نفسی، الھی من مدح لک نفسه
 فانی لا ثم نفسی، الھی احرصت المعاصی
 لسانی فصالی وسیلت من عمل، ولا مشفع
 سوی الامل - الھی انی اعلم ان ذنوبی
 لم تبق لی عندک جاها ولا بلاعتذار
 وجهها ولیکن اکرم الکرمین - الھی
 ان لما کن اهل ان ابلغ رحمتک

والے مجھے اس سے بہتر شام عطا کر جو تو اپنی مخلوق اور اپنے
 گھر کا حج کرنے والوں کو عطا کرتا ہے اسے سب سے زیادہ
 رحم فرمانے والے۔ اے اللہ! اے درجات کو بلند
 کرنے والے، برکتیں نازل کرنے والے، زمینوں اور آسمانوں
 کو پیدا کرنے والے تیرے سامنے زبانیں مختلف زبانوں
 میں فریاد کرتی ہیں اور تجھ سے اپنی حاجات کا سوال کرتی
 ہیں تیری بارگاہ میں میری حاجت یہ ہے کہ تو مجھے آزمائش
 کے گھر میں نہ بھولنا جب مجھے دنیا والے بھول جائیں گے
 یا اللہ! تو میرا کلام سنتا ہے میرے مکان کا علم رکھتا ہے
 میری پوشیدہ اور ظاہر بہر بات کو جانتا ہے میرا کوئی معاملہ
 تجھ پر پوشیدہ نہیں میں مصیبت زدہ فقیر مدد مانگنے والا
 اور پناہ چاہتے والا ہوں تجھ سے ڈرنے والا اپنے
 گناہوں کا اعتراف کرنے والا ہوں مسکین کی طرح تجھ سے
 سوال کرتا ہوں اور ذلیل گناہ گار کی طرح تیرے حضور
 زاری کرتا ہوں اور خوف زدہ تکلیف یافتہ کی طرح تجھے
 پکارتا ہوں اس شخص کی دعا کی طرح جس کی گردن تیرے
 سامنے جھک گئی۔ اور تیرے لیے اس کے آسوا جاری ہوئے
 تیرے لیے اس کے جسم نے عاجزی اختیار کی اور تیرے
 لیے اس کی ناک خاک آلود ہو گئی اے اللہ! اے میرے
 رب مجھے دعا سے محروم نہ کرتا مجھ پر مہربانی اور رحم
 فرما! اے وہ ذات جو مسئولین میں سے بہتر ہے عطا
 کرنے والوں میں سب سے زیادہ کریم ہے الہی! کوئی
 شخص تیرے سامنے اپنی تعریف کرے تو میں اپنے نفس
 کو علامت کرتا ہوں، یا اللہ! گناہوں نے میری زبان
 بند کر دی ہے اور میرے پاس عمل کا وسیلہ بھی نہیں امید

کے سوا کوئی سفارشی بھی نہیں یا اللہ! میں جانتا ہوں کہ میرے گناہوں نے میرے لیے تیرے ہاں کوئی عزت و مرتبہ نہیں چھوڑا اور نہ عذر پیش کرنے کی وجہ ہے لیکن تو سب سے زیادہ کرم کرنے والا ہے یا اللہ! اگر میں تیری رحمت تک پہنچنے کا اہل نہیں تو تیری رحمت تو مجھ تک پہنچ سکتی ہے تیری رحمت نے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے اور میں بھی ایک چیز ہوں یا اللہ! میرے گناہ اگرچہ بہت بڑے ہیں لیکن تیرے عقود درگزر کے پہلو میں بہت چھوٹے ہیں اے کریم میرے ان گناہوں کو بخش دے یا اللہ! تو، تو ہے اور میں، میں ہوں میں گناہوں کی طرف بار بار جانے والا ہوں اور تو بار بار بخشنے والا ہے یا اللہ! اگر تو صرف اپنے عبادت گزار لوگوں پر رحم فرمائے گا تو گناہ گار کس کے ہاں فریاد کریں گے۔ یا اللہ! میں نے جان بوجھ کر تیری فرمانبرداری سے کنارہ کشی کی اور قصداً تیری نافرمانی کی طرف متوجہ ہوا، تو پاک ہے اور میرے خلاف تیری دلیل کتنی عظیم ہے اور تیرا مجھ معاف کر دینا کتنا بڑا کرم ہے پس تیری دلیل کے وجوب اور میری حجت کے تجھ سے منقطع ہونے نیز تیری بارگاہ میں میری محتاجی اور اپنی بے نیازی کے باعث مجھے بخش دے پکارے جانے والوں میں سے بہتر، بہترین امید گاہ حرمتِ اسلام اور فرمہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے میں، میں تیری بارگاہ میں توسل کرتا ہوں کہ میرے تمام گنہ بخش دے اور مجھے اس موقف (عرفات) سے اس طرح واپس لوٹانا کہ میری تمام حاجات پوری ہو چکی ہوں میرے سوال کے مطابق مجھے عطا فرما، میری تمنا کے مطابق میری امید

فان رحمتك اهل ان تبغني، ورحمتك وسعت كل شيء، وانا شئىء اللهم ان ذنوبى وان كانت عظاما ولكنها صغارتى جنب عفوك فاغفرها لى يا كريم- اللهم انت انت وانا انا انا العواد الى الذنوب ، وانت العواد الى المغفرة اللهم ان كنت لا ترحمنا اهل طاعتك فالى من يفرع المذنبون اللهم تجنبت عن طاعتك عمداً وتوجهت الى معصيتك قصداً ، فسبحانك ما اعظم حجتك على واكرم عفوك ، فبوجوب حجتك على وانقطاع حجتى عنك وفقرى اىك وغناك عنى اذ عفقت لى ، يا خير من دعاه داع ، وافضل من رجاه راجح ، بحرمة الاسلام وبذمة محمد عليه السلام اتوسل اىك فاغفر لى جميع ذنوبى ، واصرفنى من موقفى هذا مقضى الحوائج ، وهب لى ما سألت وحقى رجائى فيما تمنيت اللهم دعوتك بالذم عاد الذى علمتنيه فلا تحرمنى الرجاء الذى عرفتنيه - اللهم ما انت صانع العثية بعبد مقر لك بذنبه ، خاشع لك بذلته ، مستكين بحرمة ، متضرع اىك من عمله ، تائب اىك من اقترافه ، مستغفر لك من طلبه ، ميتهل اىك فى الغفوعته ، طالب

کو پورا فرمایا اللہ ہی نے اس دعا کے ساتھ تجھے پکارا جو تو نے مجھے سکھائی ہے پس تو مجھے اس امید سے محروم نہ کرنا جس کی تو نے مجھے پہچان کروائی ہے یا اللہ! آج رات تو اس بندے کے ساتھ کیا سلوک کرے گا جو اپنے گناہ کا اقرار کرتا ہے ذات کے ساتھ عاجزی کرتا ہے اپنے گناہوں کے باعث میکین ہے اور اپنے عمل کے باعث تیرے سامنے گرا گڑا تا ہے تیرے ہاں اپنے بُرے اعمال سے توبہ کرتا ہے اپنے ظلم کی تجھ سے معافی مانگتا ہے معافی کے لیے تیرے ہاں زاری کرتا ہے اپنی حاجات کی کامیابی کا تجھ سے طالب ہے گناہوں کی کثرت کے باوجود اس موقف میں تجھ سے امید رکھتا ہے پس اسے ہرزندہ کے ہلے اور مومن کے درد گارا ہو نیکی کرتا ہے وہ تیری رحمت کے ساتھ کامیاب ہوتا ہے اور جو خطا کرتا ہے وہ اپنی خطا کے باعث ہلاک ہوتا ہے یا اللہ! ہم تیری طرف نکلے ہیں تیرے صحن میں ٹھہرے ہیں تجھ ہی پر امید رکھتے ہیں جو کچھ تیرے پاس ہے وہ طلب کرتے ہیں تیرے احسان کے درپے ہیں تیری رحمت کی امید رکھتے ہیں تیرے عذاب سے ڈرتے ہیں گناہوں کے بوجھ کے ساتھ تیری طرف بھاگتے ہیں تیرے عزت والے گھر کا حج کرتے ہیں اے وہ ذات جو سوال کرنے والوں کی حاجات کی مالک ہے خاموش رہنے والوں کے دل کی باتوں کو جاننے والے اے وہ ذات جس کے ساتھ کوئی دوسرا رب نہیں جسے پکارا جائے اور اس سے اوپر کوئی رب نہیں جس سے ڈرا جائے جس کا کوئی ذریعہ نہیں جس کے پاس جائیں نہ کوئی دربان

ایک نجات حوائجہ، راجح الیک فی موقفہ مع کثرة ذنوبہ، فیاملجاکل حی، وولی کل مؤمن، من احسن فی رحمتک یفور، ومن اخطا فخطیئته یہاں۔
اللهم الیک خرجنا، وبقناک انحننا، وایاک املنا، وما عندک طلبنا، ولا حسناک تعرضنا، ورحمتک رجونا، ومن عذابک اشفقنا، والیک باثقال الذنوب هربنا، ولیتک الخیر حرجنا، یا من یملک حوائج السائلین، وبعلم ضمائر الصامتین، یا من لیس معہ رب یدعی، ویا من لیس فوقہ خالق یخشی، ویا من لیس لہ وزیر یؤتی وراہ حاجب یدشی، یا من لا یزداد علی کثرة السؤل الا جودا وکرما، وعلی کثرة الحوائج الا تفضلا واحسانا اللهم انک جعلت کل ضیف قری، ونحن اضیافک فاجعل قرانا منک الجنة اللهم ان کل وقد جائزہ وکل زائر کرامہ، وکل سائل عطیہ، وکل راجح ثوابا، وکل ملتمس لیس عندک جزاء وکل مسترحم عندک رحمة وکل راغب الیک زلفی، وکل متوسل الیک عفوا، وقد قدنا الخ بیتک الجرام، ووقفنا بہذہ المشاعر

العظام، وشهدنا هذه المشاهدة الكراما
 وجاء لما عندك، فلا تخيب رجاءنا
 الهنا تابعت النعم حتى اطمانت الروح نفس
 بتناخ نعمك، واظهرت العبر حتى
 نطقنا الصوامت بحجتك، وظهرت
 المنن حتى اعترف اولياؤك بالتقصير
 عن حقلك، واظهرت الآيات حتى
 افصححت السموات والارضون بادلثك،
 وقهرت بقدرتك حتى خضع كل شيء
 لعزتك، وعنت الوجوه لعظمتك،
 اذا اساءت عبادك حامت وامهلت
 وان احسنوا تفضلت وقيلت، وان
 عصوا استررت، وان اذنبوا غفوت وغفرت،
 واذا دعونا اجبت، واذا نادينا سمعت
 واذا اقبلنا اليك قربت،

ہے جس کو رشوت دی جائے اسے وہ ذات جو زیادہ مانگے
 پر زیادہ سخاوت و کرم کرتا ہے اور زیادہ حاجتوں پر زیادہ
 فضل و احسان فرماتا ہے یا اللہ! تو نے ہر مہمان کے لیے
 مہمانی رکھی ہے ہم تیرے مہمان ہیں ہماری دعوت جنت
 کے ذریعے فرمادیا اللہ! ہر وفد کو عطیہ ملتا ہے ہر ملاقاتی
 کی عزت ہوتی ہے ہر سائل کو دیا جاتا ہے ہر امیدوار کے لیے
 ثواب ہر سوال کرنے والے کو تو جزا دیتا ہے ہر رحمت کے
 طالب کے لیے تیرے ہاں رحمت ہے ہر رغبت کرنے
 والے کے لیے تیرے ہاں قرب ہے ہر وسید اختیار کرنے
 والے کے لیے تیرے ہاں معافی ہے ہم تیرے عزت
 والے گھر کی طرف بطور وفد آئے ہیں ان عظمت والے
 مقامات پر کھڑے ہیں اس محترم جگہ پر حاضر ہیں جو کچھ
 تیرے پاس ہے اس کی امید رکھتے ہیں ہماری امید
 کو ناکام نہ کرنا اسے ہمارے معبود تیری نعمتیں مسلسل
 ہیں حتی کہ تیری مسلسل نعمتوں سے دل مطمئن ہیں تو نے

عبرت کے مقامات ظاہر کئے حتی کہ خاموش چیزیں بھی تیری دلیل پر بول اٹھیں تو نے اس قدر احسانات ظاہر کئے کہ
 تیرے دوستوں نے بھی تیرے حق کی ادائیگی میں کوتاہی کا اقرار کیا تو نے نشانیوں ظاہر کیں یہاں تک کہ آسمانوں اور
 زمینوں نے فصاحت سے تیرے دلائل بیان کئے تیری قدرت اس قدر غالب ہے کہ ہر چیز تیری عزت کے سامنے
 سرنگوں ہو گئی اور تیری عظمت کے سامنے تمام صورتوں نے سر جھکا دیا جب تیرے بندے گناہ کرتے ہیں تو تو
 بر دباری سے کام لیتا ہے اور ان کو مہلت دیتا ہے اور اگر وہ نیکی کریں تو تو فضل فرماتا اور قبول کرتا ہے اگر وہ
 نافرمانی کریں تو تو پردہ پوشی کرتا ہے اگر وہ گناہ کریں تو تو معاف کرتا اور بخش دیتا ہے جب ہم تجھے پکاریں تو
 قبول کرتا ہے جب ہم تجھے پکاریں تو تو سنتا ہے اور جب ہم تیری طرف بڑھیں تو تو قرب عطا کرتا ہے۔

اور جب ہم تجھ سے پھر جاتے ہیں تو تو پکارتا ہے الہی! تو نے اپنی روشن کتاب میں حضرت محمد مصطفیٰ جاتم النبیین صلی اللہ

علیہ وسلم سے فرمایا۔

قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَدَّبُّوْا يُغْفَرْ لَهُمْ

آپ ان لوگوں سے فرمادیں جنہوں نے کفر کیا کہ اگر وہ

مَا قَدْ سَلَفَ - (۱)

باز آجائیں تو ان کے گذشتہ گناہ معاف کر دیئے جائیں گے

تو ان کی طرف سے کلمہ توحید کے انکار کے بعد اس کے اقرار نے تجھے راحتی کر دیا ہم عاجزی کے ساتھ تیری توحید کی گواہی دیتے ہیں اور خلوص کے ساتھ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دیتے ہیں پس اس شہادت کے سبب تو ہمارے گذشتہ گناہ معاف کر دے اور اس سلسلے میں ہمارا حصہ اسلام میں داخل ہونے والوں کے حصے سے کم نہ کرنا یا اللہ! تو اس بات کو پسند کرتا ہے کہ ہم اپنے مملوک کو آزاد کر کے تیرا قرب حاصل کریں اور ہم تیرے بند سے ہیں اور فضل کرم میں تو سب سے آگے سے پس ہمیں آزاد کر دے تو نے ہمیں حکم دیا کہ ہم فقرا پر صدقہ کریں اور ہم تیرے فقیر ہیں تو انعام کرتا تیرے شایان شان ہے پس ہم پر انعام فرماتے ہیں حکم دیا کہ ہم اپنے اوپر زیادتی کرنے والوں کو معاف کر دیں اور ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا اور تو کرم کے زیادہ روتق ہے پس ہمیں معاف کر دے اسے ہمارے رب! ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما تو ہمارا مولا ہے اسے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھلائی عطا کر اور اپنی رحمت سے ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔

حضرت خضر علیہ السلام کی دعا بکثرت پڑھے وہ اس طرح ہے۔

اسے وہ ذات! جسے کوئی ایک کام دوسرے کام سے نہیں پھیرتا نہ ایک بات سنا دوسری بات کے سننے سے مشغول رکھتا ہے اس پر آوازیں مشتبہ نہیں نہ مائل ہیں غلطی لگتی ہے اور نہ اس پر زبانیں مختلف ہوتی ہیں اسے وہ ذات! جو نزاری کرنے والوں کی نزاری سے بے فکر نہیں ہوتی اور نہ سوال کرنے والوں کا سوال اسے تنگ کرتا ہے ہمیں اپنے عفو و درگزر کی ٹھنڈک اور قبولیت دعا کی چاشنی چکھا۔

يَا مَنْ لَا يَشْغَلُهُ شَأْنٌ عَنْ شَأْنٍ وَلَا يَسْمَعُ
عَنْ سَمْعٍ وَلَا تَسْتَبِهُ عَلَيْهِ الْأَمْوَآتُ
يَا مَنْ لَا تَغْلِبُهُ الْمَسَائِلُ وَلَا تَخْتَلِفُ
عَلَيْهِ اللُّغَاتُ يَا مَنْ لَا يُبْرِمُهُ الْحَاجُّ
الْمُلْحِجِينَ وَلَا تَفْجُرُهُ مَسْئَلَةُ
السَّائِلِينَ أَذِقْنَا بَرْدَ عَفْوِكَ وَحِلَاوَةَ
مُنَاجَاتِكَ۔

جو دعا مناسب سمجھے مانگے اپنے لیے اور اپنے والدین نیز تمام مومن مردوں اور عورتوں کے لیے بخشش طلب کرے دعا میں نزاری کرے اور خوب مانگے کیوں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی چیز بڑی نہیں حضرت مطرف بن عبد اللہ عرفات ہیں تھے اور یوں کہہ رہے تھے۔

اے اللہ! تو میری وجہ سے ان سب لوگوں کی دعا کو برد نہ کرنا اور حضرت بکر مزنی نے فرمایا کہ ایک شخص نے کہا

جب میں تے عرفات والوں کی طرف نظر کی تو مجھے خیال ہوا کہ اگر میں نہ ہوتا تو ان سب کی بخشش ہو جاتی۔
ساتواں ادب: حج کے باقی اعمال۔

وقت کے بعد مزدلفہ میں رات گزارنا کنکریاں مارنا قربانی کرنا، سر منڈوانا اور طواف کرنا۔
جب غروب آفتاب کے بعد عرفات سے واپس لوٹے تو سکون اور وقار کے ساتھ واپسی ہونی چاہیے گھوڑوں اور اونٹوں کو نہ دوڑائے جیسے بعض لوگوں کی عادت ہے کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑوں کو دوڑانے اور اونٹوں کو تیز چلانے سے منع فرمایا اور فرمایا اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اچھی طرح چلو کسی کمزور نہ روندو اور نہ کسی مسلمان کو اذیت دو۔
جب مزدلفہ میں پہنچے تو اس کے لیے غسل کرے کیوں کہ مزدلفہ حرم کا حصہ ہے لہذا وہاں غسل کر کے داخل ہوا اگر وہاں پیدل داخل ہونے پر قادر ہو تو یہ افضل ہے۔ اور اس میں حرم کی عزت افزائی زیادہ ہے راستے میں بلند آواز سے تلبیہ کہے جب مزدلفہ میں پہنچے تو یوں کہے۔

اے اللہ! یہ مزدلفہ ہے جس میں مختلف زبانوں کے لوگ جمع ہیں یہم تجھ سے از سر نو حاجات کا سوال کرتے ہیں پس مجھے ان لوگوں میں سے کر دے جنہوں نے تجھے پکارا تو ان کی دعا قبول کی گئی۔ اور تجھ پر پھر وسوسہ کیا تو تو نے کفایت فرمائی۔

اللَّهُمَّ إِنَّ هَذِهِ مُزْدَلِفَةٌ جَمَعَتْ فِيهَا أَلْسِنَةً مُخْتَلِفَةً نَسَأَلُكَ حَوَائِجَ مَوْتِنَا فَأَجْعَلْهُ مِنِّي وَمِنْ دَعَاكَ فَاسْتَجِبْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَيْكَ فَلَكَ يَتَهُ۔

پھر مزدلفہ میں عشاء کے وقت میں ایک اذان اور دو فاتحوں کے ساتھ مغرب اور عشاء کی نماز کو جمع کرے اور قصر کرے (اگر مسافر ہو) دونوں نمازوں کے درمیان نقل نہ پڑھے البتہ دونوں فرض نمازیں ادا کرنے کے بعد مغرب اور عشاء کی سنتوں اور وتر نماز کو جمع کرے پہلے مغرب کی سنتیں اور پھر عشاء کی سنتیں پڑھے جیسے فرض نماز میں کیسا تھا کیونکہ سفر میں سنتوں اور نوافل کو چھوڑنا ظاہری نقصان ہے۔ اور انہیں اپنے اپنے وقت پر ادا کرنے کا حکم دینا تکلیف پہنچانا ہے نیز فرائض اور ان کے درمیان جو ترتیب ہے یعنی نفل فرض کے تابع ہیں اسے ختم کرنا ہے جب تابع ہونے کے اعتبار سے ایک تیمم کے ساتھ نوافل کو فرائض کے ساتھ ادا کیا جاسکتا ہے تو فرائض کے تابع کر کے ان کو اکٹھا پڑھنا بدرجہ اولیٰ جائز ہے اور اس بات سے نوافل کا فرائض سے بعض امور میں جدا ہونا رکاوٹ نہیں بنتا مثلاً نفل سواری پر ادا ہو جاتے ہیں جب کہ فرائض ادا نہیں ہوئے یہ اس لیے رکاوٹ نہیں کہ یہ فرض نماز کے تابع ہیں اور حاجت بھی پائی جاتی ہے جیسا کہ ہم نے اشارہ کیا۔

(۱) منہاج امام احمد بن حنبل جلد ۵ ص ۲۰۱ روایات اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما

پھر رات مزدلفہ میں گزارے کیونکہ یہ بھی حج کے احکام میں سے ہے اور جو آدمی اس رات کے پہلے نصف میں وہاں سے نکل جائے اور وہاں رات نہ گزارے تو اس پر دم (جانور ذبح کرنا) لازم ہو جاتا ہے اور اگر ممکن ہو تو اس رات کو عبادت کے ساتھ زندہ رکھنا نہایت عمدہ عبادت سے ہے۔

پھر جب نصف رات گزر جائے تو جانے کی تیاری کرے وہاں سے کنکریاں حاصل کرے کیونکہ وہاں نرم پتھر ہیں ستر کنکریاں چٹنے کیونکہ اسی قدر ضرورت ہے۔ زیادہ لیتے ہیں بھی کوئی حرج نہیں کیونکہ بعض اوقات کوئی کنکری گر جاتی ہے کنکریاں ہلکی پھلکی ہوں کہ انگلیوں کے پوروں پر آسکیں پھر اندھیرے میں صبح کی نماز پڑھے اور چل پڑے یہاں تک کہ جب مشعر حرام کے پاس پہنچے اور وہ مزدلفہ کا آخری حصہ ہے (یعنی مکہ مکرمہ کی جانب) وہاں کھڑا ہو کر صبح کے روشن ہونے تک دعا مانگے اور یوں کہے۔

اللَّهُمَّ بِحَقِّ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَالْبَيْتِ
الْحَرَامِ وَالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَلِزَكْنِ وَالْمَقَامِ
أَبْلَغِ رَوْحِ مُحَمَّدٍ مِنَّا تَحِيَّةً وَسَلَامَةً
وَأَدْخِلْنَا دَارَ السَّلَامِ يَا ذَا الْجَلَدِ
وَالْوَكْرَامِ۔

اے اللہ! مشعر حرام، بیت اللہ شریف اور عزت والے
مہینے، رکن اور مقام ابراہیم کے مدینے میں سرکارِ دو عالم
صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کو ہماری طرف سے
سلام پہنچا اور ہمیں سلامتی کے گھر میں داخل کرے بزرگی
اور عزت والے۔

پھر وہاں سے طلوع آفتاب سے پہلے چل پڑے حتیٰ کہ اس جگہ پہنچے جسے وادی عمر کہتے ہیں اب سواری کو تیز کرنا مستحب ہے حتیٰ کہ وادی سے نکل جائے اور اگر پیدل ہو تو تیز تیز چلے پھر لوم نحر کی صبح تبلیہ کو تکبیر کو ساتھ ملا دے یعنی کبھی تبلیہ کہے اور کبھی تکبیر اور منیٰ پہنچ جائے۔ حجرات (کنکریاں مارنے) کی جگہیں تین ہیں پہلے اور دوسرے ستون سے گزر جائے کیونکہ قربانی کے دن ان دونوں سے کوئی سروکار نہیں حتیٰ کہ حجرہ عقبہ کے پاس پہنچ جائے اور قبلہ رخ ہوں تو یہ دائیں جانب راستے میں پہاڑ کے نیچے کچھ بلندی پر ہے اور کنکریوں کی جگہ میں سے یہ واضح ہے ایک نیزہ سورج بلند ہونے کے بعد حجرہ عقبہ کو کنکریاں مارے۔ (۱)

کنکریاں مارنے کا طریقہ:

کنکریاں مارنے کا طریقہ یہ ہے کہ قبلہ رخ کھڑا ہو اور اگر حجرہ (ستون) کی طرف رخ کرے تو بھی کوئی حرج نہیں بلکہ آج کل یہی طریقہ بہتر ہے، ہاتھ بلند کر کے سات کنکریاں مارے اور تبلیہ کو تکبیر میں بدل دے اور ہر کنکری کے ساتھ کہے
اللَّهُ أَكْبَرُ عَلَى طَاعَةِ الرَّحْمَنِ وَرَعْبِهِ۔
اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، رحمن کی قربانیداری اور

(۱) آج کل وہاں پل بنا ہوا جس کے نیچے بھی کنکریاں مار سکتے ہیں اور وہاں سے بھی۔

السَّيْطَانِ اللَّهُمَّ تَصَدِّقًا بِكِتَابِكَ وَ
 اتِّبَاعًا لِسُنَّةِ نَبِيِّكَ -
 شیطان کی مخالفت پر کنکریاں مار رہا ہوں یا اللہ! میں
 تیری کتاب کی تصدیق کرتا اور تیرے نبی کی سنت پر چلتا ہوں۔
 جب کنکریاں مارنا شروع کرے تو تلبیہ تکبیر کہنا چھوڑ دے البتہ فرض نمازوں کے بعد تکبیر کہے اور یہ یومِ نحر کی فجر
 ایام تشریق میں سے آخری دن (تیرہ ذوالحجہ) کی عصر تک ہیں آج کے دن دعا کے لیے وہاں نہ ٹھہرے بلکہ اپنی منزل
 دعا مانگتے تکبیر کا طریقہ یہ ہے کہ یہ الفاظ کہے۔

اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا
 وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا وَسُبْحَانَ اللَّهِ بُكْرَةً
 وَأَمِيرًا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ
 لَهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ
 لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ صَدَقَ وَعْدُهُ
 وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَذَا الْأَحْزَابِ وَوَعْدُهُ
 لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ -
 اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے اور اللہ تعالیٰ کے لیے
 بہت تعریف ہے ہیں صبح و شام اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی بیان
 کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ ایک ہے
 اس کا کوئی شریک نہیں میں خالص اسی کی عبادت کرتا ہوں
 اگرچہ کافروں کو ناپسند ہو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں
 وہ ایک ہے اس نے اپنا وعدہ سچا کیا اپنے بندے کی
 مدد کی اور تنہا، دشمن کو بھگا یا اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود
 نہیں اور اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے۔

پھر اگر قربانی کا جانور ساتھ ہو تو اسے ذبح کرے بہتر یہی ہے کہ اپنے ہاتھ سے ذبح کرے اور یہ الفاظ پڑھے۔
 بِسْمِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُمَّ مِنْكَ
 وَبِكَ وَإِلَيْكَ تَقَبَّلْ مِنِّي كَمَا تَقَبَّلْتَ
 مِنْ خَدِيكِ إِبْرَاهِيمَ (عليه السلام)
 اللہ تعالیٰ کے نام سے (ذبح کرتا ہوں) اللہ تعالیٰ سب
 سے بڑا ہے اے اللہ! تیری طرف سے اور تیری
 طرف ہے مجھ سے قبول فرما جیسا کہ تو نے اپنے خلیل
 حضرت ابراہیم علیہ السلام سے قبول کیا۔

اونٹوں کی قربانی افضل ہے پھر گائے اور پھر بکری کی۔ لیکن اونٹ اور گائے میں باقی چھ آدمیوں کو شریک کرنے
 کی نسبت بکری کی قربانی افضل ہے اور بکری کی نسبت ذینہ افضل ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔
 خَيْرُ الْأَصْحَابِ الْكَلْبُ الْأَقْرَبُ (۱)
 بہترین قربانی سینگوں والا مینڈھا ہے
 سفید ذینہ بیٹا ہے اور سیاہ رنگ والے سے افضل ہے۔ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا قربانی میں ایک
 سفید ذینہ و سیاہ ذینوں سے افضل ہے اگر یہ نعلی قربانی ہے تو اس سے کھا سکتا ہے۔ ایسے جانور کی قربانی نہ کرے

جس کا کان نیچے یا اوپر سے کٹا ہوا ہو۔ سینگ ٹوٹا ہوا ہو یا پاؤں کٹے ہوئے ہوں اور نہ ایسا کمزور جانور ہو جس کی ہڈیوں میں مغز نہ رہا ہو۔

پھر اس کے بعد سر منڈوانے اور سنت یہ ہے کہ قبلہ رخ ہو اور سر کے اگلے حصے سے ابتدا کر کے دائیں طرف سے سر کو گدی پر اٹھی ہوئی درہڈیوں تک موٹو واوے پھر باقی حصے کو منڈوانے اور یہ الفاظ پڑھے۔
 اللَّهُمَّ أَثْبِتْ لِي كُلَّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٍ وَأَقْمِرْ عَنِّي بِهَا سَيِّئَةً وَارْفَعْ لِي بِهَا عِنْدَكَ دَرَجَةً۔
 اے اللہ! ہر بال کے بدلے میرے لیے ایک نیکی لکھ دے ایک گناہ مٹا دے اور اپنے ہاں ہر بال کے بدلے ایک درجہ بلند کر دے۔

عورت بالوں کو کٹوانے اور گنجنے کے لیے مستحب ہے کہ سر پر استرا پھیروائے۔ جب جمرہ کو کنکریاں مارنے کے بعد سر منڈوانے تو اب وہ احرام سے اس طرح نکل گیا کہ اب اس کے لیے احرام کے تمام ممنوعات حلال ہو گئے البتہ بیوی کا قرب اور شکار بھی جائز نہیں۔

پھر مکہ مکرمہ واپس آئے اور اس طرح طواف کرے جس طرح ہم نے بیان کیا ہے اور یہ طواف حج میں فرض ہے اور اسے طواف زیارت کہتے ہیں اس کا پہلا وقت قربانی کی رات کے نصف کے بعد ہے اور افضل وقت قربانی کا دن ہے اور اس کے لیے آخری وقت مقرر نہیں بلکہ جس وقت تک چلے مؤخر کر سکتا ہے لیکن احرام کی قید باقی رہے گی اور جب تک طواف نہیں کرے گا عورت حلال نہیں ہوگی جب طواف کر لیا تو احرام سے باہر آنے کی تکمیل ہوگی اب جماع بھی حلال ہو گیا اور احرام سے مکمل طور پر باہر آ گیا اب صرف ایام تشریق کی رمی کنکریاں مارنا، اور منیٰ میں رات گزارنا باقی ہے احرام سے نکلنے کے بعد اب یہ حج کی اتباع میں واجب ہے اس طواف کا طریقہ اسی طرح ہے جو طوافِ قدوم میں گزر گیا اور دو رکعتیں بھی پڑھے گا جب دو رکعتیں پڑھ چکے تو سعی کرے جیسا کہ ہم نے بیان کیا لیکن یہ اسی صورت میں ہے جب طوافِ قدوم کے بعد سعی نہ کی ہو۔ اور اگر پہلے سعی کر چکا ہو تو یہ واجب سعی ادا ہوگی اب دوبارہ نہیں کرنی چاہیے۔

احرام سے نکلنے کے اسباب تین ہیں۔ کنکریاں مارنا، سر منڈوانا اور فرض طواف کرنا۔ جب ان تین میں سے دو باتیں پائی جائیں تو دو میں سے ایک حلت پائی گئی، ان تینوں امور کو آگے پیچھے کرنے میں کوئی حرج نہیں لیکن زیادہ اچھا یہ ہے کہ پہلے کنکریاں مارے پھر ذبح کرے پھر سر منڈوانے اور پھر طواف کرے (۱)

امام کے لیے اس دن سنت یہ ہے کہ زوال کے بعد خطبہ دے یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا الوداعی خطبہ تھا۔ اور حج کے موقع پر چار خطبے ہیں (۱) ساتویں ذوالحجہ کا خطبہ، (۲) نویں ذوالحجہ کا خطبہ (۳) قرآنی کے دن کا خطبہ اور

(۱) احناف کے نزدیک ان امور میں ترتیب محض مستحب نہیں بلکہ واجب ہے ۱۲ ہزاروی

(۱) منیٰ سے واپسی کے پہلے دن رہا رہیں ذوالحجہ کا خطبہ (۱)۔ یہ تمام خطبات زوال کے بعد سوتے چاہیں البتہ عرفات دو خطبے ہوں گے اور ان کے درمیان بیٹھنا ہے۔

پھر جب طواف سے فارغ ہو جائے تو رات گزارنے اور کنکریاں مارنے کے لیے منیٰ واپس چلا جائے یہ رات بھی میں گزارے اور یہ "لیلۃ القدر" (ٹھہرنے کی رات) کہلاتی ہے کیونکہ آئندہ روز لوگ وہاں ٹھہرتے ہیں اور واپس نہیں آتے جب عید کا دوسرا دن ہو اور سورج ڈھل جائے تو کنکریاں مارنے کے لیے غسل کرے اور پہلے ستون جو عرفات کی جانب ہے، کا قصد کرے اور یہ گزر گاہ کی دائیں جانب ہے اسے سات کنکریاں مارے جب اس سے آگے نکل جائے تو رات کی دائیں جانب سے کچھ ہٹ کر قبلہ رخ ہو کر کھڑا ہو اور اللہ تعالیٰ کی حمد کرے لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر پڑھے پھر دل کے حاضری اور اعضا کے خشوع و عاجزی کے ساتھ دعا مانگے سورۃ بقرہ پڑھنے کی مقدار قبلہ رخ کھڑا رہے اور دعا مانگے (اگر ممکن ہو) پھر حجرہ وسطیٰ درمیانے ستون کی طرف جائے اور پہلے کی طرح اسے بھی کنکریاں مارے اور جس طرح پہلے کھڑا ہوا تھا یہاں بھی کھڑا ہو کر دعا مانگے۔ پھر حجرہ عقبہ کی طرف بڑھے اسے سات کنکریاں مارے اور کسی عمل میں مشغول نہ ہو بلکہ اپنی رہائش گاہ کی طرف لوٹ آئے اور یہ رات بھی نئی میں گزارے اس رات کو "لیلۃ النقر الاول" (پہلے کوچ کی رات) کہتے ہیں۔ یہاں ہی صبح کرے گا پھر صبح دوسرے دن ظہر کی نماز پڑھ لے تو اس دن بھی ایکس کنکریاں مارے جس طرح گذشتہ روز جاری تھیں اب اسے اختیار ہے کہ منیٰ میں ٹھہرے یا مکہ مکرمہ کی طرف لوٹ آئے اگر غروب آفتاب سے پہلے واپسی ہو جائے تو اس پر کچھ بھی لازم نہ ہوگا اور رات تک ٹھہرا رہا تو اب وہاں سے نکلتا جائز نہیں بلکہ وہاں رات گزارنا ضروری ہے یہاں تک کہ دوسرے دن ایکس کنکریاں مارے جیسے پہلے گزر چکا ہے۔ منیٰ میں رات نہ گزارنے اور کنکریاں نہ مارنے کی وجہ سے جانور ذبح کرنا لازم ہو جاتا ہے، اور اسے چاہیے کہ اس کا گوشت صدقہ کر دے (خود نہ کھائے) منیٰ کی راتوں میں بیت اللہ شریف کی زیارت کے لیے جاسکتا ہے لیکن شرط یہ ہے کہ رات منیٰ ہی میں گزارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح کیا کرتے تھے (۲) مسجد خیف (جو منیٰ میں ہے) میں امام کے ساتھ نماز کو نہ چھوڑے کیونکہ اس میں بہت زیادہ فضیلت ہے (بشرطیکہ امام صحیح العقیدہ ہو) (۳)

(۱) مجمع الزوائد جلد ۵ ص ۴ کتاب الحج۔

(۲) المعجم الکبیر للطبرانی جلد ۲ ص ۲۰۵ حدیث ۱۲۹۰۲

(۳) حضرت امام غزالی رحمہ اللہ کے دور میں صورت حال مختلف تھی اب سعودی عرب میں نجدیوں کی حکومت کی وجہ سے محمد بن عبدالوہاب نجدی کے پیروکار مساجد پر مسلط ہیں اور ان کے عقائد امت مسلمہ کے عقائد سے مختلف ہی نہیں وہ عام مسلمانوں

کو مشرک اور بدعتی بھی قرار دیتے ہیں ۱۲ ہزاروی۔

پھر جب منیٰ سے واپس آئے تو وادی محصب میں ٹھہرے اور عصر، مغرب اور عشاء کی نماز پڑھے اور کچھ دیر ہو گیا یہ سنت ہے (۱) صحابہ کرام کی ایک جماعت نے یہ بات روایت کی ہے اگر ایسا نہ بھی کرے تو اس پر کچھ لازم نہیں ہے۔
آنکھوں ادب عمرہ اور طواف وادع تک باقی امور جو شخص حج سے پہلے یا بعد میں عمرہ کا ارادہ رکھتا ہو تو وہ غسل کر کے احرام کے پیرے پہنے جیسے حج کے ضمن میں بیان

اور میقات سے عمرے کا احرام باندھے۔ عمرے کا میقات جعرانہ ہے پھر تعظیم اور پھر حدیبیہ ہے،

عمرے کی نیت کر کے تلبیہ کہے اور مسجد نبوی رضی اللہ عنہا میں جو تعظیم میں ہے، کا قصد کرے وہاں دو رکعتیں پڑھ کر دعا چاہے مانگے پھر تلبیہ کہتے ہوئے مکہ مکرمہ آجائے اور مسجد حرام میں داخل ہو جائے مسجد میں داخل ہوتے ہی تلبیہ چھو دے اور سات چکر طواف کرے اور سعی کے سات پیرے لگائے جیسے پہلے بیان ہوا جب فارغ ہو تو نو مرتبہ دعا پڑھے اس طرح عمرہ مکمل ہو گیا۔

جو شخص مکہ مکرمہ میں مقیم ہو وہ عمرے اور طواف کثرت کے ساتھ کرے اور بیت اللہ شریف کی طرف بہت زیادہ دیکھے اور اگر کبھی خوش قسمتی سے بیت اللہ شریف میں داخل ہونے کا موقع نصیب ہو تو دوستوں کے درمیان دو رکعتیں پڑھے افضل ہے اور وہاں ننگے پاؤں تعظیم کے ساتھ داخل ہو کسی بوجزیدہ شخص سے پوچھا گیا کہ کیا آپ بیت اللہ کے اندر داخل ہوئے ہیں؟ انہوں نے فرمایا میں ان دو قدموں کو بیت اللہ شریف کے گرد طواف کے قابل نہیں سمجھتا تو میں کس طرف ان کو اس بات کا اہل سمجھوں کہ ان کے ساتھ اپنے رب کے گھر کو پاناں کروں۔ اور مجھے معلوم ہے کہ میرے یہ دونوں پاؤں چلے ہیں اور کس طرف کو چلے ہیں؟

آپ زمزم زیادہ سے زیادہ پینا چاہیے اگر ممکن ہو تو ہاتھ سے ڈول نکالنے دوسروں سے مدد نہ لے (اب یہ صورت نہیں کیوں کہ اب بوٹر کے ذریعے پانی باہر آتا ہے کنواں بندھے اور ٹونٹیوں کے ذریعے پانی حاصل ہوتا ہے ۱۲ ہزار روپی) خوب سیر ہو کر پانی پیئے اور یہ دعا مانگے۔

اللہم! اے ہر بیماری سے شفا بنا دے اور مجھے افعال
 یقین اور دنیا و آخرت میں عاقبت عطا فرما۔

اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ شِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ وَسِقْفَةً وَأَرْزُقْنِي
 الرِّحْلَةَ مِنَ الْيَقِينِ وَالْمَعَاذَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

مَاءٌ زَمْزَمٍ لِمَا شَرِبَ لَكَ - (۲)

آپ زمزم اسی مقصد کے لیے ہے جس کے لیے پیا جائے۔

(۱) صحیح بخاری جلد اول ص ۲۳۶ کتاب الحج

(۲) سنن ابن ماجہ ص ۲۲۶ ابواب المناسک

یعنی جس بیماری کا قصد کیا جائے اس سے شفا حاصل ہوتی ہے۔

نواں ادب : طواف و داغ :

جب وہ فراغت کے بعد وطن کی طرف لوٹنا چاہے تو پہلے باقی تمام کام ختم کرے اور سواری پر کجاوہ وغیرہ کس لے اور بیت اللہ شریف سے رخصت ہونا سب سے آخری کام ہو چاہیے اس رخصتی کا طریقہ یہ ہے کہ طواف کے سات چکر لگائے لیکن اس میں رمل اور اضطباع نہ ہو، رنہ پہلوانوں کی طرح چلے اور نہ چادر کو بغل کے نیچے سے لے جا کر بائیں کاڈھے پر ڈالے، جب طواف سے فارغ ہو تو مقام ابراہیم کے پیچھے دو رکعتیں پڑھے اور آپ زمزم نوش کرے پھر ملتزم کے پاس آکر دعا مانگے اور گڑگڑاتے ہوئے یوں کہے۔

اللَّهُمَّ إِنَّ الْبَيْتَ بَيْتَكَ وَالْعَبْدَ عَبْدُكَ
وَأَبْنُ عَبْدِكَ وَأَبْنُ أُمَّتِكَ، حَمَلْتَنِي عَلَى
مَا سَخَّرْتَ لِي مِنْ خَلْقِكَ حَتَّى سَيَّرْتَنِي فِي
بِلَادِكَ وَبَلَّغْتَنِي بِبِعْمَلِكَ حَتَّى أَعْتَبْتَنِي
عَلَى قَضَائِ مَنَاسِكَ، فَإِنْ كُنْتَ رَضِيتَ
عَنِّي فَارْزُقْ عَنِّي رِضًا، وَإِلَّا فَمِنَ الْآتِ
قَبْلَ تَبَاعُدِي عَن بَيْتِكَ، هَذَا وَأَتِ
النَّصْرَاقِي إِنْ أَذِنْتَ لِي عِنْدَ مُسْتَبْدِلِي نِيكَ
وَلَا بِيُتِيكَ وَلَا رَأَيْتَ عَنكَ وَلَا عَن
بَيْتِكَ، اللَّهُمَّ صَحْبِنِي الْعَافِيَةَ فِي
بَدَنِي، وَالْعِصْمَةَ فِي دِينِي، وَأَحْسِنْ مُنْقَلَبِي،
وَارْزُقْنِي طَاعَتَكَ أَبَدًا مَا بَلَّغْتَنِي، وَاجْمَعْ
لِي خَيْرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ
قَدِيرٌ، اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْ هَذَا آخِرَ عَهْدِي
بِبَيْتِكَ الْحَرَامِ، وَإِنْ جَعَلْتَهُ آخِرَ
عَهْدِي فَمَرْضِي عَنهُ الْجَنَّةَ۔

یا اللہ! بے شک بیت اللہ شریف تیرا گھر ہے اور یہ بندہ
تیرا بندہ ہے تیرے بندے اور باندی کا بیٹا ہے تو نے
مجھے اس چیز پر سوار کیا جسے تو نے میرے لیے مسخر کیا
حتیٰ کہ تو نے مجھے اپنے شہروں کی سیر کرائی مجھے اپنی نعمت
عطا کی حتیٰ کہ تو نے مناسب حج کو پورا کرنے پر میری
مدد کی۔ اگر تو مجھ سے راضی ہے تو مزید رضا عطا فرما ورنہ
اس گھر سے الگ ہونے سے پہلے پہلے مجھ پر احسان فرما یہ
میری واپسی کا وقت ہے اگر تو مجھے اجازت دے اس
حال میں کہ میں تیری جگہ کسی اور کو اختیار نہ کروں نہ تیرے گھر
کی جگہ دوسرا گھر تلاش کروں تجھ سے اور تیرے گھر سے
منہ پھیرنے والا ہوں نہ ہو جاؤں یا اللہ! مجھے میرے بدن
میں عافیت اور دین میں حفاظت عطا فرما میری واپسی
کو اچھا بنا دے اور خب تک مجھے باقی رکھے اپنی اطا
کی توفیق دے میرے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائی
جمع کر دے بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ یا اللہ!
بیت اللہ شریف کی میری اس حاضری کو آخری نہ بنانا
اور اگر تو نے اسے میری آخری حاضری قرار دیا ہے تو اس
کے بدلے مجھے جنت عطا کر۔

مستحب یہ ہے کہ جب تک بیت اللہ شریف سے غائب نہ ہو اس سے نگاہ نہ پھیرے۔

دسواں ادب مدینہ طیبہ کی زیارت اور اس کے ادب:

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

مَنْ زَارَنِي بَعْدَ وَقَاتِي فَكَأَنَّمَا زَارَنِي فِي

حَيَاتِي - (۱)

جس نے میرے وصال کے بعد میری زیارت کی گویا اس نے میری زندگی میں میری زیارت کی۔

اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

وَمَنْ وَجَدَ سَعَةً وَلَمْ يَفْعَلْ كَيْفَ فَتَدَّ

جَعَانِي - (۲)

اور جو شخص نے طاقت کے باوجود میری طرف نہ آیا اس نے مجھ پر ظلم کیا۔

اور آپ نے فرمایا:

مَنْ جَاءَنِي زَائِرًا لَا يَهْتَدِي إِلَى زِيَارَتِي

كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ سُبْحَانَهُ أَنْ أَكُونَ

لَهُ شَفِيعًا - (۳)

جو شخص میری زیارت کے لیے آئے اور میری زیارت کے سوا اس کا کوئی مقصد نہ ہو تو اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے کہ میں اس کا شفیع بنوں۔

جو آدمی مدینہ طیبہ کی زیارت کا ارادہ کرے تو وہ راستے میں کثرت سے درود شریف پڑھے۔

جب مدینہ طیبہ کی دیواروں اور درختوں پر نظر پڑے تو یوں کہے۔

اللَّهُمَّ هَذَا حَرَمٌ وَسُؤْلُكَ فَاجْعَلْهُ لِي

وَقَايَةً مِنَ النَّارِ وَأَمَانًا مِنَ الْعَذَابِ

وَسُورِ الْحَسَابِ -

یا اللہ! یہ تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حرم پاک ہے اسے میرے لیے آگ سے بچنے تیز عذاب اور برے حساب سے امن کا باعث بنا۔

داخلے سے پہلے مرہ سے غسل کرے اور خوشبو لگائے اور نہایت پاک صاف کپڑے پہنے اور جب داخل ہوتو

تواضع کے ساتھ اور تعظیم بحال لاتے ہوئے داخل ہو اور یوں کہے۔

بِسْمِ اللَّهِ وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ رَبِّ

أَدْخَلَنِي مَدْخَلَ صِدْقِي وَأَخْرَجَنِي

اللہ تعالیٰ کے نام سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر داخل ہونا ہوں اسے میرے رب مجھے

(۱) سنن دارقطنی جلد ۲ ص ۲۷۸ حدیث ۱۹۳

(۲) تنزیہ الشریفہ المرقومہ جلد ۲ ص ۱۷۲ کتاب الحج

(۳) المعجم الکبیر للطبرانی جلد ۱۲ ص ۲۹۱ حدیث ۱۳۱۲۹

مُخَرِّجِ صِدْقِي وَاجْعَلْ لِي مِثْلَ ذَلِكَ
سُلْطَانًا نَصِيرًا۔

سچائی کے ساتھ داخل کر اور سچائی کے ساتھ باہر لانا اور
میرے لیے اپنی طرف سے مددگار غلبہ بنا دے۔

پھر مسجد شریف کا قصد کرے اور وہاں داخل ہو منبر شریف کے پاس دو رکعتیں پڑھے منبر شریف کے پائے کو اپنے
دائیں کانڈھے کے مقابل رکھے اور منبر اس ستون کی طرف کرے جس طرف صندوق ہے مسجد شریف کے قبلہ میں جو دائرہ ہے
وہ آنکھوں کے سامنے ہو، مسجد کی تبدیلی سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں کھڑے ہو کرتے تھے۔ اور کوشش
کرے کہ مسجد کے اس حصے میں نماز ادا کرے جو توسیع سے پہلے (شروع شروع ہیں) تھی۔

پھر سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف کے پاس آئے آپ کے رخ انور کے سامنے
کھڑا ہو یعنی قبلہ کی طرف بیٹھتا ہو اور روضہ شریف کی دیوار کی طرف رخ کر کے اس ستون سے
چار گز کے فاصلے پر کھڑا ہو جو روضہ شریف کی دیوار میں ہے قندیل سر کے اوپر رہے اور دیوار کو ہاتھ لگانا یا بوسہ دینا سنت
نہیں بلکہ دور کھڑا ہوئے میں زیادہ احترام ہے پس وہاں کھڑا ہو کر یوں سلام پیش کرے۔

روضہ مطہرہ پر حاضری

اے اللہ کے رسول! آپ پر سلام ہو، اے اللہ کے نبی!
آپ پر سلام ہو، اے اللہ کے امانت دار! آپ پر سلام ہو،
اے اللہ کے حبیب! آپ پر سلام ہو، اے اللہ کے چنے
ہوئے آپ پر سلام ہو، اے اللہ کی بہتر مخلوق! آپ پر
سلام ہو، اے احمد! آپ پر سلام ہو، اے اللہ کی بہترین
مخلوق! آپ پر سلام ہو، اے احمد! آپ پر سلام ہو، اے
محمد! آپ پر سلام ہو، اے ابوالقاسم! آپ پر سلام ہو، اے
گناہوں کو مٹانے والے! آپ پر سلام ہو، اے سب سے
آخر میں آنے والے! آپ پر سلام ہو، اے جمع کرنے والے!
آپ پر سلام ہو، اے خوشخبری دینے والے! آپ پر سلام
ہو، اے ڈرانے والے! آپ پر سلام ہو، اے پاکیزہ
ذات! آپ پر سلام ہو، اے طاہر! آپ پر سلام ہو، اے
اولادِ آدم میں سے سب سے زیادہ مکرم! آپ پر سلام
ہو، اے رسولوں کے سردار! آپ پر سلام ہو، اے سب
سے آخری نبی! آپ پر سلام ہو، اے رب العالمین کے

السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، السَّلَامُ عَلَيْكَ
يَا نَبِيَّ اللَّهِ، السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَمِينَ اللَّهِ،
السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ، السَّلَامُ
عَلَيْكَ يَا صَفْوَةَ اللَّهِ، السَّلَامُ عَلَيْكَ
يَا خَيْرَةَ اللَّهِ، السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَحْمَدَ، السَّلَامُ
عَلَيْكَ يَا مُحَمَّدَ، السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَبَا
الْقَاسِمِ، السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مَاجِي السَّلَامِ
عَلَيْكَ يَا عَاقِبَ، السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا حَاقِقِ،
السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا بَشِيرَ، السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا
نَذِيرَ، السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا طَهْرَ، السَّلَامُ عَلَيْكَ
يَا طَاهِرَ، السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا كَرِيمَ، السَّلَامُ
عَلَيْكَ يَا سَيِّدَ الْمُرْسَلِينَ، السَّلَامُ
عَلَيْكَ يَا خَاتَمَ النَّبِيِّينَ، السَّلَامُ عَلَيْكَ
يَا رَسُولَ رَبِّ الْعَالَمِينَ، السَّلَامُ عَلَيْكَ
يَا قَائِدَ الْخَيْرِ، السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا فَاتِحَ

الْبِرِّ، السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ الرَّحْمَةِ، السَّلَامُ
 عَلَيْكَ يَا هَادِيَ الْأُمَّةِ، السَّلَامُ عَلَيْكَ
 يَا قَائِدَ الْغُرِّ الْمُجْتَلِبِينَ، السَّلَامُ عَلَيْكَ
 وَعَلَى أَهْلِ بَيْتِكَ الَّذِينَ أَذْهَبَ اللَّهُ عَنْهُمْ
 الرِّجْسَ وَطَهَّرَهُمْ تَطْهِيرًا، السَّلَامُ عَلَيْكَ
 وَعَلَى اصْحَابِكَ الطَّيِّبِينَ وَعَلَى أَزْوَاجِكَ
 الطَّاهِرَاتِ امْهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ، جَزَاكَ
 اللَّهُ عَنَّا أَفْضَلَ مَا جَزَى بَدِيْعًا عَن قَوْمِهِ وَرَسُولِهِ
 عَن أُمَّتِهِ وَصَلَّى عَلَيْكَ كُلَّمَا ذَكَرَكَ الذَّاكِرُونَ
 وَكُلَّمَا غَفَلَ عَنكَ الْغَافِلُونَ، وَصَلَّى
 عَلَيْكَ فِي الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ أَفْضَلَ وَ
 أَكْمَلَ وَأَعْلَى وَأَجَلَ وَأَطْيَبَ وَأَطْهَرَ مَا
 صَلَّى عَلَى أَحَدٍ مِّنْ خَلْقِهِ، كَمَا اسْتَنْقَذَنَا
 بِكَ مِنَ الضَّلَالَةِ، وَبَصَّرَنَا بِكَ مِنَ الْعَمَايَةِ
 وَهَدَانَا بِكَ مِنَ الْجَهَالَةِ، أَشْهَدُ أَنْ لَا
 إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ
 أَنَّكَ عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَأَمِيئُهُ وَصَفِيُّهُ
 وَخَيْرَتُهُ مِنْ خَلْقِهِ، وَأَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ
 بَلَغْتَ الرِّسَالَاتِ، وَأَدَيْتَ الْأَمَانَةَ، وَ
 نَصَحْتَ الْأُمَّةَ، وَجَاهَدْتَ عَدُوَّكَ،
 وَهَدَيْتَ أُمَّتَكَ، وَعَبَدْتَ رَبَّكَ حَتَّى
 آتَاكَ الْيَقِيْنَ، فَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْكَ وَعَلَى
 أَهْلِ بَيْتِكَ الطَّيِّبِينَ وَسَلَّمَتْ سُرُوفُ
 وَكُرْمُ وَعُظْمُ

بھیجے ہوئے آپ پر سلام ہو، اسے بھلائی کے قائد !
 آپ پر سلام ہو، اسے نیکی کا دروازہ کھولنے والے !
 آپ پر سلام ہو، اسے نبی رحمت ! آپ پر سلام ہو، امت
 کے ہادی ! آپ پر سلام ہو، اسے چمکتے چہروں والوں کے
 قائد ! آپ پر سلام ہو آپ پر سلام ہو اور آپ کے اہل بیت
 پر جن سے اللہ تعالیٰ نے ناپاکی کو دور کیا اور انہیں خوب
 پاک کیا۔ آپ پر سلام ہو اور آپ کے پاکیزہ صحابہ کرام
 پر اور آپ کی پاک ازواج پر جو مومنوں کی ماہیں ہیں،
 اللہ تعالیٰ ہماری طرف سے آپ کو اس سے بھی افضل جزا
 عطا فرمائے جو اس نے کسی نبی کو اس کی قوم کی طرف سے
 اور کسی رسول کو اس کی امت کی طرف سے عطا فرمائی۔ اللہ
 تعالیٰ آپ پر رحمت نازل فرمائے جب بھی یاد کرنے
 والے آپ کو یاد کریں اور حبیب بھی غافل لوگ آپ سے
 غافل رہیں۔ اللہ تعالیٰ پہلوں اور پچھلوں میں آپ پر وہ رحمت
 نازل فرمائے جو کسی مخلوق پر نازل ہونے والی رحمت سے
 زیادہ فصیلت والی، زیادہ کامل، زیادہ بلند اور زیادہ پاک
 ہو جس طرح اس نے ہمیں آپ کے ذریعے مگر ہی سے
 نکالا اور آپ کے سبب ہمیں اندھے پن سے بچا کر بینائی
 عطا کی۔ آپ کے وسیلہ جلیلہ سے ہمیں ہدایت دی ہیں گواہی
 دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں گواہی دیتا
 ہوں کہ آپ اس کے بندے اور رسول ہیں اس کے امانت دار
 اور چہرے ہوئے اور مخلوق میں سے بہترین میں گواہی دیتا
 ہوں کہ آپ نے اس کا پیغام دیا، امانت ادا کر دی، امت
 کی خیر خواہی کی، اپنے دشمن کے خلاف جہاد کیا، امت
 کو ہدایت دی اور وفات تک اپنے رب کی عبادت کی پس آپ پر اور آپ کی پاکیزہ آل پر اللہ تعالیٰ کی رحمت

اور سلام ہو نیز ان کے لیے شرافت، کرم اور عظمت ہو اور اگر کسی آپ کی بارگاہ میں سلام پہنچانے کی نصیحت کی ہو تو اس طرح کہے۔

اسَلَامٌ عَلَيْكَ مِنْ قُلَانٍ اَسَلَامٌ عَلَيْكَ
فلاں کی طرف سے آپ کو سلام پہنچنے فلاں کی طرف
سے آپ کو سلام ہو۔

پھر ایک گز کے فاصلے پر ہٹ کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں سلام پیش کرے کیونکہ ان کا سر مبارک حضور علیہ السلام کے کاندھے مبارک کے پاس ہے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا سر انور، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے کاندھے مبارک کے پاس ہے۔

پھر ایک گز کا فاصلہ پر ہٹ کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہما کی خدمت میں سلام پیش کرے اور یوں کہے۔
اَسَلَامٌ عَلَيْكَ يَا وَزِيْرِي رَسُوْلِ اللّٰهِ
صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمَعَادِيْنِ لَكَ
عَلَى الْاَيْمَانِ بِالْاَيْمَانِ مَا دَامَ حَيًّا
وَالْقَائِمِيْنَ بِاَمْتِهِ بَعْدَهُ بِاُمُوْرِ الدِّيْنِ
تَتَّبِعَانِ فِيْ ذٰلِكَ اَثَارًا وَتَقِيْلَاتٍ
بِسُنَّتِهِ فَجَزَاكَمَّا اللّٰهُ خَيْرًا مَّا جَزَى
وَزِيْرِيْ نَبِيٍّ عَن دِيْنِهِ -
اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو وزیروں اور
جب تک آپ زندہ تھے دین کے معاملے میں آپ کی
مدد کرنے والوں اور آپ کے بعد امت کے لیے امور دین
قائم کرنے والوں پر سلام ہو اس سلسلے میں تم
حضور علیہ السلام کے نقش قدم پر چلے اور آپ کی سنت کے
کے مطابق عمل کیا اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کے دو وزیروں کو
اس کے دین کے اعتبار سے جو جزا دی ہے اللہ تعالیٰ تمہیں
اس سے بہتر بدلہ عطا فرمائے۔

پھر واپس لوٹ کر سرکارِ دو عالم کی قبر شریف اور آج کل حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ کے زمانے میں جو ستون ہے
اس کے درمیان آپ کے سر انور کے سامنے کھڑا ہو۔ اور قبلہ رخ ہو کر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور بزرگی بیان کرے اور سرکارِ
دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود شریف پڑھے پھر کہے۔

يا اللّٰهُ! تو نے فرمایا اور تیری بات سچی ہے کہ اگر وہ اپنے
نفسوں پر ظلم کر بیٹھیں تو آپ کے پاس آئیں پھر اللہ تعالیٰ
سے بخشش مانگیں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان
کے لیے بخشش طلب کریں تو اللہ تعالیٰ کو بہت توبہ قبول

اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ قُلْتَ وَقَوْلِكَ الْحَقُّ
رَوَّلُوْا اَنْفُسَهُمْ اِذَا ظَلَمُوْا اَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ
فَاَسْتَغْفِرْ مِنْ وَا اللّٰهُ وَاَسْتَغْفِرْ لَهُمْ اَلرَّسُوْلُ
لَوْ جِدَّ وَا اللّٰهُ تَوَابًا رَّحِيْمًا (۱) اَللّٰهُمَّ

کرنے والا مہربان پائیں گے۔ یا اللہ ہم نے تیرا کلام سنا
اور تیرے حکم کو مانا، تیرے نبی کا قصہ لیا ہم اپنے گناہوں
اور ان گناہوں کے بارے میں ان کو شفیع بناتے ہیں
جنہوں نے ہماری پیٹھیوں پر نوبہ جھل کر دیا ہم اپنی لغزشوں
سے توبہ کرتے ہیں اپنی خطاؤں اور کوتاہیوں کا اعتراف
کرتے ہیں یا اللہ! ہماری توبہ قبول فرما ہمارے حق میں
اپنے نبی کی سفارش کو قبول فرما ان کے اس درجہ جو
تیرے ہاں ہے اور اس حق کے وسیلے سے جو تجھ پر
ہے ہماری توبہ قبول فرما یا اللہ! مہاجرین و انصار کو بخش
دے ہمیں بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو جو
ایمان کے ساتھ ہم سے پہلے چلے گئے یا اللہ! اپنے
نبی کی قبر انور اور اپنے حرم شریف میں ہماری اس حاضری
کو آخری حاضری نہ کرنا اسے سب سے زیادہ رحم کرنے والے

اِنَّا قَدْ سَمِعْنَا قَوْلَكَ وَاَطَعْنَا اَمْرَكَ
وَقَصَدْنَا نَبِيَّكَ مُتَشَفِّعِينَ بِهٖ اِلَيْكَ
فِي ذُنُوبِنَا وَمَا اَثَقَلْ ظَهْرُنَا مِنْ اَوْزَارِنَا
تَاْسِيْنَ مِنْ زُلْمِنَا مُعْتَرِفِيْنَ بِخَطَايَانَا
وَتَقْصِيْرِنَا قُبِّ اَللّٰهُمَّ عَلَيْنَا
وَشَفِّعْ نَبِيَّكَ هٰذَا فَيْنَا وَاَرْفَعْنَا
بِمَنْزِلَتِهِ عِنْدَكَ وَحَقِّهِ عَلَيْكَ
اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِمُهَاجِرِيْنَ وَاَنْصَارِ
وَاعْفِرْ لَنَا وَاَوْجُوْرَانَا الَّذِيْنَ سَبَقُوْنَا
بِالْاِيْمَانِ اَللّٰهُمَّ لَا تَجْعَلْهُ اٰخِرَ
الْعَهْدِ مِنْ قَبْرِ نَبِيِّكَ وَمِنْ حَرَمِكَ
يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ

اس کے بعد ریاض الجنۃ میں جائے اور اس میں دو رکعتیں پڑھنے کے بعد جس قدر ممکن ہو کثرت سے دعائے نبی
اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

میری قبر شریف اور منبر کے درمیان جنت کا ایک باغیچہ
ہے اور میرا منبر میرے حوض (حوض کوثر) پر ہے۔

مَا بَيْنَ قَبْرِيْ وَصَبْرِيْ رَوْضَةٌ مِّنْ
رِّيَاضِ الْجَنَّةِ وَ مِثْبَرِيْ عَلٰى حَوْضِيْ (۱)

منبر شریف کے پاس بھی دعائے مانگے اور مستحب ہے کہ اپنا ہاتھ نیچے پائے پر رکھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے
وقت اپنا ہاتھ مبارک اسی جگہ رکھتے تھے (۲)

مستحب ہے کہ جمعرات کے دن اہل شریف جائے اور شہداء کرام کے قبروں کی زیارت کرے صبح کی نماز مسجد نبوی شریف
میں پڑھے پھر نکل جائے اور ظہر کی نماز کے لیے واپس آئے۔ مسجد شریف میں فرض نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا نہ چھوڑے
اور ہر دن بارگاہ نبوی میں سلام پیش کرنے کے بعد جنت البقیع میں جائے اور حضرت عثمان غنی اور حضرت حسن رضی اللہ
عنہما کی قبروں کی زیارت کرے جنت البقیع ہی میں حضرت علی بن حسین (امام زین العابدین) حضرت محمد بن علی اور حضرت محمد

جعفر رضی اللہ عنہم کے قبر میں بھی ہیں مسجد حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا میں نماز پڑھے اور حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہم (سہرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے) کی قبر شریف اور حضور کی چھوٹی حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کی قبر کی زیارت کرے یہ تمام قبریں جنت البقیع میں ہیں (۱)

ہر ہفتے کے دن مسجد قبا شریف میں حاضری دے کیونکہ روایات میں ہے۔

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:
 مَنْ خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ حَتَّى يَأْتِيَ مَسْجِدَ
 قِبَاءٍ وَيُصَلِّيَ فِيهِ كَانَ لَهُ عِدْلُ حُمْدِ مُحَمَّدٍ -
 جو شخص اپنے گھر (جہاں وہ ٹھہرا ہوا ہے) سے نکلے
 اور مسجد قبا میں آکر نماز پڑھے تو اس کے لیے ایک عمرے
 کا ثواب ہے۔ (۲)

بٹرا لیں (ایک کنواں ہے) کے پاس آئے کہا جاتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اپنا لعاب مبارک ڈالا
 تھا اور یہ مسجد کے پاس ہے اس سے وضو کرے اور اس کا پانی پیئے۔ مسجد فتح میں آئے اور یہ خندق کے پاس ہے اسی
 طرح دیگر مساجد اور تبرک مقامات پر حاضری دے کہا جاتا ہے کہ مدینہ طیبہ میں تمام زیارت گاہیں اور مساجد تیس مقامات
 ہیں۔ شہر کے لوگ ان سے واقف ہیں جس قدر ممکن ہے ان کا ارادہ کرے اسی طرح ان کنوؤں پر بھی جائے کی کوشش
 کرے جن سے سہرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے، غسل کرتے اور پانی نوش فرماتے تھے۔ (۳)

یہ سات کنویں ہیں ان سے شفا اور حضور علیہ السلام کا تبرک حاصل کرے اگر حرم شریف کی تعلیم کی رعایت کے ساتھ
 وہاں ٹھہرنا ممکن ہو تو یہ بیت بڑی فضیلت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔
 لَا يَصْبِرُ عَلَى لَوَائِهَا وَشِدَّتِهَا أَحَدٌ
 إِلَّا كُنْتُ لَهُ شَفِيعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ (۴)

جو شخص مدینہ طیبہ کی شدت اور سختی پر صبر کرتا ہے میں
 قیامت کے دن اس کی سفارش کروں گا۔

اور آپ نے ارشاد فرمایا:

(۱) اقبوس کی بات یہ ہے کہ نجدی حکومت اور نجدی علماء کے خود ساختہ عقیدہ توحید کی وجہ سے اب کسی قبر شریف کا پتہ نہیں چلتا چند
 قبروں کے علاوہ باقی پتھر ہی پتھر میں اور ان قبروں پر بھی کوئی علامت نہیں کہ یہ کس کی قبر ہے بعض کتب پاکسی کے بتانے سے
 کچھ معلوم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ حرمین شریفین کے تقدس کو بحال فرمائے آمین ۱۲ ہزاروی۔

(۲) سنن ابن ماجہ ص ۳۰ کتاب الصلاة

(۳) صحیح مسلم جلد اول ص ۴۳ کتاب الزکوٰۃ

(۴) صحیح مسلم جلد اول ص ۴۴ کتاب الحج

مَنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَمُوتَ بِالْمَدِينَةِ فَلْيَمِتْ
فَإِنَّهُ لَنْ يَمُوتَ بِهَا أَحَدًا لَوْ كُنْتُ لَكَ
شَفِيعًا أَوْ شَهِيدًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ -

جو شخص مدینہ طیبہ میں فوت ہو سکتا ہو اسے وہاں فوت
ہونا چاہیے کیونکہ جو آدمی مدینہ طیبہ میں (ایمان پر) فوت
ہوگا میں قیامت کے دن اس کا سفارشی یا (فریاد) گواہ
ہوں گا۔

(۱)

پھر جب اپنی مشغولیت سے فارغ ہو جائے اور مدینہ طیبہ سے جانے لگے تو مستحب یہ ہے کہ قبر انور پر حاضر ہو اور دعائے
زیارت جن کا ذکر ہو چکا ہے دوبارہ مانگے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے رخصت ہو اللہ تعالیٰ سے سوال کرے کہ وہ
دوبارہ حاضری نصیب فرمائے سفر میں سلامتی کی دعا مانگے پھر روضہ صغیرہ میں دو رکعتیں پڑھے اور یہ وہ جگہ ہے کہ مسجد میں مقصود
کے اضافہ سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں کھڑے ہوتے تھے جب باہر آنے لگے تو پہلے بائیں پاؤں باہر نکالے
پھر دایاں، اور یوں کہے۔

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ
وَلَا تَجْعَلْهُ إِخْرًا لِعَهْدِ بَيْتِكَ وَحَطَّ
أَوْزَارِي لِبِزْيَارَتِهِ وَأَصْحَابِي فِي
سَفَرِي السَّلَامَةَ وَيَسِّرْ رُجُوعِي إِلَى
أَهْلِي وَوَطَنِي سَالِمًا يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ -

(۲)

اے اللہ! حضرت محمد مصطفیٰ اور آپ کی آل پر رحمت
نازل فرما اپنے نبی کی بارگاہ میں اس حاضری کو آخری حاضری
نہ بنانا اور آپ کی زیارت کے صدقے میرے بوجھ
اتار دے مجھے سفر میں سلامتی عطا فرما اہل و عیال اور
وطن کی طرف میری واپس کو سلامت رکھنا اے سب
سے زیادہ رحم فرمانے والے۔

جس قدر ممکن ہو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوسیوں پر صدقہ کرے اور مدینہ طیبہ اور مکہ مکرمہ کے درمیان مساجد
جن کی تعداد تقریباً بیس ہے، ان میں جائے اور نماز پڑھے۔

سفر سے واپسی کے آداب | رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی غزوہ یا حج یا عمرہ سے واپس تشریف لاتے
تو ہر اونچی جگہ پر تین تکبیر کہتے اور یہ کلمات پڑھتے تھے۔

اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ ایک ہے اس کا
کوئی شریک نہیں اسی کی بادشاہی ہے اور وہی لائق حمد
ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے ہم رجوع کرنے والے
ہیں تو بے کرنے والے، عبادت کرنے والے اپنے رب کو

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ
الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ
قَدِيرٌ لَا يُشْرِكُ كَاتِبُونَ عَابِدُونَ، سَاجِدُونَ
لِرَبِّنَا حَامِدُونَ صَدَقَ اللَّهُ وَعْدَهُ

(۱) سنن ابن ماجہ ص ۲۲۲ ابواب المناسک

وَنَصْرَ عَبْدَا وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحَدَّثَنَا (۱)
 سجدہ کرتے والے اور تعریف کرنے والے ہیں ہمارے
 رب نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا اپنے بندے کی مدد کی اور دشمن کے لشکروں کو تنہا بھگا دیا۔
 بعض روایات میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا ہر چیز بھلاک ہونے والی ہے اور غم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔
 جب اپنے شہر کے قریب پہنچے تو سواری کو حرکت دے اور یوں کہے۔
 اللَّهُمَّ اجْعَلْ لَنَا بِهَا قَرَارًا وَمِنْ قَرَارِ
 اے اللہ! ہمیں اس شہر میں قرارہ اور اچھا رزق عطا
 فرما۔
 حَسَنًا۔ (۲)

پھر کسی کو بھیج کر گھر والوں کو اپنی آمد کی اطلاع کرے تاکہ یہ ان کے پاس اچانک نہ جائے سنت طریقہ یہی ہے رات
 کے وقت گھر والوں کے پاس نہ جائے۔
 پھر حبیب شہر میں داخل ہو تو پہلے مسجد کا قصد کرے اور دو رکعتیں پڑھے یہی سنت ہے (۳) رسول اکرم صلی اللہ علیہ
 وسلم اسی طرح کیا کرتے تھے۔

جب گھر میں داخل ہو تو یوں کہے۔
 تَوْبًا تَوْبًا لِرَبِّنَا أَوْبًا وَلَا يُعَادِرُ عَلَيْنَا
 میں توبہ کرتا ہوں توبہ کرتا ہوں اپنے رب کی طرف رجوع
 کرتا ہوں وہ ہم پر کوئی گناہ نہ چھوڑے بلکہ معاف فرما
 حَوْبًا۔

(۴)

جب گھر میں مطمئن ہو جائے تو اس بات کو نہ بھلائے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر انعام کیا کہ اسے اپنے پاک گھر اور حرم شریف
 اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف کی زیارت سے مشرف فرمایا اب اگر وہ غفلت ہو و لعب اور گناہوں میں مشغول ہو
 جائے گا تو گویا اس نے اس نعمت کی ناشکری کی۔ اور یہ مقبول حج کی علامت نہیں ہے بلکہ اس کی علامت یہ ہے کہ دنیا سے
 بے رغبت اور آخرت کی طرف متوجہ ہو اور میت اللہ شریف کی ملاقات کے بعد اپنے رب کی ملاقات کے لیے تیاری کرے۔

(۱) مسند امام احمد بن حنبل جلد ۲ ص ۱۰۵ مرویات ابن عمر رضی اللہ عنہما

(۲) کنز العمال جلد ۴ ص ۱۳۵ حدیث ۳۸۱۵۷ -

(۳) مجمع الزوائد جلد ۲ ص ۲۸۳ کتاب الصلوة

تیسرا باب

ذقیق آداب اور باطنی اعمال کا بیان

آداب ذقیقہ اور یہ کس ہیں۔

۱۔ خرچ حلال مال سے ہو اور ہاتھ ایسی تجارت سے خالی ہو جو دل کو مشغول رکھتی اور خیالات کو متفرق کر دیتی ہے تاکہ اس کی پوری توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہو دل مطمئن ہو اور وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر اور اس کی نشانیوں کی تعظیم کی طرف متوجہ ہو۔

اہل بیت کے طریق پر مروی ایک روایت میں ہے۔

اِذَا كَانَ اخِرُ الزَّمَانِ خَرَجَ النَّاسُ
إِلَى الْحَجِّ أَرْبَعَةَ أَصْنَافٍ سَلَا طَيْبُهُمْ
لِلنَّزْهَةِ وَأَغْنِيَاءُهُمْ لِلتِّجَارَةِ وَ
فُقَرَاءُهُمْ لِلْمَالَةِ وَقُرَاءُهُمْ لِلسَّمْعَةِ (۱)

جب آخری زمانہ ہوگا تو لوگ چار قسموں میں ہو کر حج کے لیے جائیں گے، حکمران سیر و تفریح کے لیے، مالدار تجارت کے لیے، فقرا مانگنے کے لئے اور قراء احسانے اور ریاکاری کے لیے۔

اس حدیث میں ایسی دینی اغراض کی طرف اشارہ ہے جو حج کے ذریعے حاصل کی جاسکتی ہیں اور یہ تمام بائیں فضیلت حج سے رکاوٹ ہیں اور خصوصی حج سے خارج کر دیتی ہیں بالخصوص جب یہ صورتیں خاص حج ہی سے وابستہ ہوں یعنی اجرت لے کر کسی دوسرے کے لیے حج کرے اور عمل آخرت کے بدلے دنیا طلب کرے، پرہیزگار لوگوں اور اہل دل نے اس بات کو ناپسند کیا ہے البتہ یہ کہ وہ مکرمہ کا ارادہ رکھتا ہو اور وہاں تک پہنچنے کے لیے اس کے پاس مال نہ ہو تو اس مقصد کے لیے لینے میں کوئی حرج نہیں یہ مقصد نہ ہو کہ وہ دین کے ذریعے دنیا کو حاصل کرے بلکہ دنیا کے ذریعے دین مقصود ہو اس وقت اس کا ارادہ بیت اللہ شریف کی زیارت ہونا چاہیے نیز یہ کہ اپنے مسلم بھائی سے فرض کو ساقط کرتے ہیں اس کی مدد کرے۔

اسی سلسلے میں سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی ہے۔

يَدْخُلُ اللَّهُ سُبْحَاتِهِ بِالْحَجَّةِ الْوَاحِدَةِ
ثَلَاثَةَ الْحَجَّةِ الْمُوصِيَّ بِهَا وَالْمُنْفَذِ لَهَا
وَأَخْلُ كَرَسِيٍّ كَأَسْ كِي وَصِيَّتْ كَرَسِيٍّ وَالْأَدْوَسَا

اللہ تعالیٰ ایک حج کے ذریعے تین آدمیوں کو جنت میں داخل کرے گا اس کی وصیت کرنے والا دوسرا

(۱) الفردوس بماثور الخطاب جلد ۵ من ۴۴۴ حدیث ۸۶۸۹

اسے نافذ کرنے والا اور تیسرا وہ جو اس (وصیت) کے مطابق اپنے بھائی کی طرف سے حج کرتا ہے۔

وَمَنْ حَجَّ بِهَا عَنَّا أَحْيَاهُ -
(۱)

ہیں حضرت امام غزالی رحمہ اللہ یہ نہیں کہتا کہ اجرت لینا حلال نہیں ہے بلکہ بہتر یہ ہے کہ وہ ایسا نہ کرے۔ اور اسے کمائی کا ذریعہ اور تجارت نہ بنائے بے شک اللہ تعالیٰ دین (کی خدمت) کے بدلے دنیا عطا کرتا ہے لیکن دنیا کے بدلے دین نہیں دیتا۔ مقصد یہ ہے کہ دینی مقاصد کے لیے کام کر کے آخرت حاصل کرنا چاہیے تو ایسا نہیں ہو سکتا۔

اس شخص کی مثال جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کر کے اجرت حاصل کرتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی مثل ہے جنہوں نے اپنے بیٹے کو دودھ پلایا اور اجرت بھی حاصل کی۔

ایک حدیث شریف میں ہے۔
مَثَلُ الَّذِي يَعْدُو فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَدُوًّا
وَيَأْخُذُ أَجْرًا مِثْلُ أُمِّ مُوسَىٰ عَلَيْهِ
السَّلَامُ تَرْضَعُ وَلَدَهَا وَتَأْخُذُ
أَجْرَهَا - (۲)

تو حج پر اجرت لینے والے کی مثال اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی طرح ہو تو اجرت لینے میں کوئی حرج نہیں وہ اس لیے لیتا ہے کہ حج اور زیارت پر قادر ہو سکے حج کا مقصد اجرت لینا نہیں بلکہ وہ اجرت، حج کرنے کے لیے لیتا ہے جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اجرت اس لئے لی تاکہ آپ کے لیے دودھ پلانا آسان ہو جائے کیوں کہ ان لوگوں پر آپ کا (حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا) حال مخفی تھا۔

۲۔ ٹیکس دے کر اللہ تعالیٰ کے دشمن کی مدد نہ کرے اور یہ وہ لوگ ہیں جو مسجد حرام سے روکتے ہیں یعنی امرائے مکہ اور وہ دیہاتی جو راستے میں گھات لگا کر بیٹھتے ہیں ان لوگوں کو مال دنیا ظلم پر پردہ کرنا اور اسباب ہبیا کر کے ان کے لیے اس عمل کو آسان کرنا ہے گویا بذات خود ان کی مدد کرنا ہے لہذا اس سے بچنے کے لیے کوئی تدبیر کرنی چاہیے اور اگر طاقت نہ ہو تو بعض علماء فرماتے ہیں کہ نفلی حج ہو تو راستے سے واپس لوٹ آنا اور نفلی حج کو ترک کرنا ظالموں کی مدد کرنے سے افضل ہے کیونکہ یہ ایک بدعت ہے جو بعد میں جاری ہوئی۔

اور ان لوگوں کی بات مان لی جائے تو ایک رواج بن جائے گا اور اس میں مسلمانوں کی ذات و رسوائی ہے کہ انہیں جزیہ دینا پڑتا ہے اور کسی شخص کی اس بات کا کوئی معنی نہیں کہ مجھ سے یہ مال لیا گیا اور میں مجبور تھا کیونکہ اگر وہ گھر میں

(۱) میزان الاعتدال جلد ۲ ص ۲۴۷ حدیث ۹۰۱۷

(۲) الکامل لابن عدی جلد اول ص ۲۹۱ ترجمہ اسماعیل بن عیاش

پٹھیا راستے سے واپس چلا جاتا تو اس سے کچھ بھی نہ لیا جاتا بلکہ بعض اوقات خوشحالی کے اسباب ظاہر ہوتے ہیں تو زیادہ مانگا جاتا ہے اور اگر وہ فقراؤ کے لباس میں ہو تو نہیں مانگا جاتا تو اس نے خود اپنے آپ کو مجبور کیا ہے۔

۳۔ اخراجات میں کٹا دگی ہو اور خوش دلی سے خرچ کرے نہ تو بہت کمی کرے اور نہ ضرورت سے زیادہ خرچ کرے بلکہ اعتدال کی راہ اختیار کرے اسراف سے مراد یہ ہے کہ طرح طرح کے کھانے کھانا اور مشروبات پینا جس طرح مالدار لوگوں کی عادت ہوتی ہے محض زیادہ خرچ کرنے میں فضول خرچی نہیں کیونکہ فضول خرچی میں نیکی نہیں اور نیکی میں خرچ کیا جائے تو فضول خرچی نہیں جیسے کہا گیا ہے اور حج کے راستے میں مال خرچ کرنا اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا ہے اور ایک درہم کا ثواب سات سو درہم ہیں۔

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں انسان کی سخاوت سے ہے کہ وہ سفر کے دوران خوش دلی سے خرچ کرے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

مقبول حج کا بدلہ جنت ہے عرض کیا یا رسول حج کی مقبولیت
کس چیز کے ساتھ ہے آپ نے فرمایا اچھی گفتگو اور کھانا
کھلانا۔

الْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةُ
فَقِيلَ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا بَرَّ الْحَجَّ فَقَالَ
طَيْبُ الْكَلَامِ وَاطْعَامُ الطَّعَامِ (۱)

۴۔ بے حیائی کی گفتگو، نافرمانی اور جھگڑے کو ترک کر دینا جیسا کہ قرآن پاک میں بیان ہوا لفظ رفت ہر بے ہودہ اور فحش کلام کو شامل ہے اور اس میں عورتوں سے پیار و محبت کی باتیں کرنا، جماع اور اس کے مقدمات کی باتیں کرنا شامل ہے۔ کیونکہ اس سے جماع کا شوق پیدا ہوتا ہے اور وہ اس حالت میں ممنوع ہے اور جو بات کسی ممنوع کام کی طرف لے جائے وہ بھی منع ہوتی ہے، فسق کا لفظ اللہ تعالیٰ کی ہر قسم کی نافرمانی پر بولا جاتا ہے اور جدال سے مراد بہت زیادہ جھگڑنا ہے جس کی وجہ سے کینہ پیدا ہو جائے اس وقت ہمت میں انتشار پیدا ہو جائے اور بد اخلاقی کا موجب ہو۔

حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ نے فرمایا جس نے بے حیائی کی گفتگو کی اس کا حج قاسد ہو گیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے کلام اور کھانا کھانے کو حج کی مقبولیت اور نیکی سے قرار دیا جب کہ جھگڑنا اچھے کلام کے خلاف ہے لہذا اپنے ساتھی اور ساریاں راونٹ کو چلانے والا اور آجکل ڈراپور مراد ہو سکتا ہے اور دیگر احباب پر بہت زیادہ اعتراض نہ کرے بلکہ نرمی سے پیش آئے اور جو لوگ بیت اللہ شریف کی طرف جا رہے ہیں ان کے لیے نرمی کا پہلو سمجھائے۔ حسن اخلاق کو اختیار کرے اور حسن اخلاق کا مطلب اذیت پہنچانے سے ہاتھ کو روکنا نہیں بلکہ ان سے اذیت کو دور کرنا ہے اور کہا گیا ہے کہ سفر کو اس لیے سفر کہتے ہیں کہ وہ لوگوں کے اخلاق کو ظاہر کرتا ہے اسی لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ

نے اس شخص سے فرمایا جس نے کہا کہ وہ فلاں شخص کو جانتا ہے، اسے سے پوچھا) کیا تو نے اس کے ساتھ سفر کیا ہے جس سے اس کے اخلاق حسنہ کا پتہ چلتا؟ اس نے عرض کیا نہیں آپ نے فرمایا میرے خیال میں تو اسے نہیں پہچانتا۔

۵۔ اگر طاقت ہو تو پیدل چل کر حج کرے یہ افضل ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے وصال کے وقت اپنے بیٹوں کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا اسے میرے بیٹو اپیدل حج کرنا کیونکہ پیدل حج کرنے والے کو ہر قدم کے بدلے میں حج کی نیکیوں سے سات سو نیکیاں ملتی ہیں عرض کیا گیا حرم کی نیکیاں کیا ہیں؟

فرمایا ایک نیکی، ایک لاکھ کے برابر ہے اور راستے کی نسبت، مناسب حج کی ادائیگی اور مکہ مکرمہ سے عرفات اور منیٰ کی طرح پیدل چلنا زیادہ بہتر ہے اور اس کی تاکید ہے۔ اور اگر گھر سے ہی احرام باندھ کر پیدل چلے تو کیا گیا ہے کہ یہ حج کو پورا کرنا ہے حضرت عمر، حضرت علی اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہم۔

اللہ تعالیٰ کے ارشادِ گرامی۔

اور اللہ تعالیٰ کے لیے حج اور عمرہ کو پورا کرو۔

وَاتِمُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ (۱)

کے مفہوم کے بارے میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے اور بعض علماء کرام نے فرمایا کہ سوار ہونا افضل ہے کیونکہ اس میں مال خرچ کرنا ہے نیز اس میں نفس کو زیادہ مشقت اور اذیت میں مبتلا نہیں کیا جاتا۔ اس میں حفاظت بھی زیادہ ہے اور حج بھی مکمل ہو جاتا ہے حقیقت یہ ہے کہ یہ پہلی بات کے مخالف نہیں ہے بلکہ مناسب یہ ہے کہ اس میں تفصیلی گفتگو کرتے ہوئے کہا جائے کہ جس شخص کے لیے پیدل چلنا آسان ہو اس کے لیے یہ افضل ہے اور اگر کمزور ہو اور اس سے بد اخلاقی اور عملی کوتاہی پیدا ہو تو سوار ہونا افضل ہے جیسے مسافر کے لیے روزہ افضل ہے اور مریض کے لیے اس صورت میں افضل ہے جب بد اخلاقی اور کمزوری پیدا نہ ہو۔

کسی عالم سے عمرہ کے بارے میں پوچھا گیا کہ کیا اس میں پیدل چلنا چاہیے یا ایک درہم دے کر کرایہ پر سواری حاصل کی جائے انہوں نے فرمایا اگر ایک درہم کا وزن (خرچ کرنا) اسے بھاری معلوم ہوتا ہے تو پیدل چلنے کی نسبت کرایہ دینا افضل ہے۔ اور اگر پیدل چلنا مشکل معلوم ہوتا ہو جیسے مالدار لوگوں کے لیے ہوتا ہے تو پیدل چلنا افضل ہے۔ گویا انہوں نے مجاہدہ نفس کا راستہ اختیار کیا۔ یہ بھی ٹھیک ہے لیکن اس کے لیے افضل یہ ہے کہ وہ پیدل چلے اور وہ درہم کسی نیکی پر خرچ کرے اور ایسا کرنا سواری کا کرایہ دینے سے بہتر ہے اور اگر اس کا نفس دوہری مشقت برداشت نہ کرے یعنی پیدل بھی چلے اور مالی نقصان بھی برداشت کرے تو پھر وہی صورت ہے جو بعض علماء نے بیان کی (جو اوپر مذکور ہے)۔

۶۔ بار برداری کے جانور پر سوار ہو محمل سے بچے البتہ کسی عذر کی وجہ سے سواری پر تخیف ہو کیوں کہ محمل سے اسے اذیت

پہنچتی ہے اور دوسرا یہ کہ اہل دنیا اور میکرمین کے لباس سے اپنے آپ کو بچائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری پر حج فرمایا تو آپ کے نیچے پرانا کجاوہ اور کپڑے کا ٹکڑا تھا جس کی قیمت صرف چار درہم تھی (۱) اور سواری پر ہی طواف کیا تاکہ لوگ آپ کے طریقہ مبارکہ کو دیکھیں (۲) اور فرمایا اپنے مناسک مجھ سے سیکھو (۳)

کہا گیا کہ یہ محل حج نے جاری کئے اور اس وقت کے علماء ان پر اعتراض کرتے تھے۔ حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ نے اپنے والد رحمہ اللہ سے روایت کیا وہ فرماتے ہیں میں حج کے لیے قادسیہ سے کوفہ کی طرف گیا تو وہاں کچھ ساتھی مل گئے تو میں نے دیکھا کہ ان تمام کے پاس اونٹ تھے ان پر کجاوے اور اونٹنی کپڑا تھا صرف دو کے پاس محل تھے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما جب حج کے لباس اور محل کو دیکھتے تو فرماتے حاجی کم ہیں سوار زیادہ ہیں پھر ایک مسکین کو دیکھا جو کمزور حالت والا تھا اور اس کے نیچے اونٹنی پالان تھا تو آپ نے فرمایا یہ کتنا اچھا حاجی ہے۔

۴۔ حاجی کو پرانگندہ حال اور بھرے ہوئے بالوں والا ہونا چاہیے یعنی زیادہ زینت اختیار نہ کرے فخر اور کثرت مال کے اسباب کی طرف بھی مائل نہ ہو اس طرح دنیا داروں اور تکبر کرنے والوں کی فہرست میں لکھ دیا جائے گا۔ اور کمزور لوگوں نیز مساکین اور خصوصی صالحین کی جماعت سے نکل جائے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پرانگندہ بالوں اور ننگے پاؤں والا ہونے کا حکم دیا۔ (۴)

نیز آپ نے عیش پسند اور عیاش ہونے سے روکا یہ حضرت فضالہ بن عبید کی روایت میں ہے (۵)

اور ایک حدیث شریف میں ہے آپ نے فرمایا:

إِنَّمَا الْحَاجُّ الشَّوْثُ النَّعِثُ۔

حاجی وہ ہے جس کے بال بھرے ہوتے ہوں اور میلا

کچھلا ہو۔

(۶)

اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ زیب و زینت میں مصروف نہ رہے ورنہ بالوں کی درستگی اور میل کچیل کو دور

کرنا سنت ہے (۱۲ ہزاروی)

(۱) سنن ابن ماجہ ص ۲۱۳ ابواب المناسک

(۲) مسند امام احمد بن حنبل جلد اول ص ۲۳۴ مرویات ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔

(۳) السنن الکبریٰ للبیہقی جلد ۵ ص ۲۵ کتاب الحج

(۴) مجمع الزوائد جلد ۵ ص ۳۶ کتاب اللباس

(۵) مسند امام احمد بن حنبل جلد ۶ ص ۲۲ مرویات فضالہ بن عبید، مجمع الزوائد جلد ۱۰ ص ۲۵۰ کتاب الزہد

(۶) سنن ابن ماجہ ص ۲۱۴ ابواب المناسک۔

اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے میرے گھر کی زیارت کرنے والوں کو دیکھو وہ پراگندہ بالوں اور گرد آلود چہروں کے ساتھ دروازے آئے ہیں (۱)

اور ارشاد خداوندی ہے :

ثُمَّ لِيَقْضُوا تَفَثَهُمْ (۲)

پھر وہ اپنی میل کچیل دور کریں۔

تفث سے مراد بالوں کا بکھرا ہونا اور چہرے کا گرد آلود ہونا ہے۔ اور قضاء سے مراد بالوں کو منڈوانا نیز مونچھوں اور ناخنوں کو کاٹنا ہے۔

حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے لشکروں کے سرداروں کو دکھا پرانے اور کھردرے کپڑے پہنو، کہا گیا ہے کہ اہل میں حاجیوں کی زینت میں کیونکہ وہ لوگ تواضع، سکینی اور اسدات کی سیرت کو اختیار کرتے ہیں، پس مناسب یہ ہے کہ وہ خاص طور پر سرخ لباس سے بچے اور شہرت کے لباس سے عمومی طور پر اجتناب کرے وہ لباس جس رنگ کا بھی ہو۔ ایک روایت میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے آپ کے صحابہ کرام ایک منزل پر اترے جب اونٹ چرنے لگے تو آپ نے بالوں پر سرخ کپڑے دیکھے تو فرمایا میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ سرخ کپڑے تم پر غالب آگئے ہیں وہ فرماتے ہیں ہم اٹھے اور ان اونٹوں کی پٹھوں سے یہ کپڑے اتار لئے حتیٰ کہ بعض اونٹ بھاگ گئے۔ (۳)

۱- جانور سے نرمی برتنے اور اس کی طاقت کے مطابق بوجھ لادنے محل اس کی طاقت سے خارج ہے جانور پر سونا سے اذیت دینا ہے اور بوجھ بنتا ہے متقی لوگ جانوروں پر نہیں سوتے تھے صرف بیٹھے بیٹھے اونگھتے تھے اور ان پر زیادہ دیر تک بیٹھتے بھی نہیں تھے۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

لَا تَتَّخِذُوا ظُهُورَ دَوَابِّكُمْ كُرْسِيًّا (۴)

اپنے جانوروں کی پٹھوں کو سیماں نہ بناؤ۔

اور مناسب یہ ہے کہ صبح و شام جانور سے اتر کر اسے راحت پہنچائے یہ سنت ہے (۵) اور اس سلسلے میں بزرگوں کے اقوال پائے جاتے ہیں بعض اسدات اس شرط پر جانور کرائے پر حاصل کرتے کہ وہ نہیں اتریں گے اور پوری اجرت

(۱) الترمذی و الترمذی جلد ۲ ص ۲۰۵ ماجادنی فضل الحج

(۲) قرآن مجید، سورہ حج آیت ۲۹

(۳) مسند امام احمد بن حنبل جلد ۳ ص ۶۲۳ مرویات رافع بن خدیج

(۴) مسند امام احمد بن حنبل جلد ۳ ص ۶۲۹ مرویات سہل بن ابیہ

(۵) مسند امام احمد بن حنبل جلد ۲ ص ۴۵ مرویات ابن عمر رضی اللہ عنہما۔

دیں گے پھر وہ اتر جاتے تھے تاکہ جانور کے ساتھ حسن سلوک ہو تو یہ ان کی نیکیوں میں شمار ہوتا اور قیامت کے دن ان کے ترازو میں رکھا جائے گا کہ یہ پر دینے والوں کے میزان میں نہیں۔

جو شخص کسی جانور کو اذیت پہنچائے اور اس پر طاقت سے زیادہ بوجھ لادے اس سے قیامت کے دن باز پرس ہوگی۔ حضرت ابو درود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اونٹ تھا تو آپ نے اپنے وصال کے وقت اس کو مخاطب کر کے فرمایا "اسے اونٹ! اپنے رب کے سامنے مجھ سے نہ جھگڑنا میں نے طاقت سے زیادہ بوجھ پر بوجھ نہیں لادا۔"

خلاصہ یہ ہے کہ ہر گرم جگر (جاندار چیز) میں ثواب ہے لہذا جانور اور مالک دونوں کے حق کی رعایت کرے۔ ایک ایک گھڑی اترنے سے جانور کو آرام مل جاتا ہے اور مالک کے دل کو سرور حاصل جاتا ہے ایک شخص نے حضرت ابن مبارک رضی اللہ عنہ سے کہا کہ میرا یہ خط لے جائیں اور فلاں تک پہنچا دیں انہوں نے فرمایا میں اونٹ والے سے پوچھ لوں کیوں کہ میں تمہیں کرایہ پر حاصل کیا ہے۔ تو دیکھئے انہوں نے کس قدر تقویٰ اختیار کیا اور خط نہ لیا حالانکہ اس کا کوئی وزن نہیں ہوتا تو تقویٰ کے سلسلے میں احتیاط ہے کیونکہ جب تھوڑے سے کئے دروازہ کھل جائے تو آہستہ آہستہ کثیر کی طرف لے جاتا ہے۔

۹۔ قربانی اگر واجب نہ بھی ہو پھر بھی جانور کا خون بہانے کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرے اور کوشش کرے کہ جانور موٹا تازہ اور عمدہ ہو اگر وہ نفلی قربانی ہو تو اس سے کھا سکتا ہے اور اگر واجب ہو تو نہ کھائے اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے۔

ذٰلِكَ وَمَنْ يُعْظِمْ شَعَائِرَ اللّٰهِ فَاِنَّهَا مِنْ
تَقْوٰی الْقُلُوْبِ (۱)

یہ ہے اور جو آدمی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کی تعظیم کرے
تو یہ دلوں کے تقویٰ سے ہے۔

کہا گیا ہے کہ اس تعظیم سے مراد عمدہ اور موٹے جانور کی قربانی دینا ہے میقات سے جانور لے جانا افضل ہے اگر اس سے کوئی دقت اور مشقت نہ ہو۔ اس کی خریداری میں قیمت گھٹانے کے درپے نہ ہو بزرگان دین میں چیزوں کی قیمت زیادہ دیتے تھے اور اس میں کمی کرانے کو مکروہ جانتے تھے۔ ان میں سے ایک حج کے موقع پر قربانی کا جانور ہے دوسرا عید کی قربانی کا جانور اور تیسرا غلام۔ کیونکہ اس میں زیادہ قیمت والا جانور ان کے مالکوں کے نزدیک سب سے زیادہ نفیس ہوتا ہے (۲) حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایک سختی اونٹ (غیر عربی اونٹ) بطور ہدیہ قربانی لے گئے آپ سے وہ اونٹ تین سو دینار کے بدلے طلب کیا گیا آپ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم

(۱) قرآن مجید سورہ حج آیت ۳۲

(۲) آج کل چونکہ جانور فروخت کرنے والے بہت زیادہ قیمت بتاتے ہیں اس لیے قیمت گھٹانے کا مطالبہ کرنا صحیح ہے گویا مقصد یہ ہے کہ جانور قیمتی ہو یہ نہیں کہ جانور اچھا نہ ہو اور قیمت زیادہ ہو اور کم بھی نہ کرا سکیں ۱۲ ہزار روپی۔

سے پوچھا کہ اسے بیچ کر ہلکا جانور خرید لوں تو آپ نے ان کو روک دیا اور فرمایا اسی کی قربانی دو (۱) اس لیے کہ تھوڑی اور عمدہ چیز زیادہ اور بڑی چیز سے بہتر ہوتی ہے اور تین سو دنیا روں میں تیس اونٹ آسکتے تھے اور ان میں گوشت بھی زیادہ ہوتا لیکن مقصود گوشت نہیں تھا بلکہ مقصد تو نفس کو بخل سے پاک کرنا اور اللہ تعالیٰ کی تعظیم کے جمال سے مزین کرنا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ہرگز ان کے گوشت اور خون نہیں پہنچیں گے بلکہ اس تک تو تمہارا تقویٰ پہنچا ہے اور یہ اسی صورت میں ہے جب قیمت میں عمدگی کا لحاظ رکھا جائے تعدا کم ہو یا زیادہ۔

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا حج کی نیکی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا۔

«الْعَجْرُ الشَّجْرُ» حج سے مراد تلبیہ کے ساتھ آواز بلند کرنا اور شج سے مراد جانور کی قربانی ہے (۲)

ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

قربانی کے دن آدمی کا کوئی عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں خون بہانے سے زیادہ پسندیدہ نہیں ہوتا اور یہ جانور قیامت کے دن اپنے سینگوں اور کھروں کے ساتھ آئیں گے اور خون زمین پر پہنچنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ہاں اپنا مقام حاصل کر لیتا ہے لہذا خوش دلی سے قربانی کیا کرو۔

مَا مِنْ عَمَلٍ آدَمِيٍّ يَوْمَ النَّحْرِ أَحَبَّ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ إِهْرَاقِهِ دَمًا وَإِنِّهَا لَأَتْقَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ نَفْسًا وَنَفْسًا وَأَقْلَبَ فِيهَا وَإِنَّ الدَّمَ يَقَعُ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ بِالْأَرْضِ فَيُؤَيَّبُ بِهَا نَفْسًا۔ (۳)

ایک حدیث شریف میں ہے۔

وَلَكُمْ بِكُلِّ صُرُوفَةٍ مِنْ جِلْدِهَا حَسَنَةٌ وَكُلِّ قَطْرَةٍ مِنْ دَمِهَا حَسَنَةٌ وَأَنَّهَا لَتَوَضِعُ فِي الْمِيزَانِ فَأَبْشِرُوا۔ (۴)

(۴)

اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

(۱) مسند امام احمد بن حنبل جلد ۲ ص ۱۴۵ روایات ابن عمر رضی اللہ عنہما۔

(۲) سنن ابن ماجہ ص ۲۱۲ ابواب المناسک

(۳) السنن الکبریٰ للبیہقی جلد ۹ ص ۲۶۱ کتاب الضحایا

(۴) مسند امام احمد بن حنبل جلد ۴ ص ۲۶۸ روایات زید بن ارقم

اسْتَجِدُّوْا هَدٰى اَيَاكُمْ فَاِنَّهَا مَطٰىا
كَمْ نَوْمًا لِّلْقِيَامَةِ - (۱)

اپنی قربانیوں کو موٹا تازہ (عمدہ) کر کے شک یہ قیامت کے دن تمہاری سواریاں ہوں گی۔

۱۔ جو کچھ خرچ کرے یا قربانی دے وہ خوش دلی سے ہونی چاہیے اور اگر مال یا بدن میں کوئی نقصان یا مصیبت پہنچے اس کو بھی خوش دلی سے قبول کرے کیونکہ یہ اس کے حج کی قبولیت کی علامت ہے کیونکہ حج کے راستے میں مصیبت اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کے برابر ہے ایک درہم کے بدلے میں سات سو درہم ملتے ہیں اور یہ جہاد میں سختی پہنچنے کی طرح ہے وہ جو بھی تکلیف اٹھائے گا یا نقصان ہوگا اس کے بدلے ثواب ملے گا لہذا اللہ تعالیٰ کے ہاں ان میں سے کوئی چیز بھی ضائع نہیں ہوتی اور کہا گیا ہے کہ حج کی قبولیت کی ایک علامت یہ ہے کہ آدمی جو گناہ کرتا تھا انہیں چھوڑ دے اور برسہ دوستوں کو چھوڑ کر نیک لوگوں کو بھائی بنا لے نیز بود و لعب اور غفلت کی مجلسوں کو چھوڑ کر ذکر اور بیداری کی مجالس اختیار کرے۔

اعمال باطنہ اور اخلاص

باطنی اعمال، نیت میں اخلاص، مقامات مقدسہ سے کچھ حاصل کرنے اور ان میں غور و فکر کرنے اور حج کے اول سے لے کر آخر تک معافی و اسرار کو یاد کرنے کا بیان۔

جان لو کہ حج کی بنیادی بات اس بات کو سمجھنا ہے کہ دین میں حج کا کیا مقام ہے پھر اس کا شوق رکھنا، پھر اس کے لیے پکا ارادہ کرنا، پھر اس کے راستے سے موافق کو نیتم کرنا ہے پھر احرام کے کپڑے خریدنا، پھر زاد راہ حاصل کرنا پھر سواری کرانے پر حاصل کرنا پھر رخصت ہو کر جنگلوں میں سے گزرنا پھر میقات سے تلبیہ کے ساتھ احرام باندھنا پھر مکہ مکرمہ میں داخل ہونا اور تمام افعال کو پورا کرنا ہے جیسے پہلے بیان ہو چکا ہے۔

ان تمام امور میں یاد رکھنے والے کے لیے تذکرہ، عبرت حاصل کرنے والے کے لیے عبرت مرید صادق کے لیے تبتیہ اور ذہن انسان کے لیے معرفت و اشارہ ہے تو ہم ان کی چابیاں تباہی ہیں تاکہ جب ان کا دروازہ کھل جائے اور ان کے اسباب معلوم ہو جائیں تو ہر حاجی کے لیے ان کے وہ اسرار و واضح ہو جائیں جنہیں اس کے دل کی صفائی، باطنی طہارت اور فہم و فراست کی رسائی چاہتی ہے۔

حج کا مفہوم | جان لو کہ اللہ تعالیٰ تک انسان کی رسائی اسی صورت میں ہو سکتی ہے جب وہ شہوتوں سے پرہیز کرے، لذتوں سے رُک جائے صرف ضرورتوں پر اکتفا کرے اور اپنی تمام حرکات و سکنات میں اللہ تعالیٰ کے لیے خالص ہو جائے اسی مقصد کے لیے پہلے ادیان میں رہبانیت اختیار کرنے والوں نے مخلوق سے تنہائی اختیار کی وہ پہاڑوں کی چوٹیوں پر چلے گئے مخلوق سے وحشت کو ترجیح دی تاکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ انہیں حاصل کریں چنانچہ انہوں نے اللہ تعالیٰ

کے لیے موجودہ لذتوں کو چھوڑ دیا۔ اور آخرت کی لالچ میں اپنے نفسوں کو سخت مجاہدوں میں ڈال دیا۔
چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب (قرآن مجید) میں ان کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا:
ذٰلِكَ بَانَ مِنْهُمْ قَتِيْبِيْنَ وَرَهْبَانًا وَاٰهَمًا
لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ (۱)

اور یہ تکبر نہیں کرتے۔
جب یہ چیز مٹ گئی اور مخلوق خواہشات کے پیچھے پڑ گئی انہوں نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے گوشہ نشینی کو ترک کر دیا اور اس میں کوتاہی کی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا تاکہ آپ آخرت کے طریقے کو زندہ کریں اور پہلے رسولوں کے راستے کی تجدید کریں چنانچہ مختلف ادیان والوں نے آپ سے دین میں گوشہ نشینی اور سیاحت کے بارے میں سوال کیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

اَبَدَلْنَا اللّٰهَ بِهَا الْجِهَادَ وَاَهْتَكَبْنَا عَلٰى
كُلِّ شَرَفٍ (۲)
اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کے بدلے میں جہاد اور ہر بلند مقام پر تکبر کہنا عطا کیا ہے۔

ہر بلند پر تکبر سے مراد حج ہے۔

اور آپ سے سیاحوں کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا وہ روز سے دار میں (۳) تو اللہ تعالیٰ نے اس امت پر یہ احسان فرمایا کہ حج کو ان کے لیے رہبانیت قرار دیا بیت اللہ شریف کو انہی ذات کی طرف منسوب کر کے اسے عزت بخش اپنے بندوں کے ارادے کا مقام بنایا اور اس کی عظمت کے پیش نظر اس کے ارد گرد کو حرم قرار دیا نیز عرفات کو اس کے حوض کے پرنالے کی طرح قرار دیا پھر اس مقام کی عزت کو اس کے شکار اور درختوں کو حرام کرنے کے ذریعے پکا کر دیا اور اسے بادشاہوں کے دربار کی طرح قرار دیا کہ ملاقات کرنے والے دور دراز کے راستوں سے پراگندہ بالوں اور گرد آلود چہروں کے ساتھ بیت اللہ شریف کے رب کے لیے عاجزی کرتے ہوئے اس کی جلالت و عزت کے سامنے خشوع و خضوع کرتے ہوئے اس گھر کا قصد کرتے ہیں وہ اس بات کا اعتراف کرتے اور عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی گھر میں ہونے یا کسی شہر والا قرار پانے سے پاک ہے تاکہ وہ اپنی غلامی اور عبادت میں پڑھ جائیں اور ان کی فرمانبرداری میں اضافہ ہو اور وہ مکمل ہو جائے اسی لیے اس حج میں وہ امور رکھیں جن سے انسانی نفوس مانوس نہیں ہیں اور نہ عقل ان کے مغافی تک پہنچتی ہے جس طرح ستونوں کو کنکریاں مارنا بار بار صفا مرہ کے درمیان دوڑنا اور

(۱) قرآن مجید، سورہ مائدہ آیت ۸۲

(۲) مجمع الزوائد جلد ۵ ص ۸، کتاب الجہاد

(۳) السنن البکری للبیہقی جلد ۲ ص ۵، کتاب الصیام

اس قسم کے اعمال سے غلامی اور بندگی کا کمال ظاہر ہوتا ہے کیونکہ زکوٰۃ مالی تعاون ہے اس کی حکمت سمجھ آتی ہے اور عقل اس کی طرف مائل ہوتی ہے۔ روزہ شہوت کو توڑنے کا نام ہے جو اللہ تعالیٰ کے دشمن (شیطان) کا آلہ ہے اور مشاغل سے رُک کر عبادت کے لیے فارغ ہونا ہے نماز میں رکوع اور سجدہ ایسے افعال ہیں جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے لیے تواضع کا اظہار ہوتا ہے اور نفوس انسانی کو اللہ تعالیٰ کی تعظیم سے اُنس ہوتا ہے لیکن صفامروہ کے درمیان سعی کے پھیر اور کنکریاں مارنا اور اس قسم کے دوسرے اعمال سے نفوس انسانی کا کوئی حصہ نہیں اور نہ طبیعت کو اُنس ہوتا ہے عقل ان کے معانی تک راہ نہیں پاتی اور ان امور کی بجا آوری صرف حکم خداوندی کے تحت ہوتی ہے اور یہی بات پیش نظر ہوتی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور اس کی اتباع واجب ہے اس میں عقل کا تصرف نہیں ہوتا اور نفس و طبیعت بھی اس کے اُنس سے روگردانی کرتی ہے کیونکہ جس عمل کا مفہوم عقل میں آجائے طبیعت اس کی طرف مائل ہوتی ہے چنانچہ یہ میدان اس امر کا معاون ہوتا اور عمل کی ترغیب دیتا ہے اس لیے اس سے غلامی اور بندگی کا کمال ظاہر نہیں ہوتا۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پر حج کے بارے میں فرمایا۔

لَبَّيْكَ يَحْتَجُّ حَقًّا تَعَبًا وَرِقًّا (۱) میں حج کے ساتھ حاضری ہو جو محض بندگی کا حق ہے۔

آپ نے یہ بات نماز اور کسی دوسری عبادت کے سلسلے میں نہیں فرمائی۔

اور جب اللہ تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا یہ ہوا کہ مخلوق کی نجات کو ان کی طبیعتوں کی خواہش کی مخالفت سے وابستہ کر دے اور ان کی لگام شریعت کے ہاتھ میں ہو اس طرح ان کے اعمال، تسلیم کرنے اور بندگی کے طریقے پر سوں اور جن عبادات کے معانی سمجھ نہیں آتے وہ نفوس کے تزکیہ، اقتضائے طبیعت اور عادات سے پھرنے کے سلسلے میں ابلغ ہوں کیوں کہ ان میں محض بندگی کا معنی پایا جاتا ہے۔

جب تمہیں یہ بات معلوم ہوگئی تو اب اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ لوگ ان عجیب افعال پر اس لیے تعجب کرتے ہیں کہ وہ عبادات کے اسرار سے بے خبر ہیں۔ حج کی اصل کو سمجھنے کے لیے اس قدر کافی ہے۔

حج کا شوق ہے۔

جب یہ بات سمجھ آ جائے کہ بیت اللہ شریف، اللہ تعالیٰ کا گھر ہے تو اس کا شوق پیدا ہوتا ہے اور یہ بادشاہوں کے دربار میں حاضری کی طرح ہے لہذا اس (خانہ کعبہ) کا قصد کرنے والا اللہ تعالیٰ کا ارادہ کرتا اور اس کی زیارت کرنے والا ہے اور جو آدمی دنیا میں بیت اللہ شریف کا ارادہ کرے وہ اسن لائق ہے کہ اس کی زیارت مناجع نہ ہو اور اسے مقررہ مدت کے اندر زیارت کا شرف عطا کیا جائے اور وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی زیارت کرتا ہے کیونکہ فنا ہونے

والی اور ناقص آنکھ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی زیارت کے نور کو قبول نہیں کر سکتی اور نہ اس کو برداشت کر سکتی ہے اور اپنی کوتاہی کی وجہ سے اس کے سرور کے لیے تیار نہیں ہو سکتی۔ اور آخرت میں اسے باقی رہنے پر مدد ملے گی اور تعمیر و فنا سے پاک ہو جائے گی تو دیدار کے لیے تیار ہو جائے گی۔ لیکن تو بہت اللہ شریف کے ارادے اور اس کی زیارت سے اس گھر کے رب کی ملاقات کا مستحق ہو جائے گا کیوں کہ اس کا وعدہ کرم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا شوق یقیناً ملاقات کے اسباب کا شوق دلانا ہے علاوہ ازیں محب پر اس چیز کا مشاق ہوتا ہے جو اس کے محبوب سے نسبت رکھتی ہو اور خانہ کعبہ کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہے لہذا محض اس نسبت کی وجہ سے اس کا شوق ہونا چاہیے۔ اس سے قطع نظر کہ اس پر جو بہت بڑے ثواب کا وعدہ کیا گیا ہے۔ ملے گا یا نہیں۔

حج کا ارادہ :

جاننا چاہیے کہ حج کا ارادہ کرتے ہوئے انسان اپنے گھر والوں اور وطن سے جدائی کا قصد کرتا ہے نیز خواہشات اور لذات کو چھوڑ دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے گھر کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو اسے اپنے دل میں اس گھر اور اس کے رب کی قدر کو عظیم سمجھنا چاہیے اور اسے یہ بھی معلوم ہو کہ اس نے ایسے کام کا ارادہ کیا ہے جس کی شان بہت بلند ہے اور اس کا معاملہ مشکل ہے اور جو شخص کسی بڑی بات کا طالب ہوتا ہے وہ بڑے خطرات کو برداشت کرتا ہے اسے چاہیے کہ وہ خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے عزم کرے ریابکاری وغیرہ کا کوئی شائبہ نہ ہو۔ اور یہ عقیدہ رکھنے کہ اس کے ارادے اور عمل سے وہی قبول ہوگا جو خالص ہوگا اور یہ بات بہت بڑی ہے کہ وہ بادشاہ کے گھر اور اس کے حرم کا ارادہ کرے اور مقصود کچھ اور ہو۔ لہذا اس کا ارادہ صحیح ہونا چاہیے اور یہ تب ہی صحیح ہوگا جب اخلاص ہوگا اور اخلاص تب ہوگا جب ریابکاری اور شہرت کے تمام اسباب کو چھوڑ دے گا تو اچھی چیز کے بدلے میں بڑی چیز لینے سے اجتناب کرنا چاہیے۔

حج کے لیے فراغت :

تمام علاقے سے خالی ہونا یعنی لوگوں کے حقوق واپس کرنا تمام گناہوں سے خالص توبہ کرنا، ہرزہ باراتی ایک علاقہ ہے اور ہر علاقہ قرض خواہ کی طرح ہے جو حاضر ہو اور گریبان پکڑ کر کہے تو کہہ جاتا ہے کیا بادشاہوں کے بادشاہ کے گھر کا ارادہ کرتا ہے اور اپنے اس گھر میں تو اس کے حکم کو ضائع کر رہا ہے اس کی توبہ کرتا ہے اور اس کی تعمیل نہیں کرتا کیا تجھے جی نہیں آتا کہ تو اس کے پاس ایک گناہ کا ر بندے کی صورت میں جاتا ہے وہ تجھے لوٹا دے اور قبول نہ کرے اگر توبہ جاتا ہے کہ تیرا یہ زیارت کرنا قبول ہو تو تو اس کے احکامات کو بجالا، حقوق واپس کر دے اور پہلے تمام گناہوں کی معافی مانگ، اور اپنے علاوہ ہر ایک سے دل کی توجہ کو ہٹا دے تاکہ تودل کے ساتھ اسی کی طرف متوجہ ہو جس طرح تو ظاہری طور پر اس کے گھر کی طرف متوجہ ہے پس اگر تو ایسا نہیں کرے گا تو تجھے آغاز سفر میں تھکاوٹ اور بدبختی کے سوا کچھ بھی حاصل نہ ہوگا اور آخر میں تجھ رو کر دیا جائے گا۔

اپنے دل سے وطن کو اس طرح نکال دے جس طرح آدمی وطن کو چھوڑ دیتا ہے اور یہ خیال کر کہ تو اس کی طرف نہیں آئے گا اپنی اولاد اور گھر والوں کے لیے وصیت لکھ دے کیونکہ مسافر اور جو کچھ اس کے پاس ہے اس کے نقصان کا خطرہ ہے البتہ جس کو اللہ تعالیٰ بچالے۔ اور جب وہ سفر حج کے لیے سب سے اگے ہو رہا ہے تو سفر آخرت کے لیے سب سے قطع تعلق کو یاد رکھے کیونکہ وہ بھی بالکل تیرے قریب اور سلتے ہے تو اس سفر میں جو کچھ پیش آئے اسے اس (آخرت کے) سفر کی آسانی کا پیش خیمہ سمجھے کیوں کہ وہ ٹھکانہ ہے اور اسی کی طرف لوٹنا ہے لہذا اس سفر کی تیاری کے وقت اس سفر سے غافل نہ ہو۔

زاوِ راہ | زاوِ راہ، عدال مال سے تلاش کرے اور جب محسوس کرے کہ نفس کو زیادہ کی حرص ہے اور وہ چاہتا ہے کہ دور دراز کے سفر کے باوجود سچ رہے نہ اس میں تبدیلی آئے اور نہ ہی مقصد تک پہنچنے سے پہلے خراب ہو تو آخرت کے سفر کو یاد رکھے کہ وہ تو اس سفر سے بھی طویل ہے اور اس کا سامان، تقویٰ ہے اور جو اس کے علاوہ ہے جسے وہ زاوِ راہ سمجھتا ہے وہ موت کے بعد بھیجے رہ جائے گا اور اس سے حیات کرے لہذا اس کے ساتھ نہیں رہے گا جیسے تازہ کھانا سفر کی پہلی منازل میں ہی خراب ہو جاتا ہے اور انسان ضرورت کے وقت حیران اور محتاج رہ جاتا ہے اب اس کے پاس کوئی تدبیر نہیں ہوتی تو اسے بات سے ڈرنا چاہیے کہ اس کے وہ اعمال جو آخرت کے لیے زاوِ راہ ہیں وہ موت کے بعد اس کے ساتھ نہیں ہوں گے بلکہ برباد کاری کے ثنائیے اور کوتاہی کے گدلاپن سے خراب ہو جائیں گے۔

سواری | جب سواری کے پاس جائے تو دل سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے کہ اس نے اس کے لیے جانوروں کو مسخر کیا تاکہ اس سے پریشانی کو دور کرے بوجھ ہلکا کر دے اس وقت اس سواری کو یاد کرے جس پر سوار ہو کر وہ دائرہ آخرت کی طرف جائے گا۔ اور یہ جنازے کی چارپائی ہے جس پر اسے اٹھایا جائے گا۔ کیوں کہ حج کا معاملہ ایک اعتبار سے سفر آخرت کے مشابہ ہے تو دیکھے کہ کیا اس سواری پر سفر اس قابل ہے کہ وہ اس سواری پر آخرت کا سفر کرے تو وہ اس کے کس قدر قریب ہے اور اسے کیا معلوم کہ موت قریب ہو اور اسے اونٹ پر سوار ہونے سے پہلے جنازے کی چارپائی پر سوار ہونا پڑے جنازے کی چارپائی پر سوار ہونا تو یقینی ہے جب کہ سفر کے اسباب کا حصول مشکوک ہے تو وہ کس طرح مشکوک سفر کے اسباب میں احتیاط کرتا ہے اور اس کے لیے زاوِ راہ اور سواری حاصل حاصل کرتا ہے اور یقینی سفر کے معاملے کو مہمل چھوڑتا ہے۔

احرام کی چادریں | احرام کے چادر میں خریدتے وقت کفن اور اس میں پیٹے جانے کو یاد رکھے عنقریب وہ بیت اللہ شریف سے قریب ہوتے وقت احرام کی ایک چادر نیچے باندھے گا اور دوسری اوپر لے گا اور ممکن ہے اس کا سفر وہاں تک مکمل نہ ہو اور وہ اللہ تعالیٰ سے یوں ملاقات کرے گا کہ یقیناً کفن کے کپڑوں میں لپیٹا ہوا ہوگا تو جس طرح وہ عام لباس کے خدات لباس میں بیت اللہ شریف سے ملاقات کرتا ہے تو موت کے بعد

اللہ تعالیٰ سے ملاقات یوں کرے گا کہ اس کا لباس دینوی لباس سے مختلف ہوگا اور یہ لباس، اس لباس کے مشابہ ہے کیونکہ اس میں بھی کفن کی طرح سلاہوا کپڑا نہیں ہوتا۔

روانگی | شہر سے نکلنے وقت اسے معلوم ہونا چاہیے کہ وہ اپنے گھر والوں اور وطن سے جدا ہو کر ایسے سفر میں اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوا ہے جو دنیا کے دوسروں سفروں کے مشابہ نہیں ہے تو وہ اپنے دل میں اس بات کو حاضر کرے کہ اس کا کیا ارادہ ہے؟ کس طرف متوجہ ہے؟ کس کی زیارت کا قصد کر رہا ہے؟ وہ بادشاہوں کے بادشاہ کی طرف متوجہ ہے اور زیارت کرنے والوں کی جماعت میں شامل تھے یہ وہ لوگ ہیں جن کو پکارا گیا تو انہوں نے جواب دیا، انہیں شوق دلا یا گیا تو وہ مشتاق ہوئے، انہیں ترغیب دی گئی تو وہ اٹھ کھڑے ہوئے انہوں نے تمام رشتے توڑ ڈالے اور مخلوق سے جدائی اختیار کی، اللہ تعالیٰ کے اس گھر کی طرف متوجہ ہوئے جس کی شان کو بلند کیا اور اس کی قدر افزائی فرمائی کہ وہ بیت اللہ کے رب سے ملاقات کی جگہ بیت اللہ شریف کی حاضری سے دل بہلا نہیں حتیٰ کہ ان کی آخری خواہش پوری کی جائے اور وہ اپنے مولا کے دیدار سے سعادتمند ہوں اسے چاہیے کہ اپنے دل میں وہاں تک رسائی اور قبولیت کی امید رکھے یہ نہ کہے کہ ہم نے اپنے گھر بار کو اتنے عرصہ سے چھوڑ رکھا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کے فضل پر یقین ہو اور یہ امید ہو کہ جو شخص اس کے گھر کی زیارت کرتا ہے اس سے وعدہ پورا کیا جاتا ہے وہ امید رکھے کہ اگر وہ کعبۃ اللہ تک نہ پہنچ سکا اور اسے راستے میں ہی موت آگئی تو وہ اللہ تعالیٰ سے یوں ملاقات کرے گا کہ وہ اس کی طرف جاتے والا ہوگا۔

کیونکہ ارشاد خداوندی ہے۔

اور جو آدمی اپنے گھر سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کی غرض سے نکلے
پھر اسے موت آجائے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کے لیے
ثواب ہے۔

وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ
وَرَسُولِهِ تَمَيُّدًا رَكِبَ الْمَوْتَ فَقَدِ وُجِعَ
أَجْرًا عَلَى اللَّهِ

(۱)

جنگلوں میں داخل ہونا | میقات سے پہلے جنگلوں میں داخل ہونے اور ان گھاٹیوں کو دیکھنے سے اس وقت کو یاد کرے جب وہ دنیا سے رخصت ہوگا اور روز قیامت کے وقت تک اس دوران جو تکلیف دہ صورت اور سوالات ہوں گے۔ ڈاکوؤں کے خطرات سے منکر نکیر کے سوالات کو سامنے رکھے، جنگلوں کے درندوں کو دیکھ کر بے چھوڑوں، کپڑے کو ٹروں اور سانپوں کو یاد رکھے گھر بار اور رشتہ داروں سے علیحدگی کو قبر کی وحشت اور سختی اور تنہائی کا پیش خیمہ سمجھے تو اپنے اعمال و اقوال میں ان ڈروانی چیز کو قبر کے خوف اور ڈر کے لیے سامان بناتے۔

(۱) قرآن مجید سورہ نساء آیت ۱۰۰

احرام اور تلبیہ

میقات سے احرام باندھنے اور تلبیہ کہنے سے اس بات کو جان لے کہ اس کا مطلب اللہ تعالیٰ کی پکار پر لبیک کہنا ہے تو تمہیں قبولیت کی امید رکھنی چاہیے اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ کہا جائے۔
 ”لَا كَيْفَكَ وَلَا سَعْدَيْكَ“ یعنی حاضری قبول نہیں۔ پس تم امید اور خوف کے درمیان رہو اپنی طاقت و قوت پر بھروسہ کرنے کی بجائے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم پر بھروسہ کرو۔

کیونکہ تلبیہ کا وقت، آغاز ہے اور یہ خطرے کی جگہ ہے حضرت سفیان بن غنیہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ حضرت علی بن حسین (امام زین العابدین) رضی اللہ عنہ نے حج کیا جب احرام باندھ کر سواری پر سوار ہوئے تو ان کا رنگ زرد ہو گیا اور ان پر کپکپی طاری ہو گئی حتیٰ کہ تلبیہ نہ کہہ سکے پوچھا گیا آپ تلبیہ کیوں نہیں کہتے؟ انہوں نے فرمایا مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہا جائے تمہاری حاضری قبول نہیں ہے پھر جب انہوں نے تلبیہ کہا تو بے ہوشی طاری ہو گئی اور وہ سواری سے گر پڑے وہ حج کرنے تک مسلسل اسی کیفیت میں رہے۔

حضرت احمد بن ابی الحواری رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں حضرت ابوسلیمان دارقنی رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھا جب انہوں نے احرام کا ارادہ کیا تو تلبیہ نہ کہا یہاں تک کہ ہم ایک میل چلے تو ان پر بیہوشی طاری ہو گئی پھر جب افاقہ ہوا تو فرمایا اے احمد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ نبی اسرائیل کے ظالم لوگوں سے کہدیں کہ وہ میرا ذکر کم کریں کیوں کہ ان میں سے جو مجھے یاد کرے گا میں اس کو لعنت کے ساتھ یاد کروں گا۔ اے احمد! میں نے سنا ہے کہ جو شخص حرام مال سے حج کرتا ہے پھر تلبیہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تیرے لیے قبولیت نہیں جب تک تو وہ چیز واپس نہ کر دے جو تیرے پاس ہے (یعنی دوسروں کا مال) تو ہم اس بات سے بے خوف نہیں کہ ہمیں یہ کہا جائے میقات میں تلبیہ کہتے وقت تلبیہ کہنے والے کو یاد رکھنا چاہیے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی پکار پر لبیک کہا جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا۔

آپ، لوگوں میں حج کا اعلان کر دی۔

وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ (۱)

وہ صُور بھونکنے کے ذریعے مخلوق کو ندا اور قبروں سے ان کے باہر نکلنے پھر میدانِ قیامت میں ان کے جمع ہو کر اللہ تعالیٰ کی آواز پر جواب دینے، مقربین اور مغضوبین، مقبولین اور مردودین میں ان کی تقسیم کو یاد رکھنے نیز یہ کہ وہ شروع شروع میں خوف اور امید کے درمیان متردد ہوں گے جس طرح حاجی میقات میں تردد میں ہوتے ہیں کیوں کہ انہیں معلوم نہیں ہوتا کہ ان کے لیے حج کو مکمل کرنا اور اس کی قبولیت آسان ہوگی یا نہیں۔

دخول مکہ مکرمہ | مکہ مکرمہ میں داخل ہوتے یا درکھنا چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حرم شریف میں پہنچ گیا ہے تو امن والا ہے تو اس وقت اسے امید رکھنی چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بھی امن میں ہوگا۔ اور اسے یہ ڈر بھی ہونا چاہیے کہ شاید وہ قرب کے لائق نہ ہو پس حرم شریف میں داخل ہونے سے وہ نامراد اور عذاب کا مستحق ہو تو امید ہر وقت غالب رہنی چاہیے کیونکہ کرم عام ہے، اللہ تعالیٰ رحیم ہے بیت اللہ شریف کی شرافت عظیم ہے، زیارت کرنے والے کے حق کی رعایت کی جاتی ہے اور پناہ مانگنے والے کی حرمت ضائع نہیں کی جاتی۔

بیت اللہ شریف کی زیارت | جب بیت اللہ شریف پر نگاہ پڑے تو اس وقت اس پاک گھر کی عظمت دل میں حاضر ہونی چاہیے اور یہ تصور کرے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے گھر کو دیکھ رہا ہے یعنی اس کی خوب

تعظیم کرے اور یہ امید رکھے کہ اللہ تعالیٰ اسے اپنے دیدار کا شرف عطا فرمائے گا جیسے اس نے اپنے عظیم گھر کی زیارت کی سعادت عطا فرمائی ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ اس نے تمہیں اس مرتبے تک پہنچایا اور اپنی طرف آنے والوں کی جماعت میں شامل کیا اس وقت اس حالت کو یاد رکھو جب قیامت کے دن تمام لوگ جنت میں داخلے کی امید سے اس طرف جائیں گے پھر ان میں سے بعض کو داخلے کی اجازت ملے گی اور بعض کو واپس کر دیا جائے گا اسی طرح بعض حاجیوں کا حج مقبول ہوتا ہے اور بعض کا رد کر دیا جاتا ہے۔ تو تم جو کچھ بھی دیکھو، امور آخرت کی یاد سے ہرگز غافل نہ ہو جاؤ کیوں کہ حاجیوں کے تمام حالات، احوال آخرت پر دلیل ہیں۔

بیت اللہ شریف کا طواف | جان لو کہ یہ بھی ایک قسم کی نماز ہے تو تم اپنے دل میں تعظیم، خوف، امید اور محبت کو حاضر کرو جیسا کہ ہم نے نماز کے بیان میں تفصیل سے بیان کیا۔ اور جان لو کہ

طواف کے ذریعے تم ان مقربین فرشتوں سے مشابہت اختیار کرتے ہو جو عرش کے گرد جمع ہو کر اس کا طواف کرتے ہیں۔ یہ خیال نہ کرو کہ تم صرف جسم کے ساتھ طواف کر رہے ہو بلکہ بیت اللہ شریف کے رب کے ذکر کے ذریعے دل کا طواف مقصود ہے حتیٰ کہ ذکر اسی سے شروع ہو اور اسی پر ختم ہو جیسے طواف کی ابتدا و انتہا بیت اللہ شریف پر ہوتی ہے جان لو کہ حقیقی طواف، بارگاہ ربوبیت میں دل کا طواف ہے بیت اللہ شریف اس عالم ظاہر میں اس حاضری کی ایک مثال ہے جیسے آنکھوں سے دیکھا نہیں جاسکتا اور وہ عالم غیب ہے جس طرح بدن ظاہری دنیا میں اس دل کی ایک مثالی صورت ہے جو آنکھوں سے نہیں دیکھا جاسکتا اور وہ عالم غیب میں ہے بے شک ظاہری دنیا، غیب اور ملکوت کے عالم کی طرف اس شخص کے لیے سیر بھی ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ اس (عالم غیب) کا دروازہ کھول دیتا ہے اسی مناسبت سے اشارہ کیا گیا کہ آسمانوں میں بیت المعمور کعبہ شریف کے بالمقابل ہے فرشتے کا اس طرح طواف کرتے ہیں جس طرح انسان بیت اللہ شریف کا طواف کرتے ہیں تو جب اکثر لوگ اس قسم کے طواف سے کم مرتبہ ہیں ہیں تو حتیٰ الامکان ان کی مشابہت کا حکم دیا گیا اور ان سے وعدہ کیا گیا کہ

مَنْ تَشَبَهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ -

جو آدمی کسی قوم سے مشابہت اختیار کر وہ ان ہی میں شمار ہوتا ہے۔

(۱)

اور جو آدمی اُس قسم کے طواف پر قادر ہو تو اسی کے بارے میں کہا گیا ہے کہ کعبۃ اللہ اس کی زیارت اور طواف کرتا ہے بعض اہل کشف نے کچھ اولیاء کرام کے سلسلے میں یہی مشاہدہ کیا ہے۔

حجر اسود کا استلام | حجر اسود کے استلام کے وقت یہ عقیدہ رکھو کہ تم اللہ تعالیٰ سے اس کی اطاعت پر بیعت کر رہے ہو تو اس بیعت پر اپنے ارادے کو پکا کر دو کیوں کہ جو آدمی بیعت میں دھوکہ دیتا ہے

وہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا مستحق ہو جاتا ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

الْحَجَرُ الْأَسْوَدُ يَمِينُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي
الْأَرْضِ يُصَافِحُ بِهَا خَلْقَهُ كَمَا يُصَافِحُ
الرَّجُلُ أَخَاهُ -

حجر اسود زمین میں اللہ تعالیٰ کا دایاں ہاتھ ہے (جیسے اس کے شایانِ شان ہے) مخلوق اس سے اس طرح مصافحہ کرتی ہے جس طرح کرتی شخص اپنے بھائی سے مصافحہ کرتا ہے۔

(۲)

کعبۃ اللہ کے پردوں کو پکڑنا | کعبۃ اللہ کے پردوں کو پکڑنے اور ملتزم سے چمٹنے کے وقت تمہاری نیت یہ ہونی چاہیے کہ تم محبت اور شوق کے ساتھ بیت اللہ شریف اور اس کے رب

کا قرب حاصل کر رہے ہو، اور اس سے تعلق کے ذریعے برکت حاصل کر رہے ہو۔ اور یہ امید رکھو کہ بدن کا ہر وہ جز جو بیت اللہ شریف سے لگا ہے بہنم سے آزاد ہوگا۔ پردوں کے ساتھ چمٹنے وقت یہ نیت کرو کہ اللہ تعالیٰ سے طلب مغفرت اور امن کے سوال میں اصرار کر رہا ہوں۔ جیسے کوئی خطا کار شخص اس شخص کے سپردوں سے لپٹتا ہے جس کا وہ مجرم ہے، اس سے معافی مانگتے ہوئے گڑ گڑاتا ہے اور اس کے سامنے ظاہر کرتا ہے کہ اس کے لیے اس کے سوا کوئی پناہ گاہ نہیں اور اس کے کرم اور عفو کے بغیر کوئی ٹھکانہ نہیں اور وہ معافی حاصل کئے بغیر اس کا دامن نہیں چھوڑے گا اور یہ کہ اسے مستقبل میں بھی امن کی ضمانت دے۔

صفا مروہ کے درمیان سعی | خانہ کعبہ کے صحن میں صفا مروہ کے درمیان سعی اسی طرح ہے جیسے کوئی شخص بادشاہ کے محل کے صحن میں ادھر ادھر بھاگتا پھرتا ہے وہ عبادت میں خلوص کا اظہار کر رہا ہے۔

(۱) مستدرک امام احمد بن حنبل جلد ۲ ص ۵ مرویات ابن عمر رضی اللہ عنہما

(۲) العلل التنسیخ جلد ۲ ص ۸۵ حدیث ۹۴۲

اور امید رکھتا ہے کہ اسے رحمت کی آنکھ سے دیکھا جائے گا جیسے کوئی شخص بادشاہ کے پاس جاتا ہے پھر باہر آجاتا ہے اور اسے معلوم نہیں کہ بادشاہ اس کے حق میں کیا فیصلہ کرے گا اسے قبول کرے گا یا رد کر دے گا۔ چنانچہ وہ مسلسل بار بار توبیل کے ضمن میں چکر کاٹتا ہے یہ امید رکھتا ہے کہ اگر پہلی مرتبہ نہ ہو تو دوسری بار ضرور اس پر رحم کیا جائے گا اور اسے صفائے وہ درمیان چکر لگاتے ہوئے قیامت کے میدان میں ترازو کے دوپٹوں کے درمیان چکر لگانے کو یاد رکھنا چاہیے وہ صفا کونسیوں کا اور مردہ کو برائیوں کے (وزن) کا پلڑا سمجھے اور یاد کرے کہ اسے دونوں پٹوں کے درمیان اسی طرح دوڑنا ہوگا تاکہ وہ دیکھنے کہ کونسا پلڑا غالب رہتا ہے اور کونسا مغلوب، اسے عذاب اور سختی میں تردد ہوتا ہے۔

وقوت عرفات جب تو مخلوق کے حجوم، آواز کے بلند ہونے، زبانوں کے اختلاف مختلف جماعتوں کے اپنے اپنے چھپے چھپے مقامات مقدمہ پر جائے، ان کے پیچھے چلنے اور ان کے جانے کے ساتھ چلنے کو دیکھتے تو قیامت کو یاد کرنا نبیاء کرام اور ائمہ کے ساتھ امتوں کے اجتماع، ہر نبی کے پیچھے اس کی امت، ان کی شفاعت کی طبع اور اس ایک میدان میں قبول اور مردہ ہونے کے درمیان حیرانگی کو یاد رکھ جب تو اس بات کو یاد کرے تو اپنے دل کو تواضع اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع پر لگا دے اس طرح تو کامیاب اور رحم کئے گئے لوگوں کی جماعت میں اٹھایا جائے گا۔ دعا کی قبولیت کی بچی امید رکھو، موقف عرفات، مقام شرف ہے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے رحمت، اذکار اولیاء کرام کا ایک درجہ کے عزیز دلوں کے ذریعے تمام مخلوق تک پہنچتی ہے عرفات، ابدال اور اودھا لاجین اور ارباب قلوب کے ایک طبقہ سے خالی نہیں ہوتا۔

جب ان کی ہمتیں جمع ہو جائیں اور تواضع اور رجوع الی اللہ کے لئے ان کے دل خالی ہو جائیں ان کے ہاتھ بارگاہ خداوندی میں اٹھ جائیں اس کی طرف ان کی گردنیں بلند ہوں، نگاہیں آسمان کی طرف اٹھیں اور طلب رحمت پر ان سب کی ہمت و ارادہ مجتمع ہو تو تمہیں یہ خیال نہیں کرنا چاہیے کہ ان کی امید نامراد ہوگی، کوشش ضائع ہوگی اور ان سے ڈھانپنے والی رحمت کو روک کر جمع کر دیا جائے گا، اسی لیے کہا گیا ہے کہ سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ انسان عرفات میں حاضر ہوا اور یہ خیال کرے کہ اس کی بخشش نہیں ہوگی، چنانچہ ان سب کی ہمتوں کا اجتماع، اور ظہور، مختلف شہروں سے آنے والے ابدال اور اودھا کا وہاں جمع ہو کر ان کا ساتھ دینا ہی حج کا راز اور مقصود اصلی ہے لہذا جب ایک مقام پر ہمتیں جمع ہوں اور دل ایک دوسرے کے معاون ہوں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے حصول کا کوئی طریقہ اس طریقے کی قائل نہیں ہے۔

اس سے یہ ارادہ کرے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے بندگی اور غلامی کا اظہار کر رہا ہے وہ محض اس کے حکم کی تعمیل کرتا ہے اور اس میں عقل و نفس کا کوئی دخل نہیں ہے، پھر تم حضرت ابراہیم علیہ السلام

کے ساتھ مشابہت کا ارادہ کر دے کہ جب اس مقام پر شیطان ان کے سامنے آیا تاکہ ان کے حج میں شہ ڈرے یا انہیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں مبتلا کرے تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ شیطان کو بھگانے اور اس کی ایسے دل پر پانی پھیرنے کے لیے اسے پتھر ماریں اگر تمہارے دل میں یہ خیال پیدا ہو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے تو واقعی شیطان آیا اور انہوں نے اسے دیکھا بھی تھا اس لیے اسے مارا تھا لیکن میرے سامنے تو شیطان نہیں ہے۔ تو جان لو کہ یہ خیال بھی شیطان کی طرف سے ہے اور اسی نے تمہارے دل میں یہ بات ڈالی ہے تاکہ کنکریاں مارنے کے سلسلے میں تمہارا ارادہ ختم ہو جائے اور یہ خیال پیدا کرتا ہے کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں نیز یہ کھیل کی طرح ہے تم اس میں مشغول نہ ہو، لہذا تم اسے خوب پتھر مارو تاکہ وہ تم سے دور ہو جائے اور ذلیل و رسوا ہو جائے اور جان لو کہ ظاہر میں تم ستونوں کو کنکریاں مارتے ہو لیکن حقیقت میں تم اسے شیطان کے منہ پر مارتے ہو۔ اور اس کی پٹھ توڑتے ہو، کیونکہ شیطان اسی صورت میں ذلیل و رسوا ہوتا ہے جب تم اللہ تعالیٰ کی تعظیم کرتے ہوئے اس کے حکم کی تعمیل صرف اس لیے کرتے ہو کہ وہ اس کا حکم ہے اگرچہ وہ فطری یا عقلی عمل نہیں ہے جہاں تک جانور کو ذبح کرنے کا تعلق ہے تو وہ حکم خداوندی کی بجا آوری کے ذریعے اس کا قرب حاصل کرنا ہے۔ لہذا تم کامل جانور ذبح کرو اور امید رکھو کہ اللہ تعالیٰ اس کی ہر جز کے بدلے تمہارے ایک عضو کو جہنم سے آزاد کرے گا اسی طرح وعدہ ہوا ہے تو جب جانور بڑا اور اس کے اجزا مکمل ہوں گے تو تمہاری جہنم سے آزادی بھی زیادہ ہوگی۔

مدینہ طیبہ کی زیارت | جب تمہاری نگاہ اس کی دیواروں پر سے تو یاد کر کہ یہ وہ شہر ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پسند کیا اور آپ کی ہجرت کو اس کی طرف کر دیا یہ وہ مقام ہے جہاں آپ نے اپنے رب کے فرائض اور اپنی سنت کو جاری کیا اس کے دشمن سے چھٹا کیا اور وہیں اس کے دین کو ظاہر کیا یعنی کہ آپ کا وصال ہو گیا پھر اس نے آپ کی قبر اور آپ کے دو وزیروں (حضرت صدیق اکبر اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہما) کی قبروں کو وہیں رکھا یہ آپ کے وہ وزیر ہیں جنہوں نے آپ کے حق کو قائم رکھا پھر جب تو اس شہر میں چلے تو سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک لگنے کی جگہوں کا تصور کر یعنی تو جس جگہ بھی قدم رکھے گا وہاں آپ کے پاک قدم لگے ہوں گے لہذا اس سے سکون و وقار کے ساتھ قدم رکھنا اور یہ تصور کرنا کہ ان گلیوں میں سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم چلے ہیں اور آپ کے قدم مبارک لگے ہیں اور یہ بھی سوچنا کہ آپ کے چلنے میں خشوع اور سکون ہوتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے قلب اقدس میں اپنے ذکر کو ودیعت رکھا اور آپ کے ذکر کو بلند کیا حتیٰ کہ آپ کے ذکر کو اپنے ذکر کے ساتھ ملا دیا اور اس آدمی کے عمل کو ضائع کر دیا جس نے آپ کی توہین کی اگرچہ آپ کی آواز پر اپنی آواز کو بلند کیا ہو۔

پھر تم یہ بھی تصور کرنا کہ جن لوگوں کو آپ کی مجلس نصیب ہوئی اور انہوں نے آپ کی زیارت اور آپ کے کلام

سننے کا شرف حاصل کیا ان پر اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہوا اور اس بات پر بہت افسوس کرنا کہ تم نہ تو آپ کی مجلس پاسکے اور نہ صحابہ کرام کی صحبت حاصل کر سکے۔

اور یہ بات بھی یاد رکھنا کہ دنیا میں تم آپ کی زیارت سے محروم رہے اور آخرت میں آپ کی زیارت کے بارے میں

پرسن نہیں۔ اور ممکن ہے تم حضور علیہ السلام کو حسرت کے ساتھ دیکھو کیونکہ تم اپنی بد اعمالیوں کی وجہ سے آپ کے ہاں شرف قبولیت پاسکو اور یہی بات رکاوٹ بنے جیسے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو میرے سامنے لائے گا تو وہ کہیں گے
 اسے محمد! اسے محمد! صلی اللہ علیہ وسلم میں کہوں گا اسے
 میرے رب پر میرے اصحاب ہیں! تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا
 آپ نہیں جانتے کہ آپ کے بعد انہوں نے کہا کیا کام جاری
 کئے تو میں کہوں گا دور ہو جاؤ

يَرْفَعُ اللَّهُ إِلَىٰ أَقْوَامًا فَيَقُولُونَ يَا عَمَّ
 يَا مُحَمَّدٌ فَأَقُولُ يَا رَبِّ اصْحَابِي! فَيَقُولُ
 أَنْكَ لَا تَدْرِي مَا أَحَدَثُوا بَعْدَكَ فَأَقُولُ
 بَعْدًا وَمُحَقًّا۔

(۱)

اگر تم، آپ کی شریعت کی عزت و احترام چھوڑ دو اگر چہ ایک ہو تو اس بات سے بے خون نہ ہونا کہ آپ کے راستے سے
 لوگردانی تمہارے اور حضور کے درمیان حجاب بن جائے اس کے باوجود نہیں بہت بڑی امید ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے
 اور سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کوئی پر وہ نہیں ڈالے گا۔ کیونکہ اس نے تجھے ایمان کی دولت عطا کی اور
 تجھے وطن سے آپ کی زیارت کے لیے لے لیا تمہارا مقصد نہ تو تجارت سے اور نہ ہی دنیا سے کوئی حصہ وصول کرنا بلکہ تم
 محض نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور شوق میں آئے ہو کہ آپ کے آثار مبارکہ اور قبر شریف کی عمارت کی زیارت کرو
 کیوں کہ جب تم آپ کی زیارت سے مشرف نہ ہو سکے تو اب تم نے صرف اس مقصد کے لیے سفر کیا تو اللہ تعالیٰ کے شایان
 شان یہ ہے کہ وہ تمہاری طرف نظر رحمت سے دیکھے۔

جب تم مسی نبوی شریف ہیں پنچو تو یاد کرو کہ یہ وہ مقام ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور پہلے
 صحابہ کرام اور افضل جماعت کے لیے پسند فرمایا اور اللہ تعالیٰ کے فرائض سب سے پہلے اسی مقام پر ادا کئے گئے اور
 اور اس میں ہی مخلوق خدا میں سے افضل لوگ حالت حیات میں اور وصال کے بعد بھی موجود ہیں تو نہیں اللہ تعالیٰ سے
 پُر امید ہونا چاہیے کہ وہاں داخل ہونے کی وجہ سے وہ تم پر رحم فرمائے گا پس تم وہاں خشوع و خضوع کے ساتھ داخل
 ہو اور یہ مقام اس بات کے کس قدر لائق ہے کہ ہر مومن کے دل سے خشوع کا مطالبہ کیا جائے جیسے حضرت ابوسلمیان

سے حکایت ہے کہ انہوں نے فرمایا حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ نے حج کیا اور وہ مدینہ طیبہ میں داخل ہوئے جب مسجد کے دروازے پر کھڑے ہوئے تو ان سے کہا گیا ہے یہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف ہے تو ان پر بیہوشی طاری ہو گئی جب افاقہ ہوا تو فرمایا مجھے یہاں سے نکالو مجھے اس شہر میں مزار نہیں آتا جس میں سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دفن کئے گئے ہوں۔

زیارتِ نبوی

جہاں تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا تعلق ہے تو آپ کے سامنے اس طرح کھڑا ہونا چاہیے جیسے ہم نے بیان کیا ہے اور آپ کے وصال کے بعد آپ کی زیارت اس طرح کی جائے جس طرح (ظاہری) زندگی میں آپ کی زیارت کی جاتی تھی۔ اور آپ کی قبر شریف کے صرف اس قدر قریب ہونا جس قدر آپ کی زندگی میں آپ کے قریب ہوتے اگر اس وقت آپ (ظاہری زندگی سے) زندہ ہوتے اور جیسا کہ تم اس بات کو عزت سمجھتے کہ آپ کے جسم اقدس کو نہ ہاتھ لگانا اور نہ بوسہ دو بلکہ آپ کے سامنے جھکے ہوئے دُور کھڑے ہوتے اسی طرح اب بھی کرو کیونکہ زیارات کو ہاتھ لگانا اور بوسہ دینا عیسائیوں اور یہودیوں کا طریقہ ہے (۱) اور یہ عقیدہ رکھنا کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری یہاں حاضری، کھڑا ہونے اور زیارت کرنے کو جانتے ہیں اور آپ تک تمہارا سلام اور درود شریف پہنچتا ہے پس تم آپ کی ذات گرامی کو قبر شریف میں حاضر سمجھو اور آپ کے عظیم مقام کو دل میں حاضر کرو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی قبر شریف ہر ایک فرشتہ مقرب کر رکھا ہے جو آپ کے امتیوں میں سے سلام بھیجنے والے کے سلام کو آپ تک پہنچاتا ہے (۲) یہ تو اس شخص کے بارے میں ہے تو اس آدمی کا سلام کیسے نہیں پہنچے گا جس نے اپنے وطن سے جدائی اختیار کی اور آپ کی ملاقات کے شوق میں جنگوں کا سفر کیا اور آپ کے روحِ مطہرہ کی زیارت پر اکتفا کیا کیوں کہ آپ کی زیارت طیبہ سے وہ محروم رہا۔

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

مَنْ صَلَّى عَلَيَّ مَرَّةً وَاحِدَةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيَّ
عَشْرًا (۳)

جس نے مجھ پر ایک بار درود شریف پڑھا اللہ تعالیٰ اس پر دس رحمتیں نازل کرتا ہے۔

تو یہ اس بات کا بدلہ ہے کہ وہ زبان سے درود شریف پڑھتا تو بدن کے ساتھ وہاں حاضری کا کتنا بڑا اجر ہوگا۔

(۱) اگر قرط مجت میں بوسہ دیا جائے تو کوئی حرج نہیں محض رسم بنا لینا اور ادھر اعمال سے خالی ہونا انبیاء کرام کے راستے پر نہ چلنا یہود و نصاریٰ کا طریقہ ہے ۱۲ ہزار روئے۔

(۲) مسند امام احمد بن حنبل جلد اول ص ۴۴۱ سر روایات عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ

(۳) مسند امام احمد بن حنبل جلد ۲ ص ۲۷۲ روایات ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ

منبر شریف کے پاس آؤ اور یوں تصور کرو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما ہیں اور صحابہ کرام مہاجرین و انصار کے گرد حلقہ باندھے ہوئے ہیں اور آپ اپنے خطبہ میں ان کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کی ترغیب دے رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے سوال کرو کہ وہ قیامت تک تمہارے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جدائی نہ ڈالے۔

جب وہ ان تمام امور سے فارغ ہو جائے تو اپنے دل میں غم پریشانی اور خوف کو لازم کرے اور سوچے کہ معلوم میں اس کا حج قبول ہوا اور وہ محبوبین کی جماعت میں شامل ہوا یا اس کا حج رد کر دیا گیا اور اسے مردود لوگوں کے ساتھ ملا دیا گیا یہ بات اپنے دل اور اعمال کے ذریعے سمجھے جب یہ بات دل میں بیٹھے گی تو اس دھوکے والے گھر دنیا سے دوری بڑھے گی اور محبت والے گھر آخرت کی محبت زیادہ ہوگی اور وہ اپنے اعمال کو دیکھے گا کہ وہ شریعت کے راز میں تو لے گئے ہیں لہذا قبولیت پر یقین رکھے کیوں کہ اللہ تعالیٰ اسی سے قبول کرتا ہے جس سے محبت کرتا ہے اور جس سے محبت کرتا ہے اس کو دوست بناتا اور اس پر محبت کے آثار ظاہر کر دیتا ہے اس سے اپنے دشمن ابلیس ملعون کے غلبہ کو ہٹاتا ہے جب اس پر یہ بات ظاہر ہو تو یہ قبولیت کی دلیل ہے اور اگر معاملہ اس کے الٹ ہو تو قریب ہے کہ اسے اس سفر سے تکلیف اور مشقت کے سوا کچھ حاصل نہ ہو ہم اس بات سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتے ہیں۔ امرالہجج کا بیان مکمل ہوا اس کے بعد تلاوت قرآن کے آداب کا بیان ہوگا۔

آداب تلاوت قرآن کا بیان

ہر قسم کی حمد و ستائش اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جس نے اپنے نبی مرسل اور اپنی کتاب منزل جس کے پاس آگے یا پیچھے سے باطل نہیں آسکتا اور وہ حکمت والے تعریف والے کی طرف سے اتاری گئی ہے، کے ذریعے بندوں پر احسان فرمایا۔ بیان تک کہ غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس (قرآن پاک) کے واقعات اور خبروں پر قیاس کا طریقہ وسیع ہوا اور اس کے ذریعے سیدھے راستے پر چلنا واضح ہو گیا کیوں کہ اس میں احکام کو تفصیل سے بیان کیا اور حلال و حرام کے درمیان فرق کر کے بتایا اور روشنی اور نور ہے، اسی کے ذریعے دھوکے سے نجات ملتی ہے اور اسی میں سینوں کی بیماریوں سے شفا ہے جو منکر اس کا مخالف ہوا اللہ تعالیٰ اسے توڑ دیتا ہے اور جو شخص اس کے غیر میں علم تلاش کرے اللہ تعالیٰ اسے گمراہ کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مضبوط رسی اور واضح نور ہے مضبوط اور مکمل سہارا ہے وہ قلیل و کثیر اور صغیر و کبیر کو گھیرے ہوئے ہے اس کے عجائبات ختم نہیں ہوتے اہل علم کے نزدیک اس کے فوائد کو کوئی حد گھیر نہیں سکتی اور تلاوت کرنے والوں کے بار بار تلاوت کرنے سے وہ پرانا نہیں ہوتا اسی نے پہلوں اور پھلوں کو ہدایت دی اور جب جنوں نے اسے سنا تو وہ فوراً اپنی قوم کو ڈرانے کے لیے واپس ہو گئے۔

اور انہوں نے کہا:

إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ
فَأَمْنًا بِهِ وَلَكِنْ شَرِكٌ بَدِينَا أَحَدًا۔

(۱)

بے شک ہم نے عجیب قرآن سنا جو ہدایت کی طرف بتاتا
ہے پس ہم اس پر ایمان لائے اور ہم ہرگز اپنے رب
کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔

تو اس پر جو بھی ایمان لایا اسے توفیق دی گئی جس نے اس کے ذریعے کلام کیا اس نے سچ کہا جس نے اسے دیا
بنایا اس نے ہدایت پائی جس نے اس پر عمل کیا وہ کامیاب ہوا۔
اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔

(۲)

بے شک ہم نے ذکر (قرآن پاک) کو اتارا اور ہم ہی
اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔

دلوں اور جلدوں میں اسے محفوظ رکھنے کے اسباب ہیں سے ایک سبب یہ ہے کہ ہمیشہ اس کی تلاوت کی جائے
اور اس کے آداب و شروط کا لحاظ کرتے ہوئے اس کی تدریس کو ہمیشہ جاری رکھا جائے اور اس کے اعمال باطنہ اور
ظاہری آداب کی حفاظت کی جائے لہذا اس کا بیان اور تفصیل ضروری ہے۔ اس کے مقاصد چار بابوں میں واضح ہونگے
پہلا باب :- قرآن پاک اور اہل قرآن کی فضیلت
دوسرا باب :- تلاوت کے ظاہری آداب
تیسرا باب :- تلاوت کے وقت باطنی اعمال
چوتھا باب :- قرآن پاک کو سمجھنا اور اپنی رائے سے اس کی تفسیر کرنا وغیرہ۔

(۱) قرآن مجید، سورہ بنی آیت ۱، ۲

(۲) قرآن مجید سورہ الحجر آیت ۹

پہلا باب

قرآن پاک اور اس کے اہل لوگوں کی فضیلت اور تلاوت میں کوتاہی کرنے والوں کی مذمت

فضیلت قرآن:

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ ثُمَّ رَأَىٰ أَنْ يَأْخُذَ أَوْ تَقِي
أَفْضَلَ مِمَّا أَوْقَىٰ فَقَدْ اسْتَعْفَرَ مَا
عَظَمَهُ اللَّهُ۔ (۱)

جس شخص نے قرآن پاک پڑھا پھر یہ خیال کیا کہ کسی شخص کو اس سے افضل چیز عطا کی گئی ہے تو اس نے اس چیز کو چھوٹا قرار دیا جسے اللہ تعالیٰ نے عظمت عطا فرمائی ہے۔

اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے:-

مَا مِنْ شَيْعٍ أَفْضَلَ مِنْزَلَةً عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَىٰ
مِنَ الْقُرْآنِ تَوْبِيٍّ وَلَا مَلَكٍ وَلَا عَيْرَةٍ۔ (۲)

اللہ تعالیٰ کے نزدیک قرآن پاک سے بڑھ کر کسی شفاعت کرنے والے کا مقام نہیں نہ کسی نبی کا نہ فرشتے اور نہ کسی اور کا۔

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

لَوْ كَانَ الْقُرْآنُ فِي إِهَابٍ مَا حَسَّتْهُ
النَّارُ۔ (۳)

اگر قرآن پاک کسی چمڑے میں ہو تو اس سے آگ نہیں پھینکتی۔

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

أَفْضَلُ عِبَادَةٍ أُمَّتِي تِلَاوَةُ
الْقُرْآنِ (۴)

میری امت کی بہترین عبادت، تلاوت قرآن پاک ہے۔

(۱) الدر المنثور جلد اول ص ۲۴۹ زیر آیت من یوقی الحکمة

(۲) صحیح مسلم جلد اول ص ۳۷۰ کتاب صلاۃ المسافرین

(۳) مسند امام احمد بن حنبل جلد ۲ ص ۱۵۵ بروای عقیبہ بن عامر رضی اللہ عنہ

(۴) کنز العمال جلد اول ص ۱۱۵ حدیث ۲۲۶۲

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے۔
 اِنَّ اللّٰهَ عَزَّوَجَلَّ قَرَأَطَهُ وَيَسْتَنْ قَبْلَ
 اَنْ يَخْلُقَ الْخَلْقَ بِالْفِ عَامٍ فَلَمَّا
 سَمِعَتْ الْمَلَائِكَةُ الْقُرْآنَ قَالَتْ طُوْبِي
 رُمَّهٖ يَنْزِلُ عَلَيْهِمْ هَذَا وَطُوْبِي لِاَجْوَابِ
 تَحْمِلُ هَذَا وَطُوْبِي لِوَلِسْتِهٖ تَنْطِقُ
 بِهَذَا۔ (۱)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
 خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ،
 (۲)

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:
 يَقُولُ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى مَنْ شَغَلَهُ
 قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ عَنِ دُعَائِي وَمَا لِحِفِّ
 اعْطِيَتْهُ اَفْضَلَ ثَوَابِ السَّاكِرِيْنَ۔
 (۳)

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے:
 ثَلَاثَةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى كَثِيْبٍ
 مِنْ مِسْكٍ اَسْوَدَ لَوْ يَمُوْلُهُمْ وَلَا
 يَمَالُهُمْ حِسَابٌ حَتّٰى يُفْرَغَ مَا بَيْنَ النَّاسِ
 رَجُلٌ قَرَأَ الْقُرْآنَ ابْتِغَاءً وَحِبِّهِ اللّٰهُ
 عَزَّوَجَلَّ دَرَجَةٌ اَمْرٍ بِهٖ تَوْمًا وَهَمْدٌ

بے شک اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کرنے سے ایک
 ہزار سال پہلے سورہ طہ اور سورہ یسین پڑھی حبیب
 فرشتوں نے قرآن پاک سنا تو کہا اس امت کو مبارک
 ہو جن پر یہ قرآن نازل ہوگا وہ سینے مبارک باد کے مستحق
 ہیں جو اسے اٹھائیں گے اور ان زبانوں کو مبارک ہو
 جن پر یہ جاری ہوگا۔

تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن سیکھے اور
 دوسروں کو سکھائے۔

اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جس شخص کو قرآن پاک کی
 قرات مجھ سے دعا مانگنے اور سوال کرنے سے روک
 دے تو میں اسے شکر کرنے والوں کا افضل ثواب
 عطا کرتا ہوں۔

تین آدمی ایسے ہیں کہ قیامت کے دن سیاہ کستوری
 کے ٹیلے پر ہوں گے نہ انہیں وحشت ہوگی نہ ان کا
 حساب کتاب ہوگا حتیٰ کہ لوگوں کے حساب سے فراغت
 ہو جائے وہ شخص جس نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے
 قرآن پاک اور وہ شخص جس نے قرآن پاک کے ساتھ امانت

(۱) مجمع الزوائد جلد ۷ ص ۵۶ سورہ طہ

(۲) صحیح بخاری جلد ۲ ص ۵۲، ابواب فضائل القرآن

(۳) حلیۃ الاولیاء جلد ۱ ص ۲۹۹ ترجمہ ۲۹۹

بِـرَاضُونَكَ (۱)

کردائی اور لوگ اس پر راضی ہیں، (اور تیسرا وہ شخص ہے جو مسجد میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اذان دیتا اور لوگوں کو بلاتا ہے)

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
أَهْلُ الْقُرْآنِ أَهْلُ اللَّهِ وَخَاصَّتُهُ -

(۲)

قرآن پاک (پڑھنے) والے لوگ اللہ تعالیٰ سے تعلق رکھنے والے اور اس کے خاص بندے ہیں۔

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے:
إِنَّ الْقُلُوبَ تَصْدَأُ كَمَا يَصْدَأُ الْحَدِيدُ
فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا جَلَدُوهَا فَقَالَ
تِلَاوَةُ الْقُرْآنِ وَذِكْرُ الْمَوْتِ -

(۳)

بے شک دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے جیسے لوہے کو زنگ لگتا ہے عرض کیا گیا یا رسول اللہ! اس کی چمک کس چیز کے ساتھ ہوتی ہے؟ فرمایا قرآن پاک کی تلاوت اور موت کے ذکر سے۔

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:
لِلَّهِ أَشَدُّ أَدْنًا إِلَى قَارِي الْقُرْآنِ مِنْ
صَاحِبِ الْقَيْنَةِ إِلَى قَبْتِهِ -

(۴)

اللہ تعالیٰ قرآن پاک پڑھنے والے (کی تلاوت) کو جس قدر سننا ہے گانے والی کا مانک بھی اس کا گانا اس قدر نہیں سننا۔

حضرت ابو امامہ باہلی رحمہ اللہ نے فرمایا:

اقوال صحابہ و تابعین
قرآن پاک پڑھا کرو تمہیں یہ ٹکاسا ہوا مصحف دھوکہ نہ دے یعنی صرف اسی پر اکتفا نہ کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ اس دل کو عذاب نہیں دے گا جو قرآن پاک کا ظرف (برتن) ہو، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا "جب تم علم کا ارادہ کرو تو قرآن پاک میں بحث کرو کیوں کہ اس میں پہلوں اور پھیلوں کا علم ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہی فرماتے ہیں:

قرآن پاک پڑھو نہیں اس کے ہر حرف پر دس نیکیاں دی جائے گی میں یہ نہیں کہتا کہ "الم" ایک حرف ہے بلکہ الف

(۱) کنز العمال جلد ۵ ص ۸۳۲ حدیث ۲۳۳۰۹

(۲) کنز العمال جلد ۱ ص ۵۱۳ حدیث ۲۲۷۸

(۳) کنز العمال جلد ۲ ص ۲۴۱ حدیث ۳۹۲۲

(۴) مستدرک امام احمد بن حنبل جلد ۳ ص ۱۹ مرویات فضالہ بن عبید رضی اللہ عنہ

انگ حرف ہے ہم انگ حرف ہے اور ہم بھی انگ حرف ہے، آپ نے مزید فرمایا۔

تم میں سے کوئی شخص اپنے آپ سے قرآن پاک کے علاوہ کا سوال نہ کرے اگر وہ قرآن پاک سے محبت کرتا اور اسے پسند کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے اور اگر وہ قرآن پاک سے بغض رکھتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھتا ہے۔

حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے فرمایا "قرآن پاک کی ہر آیت جنت کی ایک سیڑھی اور تمہارے گھروں کا چرار ہے"۔ آپ نے مزید فرمایا "جس نے قرآن پاک پڑھا تو اس کے دونوں پہلوؤں کے درمیان نبوت رکھ دی جائے گی لیکن اس کی طرف وحی نہیں ہوگی۔"

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا "جس گھر میں قرآن پاک کی تلاوت کی جائے وہ اہل خانہ پر کشادہ ہو جاتا ہے اس میں بھلائی زیادہ ہوتی ہے (برکت ہوتی ہے) وہاں فرشتے آتے ہیں اور شیطان وہاں سے نکل جاتے ہیں اور جس گھر میں قرآن نہ پڑھا جائے وہ گھر اپنے اہل پر تنگ ہو جاتا ہے، اس میں برکت کم ہوتی ہے اور فرشتے وہاں سے چلے جاتے ہیں جب کہ شیطان وہاں آ جاتے ہیں۔"

حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے فرمایا کہ میں نے خواب میں اللہ تعالیٰ کی زیارت کی تو میں نے عرض کیا "یا اللہ! جن امور کے ذریعے مقربین تیرا قرب حاصل کرتے ہیں ان میں سے افضل کیا عمل ہے؟ فرمایا اسے احمد! میرا کلام (قرآن پاک) فرماتے ہیں میں نے عرض کیا اسے میرے رب! سمجھ کے ساتھ یا سمجھ کے بغیر بھی؟ فرمایا سمجھ کے ساتھ بھی اور سمجھ کے بغیر بھی، حضرت محمد بن کعب قرظی رحمہ اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن جب لوگ اللہ تعالیٰ سے قرآن پاک سنیں گے تو ان میں سے معلوم ہوگا) گویا انہوں نے اس پہلے کبھی سنا ہی نہیں۔"

حضرت قاضی فضیل بن عیاض رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔

قرآن پاک کے حافظ (اور عالم) کو چاہیے کہ وہ کسی کے سامنے حاجت پیش نہ کرے نہ حکمرانوں کے سامنے اور نہ ان سے کم درجے کے لوگوں کے سامنے، بلکہ لوگوں کو اس کا حاجت مند ہونا چاہیے انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ قرآن پاک کا حافظ (عالم اور عالم) اسلام کا جھنڈا اٹھانے والا ہے لہذا اسے ہر وقت کعب میں مشغول ہونے والوں کے ساتھ مشغول نہیں ہونا چاہیے نہ وہ بھولنے والوں کے ساتھ اور نہ فضول کام والوں کے ساتھ شامل ہو۔ یعنی قرآن پاک کی تعظیم کا حق ادا کرتے ہوئے اسے ان لوگوں سے اجتناب کرنا چاہیے۔

حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔ "جب انسان قرآن پاک پڑھتا ہے تو فرشتہ اس کی دونوں آنکھوں کے سامنے بوسہ دیتا ہے۔"

حضرت عمرو بن میمون رحمہ اللہ فرماتے ہیں جس شخص نے صبح کی نماز پڑھ کر قرآن پاک کھولا اور اس سے سو آیات پڑھیں

اللہ تعالیٰ تمام دنیا والوں کے عمل کی مثل اسے عمل کا ثواب عطا فرماتا ہے۔
ایک روایت میں ہے کہ حضرت خالد بن عقبہ رضی اللہ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور
عرض کیا میرے سامنے قرآن پاک پڑھیں آپ نے ان کے سامنے پڑھا۔

إِنَّ اللَّهَ بِأَمْرٍ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ
ذِي الْقُرْبَىٰ (۱)

بے شک اللہ تعالیٰ، انصاف، احسان اور قربانداروں
کو (کچھ نہ کچھ) دینے کا حکم دیتا ہے۔
انہوں نے عرض کیا دوبارہ پڑھیں آپ نے دوبارہ پڑھا تو انہوں نے عرض کیا اللہ کی قسم! بے شک اس میں مٹھاس
ہے اور اس پر شادی ہے اس کا نچلا حصہ سیراب کرنے والا اور اوپر والا حصہ بھل دینے والا ہے اور یہ کسی انسان کا
کلام نہیں (۲)۔

حضرت حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ کی قسم! قرآن کے علاوہ بالاداری نہیں اور اس کے بعد فاقہ نہیں حضرت
فضیل رحمہ اللہ فرماتے ہیں جو شخص صبح کے وقت سورہ حشر کی آخری آیات پڑھے پھر اسی دن مر جائے تو اس پر شہداء کی مہر
لگ جائے گی اور جو شخص رات کو پڑھے اور اسی رات فوت ہو جائے تو اس پر بھی شہداء کی مہر لگ جائے گی۔ حضرت قائم
بن عبد الرحمن فرماتے ہیں میں نے ایک عابد سے پوچھا کہ یہاں کوئی ایسا شخص نہیں جس کے ساتھ تم مانوس رہو تو انہوں نے
قرآن پاک کی طرف ہاتھ بڑھا کر اسے اپنی گود میں رکھا اور فرمایا یہ ہے۔

حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ الکریم نے فرمایا میں چیز میں حافظہ کو تیز کرتی ہیں اور بلغم کو دور کر دیتی ہیں (۱) مسواک
(۲) روزہ اور (۳) قرآن پاک پڑھنا۔

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے فرمایا: "بہت سے لوگ قرآن پاک کی

غافل لوگوں کی تلاوت کی مذمت

تلاوت کرتے ہیں اور قرآن پاک ان پر لعنت بھیجتا ہے" حضرت میسرہ

فرماتے ہیں۔

"بدکار آدمی کے سینے میں قرآن پاک مسافر ہے" حضرت ابوسلیمان دارنی فرماتے ہیں قرآن پاک کے وہ حامل جو
قرآن پاک پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ دوزخ کے فرشتے بت بستوں کی نسبت ان کو جلدی پکڑیں گے۔
بعض علماء نے فرمایا کہ جب انسان قرآن پاک پڑھتا ہے پھر اس میں گفتگو شامل کر کے دوبارہ پڑھتا ہے تو اسے کہا جاتا ہے
کہ میرے کلام کے ساتھ تیرا کیا تعلق ہے۔

(۱) قرآن مجید، سورہ نمل آیت ۹۰

(۲) الدر المنثور جلد ۴ ص ۱۲۸ تحت ان اللہ یامر بالعدل الایۃ

حضرت ابن رباح فرماتے ہیں ”میں قرآن پاک یاد کر کے پچھتا یا کیوں کہ مجھے خبر پہنچی ہے کہ قیامت کے دن قرآن پاک دونوں سے وہ سوال ہوگا جو انبیاء کرام سے ہوگا۔“

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حامل قرآن کو چاہیے کہ وہ اپنی رات سے پہچانا جائے جب لوگ ہوئے ہوں اور دن سے جب لوگ کوتاہی کرتے ہوں غم سے جب لوگ خوش ہوں، رونے سے جب لوگ ہنس رہے ہوں۔ خاموشی سے جب لوگ بیہودہ گفتگو میں مبتلا ہوں، عاجزی سے جب لوگ تکبر کرتے ہوں اور حامل قرآن کو چاہیے کہ وہ پڑ سکون نرم طبیعت والا ہو، جفاکار، جھگڑا کو چینی والا، شور و شغب کرنے والا اور سخت مزاج نہ ہو۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

أَكْتَرُ مَنَافِقِي هَذِهِ الْأُمَّةِ قِرَاءُهَا (۱)

اس امت کے زیادہ منافق، قراء ہیں (۲)

اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

إِقْرَأِ الْقُرْآنَ مَا فَمَّا لَكَ خَانَ لَمْ يَتَمَكَّ
فَلَسْتَ تَقْرَأُهَا۔

قرآن پاک کی تلاوت اس وقت تک کر جب تک وہ تجھے
ریائی سے، روکے اور اگر تو تلاوت کے باوجود نہ لگے
تو تو نے قرآن نہیں پڑھا۔

(۳)

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

مَا آمَنَ بِالْقُرْآنِ مَنِ اسْتَجَلَ حَمَارِمَهُ

(۴)

جس شخص نے قرآن کی حرام کردہ باتوں کو حلال قرار دیا وہ
قرآن پاک پر ایمان نہیں لایا۔

بعض بزرگوں نے فرمایا کہ کوئی بندہ ایک سورت (پڑھنا) شروع کرتا ہے تو فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعا
مانگتے ہیں یہاں تک کہ وہ فارغ ہو جائے۔ اور کوئی بندہ سورت شروع کرتا ہے تو اس کے فارغ ہونے تک فرشتے اس
پر لعنت بھیجتے ہیں پوچھا گیا کہ یہ کیسے؟ فرمایا جب وہ اس کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام سمجھتا ہے تو فرشتے اس کے لیے
رحمت کی دعا مانگتے ہیں ورنہ اس پر لعنت بھیجتے ہیں۔

بعض علی اکرام نے فرمایا بندہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے تو اس کا نفس اس پر لعنت بھیجتا ہے حالانکہ اسے علم نہیں

(۱) مسند امام احمد بن حنبل جلد ۴ ص ۱۵۵ مرویات عقبہ بنی عامر رضی اللہ عنہ

(۲) اس سے مراد ریاضی یا عملی منافقت ہے اعتقادی منافقت مراد نہیں۔ ۱۲ ہزاروی

(۳) الترغیب والترہیب جلد اول ص ۱۲۶ الترہیب من کتم العلم

(۴) المعجم الکبیر للطبرانی جلد ۸ ص ۲۶ حدیث ۲۹۵

ہوتا وہ پڑھتا ہے۔

سنو باظالموں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔

الْوَالِدَةُ اللّٰهُ عَلَى الظّٰلِمِيْنَ (۱)

حالانکہ وہ خود اپنے آپ پر ظلم کرنے والا ہوتا ہے اور وہ پڑھتا ہے۔

پس ہم! جھوٹوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت کریں۔

لَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الْكٰذِبِيْنَ۔ (۲)

حالانکہ وہ خود ان (جھوٹوں) میں سے ہوتا ہے۔

حضرت حسن بصری رحمہ اللہ نے فرمایا: ”تم نے قرآن پاک پڑھنے کو منتریں اور رات کو اونٹ بنا لیا ہے تم اس پر سوار ہو کر منتریں طے کرتے ہو جب کہ تم سے پہلے لوگوں نے اسے اپنے رب کے پیغامات سمجھا وہ رات کے وقت اس میں غور و فکر کرتے اور دن کو نافذ کرتے تھے“

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ان لوگوں پر قرآن پاک اس لیے نازل ہوا کہ وہ اس پر عمل کریں تو انہوں نے اس کے پڑھنے کو عمل قرار دیا تم میں سے ایک قرآن پاک کو شروع سے آخر تک پڑھتا ہے ایک حرف بھی نہیں چھوڑتا لیکن عمل چھوڑ دیتا ہے۔

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت اور حضرت جندب رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے فرماتے ہیں۔

ہم نے ایک عرصہ زندگی گزارا ہے ہم میں سے ایک کو قرآن پاک سے پہلے ایمان دیا جاتا، پھر کوئی سورت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتی تو وہ اس کے حلال، حرام، حکم دینے والی اور ڈانٹ ڈپٹ والی آیات کو سیکھتا نیران باتوں کو بھی جن پر توقف کرنا ہوتا پھر میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ان میں سے ایک کو قرآن پاک، ایمان سے پہلے دیا جاتا تو وہ فاتحہ سے آخر تک پڑھتا لیکن وہ اس کے حکم دینے والی اور ڈانٹنے والی آیات کو نہ جانتا اور اسے یہ پتہ ہوتا کہ کہاں توقف کرتا ہے۔ وہ اسے گھاس کی طرح کاٹتا چلا جاتا (۳)

تورات میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: اے میرے بندے کیا تجھے مجھ سے جیا نہیں آئی تیرے کسی بھائی کا خط آتا ہے اور توراہتے میں چل رہا ہوتا ہے تو تو (اسی وقت) راستے سے ہٹ کر اس کے لیے بیٹھ جاتا ہے اسے پڑھتا ہے اور اس کے ایک ایک حرف میں غور کرتا ہے یہاں تک کہ اس میں سے کچھ بھی تجھ سے نہیں بچتا اور یہ میری کتاب ہے میں نے اسے تیری طرف اتارا دیکھ میں نے اس میں تیرے لیے کتنی باتوں کو تفصیل سے بیان کیا اور کتنی باتوں کو تکرار

(۱) قرآن مجید، سورۃ ہود آیت ۱۸

(۲) قرآن مجید، سورۃ آل عمران آیت ۷۵

(۳)

سے بیان کیا تاکہ تو اس کے طول و عرض میں غور و فکر کر کے پھر تو اس سے منہ پھیرتا ہے تو کیا میں تیرے نزدیک تیرے
ان بعض بھائیوں سے بھی گیا گزارہ ہوں اسے میرے بندے تیرے پاس تیرے بعض بھائی بیٹھے ہیں تو تو مکمل طور پر ان کی طرف
متوجہ ہوتا ہے اور دلجمعی کے ساتھ اس کی باتوں کی طرف کان لگا دیتا ہے اگر کوئی کلام کرنے والا کلام کرتا ہے یا تجھے
اس گفتگو سے پھیرنا چاہتا ہے تو تو اشارے سے اسے روکتا ہے کہ ٹھہر جاؤ اور میں تیری طرف متوجہ ہوں اور تجھ سے
باتیں کرتا ہوں اور تو اپنے دل کو مجھ سے پھیر دیتا ہے تو کہا تو نے مجھے اپنے بعض بھائیوں سے ہلکا سمجھ رکھا ہے۔

دوسرا باب

تلاوت کے ظاہری آداب اور یہ دس ہیں

تلاوت کرنے والا با وضو ہوا اور ادب و سکون کی حالت میں ہو کھڑا ہو یا بیٹھا ہو لیکن قبلہ رخ ہونا چاہئے سر جھکایا ہوا ہونہ چوڑی مار کر بیٹھے اور نہ تکبہ لگا کر اور نہ ہی منکبرانہ انداز میں بیٹھے اور یوں بیٹھے جیسے استاد کے ساتھ بیٹھتا ہے۔

ظاہری کی حالت کے بیان میں

سب سے افضل حالت، نماز میں حالت قیام میں قرأت کرنا ہے اور یہ کہ مسجد میں ہو یہ سب اعمال سے افضل ہے اور زونہو کے بغیر چھوٹے پر لیٹ کر تلاوت کرے تو اس کی بھی فضیلت ہے لیکن یہ اس سے کم ہے۔

اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

وہ لوگ جو کھڑے، بیٹھے اور اپنے پہلوؤں پر (لیٹ کر) اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں اور آسمان اور زمین کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں۔

الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ تَبَايَةً وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ - (۱)

اللہ تعالیٰ نے ان سب زمینوں حالتوں میں ذکر کرنے والوں کی تعریف فرمائی لیکن ذکر میں حالت قیام کو مقدم کیا پھر بیٹھے اور پھر پہلو کے بل لیٹ کر ذکر کرنے کو بیان کیا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں وہ جو شخص حالت نماز میں کھڑا ہو کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے تو اس کے لیے ہر حرف کے بدلے ایک سو نیکیاں ہیں اور جو آدمی نماز میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے اس کے لیے ہر حرف کے بدلے پچاس نیکیاں ہیں اور جو شخص نماز کے علاوہ با وضو ہو کر پڑھے اس کے لیے پچاس نیکیاں ہیں اور جو آدمی وضو کے بغیر پڑھے اس کے لیے دس نیکیاں ہیں۔ رات کے وقت قیام کرنا افضل ہے کیوں کہ اس وقت دل کو زیادہ فراغت ملتی ہے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں دن کو سجدوں کی کثرت اور رات کو لیا قیام افضل ہے۔

زیادہ یا کم پڑھنے میں قرآن کی مختلف عادات ہیں بعض حضرات ایک رات دن میں ایک بار پورا قرآن پاک ختم کرتے ہیں اور بعض دو مرتبہ ختم کرتے ہیں بعض تین مرتبہ تک پہنچتے ہیں کچھ لوگ مہینے میں ایک بار ختم کرتے ہیں لیکن مقدار کے سلسلے میں سب سے بہتر بات وہ ہے جو سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم

۲۔ قرأت کی مقدار کا بیان

نے فرمائی ہے۔ آپ کا ارشاد ہے۔

مَنْ قَدَّاءَ الْقُرْآنِ فِي آتِلٍ مِثِّ ثَلَاثٍ
لَمْ يَفْقَهُهُ (۱)

جو شخص تین دن سے کم میں قرآن مکمل پڑھتا ہے وہ اسے
سمجھ نہیں آتا۔

کیونکہ اس سے زیادہ پڑھتا تر تیل رٹھہر ٹھہر کر پڑھتے ہیں مانع ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جب ایک شخص کو دیکھا کہ وہ قرآن پاک بہت تیزی سے پڑھتا ہے تو فرمایا بے شک اس شخص نے نہ تو قرآن پاک پڑھا اور نہ خاموش رہا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کو حکم دیا کہ وہ ہفتے میں ایک بار قرآن پاک ختم کریں۔ اسی طرح صحابہ کرام کی ایک جماعت ہفتے میں ایک بار قرآن پاک ختم کرتی تھی۔ ان میں حضرت عثمان غنی، حضرت زید بن ثابت، حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہم شامل ہیں۔ تو ختم قرآن کے سلسلے میں چار درجات ہیں۔ ایک دن رات میں ختم کرنا، اسے ایک جماعت نے مکروہ قرار دیا ہے ایک مہینے میں مکمل کرنا یعنی ہر روز ایک پارہ پڑھنا گویا یہ کم پڑھنے میں مبالغہ ہے جیسے پہلی صورت زیادہ پڑھنے میں مبالغہ ہے۔ اور ان دونوں کے درمیان دو درجے ہیں۔ ایک یہ کہ ہفتے میں ایک بار پڑھے اور دوسرا یہ کہ ہفتے میں دو بار پڑھے یعنی تقریباً تین دن میں مکمل کرے۔ زیادہ پسندیدہ بات یہ ہے کہ ایک ختم رات کے وقت کرے اور دوسرا ختم دن کو کرے دن کا ختم شریف، سووار کے دن صبح کی دو رکعتوں میں کرے یا اس کے بعد۔

اور رات کا ختم جمعہ المبارک کی رات میں مغرب کی دو رکعتوں میں یا اس کے بعد کرے تاکہ دن کا آغاز اور رات کا آغاز ختم شریف کا استقبال کریں۔ کیونکہ جب کوئی شخص رات کو ختم کرتا ہے تو فرشتے صبح تک اس کے لیے رحمت کی دعا مانگتے ہیں اور اگر دن کو ختم کرے تو شام تک دعا مانگتے ہیں تو اس طرح ان کی برکت پوری رات اور دن کو شامل ہوتی ہے۔ مقدار قرأت میں تفصیل یہ ہے کہ اگر وہ عابدین اور عمل کے راستے پر چلنے والوں میں سے ہے تو ہفتے میں دو بار ختم سے کم نہ کرے اور اگر قلبی اعمال یا فکر کے ذریعے منزل طے کرتا ہے یا علم کی نشر و اشاعت کرنے والوں میں سے ہے تو ہفتے میں ایک بار ختم کرنے پر اکتفا کرنے میں کوئی حرج نہیں اور اگر قرآن پاک کے معانی میں غور و فکر کرتا ہے تو مہینے میں ایک بار کافی ہے کیونکہ وہ بار بار پڑھنے اور سوچنے کی زیادہ حاجت رکھتا ہے۔

تقسیم مقدار قرأت

جو شخص ہفتے میں ایک بار ختم کرے تو وہ پورے قرآن کو سات حصوں میں تقسیم کرے صحابہ کرام نے بھی حصوں میں تقسیم کیا (۲) روایات میں ہے کہ حضرت عثمان غنی

(۱) مسند امام احمد بن حنبل جلد ۲ ص ۱۶۴ روایات عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ

(۲) صحیح بخاری جلد ۲ ص ۵۵، ۵۶، کتاب فضائل القرآن (۳) سنن ابی داؤد جلد اول ص ۱۰۸ کتاب الصلوٰۃ

جمعہ کی رات سورہ بقرہ شروع کرتے اور سورہ مادہ تک پڑھتے ہفتے کی رات سورہ انعام سے سورہ ہود تک اتوار کی رات سورہ یوسف سے سورہ مریم تک سووار کی رات سورہ طہ سے طسم موسیٰ و فرعون تک منگل کی رات سورہ عنکبوت سے سورہ عن تک بدھ کی رات سورہ تنزیل سے سورہ رحمن تک پڑھتے اور جمعرات کی رات ختم کر دیتے۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بھی منزلوں پر تقسیم کرنے تھے لیکن ان کی ترتیب یہ نہیں تھی اور کہا گیا ہے کہ قرآن پاک کی سات منزلیں ہیں پہلی منزل میں تین سو تین شامل ہیں دوسری منزل پانچ سو تین تیسری منزل سات سو تین، چوتھی منزل نو سو تین پانچویں منزل گیارہ سو تین اور چھٹی منزل تیرہ سو تین پر مشتمل ہے جب کہ ساتوں منزل سورہ ہج سے آخر تک ہے صحابہ کرم رضی اللہ عنہم نے اس طرح منزلوں پر تقسیم کیا تھا۔ اور وہ اسی طرح پڑھا کرتے تھے اور اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حدیث بھی مروی ہے اور یہ بات اس وقت کی ہے جب اسے پانچ یا دس حصوں یا تیس پاروں پر تقسیم نہیں کیا گیا تھا یہ تقسیم بعد کی ہے۔

۴۔ کتابت | قرآن پاک کو خوشخطی کے ساتھ لکھنا مستحب ہے اور سُرخ رنگ کے ساتھ نقطے اور علامات لگانے میں بھی کوئی حرج نہیں کیوں کہ اس میں زینت، توجیح اور پڑھنے والوں کو غلطی سے روکنا ہے حضرت حسن بصری اور حضرت ابن سیرین رحمہما اللہ، پانچ یا دس حصوں اور تیس پاروں میں تقسیم پر اعتراض کرتے تھے، حضرت شعبی اور حضرت ابراہیم علیہما الرحمہ سے سُرخ کی ساتھ نقطے لگانے کی کراہیت منقول ہے نیز وہ اس پر اجرت لینے کو بھی ناپسند کرتے تھے اور وہ لوگ کہا کرتے تھے کہ قرآن پاک کو صاف رکھوان لوگوں کے بارے میں یہی گمان کیا جاسکتا ہے کہ انہوں نے اس دروازے کو کھولنا اس لیے ناپسند کہا کہ کہیں اس میں زیادتیاں نہ پیدا ہو جائیں اور انہوں نے قرآن پاک کو تغیر و تبدل سے بچانے کی خاطر اسے ناپسند کیا اور اگر اس سے کوئی ممنوع بات لازم نہ آئے اور سب نے اتفاق کیا کہ اس نقطے وغیرہ لگانے سے اس کی زیادہ معرفت حاصل ہوتی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں محض اس کا نیا ہونا مانع نہیں کتنے ہی نئے کام ہیں جو اچھے ہیں جیسے کہا گیا کہ تراویح جماعت کے ساتھ پڑھنے کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جاری کیا اور یہ بدعتِ حسنہ ہے۔ بدعتِ مذمومہ وہ ہے جو سنتِ قدیمہ کے خلاف ہو یا سنت کی تبدیلی کا باعث ہو (۱) ان میں بعض حضرات فرماتے تھے کہ میں نقطے والے قرآن پاک سے پڑھ لیتا ہوں لیکن خود نقطے نہیں لگاتا۔ حضرت

(۱) حضرت امام غزالی رحمہ اللہ کے اس کلام سے ان لوگوں کو سبق سیکھنا چاہیے جو ہر اچھے کام کو محض نیا ہونے کی وجہ سے بدعت کہہ کر رد کر دیتے ہیں اور عام مسلمانوں کو بدعتی قرار دیتے ہیں، مثلاً سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد شریف منانا اور ایصالِ ثواب وغیرہ کو وہ لوگ بدعت قرار دیتے ہیں ایسے لوگوں کو اپنی اس غلط سوچ سے توبہ کرنی چاہیے ہمارے بزرگوں کی یہ سوچ نہ تھی ۱۲ ہزاروی۔

ادراعی، حضرت سحی بن ابی کثیر (رحمہما اللہ) سے نقل کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں۔

قرآن پاک (نقطوں وغیرہ سے) صاف تھا تو سب سے پہلے بارہ تار وغیرہ پر نقطے لگانے گئے اور ان حضرات نے فرمایا اس میں کوئی حرج نہیں یہ اس کا نور ہے پھر انہوں نے آیات کے اختتام پر پڑھے نقطے لگائے اور فرمایا اس میں بھی کوئی حرج نہیں کیونکہ اس سے آیت کے اختتام کا پتہ چلتا ہے اس کے بعد انہوں نے آغاز و اختتام کی علامات لگائیں۔ حضرت ابو بکر ہدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں نے حضرت حسن رحمہ اللہ سے مخرجی کے ساتھ قرآن پاک کے نقطے لگانے کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا اس کے نقطے کہا ہیں؟ میں نے کہا عربی کلمات کو اعراب لگاتے ہیں انہوں نے فرمایا قرآن پاک کے اعراب میں کوئی حرج نہیں اعراب سے مراد کلمے کے آخر میں زیر وغیرہ ڈالنا ہے (حضرت خالد حذا رحمہ اللہ نے فرمایا کہ میں حضرت ابن سیرین رحمہ اللہ کے پاس گیا تو میں نے دیکھا کہ وہ نقطے والے قرآن پاک سے پڑھ رہے ہیں حالانکہ وہ نقطے لگانے کو ناپسند کیا کرتے تھے، کہا گیا کہ حجاج بن یوسف نے یہ کام کیا ہے اس نے قرآن کرام کو جمع کیا حتیٰ کہ انہوں نے قرآن پاک کے کلمات اور حروف کی گنتی کی اور اس کے اجزاء کو برابر کر کے تیس پاروں میں تقسیم کیا اس کے علاوہ تقسیم بھی بتائیں (مثلاً ربع، نصف اور ثلث وغیرہ)

۵۔ ترتیل | قرآن پاک میں ترتیل مستحب ہے کیوں کہ قرأت کا مقصد غور و فکر کرنا ہے جیسا کہ ہم بیان کریں گے اور ترتیل سے پڑھنے میں اس کام پر مدد ملتی ہے اسی لیے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرأت کا وصف بیان کرتے ہوئے بتا کہ آپ ایک ایک حرف کے مفسر طور پر پڑھتے تھے۔ (۱)

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں میں صرف سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران ترتیل کے ساتھ پڑھوں تو لمبے قرآن کو تیزی کے ساتھ پڑھنے سے بہتر ہے۔ انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ میں سورہ زلزال اور سورہ القارعہ پڑھتے ہوئے ان میں غور و فکر کروں تو یہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کو جلدی جلدی پڑھنے سے بہتر ہے۔

حضرت مجاہد رحمہ اللہ سے ان دو آدمیوں کے بارے میں پوچھا گیا جنہوں نے نماز شروع کی اور ان کا قیام ایک جیسا تھا لیکن ان میں سے ایک نے صرف سورہ بقرہ پڑھی اور دوسرے نے پورا قرآن پاک پڑھا تو انہوں نے فرمایا کہ ان دونوں کا ثواب برابر ہے، اور یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ ترتیل، محض تدبیر کے لیے ہی مستحب نہیں عجمی آدمی جو قرآن پاک کے معانی کو نہیں سمجھتا اس کے لیے بھی قرأت میں ترتیل مستحب ہے کیوں کہ اس میں قرآن پاک کی توقیر و احترام زیادہ ہے نیز حلال پڑھنے کی نسبت یہ دل میں زیادہ تاثیر پیدا کرتی ہے۔

۶۔ رونا | قرآن پاک پڑھتے ہوئے رونا مستحب ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

قرآن پاک پڑھتے ہوئے رو اور اگر رونہ سکو تو رونے کی شکل بناؤ۔

اتْلُوا الْقُرْآنَ وَابْكُوا فَإِن لَّمْ تَبْكُوا فَبَاكُوا - (۱)

اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا:

جو شخص قرآن پاک کو خوش آوازی سے نہیں پڑھتا وہ ہم میں سے نہیں۔

لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَّمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْآنِ - (۲)

حضرت صالح مری فرماتے ہیں میں نے خواب میں سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قرآن پاک پڑھا تو آپ نے مجھ سے فرمایا اسے صالح ایہ تو قرأت ہے رونا کہاں ہے؟

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں جب تم اللہ تعالیٰ کے لیے سجدہ کی آیت پڑھو تو سجدہ کرنے میں جلدی نہ رو دیاں تک کہ تم روؤ اور اگر تم میں سے کسی کی آنکھ نہ روئے تو دل کو رونا چاہیے تب تکف رونے کا طریقہ یہ ہے کہ دل میں حزن و ملال کو حاضر کرے کیوں کہ اس سے رونا پیدا ہوتا ہے۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

بے شک قرآن پاک حزن کے ساتھ اترتا ہے لہذا جب تم اسے پڑھو تو حزن ظاہر کرو۔

إِنَّ الْقُرْآنَ نَزَلَ بِحُزْنٍ فَإِذَا قُرَأْتُمْ بِهِ فَتَحَازَنُوا (۳)

اور حزن (غم) ظاہر کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ قرآن کے ڈرانے، وعدہ اور عہد و پیمان کو یاد کرے پھر سوچے کہ اس نے اس کے اوامر و نواہی میں کتنی کوتاہی کی ہے تو اس طرح وہ ضرور غمگین ہوگا اور روئے گا اور اگر غم اور رونا ظاہر نہ ہو جس طرح صاف دل والے لوگ روتے ہیں تو اس حزن اور رونے کے نہ پائے جانے پر روئے کیونکہ یہ سب سے بڑی مصیبت ہے۔

حقیقی آیات کی رعایت: اگرے جب کسی آیت سجدہ کی تلاوت کرے تو سجدہ کرے اسی طرح جب کسی دوسرے سے آیت سجدہ سنے تو بھی سجدہ کرے جب تلاوت کرتے والا سجدہ کرے یہ اس صورت میں ہے جب امام کے پیچھے ہو ورنہ یہ شرط نہیں) بے وضو حالت میں سجدہ نہ کرے قرآن پاک میں چودہ سجدے ہیں سورہ حج میں دو سجدے ہیں (احناف کے نزدیک ایک سجدہ ہے) سورہ ص میں سجدہ نہیں ہے (احناف کے نزدیک سورہ ص میں سجدہ ہے) سجدے کی کم از کم کیفیت یہ

(۱) سنن ابن ماجہ ص ۹۶ باب فی حسن الصوت للقرآن

(۲) صحیح بخاری جلد ۲ ص ۵۱، کتاب فضائل القرآن

(۳) الضعفاء الکبیر جلد ۲ ص ۲۲۲ ترجمہ ۱۲۶۲

ہے کہ پشانی کو زمین پر ٹکائے اور زیادہ کامل طریقہ یہ ہے کہ تکبیر کہہ کر سجدے میں جائے اور پڑھی گئی آیت کے لائق دعا مانگے مثلاً اگر وہ یہ آیت کریمہ پڑھے۔

حَرُّوا سَجْدًا وَسَبِّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ
وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ

وہ سجدے میں گر گئے اور انہوں نے اپنے رب کی تعریف کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کی اور وہ تکبر نہیں کرتے۔

(۱)

تویہ دعا مانگے۔

اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ السَّاجِدِينَ لِرُوحِكَ
الْمُسَبِّحِينَ بِحَمْدِكَ وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أَكُونَ
الْمُسْتَكْبِرِينَ عَنْ أَمْرِكَ أَوْ عَلِي
أَوْلِيَا نِكَ

یا اللہ! مجھے ان لوگوں میں سے کر دے جو تیرے لیے سجدہ کرتے ہیں تیری حمد کے ساتھ تسبیح بیان کرتے ہیں اور میں اس بات سے تیری پناہ میں آتا ہوں کہ میں تیرے حکم سے یا تیرے اولیاء اکرام کے خلاف تکبر کرنے والا ہوں جاؤں۔

اور سب یہ آیت کریمہ پڑھے۔

وَيُخْرِقُونَ بِلَا ذِقَانٍ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ
حُشُوعًا (۲)

اور وہ اپنے چہروں کے بل گرجاتے ہیں اور ان کی عاجزی میں اضافہ ہوتا ہے۔

تویہ دعا مانگے:

اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ الْبَائِلِينَ إِلَيْكَ الْخَائِعِينَ
لَكَ

اے اللہ! مجھے ان لوگوں میں سے کر دے جو تیرے سامنے رونے والے اور تیرے لیے جھکنے والے ہیں۔

اسی طرح ہر سجدے میں کرے، سجدہ تلاوت کے لیے وہی شرائط ہیں جو نماز کے لیے ہیں۔

یعنی شرمگاہ کو ڈھانپنا، قبلہ رخ ہونا، کپڑوں اور بدن کا نجاست حقیقیہ اور حکمیہ سے پاک ہونا۔ جب اگر کوئی شخص سنتے وقت وضو سے نہ ہو تو یا وضو ہونے کے بعد سجدہ کرے، سجدہ تلاوت کے کمال کے سلسلے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ تکبیر تحریر کرتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو اٹھائے پھر سجدے کے لیے جھکتے ہوئے تکبیر کہے پھر اٹھنے کے لیے تکبیر کہے اور آخر میں سلام پھیرنے کے لیے بعض لوگوں نے تشہد کا بھی اضافہ کیا ہے لیکن اس کی کوئی اصل نہیں صرف نماز کے سجدے پر یہ قیاس ہے اور یہ بعید بات ہے۔ حکم تو صرف سجدے کا ہے لہذا حکم کی اتباع کر کے جھکنے کے لیے تکبیر کہنا ابتدا کے

(۱) قرآن مجید سورہ سجدہ آیت ۱۵

(۲) قرآن مجید، سورہ اسراء آیت ۱۰۹

زیادہ قریب ہے اور اس کے علاوہ میں دُوری ہے پھر مقتدی کو چاہیے کہ جب امام سجدہ کرے اس وقت یہ بھی کرے
اور اگر خود تلاوت کی ہے تو سجدہ نہ کرے (احناف کے نزدیک مقتدی، امام کے پیچھے تلاوت نہیں کر سکتا لہذا یہ صورت
بیرا نہیں ہوگی۔)

۸۔ قرات کی ابتدا میں یوں کہے:

میں شیطان مردود سے سنتے جانتے والے اللہ کی پناہ میں
آتا ہوں اے میرے رب میں شیطانوں کے خطرات
سے اور میرے رب میں ان کے حاضر ہونے سے تیری
پناہ چاہتا ہوں۔

أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ
الرَّجِيمِ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ
الشَّيْطَانِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ
يَحْضُرُونِ۔

بیزکل اعوذ برب الناس اور سورہ فاتحہ پڑھے اور جب قرات سے فارغ ہو تو اس طرح کہے۔
اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
پہنچایا یا اللہ! ہمیں اس سے نفع عطا فرما اور اس میں
ہمیں برکت عطا فرما تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام
جہانوں کو پالنے والا ہے۔ میں اللہ تعالیٰ جی و قیوم سے بخشش
مانگتا ہوں۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
صَدَقَ اللَّهُ تَعَالَى وَبَلَغَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَلَّهُمَّ أَنْفَعْنَا بِهِ وَبَارِكْ
لَنَا فِيهِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
وَاسْتَغْفِرُ اللَّهُ الْحَيُّ الْقَيُّومُ۔

قرأت کے دوران جب کسی تسبیح کی آیت پر پہنچے تو تسبیح و تکبیر کہے جب آیت دعا و استغفار سے گزرے تو
دعا مانگے اور بخشش طلب کرے اگر کسی امید والی آیت پر پہنچے تو سوال کرے ڈرانے والی آیت پڑھے تو پناہ مانگے یہ عمل
زبان یاد سے کرے اور یوں کہے۔

اللہ تعالیٰ پاک ہے ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتے ہیں اسے
اللہ! ہمیں رزق عطا کرے اور ہم پر رحم فرما۔

سُبْحَانَ اللَّهِ تَعُوذُ بِاللَّهِ اللَّهُمَّ ارْزُقْنَا
اللَّهُمَّ ارْحَمْنَا۔

حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی تو آپ نے سورہ بقرہ کا آغاز کیا آپ کسی آیت رحمت سے
گزرتے تو سوال کرتے اور آیت عذاب پر پہنچتے تو پناہ مانگتے آیت تسبیح سے گزرتے تو تسبیح کہتے (۱)
جب قرات سے فارغ ہو تو وہ الفاظ کہے جو سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے وہ یہ ہیں۔

اللَّهُمَّ ارْحَمْنِي بِالْقُرْآنِ وَاجْعَلْهُ لِي
 إِمَامًا وَنُورًا وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّلَّهِمَّةَ
 ذِكْرِي مِنْهُ مَا نَسِيتُ وَعَلِّمْنِي مِنْهُ مَا
 جَهِلْتُ وَارْزُقْنِي تِلْكَ وَتِلْكَ إِنْ أَعْرَضَ اللَّيْلُ
 وَأَطْرَافَ النَّهَارِ وَاجْعَلْهُ لِي حِجَّةً يَارَبَّ
 الْعَالَمِينَ -

یا اللہ! مجھ پر قرآن پاک کے ذریعے رحم فرما اسے میرے
 لیے امام نور، ہدایت اور رحمت بنا دے یا اللہ! میں
 اس سے کچھ بھول جاؤں تو یاد دلا دے جس سے بے
 علم رہوں وہ سکھا دے اور مجھے رات کی گھڑیوں اور دن
 کے کناروں میں اس کی تلاوت کی توفیق دے اور اسے
 میرے لیے دلیل بنا دے اسے تمام جہانوں کے پالنے والا

۹۔ بلند آواز سے قرأت

اس میں کوئی شک نہیں کہ آواز اتنی بلند کی جائے جو خود سن سکے کیونکہ قرأت کا معنی حمد ہے جو
 کے ساتھ آواز کو ختم کر دیتا ہے اور آواز ضروری ہے اور وہ کم از کم اس قدر ہے جو
 خود سن سکے اگر خود بھی نہ سنے تو نماز صحیح نہ ہوگی۔ اور اتنا بلند کرنا کہ دوسرا آدمی بھی سنے تو یہ بعض اوقات پسندیدہ
 ہوتا ہے اور کبھی مکروہ

آہستہ پڑھنے کے استحباب پر یہ حدیث دلالت کرتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا :
 كَفَّضُ قِرَاءَةِ السِّرِّ عَلَى قِرَاءَةِ الْعَلَانِيَةِ
 كَفَّضُ صَدَقَةِ السِّرِّ عَلَى صَدَقَةِ
 الْعَلَانِيَةِ (۱)

آہستہ قرأت کو بلند آواز سے قرأت پر اس قدر فضیلت
 حاصل ہے جتنی فضیلت پوشیدہ صدقہ دینے کو علانیہ صدقہ
 دینے پر فضیلت ہے۔

اور دوسری حدیث میں اس طرح ہے :
 الْجَاهِرُ بِالْقُرْآنِ كَالْجَاهِرِ بِالصَّدَقَةِ
 وَالْمُسْتَرِبُّ كَالْمُسْتَرِبِّ بِالصَّدَقَةِ -
 (۲)

بلند آواز سے قرآن پاک پڑھنے والا علانیہ صدقہ دینے
 والے کی طرح ہے اور آہستہ پڑھنے والا خفیہ طور پر
 صدقہ دینے والے جیسا ہے۔

ایک عمومی روایت میں ہے :
 يَفْضَلُ عَمَلُ السِّرِّ عَلَى عَمَلِ الْعَلَانِيَةِ
 سَبْعِينَ ضِعْفًا (۳)

پوشیدہ عمل کو علانیہ عمل پر ستر گنا زیادہ فضیلت
 ہے۔

(۱)

(۲) سنن ابی داؤد جلد اول ص ۱۸۸ کتاب الصلاة

(۳) شعب الایمان جلد اول ص ۶۰۶ حدیث ۵۵۵

اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
 خَيْرُ الرِّزْقِ مَا يَكْفِي وَخَيْرُ الذِّكْرِ
 الْخَفِيُّ - (۱)

بہترین رزق وہ ہے جو کافی ہو اور بہترین ذکر وہ ہے جو
 پوشیدہ ہو

ایک روایت میں ہے،
 لَا يَجْهَرُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الْقِرَاءَةِ
 بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ (۲)

مغرب اور عشاء کے درمیان قرأت میں ایک دوسرے
 پر آواز بلند نہ کرو۔

حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ نے ایک دن مسجد نبوی میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کو نماز میں بلند آواز سے
 قرأت کرتے ہوئے سنا اور وہ خوش آواز تھے تو حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ نے اپنے غلام سے فرمایا اس نماز کے
 پاس جاؤ اور کہو کہ اپنی آواز پست کریں غلام نے عرض کیا کہ مسجد ہماری نہیں ہے اور اس شخص کے لیے بھی اس میں حصہ
 ہے چنانچہ حضرت سعید رضی اللہ عنہ نے با آواز بلند فرمایا اسے نمازی اگر تو اپنی نماز سے اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتا ہے تو اپنی آواز
 پست کرو اور اگر لوگوں کو سنانا مطلوب ہے تو وہ تمہیں اللہ تعالیٰ سے سچا نہیں سکتے اس پر حضرت عمر بن عبدالعزیز
 رضی اللہ عنہ خاموش ہو گئے اور اپنی رکعت کو مختصر کر دیا سلام پھیرنے کے بعد اپنا جوتا لیا اور چلے گئے ان دنوں آپ امیر
 مدینہ تھے۔

بلند آواز سے قرأت کے مستحب ہونے پر یہ روایت دلالت کرتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی
 جماعت کورات کی نماز میں بلند آواز سے قرأت کرتے ہوئے سنا تو اسے درست قرار دیا (۳)

اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا:
 إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّى
 فَلْيَجْهَرْ بِالْقِرَاءَةِ فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ
 وَعَمَّارَ الدَّارِ يَسْتَمِعُونَ قِرَاءَتَهُ وَيُصَلُّونَ
 بِصَلَاتِهِ - (۴)

جب تم میں سے کوئی ایک رات کو کھڑا ہو کر نماز پڑھے
 تو بلند آواز سے قرأت کرے کیوں کہ فرشتے اور جنات
 اس کی قرأت کو غور سے سنتے اور اس کی نماز کے ساتھ
 نماز پڑھتے ہیں۔

(۱) مستدام احمد بن حنبل جلد اول ص ۷۲، امریات سعید بن مالک

(۲) مستدام احمد بن حنبل جلد ۲ ص ۲۶، روایات عبدالعزیز عمر

(۳) صحیح بخاری جلد ۲ ص ۵۴، کتاب فضائل القرآن

(۴) الموضوعات جلد اول ص ۲۵۱، باب ثواب ثالی القرآن

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تین صحابہ کرام کے پاس سے گزرے اور ان تینوں کی مختلف حالتیں تھیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس سے گزرے تو وہ آہستہ پڑھ رہے تھے آپ نے ان سے اس کی وجہ پوچھی تو انہوں نے عرض کیا میں اس سے مناجات کر رہا ہوں جو میری آواز سن رہا ہے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے پاس سے گزرے تو وہ بلند آواز سے پڑھ رہے تھے ان سے پوچھا تو انہوں نے عرض کیا میں سوئے ہوئے لوگوں کو جگانا اور شیطان کو جگانا ہوں حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے پاس سے گزرے تو وہ کچھ آیت ایک سورت سے پڑھتے اور کچھ دوسری سورت ہے۔ ان سے پوچھا تو انہوں نے عرض کیا کہ میں پاک کو پاک سے ملتا ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سب نے اچھا اور درست کیا (۱)

ان احادیث کو یوں جمع کیا جاسکتا ہے کہ آہستہ پڑھنا یا کاری اور بناوٹ سے زیادہ دُور ہے اور یہ اس آدمی کے حق میں افضل ہے جسے اپنے نفس پر اس (ریا کاری) کا ڈر ہو اور اگر ڈر نہ ہو اور بلند آواز سے پڑھنے کی وجہ سے کسی دوسرے نمازی کے وقت میں عرج پیدا نہ ہوتا ہو تو یہ افضل ہے کیوں کہ اس میں عمل زیادہ ہے نیز اس کا فائدہ دوسروں کو بھی پہنچتا ہے پس متعدی بھلائی، لازم (جو صرف اپنی ذات تک محدود ہو) سے بہتر ہے نیز یہ قرأت پڑھنے والے کے دل کو جگاتی ہے اور اسے غور کرنے کی طرف متوجہ کرتی ہے اس کی طرف کانوں کو لگا دیتی ہے علاوہ ازیں آواز بلند کرنے سے بند چلی جاتی ہے قرأت میں سرور پیدا ہوتا ہے اور سستی کم ہوتی ہے پھر یہ کہ بلند آواز سے پڑھنے کی وجہ سے سولے والے کے جاگنے کی بھی امید ہوتی ہے اور یہ اس کی بیداری کا سبب ہے اور بعض اوقات اسے کوئی غافل اور باطل پرست آدمی دیکھتا ہے تو اس کی خوشی کو دیکھ کر وہ بھی خوش ہو جاتا ہے اور عمل کا شوق پیدا ہوتا ہے پس جب اسے ان میں سے کوئی نیت حاضر ہو تو بلند آواز بہتر ہے اور اگر یہ سب نیتیں جمع ہو جائیں تو ثواب کئی گنا ہو جاتا ہے اور نیتوں کی کثرت سے نیک لوگوں کے اعمال پاک ہو جاتے ہیں اور ان کے ثواب میں کئی گنا اضافہ ہو جاتا ہے اگر ایک عمل میں دس نیتیں ہوں تو دس اجر ملتے ہیں۔ اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ قرآن پاک کو دیکھ کر تلاوت کرنا افضل ہے کیونکہ عمل کے ساتھ دیکھنے اور غور و فکر کا اضافہ ہوتا ہے بلکہ اٹھانے کی وجہ سے بھی ثواب زیادہ ملتا ہے کہا گیا ہے کہ قرآن پاک دیکھ کر پڑھنے سے سات گناہ ثواب ملتا ہے کیوں کہ قرآن پاک کو دیکھنا بھی عبادت ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اس کثرت سے قرآن پاک سے پڑھتے تھے کہ دو قرآن پاک پھٹ گئے۔ بہت سے صحابہ کرام قرآن پاک دیکھ کر پڑھتے تھے اور وہ اس بات کو ناپسند کرتے تھے کہ کوئی دن ایسا گزرے جس میں انہوں نے قرآن پاک کی زیارت نہ کی ہو مگر کے ایک فقیر، حضرت امام شافعی رحمہ اللہ کے پاس سحری کے وقت حاضر ہوئے تو ان کے سامنے قرآن پاک تھا حضرت امام شافعی رحمہ اللہ نے ان سے فرمایا تمہیں فقہ نے قرآن پاک سے دُور کر رکھا ہے میں عشاء کی نماز پڑھ کر قرآن پاک سامنے رکھتا ہوں اور صبح تک اسے بند نہیں کرتا۔

قرآن پاک کو خوش آوازی سے اور ٹھہر ٹھہر کر اس طرح پڑھنا کہ الفاظ کو بہت زیادہ کھینچ کر تبدیل نہ کر دے، سنت ہے۔

۱۔ خوش آوازی سے قرأت کرنا

قرآن پاک کو اپنی آوازوں کے ساتھ زینت دو۔

اللہ تعالیٰ نے خوش آوازی کے ساتھ قرآن پاک پڑھنے کی اجازت دی اس قدر اجازت کسی بات کے لیے نہیں دی

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

زَيِّتُوا الْقُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ (۱)

اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے۔

مَا أذنَ اللهُ لِشَيْءٍ إِذْ نَهَى لِحُسْنِ الصَّوْتِ

بِالْقُرْآنِ (۲)

اور آپ کا ارشاد ہے۔

لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَتَعَنَّ بِالْقُرْآنِ (۳)

جو شخص خوش آوازی سے قرآن پاک نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں۔

کہا گیا کہ اس سے مراد خوش آوازی سے پڑھنا ہے یہ بھی کہا گیا کہ ترجم اور عمدہ لہجے سے پڑھنا ہے اور اہل لغت کے نزدیک یہ معنی زیادہ قریب ہے۔

ایک روایت میں ہے کہ ایک رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے منتظر تھے انہیں کچھ دیر ہو گئی تو حضور علیہ السلام نے پوچھا تمہیں کس چیز نے روکا؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ! میں ایک آدمی کی قرأت سن رہی تھی میں نے اس سے زیادہ خوش آواز کسی کو نہیں سنا (یہ سن کر) نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے یہاں تک کہ دیر تک سنتے رہے پھر واپس تشریف لائے تو فرمایا یہ حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام سالم رضی اللہ عنہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے میری امت میں ایسے لوگ بناائے ہیں (۴)

ایک رات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی قرأت سنی آپ کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہما بھی تھے یہ تینوں حضرات دیر تک کھڑے رہے پھر آپ نے فرمایا جو شخص قرآن پاک کو آہستہ اور اچھی آواز سے اس طرح پڑھے جیسے نازل ہوا تو حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی قرأت کے مطابق پڑھے (۵)

(۱) سنن ابی داؤد جلد اول ص ۲۰۷ کتاب الصلوٰۃ

(۲) کنز العمال جلد اول ص ۶۱۰ حدیث ۲۷۹۹

(۳) صحیح بخاری جلد ۲ ص ۵۱، کتاب فضائل القرآن

(۴) المستدرک للحاکم جلد ۳ ص ۲۲۶ کتاب معارف الصحابہ (۵) کنز العمال جلد ۱۱ ص ۱۰، حدیث ۳۳۶۳

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے فرمایا:

”میرے ساتھ پڑھو“ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ! آپ کے سامنے پڑھوں حالانکہ یہ آپ پر اترا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں دوسروں سے سنا پتہ کرتا ہوں چنانچہ وہ پڑھتے جاتے تھے اور سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہتے تھے (۱)

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کی قرأت سن کر فرمایا۔ انہیں آل داؤد علیہ السلام کے آلاتِ رمزا میں سے کچھ دیا گیا ہے، یہ بات حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ تک پہنچی تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ! اگر مجھے معلوم ہوتا کہ آپ سن رہے ہیں تو میں مزید سنوار کر پڑھتا۔ (۲)

حضرت ہشیم قاری نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تم ہشیم ہو خوش آوازی سے قرآن پاک پڑھتے ہو، میں نے عرض کیا جی ہاں آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہیں جزا کے عطا فرمائے۔ (جزاك اللہ خیراً) (۳)

حدیث شریف میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، جب اکٹھے ہوتے تو کسی ایک کو قرآن پاک کی کوئی سورت پڑھنے کے لیے کہتے تھے (۴)

حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کرتے تھے ہمیں ہمارے رب کی یاد دلانے تو وہ ان کے پاس قرآن پاک کی قرأت کرتے حتیٰ کہ نماز کا درمیانہ وقت قریب ہو جاتا کہا جاتا امیر المؤمنین، نماز کا وقت ہو گیا، نماز کا وقت ہو گیا تو وہ فرماتے کیا ہم نماز میں نہیں ہیں؟ وہ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کی طرف اشارہ کرتے تھے۔
وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ (۵)
اور البتہ اللہ تعالیٰ کا ذکر سب سے بڑا ہے۔

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

مَنْ اسْتَمَعَ إِلَى آيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ
جو شخص اللہ تعالیٰ کی کتاب کی ایک آیت غور سے سنے

(۱) صحیح بخاری جلد ۲ ص ۵۵، کتاب فضائل القرآن

(۲) کنز العمال جلد ۱۳ ص ۶۰، حدیث ۳۵۵۳

(۳) معلوم ہوا کہ کسی قاری سے قرآن پاک کی قرأت سن کر جزاک اللہ خیراً کہنا چاہیے۔ بلکہ سننے کے بغیر بھی اس کے لیے یہ دعائیہ کلمات کہے جائیں تو اچھا ہے۔ ۱۲ ہزاروی

(۴) اگر کوئی اجداس ہو یا کسی مشورے کے لیے اکٹھے ہوں تو شروع میں تلاوت کرنی چاہیے۔ ۱۲ ہزاروی

(۵) قرآن مجید سورۃ عبکوت آیت ۲۵

عَزَّوَجَلَّ كَانَتْ لَهُ نُورًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ (۱) وہ اس کے لیے قیامت کے دن نور ہوگی۔
 ایک روایت ہے کہ اس کے لیے دس نیکیاں لکھی جاتی ہیں جب یہ سننے کا ثواب ہے تو تلاوت کرنے والا
 جو اس رستے کا سبب ہے وہ ثواب میں شریک ہے البتہ اگر اس کا مقصد ریا کاری اور بناوٹ ہو۔
 (تو ثواب نہیں ملے گا۔)

(۱) مسند امام احمد بن حنبل جلد ۲ ص ۲۴۱ روایات ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ

تیسرا باب

تلاوت کے باطنی اعمال

یہ دس ہیں، اصل کلام کو سمجھنا، پھر تعظیم، اس کے بعد دل کی حاضری، پھر غور و فکر، بعد ازاں سمجھنا، پھر سمجھنے سے روکنے والی باتوں سے خالی ہونا، پھر تخصیص، اثر قبول کرنا، ترقی، اپنی قوت سے بری الذمہ ہونا۔

۱۱) کلام کی عظمت اور بلندی کو سمجھنا : اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے فضل و کرم سے اس درجہ میں نازل کیا کہ اسے مخلوق سمجھنے سے تو دیکھو اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام جو اس کی قدیم صفت ہے اور اس کی ذات کے ساتھ قائم ہے، کے معانی کو مخلوق تک پہنچانے کے ذریعے ان پر کتنی مہربانی فرمائی، اور اس صفت کو صروف اور آواز جو انسانی صفات ہیں، میں لپیٹ کر ان پر ظاہر کیا۔ کیوں کہ انسان اپنی صفات کے وسیلہ کے بغیر اللہ تعالیٰ کی صفات کو سمجھنے سے عاجز ہے اگر اس کے کلام کی جلالت کی گہرائی حروف کے لباس میں مستور نہ ہوتی تو عرش اور زمین کو اس کے سننے کی تاب نہ ہوتی بلکہ جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بادشاہی کی عظمت اور نوری شعاعوں کے درمیان متفرق ہو جاتا۔ اگر اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ثابت نہ رکھتا تو وہ اس کے کلام کو سمجھنے کی طاقت نہ رکھتے جیسے پہاڑ اس کی ادنیٰ بجلی کو برداشت نہ کر سکا اور ریزہ ریزہ ہو گیا اور کلام کی عظمت کو اس کی ایسی مثالوں کے بغیر سمجھنا ممکن نہیں جن تک مخلوق کی ذہنی رسائی ہو۔ اسی لیے بعض عارفین نے اس کو یوں تعبیر کیا ہے کہ لوح محفوظ میں اللہ تعالیٰ کے کلام کا ہر حرف کوہ قاف سے بھی بڑا ہے اور اگر تمام فرشتے جمع ہو کر ایک حرف کو اٹھانا چاہیں تو وہ اس کی طاقت نہیں رکھتے حتیٰ کہ حضرت اسراہیل علیہ السلام جو لوح محفوظ پر مقرر فرشتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ کے حکم اور رحمت سے اٹھانے میں اپنی قوت اور طاقت سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس کی طاقت دی ہے اور ان کو اس عمل پر لگایا ہے۔

اس کے باوجود کہ کلام کے معانی بلند درجہ رکھتے ہیں اور انہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے لطف و کرم سے انسانی فہم تک پہنچایا اور ثابت رکھا حالانکہ اس کا مرتبہ کم ہے، اس بات کو کسی دانائے ایک عمدہ مثال کے ذریعے بیان کیا ہے وہ یہ کہ انہوں نے ایک بادشاہ کو شریعت انبیاء علیہم السلام کی دعوت دی تو بادشاہ نے ان سے چند باتوں کے بارے میں سوال کیا انہوں نے ایسا جواب دیا جو اس کی سمجھ سے بالاتر تھا بادشاہ نے کہا بتائیے جو کچھ انبیاء کرام علیہم السلام لائے ہیں آپ کے دعویٰ کے مطابق وہ لوگوں کا کلام نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے تو لوگ اسے کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ اس دانائے شخص نے جواب دیا کہ ہم، لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ جب وہ جانوروں اور پرندوں کو کچھ سمجھانا چاہتے ہیں

مثلاً ان کو آگے یا پیچھے کرنا چاہتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں کہ وہ لوگوں کا کلام جو ان کی عقلوں کے نور سے نکلا اور اس میں حسن
رینت اور بہترین ترتیب بھی پائی جاتی ہے، کو سمجھنے سے قاصر ہوتے ہیں تو وہ جانوروں کے درجہ کی طرف اترتے ہیں اور
اپنے مقاصد کو جانوروں کے باطن تک ایسی آوازوں کے ذریعے پہنچاتے ہیں جو ان کے لائق ہوں مثلاً ٹٹخ کرنا، سیٹی بجانا
اور وہ آواز جو ان کی آوازوں کے قریب ہوتا کہ وہ اسے سمجھ سکیں۔ اسی طرح لوگ کلام خداوندی کی گہرائی اور اس کی صفات کے
کمال تک پہنچنے سے عاجز ہیں تو انبیاء کرام بھی ان کے ساتھ وہی طریقہ اختیار کرتے ہیں اور ایسے کلام کے ذریعے بیان کرتے
ہیں جسے سن کر وہ حکمت کو سمجھ سکیں جیسے انسان جانور کو سیٹی وغیرہ کے ذریعے اپنی بات سمجھاتے ہیں اور ان صفات
میں پوشیدہ معانی حکمت کی وجہ سے ان الفاظ کو شرافت و عظمت حاصل ہوتی ہے۔

گویا حکمت کے لیے آواز جسم اور رہائش گاہ کی طرح ہے اور آواز کے لیے حکمت نفس اور روح کی مانند ہے۔ اور
جس طرح انسانی جسم، روح کی وجہ سے مکرم و معزز ہوتا ہے اسی طرح کلام کی آواز اس حکمت کی وجہ سے مشرف ہوتی ہے
جو اس کے اندر پائی جاتی ہے اور کلام کی منزلت اور درجہ بلند ہے وہ زبردست اور غالب ہے اور حق و باطل کے درمیان
حکم کو نافذ کرنے والا ہے وہ عدل و انصاف سے فیصلہ کرنے والا اور پسندیدہ گواہ ہے حکم دیتا اور منع کرتا ہے باطل، کلام
حکمت کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا جس طرح سایہ، سورج کی شعاعوں کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا انسان حکمت کی گہرائی میں
نہیں جا سکتا۔ جس طرح وہ سورج کی چمک سے اُدھر دیکھ نہیں سکتا بلکہ انسانوں کو سورج کی روشنی سے اتنا ہی حصہ ملا ہے
جس سے ان کی آنکھوں میں روشنی آجائے اور وہ اپنی حاجات کو معلوم کر سکیں پس اللہ تعالیٰ کا کلام اس بادشاہ کی طرح ہے
جس کا چہرہ غائب ہے اور حکم نافذ ہے اور سورج کی طرح ہے جس کی روشنی ظاہر ہے اور اس کا اصل پوشیدہ ہے اور
چمکنے والے ستارے کی طرح ہے کہ آدمی اس کی روشنی میں راستے پر چلتا ہے لیکن اس کے چلنے سے واقف نہیں ہوتا یہ
نفیس خزانوں کی چابی ہے اور شرابِ حیات ہے کہ جو اسے پی لیتا ہے وہ مریا نہیں اور بیماریوں کی دوا ہے کہ جو اسے پی لے
وہ کبھی بیمار نہیں ہوتا۔ تو یہ جو کچھ اس دانا شخص نے ذکر کیا کلام کے معنی کو سمجھنے کے سلسلے میں ایک مختصر سی بات ہے
اور اس سے زیادہ علم معاملہ کے لائق نہیں ہے اسی پر اکتفا کرنا چاہیے۔

۲۔ متکلم کی تعظیم | قرآن پاک پڑھنے والا جب تلاوتِ قرآن کا آغاز کرے تو اسے چاہیے کہ اپنے دل میں متکلم کی عظمت
کو حاضر کرے اور جان لے کہ وہ جو کچھ پڑھ رہا ہے وہ انسانی کلام نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ کے
کلام کی تلاوت میں کافی خطرہ ہے کیونکہ ارشاد خداوندی ہے۔
رَبِّسْتُمْ لَوْلَا الْمَطَهْرُونَ (۱)

اسے وہی لوگ ہاتھ لگائیں جو پاک ہوں۔

تو جس طرح قرآن پاک کی ظاہری جلد اور اوراق کو انسانی جسم کے ظاہر سے حالتِ طہارت کے علاوہ محفوظ رکھا گیا ہے تو اس کے معنی کا باطن بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے پردے میں رکھا گیا ہے البتہ وہی دل اس تک پہنچ سکتا ہے جو ہر قسم کی ناپاکیوں سے پاک ہو اور تعظیم و توقیر کے نور سے منور ہو تو جس طرح ہر بات قرآن پاک کی جلد تک پہنچنے کی صلاحیت نہیں رکھتا اسی طرح ہر زبان اس کی تلاوت کے لیے مناسب نہیں اور نہ ہر دل اس کے معانی تک پہنچنے کے لیے مناسب ہے اسی تعظیم کی وجہ سے حضرت عکرمہ بن ابی جہل (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) جب قرآن پاک کو کھولتے تو ان پر بیوشی طاری ہو جاتی اور وہ فرماتے یہ میرے رب کا کلام ہے یہ میرے رب کا کلام ہے تو کلام کی تعظیم درحقیقت متکلم کی تنظیم ہے اور متکلم کی عظمت اسی وقت پیش نظر ہو سکتی ہے جب اس کی صفات جلال اور افعال میں غور و فکر کرے تو حجب وہ عرش، کرسی، آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہیں، انسان، جانور اور درخت ہیں ان سب کو دل میں حاضر کر کے یہ عقیدہ رکھے کہ ان تمام کا خالق، ان سب پر قادر اور ان سب کا لائق ایک ہے اور یہ حجب اس کے قبضہ قدرت میں ہیں اس کے فضل و رحمت اور عذاب و غلبہ کے درمیان ہیں اگر ان پر انعام کرے تو یہ اس کا فضل ہے اور اگر سزا دے تو یہ اس کا عدل ہے اور وہی فرماتا ہے کہ یہ لوگ جنتی ہیں اور مجھے اس کی پرواہ نہیں اور یہ لوگ جہنمی ہیں اور مجھے اس کی بھی پرواہ نہیں اور یہ اس کی انتہائی عظمت و بلندی ہے تو اس قسم کی باتوں میں غور و فکر کرنا چاہیے تاکہ متکلم کی فیصلت واضح ہو اور پھر کلام کی تعظیم کی جائے۔

۳۔ دل کی حاضری

دل حاضر ہو اور حدیثِ نفس کو چھوڑ دیا جائے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

يَا يَجِبِي خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّتِهِ (۱)

اسے حضرت یحییٰ علیہ السلام، کتاب کو مضبوطی سے پکڑیں۔

اس کی تفسیر میں کہا گیا کہ اس سے کوشش اور اجتہاد مراد ہے (ہاتھوں سے پکڑنا مراد نہیں) اور کوشش کے ساتھ پکڑنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی قرأت کے وقت صرف اسی کی طرف توجہ ہو کسی دوسری جانب نہ ہو، کسی نیک بندے سے پوچھا گیا کہ جب آپ قرآن پاک پڑھتے ہیں تو اپنے دل سے بھی کوئی بات کرتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کیا کوئی چیز مجھے قرآن سے زیادہ محبوب ہوگی کہ میں نفس سے اس کے بارے میں گفتگو کروں گا؟ اور بعض بزرگ جب قرآن پاک کی کوئی آیت پڑھتے اور ان کا دل اس طرف متوجہ نہ ہوتا تو وہ اسے دوبارہ پڑھتے۔ اور یہ صفت تعظیم کلام سے پیدا ہوتی ہے جس کا پہلے ذکر ہوا۔ کیونکہ جو شخص تلاوت کئے جانے والے کلام کی تعظیم کرتا ہے وہ اس پر خوش ہوتا اور اس سے مانوس ہوتا ہے اور اس سے غافل نہیں ہوتا اور قرآن پاک میں اس کی باتیں ہیں اگر پڑھنے والا اس کا اہل ہو تو وہ غیر کے

(۱) قرآن مجید سورہ مریم آیت ۱۲

یعنی کیسے اُنس حاصل کرے گا حالانکہ وہ (قرآن پاک) میں سیر و سیاحت اور شیاشت و خوشی کے مقامات
 میں اور جو آدمی سیر و تفریح کے مقام پر ہو وہ دوسری طرف توجہ نہیں کرتا۔

کہا گیا ہے کہ قرآن پاک میں میدان، باغات، حجرے، دلہنیں ریشمی لباس باغیچے اور سرائیں، ہیں لفظ میم قرآن پاک
 کے میدان میں لفظ قرآن پاک کے باغات ہیں لفظ حاء اس کے حجرے ہیں، لفظ سِجِّ سِجِّ وغیرہ قرآن پاک کے دو لہا دلہن
 بن لعم قرآن پاک کے دیباچ (ریشمی کپڑے) ہیں مفضل سورتیں اس کے باغیچے ہیں اور اس کے سوا سرائیں ہیں جب قرآن
 کی پڑھنے والا میدانوں میں داخل ہوتا ہے اور باغوں سے پھل چننا ہے اور حجروں میں داخل ہو کر دلہنوں کے پاس جاتا ہے
 ریشمی لباس پہنتا ہے اور باغیچوں میں سیر و تفریح کرتا ہے سرائے میں سکونت اختیار کرتا ہے تو سب کچھ اس کو گھیر لیتا ہے
 اس کے علاوہ سے پھیر دیتا ہے نہ اس کا دل دوسری طرف متوجہ ہوتا ہے اور نہ اس کی سوچ بٹی ہے۔

دل کی حاضری کے بعد غور و فکر ہوتا ہے بعض اوقات وہ قرآن پاک کے علاوہ کچھ اور نہیں سنتا بلکہ
 صرف سماع قرآن پر اکتفا کرتا ہے لیکن اس میں غور نہیں کرتا جب کہ قرأت کا مقصد غور و فکر کرنا ہے
 سی لیے اس میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا سنت ہے۔ کیوں کہ ظاہری طور پر ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے (ترتیل) سے وہ باطنی طور پر غور و فکر پر
 قادر ہو جاتا ہے۔

حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ایسی عبادت کا کوئی فائدہ نہیں جس کو سمجھانہ جائے اور اس قرأت کا کوئی فائدہ
 نہیں جس میں غور و فکر اور تدبیر نہ ہو۔

اور اگر وہ بار بار پڑھنے کے بغیر تدبیر پر قادر نہ ہو سکے تو الفاظ کو لوٹائے مگر امام کے پیچھے ہو تو ایسا نہ کرے (حنان
 کے نزدیک تو امام کے پیچھے قرأت جائز ہی نہیں اور تنہا پڑھ رہا ہو تو بھی نماز کی حالت میں ایسا نہ کرے ۱۲ ہزاروی) کیونکہ اگر
 وہ ایک آیت میں تدبیر کر رہا ہو اور امام دوسری آیت میں مشغول ہو گیا ہو تو گناہ گار ہو گا جیسے وہ شخص جو کسی کی ہمرکوشی
 سنتے ہوئے ایک کلمہ کو پسند کرے اور اس میں مشغول ہو جائے اور باقی کلام نہ سنے اسی طرح اگر وہ رکوع کی تسبیح میں
 ہو اور اس آیت میں غور و فکر کرنے لگے جو امام نے پڑھی ہے تو یہ وسوسہ ہے۔

حضرت عامر بن قیس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں مجھے نماز میں وسوسے پیدا ہوتے ہیں اچھا گیا دنیا
 کے معاملات میں؟ فرمایا دنیوی وسوسوں کی نسبت میرے جسم کو تیروں سے چھلنی کر دیا جائے تو مجھے یہ زیادہ پسند
 ہے بلکہ میرا دل اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے میں مشغول ہوتا ہے اور سوچتا ہوں کہ اس سے کیسے پھروں یہی وسوسہ
 ہے تزیہ شخص بھی اسی طرح ہے کہ وہ جو کچھ پڑھ رہا ہے وہ اس کو سمجھنے سے قاصر ہو جاتا ہے۔ اور شیطان اس
 قسم کی بات پر تیب ہی قادر ہوتا ہے جب اسے کسی دینی بات میں مشغول کر دے لیکن وہ اسے افضل بات سے روک
 دیتا ہے اور جب یہ بات حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ کے سامنے ذکر کی گئی تو انہوں نے فرمایا اگر تم سچے ہو تو ہم

اللہ تعالیٰ کے اس احسان سے محروم ہیں ایک روایت میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی تو اسے بیس مرتبہ لوٹایا (۱)

آپ نے اس لیے ایسا کیا تاکہ اس کے معانی میں غور و فکر کریں۔

حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک رات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نماز پڑھانے کھڑے ہوئے تو ایک آیت کو بار بار پڑھا تو آیت اس طرح ہے۔

اِنْ تُعَذِّبُهُمْ فَلَا تَعَذِّبُهُمْ عَبَادِكَ وَرَاثَ تَعْفِرْ لَهُمْ فَاِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ۔

اگر تو انہیں عذاب دے تو وہ تیرے بندے ہیں اور اگر تو انہیں بخش دے تو بے شک تو بخشنے والا مہربان ہے۔

(۲)

حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ نے ایک پوری رات اس آیت کے ساتھ قیام کیا۔

اَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ (۳) ان لوگوں کا خیال ہے جو گناہ کما تے ہیں۔

اور حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ ایک رات اس آیت کو بار بار پڑھتے رہے۔

وَاَمَّا زُوَالِئِهَا الْمَجْرُمُونَ (۴) اسے مجرمو! آج تم الگ ہو جاؤ۔

ایک بزرگ نے فرمایا کہ میں ایک سورت شروع کرتا ہوں تو اس میں بعض باتیں مشاہدہ کرتا ہوں۔ یہاں تک کہ صبح تک فارغ نہیں ہو سکتا اور ایک بزرگ نے فرمایا میں جس آیت کو سمجھ نہیں پایا اور اس میں میرا دل حاضر نہیں ہوتا تو میں اس کا ثواب شمار نہیں کرتا۔

حضرت ابوسلیمان دارانی سے منقول ہے فرماتے ہیں میں قرآن پاک کی ایک آیت تلاوت کرتا ہوں تو اس میں چار یا پانچ راتیں قیام کرتا ہوں اور اگر میں خود اس میں غور و فکر کو نہ چھوڑوں تو میں دوسری طرف نہیں جاسکتا۔ ایک بزرگ کے بارے میں منقول ہے کہ وہ چھ مہینے تک سورہ ہود کا تکرار کرتے رہے اور اس میں غور و فکر سے فارغ نہ ہوئے۔ ایک عارف فرماتے ہیں میں ہفتہ میں ایک بار ختم قرآن کرتا ہوں، ایک مہینے میں ختم کرتا ہوں ایک سال میں ختم کرتا ہوں اور تیس سال سے شروع کر رکھا ہے اور ابھی تک فارغ نہیں ہوا تو یہ غور و فکر کے اعتبار سے درجات ہیں وہی بزرگ فرماتے ہیں

(۱) قوت القلوب جلد اول ص ۴۶ الفصل السابون عشرہ

(۲) قرآن مجید، سورہ ماہدہ آیت ۱۱۸

(۳) قرآن مجید، سورہ جاثیہ آیت ۶۱

(۴) قرآن مجید، سورہ یسین آیت ۵۹

ہیں نے اپنے آپ کو مزدوروں کے قائم مقام کر رکھا ہے، یومیہ، ہفتہ وار، مہینہ وار اور سالانہ کے حساب سے کام کرتا ہوں۔

ہر آیت کو اس طرح واضح کرے جو اس کے لائق ہے کیوں کہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی صفات کے ذکر، اس کے افعال کے ذکر، انبیاء کرام علیہم السلام کے احوال کے ذکر، ان کو جھٹلانے والوں کے ذکر اور وہ کیسے ہلاک ہوئے نیز اللہ تعالیٰ کے اوامر منہیات اور جنت و دوزخ کے ذکر پر مشتمل ہے۔

۵۔ سمجھنا

اللہ تعالیٰ کی صفات جیسے ارشاد خداوندی ہے:

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ
والا ہے۔

(۱)

اور ارشاد خداوندی ہے:

الْمَلِكُ الْقَدِيرُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ
وہ بادشاہ ہے، پاک ہے، سلامتی دینے والا امن
عطا کرنے والا، حفاظت کرنے والا غالب زبردست
اور بڑائی والا ہے۔

(۲)

تو ان ناموں کے معانی اور صفات میں غور کرے تاکہ اس پر ان کے اسرار منکشف ہوں تو ان کے مدقون معانی کو کھولے جو یقین والے لوگوں کے علاوہ کسی کے لیے ظاہر نہیں ہوتے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے اسی بات کی طرف اشارہ کیا ہے وہ فرماتے ہیں۔

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے جو بھی راز کی بات کی ہے وہ دوسروں سے مخفی نہیں رکھی لیکن اللہ تعالیٰ جس بندے کو چاہتا ہے اپنی کتاب کی سمجھ عطا کرتا ہے (۳) تو قرآن پاک پڑھنے والے کو اس بات کے سمجھنے کی حرص ہونی چاہیے۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جو شخص پہلوں اور پچھلوں کا علم حاصل کرنا چاہے تو وہ قرآن میں بحث کرے اور قرآن پاک کے علوم میں سے سب سے زیادہ عظیم علم اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے تحت آتا ہے کیوں کہ عالم لوگ اس سے وہی امور حاصل کرتے ہیں جو ان کی سمجھ کے لائق ہیں اور وہ ان کی تہہ تک نہیں پہنچتے۔

(۱) قرآن مجید سورہ شوریٰ آیت ۱۱

(۲) قرآن مجید، سورہ حشر آیت ۳۲

جہاں تک اللہ تعالیٰ کے افعال کا تعلق ہے تو جیسا کہ اس نے آسمانوں اور زمین وغیرہ کی پیدائش کا ذکر کیا تو تلاوت کرنے والے کو اس سے اللہ تعالیٰ کی صفات کو سمجھنا چاہیے کیونکہ فعل، فاعل پر دلالت کرتا ہے اور فعل کی عظمت فاعل کی عظمت پر دلالت کرتی ہے تو مناسب یہ ہے کہ فعل میں فاعل کو سامنے رکھے جو شخص حق کو پہچان گیا اس نے اسے ہر چیز میں دیکھا کیونکہ ہر چیز اسی سے ہے اسی کی طرف ہے اسی کے ساتھ اور اسی کے لیے ہے پس حقیقتاً وہی کلی ہے اور جو شخص کسی چیز کو دیکھ کر خدا کو نہ دیکھے گویا اس نے اس کو نہیں پہچانا اور جس نے اس کو پہچانا اسے معلوم ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا سب کچھ باطل ہے اور اس کے سوا سب کچھ ہلاک ہونے والا ہے یہ مطلب نہیں کہ دوسری حالت میں باطل ہوگا بلکہ ابھی وہ باطل ہے اگر اس کی ذات کا حقیقتاً اعتبار کیا جائے اور اگر لوگوں اعتبار کیا جائے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے وجود اور قدرت کے ساتھ موجود ہے تو وہ بالنتیج قائم و ثابت ہے جب کہ ذاتی طور پر وہ محض باطل ہے یہ علم مکاشفہ کی ابتدائی باتیں ہیں اس لیے جب تلاوت کرنے والا یہ آیت پڑھے۔

کیا تم نے (غور سے) دیکھا جو تم بولتے ہو۔

أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ (۱)

بھلا تم دیکھو جو مادہ منویہ ٹپکاتے ہو۔

اور فرمایا:
أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ (۲)

کیا تم نے (غور سے) دیکھا جو پانی تم پیتے ہو۔

أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ (۳)

اور یہ بھی ارشاد خداوندی ہے:

کیا تم نے (غور سے) دیکھا جو آگ تم سلگاتے ہو۔

أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ (۴)

تو اس کی نظر پانی، آگ، بھیتی اور مادہ تویہ پر مرکب نہ جائے بلکہ مادہ منویہ میں غور کرے کہ وہ لطفہ ہے جو اجزاء کے مشابہ ہے پھر دیکھے کہ وہ گوشت، ہڈی، رگوں اور چھوٹی ہونٹوں میں تقسیم ہوتا ہے اور یہ بھی دیکھے کہ اعضاء کس طرح مختلف شکلیں اختیار کرتے ہیں۔ مثلاً سر، ہاتھ، پاؤں، جگر اور دل وغیرہ۔ پھر اس میں کس طرح اچھی صفات پیدا ہوتی ہیں کہ وہ سنا ہے دیکھتا ہے اور سمجھتا ہے وغیرہ اور اس میں مذہوم عادات پیدا ہوتی ہیں کہ وہ غصہ کھاتا ہے اور اس میں شہوت، تکبر، جہالت

(۱) قرآن مجید سورہ واقعہ آیت ۶۳

(۲) قرآن مجید سورہ واقعہ آیت ۵۸

(۳) قرآن مجید سورہ واقعہ آیت ۶۸

(۴) قرآن مجید سورہ واقعہ آیت ۷۱

زیب اور جھگڑا وغیرہ پیدا ہوتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے۔
 اَوَلَمْ يَرَوْا نَسَانَ اِيَّا خَلَقْنَا مِنْ نَطْفَةٍ
 فَاِذَا هُوَ خَصِيْمٌ مُّبِيْنٌ (۱)

کیا انسان نہیں دیکھتا کہ ہم نے اسے نطفہ سے پیدا کیا
 تو اب وہ کھلم کھلا جھگڑا لوست ہے۔

تو ان عجائب میں غور کرنے تک سب سے زیادہ عجیب تک پہنچے اور یہ، وہ صفت ہے جس سے یہ عجیب امور صادر
 ہوئے تو وہ مسلسل صنعت کو دیکھتا رہتا ہے تاکہ اس طرح وہ صنایع کو دیکھ لے۔

جہاں تک انبیاء کرام علیہم السلام کے احوال کا تعلق ہے تو جیب وہ سنے کہ ان حضرات کو کس طرح جھٹلایا گیا کیسے مارا گیا
 اور کیسے بعض کو قتل کیا گیا تو اس سے معلوم کرے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات رسولوں اور ان لوگوں سے بے نیاز ہے جن کی طرت
 ان کو بھیجا گیا اور یہ کہ اگر وہ ان تمام کو ہلاک کر دے تو اس کی بادشاہی میں کچھ بھی فرق نہیں پڑے گا اور جب امور آخرت میں
 ان کی مدد کے بارے میں سنے تو اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس بات کو سمجھے کہ وہ حق کی مدد کا ارادہ فرماتا ہے۔

جھٹلانے والے مثلاً عاد و ثمود وغیرہ کے حالات اور جو کچھ ان پر عذاب نازل ہوا تو اس سے اللہ تعالیٰ کے عذاب و
 سطوت کا خون پیدا ہونا چاہیے اور اپنی ذات میں ان باتوں سے عبرت حاصل کرے کہ اگر وہ غافل اور بے ادب ہوا اور
 ان ایام مہلت میں دھوکے میں رہا تو ممکن ہے اس پر بھی وہی عذاب نازل ہوا اور اس کے بارے میں بھی وہی
 فیصلہ ہو اسی طرح جب جنت و دوزخ کے اوصاف اور جو کچھ قرآن پاک میں ہے، اسے سنے تو ان سب باتوں کو
 سمجھنا ممکن نہیں کیوں کہ اس کی کوئی انتہا نہیں اور یہ بندے کو وہی ملتا ہے جو اس کے لیے مقدر ہے اور ہر خشک
 اور تر چیز کا ذکر قرآن پاک میں ہے،

ارشاد خداوندی ہے:

آپ فرمادیجئے اگر سمندر، میرے رب کے کلمات (کو دیکھنے)
 کے لیے سیاہی ہو تو میرے رب کے کلمات ختم ہونے
 سے پہلے وہ سمندر ختم ہو جائے اگرچہ ہم اس کی مدد
 کے لیے اس کی مثل لائیں۔

قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ
 رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ اَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ
 رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا۔
 (۲)

اسی لیے حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ نے فرمایا اگر میں چاہوں تو سورہ فاتحہ کی تفسیر سے ستر اونٹ بھردوں۔ تو
 جو کچھ ہم نے ذکر کیا اس سے تفہیم قرآن پر تشبیہ مقصود ہوتا ہے تاکہ اس کا دروازہ کھلے جہاں تک اسے پورا بیان کرنے

(۱) قرآن مجید سورہ یسین آیت ۷۷

(۲) قرآن مجید سورہ کہف آیت ۱۰۹

کا تعلق ہے تو اس کی طبع نہیں ہو سکتی اور جو آدمی قرآن پاک کے مضامین کو بالکل نہ سمجھے تو وہ ان لوگوں میں داخل ہے جن کا اس آیت میں ذکر کیا گیا ہے۔

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّىٰ خَرَجُوا
مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ
مَاذَا قَالَ أَنفَاءُ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ
قُلُوبَهُمْ ۗ (۱)

اور ان میں سے بعض آپ سے بڑے غور سے سنتے ہیں حتیٰ کہ جب آپ کے پاس سے چلے جاتے ہیں تو اہل علم سے پوچھتے ہیں انہوں نے ابھی کیا کہا ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی۔

اور مہر سے مراد وہ رکاوٹیں ہیں جن کا ہم موانع فہم میں ذکر کریں گے اور کہا گیا ہے کہ آدمی اس وقت تک مرید نہیں ہوتا جب تک وہ قرآن پاک میں وہ بات نہ پائے جس کا وہ ارادہ کر رہا ہے نقصان کو زائد سے اور موئی کو غلام سے ممتاز نہ کرے۔

بہت سے لوگ قرآن کے معانی کو سمجھنے سے بعض اسباب اور پردوں کی وجہ سے رک گئے اور یہ پردے شیطان نے ان کے دلوں پر ڈالے

۶ سمجھنے کے راستے میں رکاوٹیں

ہیں جس کی وجہ سے قرآن پاک کے اسرار سے وہ اندھے رہے۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
تَوَلَّوْا اَنَّ الشَّيَاطِيْنَ يَحُوْمُوْنَ عَلٰى
قُلُوْبِ بَنِي اٰدَمَ لِيَنْظُرُوْا الْاِحْسَانَ
الْمَلَكُوْتِ ۗ (۲)

اگر شیطان انسانوں کے دلوں کو نہ گھیریں تو وہ عالم بالا کو دیکھ لیں قرآن پاک کے معانی علی ملکوت میں شامل ہیں اور ہر وہ بات جو حق اس نے غائب ہوا اور اس کا ادراک نہ ہو سکتا ہو وہ ملکوت سے ہے۔

قرآن کو سمجھنے کے راستے میں چار رکاوٹیں ہیں۔

فہم کی رکاوٹیں

پہلی رکاوٹ یہ ہے کہ توجہ حروف کو مخارج سے نکالنے کی طرف ہو اور اس بات کا ذمہ دار ایک شیطان ہے جو قاریوں پر مسلط ہے تاکہ وہ انہیں قرآن پاک کے معانی کو سمجھنے سے دوسری طرف پھرنے چنانچہ وہ مسلسل ان کو حروف کے بار بار ادا کرنے پر متوجہ رکھتا ہے اور یہ خیال پیدا کرتا ہے کہ یہ حروف اپنے مخرج سے نہیں نکلا توجیب اس کی پوری توجہ مخارج حروف کی طرف ہو تو اس کے لیے معانی کس طرح منکشف ہوں گے۔ اور

(۱) قرآن مجید سورہ محمد آیت ۱۶

(۲)

شیطان ایسے آدمی پر بہت خوش ہوتا ہے جو اس کے اس دھوکے میں آتا ہے۔
 دوسرا وہ جو اپنے مذہب کی تقلید میں پکا ہوتا ہے اور محض سماعت سے اس میں تعصب پیدا ہوتا ہے وہ بصیرت مند
 ہونے کے ذریعے وہاں تک نہیں پہنچتا تو اس شخص کو اس کے اعتقاد نے آگے بڑھنے سے قید کر رکھا ہے اس کے
 دل میں اس کے اپنے عقیدے کے سوا کچھ بھی نہیں آتا۔ تو اس کی نظر سنی ہوئی بات پر موقوف ہوتی ہے اگر ورنہ سے کوئی چمک
 سے اور کوئی معنی ظاہر ہو لیکن وہ معنی اس کے سنے ہوئے معنی کے خلاف ہو تو شیطان تقلید اس پر حملہ کرتا ہے اور
 ہٹا ہے کہ تیرے دل میں یہ خیال کیسے آگیا جب کہ یہ تیرے باپ دادا کے دین کے خلاف ہے تو وہ اسے شیطان کا دھوکہ
 بھرا کر اس سے دور ہٹا اور بچاتا ہے اسی وجہ سے صوفیاء کرام نے فرمایا کہ علم ایک حجاب ہے۔

اور اس سے ان کی مراد علم عقائد ہے جس پر اکثر لوگ محض تقلید سے قائم ہیں (۱) یا وہ مناظرانہ کلمات ہیں جو مذاہب میں
 تعصب رکھنے والوں نے لکھے اور ان کو بتائے ہیں پس حقیقی علم، نور بصیرت کے ذریعے کشف اور مشاہدہ ہے وہ کیسے
 حجاب بن سکتا ہے وہ تو انتہائے مطلوب ہے اور یہ تقلید کبھی باطل ہوتی ہے پس رکاوٹ بن جاتی ہے جسے وہ لوگ جو
 عرش پر استواء سے مراد لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس پر ٹھہر گیا اور اس نے فرار پکڑا پس جب اس کے دل میں یہ بات
 گذرے کہ اللہ تعالیٰ کی ان تمام باتوں سے پاک ہے جو مخلوق کے لیے جائز ہیں تو وہ ایسی تقلید نہیں کرے گا جس سے
 یہ باتیں دل میں جم جائیں اور اگر بالفرض دل میں ٹھہر بھی جائیں تو دوسرے اور تیسرے کشف کی طرف لے جائیں گی اسی طرح
 آگے چلے گا۔ لیکن وہ جلد ہی اسے دل سے نکال دیتا ہے کیوں کہ وہ اس تقلید باطل کے خلاف ہیں اور بعض اوقات
 وہ حق ہوتی ہیں لیکن اس کے باوجود وہ رکاوٹ بنتی ہیں اور کشف نہیں ہوتا کیونکہ بندوں کو جس حق کا مکلف بنایا گیا ہے
 اس کے کئی مراتب اور درجات ہیں اس کی ابتدا سے ظاہر ہے اور باطنی گہرائی ہے اور طبیعت کا ظاہر نہ وجود باطن کی گہرائی
 تک رسائی میں رکاوٹ ہے جیسے ہم نے عقائد کے باب میں علم ظاہر اور علم باطن کے درمیان فرق کے ضمن میں بیان کیا
 ہے تیسری رکاوٹ یہ ہے کہ وہ گناہ پر ڈٹ جاتے یا تکبر میں مبتلا ہو، یا دیہوی خواہش میں مبتلا ہو کر اس کا حکم ماننے تو یہ
 دل کی تاریکی اور زنگ کی طرح ہے یہ ایسے ہے جیسے شیشے پر کوئی چیز لگی ہو تو صاف نظر نہیں آتا اسی طرح دل میں امر
 حق کی تجلی صحیح طور پر نہیں ہوتی اور یہ دل کے لیے بہت بڑا حجاب ہے اور اکثر لوگ اس حجاب کا شکار ہیں اور جب شہوات
 کا اجتماع زیادہ ہوتا ہے کلام کے معانی سے حجاب بھی زیادہ ہوتا ہے اور جب دل پر دنیا کے بوجھ کم ہوتے ہیں تو اس میں
 معانی کی تجلی قریب ہوتی ہے پس دل، شیشے کی طرح ہے اور شہوات زنگ کی مثل ہیں قرآن پاک کے معانی ان صورتوں

(۱) حضرت امام غزالی رحمہ اللہ نے بات واضح فرمادی کہ یہاں تقلید سے مراد عقائد میں تقلید ہے آپ نے اسی کی مذمت کی ہے کیونکہ ہر
 مسلمان کا فرض ہے کہ وہ عقائد کو سمجھنے کی کوشش کرے فقہی تقلید مراد نہیں ہے ۱۲ ہزار

کی مثل ہیں جو شیشے میں دکھائی دیتی ہیں، شہوات کو ختم کر کے دل سے ریاضت کرنا شیشے سے زنگ کو دور کرنے کی ہے اسی لئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

إِذَا عَظَمَتْ أُمَّتِي الدُّبَارَ وَالذِّهْدَ حَمَدٌ
نَزَعَتْ مِنْهَا هَيْبَةً أَوْ سَلَامَةً وَإِذَا تَرَكَوْا
الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيَ عَنِ الْمُنْكَرِ
حُرِّمُوا بِرَكَّةٍ النَّوْحِيِّ (۱)

جب امت کے نزدیک دنیا اور دیرِ ہم کی عظمت زیادہ ہو جائے گی تو ان سے اسلام کی ہیبت چلی جائے گی اور جب وہ نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا چھوڑ دیں گے تو وحی کی برکت سے محروم ہو جائیں گے۔

حضرت فضیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ قرآن کی سمجھ سے محروم ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ نے ہم کو تذکیر میں رجوع الی اللہ کو شرط قرار دیا ہے اور ارشاد فرمادی ہے۔

تَبَصَّرَةٌ وَذِكْرِي كُلِّ عَبْدٍ مُتَّيِّبٍ -

(یہ آثارِ قدرت) بصیرت افزا اور یاد دہانی ہیں ہر اس بندے کے لیے جو اپنے رب کی طرف مائل ہے۔

(۲)

اور ارشاد فرمایا:

وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَنْ يُتَّيِّبُ -

اور وہی لوگ نصیحت قبول کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں۔

(۳)

اور ارشاد فرمادی ہے:

إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ (۴)

نصیحت صرف وہی لوگ قبول کرتے ہیں جو عقلمند ہیں۔

تو جس آدمی نے دنیا کے دھوکے کو آخرت کی نعمت پر ترجیح دی وہ عقلمند لوگوں میں سے نہیں ہے اسی لئے اس پر کتاب اللہ کے اسرار منکشف نہیں ہوتے۔

چوتھی رکاوٹ یہ ہے کہ وہ ظاہری تفسیر پڑھ کر یہ عقیدہ رکھے کہ قرآنی کلمات کے وہی معانی ہیں حضرت ابن عباس اور حضرت مجاہد وغیرہم سے منقول ہیں اور اس کے علاوہ سب تفسیر بالرائے ہے اور جو آدمی اپنی رائے سے تفسیر کرتا ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے یہ بھی ایک بہت بڑا حجاب ہے ہم عنقریب چوتھے باب میں تفسیر بالرائے کا معنی بیان کریں گے۔

(۱) کنز العمال جلد ۲ ص ۱۸۵ حدیث ۶۰۷۰

(۲) قرآن مجید سورۃ قی آیت ۱

(۳) قرآن مجید سورۃ غافر آیت ۱۳ (۴) قرآن مجید سورۃ رعد آیت ۱۹

کر ہی گئے اور یہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے قول کے منافی نہیں ہے انہوں نے فرمایا مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے کو فہم قرآن عطا فرمائے۔ اور اگر یہی ظاہری منقول معانی مراد ہوتے تو اس میں لوگوں کا اختلاف نہ ہوتا۔

یعنی قرآن پاک کے ہر خطاب میں یہ تصور کرے کہ میں ہی مقصود ہوں اگر کوئی امر یا نہی سنے تو خیال کرے کہ اسے ہی روکا گیا اور حکم دیا گیا ہے اگر کوئی وعدہ یا وعید سنے تو یہی تصور کرے۔ اگر پہلے لوگوں یا انبیاء کرام کے واقعات سے تو جان لے کہ قصے کہانیاں مقصود نہیں، بلکہ مقصود یہ ہے کہ عبرت حاصل کی جائے اور ان کے بیان سے اپنی ضرورت کی بات حاصل کرے کیوں کہ قرآن پاک کے واقعات کو لانے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کے حق میں فائدہ ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

مَا نُنزِّلُ بِهِ فُورَادِكُمْ (۱)

تو بندہ یہ تصور کرے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کے حالات، ایذا و پران کے صبر اور اللہ تعالیٰ کی مدد کی انتظار میں دین پران کی ثابت قدمی کو میرے دل کو قائم و ثابت رکھنے کے لیے بیان کیا ہے۔ اور یہ تصور کیے نہیں کرے گا جب کہ قرآن پاک صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نازل نہیں ہوا بلکہ وہ تمام جہانوں کے لیے شفا، رحمت اور ثور ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے عام لوگوں کو نعمت کتاب پر شکر ادا کرنے کا حکم دیا۔

ارشاد خداوندی ہے۔

اور اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو یاد کرو جو اس نے تمہیں عطا فرمائی اور اس نے تم پر کتاب اور حکمت نازل کی تم اس سے نصیحت حاصل کرتے ہو۔

وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ لِيُعْظِمَ بِهِمُ (۲)

ارشاد خداوندی ہے،

بے شک ہم نے تم پر کتاب اتاری جس میں تمہارے لیے نصیحت ہے کیا تم غفل نہیں رکھتے۔

لَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ - (۳)

اور ارشاد خداوندی ہے،

اور ہم نے آپ کی طرف ذکر (قرآن پاک) نازل کیا تاکہ

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ

(۱) قرآن مجید سورہ ہود آیت ۱۲۱

(۲) قرآن مجید سورہ بقرہ آیت ۲۳۱

(۳) قرآن مجید سورہ انبیاء آیت ۱۰

آپ لوگوں کے لیے وہ چیز بیان کریں جو ان کی طرف
نازل کی گئی۔

مَا نَزَّلَ إِلَيْهِمْ
(۱)

اسی طرح اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے ان کی مثالیں بیان
کرتا ہے۔

نیز ارشاد فرمایا:
كَذَلِكَ يَصْرَفُ اللَّهُ لِلنَّاسِ
أَمْثَلَهُمْ - (۲)

اس نہایت اچھی بات کی پیروی کرو جو تمہارے رب
کی طرف سے تمہاری طرف اتاری گئی۔

ارشاد خداوندی ہے:
وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ
رَبِّكُمْ - (۳)

یہ لوگوں کے لیے آنکھیں کھولنے والی باتیں ہیں اور یقین
کرنے والی قوم کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔

اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:
هَذَا بَصَائِرُ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ
لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ (۴)

یہ لوگ کے لیے بیان ہے اور پرہیزگار لوگوں کے
لیے ہدایت اور نصیحت ہے۔

اور ارشاد فرمایا:
هَذَا بَيِّنَاتٌ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ
لِّلْمُتَّقِينَ (۵)

تو جب سب لوگوں کو خطاب کا ارادہ فرمایا تو ایک ایک کو خطاب کا ارادہ بھی ہوا تو یہ ایک پڑھنے والا شخص بھی
مقصود ہے تو اب اسے باقی لوگوں سے کیا واسطہ ہے اسے یہ تصور کرنا چاہیے کہ وہی مقصود ہے۔

اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

اسے محبوب آپ فرمادیں کہ یہ قرآن پاک میری طرف وحی بھیجا
گیا تاکہ میں اس کے ذریعے تمہیں اور جب تک یہ پیچھے سب کو
خبردار کروں۔

وَأَوْحَىٰ إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنَ لِتُنذِرَ بِهِ
وَمَنْ يَبْلُغْ (۶)

✽ ✽ ✽

(۱) قرآن مجید سورہ نحل آیت ۳۴

(۲) قرآن مجید سورہ محمد آیت ۳

(۳) قرآن مجید سورہ زمر آیت ۵۵

(۴) قرآن مجید سورہ جاثیہ آیت ۲۰

(۵) قرآن مجید سورہ آل عمران آیت ۱۳۸

(۶) سورہ النعام آیت ۱۱۹

حضرت محمد بن کعب قرظی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جس تک قرآن پاک پہنچ گیا گویا اس سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا۔ جب اس بات پر قادر ہو جائے تو قرآن پاک پڑھنے ہی کو اپنا عمل قرار نہ دے بلکہ اس طرح پڑھے جس طرح کوئی غلام اپنے مالک کے خط کو پڑھتا ہے جو اس نے اس کو لکھا ہے تاکہ وہ اس میں غور و فکر کر کے اس کے مطابق عمل کرے۔

یہ بعض علماء کرام نے فرمایا "یہ قرآن پاک وہ خطوط ہیں جو ہمارے رب کی طرف سے ہمارے پاس آئے ہیں ان میں عہد و پیمان لیا گیا ہے۔"

تاکہ ہم نمازوں میں ان پر غور کریں، علیحدگی میں ان سے آگاہی حاصل کریں، عبادت میں ان پر عمل پیرا ہوں۔ حضرت ملک دینار رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے اسے اہل قرآن! قرآن پاک نے تمہارے دلوں میں کیا بویا ہے بے شک قرآن پاک دین کے حق میں بہار ہے جیسے بارش، زمین کی بہار ہے حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کوئی شخص اس قرآن پاک سے ہم محبت نہیں ہوتا مگر وہ نفع یا نقصان کے ساتھ آتا ہے۔

ارشاد خداوندی ہے،
هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَكَذٰلِكَ يَدِيذُ
الظَّالِمِينَ اِنَّ رَحْمَةً لِّاِنَّ (۱)

یہ قرآن پاک مومنوں کے لیے شفاء اور رحمت ہے اور ظالموں کا نقصان ہی بڑھتا ہے۔

یعنی مختلف آیات کے اس کے دل پر مختلف اثرات مرتب ہوں یہ آیت کو سمجھنے کے مطابق مختلف اثرات اور وجد کی کیفیت پیدا ہو جس کی وجہ سے اس کے دل میں غم، خوف اور امید وغیرہ کا ظہور ہو اور جب اس کی معرفت کمال ہو تو اس کے دل کا سب سے غالب حال خشیت ہو۔ کیوں کہ قرآنی آیات میں تنگی بہت ہے کیونکہ مغفرت اور رحمت کا ذکر جہاں بھی دکھائی دیتا ہے وہ کچھ شرائط کے ساتھ مشروط ہوتا ہے جن کو پانے سے عارف قاصر ہوتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنے غفار ہونے کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا۔

اِنِّیْ لَغَفَّارٌ (۲)

یہ شک میں بخشنے والا ہو۔

لیکن اس کے لیے چار شرطوں کا ذکر فرمایا، ارشاد فرمایا۔
لَمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ
اٰهْتَدٰی (۳)

ان لوگوں کے لیے (غفار ہوں) جنہوں نے توبہ کی، ایمان لائے اور اچھے کام کئے پھر ہدایت پائی۔

(۱) قرآن مجید، سورہ اسراء آیت ۸۲

(۲) قرآن مجید، سورہ طہ آیت ۸۲

(۳) قرآن مجید، سورہ طہ آیت ۸۲

اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

وَالْعَصْرَاتِ اِلٰی شَانِ لَفِيْ خُسْرٍ اِلَّا الَّذِيْنَ
اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَتَوَّصَّوْا بِحَقِّ
وَتَوَّصَّوْا بِالصَّبْرِ۔ (۱)

زمانے کی قسم ایسے شک انسان نقصان میں ہیں مگر وہ
لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کئے، ایک
دوسرے کو حق کی نصیحت کی اور صبر کی نصیحت کی۔

لوہیاں بھی چار شرطوں کا ذکر ہے۔ اور جہاں انحصار سے کام لیا تو وہاں جامع شرط ذکر فرمائی۔
ارشاد خداوندی ہے:

اِنَّ رَحْمَةً اللّٰهِ قَرِيْبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِيْنَ۔
بے شک اللہ تعالیٰ کی رحمت، احسان کرنے والوں کے
قریب ہے۔ (۲)

احسان ان سب پر مشتمل ہوتا ہے اسی طرح جو شخص قرآن پاک میں اول سے آخر تک تلاش کرے گا تو مختلف معانی
پائے گا، تو جو آدمی اسے سمجھے تو اس کے لائق یہ ہے کہ وہ خشیت اور غم کی حالت میں ہو اسی لیے حضرت حسن بصری رحمہ
اللہ نے فرمایا۔

اللہ کی قسم! کوئی بندہ تلاوت کلام پاک کے ساتھ صبح نہیں کرتا مگر اس کا غم زیادہ اور خوشی کم ہو جاتی ہے اس کا رونا
زیادہ اور سننا کم ہوتا ہے اس کی تھکاوٹ اور مشغولیت زیادہ اور راحت اور فراغت کم ہو جاتی ہے۔
حضرت وہیب بن ورد رحمہ اللہ نے فرمایا "ہم نے ان احادیث اور مواعظ میں غور کیا تو قرآن پاک کی قرات اس کی سمجھ
اور تدبیر سے بڑھ کر کسی چیز کو دلوں کو بہت نرم کرنے والا، اور غم کو لانے والا نہیں پایا۔ تو قرآن پاک سے متاثر ہونے کا مطلب
یہ ہے کہ بندہ پڑھی گئی آیت کی صفت سے موصوف ہو جائے جب ڈراوے یا مغفرت کے ساتھ شرائط کا ذکر آئے
تو خوف سے اتنا کمزور ہو جائے کہ گویا وہ مرنے کے قریب ہے۔

اور جب اللہ تعالیٰ کی وسیع رحمت اور وعدہ مغفرت کی آیات پڑھے تو خوش ہو جائے گویا وہ خوشی سے اڑ رہا ہے
جب اللہ تعالیٰ اور اس کی صفات و اسماء کا ذکر ہو تو اس کے جلال اور عظمت کے سامنے جھک جائے۔ اور جب کفار
کا اس طرح ذکر کیا جائے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے ان باتوں کا ذکر کیا جو اس کے لیے محال ہیں مثلاً اس کے
لیے اولاد اور بیوی ثابت کرنا، تو اس وقت اپنی آواز کو لپٹ کرے اور ان کے قول کی قباحت سے شرمندہ ہو کر دل میں

(۱) قرآن مجید، سورہ طہ آیت ۸۲

(۲) قرآن مجید سورہ والعصر (مکمل)

(۳) قرآن مجید سورہ اعراف آیت ۵۶

انکساری لائے۔ جب اوصاف جنت کا ذکر ہو تو دل میں اس کا شوق پیدا ہو۔ جب جہنم کا وصف بیان ہو تو اس کے خوف کے باعث جسم کانپ اٹھے۔

جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا: میرے سامنے قرآن پاک پڑھیں، وہ فرماتے ہیں میں نے سورہ نسا شروع کی جب میں اس آیت پر پہنچا۔

فَلَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدٌ رَجْنَاكَ
عَلَىٰ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا (۱)

پس کیسے ہوگا جب ہم ہر امت سے ایک گواہ لائیں گے اور آپ کو ان پر گواہ بنا لیں گے۔

حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں (میں نے) دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے آپ نے مجھے فرمایا اس وقت بس کرو۔

آپ نے یہ بات اس لیے فرمائی کہ اس حالت کے مشاہدہ نے آپ کو مکمل طور پر ادھر متوجہ کر دیا تھا۔

ڈرنے والوں میں سے بعض لوگ ڈرنے والی آیات پر بیہوش ہو کر گر پڑے اور ان میں سے بعض نے آیات سنیں تو

مر گئے۔

تو اس قسم کے حالات میں تلاوت کرنے والا محض حکایت کرنے والا نہیں ہوتا جب وہ پڑھے۔

إِنِّي أَخَافُ أَنْ عَصَيْتَ رَبِّي عَذَابَ
يَوْمٍ عَظِيمٍ (۲)

اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے بہت بڑے دن کے عذاب سے ڈرانا ہے۔

اور اس آیت کو پڑھتے وقت اسے یہ خیال نہ ہو تو وہ محض حکایت کرنے والا ہے۔

اور جب یہ آیت پڑھے:

عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنبَأْنَا وَإِلَيْكَ
الْمَصِيرُ (۳)

ہم نے تجھ ہی پر بھروسہ کیا اور تیری ہی طرف رجوع کیا اور تیری طرف ہی ہمارا لوٹنا ہے۔

اب اس آیت کو پڑھتے وقت اس کی حالت توکل اور رجوع الی اللہ والی نہ ہو تو یہ محض حکایت ہوگی۔ اور جب درج ذیل آیت پڑھتے وقت وہ صبر کرنے والا یا اس کا پختہ ارادہ کرنے والا نہ ہو تو تلاوت کی مٹھاس نہیں پائے گا۔ ارشاد خداوندی ہے۔

(۱) قرآن مجید، سورہ نسا، آیت ۴

(۲) قرآن مجید، سورہ انعام، آیت ۱۵

(۳) قرآن مجید، سورہ ممتحنہ، آیت ۴

وَلَنْصَبِرَنَّ عَلَىٰ مَا آذَيْتُمُونَا

اور ہم اس بات پر ضرور بضرور صبر کریں جو اذیت تم
نے ہم کو دی۔

(۱)

اب اگر یہ صفات پیدا نہ ہوں اور اس کا دل ان کے درمیان میں نہ پھرتا ہو تو اس کی تلاوت محض زبانی حرکت ہوگی
اور جب درج ذیل آیات پڑھے گا تو اس کا لفظ صراحتاً اس پر لعنت بھیجتا رہے گا۔

ارشاد خداوندی ہے:

أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ (۲)

سنو! ظالموں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔

نیز فرمایا:

كَيْدُ قَوْمٍ عِنْدَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا
تَفْعَلُونَ (۳)

اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی بیزاری اس بات پر کہ تم
وہ بات کہو جو کرتے نہیں۔

نیز فرمایا:

وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مَّعْرُضُونَ (۴)

اور وہ غفلت میں منہ پھرنے والے ہیں۔

نیز ارشاد خداوندی ہے:

وَلَكُمْ بُرْدَانُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا (۵)

ذکر سے پیٹھ پھیری اور صرف دنیوی زندگی کا ارادہ کیا۔

نیز ارشاد خداوندی ہے:

وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ مَا نَبَّ فَإِنَّ لِي لَلظَّالِمِينَ (۶)

اس کے علاوہ دیگر آیات ہیں اور یہ شخص اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد گرامی میں داخل ہو جاتا ہے:

ارشاد فرمایا:

وَمِنْهُمْ أُمِّيُونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ
إِلَّا أَمَانِي (۷)

اور ان میں کچھ ان پڑھ ہیں جو کتاب کو صرف اپنی خواہشات
کے مطابق جانتے ہیں۔

(۱) قرآن مجید، سورہ ابراہیم آیت ۱۲

(۲) قرآن مجید سورہ ہود آیت ۱۸

(۳) قرآن مجید سورہ الصف آیت ۳

(۴) قرآن مجید سورہ انبیاء آیت ۱۰

(۵) قرآن مجید، سورہ نجم آیت ۲۹

(۶) قرآن مجید، سورہ حجرات آیت ۱۱ (۷) قرآن مجید سورہ یوسف آیت ۱۰۵

یعنی محض تلاوت کرتے ہیں۔

اور ارشاد باری تعالیٰ ہے :

وَكَايِنَ مِّنْ آيَةِ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ
يَمْرُوْنَ عَلَيْهَا وَهُمْ مَعْرٰضُوْنَ - (۱)

اور آسمانوں اور زمین میں کتنی ہی آیات ہیں جن سے یہ لوگ
منہ پھیر کر گزر جاتے ہیں۔

کیوں کہ قرآن پاک آسمان و زمین کی ان نشانیوں کو واضح طور پر بیان کرتا ہے اور جب وہ ان کو پڑھ کر آگے گزر جائے
اور ان سے اثر قبول نہ کرے تو وہ ان سے منہ پھرنے والا ہے اسی لئے کہا گیا کہ جو شخص قرآن پاک کے اخلاق سے متصف
نہیں ہوتا تو جب وہ قرآن پاک پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے پکارتا ہے اور فرماتا ہے تجھے میرے کلام سے کیا واسطہ؟ تو مجھ سے
اعراض کرنے والا ہے اگر تو میری طرف رجوع نہیں کرتا تو میرے کلام کو چھوڑ دے۔

کوئی گناہ گار شخص جب بار بار قرآن پاک پڑھتا ہے تو اس کی مثال اس طرح ہے جیسے کوئی شخص بادشاہ کے خط کو
روزانہ کئی مرتبہ پڑھے اور اس نے اسے لکھا کہ ملک کو آباد کرو اور یہ اس کو برباد کرنے میں لگا ہوا ہے اور صرف خط کے پڑھنے
پر اکتفا کرتا ہے۔ تو اس مخالفت کے وقت اگر وہ پڑھنا چھوڑ دے تو شاید مذاق اور ناراضگی کے استحقاق سے دور ہو جائے
اسی لیے حضرت یوسف بن اسباط نے فرمایا کہ میں قرآن پاک پڑھنے کا ارادہ کرتا ہوں لیکن جب اس کے مضامین کو پڑھتا
ہوں تو عذاب سے ڈر کر تبیح و استغفار میں مشغول ہو جاتا ہوں اور جو شخص عمل سے اعراض کرتا ہے اس کا

ذکر اس آیت میں ہے۔

فَبَدُوْا وَّرَءَاظُهُمْ وَّاسْتَرَوْا
بِهٖ نَمٰنًا قَلِيْلًا (۲)

اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا :
اِقْرَءُوا وَاَلْقُرْآنَ مَا اُتِلْفَتْ عَلَيْهِ
قُلُوْبُكُمْ وَاَنْتَ لَهٗ جَلُوْدٌ كُمْ فَاِذَا
اُخْتَلِفْتُمْ فَلَسْتُمْ تَقْرَءُوْنَ -

پس انہوں نے اس کتاب کو اپنی پیٹھوں کے پیچھے ڈال
دیا اور اس کے بدلے تھوڑی قیمت لے لی۔

قرآن پاک اس وقت تک پڑھو جب تک اس سے تمہارے
دل مانوس رہیں اور اس کے لیے تمہارا جسم نرم ہو پس
جب تم اختلاف کرنے لگو (یعنی پیچے والی حالت نہ رہے)
تو اب تم نہیں پڑھ رہے۔

(۳)

(۱) قرآن مجید سورہ یوسف آیت ۱۰۵

(۲) قرآن مجید سورہ آل عمران آیت ۱۸۷

(۳) صحیح بخاری جلد ۲ ص ۵۷، کتاب فضائل القرآن

اور بعض روایات میں ہے کہ جب تم جھگڑنے لگو تو اس سے اٹھ جاؤ۔ (۱)

ارشاد خدا فرمادی ہے :

الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ
وَإِذَا تَلَّيْتُمْ عَلَيْهِمْ آيَاتَهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا
وَسَعَىٰ رَبِّهِمْ لِيَتَوَكَّلُوا -

(۲)

وہ لوگ کہ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل
دھل جاتے ہیں اور جب ان پر اس کی آیات پڑھی جائیں
تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اور وہ اپنے
رب پر ہی بھروسہ کرتے ہیں۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :

إِنَّ أَحْسَنَ النَّاسِ صَوْنًا بِالْقُرْآنِ الَّذِي
إِذَا سَمِعْتَهُ يَقْرَأُ رَأَيْتَ أَنَّهُ يَخْشَى
اللَّهُ تَعَالَى - (۳)

بے شک قرآن پاک کو خوش آوازی سے وہ شخص پڑھتا
ہے کہ جب تم اس کو پڑھتے ہوئے سناؤ تو دیکھو کہ وہ اللہ
تعالیٰ سے ڈرتا ہے۔

نیز آپ نے ارشاد فرمایا :

لَا يَسْمَعُ الْقُرْآنَ مِنْ أَحَدٍ أَشْهَىٰ مِنْهُ
مِمَّنْ يَخْشَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ (۴)

اس شخص سے پڑھ کر قرآن پاک کی اچھی تلاوت نہیں
سنی جاتی جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے۔

تو قرآن پاک کی قرأت کا مقصد یہی ہے کہ دل پر یہ حالات آئیں اور اس پر عمل کیا جائے ورنہ صرف کے ساتھ
زبان کو حرکت دینے کی مشقت نہایت آسان ہے اسی لیے کسی قاری نے کہا کہ میں نے اپنے استاد کے سامنے قرآن پاک
پڑھا پھر دوبارہ پڑھنے لگا تو انہوں نے مجھے جھڑک دیا اور فرمایا میرے سامنے پڑھنے کو تو نے عمل بنا لیا جاؤ اللہ تعالیٰ
کے سامنے پڑھو اور دیکھو کہ وہ تمہیں کس چیز کا حکم دیتا ہے اور کس بات سے روکتا ہے۔

احوال و اعمال میں صحابہ کرام کا یہی شغل تھا چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو آپ نے بیس ہزار صحابہ کرام
چھوڑے لیکن ان میں سے صرف چھ نے قرآن پاک حفظ کیا تھا (۵) اور ان میں سے بھی دو کے بارے میں اختلاف ہے

(۱) مشکوٰۃ المصابیح ص ۱۶۱ کتاب فضائل القرآن

(۲) قرآن مجید، سورہ انفال آیت ۲

(۳)

(۴) کنز العمال جلد اول ص ۶۱۰ حدیث ۲۸۰۲

(۵)

ہیں سے اکثر ایک یا دو سورتیں حفظ کرتے اور جو شخص سورہ بقرہ اور سورہ انعام یاد کرتا وہ ان کے علماء میں سے ہوتا اور
ایک شخص آیا کہ قرآن پاک سیکھے جب وہ اس آیت پر پہنچا۔

پس جو شخص ایک ذرہ کے برابر نیکی کرے گا وہ اسے
دیکھے گا اور جو ایک ذرہ کے برابر برائی کرے گا
وہ اسے دیکھے گا۔

(۱) تو واپس لوٹ گیا اور کہنے لگا مجھے یہی کافی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شخص واپس لوٹ گیا اور یہ

تو یہ حالت بہت کیاب ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی مومن کے دل کو کسی آیت کے سمجھنے کے بعد عطا کرتا ہے اور صرف زبان
حکمت کم نفع دیتی ہے بلکہ جو شخص زبان سے تلاوت کرے اور عمل سے اعراض کرے وہ اس بات کے لائق ہے کہ اللہ
عالی کے اس ارشاد گرامی کا مصداق ہو۔

اور جو شخص میرے ذکر سے منہ پھیرتا ہے اس کی معیشت
تنگ ہوگی اور ہم اسے قیامت کے دن اندھا اٹھائیں
گے۔

وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً
ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى۔

(۲)

نیز فرمایا :-

کَذَلِكَ آتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ
الْيَوْمَ تُنسى۔ (۳)

ایسی طرح تیرے پاس ہماری آیات آئیں تو تو نے ان کو
بھلا دیا اور اسی طرح تجھے چھوڑ دیا جائے گا۔
یعنی اس نے قرآن پاک کو چھوڑ دیا اور اس میں غور و فکر نہ کیا اور نہ اس کی کچھ پرواہ کی کیونکہ جو شخص کسی کام میں کوتاہی
کرتا ہے تو کہا جاتا ہے اس نے اس کام کو بھلا دیا۔ قرآن پاک کی کما حقہ تلاوت یہ ہے کہ اس میں زبان، عقل اور دل
شریک ہوں زبان کا حصہ یہ ہے کہ ترمین (ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے) کے ذریعے حروف کو صحیح ادا کرے، عقل کا حصہ معانی
کی تفسیر ہے، دل کا حصہ (اللہ تعالیٰ کی طرف سے) جھڑکا اور حکم سے متاثر ہونا اور نصیحت حاصل کرنا ہے پس زبان پڑھتی

(۱) قرآن مجید سورہ زلزال آیت ۸، ۷

(۲) المتذکر للہام جلد ۲ ص ۲۲۵ کتاب تفسیر

(۳) قرآن مجید، سورہ طہ آیت ۲، ۱۲

(۴) قرآن مجید، سورہ طہ آیت ۱۲، ۱۳

ہے، عقل ترقی کرتی ہے اور دل نصیحت قبول کرنے والا ہے۔

۹- ترقی

اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تلاوت کے دوران اس حد تک نیچے جائے کہ قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ سے اپنے آپ سے نہ سنے تو قرأت قرآن نے تین درجے ہیں ادنیٰ درجہ یہ ہے کہ انسان یوں تصور کرے کہ وہ اللہ کے سامنے پڑھ رہا ہے اس کے سامنے بکھڑا ہے اور وہ اسے دیکھ بھی رہا ہے اور اس کی قرأت سن بھی رہا ہے اس صورت میں اس کی حالت، سوال، خوشامد، عاجزی اور انکساری ہوگی دوسرا درجہ یہ ہے کہ کلام میں تسکلم کو دیکھ اور کلمات میں صفات کو، نہ تو اپنے آپ کو دیکھے نہ اپنی قرأت کو، اور نہ اس انعام کو دیکھے جو اس پر ہوا بلکہ اس پوری توجہ اور فکر تسکلم کی طرف ہو گیا وہ سب کچھ چھوڑ کر تسکلم کے مشاہدہ میں مصروف ہے یہ مقررین کا درجہ ہے اور جو پہلے بیان ہوا وہ اصحابِ یمین کا درجہ ہے اور جو اس سے خارج ہے وہ غافلین کے درجات ہیں۔

سب سے بلند درجہ کے بارے میں حضرت امام جعفر بن محمد صادق رضی اللہ عنہما نے فرمایا ”اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں مخلوق کے لیے سبلی فرمائی ہے لیکن وہ دیکھتے نہیں“ ایک مرتبہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہما نے فرمایا ”اللہ تعالیٰ نے اپنی حالت لاحق ہوئی کہ وہ بیوش ہو کر گر پڑے جب افاقہ ہوا تو حاضرین نے اس سلسلے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا میں ایک آیت کو بار بار اپنے دل پر پڑھتا رہا حتیٰ کہ میں نے اسے تسکلم (اللہ تعالیٰ) سے سنا تو میرا جسم اس کی قدرت کے معائنہ کرنے کے لیے نہ ٹھہر سکا تو اس قسم کے درجہ میں مٹھاں اور متاجات کی لذت زیادہ ہو جاتی ہے۔ کسی دانائے فرمایا میں قرآن پاک پڑھتا تھا لیکن مجھے اس کی حلاوت محسوس نہیں ہوتی تھی حتیٰ کہ میں نے اسے تلاوت کیا گویا میں اسے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سن رہا ہوں کہ آپ، صحابہ کرام کے سامنے پڑھ رہے ہیں پھر میرا مقام بلند کیا گیا تو میں اس طرح پڑھتا گویا میں حضرت جبریل علیہ السلام سے سن رہا ہوں کہ وہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سن رہے ہیں پھر اللہ تعالیٰ ایک اور مقام لایا اب میں براہِ راست اللہ تعالیٰ سے سنتا ہوں اس وقت مجھے وہ لذت اور حصہ ملا ہے کہ میں صبر نہیں کر سکتا۔“

حضرت عثمان اور حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہما نے فرمایا ”اگر دل پاک ہو جائے تو وہ قرآن پاک کی قرأت سے سیر نہ ہوں انہوں نے یہ بات اس لیے فرمائی کہ دل کی طہارت سے انسان ترقی کر کے کلام میں تسکلم کو دیکھتا ہے اسی لیے حضرت ثابت نبائی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ میں نے بیس سال قرآن پاک میں مشقت اٹھائی اور بیس سال اس کی حلاوت پائی۔“ اگر آدمی تسکلم کا مشاہدہ کرے اور دوسری طرف اس کی نظر نہ ہو تو وہ ان ارشادِ خداوندی کو بجالانے والا ہوگا۔

فَقَرِّءْ مَا آتَىٰكَ اللَّهُ (۱)

پس اللہ تعالیٰ کی طرف بھاگو۔

اور ارشاد خداوندی ہے:

وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ (۱)

اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی دوسرا خدا نہ ٹھہراؤ۔
تو جو آدمی ہر چیز میں اسے نہ دیکھے وہ اس کے غیر کو دیکھتا ہے اور ہندو، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو دیکھتا ہے تو
اس کی اس توجہ میں کچھ نہ کچھ شرک خفی ہوتا ہے بلکہ خالص تویہ ہے کہ وہ ہر چیز میں اللہ تعالیٰ ہی کو دیکھے۔

اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی طاقت سے برأت کا اعلان کرے نیز اپنے نفس کی طرف رضا اور تزکیہ
کے نگاہ کرنے سے بچے پس جب وعدے اور صالحین کو تعریف پر مشتمل آیات کی تلاوت کرے تو

قطع تعلق

ان وقت اپنے نفس کو سنبھالنے نہ رکھے بلکہ اس پر یقین کرنے والے اور سچے لوگوں کو پیش نظر رکھے اور اس بات کا شوق
رکھے کہ اللہ تعالیٰ اسے بھی ان لوگوں کے ساتھ ملا دے اور جب غضب نیز نافرمان اور کوتاہی کرنے والوں کی مذمت کی
آیات تلاوت کرے تو انہیں اپنے بارے میں خیال کرے اور خوف کے تحت اپنے آپ کو اس کا مخاطب سمجھے اسی
لیے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ دعا مانگا کرتے تھے۔

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَغْفِرُكَ لِظُلْمِي وَكُفْرِي۔
یا اللہ! میں اپنے ظلم اور کفر کے باعث تجھ سے بخشش

کا سوال کرتا ہوں۔

پوچھا گیا ظلم تو ٹھیک ہے کفر کیسے ہو گیا؟ تو انہوں نے یہ آیت تلاوت فرمائی۔

إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ (۲)

بے شک انسان بہت ظلم اور انکار کرنے والا ہے۔

حضرت یوسف بن اسباط رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ آپ جب قرآن پاک پڑھتے ہیں تو کونسی دعا مانگتے ہیں؟ انہوں نے
فرمایا کونسی دعا مانگتا ہوں؟ یہی کہ بارگاہ خداوندی میں اپنی ستر سال کی کوتاہیوں پر استغفار کرتا ہوں، توجیب انسان تلاوت

کلام کے دوران اپنے آپ کو کوتاہی کرنے والا دیکھے گا تو یہ دیکھنا قربت کا سبب ہو گا کیونکہ جو شخص قرب میں دُوری کو
دیکھتا ہے اسے خوف عطا ہوتا ہے حتیٰ کہ وہ خوف اسے قرب کے بلند مقام پر لے جاتا ہے اور جو آدمی دُوری کو بھی قرب

سمجھے تو وہ خوف سے بچایا جاتا اور بچاؤ اس بعد دُور کر دیتا ہے۔ اور جب وہ اپنے آپ کو رضا کی آنکھ سے دیکھتا ہے
تو نفس کے حجاب میں چلا جاتا ہے اور جب وہ نفس کے مشاہدے سے تجاوز کر کے صرف اللہ تعالیٰ کو دیکھے

تو اس پر عالم ملکوت کے بھید کھل جاتے ہیں۔ حضرت ابوسلیمان دارنی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ابن ثوابان نے اپنے ایک
بھائی سے وعدہ فرمایا کہ وہ ان کے پاس روزہ افطار کریں گے لیکن انہیں دیر ہو گئی حتیٰ کہ صبح ہو گئی دوسرے دن ان کے

(۱) قرآن مجید، سورۃ الذاریات آیت ۱۵

(۲) قرآن مجید سورۃ ابراہیم آیت ۳۴

اس بھائی سے ملاقات ہو تو اس نے کہا آپ نے وعدہ کیا تھا کہ میرے پاس افطار کریں گے لیکن آپ نے وعدہ پورا نہ کیا انہوں نے فرمایا اگر میں نے تجھ سے وعدہ نہ کیا ہوتا تو میں تجھے نہ بتاتا کہ مجھے کس بات نے روکا تھا میں نے جب عشاء کی نماز پڑھی تو میں نے سوچا تمہارے پاس جانے سے پہلے وتر پڑھ لوں کیوں کہ موٹ سے بے خوفی نہیں ہے جب میں وتر میں دعا پڑھنے لگا تو میرے پاس ایک سرسبز باغیچہ لایا گیا جس میں طرح طرح کے جنقی پھول گھلے تھے۔ تو میں مسلسل انہیں دیکھتا رہا حتیٰ کہ صبح ہو گئی۔

تو یہ مکاشفات اسی وقت ہوتے ہیں جب آدمی اپنی ذات کے خول سے نکل جاتا ہے نہ اپنے نفس کو دیکھتا ہے اور نہ اس کی خواہشات کو پھر یہ مکاشفات، کشف والے کے حالات کے مطابق ہوتے ہیں۔ جب وہ امید والی آیات پڑھتا ہے اور اس پر خوشی کی حالت غالب ہو جاتی ہے تو اس پر جنت کی صورت منکشف ہوتی ہے اور وہ اسے یوں دیکھتا ہے جس طرح آنکھوں سے دیکھ رہا ہو اور اس پر خوف غالب ہو تو اس کے سامنے جہنم کو لایا جاتا ہے حتیٰ کہ وہ طرح طرح کے عذاب دیکھتا ہے اور یہ اس سے ملتا کہ اللہ تعالیٰ کا کلام نرم، لطیف اور سخت درشت بھی ہے، نیز اس میں امید بھی ہے اور خوف بھی، اور یہ اس کے اوصاف سے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کے اوصاف میں رحمت بھی ہے مہربانی بھی، انتقام بھی اور پکڑ بھی۔ تو کلمات اور صفات کے مشاہدے کے مطابق دل کی مختلف حالتیں ہوتی ہیں اور جس قسم کی حالت ہوتی ہے وہ اسی قسم کے کشف کے لیے تیار ہوتا ہے کیونکہ یہ مجال ہے کہ سننے والے کی حالت ایک ہو اور جو سنا گیا وہ مختلف ہو کیوں کہ اس میں حالت رضا کا کلام بھی ہے، غصے والے تکلم کا بھی، انتقام والے جبار تکلم کا کلام بھی ہے جو بے پرواہ ہے اور شفقت و مہربانی والے کلام بھی جو بیکار نہیں چھوڑتا یعنی اللہ تعالیٰ کی مختلف صفات ہیں لہذا جب اس کا کلام پڑھا جائے تو سننے والے پر بھی مختلف حالات طاری ہوتے ہیں۔

پہ تو تھا باب

قرآن کو سمجھنا اور تفسیر بالرائے

شاید تم کہو کہ گذشتہ بحث میں تم نے اسرارِ قرآن کے سمجھنے اور جو معانی پاکیزہ دل والوں کے لیے منکشف ہوں ان عظمت بیان کی تویہ بات کیسے مستحب ہو سکتی ہے جب کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

مَنْ سَرَّ الْقُرْآنَ بَدَايِهِ فَلْيَنْتَبِئُوا مَقْصِدَهُ
 جو آدمی اپنی رائے سے قرآن پاک کی تفسیر بیان کرے وہ
 اپنے ٹھکانہ آگ میں بنا لے۔

اس بنیاد پر ظاہر تفسیر کے علماء ان مفسرین پر اعتراض کرتے ہیں جو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اور دیگر مفسرین سے بقول تفسیر کے خلاف تصوف کے طور پر تفسیر کرتے ہیں ان حضرات کے نزدیک یہ کفر ہے اور اگر وہ بات صحیح ہو جو اصل تفسیر ہے تو حفظ تفسیر کے علاوہ فہم قرآن کا کیا مطلب ہو گا۔ اور اگر یہ صحیح نہ ہو تو حضور علیہ السلام کے مندرجہ بالا قول کا کیا مطلب ہو گا۔

اپنی ذاتی حد تو تم جان لو کہ جس شخص کے نزدیک قرآن پاک کا ترجمہ محض ظاہری تفسیر ہے تو وہ کی خبر دیتا ہے اور وہ اپنی ذات کے بارے میں خبر دینے کے سلسلے میں درست راہ پر سے لیکن باقی تمام مخلوق کو اپنی حد پر لانے کے سلسلے میں غلطی پر سے بلکہ اخبار و آثار اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ سمجھنے والوں کے لیے قرآن کے معانی کا دائرہ بہت وسیع ہے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں "مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے کو فہم قرآن عطا فرمائے" اگر ترجمہ منقولہ کے علاوہ کچھ نہ ہوتا تو اس فہم کا کیا مطلب ہوتا۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

إِنَّ الْقُرْآنَ ظَهْرٌ وَأَبْطَانٌ وَحَدٌّ
 وَمَطْلَعٌ۔ (۲)

بے شک اس قرآن پاک کا ایک ظاہر ہے ایک باطن ،
 ایک حد ہے اور ایک جائے ظہور۔

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے موقوفاً بھی مروی ہے۔

(۱) مسند امام احمد بن حنبل جلد اول ص ۲۳۳ روایت ابن عباس رضی اللہ عنہما

(۲) النبی جلد ۳ ص ۱۳۲ تحت ط - ل - ع

اور آپ علمائے تفسیر میں سے تھے تو ظاہر، باطن، حد اور مطلع کا کیا مطلب ہوا۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں۔

«اگر میں چاہوں تو سورہ فاتحہ کی تفسیر سے ستر اونٹ بھروں» تو اس کا کیا مطلب ہو گا حالانکہ اس کی ظاہر تفسیر تو بہت مختصر ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کوئی شخص اس وقت تک فقیہ نہیں ہو سکتا جب تک قرآن پاک کے کئی معانی نہ بنائے۔ بعض علماء نے فرمایا ہر آیت کے ساٹھ ہزار معانی ہیں اور جو سمجھنے سے باقی رہ گئے ہیں وہ اس سے بھی زیادہ ہیں۔ دوسرے حضرات نے فرمایا کہ قرآن پاک سنتر ہزار دو سو علموں پر مشتمل ہے کیوں کہ ہر کلمہ ایک علم ہے پھر ہر ایک چار گنا ہو جاتا ہے کیوں کہ ہر کلمے کا ظاہر، باطن حد اور مطلع ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بیس مرتبہ اس لیے دہرایا کہ اس کے معانی کے باطن پر غور کریں ورنہ اس کا ترجمہ و تفسیر ظاہر ہے اس جیسی آیات کا تکرار ضروری نہیں۔

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جو شخص اولین و آخرین کا علم چاہتا ہے وہ قرآن پاک میں غور کرے اور پھر محض ظاہری تفسیر سے حاصل نہیں ہوتا۔

خلاصہ یہ کہ تمام علوم اللہ تعالیٰ کے افعال اور اس کی صفات میں داخل ہیں اور قرآن پاک میں اس کی ذات، افعال اور صفات کی وضاحت ہے اور ان علوم کی کوئی انتہاء نہیں قرآن پاک میں ان کی طرف اجمالی اشارہ ہے۔ جب کہ اس کی تفصیل کی گہرائی قرآن پاک کے سمجھنے پر موقوف ہے محض ظاہری تفسیر اس بات کی طرف اشارہ نہیں کرتی بلکہ جو چیز ناظرین کے لیے مشکل ہے اور نظریات و معقولات میں لوگوں کا اختلاف ہے تو قرآن پاک میں اس کی طرف اشارات اور دلائل ملتے ہیں جن کا ادراک صرف اہل علم کو ہوتا ہے تو صرف ظاہری ترجمہ و تفسیر اس بات کو کیسے پورا کر سکتی ہے۔

اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

اقْرَأُوا الْقُرْآنَ وَاتَّقُوا عَذَابَ آيَاتِهِ (۱)

اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

وَالَّذِي بَعَثَنِي بِالْحَقِّ نَبِيًّا لَتَسْتَرْقِقَنَّ أُمَّتِي

عَنْ أَصْلِ دِينِهَا وَجَمَلَهَا عَلَيَّ اثْنَتَيْنِ

وَسَبْعِينَ فِرْقَةً كَأَنَّهَا ضَلَالَةٌ مَضِلَّةٌ

قرآن پاک پڑھو اور اس کے عجائبات تلاشیں کرو۔

اس ذات کی قسم جس نے مجھے حق کے ساتھ بھیجا میری امت

اصل دین اور جماعت کے سلسلے میں ہتر (۷۲) فرقوں

میں تقسیم ہوگی وہ تمام گمراہ اور گمراہ کرنے والے ہوں گے

(۱) المستدرک للحاکم ج ۱ ص ۱۰۹ و ۱۱۰ کتاب التفسیر

اور جہنم کی طرف بلائیں گے جب تم پر یہ حالت آئے تو تم پر
اللہ تعالیٰ کی کتاب کو اختیار کرنا لازم ہے اس میں پہلے
لوگوں اور بعد والوں کی خبریں ہیں اور تمہارے باہمی
جھگڑوں کا فیصلہ ہے جو متکبر اس کی مخالفت کرے
اللہ تعالیٰ اسے ٹوڑ دے گا اور جو شخص کسی غیر اہل کے
پاس علم تلاش کرے اللہ تعالیٰ اسے گمراہ کرتا ہے
یہ اللہ تعالیٰ کی مضبوطی ہے، نفع بخش شفا ہے اسے
مضبوطی سے پکڑنے والے کے لیے حفاظت کا ذریعہ
اور اپنے تابعین کے لئے نجات ہے وہ ٹیڑھا نہیں
ہوتا کہ اسے سیدھا کیا جائے اور نہ وہ دوسری طرف مائل ہوتا
ہے کہ اسے درست کیا جائے اس کے عجائبات ختم
نہیں ہوتے اور نہ ہی بار بار پڑھنا اسے پرانا کرتا ہے۔

يُدْعُونَ إِلَى النَّارِ فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ
فَعَلَيْكُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَإِن نَّيْتَهُ
بِنَاسٍ مِّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ وَبِنَا مَا يَأْتِي بَعْدَكُمْ
وَحُكْمَ مَا بَيْنَكُمْ مَن خَالَفَهُ مِنَ الْجَبَابِرَةِ
قَصَمَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَمِنَ اتَّبَعِي الْعِلْمِ
فِي غَيْرِهِ أَضَلَّهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، وَهُوَ
حَقُّ اللَّهِ التَّمِينِ وَتُورَةُ الْمُبِينِ وَشِفَاؤُهُ
النَّافِعُ، عَصَمَةٌ لِمَن تَمَسَّكَ بِهِ وَنَجَاةٌ
لِّمَن اتَّبَعَهُ، لَا يَجُوعُ قِيَوْمٌ وَلَا يُزِيغُ
فِي سَبِيلِهِ، وَلَا تَقْضِي عَجَابُهُ وَلَا يَخْلُقُ
كَثْرَةَ الْمُتَزَيِّدِ، (۱)

جب حضرت خذیفہ رضی اللہ عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد اختلاف و انحراف کی خبر دی تو وہ فرماتے ہیں
میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر میں وہ زمانہ پاؤں تو آپ مجھے کیا حکم دیتے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اللہ تعالیٰ کی کتاب سیکھو اور اس کے مضامین پر عمل کرو اس سے نکلنے کا راستہ یہی ہے فرماتے ہیں میں نے تین بار یہی سوال
کیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں بار یہی فرمایا اللہ تعالیٰ کی کتاب سیکھ کر اس کے احکام پر عمل کرو اسی میں نجات ہے (۲)
حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جو آدمی قرآن پاک کو سمجھ گیا وہ تمام علوم کو بیان کر سکتا ہے تو آپ نے
اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ قرآن پاک میں تمام علوم کی طرف اشارہ پایا جاتا ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اللہ تعالیٰ
کے اس ارشاد گرامی کی تفسیر میں فرمایا۔

اور جسے حکمت دی گئی اسے بہت بھلائی دی گئی۔

وَمِنَ آيَاتِ الْحِكْمَةِ فَقَدْ آتَيْنَا خَيْرًا

(۳)

اس سے قرآن پاک کو سمجھنا مراد ہے۔

(۱) جامع ترمذی ص ۲۲۲، ۲۱۳، باب ماجاء فی فضل القرآن

(۲) قرآن مجید سورہ بقرہ آیت ۲۶۹

(۳)

س کے علاوہ تاویلات بھی ہیں ان سب کو جمع کرنا غیر ممکن ہے تو یہ سب کس طرح مسموع رسنے ہوئے ہو سکتے ہیں۔
۲۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے لیے دعا کرتے ہوئے بارگاہ خداوندی میں یوں
رض کیا۔

اللَّهُمَّ فَقِّهْهُمُ الدِّينَ وَعَلِّمَهُمُ التَّوْبِيلَ۔ یا اللہ ان کو دین کی سمجھ عطا کر اور قرآن پاک کا معنی سکھا

دے۔

(۱)

اگر قرآن پاک کی طرح اس کی تفسیر بھی مسموع اور محفوظ ہوتی تو اس تخصیص کا کیا مطلب ہوتا؟
۳۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا،

لَعَلِمَةُ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ مِنْهُمْ۔ البتہ اس کو وہ لوگ جان لیتے جو ان میں سے اس میں

اجتہاد کرتے ہیں۔

(۲)

تو اہل علم کے لیے اجتہاد و استنباط ثابت کیا اور یہ بات معلوم ہے کہ یہ سماعت کے علاوہ ہے اور قرآن پاک کو سمجھنے
کے سلسلے میں ہم نے جتنے آثار نقل کئے ہیں وہ اس خیال کے خلاف ہیں، لہذا تفسیر کے سلسلے میں سماعت کی قید باطل ہے
اور ہر ایک کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنی سمجھ اور عقل کے مطابق قرآن پاک سے معافی اخذ کرے جہاں تک ممانعت کا تعلق ہے
و اس کی در صورتیں ہو سکتی ہیں۔

۱۔ ایک یہ کہ آدمی کی کسی بات میں ایک رائے ہو اور اس کی طبیعت اسی طرف مائل ہو اور وہ انہی خواہش اور رائے
کی مطابق تفسیر کرے تاکہ اپنی غرض کو صحیح کرنے کے لیے دلیل پکڑ سکے اور اگر اس کی یہ خواہش نہ ہوتی تو قرآن پاک کا یہ
معنی اس کے سامنے نہ آتا اور یہ بات سمجھی کبھی علم کے ساتھ بھی ہوتی ہے جیسے کوئی شخص اپنی بدعت پر قرآن پاک کی
بعض آیات سے استدلال کرتے ہیں حالانکہ وہ جانتا ہے کہ آیت سے یہ بات مراد نہیں ہے لیکن وہ اپنے مخالف کو
دھوکہ دیتا ہے۔

اور بعض اوقات وہ لاعلمی میں ایسا معنی بیان کرتا ہے لیکن جب آیت میں اس کا احتمال ہو تو اس کی سمجھ اس معنی
کی طرف مائل ہوتی ہے جو اس کی غرض کے موافق ہوتا ہے اور وہ اپنی رائے اور خواہش کے تحت اس معنی کو ترجیح
دیتا ہے تو اب یہ اپنی رائے سے تفسیر کرنے والا ہوتا ہے یعنی اس کی رائے نے اسے اس تفسیر پر مجبور کیا اگر اس
کی اپنی خواہش نہ ہوتی تو اس وقت وہ اس معنی کو ترجیح نہ دیتا اور بعض اوقات اس کی غرض صحیح ہوتی ہے اور وہ اس

(۱) مسند امام احمد بن حنبل جلد اول ص ۲۶۶ روایات ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما

(۲) قرآن مجید، سورہ نساء آیت ۸۳

کے لیے قرآن پاک سے دلیل تلاش کرتا ہے لیکن وہ ایسی آیت سے استدلال کرتا ہے کہ اسے معلوم ہے اس آیت کا مفہوم نہیں ہے جیسے کوئی آدمی سحری کے وقت استغفار کی طرف بلاتا ہے اور اس حدیث سے استدلال کرتا ہے۔
تَسْحَرُونَ اِنْ فِي السَّحُورِ بَرَكَةٌ (۱)

سحری کر دے شک سحری میں برکت ہے۔

وہ یہ خیال کرتا ہے کہ یہاں سحری کے وقت ذکر کرنا مراد ہے۔ حالانکہ وہ جانتا ہے کہ اس سے مراد سحری کھانا ہے اور جیسے کوئی شخص کسی سخت دل کو مجاہدہ کی طرف بلاتے ہوئے کہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

اِذْهَبْ اِلَى فِرْعَوْنَ اِنَّهُ طَغَى (۱)

فرعون کے پاس جاؤ بے شک اس نے سرکشی کی ہے۔

اور اس سے دل کی طرف اشارہ کرے اور کہے کہ فرعون سے مراد دل ہے بعض واعظین اچھے مقاصد کے لیے یعنی اپنے کلام کو مزین کرنے اور سننے والے کو ترغیب دینے کے لیے یہ طریقہ اختیار کرتے ہیں لیکن یہ ممنوع ہے۔ فرقے نے اس طریقے کو اپنے فاسد مقاصد کے لیے اختیار کیا تا کہ لوگوں کو دھوکہ دے کر انہیں اپنے باطل مذہب کی طرف بلائیں وہ قرآن پاک میں اپنی مرضی کے معانی بیان کرتے ہیں حالانکہ وہ قطعی طور پر جانتے ہیں کہ یہ معنی مراد نہیں ہے تو تفسیر بالرائے سے مماثلت کی ایک وجہ یہ ہے اور رائے سے مراد فاسد رائے ہے جو خواہش کے موافق ہو اجتہاد اور صحیح رائے کے موافق نہ ہو رائے صحیح بھی ہوتی ہے اور غلط بھی لیکن جو کچھ انسان کی خواہش کے موافق ہو اسے عام طور پر رائے کہا جاتا ہے۔

مماثلت کی دوسری وجہ یہ ہے کہ ظاہری عربی الفاظ کے اعتبار سے تفسیر کی جلدی کرے اور یہ نہ دیکھے کہ غزالیہ قرآن کے سلسلے میں کہا کچھ بنا گیا اور کیا منقول ہے نیز اس میں کون سے الفاظ مبہم ہیں اور کون سے بدلے ہوئے ہیں اختصار، حذف، پوشیدہ معانی، تقدیم و تاخیر کا خیال بھی نہ رکھے پس جو شخص ظاہر تفسیر (ترجمہ) کو چھوڑ دے اور محض عربی کی سمجھ کی بنیاد پر معانی کا استنباط کرنے لگے وہ زیادہ غلطی کرتا ہے اور تفسیر بالرائے کرنے والوں میں شامل ہو جاتا ہے، تو ظاہر تفسیر میں سب سے پہلے نقل اور سماع ضروری ہے تاکہ غلطی کے مقامات سے بچے پھر اس کے بعد فہم اور اجتہاد کی گنجائش زیادہ ہوتی ہے۔

قرآن پاک کے عجیب الفاظ جو سماع کے بغیر سمجھ نہیں آتے وہ بہت زیادہ ہیں ہم ان میں سے کچھ کی طرف اشارہ کر دیتے ہیں تاکہ ان پر ان کی مثالوں کو قیاس کیا جاسکے اور معلوم ہو جائے کہ پہلے ظاہر تفسیر کو یاد کرنے میں سستی کرتا جائز نہیں اور ظاہر کو مضبوط کئے بغیر باطن تک پہنچنے کی امید نہیں کی جاسکتی اور جو شخص اسرار قرآن کو سمجھنے کا دعویٰ کرے لیکن

(۱) صحیح مسلم جلد اول ص ۵۰ کتاب الصیام

(۲) قرآن مجید، سورہ طہ آیت ۲۴

ظاہری تفسیر کو مضبوط نہ کرے وہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص دروازے سے گزرنے کے بغیر گھر کے اندر پہنچنے کا دعویٰ کرے یا وہ دعویٰ کرے کہ وہ ترکیبوں کے کلام کا مقصد سمجھتا ہے حالانکہ اسے ترکیب زبان نہیں آتی۔ کیونکہ ظاہر تفسیر لغت کی تعلیم کے قائم مقام ہے جو کسی بات کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے اور جن امور میں سنا (سماخ) ضروری ہے وہ بہت ہیں۔

ان میں سے اختصار، حذف اور لوشیدگی کا پایا جانا ہے، جیسے

ارشاد خداوندی ہے:

وَإِنَّا نَمُودُ النَّاقَةَ مُبْصِرًا
فَطَلَمُوا بِهَا - (۱)

اور ہم نے قوم ثمود کو اونٹنی دی تاکہ ان کی آنکھیں

کھلیں اور وہ حضرت صالح علیہ السلام کی نبوت کو تسلیم کریں

لیکن انہوں نے اس کے ذریعے اپنے آپ پر ظلم کیا۔

اس کا معنی یہ ہے کہ یہ ایک بصیرت دینے والی نشانی تھی تو انہوں نے اسے قتل کر کے اپنے نفسوں پر ظلم کیا تو ظاہر عربی کو دیکھنے والا خیال کرتا ہے کہ اونٹنی دیکھنے والی تھی اندھی نہیں تھی اور اسے یہ بھی معلوم نہیں کہ انہوں نے کہا ظلم کیا اور کہا انہوں نے دوسروں پر ظلم کیا یا اپنے اوپر کیا۔

اور ارشاد خداوندی ہے:

وَأَشْرِكُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ - (۲)

اس سے مراد پھڑے کی محبت ہے تو یہاں لفظ "حُب" محذوف ہے۔

اور ارشاد خداوندی ہے:

إِذَا رَأَوْا ذُنُوبَكَ ضَعُفَ الْحَيَاةَ ضَعْفَ الْمَمَاتِ (۳)

اس وقت ہم نے ان کو (زندوں کا) دوگنا اور مردوں

کا دوگنا عذاب چکھایا۔

یعنی زندوں کو جو عذاب دیا جاتا ہے اس کا دوگنا اور جو مردوں کو دیا جاتا ہے اس کا دوگنا عذاب چکھایا تو یہاں لفظ عذاب کو حذف کر کے زندوں اور مردوں کی جگہ حیات اور موت کا ذکر کیا گیا۔ اور فصیح لغت میں یہ سب کچھ جائز ہے۔

(۱) قرآن مجید، سورۃ اسراء آیت ۵۹

(۲) قرآن مجید، سورۃ بقرہ آیت ۹۳

(۳) قرآن مجید سورۃ اسراء آیت ۷۵

اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

وَأَسْأَلُ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعَيْرَ
الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا۔ (۱)

اور اس بستی (والوں) سے پوچھیں جس میں ہم تھے اور
اس قافلے والوں سے جس کے ساتھ ہم آئے ہیں۔

یہاں بستی والے اور قافلے والے مراد ہیں اور لفظ اہل محذوف پوشیدہ ہے۔
ارشاد خداوندی ہے:

تَقَلَّتْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ (۲)

آسمانوں اور زمین میں بھاری (پوشیدہ) ہے۔

اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آسمانوں اور زمین والوں پر پوشیدہ ہو گئی کیوں کہ جب کوئی چیز پوشیدہ ہو جائے
تو وہ بھاری ہوتی ہے، پس یہاں لفظ کی تبدیلی ہو گئی اور لفظ "فی" کو "علیٰ" کے قائم مقام کیا گیا نیز لفظ اہل کو حذف کر کے
پوشیدہ کر دیا گیا۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنْتُمْ تَكَذِّبُونَ (۳)

اپنے رزق کا شکر یہ لوں ادا کرتے ہو کہ تم جھٹلاتے ہو۔

یہاں "شکر رزقکم" ہے یعنی لفظ شکر محذوف ہے۔

ارشاد خداوندی ہے:

إِنَّا مَا وَعَدْنَاهُ (۴)

ہمیں وہ کچھ عطا کر جو تو نے ہم سے وعدہ کیا۔

یعنی رسولوں کی زبانوں کی وساطت سے جو وعدہ کیا تو یہاں لفظ "انسیۃ" محذوف ہے۔
ارشاد خداوندی ہے۔

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ۔

بے شک ہم نے اس (قرآن پاک) کو لیلۃ القدر میں

اتارا۔

(۵)

یہاں قرآن مجید مراد ہے اور پہلے اس کا ذکر نہیں ہوا۔

(۱) قرآن مجید سورہ یوسف آیت ۸۲

(۲) قرآن مجید سورہ اسراء آیت ۱۸

(۳) قرآن مجید سورہ واقعه آیت ۸۲

(۴) قرآن مجید سورہ آل عمران آیت ۱۹۳

(۵) قرآن مجید سورہ القدر آیت ۱

اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

حَتَّىٰ تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ - (۱)

حتیٰ کہ وہ پردے کے چھپے چھپ گیا۔

یہاں سورج مراد ہے اور پہلے اس کا ذکر نہیں ہوا۔

ارشاد خداوندی ہے:

وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُوا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ -

اور جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے غیر کو اپنا دوست بنایا وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کی پوجا صرف اس لیے کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیں۔

(۲)

یعنی وہ کہتے ہیں (یہاں یَقُولُونَ محذوف ہے)

اور ارشاد خداوندی ہے:

فَمَا لَهُمْ لَا يُؤَدُّوا آلِقَوْمٍ لَا يُكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ - (۳)

اس قوم کو کیا ہوا وہ بات سمجھنے کے قریب نہیں آتی کہتے ہیں، آپ کو جو بھلائی پہنچے تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور جو تکلیف آپ کو پہنچے وہ آپ کی اپنی طرف سے ہے۔

معنی یہ ہے کہ وہ بات کو نہیں سمجھتے کہتے ہیں کہ جو آپ کو بھلائی پہنچے۔ آخر تک اگر یہ معنی مراد نہ ہو یعنی وہ کہتے ہیں کہ الفاظ نہ ہو تو اللہ تعالیٰ کے اس کلام سے تضاد ہوگا۔

قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ (۴)

آپ فرمادیں سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور اس سے قدر یہ کا مذہب ذہن میں آئے گا (قدر یہ کا مذہب یہ ہے کہ بندہ خود مختار ہے) اسی طرح لفظ بدلا ہوا منقول ہوتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وَطُورِ سِينِينَ (۵)

یعنی طور سیناء۔

(۱) قرآن مجید سورہ ص آیت ۳۲

(۲) قرآن مجید سورہ زمر آیت ۳

(۳) قرآن مجید سورہ النساء آیت ۸

(۴) قرآن مجید سورہ نساء آیت ۹

(۵) قرآن مجید سورہ الذین آیت ۲

نیز فرمایا

سَلَامٌ عَلَىٰ آلِيكَرِيمِينَ (۱) یعنی ”علیٰ ایہا سیں“ بعض نے کہا کہ اس سے حضرت ادریس علیہ السلام مراد ہیں کیونکہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی قرأت میں ”وعلیٰ ادراسین“ ہے۔

سماخ میں ایک بات یہ ہے کہ لفظ کا تکرار ہوتا ہے اور وہ کلام کے اتصال کو ختم کر دیتا ہے؛ جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کے سوا شریکوں کی پوجا کرتے ہیں وہ صرف اپنے گمان کی پیروی کرتے ہیں۔

وَمَا يَتَّبِعُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ
شُرَكَاءَ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظُّلُمَ (۲)
یہاں لفظ اتباع دو مرتبہ آیا ہے۔

اور ارشاد خداوندی ہے:

ان کی قوم میں سے تکبر کرنے والوں نے ان مومنوں سے کہا جنہیں کمزور کر دیا گیا تھا۔ (۳)

قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِن
قَوْمِ الَّذِينَ اسْتَضَعُوا لِمَن آمَنَ مِنْهُمْ

اس کا معنی یہ ہے کہ تین لوگوں نے تکبر کیا انہوں نے ان لوگوں سے کہا جو کمزور کئے گئے لوگوں میں سے ایمان لائے اسی طرح کلام میں تقدیم و تاخیر بھی ہوتی ہے اور یہاں غلطی کا خدشہ ہوتا ہے۔

ارشاد خداوندی ہے:

اور اگر ان (کے انجام) کے متعلق آپ کے رب کا فیصلہ پہلے نہ ہو چکا ہوتا، اور ان کے لیے ایک وقت مقرر نہ ہوتا تو ابھی ان پر عذاب نازل ہو جاتا۔ (۴)

وَنُورًا كَلِمَةً سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَكَات
لِزَامًا وَأَجَلَ مُسَمًّى

یعنی ”نور کلمتہ“ اور ”سبقت“ اگر عبارت یوں نہ ہوتی تو لفظ لزام کی طرح لفظ اجل منصوب ہوتا اور اس پر زیر ہوتی

اور ارشاد خداوندی ہے:

(۱) قرآن مجید سورۃ الصافات آیت ۱۳۰

(۲) قرآن مجید سورۃ یونس آیت ۶۶

(۳) قرآن مجید سورۃ اعراف آیت ۷۵

(۴) قرآن مجید سورۃ طہ آیت ۱۲۹

وہ آپ سے (قیامت کے بارے میں) پوچھتے ہیں گویا
کہ آپ نے اس کے بارے میں خوب تحقیق کی ہے۔

يَسْأَلُونَكَ كَانَتْ حَقًّا مِنْهُمَا

(۱)

یعنی "یَسْأَلُونَكَ عَنْهَا كَانَتْ حَقًّا مِنْهُمَا" رگویا لفظ عنہا یہاں مؤخر ہے

ان کے لیے بخشش اور عزت کی روزی ہے جیسا کہ آپ
کو آپ کا رب آپ کے خانہ اقدس سے حق کے ساتھ
باہر لایا۔

اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:
لَهُمْ مَعْفَرَةٌ وَقَدْ كُنَّا كَمَا أَخْرَجَكَ
رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ

(۲)

تو یہ کلام متصل نہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد گرامی "قُلْ اذِيقَالِ اللّٰهِ وَالرَّسُولِ" رجو اس سے پہلے ہے) کی طرف
لڑتا ہے یعنی مالِ غنیمت آپ کے لیے اسی وجہ سے ہوا کہ آپ باہر جہاد کے لیے جانے پر راضی ہوئے اور وہ ناپسند کرتے
تھے تو درمیان میں تقویٰ وغیرہ سے متعلق کلام لایا گیا اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اذِيقَالِ اللّٰهِ وَالرَّسُولِ لَئِيْذِكُمْ اَنْ تَقُوْلُوْا مَا نَقَلْنَا مِنْكُمْ اِلٰى اللّٰهِ وَرَبِّكُمْ
حَتّٰى تَقُوْمُوْا بِاللّٰهِ وَرِسَالَتِهِ حَقًّا اِنَّكُمْ كُنْتُمْ اٰمِنًا
کہاں تک کہ وہ ایمان لائیں مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام
کا اپنے باپ سے قول۔

(۳)

یعنی یہاں بھی اتصال نہیں ہے:

اسی طرح قرآن پاک میں ایسے الفاظ لائے جاتے ہیں جن کے معانی ہیں ابہام ہوتا ہے یعنی وہ لفظ چاہے کلمہ ہو یا حرف
کئی معانی میں مشترک ہوتا ہے کلمہ کی مثال جیسے لفظ شے، قرین، امت اور روح وغیرہ۔

اللّٰهُ تَعَالٰی نے ایک عبد مملوک کی مثال دی جو کسی چیز پر
قادر نہیں۔

اِنَّ شَيْءًا لَّا يَخْتَارُ
مَلِكًا وَّلَا يَخْتَارُ
عَلٰى شَيْءٍ مِّنْ شَيْءٍ
عَلٰى شَيْءٍ مِّنْ شَيْءٍ

(۴)

تو یہاں شے سے مراد فقیر ہے جو راجا جاتا ہے۔

(۱) مطلب یہ ہے کہ کم اجل مسمیٰ کا عطف کلمہ پر ہے اور "لِزَامًا" لفظ کان کی خبر ہے اس لیے منفرد ہے ۱۲ ہزاروی

(۲) قرآن مجید، سورہ اعراف، آیت ۱۸۷

(۳) قرآن مجید، سورہ انفال، آیت ۵۷

(۴) قرآن مجید، سورہ متحنہ، آیت ۲

۵) قرآن مجید، سورہ نحل، آیت ۷۵

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

رَضِبَ اللّٰهُ مَثَلًا رَّجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا
أَبَدَكَ مَوْلًا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ (۱)

اللہ تعالیٰ نے دو مردوں کی مثال دی کہ ان میں سے
ایک کو نگاہے کسی بات پر قادر نہیں۔

یہاں شے سے مراد عدل و استقامت کا حکم دینا ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَن
شَيْءٍ (۲)

حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے
فرمایا: اگر آپ میرے ساتھ آئیں تو کسی چیز کے بارے میں
نہ پوچھا۔

یہاں شے سے صفات ربوبیت مراد ہیں اور یہ وہ علوم ہیں جن کے بارے میں پوچھنا جائز نہیں حتیٰ کہ جاننے والا
استحقاق کے وقت خود ہی بیان کر دے۔

اور ارشاد باری تعالیٰ ہے:

أَمْ خُلِقُوا مِن غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ (۳)

کیا وہ خود بخود بن گئے ہیں یا وہ خود ہی خالق ہیں۔

یہاں شے سے غیر خالق مراد ہے یعنی اوقات یہاں وہم ہوتا ہے کہ کوئی چیز کسی دوسری چیز سے ہی پیدا ہوتی ہے۔
لفظ قرین کی مثال کے سلسلے میں ارشاد خداوندی ہے:

وَقَالَ قَرِينُهُ هَذَا مَا لَدَيَّ عَتِيدٌ الْفَيْبَا
جَهَنَّمَ كُلٌّ كَقَارِرٍ (۴)

اور کہے گا اس کا (عمر بھر کا) ساتھی یہ اعمال نامہ جو میرے
پاس تھا بالکل تیار ہے جہنم میں ڈال دو ہر سرکش کافر کو

یہاں قرین سے مراد وہ رشتہ ہے جو اس کے ساتھ مقرر ہے۔

اور ارشاد باری تعالیٰ ہے:

قَالَ قَرِينُهُ رَبَّنَا مَا أَطَّعْتُهُ

اس کے ساتھی نے کہا اے ہمارے رب میں نے اس
مگر اہ نہیں کیا۔

(۵)

(۱) قرآن مجید سورہ نحل آیت ۷۶

(۲) قرآن مجید سورہ کہف آیت ۷۰

(۳) قرآن مجید سورہ طور آیت ۳۵

(۴) قرآن مجید، سورہ قی آیت ۲۳ (۵) قرآن مجید سورہ قی آیت ۲۷

یہاں قرین سے شیطان مراد ہے۔

لفظ امت آٹھ معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔

(۱) جماعت کے معنی میں مستعمل ہے جیسے ارشادِ خداوندی ہے:

وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْتُرُونَ - (۱۱) اس پر ایک جماعت کو پایا جو پلاتے تھے،

امت سے مراد انبیاء کرام کی اتباع کرنے والے ہیں، جیسے تم کہو "نحن من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم" ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والوں میں سے ہیں۔

ایک ایسے شخص کو بھی امت کہا جاتا ہے جو نیکیوں کا جامع ہو اور لوگ اس کی اتباع کرتے ہوں۔

جیسے ارشادِ خداوندی ہے:

إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً كَانِتًا
بِئْسَ شَكَّ ابْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِشِوَا تَحَّى اللَّهُ تَعَالَى
کے لیے جھکنے والے۔ (۱۲)

امت کا لفظ دین کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔

ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ (۱۳) بے شک ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک دین پر پایا۔

لفظ امت، وقت کے معنی میں بھی آتا ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ (۱۴) ایک محدود وقت تک۔

اور ارشادِ خداوندی ہے:

وَأَدَّكَرَبَعْدَ أُمَّةٍ (۱۵)

امت، قدوقامت کے معنی میں بھی آتا ہے کہا جاتا ہے۔ فُلَانٌ حُجْرٌ أُمَّةٌ "فلان شخص اچھے قدوقامت والا ہے۔"

اور انہیں ایک عرصہ کے بعد یاد آگیا۔

(۱) قرآن مجید سورہ قصص آیت ۲۳

(۲) قرآن مجید سورہ نحل آیت ۱۲۰

(۳) قرآن مجید سورہ زمر آیت ۲۲

(۴) قرآن مجید سورہ ہود آیت ۷

(۵) قرآن مجید سورہ یوسف آیت ۴۵

لفظ امت ایک ایسے شخص کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے جو کسی دین پر اکیلا ہو اس کے ساتھ کو دوسرا شریک نہ ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

يُنْعَثُ زَيْدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ نَفِيلٍ اُمَّةً زَيْدِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ نَفِيلٍ كَوَيْتَا اِطْحَانَا جَاءُكَ وَاحِدَةً (۱)

امت، ام (مان) کے معنی میں بھی مستعمل ہے۔ کہا جاتا ہے "هَذِهِ اُمَّةٌ زَيْدٍ" یہ زید کی مان ہے۔ لفظ روح بھی قرآن پاک میں کئی معانی میں استعمال ہوا ہے ہم اس بحث کے ذریعے بات کو لمبا نہیں کرتے۔ اسی طرح بعض اوقات حروف میں ایہام ہوتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے۔

فَاتَرْنَ بِهِ تَقَعًا قَوْسَطَيْنِ بِهِ جَمْعًا۔ (۲)

یہاں پہلی ضمیر غائب (گھوڑوں کے) کھڑوں سے کنایہ ہے اور لفظ موریات میں انہی کا ذکر ہے یعنی وہ اپنے چاؤں کے کھڑوں سے گرد و غبار اڑاتے ہیں۔ اور دوسری ضمیر غائب "اغارة" صبح کے وقت حملہ کرنے سے کنایہ ہے جس کا ذکر فالغیرت صبحا میں ہے۔ تو انہوں نے ان کی جماعت پر حملہ کیا۔

ارشاد خداوندی ہے:

فَاتَرْنَا بِهِ الْمَاءَ (۳) پس ہم نے اس کے ساتھ پانی اتارا۔

یہاں ضمیر غائب سے بادلوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔

فَاخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ (۴) پس ہم نے اس (پانی) کے ساتھ ہر قسم کے پھل نکالے۔

یہاں ضمیر غائب پانی سے کنایہ ہے قرآن پاک میں اس قسم کی بے شمار مثالیں ہیں سماع قرآن کے ضمن میں ایک بات، میں تدریج ہے۔

ارشاد خداوندی ہے:

شَهْرَ رَمَضَانَ الَّذِي اُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ۔ (۵) رمضان المبارک کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن پاک اتارا گیا۔

اس سے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ وہ ان کو اتارا گیا یا رات کو؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس ارشاد گرامی کے ذریعے وضاحت فرمادی۔

(۱) تفسیر قرطبی جلد ۹ ص ۱۰ تحت آیت وادکر بعدا مئة

(۲) قرآن مجید سورۃ والاعادیات آیت ۴، ۵ (۳) قرآن مجید سورۃ اعراف آیت ۵۷

(۴) قرآن مجید سورۃ اعراف آیت ۵۷ (۵) قرآن مجید سورۃ بقرہ آیت ۱۸۵

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ مُبَارَكَةٍ۔
بے شک ہم نے اس (قرآن پاک) کو ایک مبارک رات
میں اتارا۔ (۱)

لیکن یہ بات واضح نہ ہوئی کہ وہ کونسی رات ہے۔ تو اس ارشاد گرامی کے ذریعے اسے فرمایا :-
إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ (۲)
بے شک ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں اتارا۔
بعض اوقات ظاہری طور پر ان آیات میں اختلاف سمجھا جاتا ہے تو یہ آیات اور اس قسم کی دوسری آیات میں نقل اور
سماع کی ضرورت ہے۔ قرآن پاک اول سے آخر تک اس جنس سے خالی نہیں ہے، کیونکہ وہ عربی لغت میں اتارا گیا لہذا
وہ ان کے کلام کی مختلف قسموں پر مشتمل ہے اس میں اختصار بھی ہے طوالت بھی ہے، ضمیریں، حذف، ابدال اور تقدیم و
تاخیر بھی ہے تاکہ وہ ان کے لیے قابل قدر بھی ہو اور ان کے حق میں معجزہ بھی۔ توجہ شخص ظاہر عربیت پر اکتفا کرے اور
سماع و نقل کی طرف توجہ نہ کرے بغیر قرآن پاک کی تفسیر کرے تو وہ ان لوگوں میں شمار ہوتا ہے جو اپنی رائے سے تفسیر
کرتے ہیں۔

جیسے امت کا زیادہ مشہور معنی سمجھنے کے بعد اس کی طبیعت اسی کی طرف مائل ہو جائے اور جب وہ دوسری جگہ
ہی لفظ سنے تو مشہور معنی کی طرف مائل ہو اور اس کے معانی کی کثرت کے سلسلے میں روایات کو ترک کر دے تو یہ بات
منع ہو سکتی ہے اسرار معانی کو سمجھنا منع نہیں جیسے گزر گیا۔ جب اس قسم کی مثالوں میں سماع حاصل ہو جائے تو ظاہری تفسیر
یعنی لفظی ترجمہ کو سمجھ جائے گا لیکن حقائق معانی کو سمجھنے کے لیے یہ کافی نہیں اور لفظی ترجمہ اور حقائق معانی میں فرق معلوم کیا
جاسکتا ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے :-
وَمَا مَيِّتٌ إِذْ مَيِّتٌ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ
رَٰحِي (۲)
اور جب آپ نے کنکریاں پھینکیں تو وہ آپ نے نہیں
پھینکیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے پھینکی ہیں۔

اس کا ظاہر ترجمہ واضح ہے لیکن حقیقت معنی پوشیدہ ہے کیونکہ کنکریاں مارنا ثابت بھی ہے اور اس کی نفی بھی
کی گئی ظاہر میں یہ دونوں باتیں ایک دوسرے کے خلاف ہیں جب تک یہ بات معلوم نہ ہو کہ آپ نے ایک اعتبار سے
کنکریاں ماری ہیں اور دوسرے اعتبار سے نہیں ماری ہیں اور جس اعتبار سے آپ نے کنکریاں نہیں ماری ہیں اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ

(۱) قرآن مجید سورہ دھان آیت نمبر ۳

(۲) قرآن مجید سورہ قدر آیت ۱

(۳) قرآن مجید سورہ انفال آیت ۱۷

نے ماری ہیں اسی طرح ارشاد خداوندی ہے:

قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ

ان سے لڑو اللہ تعالیٰ تمہارے ہاتھوں سے ان کو
عذاب دے گا۔

(۱)

توجیب وہ لوگ لڑنے والے ہیں تو اللہ تعالیٰ عذاب دینے والا کیسے ہوا اور ان کے ہاتھوں کی حرکت کے ذریعے اللہ تعالیٰ عذاب دینے والا ہے تو ان کو لڑنے کا حکم دینے کی کیا وجہ ہے تو اس کی حقیقت علوم مکاشفات کے بہت بڑے سمندر سے حاصل کی جاتی ہے ظاہری تفسیر اس بات کا فائدہ نہیں دے سکتی وہ یہ کہ نوپید طاقت کے ساتھ افعال کے تعلق کی وجہ معلوم کی جائے اور یہ بھی معلوم ہو کہ انسانی قدرت کا اللہ تعالیٰ کی قدرت کے ساتھ تعلق کسی نوعیت کا ہے۔ یہاں تک کہ بہت سے دقیق امور کی وضاحت کے بعد اللہ تعالیٰ کے ارشاد گرامی "وما رمیت اذ رمیت الایۃ" کی صداقت منکشف ہو جائے گی اور ممکن ہے کہ اس معنی کے اسرار کے انکشاف نیز اس کے مقدمات کے ربط پر پوری زندگی صرف ہو جائے لیکن اس کے تمام لواحق کو پورا نہ کیا جاسکے۔ اور قرآن پاک کے ہر کلمہ کی تحقیق کے لیے اسی بات کی حاجت ہے، جو لوگ علم میں مضبوط ہیں ان کے لیے بھی اسی قدر اسرار منکشف ہوتے ہیں جس قدر ان کو علم کی گہرائی ہوتی ہے، ان کے دل صاف ہوتے ہیں، غور و فکر کی طرف بلائے والے امور کی کثرت ہوتی ہے اور طلب معنی کے لیے خلوص ہوتا ہے ہر ایک کے لیے ترقی کا ایک درجہ ہے اور وہ اس سے اوپر کے درجہ میں جاسکتا ہے لیکن تمام مدارج کو پورا کرنا ممکن نہیں کیوں کہ سمندر روستائی بن جائیں اور درخت قلیں ہو جائیں تو چلی کلمات الہیہ کے اسرار کا احاطہ نہیں ہو سکتا اور ان کلمات کے ختم ہونے سے پہلے سمندر ختم ہو جائیں گے اسی بنیاد پر قرآن میں لوگوں کے مختلف درجات ہیں جب کہ ظاہری تفسیر میں وہ مشترک ہیں اور ظاہری تفسیر اس مقصد کے لیے کافی نہیں۔ اسرار کو سمجھنے کی مثال یوں ہے جو بعض الاباب قلوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سجدہ میں مانگی گئی اس دعا سے سمجھے ہیں۔

میں تیری ناراضگی سے تیری رضا میں پناہ چاہتا ہوں، تیرے
عذاب سے تیرے عفو و درگزر میں پناہ لیتا ہوں تیرے
عذاب سے تیری ہی پناہ لیتا ہوں میں تیری تعریف نہیں کر سکتا
تو ایسا ہی ہے جیسے تو نے خود اپنی تعریف فرمائی ہے۔

أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَأَعُوذُ
بِمَعَانَاكَ مِنْ عِقَابِكَ وَأَعُوذُ بِكَ
مِنْكَ لِأَحْصِيَ شَاءَ عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا
أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ۔ (۲)

جب آپ کو علم ہوا کہ سجدہ کر کے قرب حاصل کریں تو آپ نے سجدے میں قرب خداوندی پایا پھر اللہ تعالیٰ کی صفات کو

(۱) قرآن مجید سورہ توبہ آیت ۱۶

(۲) مسند امام احمد بن حنبل جلد ۶ ص ۵۸ مرویات عائشہ رضی اللہ عنہا۔

دیکھا تو بعض کے ذریعے بعض سے پناہ طلب کی، کیوں کہ رضا اور ناراضگی دونوں وصف میں پھر قرب پڑھ گیا اور سپہ قرب اس میں داخل ہو گیا تو آپ نے ذاتِ خداوندی کی طرف ترقی کی اور فرمایا:

”میں تجھ سے تیری ہی پناہ چاہتا ہوں، پھر مزید قرب حاصل ہوا اور اس قرب کے باعث پناہ مانگنے سے جیا کرتے ہوئے شہاد کی طرف متوجہ ہو گئے اور ”لا اھمی شأ علیک“ کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی شناخت کی، پھر معلوم ہوا کہ یہ کوتاہی ہے تو فرمایا ”انت کما اثنت علی نفسک“ تو یہ راز میں جو اربابِ قلوب پر کھلتے ہیں پھر اس کے بعد گہرائیاں ہیں اور وہ قرب کے معنی کو سمجھنا اور معلوم کرنا ہے کہ یہ سجدے کے ساتھ کیوں خاص ہے ایک صفت کے ذریعے دوسری صفت سے پناہ مانگنا اور ”اسی سے اسی کی طرف“ کو سمجھنا ہے اس کے بھید بہت زیادہ ہیں لفظی ترجمہ ان باتوں پر دلالت نہیں کرتا اور یہ تفسیر لفظی ترجمہ کے خلاف بھی نہیں بلکہ اسی کو مکمل کرتی ہے اور ظاہر سے مغز تک پہنچاتی ہے۔

باطنی معانی کو سمجھنے سے ہماری مراد بھی یہی ہے ظاہری ترجمہ کی مخالفت مراد نہیں آدابِ تلاوت کا بیان مکمل ہوا۔ تمام جہانوں کے رب کے لیے ہر قسم کی حمد ہے خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ہر منتخب بندے پر رحمت ہو، آپ کے آل و اصحاب پر بھی رحمت و سلام ہو۔ اس کے بعد ان شہداء اللہ از کار اور دعاؤں کا بیان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہی سے مدد طلب کی جاتی ہے اور اس کے سوا کوئی رب نہیں۔

اذکار اور دعاؤں کا بیان

تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس کی مہربانی سب کو شامل ہے اور اس کی رحمت عام ہے وہ ذات جو بندوں کے ذکر کا بدلہ اپنی یاد کے ساتھ دیتا ہے ارشاد خداوندی ہے۔

فَاذْكُرُونِي اذْكُرْكُمْ (۱) تم مجھے یاد کرو میں تمہارا چرچا کروں گا۔

اس نئے بندوں کو سوال اور دعا کی ترغیب دیتے ہوئے فرمایا:

ادْعُونِي اَسْتَجِبْ لَكُمْ (۲) تم مجھے پکارو میں تمہاری پکار کو قبول کروں گا۔

تو اس نے فرمان بردار اور گناہ گار، قریب ہونے والے اور دوری اختیار کرنے والے سب کو اپنی بارگاہ کی حاضری کا طمع یوں دیا ہے کہ وہ ان کی حاجات اور امیدوں کو اوپر اٹھائے گا۔ ارشاد فرمایا۔

فَاِنِّي قَرِيْبٌ اُجِيْبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِ (۱) پس بے شک میں قریب ہوں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔

انبیاء کرام کے سرور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے آل و اصحاب پر رحمت ہو جو منتخب لوگوں

میں سے بھی بہترین ہیں اور بہت بہت سلام ہو۔

حمد و صلوات کے بعد تلاوت قرآن پاک کے بعد زبان سے ادا ہونے والی عبادات میں سے کوئی عبادت ذکر خداوندی سے افضل نہیں ہے نیز یہ کہ خالص دعاؤں کے ذریعے حاجات کو بارگاہ خداوندی میں پیش کیا جائے۔

پس فضیلت ذکر کی اجمالی تشریح اور پھر مختلف اذکار کی تفصیل بیان کرنا ضروری ہے اسی طرح فضیلت دعا، دعا کی شرائط اور آداب، دینی و دنیوی مقاصد کے لیے جامع ماثور دعاؤں کو نقل کرنا نیز مغفرت و استعاذہ وغیرہ کے ساتھ مخصوص دعاؤں کا ذکر کرنا ضروری ہے۔

تو پانچ بابوں میں مقصود کو تحریر کیا جائے گا۔

پہلا باب :- ذکر کی فضیلت اور فوائد کا اجمالی و تفصیلی تذکرہ

دوسرا باب :- دعا کی فضیلت و آداب نیز استغفار اور دُور و شریف کی فضیلت کا بیان

تیسرا باب :- منقول دعائیں اور عین نصرات کی طرف یہ منسوب ہیں نیز ان کے اسباب کا بیان

چوتھا باب :- منتخب منقول و ماثور دعائیں جن کی اسناد و حذف کر دی گئیں۔

پانچواں باب :- حادثات کے وقت مانگی جانے والی ماثور دعائیں۔

(۱) قرآن مجید سورہ بقرہ آیت ۱۵۲ (۲) قرآن مجید سورہ غافر آیت ۶۰ (۳) قرآن مجید سورہ بقرہ آیت نمبر ۱۸۶

پہلا باب

ذکر کی اجمالی اور تفصیلی فضیلت اور فائدہ

(آیات، احادیث اور آثارِ صحابہ و تابعین سے)

ذکر کی اجمالی فضیلت پر درج ذیل آیات دلالت کرتی ہیں۔

آیاتِ کریمہ:-

۱- فَأَذْكُرُوا لِلَّهِ أَكْثَرَ مِمَّا كَفَرْتُمْ بِهِ

تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کروں گا۔
حضرت ثابت بن ابی ریحہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا مجھے معلوم ہے کہ میرا رب عزوجل مجھے کب یاد کرتا ہے اس پر تمام لوگ ان کی طرف بڑھے اور پوچھا آپ کو کیسے معلوم ہوتا ہے؟ فرمایا جب میں اس کو یاد کرتا ہوں وہ مجھے یاد کرتا ہے۔
اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ یاد کرو۔

۲- اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا (۱)

جب تم عرفات سے واپس لوٹو تو مشعر حرام کے پاس
اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو اور اسے یاد کرو کہ اس نے تمہیں
ہدایت دی۔

۳- فَإِذَا أَقَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَأَذْكُرُوا

اللَّهُ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوا

كَمَا هَدَاكُمْ (۲)

جب مناسک حج ادا کر چکو تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو جیسے
اپنے باپ دادا کا ذکر کرتے ہو یا اس سے بھی زیادہ۔
وہ لوگ جو کھڑے ہونے اور بیٹھنے کی حالت میں نیز اپنے
پہلوؤں پر لیٹے ہوئے، اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں۔

۴- فَإِذَا أَقَضْتُمْ مِنْكُمْ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ

كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ وَأَسْدًا ذِكْرًا (۳)

۵- الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا

وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ (۴)

(۱) قرآن مجید، سورہ بقرہ آیت ۱۵۲

(۲) قرآن مجید، سورہ احزاب آیت ۲۱

(۳) قرآن مجید، سورہ بقرہ آیت ۱۹۸

(۴) قرآن مجید، سورہ بقرہ آیت ۲۰۰

(۵) قرآن مجید، سورہ آل عمران آیت ۱۹۱

۶۔ فَاذْأَقْضِيْتُمْ الصَّلَاةَ فَادْكُرُوا
اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ۔
(۱)

جب تم نماز ادا کر چکو تو کھڑے ہونے اور بیٹھنے کی حالت
میں نیز اپنے پہلوؤں کے بل لیٹے ہوئے اللہ تعالیٰ
کو یاد کرو۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں ”یعنی رات، دن، خشکی میں اور سمندر میں، سفر و حضر میں، مالدار
اور فقر کی حالت میں، مرض و صحت اور پوشیدہ و ظاہر (ہر حالت میں اس کا ذکر کرو)

اللہ تعالیٰ نے منافقین کی مذمت میں فرمایا،

۷۔ وَلَا تَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا (۲)

۸۔ وَأَذْكُرْتَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا

وَحَيْفَةً دُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ

بِالْعَدْوِّ وَالْإِصْحَالِ وَلَا تَكُن مِمَّن

بِالْعَافِلِينَ۔ (۳)

۹۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ (۴)

اور وہ اللہ تعالیٰ کو بہت کم یاد کرتے ہیں۔
اپنے رب کو اپنے دل میں گڑ گڑاتے ہوئے اور روتے
ہوئے آواز بلند کیے بغیر صبح و شام یاد کرو اور غافلوں
میں سے نہ ہو جاؤ۔

اور البتہ اللہ تعالیٰ کا ذکر بہت بڑا ہے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں اس کے دو مفہوم ہیں۔

ایک یہ کہ تم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہو اس سے زیادہ عظمت اس بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں یاد فرمائے۔

دوسرا مفہوم یہ کہ اللہ تعالیٰ کی تمام عبادتوں میں سے اس کا ذکر سب سے بڑا ہے، — ان آیات کے
علاوہ بھی آیا ذکر کی قضیت کو واضح کرتی ہیں۔

احادیث مبارکہ:

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

ذَكَرَ اللَّهُ فِي الْعَافِلِينَ كَالشَّجَرَةِ الْخَضِرَاءِ

فِي وَسْطِ الْهَيْئَةِ (۵)

غافل لوگوں میں ذکر کرنے والے کی مثال اس طرح

ہے جیسے سوکھے درختوں میں سرسبز درخت ہو۔

(۱) قرآن مجید سورہ نساء آیت ۱۰۳

(۲) قرآن مجید سورہ نساء آیت ۱۴۲

(۳) قرآن مجید سورہ اعراف آیت ۲۰۵

(۴) قرآن مجید سورہ عنکبوت آیت ۲۵

(۵) حلیۃ الاولیاء جلد ۶ ص ۱۸۱ ترجمہ ۳۵۸

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
ذَكَرَ اللَّهُ فِي الْغَارِ فَيُنْفِئُ كَالْمَقَاتِلِ بَيْنَ
الْغَارَيْنِ (۱)

غافلوں میں ذکر کرنے والے کی مثال اس طرح ہے جس
طرح (میدان جنگ سے) بھاگنے والوں میں مجاہد کی مثال ہے۔

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
أَنَا مَعَ عَبْدِي مَا ذَكَرَنِي وَتَحَرَّكَتْ شَفَاةُ
يَدِي (۲)

میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب تک وہ میرا
ذکر کرتا رہے۔ اور میرے ذکر میں اس کے ہونٹ حرکت
میں ہوں۔

مَا عَمِلَ ابْنُ آدَمَ مِنْ عَمَلٍ أَنْجَى لَهُ مِنْ
عَذَابِ اللَّهِ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ - (۳)

اللہ تعالیٰ کے ذکر کے مقابلے میں انسان کا کوئی عمل
اسے زیادہ نجات دینے والا نہیں۔

صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ! اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد
بھی، مگر یہ کہ تم انہی تلوار سے مارو حتیٰ کہ وہ ٹوٹ جائے پھر مارو حتیٰ کہ
ٹوٹ جائے (۴)

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:
مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَرْتَفِعَ فِي رِيَاضِ الْجَنَّةِ
فَلْيَكْثِرْ ذِكْرَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ (۵)

جو شخص جنت کے باغوں میں بلندی چاہتا ہے اسے
اللہ تعالیٰ ذکر بکثرت کرنا چاہیے۔

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کونسا عمل افضل ہے؟ آپ نے فرمایا:
تمہیں یوں موت آئے کہ تمہاری زبان اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تر ہو۔ (۶)

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
أَصْبَحَ وَأَمْسَيْتُ وَلِسَانِي رَطْبٌ بِذِكْرِ اللَّهِ
صَبْحَ وَشَامَ يَوْمٍ كَرِهْتُ أَنْ يَكُونَ لِي لِسَانٌ رَطْبٌ بِذِكْرِ اللَّهِ (۷)

صبح و شام یوں کرو کہ تمہاری زبان اللہ تعالیٰ کے ذکر

(۱) حلیۃ الاولیاء جلد ۶ ص ۸۱ ترجمہ ۵۸

(۲) مسند امام احمد بن حنبل جلد ۲ ص ۵۴۰ مرویات ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ (۳)

(۴) مصنف ابن ابی شیبہ جلد ۲ ص ۵۵ کتاب الزہد

(۵) مصنف ابن ابی شیبہ جلد ۱ ص ۳۰۲ کتاب الدعاء

(۶) شعب الایمان جلد اول ص ۳۹۳ حدیث ۵۱۶

سے تر ہو، صبح و شام اس طرح کر دو کہ تم پر کوئی گناہ نہ ہو۔

تَصْبِحُ وَتَصِيءُ وَكَيْسَ عَلَيْكَ
خَطِيئَةٌ - (۱)

صبح و شام اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا اللہ تعالیٰ اسے راستے میں تلوار توڑنے اور پانی بہانے کی طرح مال خرچ کرنے سے بہتر ہے۔

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
لَذَكَرُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ بِالْعَدَاةِ وَالْعَشِيِّ
اَفْضَلُ مِنْ حَطْمِ الشُّبُوفِ فِي سَبِيلِ
اللّٰهِ وَمِنْ اِعْطَاءِ الْمَالِ سُخًّا - (۲)

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے۔

جب میرا بندہ مجھے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اس کو اپنے طور پر یاد کرتا ہوں اور جب وہ مجھے کسی مجلس میں یاد کرتا ہے تو میں اس مجلس سے بہتر مجلس میں اس کو یاد کرتا ہوں اور جب وہ ایک بالشت میرے قریب ہوتا ہے میں ایک ہاتھ (شرعی گز) اس کے قریب ہوتا ہوں اور جب وہ ایک ہاتھ قریب ہوتا ہے تو میں دونوں بازوؤں کے پھیلنے کی مقدار اس کے قریب آتا ہوں اور جب وہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میری رحمت اس کی طرف دوڑ کر جاتی ہے۔

اِذَا ذَكَرَنِي عَبْدِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ
فِي نَفْسِهِ وَاِذَا ذَكَرَنِي فِي مَلَأَةٍ ذَكَرْتُهُ
فِي مَلَأَةٍ خَيْرٍ مِنْ مَلَأَيْهِ وَاِذَا
تَقَرَّبَ مِنِّي شَيْئًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ
ذِرَاعًا وَاِذَا تَقَرَّبَ مِنِّي ذِرَاعًا
تَقَرَّبْتُ مِنْهُ بَاعًا وَاِذَا مَشَى اِلَيَّ
هَرَوْتُ اِلَيْهِ -

(۳)

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سات قسم کے آدمی وہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اس دن اپنی رحمت کا سایہ عطا فرمائے گا جب اس کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا اور ان میں سے ایک وہ شخص ہے جو تنہائی میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے اور خوفِ خدا کی وجہ سے اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں (۱)

حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

(۱) کنز العمال جلد ۲ ص ۲۴۲ حدیث ۳۹۲۹

(۲) کنز العمال جلد اول ص ۲۸۸ حدیث ۱۸۵۰

(۳) الترغیب والترہیب جلد ۲ ص ۳۹۳، ۳۹۴، ۳۹۵ کتاب الذکر

(۴) صحیح بخاری جلد اول ص (۱۹) کتاب الزکوٰۃ

کیا میں تمہیں تمہارے ایسے اعمال کی خبر نہ دوں جو تمہارے مالک کے ہاں بہتر اور زیادہ پاکیزہ ہیں تمہارے درجہ کو بلند کرتے ہیں، چاندی اور سونا خرچ کرنے کی نسبت زیادہ بہتر ہیں اور اس بات سے بھی بہتر ہیں کہ تم دشمن سے مقابلہ کرو تم ان کی گردنیں مارو اور وہ تمہاری گردنیں ماریں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ! بتائیے وہ کیا ہیں آپ نے فرمایا ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا۔

أَلَا أُنذِرُكُمْ بِخَيْرِ أَعْمَالِكُمْ وَأَنْ تَكُونُوا
عِنْدَ مَلِكِكُمْ وَأَنْ تَعْمَلُوا فِي دَرَجَاتِكُمْ
وَخَيْرٌ لَّكُمْ مِنْ إِعْطَاءِ الْوَرِقِ وَالذَّهَبِ
وَخَيْرٌ لَّكُمْ مِنْ أَنْ تَلْقَوْا عَدُوَّكُمْ
فَتَضْرِبُونَ أَعْنَاقَهُمْ وَيَضْرِبُونَ
أَعْنَاقَكُمْ قَالُوا وَمَا ذَاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟
قَالَ ذِكْرُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ دَائِمًا (۱)

اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جس شخص کو میرا ذکر مجھ سے مانگنے سے روکے میں اسے مانگنے والوں سے افضل عطا کرتا ہوں۔

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مَنْ شَغَلَهُ ذِكْرِي
عَنْ مَسْأَلَتِي أُعْطِيَ أَفْضَلَ مَا أُعْطِيَ
السَّائِلِينَ - (۲)

آثار صحابہ و تابعین:

حضرت فضیل رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہم تک یہ بات پہنچی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسے میرے بندے! حج کے بعد ایک ساعت میرا ذکر کر اور عصر کے بعد ایک ساعت مجھے یاد کر میں تجھے ان دونوں کے درمیان وقت میں کفایت کروں گا۔

بعض علماء کرام نے فرمایا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں جس بندے کے دل پر مطلع ہو کر دیکھوں کہ اس پر میرا ذکر غالب ہے میں اس کے انتظامات کا ذمہ دار ہو جاتا ہوں اس کا ہم نشین، اس سے گفتگو کرنے والا اور اس کا ساتھی ہو جاتا ہوں۔

حضرت حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔ ذکر دو قسم کے ہیں۔

ایک یہ کہ دل میں اللہ تعالیٰ کو یاد کیا جائے اس کا علم صرف اسے اور اللہ تعالیٰ کو ہو یہ کتنا اچھا ہے اور اس کا ثواب کتنا زیادہ ہے۔ اور اس سے افضل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حرام کردہ کاموں کے وقت خدا یاد آجائے۔ ایک روایت میں ہے کہ دنیا سے ہر شخص پیاسا جائے گا سوائے اس شخص کے جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے۔

(۱) مسند امام احمد بن حنبل جلد ۵ ص ۵۵۹ روایات ابی دردا رضی اللہ عنہ

(۲) التہذیب جلد ۶ ص ۲۶

حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جنتی لوگ کسی چیز پر حسرت نہیں کریں گے سوائے اس ساعت کے جو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ذکر کے بغیر گزار دی۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

مجالس ذکر کی فضیلت

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
مَا جَلَسَ قَوْمٌ مُّجَلِّسًا يَذْكُرُونَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ
إِلَّا حَفَّتْ بِهِمُ الْمَلَائِكَةُ وَغَشِيَتْهُمُ
الرَّحْمَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى فِيمَنْ عَشَدَهُ (۱)

اور آپ نے فرمایا:

مَا مِنْ قَوْمٍ اجْتَمَعُوا يَذْكُرُونَ اللَّهَ تَعَالَى لَا
يُرِيدُونَ بِذَلِكَ إِلَّا وَجْهَهُ إِلَّا نَادَاهُمْ
مِنَ السَّمَاءِ قَوْمٌ مَغْفُورٌ لَكُمْ
قَدْ بَدَلْتُ لَكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ خَسَنَاتٍ (۲)

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

مَا قَعَدَ قَوْمٌ مَّقْعَدًا الْمُبْدِكُ وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ
وَتَعَالَى فِيهِ وَلَمْ يُصَلُّوا عَلَيَّ النَّبِيِّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا كَانَ عَلَيْهِمْ حَسْرَةٌ
يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ (۳)

جب کچھ لوگ کسی جگہ بیٹھتے ہیں اور اس مجلس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف نہیں پڑھتے تو قیامت کے دن یہ مجلس ان کے لیے باعث حسرت ہوگی۔

حضرت داؤد علیہ السلام نے عرض کیا یا اللہ جب تو مجھے دیکھے کہ میں ذکر کرنے والوں کی مجلس چھوڑ کر غافلوں کی مجلس میں جاتا ہوں تو تو میرے پاؤں کاٹ دے کیوں یہ بھی تیرا ایک انعام ہے۔

(۱) سنن ابن ماجہ ص ۲۷۷ باب فضل الذکر

(۲) مسند امام احمد بن حنبل جلد ۳ ص ۲۲۱ روایات انس رضی اللہ عنہ

(۳) مجمع الزوائد جلد ۱۰ ص ۱۰ کتاب الاذکار

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
 الْمَجْلِسُ الصَّالِحُ يَكْفِرُ عَنِ الْمُؤْمِنِ
 اچھی مجلس مومن کی بیس لاکھ بری مجالس کا کفارہ بنتی ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آسمان والے زمین والوں کے ان گھروں کو جن میں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو اس طرح دیکھتے ہیں جس طرح ستاروں کو دیکھا جاتا ہے۔

حضرت سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے جمع ہوتے ہیں تو شیطان اور دنیا دونوں اباگ ہو جاتے ہیں شیطان، دنیا سے کہتا ہے تو دیکھتی نہیں یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو دنیا کہتی ہے ان کو چھوڑ دے جب یہ بکھر جائیں گے تو میں ان کی گردن پکڑ کر تیرے حوالے کر دوں گی۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ بازار میں تشریف لے گئے تو فرمایا میں تمہیں یہاں دیکھتا ہوں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت مسجد میں تقسیم ہو رہی ہے چنانچہ لوگ بازار چھوڑ کر مسجد میں گئے تو وہاں وراثت نہ دیکھی کہنے لگے اے ابو ہریرہ! ہم نے مسجد میں میراث تقسیم ہوتی نہیں دیکھی۔ انہوں نے فرمایا تم نے وہاں کیا دیکھا؟ کہنے لگے ہم نے دیکھا کہ وہاں کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں اور قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا ہی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث ہے۔ (۱)

حضرت اعمش حضرت ابو صالح سے وہ حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہما سے اور وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا:

اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے جو نامہ اعمال لکھنے والوں کے علاوہ ہیں زمین میں چلتے ہیں جب وہ کسی جماعت کو ذکر خداوندی میں مشغول پاتے ہیں تو اپنے ساتھیوں کو آواز دیتے ہیں۔ آواز اپنے مطلوب کی طرف، جب وہ آتے ہیں تو یہ سب ان کو آسمان تک ڈھانپ لیتے ہیں اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے تم نے میرے بندوں کو کیا کام کرنے چھوڑا ہے؟ وہ کہتے ہیں ہم نے یوں چھوڑا کہ وہ تیری تعریف کر رہے تھے تیری بزرگی اور پاکیزگی بیان کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ وہ کہتے ہیں نہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر وہ مجھے دیکھ لیں تو اس سے زیادہ تسبیح، تحمید اور تہجد بیان کریں، اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ وہ کس بات سے پناہ مانگتے تھے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں جہنم سے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا انہوں نے جہنم کو دیکھا ہے؟ وہ عرض کرتے ہیں نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر وہ دیکھ لیں

(۱) مجمع الزوائد جلد ۱۰ ص ۸۰ کتاب الاذکار

تو کیسا ہو؟ وہ عرض کرتے ہیں اگر وہ اسے دیکھ لیں تو اس سے بہت زیادہ بھاگیں اور بہت نفرت کریں اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ وہ کیا مانگتے تھے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں وہ جنت کا سوال کر رہے تھے؟ اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کیا انہوں نے جنت کو دیکھا ہے؟ عرض کرتے ہیں نہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر وہ اسے دیکھ لیں تو کیا صورت ہو؟ وہ عرض کرتے ہیں اگر وہ اسے دیکھیں تو اس کی زیادہ حرص کریں اس پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں تمہیں گواہ بناؤں کہ میں نے ان کو بخش دیا وہ عرصہ کرتے ہیں یا اللہ ان میں وہ شخص بھی تھا جو اپنے کام سے آیا تھا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ ایسی قوم ہے کہ ان کے ساتھ بیٹھے والا بھی بد بخت نہیں ہوتا ہے (۱)

لا الہ الا اللہ پڑھنے کی فضیلت

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

أَفْضَلُ مَا قُلْتُ وَالنَّبِيُّونَ مِنْ قَبْلِي
لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ
لَهُ،

جو کچھ میں اور مجھ سے پہلے انبیاء کرام علیہم السلام نے کہا اس میں سب سے زیادہ فضیلت اس بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں۔

(۲)

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص روزانہ سو بار یہ کلمات پڑھے۔

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ
لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ
شَيْءٍ قَدِيرٌ۔

اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں اسی کی بادشاہی ہے اور وہی لائق حمد ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔

تو اسے دس غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب ملے گا اس کے نامہ اعمال میں سونکیاں لکھی جاتی ہیں اس سے سو گناہ مٹائے جاتے ہیں اور اس دن شام تک یہ کلمات اس کے لیے شیطان سے بچاؤ ذریعہ ہوتے ہیں۔ اس سے بہتر کلمہ کسی نے نہیں کہا البتہ یہ کہ کوئی اس سے زیادہ عمل کرے۔ (۳)

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اچھی طرح وضو کرنے کے بعد آسمان کی طرف نگاہ کرتے ہوئے

(۱) مسند امام احمد بن حنبل جلد ۲ ص ۲۵۱ مرویات ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ

(۲) السنن الکبریٰ للبیہقی جلد ۵ ص ۱۱۰ کتاب الحج

(۳) صحیح بخاری جلد اول ص ۶۵ کتاب بدر الخلق

دل پڑھے :-
 اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهٗ
 اَشْهَدُ اَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُولُهٗ
 میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ
 تھا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں
 کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے
 اور رسول ہیں۔

تو اس شخص کے لیے جنت کے دروازے کھولے جائیں گے جس دروازے سے اس کا دل چاہے داخل ہو (۱)
 رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
 « لا الہ الا اللہ » پڑھنے والوں کو قبر اور میدانِ حشر میں وحشت نہیں ہوگی گویا میں دیکھا رہا ہوں کہ وہ صور پھونکنے کے
 وقت اپنے سروں سے مٹی بھاڑ رہے اور کہتے ہیں۔
 الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ اَذْهَبَ عَنَّا الْاَحْزَابَ
 اِنَّ رَبَّنَا لَغَفُوْرٌ شَكُوْرٌ (۲)
 تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو ہم سے غم کو لے گیا
 بے شک ہمارا رب بخشنے والا قادر دان ہے۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا۔
 اسے ابو ہریرہ اقیامت کے دن ہر نیکی کا وزن کیا جائے گا لیکن « لا الہ الا اللہ » کی شہادت کا وزن نہیں کیا جائے گا۔
 اگر سچے دل سے یہ کلمہ پڑھنے والے کی ہر نیکی ایک پڑے میں رکھی جائے اور دوسرے پڑے میں ساتوں آسمان اور
 ساتوں زمینیں اور سب کچھ ان میں ہے سب کچھ رکھا جائے تو « لا الہ الا اللہ » کا وزن زیادہ ہوگا۔ (۳)
 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر سچے دل سے « لا الہ الا اللہ » پڑھنے والا زمین بھری ہوتی گناہوں کی لے کر گئے
 تو اللہ تعالیٰ اسے بخش دے گا (۴)
 رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :-

اسے ابو ہریرہ! فوت ہونے والوں کو « لا الہ الا اللہ » کی شہادت کی تلقین کیا کرو کیوں کہ یہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے
 یعنی قریب الموت شخص کے سامنے کلمہ شہادت پڑھو اسے تلقین کہتے ہیں ۱۲ ہزاروی (۵)

(۱) سنن ابی داؤد جلد اول ص ۲۳ کتاب الطہارۃ۔

(۲) مجمع الزوائد جلد ۱۰ ص ۸۲ کتاب الاذکار

(۳) الترغیب والترہیب جلد ۲ ص ۱۵۵ کتاب الذکر

(۴) الترغیب والترہیب جلد ۲ ص ۲۶۷ کتاب الذکر

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں (میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! یہ نوفت ہونے والوں کے لیے ہے، زندہ لوگوں کے لیے کیسا ہے؟ آپ نے فرمایا زیادہ مٹانے والا زیادہ مٹانے والا)۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

جس نے سچے دل سے لا الہ الا اللہ (پورا کلمہ مراد ہے) پڑھا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ (۲)
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

تم سب ضرور جنت میں جاؤ گے البتہ جس نے انکار کیا اور اللہ تعالیٰ سے یوں بھاگا جس طرح اونٹ اپنے گھر والوں سے بھاگتا ہے، عرض کیا گیا یا رسول اللہ کون انکار کرتا اور اللہ تعالیٰ سے بھاگتا ہے؟ آپ نے فرمایا جو "لا الہ الا اللہ" نہیں پڑھتا تم کثرت سے یہ کلمہ پڑھا کرو اس سے پہلے کہ تمہارے اور اس کے درمیان رکاوٹ ہو جائے (یعنی موت آجائے) یہ کلمہ توحید ہے، یہ کلمہ اخلاص ہے، یہ کلمہ تقویٰ ہے، یہ کلمہ طیبہ ہے یہ دعوتِ حق ہے، یہ مضبوطی ہے اور یہ جنت کی قیمت ہے (۳)
ارشاد خداوندی ہے:

هَذَا جَزَاءُ الْوَحْسَانِ اِنَّ الْوَحْسَانَ (۴)
نیکی کا بدلہ تو نیکی ہی ہے۔

کہا گیا ہے کہ دنیا میں نیکی "لا الہ الا اللہ" اور آخرت میں جنت ہے۔

اسی طرح اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے:

لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنٰی وَ زِيَادَةٌ -
نیکی کرنے والوں کے لیے اچھا بدلہ اور کچھ زیادہ بھی

ہے۔ (۵)

حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا جس نے دس مرتبہ یہ کلمات پڑھے۔

(۱) کنز العمال جلد ۱۵ ص ۵۶۸ حدیث ۲۲۲۰۲

(۲) المعجم الکبیر للطبرانی جلد ۵ ص ۱۹۷ حدیث ۵۱۷۲

(۳) المستدرک للحکم جلد اول ص ۵۵/۵۶ کتاب الایمان / الکامل لابن عدی جلد ۴ ص ۱۲۲۲ ترجمہ خاتم بن اسماعیل

(۴) قرآن مجید سورہ رعد آیت ۶۰

(۵) قرآن مجید سورہ یونس آیت ۳۶

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ
لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ
قَدِيرٌ۔

ترجمہ گزر چکا ہے)

تو اسے ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا (۱) آپ نے لفظ رقیب یا (تسمتہ فرمایا مفہوم وہی ہے)
حضرت عمرو بن شعیب اپنے والد سے اور وہ ان کے دادا سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں۔
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

جو آدمی ایک دن میں دو سو مرتبہ یہ کلمات پڑھے۔

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔
تو پہلے گزرنے والا کوئی شخص اس سے بوقت کرنے والا نہیں اور نہ بعد والا کوئی شخص اس کے درجہ کو پہنچ سکتا

ہے سوائے اس کے کہ وہ اس سے افضل عمل کرے (۲)

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ جو شخص کسی بازار میں یہ کلمات پڑھے۔

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يَجِي وَيَمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔
تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہزاروں نیکیاں لکھ دیتا ہے اس سے ہزاروں برائیاں مٹا دیتا ہے اور اس کے لیے جنت

میں مکان بناتا ہے (۳)

ایک روایت میں ہے کہ بزدہ جب "لا الہ الا اللہ" پڑھتا ہے تو وہ اس کے نامہ اعمال کی طرف آتا ہے پھر وہ جس خطا سے
گزرتا ہے اسے مٹا دیتا ہے حتیٰ کہ وہ ایک نیکی پاتا ہے تو اس کے پلوں میں بیٹھ جاتا ہے۔

صحیح حدیث میں بواسطہ حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے۔ آپ نے فرمایا۔ جس
آدمی نے دس مرتبہ یہ کلمہ پڑھا۔

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔
وہ اس شخص کی طرح ہے جس نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے چار غلام آزاد کئے۔ (۴)

(۱) مستدرک امام احمد بن حنبل جلد ۳ ص ۲۸۴ مرویات برادر ابن غازی

(۲) الترغیب والترہیب جلد ۳ ص ۹۴ باب ماجاء فی فضل لا الہ الا اللہ

(۳) کتاب عمل الیوم واللیلة ص ۱۵ باب ما یقول اذا دخل فی السوق

(۴) الترغیب والترہیب جلد ۲ ص ۸۸ الترغیب فی قول لا الہ الا اللہ

اسی طرح ایک صحیح حدیث میں ہے حضرت عباده بن صامت رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا جو شخص رات بھر جاگ کر یہ کلمات پڑھے۔

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔
سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْكَبِيرُ وَالْحَوْلُ وَالْقُوَّةُ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ۔
پھر اللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِي رُبَّاهُ مَجْهُدِي نَحْشٍ دَسَّ كَيْسٍ تَوَاسِعِي نَحْشٍ دَبَّاهُ مَانِكِي تَوْقُولِي جَاتِي هَيْ مَجْهُدِي
اگر وضو کر کے نماز پڑھے تو اس کی نماز قبول ہوتی ہے۔ (۱)

سبحان اللہ الحمد للہ اور دیگر اذکار کی فضیلت

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی ہر نماز کے بعد تیس تیس بار
سُبْحَانَ اللَّهِ، الْحَمْدُ لِلَّهِ، اَللّٰهُ اَكْبَرُ پڑھے پھر آخر میں "لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ
الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ" پڑھے۔

تو اس کے گناہ بخش دیئے جاتے ہیں اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں (۲)
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ایک دن میں سو مرتبہ "سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ" پڑھے تو اس کی خطائیں
معاف کی جاتی ہیں اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں (۳)

ایک روایت میں ہے کہ ایک شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا کہ دنیا نے مجھ
سے منہ پھیر لیا ہے اور میرا مال کم ہو گیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو فرشتوں کی نماز اور مخلوق کی تسبیح کیوں نہیں
پڑھتا جس کے سبب انہیں رزق ملتا ہے وہ شخص کہتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا۔
طلوع فجر اور نماز فجر کے درمیان ایک سو مرتبہ یوں پڑھو۔

سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ اسْتَغْفِرُكَ اللَّهُ۔
اللہ عظمت والے کی پاکیزگی بیان کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ
سے بخشش چاہتا ہوں۔

دنیا تیزی سامنے ذلیل در سوا ہو کر آئے گی اور اللہ تعالیٰ ہر کلمہ سے ایک فرشتہ پیدا کرے گا جو قیامت تک اللہ تعالیٰ

(۱) التزئیب والتزئیب جلد اول من ۴۲۱ من التزئیب فی کلمات یقولہن الی من الیل

(۲) مسلم شریف جلد اول ص ۱۹ کتاب المساجد

(۳) مشکوٰۃ المصابیح ص ۳۰ کتاب الدعوات

تسبیح بیان کرے گا اور اس کا ثواب تمہیں ملے گا (۱)

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ "الحمد للہ" کہتا ہے تو زمین و آسمان کے درمیان کو بھر دیتا ہے جب دوسری "الحمد للہ" کہتا ہے تو ساتویں آسمان سے لے کر سب سے نیچی زمین تک کو بھر دیتا ہے جب تیسری مرتبہ "الحمد للہ" کہتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہانگ تجھے دیا جائے گا۔ (۲)

حضرت رفاعہ زرقی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک دن ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے آپ نے رکوع سے سر اٹھایا اور "سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ" کہا تو مجھے سے ایک آدمی نے کہا رَبَّنَا لَكَ حَمْدٌ كَمَا كُنْتَ بِنَا لَكَ

اسے ہمارے رب ایتیرے لیے تعریف ہے بہت تعریف جو پاکیزہ اور مبارک ہے (نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلام پھرنے کے بعد پوچھا اہل کس نے کلام کیا تھا؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ! میں نے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تیس سے زائد فرشتوں کو دیکھا وہ ایک دوسرے سے جلدی کر رہے تھے کہ کون اسے پہلے لکھے (۳)

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، سُبْحَانَ اللَّهِ، الْحَمْدُ لِلَّهِ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ۔ باقی رہنے

وال نیکیاں ہیں (۴)

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمین پر جو شخص لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ پڑھتا ہے اس کے گناہ بخش دیئے جاتے ہیں اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے اس حدیث کو روایت کیا۔ (۵)

حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا جو لوگ اللہ تعالیٰ کے جلد، تسبیح، تکبیر اور تحمید کا ذکر کرتے ہیں تو یہ کلمات عرش کے گرد پھرتے ہیں ان کے لیے شہد کی مکھی جیسی بھینٹنا ہٹ ہوتی ہے اور وہ پڑھنے والے کا ذکر کرتے ہیں تو کیا تم میں سے کوئی نہیں چاہتا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہمیشہ اس کا ذکر ہوتا رہے۔ (۶)

(۲)

(۳) صحیح بخاری جلد اول ص ۱۰۰ باب فضل اللہ ربنا ولک الحمد

(۴)

(۵) مسند امام احمد بن حنبل جلد ۲ ص ۱۵۸ روایت عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ

(۶) مسند امام احمد بن حنبل جلد ۲ ص ۲۶۸ روایت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

«سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ أَكْبَرُ» پڑھنا مجھے ان تمام چیزوں سے زیادہ پسند ہے جن پر سورج طلوع ہوتا ہے ایک دوسری روایت میں «لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ» کا اضافہ ہے آپ نے فرمایا یہ دنیا اور جو کچھ اس میں ہے، سے بہتر ہے (۱)

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ چار کلمات اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہیں

(۱) سُبْحَانَ اللَّهِ (۲) الْحَمْدُ لِلَّهِ (۳) لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ (۴) اللَّهُ أَكْبَرُ۔ تو ان میں سے جس سے شروع کرے کوئی عرج نہیں اس حدیث کو حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ (۲)

حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے پاکیزگی نصف ایمان ہے، «الْحَمْدُ لِلَّهِ» ترازو کو بھر دے گا،

سُبْحَانَ اللَّهِ اور اللَّهُ أَكْبَرُ، دونوں آسمان و زمین کے درمیان کو بھر دیتے ہیں نماز فوراً ہے، صدقہ دلیل ہے، صبر روشنی ہے، قرآن پاک تیرے حق میں یا تیرے خلاف دلیل ہے ہر شخص صبح کرتے وقت اپنے نفس کو بیچ کر اسے ہلاک کرتا ہے یا اسے خرید کر آزاد کرتا ہے۔ (۳)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: دو کلمے زبان پر آسمان، میزان میں بھاری اور رحمن کو پسند ہیں۔

«سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ» (۴)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا اللہ تعالیٰ کو کونسا کلام پسند ہے۔؟ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جو کلام اپنے فرشتوں کے لیے منتخب فرمایا یعنی

«سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ» (۵)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کلام سے۔

(۱) مشکوٰۃ المصابیح ص ۲۰ کتاب الدعوات / الترغیب والترہیب جلد ۲ ص ۴۴۲ باب ما ورد فی فضل لا حول ولا قوۃ

(۲) کنز العمال جلد اول ص ۴۶۰ حدیث ۱۹۹۳

(۳) الترغیب والترہیب جلد اول ص ۱۵۶، ۱۵۷ / الطہور بشرط الایمان

(۴) الترغیب والترہیب جلد ۲ ص ۴۶۰ الترغیب فی التبیح والذکر

(۵) مسلم شریف جلد ۲ ص ۲۵۱ باب فضل سبحان اللہ و بحمدہ

«سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ» کو چُن لیا جب بندہ "سُبْحَانَ اللَّهِ" کہتا ہے تو اس کے لیے بیس نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور اس سے بیس گناہ مٹا دیئے جاتے ہیں اور جب "اللَّهُ أَكْبَرُ" کہتا ہے تو اسی قسم کا اجر ملتا ہے کلمات کے آخر تک کا ذکر فرمایا (۱)

حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :
جو آدمی "سُبْحَانَ اللَّهِ وَيَحْمَدُهُ" پڑھے اس کے لیے جنت میں ایک درخت لگایا جاتا ہے (۲)
حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں فقرائے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ مالدار لوگ ثواب لے گئے وہ ہماری طرح نمازیں پڑھتے ہیں، ہماری طرح روزے رکھتے ہیں اور اپنے زائد مال صدقہ کر دیتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ایسا عمل نہیں بنایا جس کے ذریعے تم صدقہ رکا ثواب حاصل کرو؟ "سُبْحَانَ اللَّهِ" کہنا صدقہ ہے الحمد للہ پڑھنا اور لا الہ الا اللہ پڑھنا صدقہ ہے اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے۔ نیکی کا حکم دینا اور بُرائی سے روکنا صدقہ ہے حتیٰ کہ کوئی شخص اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالے تو یہ بھی صدقہ ہے اور تم میں سے ایک کی کسر گاہ میں صدقہ ہے (یعنی حقوق زوجیت ادا کرنا بھی صدقہ ہے)۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ! ہم میں کوئی ایک اپنی شہوت پوری کرتا ہے تو کیا اس کا بھی ثواب ملے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتاؤ اگر وہ یہ کام حرام طریقے پر کرتا تو اسے گناہ ہوتا یا نہ؟ انہوں نے عرض کیا جی ہاں گناہ ہوتا آپ نے فرمایا اسی طرح جب وہ حلال طریقے پر یہ عمل کرے تو اسے ثواب ملتا ہے۔ (۳)

حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا وہ مال والے لوگ اجر لے گئے وہ ہماری طرح حمد و ثنا کے کلمات کہتے ہیں اور مال بھی خرچ کرتے ہیں جب کہ ہم خرچ نہیں کر سکتے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں وہاں کہ جب تم اسے کرو تو پہلے لوگوں کا ثواب حاصل کرو اور آنے والوں پر فوقیت لے جاؤ۔ البتہ وہ شخص جو تمہاری طرح یہ کلمات کہے تو وہ آگے رہے گا، وہ کلمات یہ ہیں ہر نماز کے بعد تینیس بار "سُبْحَانَ اللَّهِ" پڑھو، تینیس بار "الْحَمْدُ لِلَّهِ" کہو اور چونتیس بار "اللَّهُ أَكْبَرُ" کہو۔ (۴)
حضرت بسیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتی ہیں آپ نے فرمایا تم پر اللہ تعالیٰ

(۱) مسند امام احمد بن حنبل جلد ۲ ص ۲۱۰ روایت (بی ہریرہ رضی اللہ عنہ

(۲) الترغیب والترہیب جلد ۲ ص ۲۲۲ من قال سبحان اللہ وحمدہ الخ

(۳)

(۴)

کی تسبیح، تمہیل اور تقدیس لازم ہے اس میں غفلت نہ برتنا اور انگلیوں پر شمار کرنا کیونکہ یہ انگلیاں بولیں گی (۱) یعنی قیامت کے دن گواہی دیں گی۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انگلیوں پر تسبیح کو شمار کرتے دیکھا۔ (۲)

حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہما نے شہادت دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ جب بندہ "لا الہ الا اللہ واللہ اکبر" کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے سچ کہا، میرے سوا کوئی معبود نہیں اور میں سب سے بڑا ہوں اور جب بندہ "لا الہ الا اللہ وحده لا شریک لہ" کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے سچ کہا میرے سوا کوئی معبود نہیں میں ایک ہوں میرا کوئی شریک نہیں اور جب بندہ "لا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوۃ" کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے سچ کہا میرے بغیر کوئی طاقت اور قوت نہیں۔ اور جو شخص مرتے وقت یہ کلمات کہے اسے آگ نہیں پہنچے گی۔ (۳)

حضرت مصعب بن سعد اپنے والد رضی اللہ عنہما سے اور وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا کیا تم میں سے کوئی ایک یومیہ ایک ہزار نیکیاں کمانے سے عاجز ہے؟ عرض کیا کیا یا رسول اللہ! وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا اگر سو بار "سبحان اللہ" پڑھے تو اس کے لیے ایک ہزار نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور اس سے ایک ہزار گناہ مٹا دیئے جاتے ہیں۔ (۴) نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے عبد اللہ بن قیس (یا فرمایا) اسے ابو موسیٰ (رضی اللہ عنہما) کیا میں جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانے پر تمہاری راہنمائی نہ کروں؟ انہوں نے عرض کیا جی ہاں یا رسول اللہ! آپ نے فرمایا "لا حول ولا قوۃ الا باللہ" ایک روایت میں ہے آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں ایک ایسا کلمہ نہ سکھاؤں جو عرش کے نیچے والے خزانے میں سے ہے اور وہ "لا حول ولا قوۃ الا باللہ" ہے۔ (۵)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں عرش کے نیچے جنت کے خزانوں میں سے ایک عمل پر تمہاری راہنمائی نہ کروں؟ وہ "لا حول ولا قوۃ الا باللہ" ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا بندہ اسلام لایا اور فرما بے در ہوا۔ (۶)

(۱) کنز العمال جلد اول ص ۴۶۲ حدیث ۴۰۰۴

(۲) الاذکار ص ۱۹ باب مختصر فی احرف بما جاہلہ فی فضل الذکر الخ

(۳) المستدرک للحاکم جلد اول ص ۵ کتاب الایمان

(۴) مسند امام احمد بن حنبل جلد اول ص ۱۸۰ مرویات مسند بن سعد عن ابیہ

(۵) صحیح بخاری جلد ۲ ص ۴۴۹ کتاب الدعوات / المستدرک للحاکم جلد اول ص ۲۱ کتاب الایمان

(۶) المستدرک للحاکم جلد اول ص ۲۱ کتاب الایمان

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص صبح کے وقت یوں پڑھے۔
 رَضِيْتُ بِاللّٰهِ رَبًّا وَبِالْاِسْلَامِ دِيْنًا وَ
 بِالْقُرْآنِ اِمَامًا وَبِحَمْدِهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ نَبِيًّا وَرَسُوْلًا۔
 میں، اللہ تعالیٰ کے رب ہونے اسلام کے دین ہونے،
 قرآن پاک کے پیشوا ہونے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی
 اللہ علیہ وسلم کے نبی اور رسول ہونے پر راضی ہوا۔

تو اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے کہ وہ قیامت کے دن اسے راضی کرے (۱)

ایک روایت میں ہے کہ جو آدمی یہ کلمات پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوگا۔ (۲)

حضرت مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب بندہ گھر سے نکلتے وقت کہے "بسم اللہ" تو فرشتہ کہتا ہے تو نے ہدایت پائی جب
 کہتا ہے "تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ" فرشتہ کہتا تو کفایت کیا گیا اور جب "وَحَوْلَ وَرَاءَ قُوَّةِ اِلٰهٍ" کہتا ہے تو فرشتہ
 کہتا ہے تو بچا یا گیا اور تجھ سے شیطان ہٹ گئے وہ (شیطان) کہتے ہیں تم اس آدمی سے کیا چاہتے ہو جسے ہدایت دی گئی،
 وہ کفایت کیا گیا اور بچا یا گیا تم اس تک نہیں پہنچ سکتے۔

سوال
 جب اللہ تعالیٰ کا ذکر زبان پر آسان ہے اور اس میں مشقت بھی کم ہے تو وہ باقی عبادات سے کیسے افضل ہو گیا حالانکہ
 ان میں مشقت بھی زیادہ ہے۔

جواب
 جان لو! اس کی تحقیق علم مکاشفہ کے بغیر نہیں ہو سکتی، تاہم علم معاملہ میں جس قدر کہا جاسکتا ہے وہ یہ ہے کہ مؤثر اور نفع
 بخش وہ ذکر ہوتا ہے جو دماغی ہو اور دل کی حاضری کے ساتھ ہو۔
 جب زبان سے ذکر ہو اور دل غافل ہو تو نفع کم ہوتا ہے حدیث شریف میں اس پر دلالت پائی جاتی ہے۔ (۳)
 اسی طرح دل کا کسی لحظہ میں حاضر ہونا اور پھر ذہنی خیالات میں مشغول ہونا بھی کم نفع دیتا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ
 دل حاضری ہمیشہ یا اکثر اوقات میں ہو تو یہ تمام عبادات سے مقدم بلکہ اشرف العبادات ہے اور یہ عمل عبادات کا انتہائی نتیجہ ہے۔
 ذکر کا آغاز بھی ہوتا ہے اور انتہا بھی، اس کا اول اُنس اور محبت پیدا کرتا ہے اور اس کا آخر وہ ہے جو اُنس
 اور محبت کا نتیجہ ہے اور اس سے پیدا ہوتا ہے اور یہی اُنس و محبت مطلوب ہے۔ راہِ حق کا ارادہ کرنے والا شروع

(۱) کنز العمال جلد ۲ ص ۱۵۸ حدیث ۳۵۶۷

(۲) المستدرک للحاکم جلد اول ص ۵۱۸ کتاب الدعاء

(۳) المستدرک للحاکم جلد اول ص ۹۲ کتاب الدعاء

شروع ہیں اپنے دل اور زبان کو دوسووں سے اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف پھیرتے ہیں تکلف کرتا ہے لیکن جب اسے ہمیشہ ذکر کرنے کی توفیق دی جائے تو وہ اس کے ساتھ مانوس ہوتا ہے اور اس کے دل میں اس محبت مذکور کا پورا لگا جاتا ہے اور اس بات پر تعجب نہیں ہونا چاہیے کیوں کہ عام طور پر مشاہدہ کیا جاتا ہے کہ جب کسی آدمی کے سامنے ایک ایک غائب آدمی کا ذکر کیا جائے جو سامنے نہیں ہے اور اس کے اوصاف کا بار بار تذکرہ کیا جائے تو وہ اس سے محبت کرنے لگتا ہے بلکہ اس کے اوصاف کے بیان اور کثرت ذکر کسی وجہ سے اس کا عاشق ہو جاتا ہے پھر جب اس ذکر کی کثرت کے باعث جو ابتدا میں تکلف کے ساتھ تھا، اس کا عاشق ہو جاتا ہے تو اب اس کا بکثرت ذکر کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ اس سے صبر نہیں کر سکتا۔ کیوں کہ جو شخص کسی چیز سے محبت کرتا ہے اس کا ذکر کثرت سے کرتا ہے اور جو آدمی کسی چیز کا ذکر کثرت سے کرے چاہے تکلف ہی ہو وہ اس سے محبت کرتا ہے تو ابتدا میں ذکر کرنے میں تکلف ہوتا ہے یہاں تک کہ جس کا ذکر کرتا ہے اس سے محبت ہو جاتی ہے پھر اس سے صبر نہیں ہو سکتا تو جو بات شروع میں واجب کرنے والی تھی اب خود واجب ہو جاتی ہے اور جو پھل تھا اس پھل دینے کا باعث ہے بعض اکابر کے اس قول کا یہی مطلب ہے انہوں نے فرمایا کہ میں نے پندرہ سال تک قرآن پاک پر محنت کی۔ پھر بیس سال تک اس سے نفع اٹھایا تو یہ فائدہ، انس اور محبت کے بغیر نہیں ہوتا اور انس اسی وقت ہوتا ہے جب تکالیف اٹھانے پر دوام ہو اور ایک طویل مدت تک تکلیف برداشت کرے حتیٰ کہ یہ تکلف اس کی فطرت بن جائے اور یہ بات کس طرح خلاف عقل ہو سکتی ہے جبکہ انسان ایک کھانا مشکل سے کھاتا ہے اور اس کی بد مزگی کی برداشت کرتا ہے تو اب جب وہ مسلسل کھاتا ہے تو یہ اس کی طبیعت کے موافق ہو جاتا ہے حتیٰ کہ اس کے بغیر نہیں رہ سکتا تو نفس اس کو برداشت کر لیتا ہے کیوں کہ اسے جس بات کی عادت ڈالی جائے وہ اس کا عادی ہو جاتا ہے۔

یعنی ابتدا میں جس بات پر تم تکلیف اٹھاؤ گے آخر میں وہی عمل تمہاری طبیعت بن جائے گی۔ پھر جب اللہ تعالیٰ کے ذکر سے مانوس ہو جائے گا تو غیر خدا کا ذکر ختم ہو جائے گا۔ اور غیر خدا سے مراد وہ چیز ہے جو موت کے وقت جدا ہو جاتی ہے اور قبر میں اس کے ساتھ نہیں ہوتی مثلاً اس کے گھر والے، مال، اولاد، حکومت وغیرہ، وہاں تو صرف اللہ تعالیٰ کا ذکر باقی رہتا ہے اب اگر اس نے دنیا میں اس کے ساتھ انس حاصل کیا تھا تو اس سے نفع اٹھائے گا اور اس سے پھیرنے والے امور کے منقطع ہونے سے لذت حاصل کرے گا۔ کیوں کہ دنیوی زندگی میں حاجات کی ضرورتیں اللہ تعالیٰ سے ذکر سے روکتی ہیں لیکن موت کے بعد کوئی رکاوٹ باقی نہیں رہتی کیوں کہ اب اس کے اور اس کے محبوب کے درمیان تخیلیہ ہوگا۔ اب اس کی خوشحالی بڑھ گئی اور وہ اس قید خانے سے چھوٹ گیا جس میں اسے اپنے مانوس محبوب سے رکاوٹ تھی۔

اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

بے شک روح القدس (جبریل علیہ السلام) نے میرے
دل میں یہ بات ڈالی کہ آپ جس سے محبت کرنا چاہتے ہیں
کر لیں بالآخر اسے چھوڑنا ہوگا۔

إِنَّ رُوحَ الْقُدُسِ نَفَتْ فِي رُوعِي
أَحَبُّ مَا أَحْبَبْتَ فَإِنَّكَ مَفَارِقُهُ۔

(۱)

اس سے مراد یہ ہے جو دنیا سے متعلق ہے کیوں کہ موت کے ساتھ ہی یہ چیز اس کے حق میں فنا ہو جاتی
ہے کیونکہ ہر چیز کے لیے فنا ہے صرف تیرے رب کی عزت و جلال والی ذات باقی رہے گی، اور اس شخص کی موت
باعتدال دنیا اس کے حق میں فنا ہو جاتی ہے۔ یہاں تک کہ اس دنیا کا وقت پورا ہونے پر وہ ذاتی طور پر بھی فنا ہو جائے
تو بندے کو اپنی موت کے بعد اس محبت کی لذت حاصل ہوتی ہے یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کے پڑوس میں چلا جاتا
ہے اور ذکر سے ترقی کر کے ملاقات تک پہنچ جاتا ہے اور یہ واقعہ قبروں میں سے اٹھنے اور دل کی باتیں سامنے آنے
کے بعد ہوگا اور موت کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کے ذکر کا اس کے ساتھ ہونا ایسا معاملہ ہے کہ اس کا انکار نہیں کیا جاسکتا
یہ دلیل نہیں دی جاسکتی کہ موت تو عدم کا نام ہے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا ذکر کیسے باقی رہ سکتا ہے؟ تو یہ اس
لیے باقی رہے گا کہ یہ ایسا عدم نہیں جو ذکر کے لیے رکاوٹ ہو بلکہ یہ دنیا سے اور ظاہری عالم سے عدم ہے عالم
موت سے عدم نہیں ہے جو کچھ ہم نے ذکر کیا ہے اسی کی طرف سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث اشارہ کرتی
ہے آپ نے فرمایا:

قبر یا تو جہنم کے گڑبوں میں سے ایک گڑبہ ہے یا جنت
کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے۔

وَالْقَبْرُ مَا حَضَرَهُ مِنْ حَضِرِ النَّسَائِ
أَوْ رَوْضَةٍ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ۔ (۲)

اور آپ نے ارشاد فرمایا:

أَرْوَاحُ الشُّهَدَاءِ فِي حَوَائِلِ حَيَاتِهِمْ حَضِرُ (۳)

شہداء کی روہیں بہتر پرندوں کے پوٹوں میں رہتی ہیں۔
اور آپ نے بدر کے مقتولین کے نام لے لے کر پوچھا اسے فلاں! اسے فلاں! کیا تم نے وہ بات سنی پائی جس کا تم
سے تمہارے رب نے وعدہ کیا تھا بے شک میں نے اپنے ساتھ اپنے رب کے وعدے کو سچ پایا۔

حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے آپ کا کلام سنا تو عرض کیا یا رسول اللہ! یہ تو مردار ہیں کیسے آپ کی بات سنیں گے
اور کس طرح جواب دیں گے؟ آپ نے فرمایا "اس ذات کی قسم! جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے یہ لوگ

(۱) المستدرک للحاکم جلد ۴ ص ۲۵ کتاب الرقاق۔

(۲) مجمع الزوائد جلد ۳ ص ۲۶ باب فی منقطة القبر۔

(۳) سنن العمال جلد ۵ ص ۶۶۶ حدیث ۲۶۸۸۔

میرے کلام کو تم سے زیادہ سنتے ہیں لیکن جواب دینے پر قادر نہیں" یہ صحیح حدیث میں آیا ہے (۱)
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی مشرکین کے بارے میں ہے مومنین اور شہداء کے بارے میں آپ نے فرمایا:

ان کی ارواح تیز پرندوں کے پوٹے میں ہیں جو عرش کے نیچے لٹکے ہوئے ہیں۔
أَرَوَاهُمْ فِي حَوَاصِلِ طُيُورٍ خُضِرٍ مَّعْلَقَةٍ
تَحْتَ الْعَرْشِ - (۲)

یہ حالت اور ان الفاظ کے ساتھ جس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد گرامی کے خلاف نہیں ہے جو لوگ اللہ تعالیٰ کے راستے میں قتل کئے جائیں انہیں مردہ خیال نہ کرو بلکہ وہ زندہ ہیں اپنے رب کے ہاں رزق دیئے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ نے انہیں جو اپنا فضل عطا فرمایا اس پر خوش ہوتے ہیں اور ان لوگوں کے سبب خوش

اللہ تعالیٰ کے ذکر کے شرف کی وجہ سے شہادت کا رتبہ عظیم ہے۔ کیوں کہ مطلوب خاتمہ ہے اور خاتمے سے ہماری مراد دنیا کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی طرف جانا ہے اور غیر سے قطع تعلق کے بعد دل کا اللہ تعالیٰ کی یاد میں غوطہ زن ہو جانا ہے اگر کوئی بندہ اپنے خیالات کو اللہ تعالیٰ کی طرف لگانے پر قادر ہو تو وہ اس حالت میں تب ہی فوت ہوتا ہے جب جہاد کے لئے صف آرا ہو کیونکہ اب جان و مال اور اہل و اولاد سے طمع ختم ہو جاتی ہے۔ بلکہ پوری دنیا سے کوئی لالچ نہیں رہتی کیوں کہ اسے تو وہ اپنی زندگی کے لیے چاہتا ہے، اور اب اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس کی رضا جوئی کی صورت میں اس کے دل میں زندگی کی کوئی وقعت باقی نہیں رہتی اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی علیحدگی نہیں اسی لیے شہادت کا معاملہ بہت عظیم ہے۔ اور اس کے فضائل میں بے شمار روایات آتی ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ جب حضرت عبداللہ بن عمر و انصاری اُحد کے دن شہید ہوئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے فرمایا:

اے جابر! کیا میں تجھے خوشخبری نہ دوں؟ انہوں نے عرض کیا ہاں کیوں نہیں اللہ تعالیٰ آپ کو بھدائی کی بشارت دے آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہارے باپ (حضرت عبداللہ بن عمر و انصاری) کو زندہ کر کے اپنے سامنے بٹھایا ہے اللہ تعالیٰ اور ان کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے بندے جو چاہتا ہے تمہارا میں تجھے عطا کروں گا

(۱) مسند امام احمد بن حنبل جلد ۳ ص ۲۸۷ مرویات انس رضی اللہ عنہ

(۲) سنن ابن ماجہ ص ۱۰۶ کتاب الجنائز

(۳) قرآن مجید، سورہ آل عمران آیت ۱۶۹، ۱۷۰

اور یہ بات ترغیب کے مقام پر مطلقاً ذکر فرمائی ہے پھر بعض مقامات پر صدق اور اخلاص کا ذکر بھی کیا ایک مرتبہ فرمایا
 ”جس نے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھا۔“

اور اخلاص کا معنی یہ ہے کہ حال اور قول میں مطابقت ہو۔

ہم اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں کہ وہ ہمارا خاتمہ ان لوگوں کے ساتھ کرے جو حال و قول اور ظاہر و باطن میں لا الہ الا
 اللہ کے اہل ہیں تاکہ ہم دنیا سے اس طرح رخصت ہوں کہ اس کی طرف ہماری توجیہ نہ ہو بلکہ اس سے تنگ دل اور اللہ تعالیٰ
 کی ملاقات سے محبت کرنے والے ہوں کیوں کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو پسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی ملاقات چاہتا
 ہے اور جو اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو پسند نہ کرے اللہ تعالیٰ اس سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے معافی ذکر کے یہ اسرار و
 رموز ہیں اور علم معاملہ میں ان پر اضافہ ممکن نہیں۔

دوسرا باب

دعا کے آداب، اس کی فضیلت بعض مآثورہ دعاؤں کی فضیلت استغفار اور رزق و شرف کی فضیلت

دعا کی فضیلت :

ارشاد خداوندی ہے :

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ
أَجِبْ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَا
فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي. (۱)

اور جب آپ سے میرے بندے، میرے بارے میں پوچھیں (تو بتا دیجئے) میں قریب ہوں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جو وہ مجھے پکارتا ہے تو انہیں چاہیے کہ میرا حکم ہیں۔

اور ارشاد خداوندی ہے :

وَادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ
الْمُعْتَدِينَ. (۲)

اور اپنے رب کو گرا گرا کر اتنے ہونے اور خاموشی سے پکارو بے شک وہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے :

وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ
الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ
جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ. (۳)

اور تمہارے رب نے فرمایا مجھے پکارو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا بے شک وہ لوگ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں عنقریب وہ ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔

اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا :

قُلْ ادْعُوا اللَّهَ أَوْ ادْعُوا الرَّحْمٰنَ

آپ فرماتے اللہ تعالیٰ کے نام سے پکارو یا رحمن کہہ کر

(۱) قرآن مجید سورہ بقرہ آیت ۱۸۶

(۲) قرآن مجید سورہ اعراف آیت ۵۵

(۳) قرآن مجید سورہ خافر آیت ۶۱

آيَا مَا تَدْعُو فَلَهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى - (۱)
 جس نام سے پکارو اسی کے سب اچھے نام ہیں۔
 حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا۔
 الدُّعَاءُ مَخِ الْعِبَادَةِ (۲)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
 لَيْسَ شَيْءٌ ذَكَرْتُمْ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنَ
 الدُّعَاءِ - (۳)
 اللہ تعالیٰ کے ہاں دعا سے بڑھ کر کوئی چیز معزز
 نہیں۔

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے:
 إِنَّ الْعَبْدَ لَا يَخْطِئُهُ مِنَ الدُّعَاءِ إِحْدَى
 ثَلَاثٍ إِذَا ذُنُوبُهُ يُغْفَرُ لَهُ وَإِمَّا خَيْرٌ
 يُعَجَّلُ لَهُ وَإِمَّا خَيْرٌ يُدَخِّرُ لَهُ
 (۴)

بندے کی دعا سے تین چیزوں میں سے ایک خطا نہیں کرتی
 ضرورتی ہے، یا کوئی گناہ بخش دیا جاتا ہے یا کوئی گناہ
 بخش دیا جاتا ہے یا کوئی بھلائی اسے فوراً دی جاتی ہے
 یا اس کے لیے کوئی بھلائی جمع کر دی جاتی ہے۔

حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نیکی کے ساتھ اتنی دعا کافی ہے جس قدر کھانے کے ساتھ نمک کفایت کرتا ہے۔

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:
 سَلُوا اللَّهَ مِنْ تَضَلُّهِ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى
 يُحِبُّ أَنْ يُسْأَلَ وَأَفْضَلُ الْعِبَادَةِ أَنْ يَنْتَظَرَ
 الْفَرَجِ (۵)

اللہ تعالیٰ سے اس کے فضل کا سوال کرو بے شک اللہ
 تعالیٰ پسند فرماتا ہے کہ اس نے سوال کیا جائے اور
 بہترین عبادت کشاوگی کی انتظار ہے۔

آداب دعا:

دعا کے آداب دس ہیں:

۱۔ دعا کے لیے اچھے اوقات کا خیال رکھے جیسے سال میں سے یوم عرفہ (نویں ذوالحجہ) مہینوں میں سے رمضان المبارک

(۱) قرآن مجید سورہ اسراء آیت ۱۱۰

(۲) المستدرک للحاکم جلد اول ص ۹۰ کتاب الدعاء

(۳) مسند امام احمد بن حنبل جلد ۲ ص ۲۶۲ مرویات ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ

(۴) الفردوس بما ثور الخطاب جلد اول ص ۱۹۸ حدیث ۴۹

(۵) المعجم الکبیر للطبرانی جلد ۱ ص ۱۲۵ حدیث ۱۰۸۸

کا مہینہ، ہفتے میں سے جمعہ المبارک کا دن اور رات کی ساعتوں میں سے سحری کا وقت۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے۔
 وَيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِرَبِّكُم مَّا كُنْتُمْ تَغْفُونَ (۱)

اور وہ لوگ سحری کے وقت بخشش مانگتے ہیں۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

اللہ تعالیٰ ہر رات آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے جب رات کا آخری تہائی باقی رہ جاتا ہے اور ارشاد فرمایا کون مجھے
 مارتا ہے کہ میں اس کی پکار کو قبول کروں؟ کون مجھ سے مانگتا ہے کہ میں اسے عطا کروں کون مجھ سے بخشش طلب کرتا
 ہے کہ میں اسے بخش دوں؟ (۲)

کہا گیا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا۔

سَوْفَ اسْتَغْفِرُكُمْ۔
 عنقریب میں تمہارے لیے اپنے رب سے بخشش مانگوں گا۔

رَبِّي (۳)

تو ان کا مقصد سحری کے وقت دعا مانگنا تھا کہا گیا ہے کہ آپ سحری کے وقت کھڑے ہو کر دعا مانگنے لگے اور آپ کی اولاد
 آپ کے پیچھے آئیں کہتے تھی تو اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی میں نے ان کو بخش دیا اور نبی بنایا۔

۲۔ اچھے حالات کو غنیمت جانے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں

جب میدان جنگ میں مسلمانوں کی فوجیں دشمن سے لڑتی ہیں تو آسمانوں کے دروازے کھلتے ہیں اسی طرح بارش برستے
 وقت، فرض نمازوں کے لیے تکبیر کے وقت بھی یہ دروازے کھلتے ہیں تو ان اوقات میں دعا کو غنیمت سمجھو۔

حضرت مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں :-

بے شک نماز کو اچھے اوقات میں مقرر کیا گیا ہے تو تمہیں نمازوں کے بعد دعا مانگنی چاہیے۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

الدُّعَاءُ بَيْنَ الْاَذَانِ وَالْاِقَامَةِ
 اذان اور اقامت کے درمیان روقت میں مانگی جانے
 والی دعا رد نہیں ہوتی۔

رَبِّي (۴)

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

(۱) قرآن مجید، سورہ ذاریات ۲۸

(۲) مسند امام احمد بن حنبل جلد ۲ ص ۵۰۴ مزویات ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ

(۳) قرآن مجید، سورہ یوسف آیت ۹۸

(۴) مصنف ابن ابی شیبہ جلد ۲ ص ۸۸ کتاب الصلوات

الصائم لا تزدد عوته (۱)

روزہ دار کی دعا رد نہیں ہوتی۔

درحقیقت اوقات کی شرافت بھی حالات کی شرافت کی طرف لوٹتی ہے کیونکہ سحری کا وقت دل کی صفائی اور اخلاص کا وقت ہوتا ہے۔ اور نشوونما میں ڈالنے والی باتوں سے فراغت ہوتی ہے۔ عرفہ کا دن اور جمعہ کا دن ہمتوں کے جمع ہونے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے حصول کے لیے دلوں کے اتفاق کا دن ہوتا ہے تو اوقات کے شرف کا ایک سبب یہ ہے اس کے علاوہ اسرار میں جن پر انسان مطلع نہیں ہو سکتا۔

سجدے کی حاجت کبھی قبولیت کے زیادہ لائق ہے حضرت ابوہریرہ سے روایت مروی ہے۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ
وَهُوَ سَاجِدٌ فَكَثُرُوا فِيهِ مِنَ الدُّعَاءِ (۲)

بندہ سجدے کی حالت میں اپنے رب کے زیادہ قریب ہوتا ہے پس اس میں کثرت سے دعا مانگو۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا: ”مجھے رکوع اور سجدے کی حالت میں قرآن پاک پڑھنے سے منع کیا گیا تو رکوع میں اپنے رب کی عظمت بیان کرو اور سجدے میں دعا مانگو۔“
خوب کوشش کرو کیونکہ یہ دعا قبولیت کے لائق ہے (۳)

۳۔ قبلہ رخ ہو کر دعا مانگو اور ہاتھ اس طرح اٹھائے کہ بیلوں کی سفیدی نظر آنے لگے۔ حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عرفات میں معرفت روقوف کی جگہ تشریف لائے اور قبلہ رخ ہو کر دعا مانگتے رہے حتیٰ کہ سورج غروب ہو گیا۔ (۴)

حضرت سلمان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک تمہارا رب عیب والا کریم ہے وہ اپنے بندوں سے عیب فرماتا ہے جب وہ اپنے ہاتھوں کو اس کی بارگاہ میں اٹھاتے ہیں کہ وہ ان کو غسانی لوٹائے (۵)

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں ہاتھ اٹھاتے تھے حتیٰ کہ آپ کے ہاتھوں کی

(۱) مستدام احمد بن حنبل جلد ۲ ص ۲۷۷ مرویات ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ

(۲) شرح السنہ جلد ۳ ص ۱۵۱ حدیث ۵۵۸

(۳) مستدام احمد بن حنبل جلد اول ص ۲۱۹ مرویات ابن عباس رضی اللہ عنہما

(۴) سنن ابی داؤد جلد اول ص ۲۶ کتاب الناسک

(۵) مشکوٰۃ المصابیح ص ۱۵۵ کتاب الدعوات

سقیدی دکھائی دیتی اور آپ انگلی سے اشارہ نہیں کرتے تھے (۱)۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی کے پاس سے گزرے جو دعائیں مانگتے
ہوئے اپنی شہادت کی دونوں انگلیوں سے اشارہ کر رہا تھا آپ نے فرمایا ایک سے کرو ایک سے کرو، (۲)
یعنی ایک پر اکتفا کرو۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان ہاتھوں کو اٹھاؤ اس سے پہلے کہ نہیں زنجیروں
میں جکڑا جائے۔

دعا کے آخر میں ہاتھوں کو چہرے پر پھیرنا چاہیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ
وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے تو جب تک چہرے پر نہ پھیرتے واپس نہیں لاتے تھے (۳)۔
حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک طریقہ تھا کہ جب دعائیں مانگتے تو ہاتھوں کو ملاتے
تھے اور ان کے اندر والے حصے کو اپنے چہرے کی طرف کرتے تھے (۴)۔ تو ہاتھ اٹھانے کا یہ طریقہ ہے نیز آسمان کی طرف
نگاہ نہیں اٹھانی چاہیے۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

لوگوں کو دعا کے وقت آسمان کی طرف نگاہ اٹھانے سے باز رہنا چاہیے ورنہ ان کی آنکھیں اچھلی جائیں گی۔ (۵)
۴۔ آواز سست ہو لیکن نہ تو بالکل خاموشی ہو اور نہ ہی بلند آواز سے دعائیں مانگے۔ ایک روایت میں ہے حضرت ابو موسیٰ
اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ مدینہ طیبہ آئے جب ہم مدینہ طیبہ کے قریب پہنچے
تو آپ نے "اللہ اکبر" کہا لوگوں نے بھی تکبیر کہی اور اپنی آوازوں کو بلند کیا آپ نے فرمایا۔
اے لوگو! تم جسے پکار رہے ہو وہ بےزور اور غائب نہیں جسے تم پکار رہے ہو وہ تمہارے اور تمہاری سواروں کی گردنوں
کے درمیان ہے (۶) (یعنی تمہارے بہت قریب ہے)۔

ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد گرامی کے بارے میں فرماتی ہیں کہ یہاں دعا مراد ہے۔

(۱) مسند امام احمد بن حنبل جلد ۳ ص ۱۸۱ مرویات انس بن مالک رضی اللہ عنہ

(۲) مسند امام احمد بن حنبل جلد ۲ ص ۲۰ مرویات ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ

(۳) الغل المتناہیہ جلد ۲ ص ۳۵۶ حدیث ۱۴۰۶

(۴) المستدرک للحاکم جلد اول ص ۵۳۶ کتاب الدعاء

(۵) صحیح مسلم جلد اول ص ۴۰ کتاب الاذان

(۶) السنن الکبریٰ للبیہقی جلد ۲ ص ۱۸ کتاب الصلوٰۃ

ارشاد خداوندی یہ ہے۔

اور اپنی دعائیں آواز کو بلند بھی نہ کرو اور بالکل آہستہ بھی نہ ہو۔

وَلَا تَجْهَرُ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتُ
بِهَا - (۱)

اسی بات پر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت زکریا علیہ السلام کی تعریف فرمائی ارشاد خداوندی ہے۔

جب اس نے اپنے رب کو آہستہ آواز کے ساتھ پکارا۔

إِذْ نَادَى رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا (۲)

اور ارشاد خداوندی ہے۔

اپنے رب کو گڑ گڑاتے ہوئے اور آہستہ پکارو۔

ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً (۳)

۵۔ دعائیں قافیے نہ ملائے کیوں کہ دعا مانگنے والے کی حالت گڑ گڑانے والے کی حالت ہونی چاہیے اور یہاں تکلف مناسب نہیں۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

عقرب کچھ لوگ ہوں گے جو دعائیں حد سے تجاوز کریں گے۔

سَيَكُونُ قَوْمٌ يَعْتَدُونَ فِي الدُّعَاءِ (۴)

اور ارشاد خداوندی ہے:

اپنے رب کو گڑ گڑاتے ہوئے اور آہستہ پکارو بے شک

ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يَرْضَى
الْمُعْتَدِينَ - (۵)

وہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔

کہا گیا ہے کہ اس (حد سے بڑھنے) سے مراد سب اور قافیے ملانے کے لیے تکلف کرنا ہے۔ اور زیادہ مناسب

یہ ہے کہ حدیث شریف سے ثابت دعاؤں سے تجاوز نہ کرے کیونکہ بعض اوقات وہ دعائیں حد سے بڑھ جاتا ہے اور اس (اللہ تعالیٰ) سے وہ کچھ مانگتا ہے جو اس کی مصلحت کے تقاضے کے خلاف ہے کیونکہ ہر آدمی اچھی طرح دعا نہیں مانگ سکتا۔

اسی لیے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ «جنت میں علماء کی ضرورت ہوگی کیونکہ جنتیوں سے کہا جائے گا

(۱) قرآن مجید، سورہ اسراء آیت ۱۱۰

(۲) قرآن مجید، سورہ مریم آیت ۳

(۳) قرآن مجید، سورہ اعراف آیت ۵

(۴) سنن ابی داؤد جلد اول ص ۸۰، کتاب الصلوٰۃ

(۵) قرآن مجید، سورہ اعراف آیت ۵۵

کر اور انہیں معلوم نہیں ہوگا کہ کیسے تمنا کریں یہاں تک کہ وہ علماء سے سیکھ لیں۔
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

دعا میں سب سے بچو تم میں سے کسی ایک کے لیے اتنا کہنا ہی کافی ہے۔

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ وَمَا قَرَّبَ
إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ وَعَمَلٍ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ
النَّارِ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ وَ

یا اللہ میں تجھ سے جنت کا اور اس قول و عمل کا سوال
کرتا ہوں جو جنت کے قریب کر دے اور یا اللہ میں جہنم
اور اس کے قریب کرنے والے قول و عمل میں تیری پناہ
چاہتا ہوں۔

عَمَلٍ - (۱)

ایک حدیث شریف میں ہے کہ عنقریب ایسے لوگ آئیں گے جو دعا اور طہارت میں حد سے تجاوز کریں گے۔
ایک بزرگ ایک قصہ گو و واعظ کے پاس سے گزرے جو قافیے لگا کر دعا مانگ رہا تھا انہوں نے فرمایا "اللہ تعالیٰ
کے سامنے مبالغہ سے کام لیتا ہے؛ گواہ رہو میں نے حضرت عبید بن جراح رضی اللہ عنہ کو دیکھا وہ اپنی دعا میں اس پر اضافہ نہیں
کرتے تھے۔"

اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا جَيِّدِينَ اللَّهُمَّ لَا تَفْضَحْنَا
يَوْمَ الْقِيَامَةِ اللَّهُمَّ وَقِّنَا لِخَيْرٍ۔

اے اللہ! ہمیں کھرے لوگ بنا دے یا اللہ ہمیں قیامت
کے دن رسوا نہ کرنا یا اللہ ہمیں بھلائی کی توفیق عطا فرما۔

اور لوگ ہر طرف سے ان کے پیچھے دعا مانگتے اور ان کی دعا کی برکت معروف تھی۔ بعض بزرگوں نے فرمایا ذلت اور
محتاجی کی زبان سے دعا مانگو فصاحت اور زبان کی تیزی کے ساتھ دعا نہ مانگو۔

کہا جاتا ہے کہ علماء اور ابدال اپنی دعا میں سات کلمات یا اس سے کم پر اضافہ نہیں کرتے تھے اور اس بات پر
سورہ بقرہ کا آخری حصہ گواہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے کسی جگہ بھی اپنے بندوں کی دعا اس سے زیادہ نہیں بتائی۔
سب سے مراد کلام میں تکلف کرنا ہے اور یہ انکساری اور فروتنی کے مناسب نہیں۔ ورتہ حضور علیہ السلام سے
جو دعائیں منقول ہیں ان میں ہم وزن کلمات ہیں لیکن ان میں تکلف اختیار نہیں کیا گیا جیسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے
یہ الفاظ مبارکہ ہیں۔

اے اللہ! میں تجھ عذاب کے دن امن کا اور مشکلی کے
دن مقربین، شاہدین، رکوع اور سجدہ کرنے والوں اور
وعدوں کو پورا کرنے والوں کی رفاقت میں جنت کا سوال

أَسْأَلُكَ الْوَعْدَ الْوَعِيدَ، وَالْجَنَّةَ يَوْمَ
الْخُلُودِ مَعَ الْمُقَرَّبِينَ الشُّهُودِ وَالرُّكُوعِ
السُّجُودِ الْمُؤْمِنِينَ بِالشُّهُودِ إِنَّكَ رَحِيمٌ

وَدُّدٌ وَإِنَّكَ تَفْعَلُ مَا تَرِيدُ -

کرتا ہوں بے شک تو رحمت والا ہے اور محبت کرنے والا
بے شک تو جو چاہتا ہے کرتا ہے۔

(۱)

اور اس کی مثل کئی دعائیں ہیں۔ تو حدیث سے ثابت دعاؤں پر اکتفا کرے یا کسی تکلف اور سبح کے بغیر انکساری اور خشوع کے ساتھ دعا مانگے کیونکہ اللہ تعالیٰ کو انکساری ہی پسند ہے۔

۴۔ انکساری، خشوع، رغبت اور خوف ہونا چاہیے۔ ارشاد خداوندی ہے۔

اور وہ نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھتے ہیں اور
ہمیں امید اور خوف کے ساتھ پکارتے ہیں۔

إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ
وَيَدْعُونََنَا رَغَبًا وَرَهَبًا - (۲)

اور ارشاد باری تعالیٰ ہے:

اپنے رب کو گڑگڑاتے ہوئے اور آہستہ پکارو۔

ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً - (۳)

جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اسے
آزمانش میں ڈال دیتا ہے تاکہ اس کے گڑگڑانے
کو سنے۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
إِذَا حَبَّبَ اللَّهُ عَبْدًا ابْتِلَاؤًا حَتَّى يَسْمَعَ
تَضَرُّعَهُ - (۴)

مضبوط عقیدے کے ساتھ دعا مانگے اور قبولیت کا یقین رکھے۔

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

جب تم میں سے کوئی دعا مانگے تو یہ نہ کہے یا اللہ! اگر تو چاہے تو مجھے بخش دے یا اللہ! اگر تو چاہے تو مجھ پر رحم فرما
اسے چاہیے کہ یقین کے ساتھ سوال کرے کیونکہ اللہ تعالیٰ پر کوئی زیر دستی کرنے والا نہیں۔ (۵)

اور آپ نے ارشاد فرمایا:

جب تم میں سے کوئی ایک دعا مانگے تو بہت زیادہ رغبت کا اظہار کرے کیوں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی

(۱) جامع ترمذی ص ۳۹۲ ابوالدعوات

(۲) قرآن مجید، سورہ انبیاء آیت ۹۰

(۳) قرآن مجید سورہ اعراف آیت ۵۵

(۴) الفردوس بماثور الخطاب جلد اول ۲۵۱ حدیث ۹۷۲

(۵) مصنف ابن ابی شیبہ بند ۱۰ ص ۱۹۹ کتاب الدعوات

بزرگی نہیں (۱)

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

اللہ تعالیٰ سے قبولیت کے یقین کے ساتھ دعا مانگو اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ غافل دل کی دعا قبول نہیں کرتا۔ (۲)

حضرت سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔

تم اپنے نفس کی جس غرائی کو جانتے ہو اس کی وجہ سے دعا سے باز نہ رہو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق میں سے بدترین یعنی

شیطان کی دعا بھی قبول کی ہے جب اس نے کہا۔

رَبِّ فَانظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ قَالَ

إِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ (۳)

اے میرے رب! مجھے اس دن تک مہلت دے جب

لوگ اٹھائے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک

تجھے مہلت دی گئی۔

۱- دعا میں مبالغہ کرنا یعنی ایک بات کو تین بار دہرائے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی

اللہ علیہ وسلم جب دعا مانگتے تو تین بار دہراتے اور جب سوال کرتے تو تین بار کرتے۔ (۴)

دعا کی قبولیت میں تاخیر نہ سمجھے کیونکہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

تم میں سے ایک کی (یعنی سب کی) دعا قبول ہوتی ہے جب تک جلدی کرتے ہوئے یوں نہ کہے کہ میں نے دعا مانگی لیکن

قبول نہ ہوئی جب دعا مانگو تو اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ سوال کرو کیوں کہ تم کریم ذات کو پکار رہے ہو۔ (۵)

ایک بزرگ فرماتے ہیں بیس سال سے بارگاہِ خداوندی میں حاجت کا سوال کر رہا ہوں اور مجھے اس کا جواب

نہیں ملا لیکن میں قبولیت کی امید رکھتا ہوں۔ میں نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ وہ مجھے غیر ضروری کام پھوڑنے کی توفیق

عطا فرمائے۔

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

جب تم میں سے کوئی اپنے رب سے سوال کرے تو قبولیت کا علم ہونے پر یوں کہے۔

(۱) کنز العمال جلد ۲ ص ۱۴۸ حدیث ۲۲۵۰

(۲) کنز العمال جلد ۲ ص ۲۲ حدیث ۳۱۷۶

(۳) قرآن مجید سورہ حجر آیت ۳۶، ۳۷

(۴) حلیۃ الاولیاء جلد ۴ ص ۱۵۳ ترجمہ ۲۵

(۵) الترغیب والترہیب جلد ۲ ص ۹۰ کتاب الذکر

تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس کی نعمت سے نیکیاں
مکمل ہوتی ہیں۔

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي بِنِعْمَتِهِ تَتِمُّ
الصَّالِحَاتُ -

اور جسے دعا کی قبولیت میں تاخیر معلوم ہو تو وہ یوں کہے۔

الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ - (۱)

سہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ہے۔

۹۔ دعا سے پہلے اللہ تعالیٰ کا ذکر کر کے سوال کے ساتھ ابتدا نہ کرے حضرت مسلمہ بنی اکوع رضی اللہ عنہا فرماتے ہیں میں
نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی دعا شروع کرتے سنا تو آپ شروع میں یوں کہتے۔

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَلِيِّ الْوَعَلِيِّ الْوَهَّابِ - (۲)

میرا رب بلند، اعلیٰ اور عطا کرنے والا پاک ہے۔

حضرت ابوسلیمان دارانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں جو شخص اللہ تعالیٰ سے کسی حاجت کا سوال کرنا چاہیے وہ شروع میں
درود شریف پڑھے پھر اپنی حاجت کا سوال کرے اور آخر میں بھی درود شریف پڑھے بے شک اللہ تعالیٰ دونوں درود
شریف کو قبول کرتا ہے اور وہ دونوں کے درمیان والی دعا کو چھوڑنے سے بزرگ ہے (یعنی قبول کرے گا)

ایک روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے آپ نے فرمایا:

جب تم اللہ تعالیٰ سے کسی حاجت کا سوال کرو تو شروع میں مجھ پر درود شریف پڑھو بے شک اللہ تعالیٰ اس بات
سے بزرگ ہے کہ اس سے دو حاجتوں کا سوال کیا جائے تو وہ ان میں سے ایک کو پورا کرے اور دوسری کو رد کرے (۳)
اسے ابو طالب مکی نے روایت کیا۔

۱۰۔ یہ باطنی ادب ہے اور قبولیت میں یہ اصل ہے یعنی توبہ کرنا اور لوگوں کے حقوق لوٹا کر پوری ہمت کے ساتھ اللہ تعالیٰ
کی طرف متوجہ ہونا۔ قبولیت دعا کا یہ سبب قریب ہے۔ حضرت کعب اخبار رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں حضرت
موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں لوگ سخت قحط میں مبتلا ہوئے اور حضرت موسیٰ علیہ بنی اسرائیل کو لے کر بارش کے لیے
دعا مانگتے کی خاطر نکلے تو انہیں بارش عطا نہ ہوئی یہاں تک کہ تین قرنہ نکلے لیکن بارش نہ ہوئی اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ
علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ میں تمہاری اور تمہارے ساتھیوں کی دعا قبول نہیں کروں گا کیوں کہ آپ کے ساتھ چغلی خور
ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اے میرے رب! وہ کون ہے؟ تاکہ ہم اسے اپنے درمیان سے نکال دیں
اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی اے موسیٰ علیہ السلام میں تم لوگوں کو چغلی سے منع کرتا ہوں تو کیا خود

(۱) المستدرک للحاکم جلد اول ص ۴۹۹ کتاب الدعاء

(۲) المستدرک للحاکم جلد اول ص ۴۹۸ کتاب الدعاء

(۳) المستدرک للحاکم جلد اول ص ۲۳۱ کتاب الصلوة

جعل خور بن جاؤں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے فرمایا تم سب جعل خوری سے توبہ کرو جب انہوں نے توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر بارش نازل فرمائی۔

حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بنی اسرائیل کے ایک بادشاہ کے زمانے میں لوگ قحط میں مبتلا ہوئے تو انہوں نے بارش کے لیے دعا کی بادشاہ نے بنی اسرائیل سے کہا یا تو اللہ تعالیٰ ہم پر بارش برسائے گا یا ہم اسے تکلیف پہنچائیں گے اس سے کہا گیا کہ تم اسے اذیت پہنچانے پر کیسے قادر ہو گئے جب کہ وہ آسمان میں ہے اس نے کہا میں اس کے دوستوں اور فرمانبردار لوگوں کو قتل کروں گا تو یہ اس کے لیے اذیت ہوگی چنانچہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بارش عطا فرمائی۔

حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ بنی اسرائیل سات سال قحط میں مبتلا رہے حتیٰ کہ انہوں نے کوڑے کے ڈھیروں سے مردار کھائے اور بچوں کو بھی کھایا وہ اسی حالت میں پہاڑوں کی طرف جاتے روتے اور اور گڑ گڑاتے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے انبیاء کرام علیہم السلام کی طرف وحی بھیجی کہ اگر تم پیدل چل کر میرے پاس آؤ حتیٰ کہ تمہارے گھٹنے گھس جائیں، تمہارے ہاتھ آسمان تک جا پہنچیں اور دعا کرتے کرتے تمہاری زبانیں تھک جائیں تو میں تم سے کسی دعا مانگنے والے کی دعا کو قبول نہیں کروں گا اور نہ کسی رونے والے پر ترس کھاؤں گا۔ یہاں تک کہ تم، لوگوں کے لوٹے ہوئے مال واپس کر دو چنانچہ انہوں نے ایسا کیا تو اسی دن ان پر بارش برسائی گئی۔

حضرت مالک بن دینار رحمہ اللہ فرماتے ہیں بنی اسرائیل پر قحط پڑ گیا وہ کئی مرتبہ باہر نکلے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے نبی علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ آپ انہیں بتائیں کہ تم اپنے ناپاک جسم کے ساتھ نکلے ہو اور میری طرف وہ ہتھیلیاں بلند کرتے ہو جن کے ساتھ تم نے خون بہایا اور تم نے اپنے پیٹوں کو حرام سے بھرا اب مجھے تم پر سخت غصہ ہے اور تم مجھ سے زیادہ دور ہو گے۔

حضرت ابو الصدیق النجاشی فرماتے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام بارش کے لیے دعا مانگنے کی خاطر نکلے تو آپ ایک چبوتی کے پاس سے گزرے جو پیٹھ کے بل ڈالی گئی تھی اس کی ٹانگیں آسمان کی طرف تھیں وہ کہہ رہی تھی۔

یا اللہ! میں تیری مخلوق میں سے ایک مخلوق ہوں اور میں تیرے رزق سے بے نیاز نہیں ہوں پس تو مجھے دوسروں کے گناہ کے سبب ہلاک نہ کرنا یہ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا واپس لوٹ جاؤ دوسروں کی دعا کے سبب تمہیں بارش ملے گی۔

حضرت اوزاعی فرماتے ہیں لوگ بارش کے لیے دعا مانگنے نکلے تو ان کے درمیان حضرت بلال بن سعید کھڑے ہوئے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی اور پھر فرمایا حاضرین کی جماعت اکیا تم اپنی کوتاہی کا اقرار نہیں کرتے انہوں نے کہا ہاں اقرار کرتے ہیں، انہوں نے بارگاہ خداوندی میں عرض کیا یا اللہ! ہم تیرے قول سنا۔

مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ - (۱)

نیکی کرنے والوں پر کوئی مواخذہ نہیں۔

اور ہم نے گناہوں کا اقرار کیا اور تیری معفرت ہمارے جیسے لوگوں کے لیے ہی ہے۔

لہذا تو ہمیں بخش دے ہم پر رحم فرما، ہمیں بارش عطا فرما۔ انہوں نے ہاتھ اٹھائے تو باقی لوگوں نے بھی ہاتھ اٹھائے اور بارش برسنے لگی۔

حضرت مالک بن دینار رحمہ اللہ سے کہا گیا کہ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا مانگیں انہوں نے فرمایا تم بارش میں دیر سمجھتے ہو میں پتھروں (کے برسنے) میں دیر سمجھتا ہوں (یعنی ہمارے گناہ اس قابل ہیں کہ پتھر نازل ہوں)

ایک روایت میں ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام طلب بارش کے لیے باہر نکلے جب وہ بے چین ہوئے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا تم میں سے جس نے گناہ کیا ہے وہ واپس چلا جائے چنانچہ وہ واپس چلے گئے اور آپ کے ساتھ جنگل میں صرف ایک آدمی باقی رہ گیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا کیا تم نے کوئی گناہ نہیں کیا؟ اس نے کہا اللہ کی قسم مجھے کچھ معلوم نہیں البتہ ایک دن میں نماز پڑھ رہا تھا تو میرے پاس سے ایک عورت گزری میں نے اسے اپنی آنکھ کے ساتھ دیکھا جب وہ چلی گئی تو میں نے انگلی ڈال کر آنکھ نکال دی اور اس کے پیچھے پھینک دی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے فرمایا تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ میں تیری دعا پر آمین کہوں گا فرماتے ہیں جب اس نے دعا مانگی تو آسمان پر بادل چھا گئے پھر ان پر بارش برسنے لگی۔

حضرت یحییٰ عسائی رحمہ اللہ فرماتے ہیں حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں لوگ قحط میں مبتلا ہوئے تو آپ نے تین علماء کا انتخاب کیا اور ان کو لے کر باہر تشریف لے گئے تاکہ ان کے واسطے سے بارش طلب کریں ان میں سے ایک نے کہا یا اللہ! تو نے اپنی تورات میں نازل فرمایا کہ جو آدمی ہم پر ظلم کرے ہم اسے معاف کر دیں تو ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے تو ہمیں معاف کرنے سے دوسرے نے کہا یا اللہ! تو نے اپنی تورات میں نازل فرمایا کہ ہم اپنے غلاموں کو آزاد کر دیں یا اللہ! ہم تیرے غلام ہیں تو ہمیں آزاد کر دے تیسرے نے کہا یا اللہ! تو نے اپنی تورات میں نازل فرمایا کہ جب مسکین ہمارے دروازے پر آئیں تو تم ہم ان کو روکنے نہ کریں یا اللہ! بے شک ہم تیرے مسکین (بندے) ہیں اور تیرے دروازے پر کھڑے ہیں تو ہماری دعا کو روکنے نہ کرنا، چنانچہ ان پر بارش نازل ہوئی حضرت عطاء سلمیٰ رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہم پر بارش بند ہو گئی تو ہم طلب باران کے لیے باہر نکلے تو دیکھا کہ سعدون (نامی) مجنون قبرستان میں ہیں انہوں نے مجھے دیکھ کر فرمایا اے عطاء! کیا یہ قیامت کا دن ہے یا لوگ قبروں سے نکل پڑے ہیں؟ میں نے کہا نہیں بلکہ بارش بند ہو گئی ہے اور دعا کے لئے آئے ہیں۔

انہوں نے کہا اے عطاء! زمینی دلوں کے ساتھ یا آسمانی دلوں کے ساتھ؟ میں نے کہا نہیں، بلکہ آسمانی دلوں کے ساتھ، انہوں نے کہا اے عطاء! ہرگز نہیں بھوٹے سبکے چلانے والوں سے کہہ دو کہ کھوٹے سکے نہ چلائیں پر کھنے والا دیکھنے والا ہے پھر آنکھ کے کنارے سے آسمان کی طرف دیکھا اور عرض کیا اے میرے معبود! میرے آقا و مولا! اپنے بندوں کے گناہوں کے سبب اپنے شہروں کو تباہ نہ کر بلکہ اپنے ناموں کے پوشیدہ راز اور ان پردوں کے چھپے چھپی اپنی نعمتوں کے توسل ہمیں میٹھا پانی عطا فرما جس کے ذریعے تو بندوں کو زندہ رکھے اور شہروں کو سیراب کرے اے اللہ! جو ہر چیز پر قادر ہے حضرت عطاء فرماتے ہیں اب ان کا کلام مکمل نہ ہوا تھا کہ آسمان میں گرج پیدا ہوئی بجلی چمکی اور اس طرح بارش برسنے لگی جس طرح ٹشکیروں کے منہ کھل گئے ہیں۔ چنانچہ وہ یہ کہتے ہوئے واپس ہو گئے۔

”زادہ اور عابد لوگوں کے لیے فلاح ہے کیونکہ وہ اپنے مولا کے لیے فاقہ مست ہیں اپنے محبوب کی محبت میں ان کی بیماریاں نکلیں رات بھر جاگتی ہیں انہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت نے مشغول کر رکھا ہے حتیٰ کہ لوگ سمجھتے ہیں یہ پاگل ہیں“

حضرت ابن مبارک رحمہ اللہ نے فرمایا۔

میں مدینہ طیبہ میں آیا تو اہل وقت وہاں سخت قحط تھا لوگ طلب باران کے لیے باہر نکلے میں بھی ان کے ہمراہ گیا کہ آگے سے ایک سیاہ قام غلام آیا جس پر موٹے کپڑے کی دو چادریں تھیں ایک کو تہ بند بنایا ہوا تھا اور دوسری کو اپنے کانڈھے پر ڈال رکھا تھا وہ میرے پلو میں بیٹھ گیا میں نے سنا وہ کہہ رہا تھا یا اللہ گناہوں کی کثرت اور برے اعمال نے تیرے حضور ان چہروں کو رسوا کر دیا تو نے اس لیے بارش برو کی ہے کہ تو اس کے ذریعے اپنے بندوں کو ادب سکھائے تو اے حلیم (بردر بار) اور اے وہ ذات کہ بندے تجھ سے صرف حسن سلوک کو ہی پہچانتے ہیں۔ انہیں اسی وقت بارش عطا فرما وہ یہی کہتے رہے اسی گھڑی اسی، ساعت، حتیٰ کہ آسمان بادلوں سے بھر گیا اور ہر طرف سے بارش آنے لگی حضرت ابن مبارک رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں حضرت فضیل رحمہ اللہ کے پاس آیا انہوں نے پوچھا کیا بات ہے میں آپ کو اداس دیکھ رہا ہوں میں نے کہا ایک ایسا معاملہ ہے جس پر ہمارے خیر نے سبقت کر لی اور وہ اس کا قبیل ہو گیا میں نے پورا واقعہ بیان کر دیا حضرت فضیل نے پیچ ماری اور پہوش ہو کر گر پڑے۔

روایت میں ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے توسل سے بارش کی دعا مانگی جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ دعا سے فارغ ہوئے تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے یوں دعا کی۔

اے اللہ! آسمان سے مصائب گناہ کی وجہ سے نازل ہوئے ہیں اور توبہ سے دور ہو جاتے ہیں یہ قوم میرے وسیلے سے تیری طرف متوجہ ہوئی ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت کی وجہ سے میرا ایک مقام ہے ہمارے گناہ بھروسے ہاتھ تیری بارگاہ میں اٹھے ہیں اور ہماری پشائیاں توبہ کے ساتھ حاضر ہیں تو تو سزا ان سے بھٹکے ہوؤں سے بے خبر نہیں رہتا شکستہ حال کو ضائع ہونے کی جگہ نہیں چھوڑنا۔ چھوٹے فریاد کرتے ہیں اور بڑے روتے ہیں دھائی کے ساتھ آوازیں بلند

ہو گئیں اور تو نہایت پوشیدہ بات کو بھی جانتا ہے یا اللہ! ہمیں اپنی خصوصی بارش سے نواز دے اس سے پہلے کہ
نا ابد ہو کر ہلاک ہو جائیں کیوں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کافر ہی مایوس ہوتے ہیں راوی کہتے ہیں آپ کا کلام پورا ہو
ہی پہاڑوں کی مثل بادل اٹھنے لگے۔

سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور آپ پر درود شریف بھیجنے کی فضیلت

ارشادِ خداوندی ہے :-

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا
تَسْلِيمًا (۱)

بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتہ نبی کریم صلی اللہ
علیہ وسلم پر درود شریف بھیجتے ہیں اسے ایمان والو! تم
تم بھی آپ پر درود شریف اور خوب سلام بھیجو۔

ایک روایت میں ہے کہ ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ کے چہرہ انور پر خوشی کے آثار دکھا
دے رہے تھے آپ نے فرمایا میرے پاس حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور انہوں نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم
کیا آپ اس بات پر راضی نہیں کہ آپ کی امت میں سے جو شخص آپ پر ایک بار درود شریف بھیجے میں اس پر دس بار
رحمت نازل کروں اور آپ کا کوئی امتی آپ کی بارگاہ میں ایک بار سلام پیش کرے تو میں اس کو دس بار سلامتی عطا کروں
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :-

جو شخص مجھ پر درود شریف بھیجتا ہے تو جب تک وہ درود شریف بھیجتا رہتا ہے فرشتے اس کے لیے دعائے
رحمت کرتے ہیں اب اس کی مرضی کم کرے یا زیادہ (۲)

سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا :-
إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِى يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَكْثَرُهُمْ
عَلَى صَلَاةٍ - (۳)

بے شک قیامت کے دن مجھ سے زیادہ قریب وہی شخص
ہے جو مجھ پر درود شریف زیادہ بھیجتا ہے

اور آپ نے ارشاد فرمایا :-

(۱) قرآن مجید، سورہ احزاب آیت ۵۶

(۲) مسند امام احمد بن حنبل جلد ۴ ص ۳۰ روایت ظلم عن ابیہ رضی اللہ عنہما۔

(۳) شرح السننہ جلد ۳ ص ۱۹۸ حدیث ۶۸۸

(۴) جامع الترمذی جلد ۱ ص ۶۲ (الباب الوتر)

کسی مومن کے سخیل ہونے کے لیے اتنی بات ہی کافی ہے
کہ اس کے سامنے میرا ذکر ہوا اور وہ مجھ پر درود شریف
نہ پڑھے۔

بِحَسْبِ الْمُؤْمِنِينَ مِنَ الْبُخْلِ أَنْ أذْكَرَ
عِنْدَهُ فَلَهُ يُصَلِّيَ عَلَيَّ -
(۱)

جمعہ کے دن مجھ پر زیادہ درود شریف بھیجا کرو۔

آپ نے ارشاد فرمایا:
أَكْثَرُوا مِنَ الصَّلَاةِ عَلَيَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ - (۲)

میرا جو امتی مجھ پر ایک بار درود شریف پڑھے اس کے
لیے دس نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور اس کے دس گناہ مٹائے
جاتے ہیں۔

سَرَّكَ رُؤْيَا عَالَمٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفَرًا يَأْتِي
مَنْ صَلَّى عَلَيَّ مِنْ أُمَّتِي كُنْتُ لَهُ عَشْرًا
حَسَنَاتٍ وَكُنْتُ عَنْهُ عَشْرًا
سَيِّئَاتٍ (۳)

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اذان اور اقامت سنتے وقت یہ کلمات پڑھے اس کے لیے میری شفاعت
جائز ہوگی۔

اے اللہ! اس مکمل دعا اور کھڑی ہونے والی نماز کے رب
حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے دن
فضیلت، بلند مرتبہ اور شفاعت عطا کرنا۔ (۴)

اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلَاةِ
الْقَائِمَةِ آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيكَ وَالْفَضِيلَةَ
وَالدَّرَجَةَ الرَّفِيعَةَ وَالشَّفَاعَةَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ -

جو شخص مجھ پر تحریراً درود شریف بھیجے تو جب تک اس
کتاب میں میرا نام رہے کافر شتے مسلسل اس شخص کے
لیے بخشش مانگتے رہیں گے

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
مَنْ صَلَّى عَلَيَّ فِي كِتَابٍ لَمْ تَنْزِلِ الْمَلَائِكَةُ
يَسْتَعْفِرُونَ لَكَ مَا دَامَ اسْمِي فِي ذَلِكَ
الْكِتَابِ (۵)

آپ نے ارشاد فرمایا:

(۱) مجمع الزوائد جلد ۱۰ ص ۱۶۵ کتاب الادب

(۲) السنن الكبرى للبیهقی جلد ۳ ص ۲۴۹ کتاب الجمعة

(۳) الترغيب والترهيب جلد ۲ ص ۲۹۶ کتاب الذکر

(۴) مجمع بخاری جلد ۲ ص ۶۸۶ کتاب التفسیر

(۵) الترغيب والترهيب جلد اول ص ۱۱۱ خلفاء الرسول

بے شک زمین میں کچھ فرشتے چلتے پھرتے ہیں جو میری امت کی طرف سے مجھے سلام پہنچاتے ہیں۔

إِنَّ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةً سَيِّئَاتٍ
يَبْلُغُونَكَ عَنْ أُمتِي السَّلَامَ (۱)

جو شخص بھی مجھ پر سلام بھیجے تو اللہ تعالیٰ میری روح کو مجھ پر لوٹا دیتا ہے حتیٰ کہ میں اسی کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
لَيْسَ أَحَدٌ يُسَلِّمُ عَلَيَّ إِلَّا أَرَدَ اللَّهُ عَلَيَّ
رُوحِي حَتَّىٰ أَرُدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ۔

(۲)

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ! ہم آپ پر کس طرح درود شریف پڑھیں آپ نے فرمایا یوں پڑھو
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيَّ مُحَمَّدٍ وَعَلَيَّ
أَلِيَّ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّتِهِمْ كَمَا صَلَّيْتَ
عَلَيَّ إِبْرَاهِيمَ وَأَلِيَّ إِبْرَاهِيمَ وَبَارَكْ
عَلَيَّ مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّتِهِمْ كَمَا
بَارَكْتَ عَلَيَّ إِبْرَاهِيمَ وَأَلِيَّ إِبْرَاهِيمَ
إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ۔

اے اللہ! حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو تیرے بندے ہیں رحمت نازل فرمایا اور آپ کی آل، ازواج مطہرات اور اولاد پر بھی۔ جیسا کہ تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پر رحمت نازل فرمائی اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ازواج اور اولاد پر بکت نازل فرما جیسا کہ تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل کو بکت عطا فرمائی بے شک تو لائق حمد اور بزرگی والا ہے۔

(۳)

ایک روایت میں ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے سنا گیا وہ روتے ہوئے کہہ رہے تھے یا رسول اللہ! میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں آپ کھجور کے ایک تنے کے سہارے صحابہ کرام کو خطبہ دیا کرتے تھے جب لوگ زیادہ سو گئے تو آپ نے منبر بنوا لیا تاکہ وہ آپ کا خطبہ سن سکیں چنانچہ آپ کے فراق میں اس تنے نے رونا شروع کر دیا حتیٰ کہ آپ نے اپنا دست مبارک اس پر رکھا تو وہ خاموش ہو گیا (یا رسول اللہ!) اس تنے کی نسبت آپ کی امت کا زیادہ حق ہے کہ وہ آپ کے فراق میں روتے یا رسول اللہ! میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں بارگاہِ خداوندی میں آپ کا مقام و مرتبہ اتنا بلند ہے کہ اس نے آپ کی فرمانبرداری کو اپنی اطاعت قرار دیا اور فرمایا۔

(۱)

(۲) سنن ابی داؤد جلد اول ص ۹، باب زیارة القبور۔

(۳) مسلم شریف جلد اول ص ۵، باب الصلوة علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔

مَنْ يَطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اطَّاعَ
اللَّهَ! (۱)

جو شخص رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کرے حقیقت
میں اسی نے اللہ تعالیٰ کا حکم مانا۔

یا رسول اللہ! میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں آپ کی فضیلت کا یہ عالم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی لغزش کے ذکر
سے پہلے آپ کے لیے عفو و درگزر کا ذکر فرمایا۔

ارشاد خداوندی ہے:

عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنَتْ لِهَذَا (۲)

اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کرے آپ نے ان کو کیوں اجاز دی۔

یا رسول اللہ! میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ کی فضیلت کا مرتبہ یہ ہے کہ اس نے آپ
کو سب سے آخر میں بھیجا لیکن ان سب سے پہلے ذکر فرمایا۔

ارشاد فرمایا:

وَإِذَا خَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ

اور جب ہم نے انبیاء کرام سے وعدہ لیا اور آپ سے

اور حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام

سے وعدہ لیا۔

(۳)

یا رسول اللہ! میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ کی فضیلت کا مقام یہ ہے کہ اہل جہنم، مختلف
طبقات جہنم میں عذاب میں مبتلا ہوں گے اور وہ اس بات پر افسوس کا اظہار کریں گے کہ انہوں نے آپ کی اطاعت کیوں نہیں کی

ارشاد خداوندی ہے:

يَقُولُونَ يَا لَيْتَنَا اطَّعْنَا اللَّهَ

وہ کہیں گے ہائے افسوس ہم نے اللہ تعالیٰ اور اس کے

رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی ہوتی۔

وَرَسُولَهُ - (۴)

یا رسول اللہ! آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں حضرت موسیٰ بن عمران علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک پتھر دیا جس سے
نہر میں چھوٹیں لیکن اس سے زیادہ تعجب خیز بات یہ ہے کہ آپ کی مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہوئے۔

یا رسول اللہ! میرے ماں باپ پر فدا ہوں اگر حضرت سلیمان بن داؤد علیہما السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ قوت عطا کی کہ جو

(۱) قرآن مجید، سورہ نساء، آیت ۸۱

(۲) قرآن مجید، سورہ توبہ، آیت ۲۲

(۳) قرآن مجید، سورہ احزاب، آیت ۷

(۴) قرآن مجید، سورہ احزاب، آیت ۶۶

آپ کو لے کر ایک مہینہ کی مسافت صبح اور ایک مہینے کی مسافت شام کو چلتی تو براق کا معاملہ اس سے تعجب خیز ہے کہ وہ آپ کو لے کر ساتویں آسمان تک گیا پھر آپ نے صبح کی غار وادی ابطح میں ادا فرمائی۔ یا رسول اللہ! صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مردے زندہ کرنے کا معجزہ عطا فرمایا تو اس سے تعجب خیز بات یہ ہے کہ بکری کے بھنے ہوئے گوشت میں زہر ملا یا گیا تھا تو اس نے کلام کیا اور بکری کے شانے نے کہا مجھے نہ کھائیے مجھ میں زہر ملا یا گیا ہے۔

یا رسول اللہ! میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے خلاف بددعا کی۔

اور فرمایا:

رَبِّ لَا تَزِرْ عَلَى الْاَرْضِ مِنَ الْكُفْرِ رِيًّا
دِيَارًا - (۱)

اے میرے رب! زمین پر کافروں کے کسی گھر کو باقی نہ چھوڑنا۔

اور اگر آپ ہمارے بارے میں ایسی دعا کرتے تو ہم سب ہلاک ہو جائے آپ کی پیٹھ مبارک کو روند گیا، چہرہ مقدسہ کو خون آلودہ کیا گیا، دانت مبارک شہید کئے گئے تو آپ نے بھلائی کے کلمہ کے علاوہ کچھ کہنے سے انکار کر دیا آپ نے صرف یہ فرمایا۔

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِقَوْمِي فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ -
یا اللہ! میری قوم کو بخش دے یہ لوگ (میرے مقام کو) نہیں جانتے۔ (۲)

یا رسول اللہ! میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں آپ کی عمر مبارک اتنی زیادہ نہ تھی لیکن بے شمار لوگ آپ پر ایمان لائے جب کہ حضرت نوح علیہ السلام کی بہت زیادہ عمر تھی لیکن ان پر اتنے لوگ ایمان نہیں لائے آپ پر ایمان لانے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے جب کہ ان پر صرف چند افراد ایمان لائے یا رسول اللہ! میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں اگر آپ اپنے برابر کے لوگوں ہی میں بیٹھتے تو آپ ہمارے ساتھ نہ بیٹھتے اور اگر آپ اپنے کفو (برابری کے لوگوں) میں ہی نکاح کرتے تو ہمارے خاندان میں آپ نکاح نہ فرماتے اگر آپ اپنے برابر کے لوگوں کے ساتھ کھاتے تو ہمارے ساتھ نہ کھاتے لیکن اللہ کی قسم! آپ نے ہمارے ساتھ مجلس اختیار فرمائی ہمارے ہاں نکاح کیا، ہمارے ساتھ مل کر کھایا، اونی کپڑا پہنا، دراز گوش پر سوار ہوئے اپنے پیچھے دوسروں کو بھی بٹھایا زمین (دستر خوان) پر رکھ کر کھانا کھایا اور تواضع کے طور پر اپنی مبارک انگلیوں کو چاٹتے تھے۔

(۱) قرآن مجید، سورہ نوح آیت ۲۶

(۲) صحیح بخاری جلد اول ص ۷۹۵ کتاب الانبیاء

بعض بزرگوں نے فرمایا کہ میں حدیث شریف لکھتا تھا اس میں سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف لکھتا لیکن سلام نہیں لکھتا تھا میں نے خواب میں آپ کی زیارت کی تو آپ نے مجھ سے فرمایا کیا تو اپنی کتاب میں مجھ پر درود شریف کو مکمل نہیں کرتا فرماتے ہیں اس کے بعد میں صلوٰۃ و سلام دونوں لکھتا تھا۔
حضرت ابوالحسن رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں میں خواب میں سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ!

حضرت امام شافعی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب "الرسالہ" میں لکھا ہے۔

وَصَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيَّ مُحَمَّدٍ كَلِمًا ذَكَرَهُ الذَّاكِرُونَ
وَعَقَلَ عَنِ الذِّكْرِ الْغَافِلُونَ۔

اللہ تعالیٰ کی رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو جب بھی ذکر کرنے والے آپ کا ذکر کریں اور جب غافل لوگ آپ کے ذکر سے غافل ہوں۔

تو انہیں (امام شافعی) کو کیا صلہ ملا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا صلہ ان کو یہ ملا کہ ان کو حساب کتاب کے لیے کھڑا نہیں کیا جائے گا۔

فضیلتِ استغفار:

اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے۔

اور وہ لوگ جو بے حیائی کا ارتکاب کریں یا اپنے نفسوں پر ظلم کر بیٹھیں تو اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہوئے اپنے گناہوں کی بخشش مانگیں۔

وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا
أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاَسْتَغْفَرُوا

لِذُنُوبِهِمْ (۱)

حضرت علقمہ اور حضرت اسود رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا قرآن پاک میں دو آیتیں ایسی ہیں کہ جو شخص گناہ کا مرتکب ہو جائے پھر انہیں پڑھے اور اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگے تو اللہ تعالیٰ اسے بخش دیتا ہے۔

ایک تو مذکورہ بالا آیت اور دوسری آیت یہ ہے۔

اور جو آدمی برائی کرے یا اپنے نفس پر ظلم کرے پھر اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگے تو اللہ تعالیٰ کو بخشنے والا مہربان پائے گا۔

وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ
يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا۔

(۲)

(۱) قرآن مجید، سورۃ آل عمران آیت ۱۲۵

(۲) قرآن مجید، سورۃ نساء آیت ۱۱۰

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بستر پر جاتے وقت تین بار یہ کلمات پڑھے تو اس کے گناہ بخش دیئے جاتے ہیں اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں یا ریت کے ٹیلے یا درخت کے تنوں کے برابر یا ایام دنیا کے برابر ہوں۔
 اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الْعَظِيْمَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ۔
 میں اللہ تعالیٰ عظمت والے سے بخش مانگتا ہوں اس کے سوا کوئی معبود نہیں وہ زندہ قائم رکھنے والا ہے اور میں اس کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔

(۱)

ایک دوسری حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ (مندرجہ بالا) کلمات پڑھے تو اس کے گناہ بخش دیئے جائیں گے اگرچہ وہ میدانِ جہاد سے بھاگا ہو (۲)

حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں اپنے گھر والوں کے ساتھ سخت زبان تھا میں نے عرض کیا۔
 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ڈر ہے کہ میں اپنی زبان کی وجہ سے جہنم میں نہ چلا جاؤں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استغفار کیوں نہیں کرتے ہیں دن میں سو مرتبہ مغفرت طلب کرتا ہوں (۳)
 حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا:
 اگر تم کسی گناہ کا ارتکاب کر بیٹھو تو اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگو اور اس کی بارگاہ میں توبہ کرو۔ بے شک گناہ سے توبہ، ندامت

اور استغفار ہے۔ (۴)

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے استغفار میں یوں کہا کرتے تھے۔

اللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِي خَطِيئَتِي وَجَهْلِي وَإِسْرَافِي
 فِي أَمْرِي وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي اللَّهُمَّ
 اغْفِرْ لِي هَزْلِي وَجِدِّي وَخَطَايَ وَعَمْدِي
 وَكُلَّ ذَلِكَ عِنْدِي۔
 یا اللہ! میری خطاؤں، لاعلمی، اپنے کام میں حد سے تجاوز اور جو کچھ تو مجھ سے بہتر جانتا ہے اسے بخش دے یا اللہ! میرے وہ گناہ جو مذاق میں کئے گئے یا سنجیدگی میں غلطی سے سرزد ہوتے یا جان بوجھ کر کئے اور جو کچھ بھی میرے جرم ہے سب بخش دے۔

(۵)

(۱) التزئیب والتزئیب جلد اول ص ۱۶۶ کتاب التواضل

(۲) سنن ابی داؤد جلد اول ص ۲۱۲ کتاب الصلوة

(۳) المنذک للہام جلد ۲ ص ۲۵۷ کتاب التفسیر

(۴) صحیح بخاری جلد اول ص ۳۶۵ کتاب الشہادات

(۵) مصنف ابن ابی شیبہ جلد ۱ ص ۲۸۱ کتاب الدعاء

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ
وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ
بِهِ مِنِّي أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ وَأَنْتَ
عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (۱)

یا اللہ! مجھے بخش دے جو کچھ میں نے پہلے کیا اور جو بعد میں
کروں گا پوشیدہ اور ظاہر اور جسے تو مجھ سے زیادہ جانتا
ہے سب کچھ بخش دے تو ہی آگے کرنے والا اور پیچھے رکھنے
والا ہے اور تو ہر چیز پر قادر ہے۔

حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں میں وہ شخص ہوں کہ جب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
سے کوئی حدیث سنتا تو جو نفع اللہ تعالیٰ چاہتا مجھے عطا فرماتا اور حیب مجھ سے کوئی صحابی حدیث بیان کرتا تو میں اسے قسم دیتا
جب وہ قسم اٹھاتا تو میں اس کی تصدیق کرتا فرماتے ہیں مجھ سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بیان کیا اور سچ کہا انہوں
نے بیان کیا کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرماتے تھے۔
”جو شخص کوئی گناہ کرتا ہے پھر اچھی طرح با وضو ہو کر کھڑا ہوتا ہے اور دو رکعت نماز پڑھتا ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ
سے بخشش مانگتا ہے تو اسے بخش دیا جاتا ہے۔

پھر آپ نے یہ آیت کریمہ پڑھی، (۲)

وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا خَيْرًا وَجَدُوا الْقِسْمَ لَكُمْ (۳)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا جب کوئی مومن گناہ کا مرتکب
ہوتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ دھبہ لگ جاتا ہے اگر توبہ کرے اور وہ گناہ چھوڑ دے اور بخشش مانگے تو اس سے
اس کا دل صاف ہو جاتا ہے اگر مزید گناہ کرے تو وہ دھبہ بڑھ جاتا ہے حتیٰ کہ اس کے دل پر غلاٹ چڑھ جاتا ہے اور یہ وہ ”بران“
ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ذکر کیا۔ (۴)

كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ (۵)

ہرگز نہیں، بل ان کے دلوں میں ان کی بد اعمالیوں کے
داغ لگ جاتے ہیں۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

(۱) شرح السننہ جلد ۲ ص ۲۵ حدیث ۵۷۲

(۲) کنز العمال جلد ۴ ص ۲۰۶ حدیث ۱۰۶۸

(۳) قرآن مجید، سورہ آل عمران آیت ۱۳۵

(۴) مسند امام احمد بن حنبل جلد ۲ ص ۲۹۷ مرویات ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ

(۵) قرآن مجید، سورہ مطففین آیت ۱۴

”بے شک اللہ تعالیٰ جنت میں ایک بندے کا درجہ بلند کرنے کا وہ پوچھے گا یا اللہ! یہ درجہ کیسے بلند ہوا اللہ تعالیٰ فرمائے
تائیرے بیٹے تیرے لیے مغفرت کی دعا کی ہے۔ (۱)

ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی۔
اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ الَّذِينَ إِذَا أَحْسَبُوا
يَا اللّٰهُ! مجھے ان لوگوں میں سے کر دے جو نیکی کرنے پر
خوش ہونے میں۔ اور جب برائی سرزد ہوتی ہے تو بخشش
مانگتے ہیں۔ (۲)

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بندہ گناہ کا مرتکب ہو جائے پھر یوں کہے اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي يَا اللّٰهُ!
مجھے بخش دے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے گناہ کیا پھر اسے معلوم ہوا کہ میرا ایک رب ہے جو گناہوں پر پکڑتا
بھی ہے اور گناہوں کو بخش بھی دیتا ہے (اللہ تعالیٰ فرماتا ہے) اسے میرے بندے جو چاہو کرو میں نے تمہیں بخش دیا۔ (۳)

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
بخشش طلب کرنے والا گناہوں پر شمار نہیں ہوتا اگرچہ ایک گناہ کو دن میں ستر مرتبہ لوٹائے (۴)
اور آپ نے ارشاد فرمایا:

ایک شخص نے کبھی کوئی نیک کام نہیں کیا تھا اس نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا کہ میرا رب ہے اب میرے رب! مجھے
بخش دے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے تجھے بخش دیا (۵)

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے۔
جو شخص گناہ کرے پھر یہ یقین کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہ پر مطلع ہے تو وہ بخشش نہ بھی مانگے، اس کی بخشش
ہو جاتی ہے۔ (۶)

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

(۱) سند امام احمد بن حنبل جلد ۲ ص ۵۰۹ روایت ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ

(۲) سند امام احمد بن حنبل جلد ۶ ص ۱۲۹ روایت عائشہ رضی اللہ عنہا

(۳) صحیح مسلم جلد ۲ ص ۳۵۷ کتاب التوبہ

(۴) السنن الکبریٰ للبیہقی جلد ۱ ص ۱۸۸ کتاب الشہادات

(۵)

(۶) مجمع الزوائد جلد ۱ ص ۲۱۱ کتاب الزہد

بِهَا عَلَى مَعْصِيَتِكَ، وَاسْتَغْفِرُكَ يَا
عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ
أَتَيْتُهُ فِي ضِيَاءِ النَّهَارِ وَسَوَادِ اللَّيْلِ، وَ
مَلَأِ اِرْحَامِي وَسِرِّي وَعَلَانِيَةَ، يَا حَلِيمٌ

تے مجھے عطا کی اور میں اس سے تیری نافرمانی پر مدد لیتا
ہوں اسے پوشیدہ اور ظاہر کو جاننے والے! میں ہر اس
گناہ سے تیری بخشش کا طلب گار ہوں جسے میں دن کی
روشنی اور رات کی سیاہی میں کرتا ہوں، مجلس میں یا علیحدگی

میں، پوشیدہ یا ظاہر طور پر کرتا ہوں اسے برو بار ذات!

کہا جاتا ہے کہ یہ حضرت آدم علیہ السلام کا استغفار ہے اور یہ بھی کہا گیا کہ یہ حضرت خضر علیہ السلام کا استغفار ہے۔

تیسرا باب

ماثور دعائیں ان کے اسباب اور کن لوگوں نے یہ دعائیں مانگیں نیز صبح و شام اور
بہر نماز کے بعد کونسی دعا مانگی جائے

دعائے فجر:

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں مجھے حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ بھیجا
میں شام کے وقت آیا تو حضور علیہ السلام میری خالہ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں تشریف فرما تھے آپ نے رات کو
کھڑے ہو کر نماز پڑھی جب فجر کی نماز سے پہلے فجر کی دو سنتیں پڑھیں تو یہ دعا مانگی۔

یا اللہ! میں تیری رحمت کا سوال کرتا ہوں جس کے ذریعے
تو میرے دل کو ہدایت عطا فرما، میرے بچھے ہوئے
کاموں کو جمع کر دے اور میری پریشانیوں کو دور کرے
اس کے ذریعے مجھ سے فتنوں کو دور رکھ میرے دین
کی اصلاح فرما، میرے غائب کی حفاظت کر میرے حاضر
کا درجہ بلند کر میرے عمل کو پاک کر میرے چہرے کو روشن
کر دے میرے دل میں ہدایت ڈال دے اور مجھے ہر برائی
سے بچا، یا اللہ! مجھے سچا ایمان اور یقین عطا کر جس کے بعد
کفر نہ ہو اور رحمت عطا کر جس کے ذریعے میں دنیا اور
آخرت میں تیری کرامت کا شرف حاصل کروں یا اللہ! میں
فیصلے کے وقت کامیابی، شہدائے کے مراتب، نیک بخت
لوگوں جیسی زندگی، دشمن پر مدد اور انبیاء کرام کی رفاقت
کا سوال کرتا ہوں، یا اللہ! میں تیرے بھروسے پر اپنی
حاجت کی طرف جاتا ہوں اگرچہ میری رائے کمزور ہے، میرا
وسیلہ کم ہے عمل میں کوتاہی ہے اور میں تیری رحمت کا

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِكَ
تَهْدِي بِهَا قَلْبِي وَتَجْمَعُ بِهَا شُمُوكِي وَ
تَلْمِذُ بِهَا شَعْتِي وَتَرُدُّ بِهَا الْفِتْنَ عَنِّي
وَتُصَلِّحُ بِهَا دِينِي وَتَحْفَظُ بِهَا عَائِمِي
وَتَرْفَعُ بِهَا شَاهِدِي وَتُذَكِّي بِهَا عَمَلِي
وَتُبَيِّضُ بِهَا وَجْهِي وَتُلْهَمُنِي بِهَا رُقْدِي
وَتُعْصِمُنِي بِهَا مِنْ كُلِّ سُوءٍ - اللَّهُمَّ اعْطِنِي
إِيمَانًا صَادِقًا وَيَقِينًا لَيْسَ بَعْدَ لَا كُفْرًا
وَرَحْمَةً أَتَالُ بِهَا شَرَفَ كَرَامَتِكَ
فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ
الْفُوزَ عِنْدَ الْقَضَاءِ وَمَنَازِلَ الشُّهَدَاءِ
وَعَيْشَ السُّعَدَاءِ وَالنُّصْرَةَ عَلَى الْوَعْدَاءِ
وَمَرَافَقَةَ الرُّسُلِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ
بِكَ حَاجَتِي وَإِنْ صَنَعْتَ رَأْيِي وَقَلَّتْ
حِيلَتِي وَقَصُرَ عَمَلِي وَاقْتَدَرْتُ إِلَى رَحْمَتِكَ

وَأَسْتَعِيذُكَ مِمَّا اسْتَعَاذَكَ مِنْهُ عَبْدُكَ
وَرَسُولُكَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،
وَأَسْأَلُكَ مَا قَضَيْتَ لِي مِنْ أَمْرٍ أَنْ تَجْعَلَ
عَاقِبَتَهُ رِشْدًا بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ-

(۱)

مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا میں ہر اس چیز سے تیری
پناہ چاہتی ہوں جس سے تیرے بندے اور رسول حضرت
محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے یا اللہ میں تجھ
سے اس بات کا سوال کرتی ہوں جس کا تو نے میرے بارے
میں فیصلہ کیا کہ اس کا انجام ہدایت پر مبنی ہو اسے سب سے
بڑھ کر رحم کرنے والے اپنی رحمت سے میری دعا قبول فرما۔

دعائے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ | سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے فاطمہ رضی اللہ عنہا تجھے میری
نصیحت سنتے سے کس نے منع کیا تم یوں کہو۔

يَا حَسْبِي يَا قِيَوْمَ بِرَحْمَتِكَ اسْتَعِينْتُ
وَأَتَوَكَّلُ عَلَى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ وَأَصْلِحْ
لِي شَأْنِي كُلَّهُ-

(۲)

اے زندہ اور قائم رکھنے والے میں تیری رحمت سے
مدد طلب کرتی ہوں مجھے اُنکے چھپکنے کی مقدار بھی میرے
نفس کے حوالے نہ کرنا اور میرے تمام کاموں کو درست
کر دے۔

دعائے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ | رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو یہ دعا
سکھائی۔

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِحَمْدِ بَيْتِكَ وَ
إِبْرَاهِيمَ خَلِيلِكَ وَمُوسَى نَبِيِّكَ وَ
عِيسَى كَلِمَتِكَ وَرُوحِكَ وَتُورَاتِهِ وَمُوسَى
وَإِسْحَاقَ عِيسَى وَزُقُورَ دَاوُدَ وَخُرُقَانَ
مُحَمَّدَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِمْ
أَجْمَعِينَ وَبِكُلِّ وَحْيٍ أَوْحَيْتَهُ أَوْ قَصَاةٍ
قَضَيْتَهُ أَوْ سَائِلٍ أَعْطَيْتَهُ أَوْ عَنِي أُنْقَرَّتْ
أَوْ فِقِيرٍ أَعْتَيْتَهُ أَوْ صَالٍ هَدَيْتَهُ وَأَسْأَلُكَ

یا اللہ! میں تجھ سے تیرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ
علیہ وسلم، تیرے خلیل حضرت ابراہیم، تجھ سے ہمکلامی
کا شرف حاصل کرنے والے حضرت موسیٰ، تیرے کلمہ اور
روح حضرت عیسیٰ علیہم السلام کی توسل سے، نیز موسیٰ علیہ
السلام کی تورات، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی انجیل حضرت
داؤد علیہ السلام کی زبور، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ
علیہ وسلم کے قرآن تیری ہر وحی، تیرے ہر فیصلے، ہر
سائل جسے تو نے عطا کیا، ہر غنی جسے تو نے محتاج کیا

(۱) مسند امام احمد بن حنبل جلد ۶ ص ۱۲۷ روایات عائشہ رضی اللہ عنہا

(۲) کنز العمال جلد ۲ ص ۲۳۹ حدیث ۳۹۱۸

بِاسْمِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَهُ عَلَىٰ مُوسَىٰ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الَّذِي بَدَّيْتَهُ
بِهِ آرْزَاقَ الْعِبَادِ وَأَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ
الَّذِي وَضَعْتَهُ عَلَىٰ الْوَرِضِ فَاسْتَقْرَبْتَهُ
وَأَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الَّذِي وَضَعْتَهُ عَلَىٰ
السَّمَوَاتِ فَاسْتَقَلَّتْ وَأَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ
الَّذِي وَضَعْتَهُ عَلَىٰ الْجِبَالِ فَسَرَسَتْ
وَأَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الَّذِي اسْتَقَلَّ بِهِ
عَرْشُكَ وَأَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الطَّهْرِ الطَّاهِرِ
الْوَحْدِ الصَّمَدِ الْوَتَرِ الْمُنَزَّلِ فِي كِتَابِكَ
مِنْ لَدُنْكَ مِنَ النُّورِ الْمُبِينِ وَأَسْأَلُكَ
بِاسْمِكَ الَّذِي وَضَعْتَهُ عَلَىٰ النَّهَارِ فَاسْتَنَارَ
وَعَلَىٰ اللَّيْلِ فَانْظَمَ وَبِعَظَمَتِكَ وَكِبْرِيَاكَ
وَبِنُورِ وَجْهِكَ الْكَرِيمِ أَنْ تَرْزُقَنِي الْقُرْآنَ
وَالْعِلْمَ بِهِ وَتَخْلُقَ لِي بِحُجْمِي وَدِي
وَسَمْعِي وَبَصِيرِي وَتَسْتَعْمِلَ بِهِ جَسَدِي
بِعَوْلِكَ وَقُوَّتِكَ فَإِنَّهُ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ
إِلَّا بِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ - (۱)

ہر فقیر جسے تو نے غنی کیا، ہر گمراہ جسے تو نے ہدایت دی
سب کے وسیلہ سے سوال کرتا ہوں تیرے اس نام
کے وسیلہ سے جو تو نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر
آمارا اور تیرے اس نام کے توسل سے جو جس کے سبب
بندوں کا رزق ثابت ہے میں تجھ سے سوال کرتا ہوں
یا اللہ میں تیرے اس نام کے وسیلہ سے سوال کرتا ہوں
جو تو نے زمین پر رکھا تو وہ ٹھہر گئی، تیرے اس نام کے
توسل سے سوال کرتا ہوں جسے تو نے آسمانوں پر رکھا تو
وہ بند ہو گئے میں تیرے اس نام کے توسل سے سوال
کرتا ہوں جسے تو نے پہاڑوں پر رکھا تو وہ جم گئے تیرے
اس نام کے توسل سے سوال کرتا ہوں جس کے ذریعے
عرش بلند ہوا تیرے اس نام کے توسل سے سوال کرتا
ہوں جو پاک ہے ایک ہے بے نیاز ہے تیری طرف سے
روشن نور ہے تیری کتاب میں اترا ہوا ہے میں تیرے اس
نام کے توسل سے سوال کرتا ہوں جسے تو نے دن پر رکھا
تو وہ روشن ہو گیا رات پر رکھا تو وہ تاریک ہو گئی تیری
عظمت و کبریائی، تیری ذات پاک کے نور کے توسل سے
سوال کرتا ہوں کہ مجھے قرآن پاک اور اس کا علم عطا فرما اور

اسے میرے گوشت، خون، کانوں اور آنکھوں میں مخلوط کر دے اور اپنی قوت و طاقت کے ساتھ میرے جسم کو
اسی علم میں لگا دے کیوں کہ تیرے علاوہ کہیں سے قوت حاصل نہیں ہوتی اسے سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے۔

ایک روایت میں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے بریدہ! کیا میں
تجھے وہ کلمات نہ سکھاؤں کہ اللہ تعالیٰ یہ کلمات اس شخص کو سکھاتا ہے جس کے
ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے انہیں کبھی نہ بھلائی میں نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ! (سکھائے) آپ نے فرمایا یوں کہو۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا | آپ یوں دعا مانگتے تھے۔

اے اللہ! میں نے اس حال میں صبح کی کہ میں جس چیز کو ناپسند کرتا ہوں اسے دور کرنے کی طاقت نہیں رکھتا اور نہ اپنی امید کے نفع کا مالک ہوں معاملہ میرے غیر کے ہاتھ میں ہے اور میں اپنے اعمال میں گروی رہ رہ کر رکھا ہوا ہوں مجھ سے بڑھ کر کوئی فقیر نہیں یا اللہ! مجھ پر میرے دشمن کو نہ ہنسانا اور میری وجہ سے میرے دوست کو پریشانی نہ پہنچانے کے معاملے میں مصیبت زدہ نہ کرنا اور نہ دنیا کو میری توجہ کا مرکز بنانا یا اللہ! مجھ پر ایسے لوگوں کو مسلط نہ کرنا جو مجھ پر رحم نہ کریں اے زندہ قائم رکھنے والے۔

اللَّهُمَّ إِنِّي أَصْبَحْتُ لَا أَسْتَطِيعُ رَفْعَ مَا أَلَدُّهُ وَلَا أَمْلِكُ نَفْعَ مَا أَرَجُوهُ وَأَصْبَحَ الْأَمْرُ بِيَدِ غَيْرِي وَأَصْبَحْتُ مَرْتَهَنًا بِعَمَلِي فَلَا فُقِيرَ أَفْقَرَ مِنِّي اللَّهُمَّ لَا تُشْمِتْ بِي عَدُوِّي وَلَا تُسَوِّءْ بِي صَدِيقِي وَلَا تَجْعَلْ مُصِيبَتِي فِي دِينِي وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّي وَلَا تَسْلُطْ عَلَيَّ مَنْ لَا يَرْحَمُنِي يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ

حضرت خضر علیہ السلام کی دعا | کہا جاتا ہے کہ جب حضرت خضر اور حضرت ایساں علیہما السلام کی ملاقات ہوتی ہے تو وہ یہ کلمات کہے بغیر ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوتے۔

اللہ کے نام سے، جو کچھ اللہ تعالیٰ چاہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی قوت نہیں جو کچھ اللہ تعالیٰ چاہے ہر نعمت اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے، جو کچھ اللہ تعالیٰ چاہے، تمام بھلائیاں اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہیں برائی کو وہی دور کرتا ہے۔

بِسْمِ اللَّهِ مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ مَا شَاءَ اللَّهُ كُلُّ نِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ مَا شَاءَ اللَّهُ الْخَيْرُ كُلُّهُ بِيَدِ اللَّهِ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا يُصْرِفُ السُّوءَ إِلَّا اللَّهُ

جو شخص صبح کے وقت یہ کلمات پڑھے وہ جلنے، ڈوبنے اور چوری سے محفوظ رہے گا ان شاء اللہ۔

حضرت معروف کرخی رحمہ اللہ کی دعا | حضرت محمد بن حسان رحمہ اللہ فرماتے ہیں حضرت معروف کرخی رحمہ اللہ نے مجھے فرمایا کہ میں تجھے دس کلمات نہ سکھاؤں پانچ دنیا کے لیے

اور پانچ آخرت کے لیے ہیں جو شخص ان کلمات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پکارے تو ان کو اللہ تعالیٰ کے پاس پائے گا میں نے کہا مجھے لکھ دیجئے۔ انہوں نے فرمایا نہیں بلکہ میں تیرے سامنے کئی بار پڑھتا ہوں جس طرح حضرت یحییٰ بن خنیس رحمہ اللہ نے میرے سامنے کئی بار پڑھا۔

اللہ تعالیٰ مجھے میرے دین میں کافی ہے اللہ تعالیٰ مجھے میری دنیا کے لیے کافی ہے اللہ کریم میرے غموں میں مجھے کافی ہے اللہ حلیم و قوی مجھ پر سرکشی کرنے والے کے لیے مجھے کافی ہے اللہ شدت والا اس کے لیے مجھے کافی جو برائی کے ساتھ میرے قریب آئے اللہ رحیم موت کے وقت مجھے کافی ہے اللہ غریبان قبریں سوال کے وقت مجھے کافی ہے اللہ کریم حساب کے وقت مجھے کافی ہے اللہ لطیف میزان کے وقت مجھے کافی ہے اللہ قدرت والا پل صراط کے وقت مجھے کافی ہے مجھے اللہ کافی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور وہ عظمت والے عرش کا رب ہے۔

حَسْبِيَ اللَّهُ لِدِينِي حَسْبِيَ اللَّهُ لِدُنْيَايَ
حَسْبِيَ اللَّهُ لِكُرْبِي لِمَا أَهَمَّنِي حَسْبِيَ اللَّهُ
الْحَلِيمُ الْقَوِيُّ لِمَنْ بَغَى عَلَيَّ حَسْبِيَ اللَّهُ
الَّذِي يُدَلِّمُنِي كَادِي بِسُوءِ حَسْبِيَ اللَّهُ الرَّحِيمُ
عِنْدَ الْمَوْتِ حَسْبِيَ اللَّهُ الزُّوْتُ عِنْدَ
الْمَسْأَلَةِ فِي الْقَبْرِ حَسْبِيَ اللَّهُ الْكَرِيمُ
عِنْدَ الْحِسَابِ حَسْبِيَ اللَّهُ اللَّطِيفُ
عِنْدَ الْعَمَلِ حَسْبِيَ اللَّهُ الْقَدِيرُ عِنْدَ
الضَّرَاطِ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ
تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ -

حضرت ابو دردا رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں۔ جو شخص روزانہ سات مرتبہ یہ آیت شریف پڑھے اللہ تعالیٰ اس کے تمام اُخروی غموں میں اسے کفایت کرے گا وہ سچا ہو یا جھوٹا۔

اگر وہ پھر جائیں تو آپ فرمادیں مجھے اللہ تعالیٰ کافی ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور وہ بہت بڑے عرش کا مالک ہے۔

فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا
هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ
الْعَظِيمِ - (۱)

ان کو فوت ہونے کے بعد خواب میں دیکھا گیا تو انہوں نے بتلایا کہ وہ ان کلمات کے باعث جنت میں داخل ہوئے۔

حضرت عقبہ (غلام) رضی اللہ عنہ کی دعا

اے اللہ! اے مگر اہوں کو ہدایت دینے والے اور گناہ گاروں پر رحم فرمانے والے لغزش کرنے والوں کی لغزشوں کو معاف کرنے والے اپنے بندے پر جس کو بہت خطرہ ہے اور تمام مسلمانوں پر رحم فرما اور ہمیں پسندیدہ اور رزق دینے والے افراد یعنی انبیاء کرام، صدیقین شہداء

اللَّهُمَّ يَا هَادِيَ الْمُضَلِّينَ وَيَا رَاحِمَ
الْمُذْنِبِينَ وَيَا مُقْبِلَ عَثَرَاتِ الْعَاثِرِينَ
إِسْرَحْ عَبْدَكَ ذَا الْخَطَرِ الْعَظِيمِ
وَالْمُسْلِمِينَ كُلَّهُمْ أَجْمَعِينَ وَاجْعَلْنَا
مَعَ الْوَحْيَارِ وَالْمَرْزُوقِينَ الَّذِينَ

کو افضل پایا اس نے جواب دیا حضرت ابن معتمر رضی اللہ عنہ جو تسبیحات پڑھتے تھے اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کا مقام ملاحظہ کیا وہ تسبیحات اور دعایہ ہے۔

سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ
الْعَظِيمِ، عَدَدَ مَا خَلَقَ، وَعَدَدَ مَا هُوَ خَالِقٌ،
وَزِينَةَ مَا خَلَقَ، وَزِينَةَ مَا هُوَ خَالِقٌ، وَمِثْلَ
مَا خَلَقَ، وَمِثْلَ مَا هُوَ خَالِقٌ، وَمِثْلَ عِ
سَمَوَاتِهِ، وَمِثْلَ عَرْضِهِ، وَمِثْلَ ذَلِكَ
وَأَضْعَافَ ذَلِكَ، وَعَدَدَ خَلْقِهِ وَزِينَةَ
عَرْشِهِ، وَمُنْتَهَى رَحْمَتِهِ، وَمِثْلَ أَدْكِمَاتِهِ
وَمَبْلَغَ رِضَاةٍ حَتَّى يَرْضَى وَإِذَا رَضِيَ، وَعَدَدَ
مَا ذَكَرَهُ بِهِ خَلْقُهُ فِي جَمِيعِ مَا مَضَى، وَعَدَدَ
مَا هُمَا كَرُوهُ جِئَا بَقِي فِي كُلِّ سَنَةٍ، وَشَهْرٍ
وَجُمُعَةٍ وَيَوْمٍ وَلَيْلَةٍ وَسَاعَةٍ مِنْ
السَّاعَاتِ وَشَقْرٍ وَنَفْسٍ مِنْ الْأَنْفَاسِ وَأَيْدٍ
مِنَ الْأَيْدِي مِنْ أَيْدِي الْأَبْدَانِ الدُّنْيَا
وَأَيْدِي الْآخِرَةِ وَأَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ لَا يَنْقَطِعُ
أَوْلَى وَلَا يَنْقُذُ آخِرَةٌ،

اللہ تعالیٰ کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے نیکی کرنے اور برائی سے بچنے کی قوت اللہ تعالیٰ ہی عطا فرماتا ہے وہ بلند اور عظمت والا ہے جو کچھ اس نے پیدا کیا اور جو کچھ پیدا کرے گا اس کی تعداد اور وزن، پیرا شدہ اور ہولے والوں کے حساب سے بھری ہوتی جگہ آسمان اور زمین بھرے ہوئے اس کی مثل اور اس سے دوگنا اس کی مخلوق کی تعداد، عرش کے وزن اس کی رحمت کی انتہا اور اس کے کلمات کی سیما ہی، اس کی رضائے رسائی حتیٰ کہ وہ راضی ہو اور جس وقت وہ راضی ہو ان الفاظ کی مقدار جن کے ساتھ مخلوق نے اسے یاد کیا اور آئندہ یاد کریں ہر سال، مہینے، ہفتے اور رات دن کی ساعتوں میں اور سانس لینے میں اور جب تک دنیا آباد ہے اور جب تک آخرت ہے اور اس سے بھی زیادہ اور آخرت کا اول و آخر منقطع نہیں ان سب کے برابر اللہ تعالیٰ تسبیح بیان کرتا ہوں۔

حضرت ابراہیم بن رحمہ اللہ کے خادم حضرت ابراہیم بن ہشام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ ہر جمعہ کی صبح و شام یہ دعا پڑھتے تھے۔

حضرت ابراہیم بن ادھم رحمہ اللہ کی دعا

فضیلت والے دن اور صبح جدید اور لکھنے والے اور گواہی دینے والے کو خوش آمدید، ہمارا یہ دن، عید کا دن ہے اس میں ہم جو کچھ کہیں اسے لکھ لو۔ اللہ کے نام سے جو قابلِ تعریف، بزرگ والا، بلند و بالا، محبت کرنے والا، اپنی مخلوق میں جو چاہتا ہے کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ

مرحباً بیوم المزیذ والصبح الجدید،
والکاتب والشہید، یومنا هذا یوم عید،
اكتب لتافیہ ما نقول، بسم اللہ الحمید
المجید الرفیع الودود الفعّال فی
خلقه ما یرید، اصیحت باللہ مؤمناً،

پر ایمان کے ساتھ، اس کی ملاقات کی تصدیق کرتے ہوئے اور اس کی محبت کا اعتراف کرتے ہوئے میں نے صبح کی۔ میں اپنے گناہ کی بخشش مانگتا ہوں اس کی ریو بیت کے سامنے جھکتا ہوں اللہ تعالیٰ کے سوا سب کے معبود ہونے کا انکار کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی طرف محتاج ہوں اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ کرتا ہوں اللہ ہی کی طرف رجوع کرتا ہوں میں اللہ تعالیٰ کو گواہ بناتا ہوں اس کے انبیاء کرام اور رسول عظام کو گواہ بناتا ہوں عرش کو اٹھانے والوں جن کو اس نے پیدا کیا اور آئندہ پیدا کرنے کا سب کو گواہ بناتا ہوں کہ صرف وہی اللہ ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں اس کا کوئی شریک نہیں اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں اور جنت حق ہے، جہنم حق ہے، حوض کوثر حق شفاعت حق ہے منکر نکیر حق ہیں تیرا وعدہ اور وعید حق ہے تیری ملاقات حق ہے قیامت آنے والی ہے اس میں کوئی شک نہیں اور بے شک اللہ تعالیٰ قبروں والوں کو اٹھائے گا میں اسی پر زندہ ہوں اور اسی پر مروں گا اور ان شاء اللہ اسی پر اٹھایا جاؤں گا یا اللہ! تو میرا رب ہے تیرے سوا کوئی معبود نہیں تو نے مجھے پیدا کیا میں تیرا بندہ ہوں اور حسب استطاعت تیرے وعدے پر قائم ہوں۔ تیرے پیدا کردہ شر اور ہر شر والے کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں یا اللہ! میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا پس تو میرے گناہ کو بخش دے گناہوں کو بخشنے والا تیرے سوا کوئی نہیں مجھے اخلاق کا راستہ دکھا اچھے راستے کی ماہنامائی توہی کرتا ہے مجھ سے بڑائی کو پھیرے

و بلاقائہ مصدقا، و بحجنتہ معترقا، و من ذنبی مستغفرا، و لر بوبیة اللہ خاضعا، و لسوی اللہ فی الالہة جاحدا، و الحی اللہ فقیرا، و علی اللہ قنکلا، و ال اللہ منیبا، اشهد اللہ و اشهد ملائکتہ و انبیاءہ و رسلہ و حملة عرشہ و من خلقہ و من ہو خالقہ، بانہ هو اللہ الذی لا الہ الا هو و وحدہ لا شریک لہ، و ان محمد اعبدا و رسول صلی اللہ علیہ وسلم تسلما، و ان الجنة حق، و ان النار حق، و الحوض حق، و الشفاعة حق، و منکرا و نکیرا حق، و وعدک حق و وعیدک حق، و لقاءک حق، و الساعة آتیة لا ریب فیہا، و ان اللہ یبعث من فی القبور، علی ذلک احیا و علیہ اموت، و علیہ ابعث ان شاء اللہ، اللهم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی و انا عبدک و انا علی عہدک و وعدک ما استطعت، اعوذیک اللهم من شر ما صنعت و من شر کل ذی شر، اللهم انی ظلمت نفسی فاغفر لی ذنوبی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت، و اهدنی لا حسن الاخلاق فانہ لا یہدی لا حسنہا الا انت، و اضر بن عنی سببہا فانہ لا یضرون سببہا الا انت، لیسک و سعیدک، و الخیر کلہ بیدک،

انالك وائيك ، استغفرک و اتوب اليك
 آمنت اللهم بما ارسلت من رسول ، و
 آمنت اللهم بما انزلت من كتاب ، و صلى
 الله على محمد النبي الومي وعلى آله وسلم
 تسليما كثيرا ، خاتم كلامي ومفتاحه
 وعلى انبيائه ورسوله اجمعين آمين
 يا رب العالمين ، اللهم اوردنا حوض
 محمد ، واسقنا بكاسه مشربا وياساقنا
 منها لا نظما بعد ابداء ، واحشرنا في
 زمرة غير جزايا ولا ناكثين للعهد ولا
 مرتابين ولا مفتونين ولا معضوب علينا
 ولا ضالين ، اللهم اعصمني من فتن
 الدنيا ووقني لما تحب وترضى واصلم
 لي شأني كله وثبتني بالقول الثابت في
 الحياة الدنيا وفي الآخرة ، ورتضلني
 وان كنت ظالما سبحانه يا اعظم
 يا باري يا باري عيا رحيم يا عزيز يا جبار
 سبحان من سبحت له السموات باكتافها ،
 وسبحان من سبحت له البحار باصوافها ،
 وسبحان من سبحت له الجبال باصدانها ،
 وسبحان من سبحت له الحيتان بلعقها ،
 وسبحان من سبحت له النجوم في
 السماء بايراجها ، سبحان من سبحت
 له الاشجار باصولها وثمارها ، وسبحان
 من سبحت له السفوف السبع والارضون

برائی کو پھیرنے والا بھی تو ہی ہے میں حاضر ہوں اور تمام
 بھلائی تیرے قبضہ میں ہے میں تیرے لیے ہوں اور
 تیری طرف ہی رجوع کرتا ہوں تجھ سے بخشش چاہتا ہوں
 اور تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں یا اللہ! میں تیرے تمام
 رسولوں پر ایمان لایا یا اللہ! تیری اتاری گئی تمام کتابوں
 پر ایمان لایا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی
 ہیں، کسی سے پڑھے ہوئے نہیں آپ پر اور آپ کی اک
 پر رحمت اور بہت بہت سلام ہو میرے کلام کا آغاز و
 اختتام یہی ہے اللہ تعالیٰ کے تمام رسولوں اور انبیاء کرام
 علیہم السلام پر رحمت و سلام ہو اسے تمام جہانوں کو پالنے
 والے میری دعا کو قبول فرما۔

یا اللہ! ہمیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم
 کے حوض پر لانا آپ کے مبارک پیالہ سے ایسا مشروب
 پلانا جو سیراب کرنے والا اور سچنے والا ہو اس کے
 بعد ہم کبھی پیاسے نہ ہوں ہمیں آپ کی جماعت میں اٹھانا
 نہ ہم رسوا ہوں نہ وعدے کو توڑنے والے نہ شک کرنے
 والے اور نہ فتنہ میں مبتلا ہوں نہ ہم پر غضب کیا گیا ہو اور
 نہ ہم گمراہ ہوں یا اللہ! ہمیں دنیا کے فتنوں سے بچا اور
 جس کام کو تو چاہتا ہے اور اس پر راضی ہے اس کی
 توفیق عطا فرما میرے تمام کاموں کو درست کر دے دنیا
 اور آخرت میں قول ثابت رکھہ طیبہ پر قائم رکھنا یا اللہ مجھے
 گمراہ نہ کرنا اگرچہ میں ظلم کرنے والا ہوں تو پاک ہے لے
 بلند ذات، اسے عظمت والے اسے پیدا کرنے والے،
 اسے رحمت والے، اسے غالب، اسے نقصان کو پورا
 کرنے والے میں اس ذات کی پاکیزگی بیان کرتا ہوں جس

کی پاکیزگی آسمان اپنے کناروں سمیت بیان کرتا ہے
ہیں اس کی تسبیح کرتا ہوں کہ سمندر اپنی موجوں سمیت
اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں اس کی پاکیزگی بیان کرتا
ہوں کہ پہاڑ اپنی صدائے بازگشت سمیت اس کی تسبیح
کرتے ہیں مچھلیاں اپنی زبان میں جس کی پاکیزگی بیان کرتی
ہیں اس کی تسبیح کرتا ہوں ستارے اپنے برجوں
سمیت آسمان میں جس کی تسبیح بیان کرتے ہیں وہ ملک

وہ ذات پاک ہے جس کی پاکیزگی درخت اپنی جڑوں اور پھلوں سمیت بیان کرتے ہیں ساتوں آسمان ساتوں زمینیں
اور جو کچھ ان میں ہے اور جو کچھ ان کے اوپر ہے جس کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں وہ ذات پاک ہے وہ ذات پاک
ہے جس کی پاکیزگی اس کی تمام مخلوق بیان کرتی ہے تو برکت والا ہے بلند ہے تو پاک ہے تو پاک ہے اے
نزدہ، اے قائم رکھنے والے، اے علم والے اے بردباری والے تو پاک ہے تیرے سوا کوئی معبود نہیں تو
ایک ہے تیرا کوئی شریک نہیں تو زندہ رکھتا اور مارتا ہے تو زندہ ہے کبھی فوت نہیں ہوگا بھلائی تیرے
قبضے میں ہے اور تو ہر چیز پر قادر ہے۔

السهب ومن فيهن ومن عليهن سبحان
من سبح له كل شيء من مخلوقاته تباركت
وتعاليت سبحانك سبحانك يا حي
يا قيوم يا عليم يا حليم سبحانك لا
اله الا انت وحدك لا شريك لك تجي
وتميت وانت حي لا تموت بيد الخبير
وانت على كل شيء قدير۔

پتھاباب

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے مروی منتخب دعائیں

ان دعاؤں کی اسناد و حدیث کر دی گئی ہیں اور یہ حضرت ابوطالب مکی، ابن خزیمہ اور ابن منذر رحمہم اللہ نے جمع کی ہیں۔ آخرت کا ارادہ کرنے والے کے لیے مستحب یہ ہے کہ صبح کے وقت اس کا سب سے پسندیدہ و طیفہ دعا ہوئی چاہے جیسے وظائف کے بیان میں آئے گا اگر تو آخرت کی کھیتی کا ارادہ کرنے والوں اور دعا کے سلسلے میں سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتدار کرنے والوں میں سے ہے تو اپنی نمازوں کے بعد دعاؤں کا آغاز اس دعا سے کر۔

پیارا رب پاک ہے بلند اور اعلیٰ ہے بہت عطا کرنے والا ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں وہ ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں اسی کے لیے بادشاہی ہے اور وہی لائق حمد ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَلِيِّ الْعَلِيِّ عَلَى الْوَهَّابِ (۱)
لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ
لَهُ الْمُلْكُ وَكَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ
شَيْءٍ قَدِيرٌ (۲)

ہیں مرتبہ یہ الفاظ بھی کہو۔

میں، اللہ تعالیٰ کے رب ہوتے اسلام کے دین اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہوں۔

رَضِيْتُ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِأَرْسَلَهُمِ دِينًا
وَبِحَمْدِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيًّا (۳)
یہ بھی پڑھو۔

اے اللہ! آسمانوں اور زمین کو بنانے والے پوشیدہ اور ظاہر کو جاننے والے ہر چیز کے رب اور مالک — میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں میں اپنے نفس کے شر اور شیطان کے شر اور شرک

اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ رَبَّ كُلِّ شَيْءٍ
وَمَلِيكَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ
أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِي وَشَرِّ الشَّيْطَانِ

(۱) المستدرک للحی کم جلد اول ص ۹۸ کتاب الدعاء۔

(۲) صحیح بخاری جلد اول ص ۱۵۵ کتاب التہجد

(۳) مستدرک امام احمد بن حنبل جلد اول ص ۱۸۱ مرویات سعد بن ابی وقاص۔

سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔

وَشَرِكٍ - (۱)

یہ دعا بھی مانگو:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ
فِي دِينِي وَدُنْيَايَ وَأَهْلِي وَمَالِي اللَّهُمَّ
اسْتُرْ عَوْرَاتِي وَآمِنْ رَوْعَاتِي وَأَقِلْ
عَشْرَاتِي وَأَحْفَظْنِي مِنْ بَيْنِ يَدَيْ وَمِنْ
خَلْفِي وَعَنْ يَمِينِي وَعَنْ شِمَالِي وَمِنْ
فَوْقِي وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ
تَحْتِي - (۲) اللَّهُمَّ لَا تُؤْمِنِي مَكْرَكَ
وَلَا تُؤَلِّمِي غَدْرَكَ وَلَا تُزَيِّعْ عَفْوَ
سِتْرَكَ وَلَا تُؤَنِّبِي ذِكْرَكَ وَلَا تَجْعَلْنِي
مِنَ الْغَافِلِينَ (۳)

تین بار یہ دعا بھی مانگو:

اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي وَالْإِلَهَ الْأَوَّلَ أَنْتَ خَلَقْتَنِي
وَأَنَا عَبْدُكَ وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ
مَا اسْتَطَعْتُ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا
صَنَعْتَ، أَبُوؤُكَ بِبِعْضِكَ عَلَيَّ وَأَبُوءُ
بِيَدَيْ فَاغْفِرْ لِي فَإِنَّهُ لَا تَغْفِرُ الذُّنُوبَ
إِلَّا أَنْتَ -

(۴)

یا اللہ میں تجھ سے معافی اور اپنے دین، دنیا، اہل اور
مال میں سلامتی کا سوال کرتا ہوں یا اللہ! میرے عیبوں
کو ڈھانپ دے اور میرے خوف کو دور کر دے مجھے
معاف کر دے سامنے، پیچھے، دائیں، بائیں اور اوپر
کی طرف سے مجھے حفاظت عطا فرما میں تیری پناہ چاہتا
ہوں کہ میں بے خبری میں نیچے کی جانب سے ہلاک ہو
جاؤں یا اللہ! مجھے اپنی خفیہ تدبیر سے بے خوف نہ کر اور
دوسروں کے سپرد نہ کر یا اللہ! اپنے پردہ رحمت کو مجھ سے
واپس نہ لینا، اپنا ذکر نہ بھلانا اور مجھے غافل لوگوں
میں سے نہ کرنا۔

یا اللہ! تو میرا رب ہے تیرے سوا کوئی معبود نہیں تو نے
مجھے پیدا کیا اور میں تیرا بندہ ہوں میں تیرے عہد و
پیمان پر قائم ہوں جس قدر مجھے استطاعت ہے میں
اپنے عمل کی برائی سے تیری پناہ چاہتا ہوں میں تیری
عطا کردہ (نعمت) کے وسیلہ سے تیری طرف رجوع
کرتا ہوں اپنے گناہ (کے اعتراف) ساتھ تیری طرف
رجوع کرتا ہوں تو مجھے بخش دے گناہوں کو بخشنے والا
تیرے سوا کوئی نہیں۔

(۱) مسند امام احمد بن حنبل جلد اول ص ۱۴ روایات بواہد

(۲) سنن ابن ماجہ ص ۲۸۲ الباب الدعوات

(۳) کنز العمال جلد ۱۵ ص ۲۴۸ حدیث ۲۶۱۳۲۶

ایک اور دعا ہے اسے بھی بار پڑھے۔

اللَّهُمَّ عَافِنِي فِي بَدَنِي وَعَافِنِي فِي سَمْعِي
وَعَافِنِي فِي بَصَرِي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ۔

(۱)

اے اللہ! مجھے میرے بدن میں عافیت عطا فرما میرے
کان اور میری آنکھ کو سلامتی عطا فرما میرے سوا کوئی معبود
نہیں۔

یا اللہ! میں سوال کرتا ہوں کہ مجھے اپنے فیصلے پر رضا اور
موت کے بعد زندگی کی ٹھنڈک اپنی ذات کریم کی زیارت
کی لذت، اپنی ملاقات کا شوق عطا فرما نہ کوئی نقصان
وہ چیز مجھے ضرر پہنچائے نہ کوئی فتنہ گمراہ کرے میں تجھ
سے ظلم کرنے یا ظلم کئے جائے کسی پر زیادتی کرنے یا
اپنے آپ پر زیادتی ہونے سے نیز ایسی خطا اور گناہ سے
جیسے تونہ بخشے، پناہ چاہتا ہوں۔

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الرِّضَا بَعْدَ الْقَضَاءِ،
وَبَدَدَ الْعَيْشِ بَعْدَ الْمَوْتِ، وَكَذَلِكَ النَّظَرِ إِلَى
وَجْهِكَ الْكَرِيمِ وَشَوْقًا إِلَى لِقَائِكَ
مِنْ غَيْرِ ضَرَاءٍ مُضْتَرٍّ وَلَا فِتْنَةٍ مُضِلَّةٍ،
وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أَظْلِمَ أَوْ أَظْلَمَ أَوْ أُعْتِدَى
أَوْ يُعْتَدَى عَلَيَّ أَوْ أَكْبِيَ خَطِيئَةً أَوْ ذَنْبًا
وَأَتَّعِفُّهُ۔ (۲)

یا اللہ! دین پر ثابِت قدمی، ہدایت پر قائم رہنے کا سوال
کرتا ہوں، تیری نعمت کے شکر اور اچھی عبادت کا سوال
کرتا ہوں عاجزی کرتے والے اور لیے غیب دل سے اچھے
اخلاق، سچی زبان اور مقبول عمل کا سوال کرتا ہوں تیرے
علم کے مطابق جو بھلائی ہے اس کا سوال کرتا ہوں اور
جو برائی ہے اس سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو اعمال تیرے
علم میں ہیں ان کے لیے بخشش کا طلب گار ہوں بے شک
تو جانتا ہے اور میں نہیں جانتا اور تو غیب کی باتوں کو
خوب جانتا ہے۔

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الثَّبَاتَ فِي الْأَمْرِ
وَالْعَزِيمَةَ فِي الرُّشْدِ، وَأَسْأَلُكَ شُكْرَ
نِعْمَتِكَ وَحُسْنَ عِبَادَتِكَ، وَأَسْأَلُكَ
قَلْبًا خَاشِعًا سَلِيمًا، وَخَلْقًا مُسْتَقِيمًا،
وَلِسَانًا صَادِقًا، وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا، وَأَسْأَلُكَ
مِنْ خَيْرِ مَا تَعْلَمُ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ
شَرِّ مَا تَعْلَمُ، وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا تَعْلَمُ
فَإِنَّكَ تَعْلَمُ وَرَأَى أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَزَمُ
الْغُيُوبِ۔ (۳)

(۱) صحیح بخاری جلد ۲ ص ۳۳۳ کتاب الدعوات

(۲) سنن ابی داؤد جلد ۲ ص ۳۸ کتاب الادب

(۳) المعجم الکبیر للطبرانی جلد ۱۸ ص ۳۱۹ حدیث ۸۲۵

(۴) المعجم الکبیر للطبرانی جلد ۱ ص ۲۹۴ حدیث ۱۹۶۹

یا اللہ! میرے پہلے اور پچھلے پوشیدہ اور ظاہر گناہ تیز وہ گناہ جنہیں تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے بخش دے۔ بے شک تو ہی آگے کرنے والا اور پیچھے رکھنے والا ہے تو ہر چیز پر قادر ہے اور ہر پوشیدہ بات تیرے سامنے ہے۔

یا اللہ! میں تجھ سے ایسے ایمان کا سوال کرتا ہوں جس میں کفر کی طرف، واپسی نہ ہو ایسی نعمت کا جو ختم نہ ہو آنکھوں کی ابدی ٹھنڈک اور ہمیشہ کی اعلیٰ جنت میں سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کا سوال کرتا ہوں۔

یا اللہ! میں تجھ سے پاک چیزوں اچھے اعمال کی بجا آوری، برائیوں کے چھوڑنے اور مساکین سے محبت کا سوال کرتا ہوں میں تجھ سے تیری محبت، تجھ سے محبت کرنے والوں کی محبت اور ایسے عمل کی محبت کا سوال کرتا ہوں جو مجھے تیرے قریب کر دے میری توبہ قبول فرما، مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما اور جب کسی قوم کو آزمائش میں ڈالنا چاہے تو مجھے آزمائش میں ڈالے بغیر موت دے دینا۔ یا اللہ! اپنے علمِ غیب اور مخلوق پر طاقت کے صدقہ مجھے اس وقت تک زندہ رکھو جب تک میرے لیے زندگی بہتر ہے اور جب میرا مزاج بہتر ہو تو مجھے موت دے دینا۔ میں پوشیدہ اور ظاہر دونوں حالتوں میں تجھ سے ڈرنے، خوشی اور غصے کی حالت میں انصاف کی بات کہنے،

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي فَإِنَّكَ أَنْتَ الْمُقَدِّمُ، وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ، وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وَعَلَى كُلِّ غَيْبٍ شَهِيدٌ۔ (۱)

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ إِيْمَانًا لَا يَرْتَدُّ مِنِّي وَلَا يَنْفَعُ وَلَا يَنْفَدُ وَقُرَّةَ عَيْنٍ لَا يَبِيدُ وَمُرَافَقَةً نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَعْلَى جَنَّةِ الْخُلْدِ۔ (۲)

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الطَّيِّبَاتِ وَفِيهِدِ الْخَيْرَاتِ وَتَرْكِ الْمُنْكَرَاتِ، وَحُبِّ الْمَسَاكِينِ أَسْأَلُكَ حُبِّكَ وَحُبَّ مَنْ أَحَبَّكَ، وَحُبَّ كُلِّ عَمَلٍ يُقَرِّبُ إِلَى حُبِّكَ وَأَنْ تَتُوبَ عَلَيَّ وَتَغْفِرَ لِي وَتَرْحَمَنِي، وَإِذَا أَرَدْتَ بِقَوْمٍ فِتْنَةً فَأَقْبِضْ يَدَيْكَ عَلَيْهِمْ غَيْرَ مُفْتُونٍ۔ (۳)

اللَّهُمَّ بَعْلِمِكَ الْغَيْبِ وَقُدْرَتِكَ عَلَى الْخَلْقِ أَحْيَيْتَنِي مَا كَانَتْ الْحَيَاةُ خَيْرًا لِي وَتَوَفَّيْتَنِي مَا كَانَتْ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِي، أَسْأَلُكَ خُسْيَتِكَ فِي الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَكَلِمَةَ الْعَدْلِ فِي الرِّضَا وَالْغَضَبِ وَالْقَصْدِ

(۱) مسند امام احمد بن حنبل جلد ۳ ص ۱۲۳ روایت شراہ بن ادیس

(۲) مستدرک للحاکم جلد اول ص ۵۲۶ کتاب الدعاء

(۳) المستدرک للحاکم جلد اول ص ۵۲۱ کتاب الدعاء

بالداری اور محتاجی میں اعتدال کی راہ اختیار کرنے تیری زیارت کی لذت اور ملاقات کے شوق کا سوال کرتا ہوں نقصان چیز اور گمراہ کن فتنہ سے تیری پناہ چاہتا ہوں یا اللہ! ہمیں ایمان کی زینت سے مزین کر دے اور ہمیں ہدایت دینے والے اور ہدایت یافتہ بنا دے۔

اللَّهُمَّ اَسْمُ لَنَا مِنْ خَشِيَّتِكَ مَا تَحْوُلُ بِهِ
بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَعَاصِيكَ وَمِنْ طَاعَتِكَ
مَا تُبَلِّغُنَا بِهِ جَنَّتِكَ وَمِنْ اَلْيَقِينِ
مَا تُهَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مَصَابِئَ الدُّنْيَا
وَالْآخِرَةِ - (۱)

یا اللہ! ہمیں اپنا خوف اس قدر عطا فرما جو ہمارے
اور تیری نافرمانی کے درمیان حائل ہو جائے ہمیں اس
قدر عبادت کی توفیق عطا فرما جس کے ذریعے تو ہمیں جنت
میں داخل کر دے اور اس قدر یقین عطا فرما جس کے
باعث ہم دنیا اور آخرت کے مصائب کو معمولی سمجھیں۔
یا اللہ! ہمارے چہروں کو اپنے جاسے اور دلوں کو خوف
سے بھر دے ہمارے نفسوں میں اپنی عظمت اس
قدر ڈال دے کہ تیری عبادت کے لیے ہمارے اعضاء
جھک جائیں یا اللہ! اپنی ذات کو ہمارے لیے سب سے
زیادہ محبوب بنا دے اور ہمیں یوں کر دے کہ ہم سب
سے زیادہ تجھ سے خوف رکھیں۔

اللَّهُمَّ اَمَلًا وَجُوهًا مِنْكَ خِيَاةً، وَقُلُوبًا
مِنْكَ قَرَقًا، وَاسْكِنِ فِي نَفُوسِنَا مِنْ عَظَمَتِكَ
مَا تُذَلِّلُ بِهِ جَوَارِحَنَا لِغَدْمَتِكَ وَاجْعَلْكَ
اللَّهُمَّ اَحَبَّ اِلَيْنَا مِنْ سِوَاكَ، وَاجْعَلْنَا
اَخْشَى لَكَ مِنْ سِوَاكَ ، (۲)

یا اللہ! ہمارے اس دن کے آغاز کو بھلائی، درمیان
کو فلاح اور آخر کو کامیابی بنا دے یا اللہ! اس کے
اول کو رحمت درمیان کو نعمت اور آخر کو باعث و عزت
اور بخشش کر دے۔

اللَّهُمَّ اجْعَلْ اَوَّلَ يَوْمِنَا هَذَا صَلَاحًا
وَاَوْسَطَهُ قَلًا وَآخِرَهُ نَجَاحًا اللَّهُمَّ
اجْعَلْ اَوَّلَهُ رَحْمَةً وَاَوْسَطَهُ نِعْمَةً
وَآخِرَهُ تَكْرَمَةً وَمَغْفِرَةً (۳)
الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي تَوَاضَعُ كُلُّ شَيْءٍ لِعَظَمَتِهِ

تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس کی عظمت کے

(۱) المستدرک للحاکم جلد اول ص ۲۳۵ کتاب الدعاء

(۲) المستدرک للحاکم جلد اول ص ۲۸۵ کتاب الدعاء

(۳) سنن النعمان جلد ۲ ص ۱۸۴ حدیث ۶۲۸

سامنے ہر چیز نے تواضع اختیار کی اور اس کی عزت کے سامنے ہر چیز نے سر جھکا لیا اس کی قدرت کے سامنے ہر چیز نے تسلیم خم کیا اور تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے نہیں جس کی ہیبت کے سامنے ہر چیز خاموش ہے اور اس نے ہر چیز کو اپنی حکمت کے مطابق ظاہر کیا اور اس ظاہر کیا اور اس کی بڑائی کے سامنے ہر چیز جھوٹی ہے۔

یا اللہ! حضرت محمد مصطفیٰ آپ کی آل، ازواج مطہرات اور اولاد پر رحمت نازل فرما اور حضرت محمد مصطفیٰ آپ کی آل، ازواج مطہرات اور اولاد پر برکت نازل فرما جیسا کہ تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کی آل کو اپنے زمانے کے لوگوں میں برکت عطا فرمائی۔

یا اللہ! حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرما جو تیرے بندے، نبی اور رسول ہیں کسی سے نہ پڑھے ہوئے نبی اور امانت دار رسول ہیں اور قیامت کے دن آپ کو وہ مقام محمود عطا فرماتا جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے۔

یا اللہ! ہمیں اپنے متقی دوستوں، فلاح پانے والی جماعت اور صالحین بندوں میں سے کر دے ہم سے اپنی مرضی کا کام کرو اور ہمیں ایسے کاموں کی توفیق دے جو ہم سے اچھے لگیں اور ہمیں اچھی طرح پسند کر کے لوٹانا،

وَذَلَّ كُلُّ شَيْءٍ بِعِزَّتِهِ وَخَضَعَ كُلُّ شَيْءٍ
لِمُلْكِهِ وَاسْتَسْلَمَ كُلُّ شَيْءٍ لِقُدْرَتِهِ
وَالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي سَكَنَ كُلُّ شَيْءٍ
لِهَيْبَتِهِ وَأَظْهَرَ كُلُّ شَيْءٍ بِحِكْمَتِهِ
وَتَضَاعَرَ كُلُّ شَيْءٍ لِكِبْرِيائِهِ -

(۱)

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ
وَأَزْوَاجِ مُحَمَّدٍ وَذُرِّيَّتِهِ وَبَارِكْ عَلَى
مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ
كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ
إِبْرَاهِيمَ فِي الْعَالَمِينَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ - (۲)
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَنَبِيِّكَ
وَرَسُولِكَ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ رَسُولِكَ الْأَمِينِ
وَأَعْطِهِ الْمَقَامَ الْمَحْمُودَ الَّذِي وَعَدْتَهُ
يَوْمَ الْبَيْتِ -

(۳)

اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا مِنْ أَوْلِيَاءِكَ الْمُتَّقِينَ
وَحِزْبِكَ الْمُفْلِحِينَ وَعِبَادِكَ الصَّالِحِينَ
وَاسْتَعْمِلْنَا لِمَرْضَاتِكَ عَنَّا وَوَفِّقْنَا
لِمُحَابَبِكَ مَنَّا وَصَرِّفْنَا بِحُسْنِ إِخْتِيَارِكَ لَنَا - (۴)

(۱) کنز العمال جلد ۲ ص ۲۲۸ حدیث ۳۸۶۹

(۲) صحیح مسلم جلد اول ص ۷۵، کتاب الصلوٰۃ

(۳) مستد امام احمد بن حنبل جلد ۴ ص ۱۱۹ روایات ابو مسعود رضی اللہ عنہ

(۴) الترغیب والترہیب جلد اول ص ۱۱۱ کتاب النوافل

یا اللہ! ہم تجھ سے تمام بھلائیوں ان کے آغاز اور اختتام کا سوال کرتے ہیں تمام برائیوں اور ان کے آغاز و اختتام سے تیری پناہ چاہتے ہیں۔

یا اللہ! مجھے مجھ پر جو قدرت حاصل ہے اس کے سبب میری توبہ قبول فرما بے شک توبہ ہی بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے انہی برودباری کے سبب مجھے معاف کر دے بے شک توبہ ہی بخشنے والا، برودباری ہے مجھ پر رحم فرما کہ تومیری حالت کو جانتا ہے بے شک توبہ ہی زیادہ رحم کرنے والا ہے مجھے مجھ پر بادشاہی حاصل ہے اس کے واسطے سے مجھے میرے نفس کا مالک بنا دے اور اسے مجھ پر مسلط نہ کرے شک تو غالب بادشاہ ہے۔

اے اللہ! میں تیری حمد کے ساتھ تیری پاکیزگی بیان کرتا ہوں تیرے سوا کوئی معبود نہیں میں نے برے اعمال کئے اور اپنے نفس پر ظلم کیا تو میرے گناہ بخش دے بے شک تو میرا رب ہے اور گناہوں کو تو ہی بخشتا ہے۔

یا اللہ! مجھے میری ہدایت دکھا دے اور مجھے میرے نفس کی شرارت سے بچالے۔

یا اللہ! مجھے رزقِ حلال عطا فرما اور اس پر مجھ سے باز پرس نہ کرنا اور مجھے جو رزق عطا فرمائے اس پر مجھے صبر عطا کر اور اس کے ذریعے مجھے نیکی کرنے کی توفیق دے

سَأَلْتُكَ جَوَامِعَ الْخَيْرِ وَفَوَاتِحَهُ وَخَوَاتِمَهُ
وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ جَوَامِعِ الشَّرِّ وَفَوَاتِحَهُ
وَخَوَاتِمَهُ - (۱)

اللَّهُمَّ بِقُدْرَتِكَ عَلَيَّ تَبَّ إِنَّكَ أَنْتَ
التَّوَابُ الرَّحِيمُ، وَجَاهِلِكَ عَنِّي اعْفُ
عَنِّي إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفَّارُ الْكَرِيمُ وَبِعِلْمِكَ
بِي أَرْفُقْ بِي إِنَّكَ أَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ،
وَبِمُلْكِكَ لِي مَلِكُنِي نَفْسِي وَلَا تُسَلِّطْهَا
عَلَيَّ إِنَّكَ أَنْتَ الْمَلِكُ الْجَبَّارُ - (۲)

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ
عَمِلْتُ سُوءًا وَظَلَمْتُ نَفْسِي فَاعْفُرْ لِي ذُنُوبِي
إِنَّكَ أَنْتَ رَبِّي وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا
أَنْتَ - (۳)

اللَّهُمَّ لِهَمِّي رُشْدِي وَقِنِي شَرَّ نَفْسِي - (۴)

اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي حَلَالَ رِزْقِي قَبْلَ
عَلَيْهِ وَقِنْنِي بِمَا رَزَقْتَنِي
وَأَسْتَعْمِلُنِي بِهِ صَالِحًا تَقْبَلُهُ

(۱) کنز العمال جلد ۲ ص ۲۱۴ حدیث ۳۸۳۰

(۲)

(۳) الترغیب والترہیب جلد ۲ ص ۴۲۴ کتاب الذکر

(۴) کتاب الاذکار ص ۳۲۹ کتاب جامع الدعوات

اور اسے مجھ سے قبول فرما۔

یا اللہ! میں تجھ سے عفو و عافیت اور حسن یقین کا اور دنیا و آخرت میں معافی کا سوال کرتا ہوں۔

اسے وہ ذات جسے گناہ تکلیف نہیں دیتے اور نہ بخشے سے اسے کوئی کمی آتی ہے مجھے وہ چیز عطا کر جو تجھے نقصان نہیں دیتی اور وہ چیز رحمت فرما جس سے تجھے کوئی کمی نہیں آتی۔

اسے ہمارے رب ہم پر صبر اندیل دے اور ہمیں حالت اسلام میں موت دینا۔

تو دنیا اور آخرت میں میرا ولی ہے مجھے حالت اسلام میں موت دینا اور نیک لوگوں کے ساتھ ملا دینا۔

یا اللہ! تو ہمارا مولا ہے پس ہمیں بخش دے اور پرہ رحم فرما تو بہترین بخشنے والا ہے ہمارے لیے اس دنیا میں اور آخرت میں بھلائی لکھ دے ہم نے تیری طرف ہی راہ پائی۔

اسے ہمارے رب! ہم نے تجھ پر ہی بھروسہ کیا تیری طرف ہی رجوع کیا اور تیری طرف ہی لوٹنا ہے۔

وَمِنِي - (۱)

أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ وَحُسْنَ الْيَقِينِ
وَالْمَعَاوَاةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ (۱)
يَا مَنْ لَا تَقْصِرُ الذُّنُوبَ وَلَا تَنْقُصُ الْمَغْفِرَةَ
هَبْ لِي مَا لَا يَضُرُّكَ وَأَعْطِنِي مَا لَا
يَنْقُصُكَ -

(۳)

رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ -

(۲)

أَنْتَ وَبِئْسَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ تَوَفَّنِي
مُسْلِمًا وَالْحَقِّنِي بِالصَّالِحِينَ - (۵)
أَنْتَ وَبَيْنَا فَاعْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ
خَيْرُ الْغَافِرِينَ وَكُتِبَ لَنَا فِي هَذِهِ
الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هَدُنَا
إِلَيْكَ - (۶)

رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنبَاؤُنَا وَإِلَيْكَ
الْمَصِيرُ - (۷)

(۱) المستدرک للحاکم جلد اول ص ۵۱۰ کتاب الدعاء

(۲) سنن ابن ماجہ ص ۲۸۴ کتاب الدعاء

(۳) تاریخ ابن عساکر جلد ۵ ص ۳۱۲ عرف الراہ

(۴) قرآن مجید سورۃ اعراف آیت ۱۲۶

(۵) قرآن مجید سورۃ یوسف آیت ۱۰

(۶) قرآن مجید سورۃ اعراف آیت ۱۵۵، ۱۵۶

(۷) قرآن مجید سورۃ ممتحنہ آیت ۲

رَبَّنَا وَتَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ
الظَّالِمِينَ - (۱)

رَبَّنَا وَتَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا
وَاعْفِرْ لَنَا رَبَّنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ
الْحَكِيمُ - (۲)

رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَأَسْرِفَاتِنَا فِي أَمْرِنَا
وَتَبَّتْ أَقْدَامُنَا وَالصِّرَاطَ عَلَى الْقَوْمِ
الكَافِرِينَ - (۳)

رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِأُولَ الْخَوَانِ الَّذِينَ سَبَقُونَا
بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًا
لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ -
(۴)

رَبَّنَا إِنَّا أَمِنْتُكَ لَدُنْكَ بِرَحْمَةٍ وَهَيْبَةٍ
لَنَا مِنْ أَمْرِنَا مُشَدَّدًا - (۵)

رَبَّنَا إِنَّا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَفِي الآخِرَةِ
حَسَنَةٌ وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ - (۶)

رَبَّنَا إِنَّا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي بِالإِيمَانِ
أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا

اے ہمارے رب ہمیں ظالم قوم کے لیے آزمائش نہ
بنا،

اے ہمارے رب! ہمیں ان لوگوں کے لیے آزمائش
نہ بنانا جنہوں نے کفر کیا اور ہمیں بخش دینا بے شک
تو ہی غالب حکمت والا ہے۔

اے ہمارے رب ہمارے لیے ہمارے گناہوں اور
ہمارے کاموں میں ہماری زیادتیوں کو بخش دے ہمیں
ثابت قدم رکھ اور کافروں کے خلاف ہماری مدد فرما۔

اے ہمارے رب! ہمیں اور ہمارے ان بھائیوں کو
بخش دے جو ایمان کے ساتھ ہم سے پہلے چلے گئے
اور ہمارے دلوں میں ایمان والوں کے لئے کینہ نہ ڈالنا
بے شک تو مہربان رحم کرنے والا ہے۔

اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھلائی عطا کر اور آخرت
میں بھلائی عطا فرما اور ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما،
اے ہمارے رب ہم نے ایک پکارنے والے کو سناؤ
ایمان کے لیے بلا رہا تھا کہ اپنے رب پر ایمان لاؤ پس ہم

(۱) قرآن مجید سورہ یونس آیت ۸۵

(۲) قرآن مجید، سورہ ممتحنہ آیت ۵

(۳) قرآن مجید سورہ آل عمران آیت ۱۴۷

(۴) قرآن مجید سورہ حشر آیت ۱۰

(۵) قرآن مجید سورہ کہف آیت ۱۰

(۶) قرآن مجید سورہ بقرہ آیت ۱۰۲

ایمان لائے اے ہمارے رب ہمارے لیے ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہم سے ہماری غلطیوں کو مٹا دے اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ وفات دے اے ہمارے رب ہمیں وہ عطا کر جو تو نے اپنے رسولوں کے ذریعے ہم سے وعدہ کیا اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کرنا بیشک تو وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔

اے ہمارے رب اگر ہم بھول جائیں یا غلطی کریں تو ہمیں نہ پکڑنا۔

اے میرے رب مجھے اور میرے والدین کو بخش اور ان پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے بچپن میں میری پرورش کی۔ مومن مردوں اور عورتوں اور مسلمان مردوں اور عورتوں کو بخش دے ان میں سے جو زندہ ہیں اور جو فوت ہو گئے ہیں۔

اے میرے رب بخش دے، رحم فرما اور جو گناہ تیرے علم میں ہیں ان کو معاف فرما دے تو سب سے زیادہ عزت و اکرام والا ہے تو سب سے بہتر رحمت کرنے والا ہے اور سب سے اچھا بخشنے والا ہے ہم اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں اور ہم نے اسی کی طرف ٹوٹنا ہے نیکی کرنے اور برائی سے رکنے کی طاقت صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے ہمیں اللہ تعالیٰ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے حضرت محمد مصطفیٰ (صلی اللہ علیہ وسلم)

رَبَّنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَقَّنَا مِنَ الْاَذْرَارِ
رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَى رِسْلِكَ وَلَا تُخْزِنَا
يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ
الْوَعْدَ۔

(۱)

رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا اِنْ نَسِينَا اَوْ اٰخْطَاْنَا۔ (۲)
(سورت کے آخر تک)

رَبِّ اغْفِرْ لِيْ وَلِوَالِدِيْ وَارْحَمْهُمَا كَمَا
رَبَّيْنِيْ صَغِيْرًا وَاغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ
وَالْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ الْاَوْحِيَاءِ
مِنْهُمْ وَالْاَمْوَاتِ۔

(۳)

رَبِّ اغْفِرْ وَاَرْحَمْ وَتَجَاوَزْ عَمَّا تَعْلَمُ
وَاَنْتَ الْاَعْدُوْا الْاَكْرَمُ وَاَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِيْنَ
وَاَنْتَ خَيْرُ الْغَافِرِيْنَ وَاَنَا لِلّٰهِ وَاَنَا اِلَيْهِ
رَاجِعُوْنَ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ
الْعَظِيْمِ، وَحَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ
وَصَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ خَاتَمِ النَّبِيّٰتِ
وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا

(۱) قرآن مجید، سورہ آل عمران آیت ۱۹۳ تا ۱۹۴

(۲) قرآن مجید سورہ بقرہ آیت ۲۸۶

(۳) سنن ابن ماجہ ص ۲۶۹ ابواب الاذیاء کتاب الصغائر الکبیر جلد ۲ ص ۱۸۲ حدیث ۵۰۲

پر جو آخری نبی ہیں اور آپ کے آل و اصحاب پر درود شریف اور بہت سلام ہو۔

(۱)

استعاذہ :

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول مختلف اقسام کے استعاذہ۔

یا اللہ! میں سچل سے تیری پناہ چاہتا ہوں، بزدلی سے تیری پناہ میں آتا ہوں نہایت خستہ عمر کی طرف لوٹائے جانے سے تیری پناہ کا طالب ہوں دنیا کے فتنہ سے تیری پناہ چاہتا ہوں اور عذابِ قبر سے تیری پناہ کا طالب گزار ہوں۔

یا اللہ! میں اس لالچ سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو دل پر مہر لگا دے اور بے محل و بے موقع طمع سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أُرَدَّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ۔ (۲)

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ طَمَعٍ يَهْدِي إِلَى طَمَعٍ وَمِنْ طَمَعٍ فِي غَيْرِ مَطْمَعٍ وَمِنْ طَمَعٍ حَيْثُ لَا مَطْمَعٍ۔ (۳)

یا اللہ! میں غیر نفع بخش علم، نہ ڈرنے والے دل، غیر مقبول دعا، نہ پڑھنے والے نفس سے تیری پناہ چاہتا ہوں (یا اللہ) میں بھوک سے تیری پناہ چاہتا ہوں کیوں کہ یہ میرا ساتھی ہے چنانچہ سے پناہ مانگتا ہوں وہ بڑی راز دار ہے مستی سے، بزدلی سے بڑھاپے سے اور رسوائی والی عمر سے، فتنہ، دجال اور عذابِ قبر سے، زندگی اور موت کے فتنہ سے تیری پناہ چاہتا ہوں یا اللہ! ہم تجھ سے ایسے دل چاہتے ہیں جو بہت نرم، عاجزی کرنے والے اور تیرے راستے کی طرف رجوع کرنے والے ہوں یا اللہ! میں تجھ سے تیری مغفرت کے لوازمات اور تیری رحمت کے

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ وَقَلْبٍ لَا يَخْشَعُ وَدُعَاءٍ لَا يُسْمَعُ وَنَفْسٍ لَا تَشْبَعُ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُوعِ فَإِنَّهُ يُلْسُ الضَّجِيعَ وَمِنَ الْجِبَانَةِ فَإِنَّهَا بَلَسَتْ الْبِطَانَةَ وَمِنَ الْكَسَلِ وَالْبُخْلِ وَالْجُبْنِ وَالْمَهْرَمِ، وَمِنْ أَنْ أُرَدَّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الدَّجَالِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ قَلْبًا آوَاهَةً مَخْبِئَةً مُنِيبَةً فِي سَبِيلِكَ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ وَ

(۱) مسند امام احمد بن حنبل جلد ۶ ص ۲۱۶ مرویات ام سلمہ رضی اللہ عنہ

(۲) صحیح بخاری جلد ۲ ص ۹۲۲ کتاب الدعوات

(۳) مسند امام احمد بن حنبل جلد ۵ ص ۲۴ مرویات معاذ رضی اللہ عنہ

اسباب ہر گناہ سے سلامتی، ہر نیکی کی غنیمت، جنت کے ساتھ کامیابی اور جہنم سے نجات کا سوال کرتا ہوں۔

یا اللہ! میں گر کر مرنے سے تیری پناہ چاہتا ہوں غم، ڈوبنے اور دیوار کے نیچے آنے سے تیری پناہ چاہتا ہوں جہاد میں پیٹھ پھیر کر بھاگتے ہوئے مرنے سے تیری پناہ چاہتا ہوں دنیا کی طلب میں فوت ہونے سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔

یا اللہ! جو کچھ میں جانتا ہوں اور جو کچھ نہیں جانتا سب کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔

یا اللہ! مجھے تیری عادات برے اعمال، بیماریوں اور خواہشات سے دور رکھ۔

یا اللہ! میں مصیبت کی سختی بد بختی کے پانے، برے فیصلے اور دشمنوں کے ہنسنے سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔

یا اللہ! میں کفر، قرض اور محتاجی سے تیری پناہ چاہتا ہوں یا اللہ میں عذاب جہنم سے تیری پناہ چاہتا ہوں اور دجال کے فتنے سے تیری پناہ کا طالب ہوں۔

مَوْحِيَاتِ رَحْمَتِكَ وَالسَّلَامَةَ مِنْ كُلِّ
إِثْمٍ، وَالْغَيْبَةَ مِنْ كُلِّ بَرٍّ، وَالْقَوْنَ
بِالْجَنَّةِ وَالنَّجَاةَ مِنَ النَّارِ - (۱)

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ التَّرَدِّي
وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبَعْدِ وَالْفَرَقِ وَالْمُدَّوْمِ،
وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أَمُوتَ فِي سَبِيلِكَ مَدْبِرًا
وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أَمُوتَ فِي تَطَلُّبِ
الدُّنْيَا - (۲)

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا عَلِمْتُ
وَمِنْ شَرِّ مَا لَمْ أَعْلَمْ - (۳)

اللَّهُمَّ جَنِّبْنِي مُنْكَرَاتِ الْأَخْلَاقِ وَالْأَعْمَالِ
وَالْأَدْوَاءِ وَالرُّهُوعِ - (۴)

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ جَهْدِ الْبَلَاءِ
وَدَرْكِ الشَّفَاءِ وَسُوءِ الْقَضَاءِ وَشِمَاتِهِ
الْأَعْدَاءِ - (۵)

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكُفْرِ وَالذَّنْبِ
وَالْفَقْرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ
وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَالِ - (۶)

(۱) مستدرک للحاکم جلد اول ص ۳۴۵ کتاب الدعاء

(۲) کنز العمال جلد ۲ ص ۱۸۶ حدیث ۳۶۴۰

(۳) کنز العمال جلد ۲ ص ۱۴۹ حدیث ۳۶۲۸

(۴) کنز العمال جلد ۲ ص ۲۱۲ حدیث ۳۸۱۵

(۵) صحیح بخاری جلد ۲ ص ۹۷ کتاب القدر

(۶) المستدرک للحاکم جلد اول ص ۳۵ کتاب الایمان

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ سَمْعِي
وَبَصَرِي وَشَرِّ لِسَانِي وَقَلْبِي وَشَرِّ
مَنْبِي - (۱)

یا اللہ! میں کان اور آنکھ کے شر، زبان اور دل کے
شر اور مادہ منویہ کے شر سے تیری پناہ چاہتا
ہوں۔

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ جَارِ السُّوءِ فِي
دَارِ الْمَقَامَةِ فَإِنْ جَارَ الْبَادِيَةَ يَتَحَوَّلُ - (۲)
اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْقَسْوَةِ وَالْعَفْلَةِ
وَالْعَيْلَةِ وَالذَّلَّةِ وَالْمُسْكِنَةِ وَأَعُوذُ بِكَ
مِنَ الْكُفْرِ وَالْفَقْرِ وَالْفُسُوقِ وَالشَّقَاقِ
وَالنِّفَاقِ وَسُوءِ الْإِخْلَاقِ وَصَيْفِ
الْأَرْزَاقِ وَالسَّمْعَةِ وَالرِّيَاءِ وَأَعُوذُ بِكَ
مِنَ الصَّمَمِ وَالْبُكْمِ وَالْعَمَى
وَالجُبُونِ وَالْجُدَامِ وَالْبَرَصِ وَسَيِّئِ
الرَّسْقَامِ - (۳)

یا اللہ! میں سکونت کے اسے پڑوسی سے تیری پناہ
چاہتا ہوں کیوں کہ جنگل (سفر) کا پڑوسی بدل جاتا ہے۔
یا اللہ! میں دل کی سختی، غفلت، محتاجی، ذلت اور مسکینی
سے تیری پناہ چاہتا ہوں یا اللہ! میں کفر، محتاجی، نافرمانی
مناقت، برے اخلاق، رزق کی تنگی اور ربا کاری
سے تیری پناہ چاہتا ہوں بہرہ پن، گونگا پن اندھا پن،
جنون کوڑھ، بھروس اور بری بیماریوں سے تیری پناہ
چاہتا ہوں۔

یا اللہ! میں تیری نعمت کے زوال، عاقبت کے لوٹ
جانے، اچانک آنے والے عذاب اور تیری تمام
ناراضگیوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ زَوَالِ نِعْمَتِكَ
وَمِنْ تَحَوُّلِ عَاقِبَتِكَ وَمِنْ فَجَاءَةِ
نِعْمَتِكَ وَمِنْ جَمِيعِ سَخَطِكَ - (۴)
اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ النَّارِ -

یا اللہ! میں جہنم کے عذاب، آگ کے فتنہ، قبر کے عذاب، مالداری کے فتنہ کے شر اور محتاجی کے
فتنہ کے شر اور مسیح و جلال کے فتنہ کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ قرض اور گناہ سے تیری پناہ کا طالب ہوں۔
یا اللہ! میں ایسے نفس سے جو سیر نہ ہو ایسے دل سے جو عاجزی نہ کرے بے فائدہ نماز سے اور غیر مقبول دعا سے

(۱) مسند امام احمد بن حنبل جلد ۲ ص ۲۶۹ ماروی عن ابی شبتہ

(۲) المستدرک للحاکم جلد اول ص ۵۳۲ کتاب الدعاء (۳) المستدرک للحاکم جلد اول ص ۵۳۰ کتاب الدعاء

(۴) المستدرک للحاکم جلد اول ص ۵۳۱ کتاب الدعاء (۵) صحیح بخاری جلد ۲ ص ۴۲۹ کتاب الدعوات

(۶) مسند امام احمد بن حنبل جلد ۲ ص ۱۶۷ روایات عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ

تیری پناہ چاہتا ہوں غم اور سینے کے قند سے بھی تیری پناہ کا طالب ہوں (۱)
 اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ غَلْبَةِ الْعُودِ
 وَشَمَاتَةِ الْأَعْدَاءِ (۲)

یا اللہ! میں دشمن کے غلبہ اور دشمنوں کے تمسخر کا نشانہ
 بننے سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔
 حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ہر تمام عالمین کے منتخب بندوں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو۔

پانچواں باب

مختلف امور سے متعلق ماثورہ دعائیں

جب صبح ہو جائے اور تم اذان سنو تو مؤذن کو جواب دینا مستحب ہے (واجب ہے) اور ہم اس کا ذکر کر چکے ہیں بیت الخلاء میں داخل ہوتے اور نکلتے وقت کی دعائیں نیز وضو کی دعائیں بھی طہارت کے بیان میں ہم نے بیان کر دی ہیں

مسجد کی طرف جاتے وقت کی دعا

جب مسجد کی طرف جاؤ تو یہ دعا مانگو۔

یا اللہ! میرے دل میں نور پیدا فرما میری زبان میں میرے کانوں میں میری آنکھوں میں نور پیدا کر دے یا اللہ میرے آگے پیچھے اور اوپر نیچے نور کر دے یا اللہ مجھے نور عطا فرما یہ دعا بھی مانگے۔

اللَّهُمَّ اجْعَلْ فِي قَلْبِي نُورًا وَفِي لِسَانِي نُورًا وَاجْعَلْ فِي سَمْعِي نُورًا وَاجْعَلْ فِي بَصَرِي نُورًا وَاجْعَلْ خَلْقِي نُورًا وَأَمَامِي نُورًا وَاجْعَلْ مِنِّي نُورًا، اللَّهُمَّ اعْطِنِي نُورًا۔ (۱)

یا اللہ! میں مانگنے والوں کے تیرے ذمہ کرم پرستی کے واسطے سے، تیری طرف اس چلنے کے توسل سے تجھ سے سوال کرتا ہوں میں تیری نعمتوں کی ناشکری کرتے ہوئے، اکڑتے ہوئے نیز ریاکاری اور دوسروں کو سنانے کی خاطر نہیں نکلا تیرے عذاب سے ڈرتے ہوئے اور تیری رضائلاش کرتے ہوئے نکلا ہوں میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ مجھے جہنم کی آگ سے بچالے اور میرے گناہ بخش دے کیونکہ تو ہی گناہوں کو بخشتے والا ہے۔

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِحَقِّ السَّائِلِينَ عَلَيْكَ وَبِحَقِّ بَشَائِ هَذَا إِلَيْكَ فَإِنِّي لَمَّا خَرَجْتُ أَسْرًا وَلَا بَطْرًا وَلَا رِيَاءًا وَلَا سُمْعَةً، خَرَجْتُ اتِّقَاءَ سَخَطِكَ، وَابْتِعَاءَ مَرْضَاتِكَ، فَاسْأَلُكَ أَنْ تُنْقِذَنِي مِنَ الشَّارِ وَأَنْ تَغْفِرَ لِي ذُنُوبِي إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ۔ (۲)

(۱) صحیح بخاری جلد ۲ ص ۶۳۵ کتاب الدعوات

(۲) مستدراک احمد بن حنبل جلد ۳ ص ۲۱ روایات ابی سعید رضی اللہ عنہ

گھر سے کسی کام کے لیے نکلتے وقت کی دعا :

بِسْمِ اللّٰهِ رَبِّ اعُوْذُ بِكَ اَنْ اَظْلَمَ اَوْ اَظْلَمَ
اَوْ اَجْهَلَ اَوْ يُّجْهَلَ عَلَيَّ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ
الرَّحِيْمِ رَحُوْلٌ وَّلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ
بِسْمِ اللّٰهِ التَّكْلِيْفُ عَلَى اللّٰهِ -

(۱)

اللہ کے نام سے نکلتا ہوں میں ظلم کرنے سے اور یہ کہ
مجھ پر ظلم کیا جائے، جہالت کا سلوک کرنے اور جہالت
کا شکار ہونے سے تیری پناہ چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ کے
نام سے جو رحمت والا مہربان ہے اللہ تعالیٰ کے سوا کہیں سے
طاقت حاصل نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ کے نام سے اور اللہ تعالیٰ
پر بھروسہ کرتے ہوئے۔ (۲)

مسجد میں داخل ہوتے وقت :

مسجد میں داخل ہوتے وقت پہلے وایاں پاؤں اندر رکھو اور پھر یہ پڑھو۔

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ
وَسَلِّمُ اللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ جَمِيْعَ ذُنُوْبِيْ
وَاقْتَحِرْ لِيْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ - (۳)

یا اللہ! حضرت محمد مصطفیٰ اور آپ کی آل پر رحمت اور
سلامتی نازل فرما یا اللہ میرے تمام گناہ بخش دے اور
میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔

جب مسجد میں کسی خرید و فروخت کرتے دیکھو تو یوں کہو۔

لَا اَرْبَحَ اِلَّا بِاللّٰهِ تِجَارَتِكَ - (۴)

اللہ تعالیٰ تجھے تجارت میں نفع نہ دے۔

اور جب مسجد میں کسی کو گشتہ چیز کا اعلان کرتے دیکھو تو یوں کہو۔

لَا رَدَّهَا اِلَّا اِلَيْكَ - (۵)

اللہ تعالیٰ یہ چیز تمہاری طرف نہ لوٹائے۔

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی حکم دیا ہے۔ جب صنّیح کی دو سنتیں پڑھو تو یوں کہو۔

اللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْأَلُكَ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِكَ
یا اللہ! میں تجھ سے تیری رحمت کا سوال کرتا ہوں جس کے

(۱) المستدرک للحاکم جلد اول ص ۵۱۹ کتاب الدعاء

(۲) سنن ابن ماجہ ص ۲۸۵ الباب الدعاء

(۳) سنن ابن ماجہ ص ۵۶ باب الدعاء عند دخول المسجد

(۴) سنن دارمی جلد اول ص ۲۶۶ حدیث ۱۴۰۸

(۵) سنن دارمی جلد اول ص ۲۶۶ حدیث ۱۴۰۸

تَهْدِي بِهَا قَلْبِي -

ذریعے تو میرے دل کو ہدایت دے۔

یہ دعا آخر تک پڑھے جیسا کہ ہم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہوئے پہلے ذکر کی ہے (۱)

رکوع میں

جب رکوع کرو تو یوں کہو، یہ نوافل میں ہے فرائض و سنن میں نہیں

یا اللہ! میں نے تیرے لیے رکوع کیا تیرے لیے شروع کیا
بکھر پر ایمان لایا تیرے لیے اسلام لایا کھڑی پر بھر دیا
تو میرا رب ہے میرے کان، میری آنکھیں، میرا مغز میری
ہڈیاں، میرے ٹپھے، اور جو کچھ میرے قدوں نے اٹھایا ہوا
ہے (یعنی پورے جسم) سب نے تمام جہانوں کے پالنے والے
کے لیے عاجزی کا اظہار کیا۔

اللَّهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ وَلَكَ خَشَعْتُ وَبِكَ
آمَنْتُ وَلَكَ أَسَأَمْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ أَنْتَ
رَبِّي خَشَعَ سَمْعِي وَبَصَرِي وَمَنْحِي وَعَظْمِي
وَعَصِي وَمَا اسْتَقَلْتُ بِهِ قَدَحِي يَا رَبِّ
الْعَالَمِينَ -

(۲)

اگر تم جاہلو تو تین بار "سبحان ربی العظیم" بھی کہو (۳) یا یہ الفاظ ہو۔

اللہ تعالیٰ پاک و مقدس ہے وہ فرشتوں اور روح
رجبریل علیہ السلام کا رب ہے۔

سُبْحَانَ قُدُّوسٍ رَبِّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ -

(۴)

رکوع سے سر اٹھاتے وقت

جب رکوع سے سر اٹھاؤ تو یہ کلمات پڑھو۔

اللہ تعالیٰ نے اس کی بات سن لی جس نے اس کی تعریف کی
اسے ہمارے رب! تیرے ہی لیے تعریف ہے جو آسمانوں
اور زمین کے بھرنے کے برابر ہے اور اس کے علاوہ
ہو تو چاہے وہ بھری ہوئی تو بزرگی اور تعریف والا ہے
جو کچھ بندہ کہتا ہے تو اس کا زیادہ حق دار ہے ہم سب

سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ يَا رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ
مِلءَ السَّمَاوَاتِ وَمِلءَ الْأَرْضِ وَمِثْلَ
مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدَ أَهْلِ الثَّنَاءِ وَالْمَجْدِ
حَقٌّ مَا قَالَ الْعَبْدُ وَكُنَّا لَكَ عَبْدًا لَوْ مَانَع
لِمَا عَطَيْتَ، وَلَا مَعْطَى لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ

(۱) کنز العمال جلد ۲ ص ۶۴۹ ص ۶۴۸

(۲) صحیح مسلم جلد اول ص ۲۶۳ صلاة المسافرين

(۳) سنن ابن ماجہ ص ۴۲ کتاب الصلاة

(۴) صحیح مسلم جلد اول ص ۱۹۲ کتاب الصلاة

ذَالْحِجَّةِ مِنْكَ الْجِدُّ،

تیرے بندے ہیں جو کچھ تو عطا کرے اس سے کوئی روک نہیں سکتا اور جس سے تو روکے کوئی شخص دے نہیں سکتا اور

(۱)

کسی شرافت والے کو اس کی شرافت و بزرگی تجھ سے بچا نہیں سکتی۔

سجدے میں

جب تم سجدے میں جاؤ تو یوں کہو۔

اللَّهُمَّ لَكَ سَجَدْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَلَكَ
اسَلَّمْتُ سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ وَصَوَّرَهُ
وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ، فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ
الْخَالِقِينَ، اللَّهُمَّ سَجَدَ لَكَ سُودِي
وَخِيَالِي وَأَمَّنْ بِكَ فَوَادِي أَبْوَعِ بِنِعْمَتِكَ
عَلَيَّ وَأَبْوَعِ بِي وَهَذَا مَا جَنَيْتُ عَلَى
نَفْسِي فَأَغْفِرْ لِي فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ
إِلَّا أَنْتَ۔

(۲)

یا تین مرتبہ "سبحان ربی الاعلیٰ کہے۔ (۳)

نماز سے فراغت پر جب نماز سے فارغ ہو تو یہ کلمات پڑھے۔

اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ
تَبَارَكَتَ يَا ذَا الْجَدَلِ وَالْإِكْرَامِ۔ (۴)
یا اللہ! تو سلامتی عطا کرنے والا ہے سلامتی تیری طرف
سے ہی ہے لے جلال و عزت والے تو برکت والا ہے۔
اور اس کے علاوہ وہ دعائیں مانگے جن کا ہم نے ذکر کیا ہے۔

(۱) صحیح مسلم جلد اول ص ۱۹۰ کتاب الصلوٰۃ

(۲) صحیح مسلم جلد اول ص ۲۶۲ صلاۃ المسافرین

(۳) سنن ابن ماجہ ص ۶۴ کتاب الصلوٰۃ

(۴) مسند امام احمد بن حنبل جلد ۵ ص ۲۷۵ روایات ثوبان رضی اللہ عنہ

مجلس سے اٹھتے وقت | جب مجلس سے اٹھو تو یہ دعا مانگو۔

یا اللہ! تو پاک ہے اور مستحق حمد ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں میں تجھ سے بخشش مانگتا ہوں اور تیری بازگاہ میں توبہ کرتا ہوں میں تے بڑے عمل کئے اور اپنے نفس پر ظلم کیا پس تو مجھے بخش دے تیرے سوا گناہوں کو معاف کرنے والا کوئی نہیں۔

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ اسْتَهْدُكَ
لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ اسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ
إِلَيْكَ عَمِلْتُ سُوءًا وَظَلَمْتُ نَفْسِي
فَاغْفِرْ لِي فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا
أَنْتَ - (۱)

بازار میں داخل ہوتے وقت

جب بازار میں داخل ہوتو یوں کہے۔

اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں اسی کی بادشاہی ہے اور وہی تعریف کے لائق ہے وہ زندہ رکھتا اور مارتا ہے وہ زندہ ہے اس کے لیے موت نہیں بھلائی اسی کے قبضے میں ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ
لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ
وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ
عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ - (۲)

اللہ کے نام سے داخل ہوتا ہوں بے شک اس بازار اور جو کچھ اس میں ہے، کی بھلائی کا سوال کرتا ہوں اس بازار اور جو کچھ اس میں ہے کی برائی سے تیری پناہ چاہتا ہوں یا اللہ! میں اس میں تھوٹی قسم اور نقصان دہ سودے سے تیری پناہ کا طالب ہوں۔

بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَ هَذِهِ
السُّوقِ وَخَيْرَ مَا فِيهَا اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ
بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا فِيهَا اللَّهُمَّ
إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَصِيبَ فِيهَا يَمِينًا
فَاجِرَةً أَوْ صَفْقَةً خَاسِرَةً - (۳)

قرض کی ادائیگی کے لیے | اگر تم پر قرض ہو تو یہ دعا مانگو۔

(۱) التزئیب والترہیب جلد ۲ ص ۲۴۲ کتاب الذکر

(۲) سنن ابن ماجہ ص ۱۶۲ ابواب التجارات

(۳) مشکوٰۃ المصابیح ص ۲۱۶ باب الاستعاذہ

یا اللہ! مجھے حرام سے بچاتے ہوئے اپنے مال کے ساتھ کفایت فرما اور اپنے فضل و کرم سے مجھے اپنے غیر سے بے نیاز کر دے۔

اللَّهُمَّ الْفَقِي بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ
وَاعْنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ -

(۱)

نیا لباس پہنتے وقت

جب نیا لباس پہنو تو یوں کہو۔

یا اللہ! تو نے مجھے یہ لباس پہنایا تو تیرے لیے حمد ہے
میں اس کی بھلائی اور جس مقصد کے لیے یہ بنایا گیا اس
کی بھلائی کا سوال کرتا ہوں اور تجھ سے اس کی برائی
اور جس مقصد کے لیے یہ بنایا گیا اس کی برائی سے تیری
پناہ چاہتا ہوں۔

اللَّهُمَّ كَسَوْتَنِي هَذَا الثَّوْبَ فَلَكَ
الْحَمْدُ أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِهِ وَخَيْرِ مَا
صَنَعَ لَهُ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهِ وَشَرِّ مَا
صَنَعَ لَهُ -

(۲)

ناپسندیدہ بات دیکھنے پر

جب کوئی بدشگون محسوس ہو تو یوں کہو۔

یا اللہ! نیکی لانے والا بھی تو ہے اور برائی کو لے
جانے والا بھی تو ہی ہے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی طاقت
حاصل نہیں ہوتی۔

اللَّهُمَّ لَا يَأْتِي بِالْحَسَنَاتِ إِلَّا أَنْتَ وَلَا
يَذْهَبُ بِالسَّيِّئَاتِ إِلَّا أَنْتَ لَا حَوْلَ وَلَا
قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ - (۳)

(۳)

چاند دیکھتے وقت

جب چاند دیکھو تو یہ دعا مانگو۔ اور اس سے پہلے تین مرتبہ اللہ اکبر کہو۔

یا اللہ! اس چاند کو ہمارے لیے امن، ایمان، نیکی، سلامتی،
اسلام، اپنی چاہت اور رخصت کے مطابق عمل کی توفیق اپنی ناراضگی
والے اعمال سے حفاظت کا ذریعہ بنا (اسے چاند) میرا اور
تیرا رب اللہ ہے۔ (اور یہ بھی کہے)

اللَّهُمَّ اهْدِنَا سُبُلَ الْبِرِّ وَالْإِيمَانِ
وَالسَّلَامَةِ وَالسَّلَامَةِ وَالسَّلَامَةِ وَالسَّلَامَةِ
لِمَا تَحِبُّ وَتَرْضَى وَالْحِفْظِ عَمَّنْ تَسْخَطُ
رَبِّي وَرَبِّكَ اللَّهُ -

(۱) المستدرک للحاکم جلد اول ص ۳۸ کتاب الدعاء۔

(۲) کتاب عمل الیوم واللیلہ ص ۴۴ باب ما یقول اذا استجد ثوباً

(۳) سنن ابی داؤد جلد ۲ ص ۱۹۱ کتاب الکھاتمہ،

(۴) سنن دارمی جلد اول ص ۳۶ کتاب الصوم

هَلَالٌ رُسُودٌ وَخَيْرٌ، آمَنْتُ بِخَالِقِكَ ،
اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَ هَذَا الشَّهْرِ وَخَيْرِ
الْقَدَرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ لَوْ مِ الْحَشْرِ-

(۱)

ہدایت و بھلائی کا چاند ہے اسے چاند اپنی تیرے
خالق پر ایمان لایا اللہ! میں تجھ سے اس مہینے کی بھلائی اور
اچھی تقدیر کا سوال کرتا ہوں اور اس سے پہلے تین بار اللہ اکبر
کہے روز قیامت کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔

آندھی چلتے وقت

جب آندھی چلے تو یہ دعا مانگو۔

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَ هَذِهِ الرِّيحِ وَخَيْرِ
مَا فِيهَا وَخَيْرَ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ وَنَعُوذُ بِكَ
مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا فِيهَا وَمِنْ شَرِّ مَا
أُرْسِلَتْ بِهِ-

(۲)

یا اللہ! میں تجھ سے اس ہوا کی بھلائی اور جو کچھ اس میں ہے
اس کی بھلائی، جس کے ساتھ اسے بھیجا گیا اس کی بھلائی
کا سوال کرتا ہوں اس کے شر اس میں جو کچھ ہے اس کے
شر اور جس کے ساتھ اسے بھیجا گیا اس کے شر سے تیری
پناہ چاہتا ہوں۔

کسی کی وفات پر

جب تمہیں کسی کی وفات کی خبر پہنچے۔ تو یوں کہو۔

(ترجمہ نیچے ہے)

إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاغِبُونَ - (۳)

إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ - (۴)

بے شک ہم اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں اور بے شک ہم نے اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ (۵)
اور بے شک ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔

یا اللہ! اسے نیکو کاروں میں لکھو اس کے نامہ اعمال کو اعلیٰ علیین میں کر دو اور اس کے پیمانہندگان کی حفاظت و
نگہبانی فرمادیا اللہ! ہمیں اس کے اجر سے محروم نہ کرنا اور نہ اس کے بعد ہمیں قہقہے میں ڈالنا ہمیں اور اسے بخش دے۔

(۱) سنن ابی داؤد جلد ۱ ص ۳۳۹ کتاب الادب / مسند امام احمد بن حنبل جلد ۵ ص ۳۲۹ روایات عباده بن صامت رضی اللہ عنہ

(۲) جامع ترمذی ص ۹۴، ابواب الدعوات۔

(۳) قرآن مجید، سورہ بقرہ آیت ۱۵۶

(۴) قرآن مجید سورہ زخرف آیت ۱۳

(۵) کتاب عمل الیوم واللیلۃ ص ۱۵۱ باب ما یقول اذا بلغه وفاة اخیر

صدقہ دیتے وقت | صدقہ دیتے وقت یہ دعا مانگو:

اے ہمارے رب اہم سے قبول فرما بے شک تو ہی
سننے جانتے والا ہے۔

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

(۱)

نقصان اٹھانے پر | جب کوئی نقصان ہو تو یہ پڑھے۔

عنقریب ہمارا رب ہمیں اس سے بہتر عطا فرمائے گا بیشک
ہم اپنے رب کی طرف رغبت رکھنے والے ہیں۔

عَسَى رَبَّنَا أَنْ يُبدِلَنَا خَيْرًا مِنْهَا إِنَّا إِلَى
رَبِّنَا رَاغِبُونَ (۲)

کام کا آغاز کرتے وقت | جب کوئی کام شروع کریں تو یہ پڑھیں۔

اے میرے رب میرے لیے میرے سینے کو کھول دے
اور میرے کام کو میرے لیے آسان کر دے۔

رَبَّنَا إِنِّي أَسْأَلُكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ
لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا - (۳)

رَبِّ اسْتَرْخِلْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي
أَمْرِي - (۴)

آسمان کی طرف دیکھتے وقت | جب آسمان کی طرف نظر اٹھے تو یوں پڑھو۔

اے ہمارے رب تو نے اسے بیکار نہیں بنایا تو پاک ہے
پس ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا۔

اللہ تعالیٰ برکت والا ہے جس نے آسمان میں برج بنائے
اور اس میں چراغ اور روشن چاند بنایا۔

رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا وَسُبْحَانَكَ
فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ - (۵)

تَبَارَكَ اللَّهُ جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا
وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا - (۶)

(۲) قرآن مجید، سورہ ن آیت ۳۲

(۳) قرآن مجید، سورہ طہ آیت ۲۵، ۲۶

(۱) قرآن مجید، سورہ بقرہ آیت ۱۲۷

(۲) قرآن مجید، سورہ کہف آیت ۱۰

(۳) قرآن مجید، سورہ آل عمران آیت ۱۹۱

(۴) قرآن مجید، سورہ فرقان آیت ۶۱

گرج سننے پر

جب آسمان پر گرج کی آواز سنتو تو لوں کہو۔

سُبْحَانَ مَنْ يُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ - (۱)

وہ ذات پاک ہے کہ گرج بھی اس کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کرتی ہے اور فرشتے بھی اس کے خوف سے۔

بجلی چمکنے پر

جب آسمان پر بجلی چمکتی دیکھو تو یوں پڑھو۔ حضرت کعب رضی اللہ عنہ نے یہ دعا مانگی ہے۔

اللَّهُمَّ لَا تَقْتُلْنَا بِغَضَبِكَ وَلَا تَهْلِكْنَا بَعْدَ إِبْرِكَ وَعَافِنَا قَبْلَ ذَلِكَ - (۲)

یا اللہ! ہمیں اپنے غضب کے ساتھ نہ مارنا اور نہ اپنے عذاب کے ساتھ ہلاک کرنا ہمیں اس سے پہلے عافیت عطا فرما،

بارش برسنے پر

جب آسمان سے بارش برسے تو یوں کہو۔

اللَّهُمَّ سَقِيَّا هَيْئًا وَصَبِيًّا نَافِعًا - (۳)

یا اللہ! ایسی بارش برسایو جو سیراب کرنے والی خوشگوار ہو پینے والی اور نفع بخش ہو۔

اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ صَيْبَ رَحْمَةٍ وَلَا تَجْعَلْهُ صَيْبَ عَذَابٍ - (۴)

یا اللہ! اسے حصول رحمت کا ذریعہ بنا عذاب کا باعث نہ بنا۔

غصہ آنے پر

جب غصہ آئے تو یہ دعا مانگو۔

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي وَأَذْهِبْ غَيْظَ قَلْبِي وَاجِرْنِي مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ - (۵)

یا اللہ! میرے گناہ بخش دے میرے دل سے غصہ لے جا اور مجھے شیطان مردود سے پناہ دے۔

(۱) البدایة والنبایة جلد اول ص ۲۹ ذکر ما يتعلق بخلق السموات

(۲) مسند امام احمد بن حنبل جلد ۲ ص ۱۰۰، ۱۰۱ مرویات ابن عمر رضی اللہ عنہما۔

(۳) السنن الکبریٰ للبیہقی جلد ۳ ص ۵۶ کتاب صلاة الاستسقاء

(۴) مسند امام احمد بن حنبل جلد ۶ ص ۹۰ مرویات عائشہ رضی اللہ عنہا

(۵) کتاب عمل الیوم واللیلہ ص ۲۲۱ باب ما یقول اذا غضب

ر کے وقت

جب کسی قوم سے ڈر ہو تو یہ دعا مانگو۔

یا اللہ ہم ان کے مقابلے میں تیری مدد کے طالب ہیں اور
ان کے شر سے تیری پناہ چاہتے ہیں۔

اللَّهُمَّ إِنَّا نَجْعِدُكَ فِي نُحُورِهِمْ وَنَعُوذُ بِكَ
مِنَ شُرُورِهِمْ۔ (۱)

جہاد کے وقت

جب دشمنانِ اسلام سے لڑائی ہو تو یہ الفاظ کہو۔

یا اللہ! تو میری قوت و مددگار ہے اور میں تیرے نام
پر لڑتا ہوں۔

اللَّهُمَّ أَنْتَ عَضِدِي وَنَصِيرِي وَبِكَ
أَقَاتِلُ۔ (۲)

کان کے بولنے پر

جب تمہارا کان بولنے لگے تو سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجا اور یہ کہو۔
جو آدمی بھلائی کے ساتھ میرا ذکر کرے اللہ تعالیٰ اسے
یاد فرمائے۔

ذَكَرَ اللَّهُ مَنْ ذَكَرَنِي بِخَيْرٍ۔

(۳)

قبولیت دعا پر

جب دیکھو کہ تمہاری دعا قبول ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے یہ کلمات کہو،

تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس کی عزت و جلال
کے ساتھ نیکیاں مکمل ہوتی ہیں۔

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي بَعَثَنِي فِي
الصَّالِحَاتِ۔ (۴)

قبولیت دعا میں تاخیر پر

جب دیکھو کہ دعا کی قبولیت میں تاخیر ہو گئی ہے تو یوں کہو۔

ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر یہ ہے۔

الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ (۵)

(۱) مستد امام احمد بن حنبل جلد ۲ ص ۱۵۵ مرویات ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ

(۲) مستد امام احمد بن حنبل جلد ۳ ص ۱۸۴ مرویات انس بن مالک

(۳) کتاب عمل الیوم واللیلہ ص ۴۶ باب ما یقول اذا طنت اذنتہ

(۴) الدر المنثور جلد اول ص ۱۹۶

(۵) المستدرک للحاکم جلد اول ص ۲۹۹ کتاب الدعاء

اذانِ مغرب سننے پر

جب مغرب کی اذان سنو تو یوں کہو۔

اللَّهُمَّ هَذَا اِقْبَالُ لَيْلِكَ وَاذْبَابُ
نَهَارِكَ وَاَصْوَاتُ دُعَايِكَ وَصُصُورِ
صَلَوَاتِكَ اَسْأَلُكَ اَنْ تَغْفِرَ لِي۔

(۱)

یا اللہ! یہ تیری رات کے آنے اور دن کے جانے اور دن کے جانے کا وقت ہے نیز تیری طرف بلائے والوں کی آوازیں ہیں اور تیری نمازوں کی حاضری میں تجھ سے بخشش کا سوال کرتا ہوں۔

غم پہنچنے پر

جب تمہیں کوئی غم پہنچے تو یوں کہو۔

اللَّهُمَّ اِنِّي عَبْدُكَ وَاِبْنُ عَبْدِكَ
وَاِبْنُ اَمَّتِكَ، نَاصِيَتِي بِيَدِكَ، مَا ضَيَّ
فِي حَكْمِكَ، عَدَلٌ فِي قَضَاؤِكَ،
اَسْأَلُكَ بِكُلِّ اِسْمٍ هُوَ لَكَ سَمِيَتْ
بِهِ نَفْسِكَ اَوْ اَنْزَلْتَهُ فِي كِتَابِكَ
اَوْ عَامَّتَهُ اَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ اَوْ اَسْتَأْذِنُكَ
بِهِ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ، اَنْ
تَجْعَلَ الْقُرْآنَ رِبْعًا لِقَلْبِي وَنُورًا لِقَلْبِي
وَجِلَاءًا لِعَيْبِي وَذَهَابًا لِحُزْنِي وَهَمِّي۔

(۲)

سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی کو کوئی پریشانی لاحق ہو اور وہ یہ (مندرجہ بالا) دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کے غم کو لے جاتا ہے اور اس کی جگہ فرحت و سرور عطا کرتا ہے۔

عرض کیا گیا یا رسول اللہ! کیا ہم اسے سیکھ لیں؟ آپ نے فرمایا بلکہ جو بھی اسے سیکھے یاد کر لے۔

جب تمہارے جسم میں یا کسی کے جسم میں درد محسوس ہو تو سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دم کیا کرو کہ جب کسی شخص کو کوئی زخم وغیرہ ہوتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شہادت کی انگلی زمین

(۱) السنن الکبریٰ للبیہقی جلد اول ص ۱۰ کتاب الصلوٰۃ

(۲) مستدرک امام احمد بن حنبل جلد اول ص ۳۹۱ روایات عبداللہ رضی اللہ عنہ

پر رکھتے اور پھراٹھا کر یوں پڑھتے۔

بِسْمِ اللّٰهِ تُرْبَةُ اَرْضِنَا بِرُحْمَةِ بَعْضِنَا
يُشْفِي سَقَمِنَا بِاِذْنِ رَبِّنَا۔

اللہ کے نام سے ہماری زمین کی مٹی ہمارے بعض کے
دم کے ساتھ ہمارے رب کے حکم سے ہمارے بیمار
کو شفا ہو۔

(۱)

نیز جب جسم میں درد ہو تو درود کی جگہ پر انگلی رکھ کر تین بار بسم اللہ پڑھو اور سات مرتبہ یوں کہو۔
اللہ تعالیٰ کی عزت و قدرت کے ساتھ اس تکلیف کے
شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں جسے میں پاتا ہوں یا
جس کا مجھے ڈر ہے۔

(۲)

تکلیف پہنچنے پر | جب کوئی تکلیف پہنچے تو یوں کہو۔

اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ بلند، بردبار ہے
اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ عرش عظیم کا
رب ہے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ ساتوں
آسمانوں اور عزت والے عرش کا رب ہے۔

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الْعَلِيُّ الْخَلِيمُ لَا اِلٰهَ
اِلَّا اللّٰهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ لَا اِلٰهَ
اِلَّا اللّٰهُ رَبُّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبُّ
الْعَرْشِ الْكَرِيمِ۔ (۳)

جب تم سونے کا ارادہ کرو تو پہلے وضو کرو پھر قبلہ رخ ہو کر دائیں ہاتھ کو تکبیر بناؤ پھر
چونتیس مرتبہ اللہ اکبر پڑھو، تیس بار سبحان اللہ اور تیس بار الحمد للہ پڑھو پھر یہ دعا مانگو۔

سونے کا ارادہ ہو تو

یا اللہ! میں تیری رضا کے ساتھ تیری ناراضگی سے تیرے عفو
کے ساتھ تیرے عذاب سے پناہ چاہتا ہوں اور تجھ سے
تیری ہی پناہ چاہتا ہوں یا اللہ! میں تیری تعریف اچھی طرح نہیں
کر سکتا اگرچہ اس کی حرص کروں لیکن تیری وہی شان ہے جیسے
تو نے خود اپنی تعریف کی ہے۔

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ
وَبِعَافَاةِكَ مِنْ عِقَابِكَ، وَاَعُوْذُ بِكَ
مِنْكَ، اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ لَا اَسْتَطِیْعُ اَنْ اَبْلُغَ
تَنَاءُ عَلَیْكَ وَتَوْحُرِّصْتُ وَلٰكِنْ اَنْتَ
كَمَا اَشِیْتُ عَلٰی نَفْسِكَ۔ (۴)

(۱) مسند امام احمد بن حنبل جلد ۶ ص ۹۲ روایت عائشہ رضی اللہ عنہا

(۲) صحیح مسلم جلد ۲ ص ۲۲۴ کتاب السلام

(۳) صحیح بخاری جلد ۲ ص ۱۱ کتاب التوجید۔ (۴) سنن دارقطنی جلد اول ص ۴۲ حدیث ۳۵

اللَّهُمَّ بِاسْمِكَ أَحْيَا وَأَمُوتُ - (۱)
 اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَوَاتِ وَرَبَّ الْأَرْضِ
 وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ وَمَلِيكَ فَالِقِ الْحَبِّ
 وَالنَّوَى وَمُنزِلِ التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَ
 الْقُرْآنِ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ ذِي شَرٍّ، وَمِنْ
 شَرِّ كُلِّ دَابَّةٍ أَنْتَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا، أَنْتَ
 الرَّؤُوفُ فَلَيْسَ فَبِكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الْآخِرُ
 فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ
 فَوْقَكَ شَيْءٌ وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ
 دُونَكَ شَيْءٌ عَرِّضْ عَنِّي الدِّينَ وَأَعْنِي
 مِنَ الْفَقْرِ - (۲)

اللَّهُمَّ إِنَّكَ خَلَقْتَ نَفْسِي وَأَنْتَ تَتَوَفَّاهَا
 لَكَ مَمَاتُهَا وَمَحْيَاهَا، اللَّهُمَّ إِنْ
 آمَنَّا فَأَغْفِرْ لَهَا وَإِنْ أَحْيَيْتَهَا فَأَحْفَظْهَا،
 اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا
 وَالْآخِرَةِ - (۳)
 بِاسْمِكَ رَبِّي وَضَعْتَ جَنِّي ذَا عَفْرِحِي
 ذَنْبِي - (۴)

اللَّهُمَّ قِنِّي عَذَابَكَ يَوْمَ تَجْمَعُ عِبَادَكَ - (۵)

یا اللہ! میں تیرے نام سے زندہ رہتا ہوں اور مروں گا۔
 اے اللہ! آسمانوں کے رب، زمین کے رب اور ہر
 چیز کے رب اور مالک، لوٹنے اور گٹھلی کو بھارتنے
 والے توہرات انجیل اور قرآن پاک کو اتارنے والے ہیں
 ہر شر والی چیز کے شر سے، ہر جانور جو تیرے قبضہ میں
 ہے، کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں تو سب سے
 پہلے ہے تجھ سے پہلے کچھ نہیں تو آخر سے اور تیرے
 بعد کچھ نہیں ہوگا تو ظاہر ہے تجھ سے اور کچھ نہیں تو پوشیدہ
 سے اور تجھ سے ادھر کچھ نہیں میرا قرض ادا کر دے اور
 مجھے محتاجی سے بے نیاز کر دے۔

(۲)

یا اللہ! تو نے مجھے پیدا کیا اور تو ہی مجھے موت دے گا میری
 نفس کی موت اور زندگی تیرے قبضے میں ہے یا اللہ! اگر
 تو اسے موت دے تو بخش دینا اور اگر زندہ رکھے تو
 اس کی حفاظت کرنا یا اللہ! میں تجھ سے دنیا اور آخرت
 میں خیریت کا سوال کرتا ہوں۔

یا اللہ! جس دن تو اپنے بندوں کو جمع کرے گا اس دن مجھے
 اپنے عذاب سے بچالینا۔

(۱) صحیح مسلم جلد ۲ ص ۳۸۸ کتاب الذکر والدعاء

(۲) مسند امام احمد بن حنبل جلد ۲ ص ۳۸۱ مرویات ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ

(۳) مسند امام احمد بن حنبل جلد ۲ ص ۹۹ مرویات ابن عمر رضی اللہ عنہما

(۴) مسند امام احمد بن حنبل جلد ۲ ص ۳۶۶ مرویات ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ

(۵) سنن ابن ماجہ ص ۲۸۵ ابواب الدعاء

یا اللہ! میں نے اپنے نفس کو تیرے سپرد کیا اپنا چہرہ تیری طرف متوجہ کیا اپنا کام تیرے حوالے کیا تیری رحمت کی امید اور عذاب سے ڈرتے ہوئے اپنی پٹیجھ کو تیری پناہ میں دیا تیرے سوا کوئی پناہ گاہ نہیں میں تیری کتاب پر ایمان لایا جو تو نے نازل کی اور تیرے نبی پر ایمان لایا جیسے تو نے بھیجا۔

اللَّهُمَّ اسَلِّمْتُ نَفْسِي إِلَيْكَ وَوَجَّهْتُ
وَجْهِي إِلَيْكَ وَقَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ
وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ رَغْبَةً وَرَهْبَةً
إِلَيْكَ لَا مَلْجَأَ وَلَا مَنَاجِيئَكَ إِلَّا إِلَيْكَ
أَمِنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ وَنَبِيِّكَ
الَّذِي أَرْسَلْتَ۔ (۱)

رسول کے وقت تیری آخری دعا یہی ہونی چاہیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا حکم دیا اور اس سے پہلے یوں کہو۔
یا اللہ! جو ساعت تجھے سب سے زیادہ پسند ہے اس میں مجھے بیدار کر دینا اور مجھے اس عمل میں لگانا جو تیرے نزدیک محبوب ترین ہے وہ مجھے تیرے بہت قریب کرنے اور تیرے عذاب سے بہت دور کر دے میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تو مجھے عطا فرما تجھ سے بخشش چاہتا ہوں مجھے بخش دے اور تجھ سے دعا مانگتا ہوں اسے قبول فرما۔

اللَّهُمَّ أَيُّعِطْنِي فِي أَحَبِّ السَّاعَاتِ إِلَيْكَ
وَأَسْتَعْمِلُنِي بِأَحَبِّ الْأَعْمَالِ إِلَيْكَ
تَقْدِمْ بِنِي إِلَيْكَ زُلْفَى وَتُبْعِدْ لِي مِنْ
سَخَطِكَ بَعْدَ اسْتِئْذَانِكَ فَتَمِطِينِي وَأَسْتَغْفِرُكَ
فَتَغْفِرْ لِي وَأَدْعُوكَ فَتَسْتَجِيبْ لِي۔

(۲)

بیداری کے وقت | جب صبح کے وقت نیند سے بیدار ہو تو یوں دعا مانگو۔

تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہمیں جن نے ہمیں مارنے کے بعد زندہ کیا اور اسی کی طرف اٹھنا ہے۔
ہم نے اور تمام ملک نے اللہ تعالیٰ کے لیے صبح کی عظمت اور بادشاہی اللہ تعالیٰ کے لیے ہے اور عزت و قدرت ہی اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا
وَأَلَيْهِ الْمَشُورُ (۳)
أَصْبَحْنَا وَأَصْبَحَ الْمُلْكُ لِلَّهِ وَالْعِزَّةُ
وَالسُّلْطَانُ لِلَّهِ وَالْعِزَّةُ وَالْقُدْرَةُ لِلَّهِ۔

(۴)

(۱) صحیح بخاری جلد ۲ ص ۹۳۲ کتاب الدعوات

(۲)

(۳) صحیح بخاری جلد ۲ ص ۹۳۶ کتاب الدعوات

(۴) مجمع الزوائد جلد ۱۰ ص ۱۱۴ کتاب الادکار

أَصْبَحْنَا عَلَى فِطْرَةِ الْإِسْلَامِ وَكَلِمَةِ
الْإِخْلَاصِ وَعَلَى دِينِ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمِلَّةِ آبَائِنَا إِبْرَاهِيمَ
حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ - (۱)

اللَّهُمَّ بِكَ أَصْبَحْنَا وَبِكَ آمَسْنَا وَبِكَ
نَحْيَا وَبِكَ نَمُوتُ وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ -

(۲)

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ أَنْ تَبْعَثَنِي فِي الْيَوْمِ
إِلَى كُلِّ خَيْرٍ وَتَعُوذُ بِكَ أَنْ نَجْتَرِحَ
فِيهِ سُوءًا أَوْ نَجْزُرَهُ إِلَى مُسْلِمٍ - (۳)

یا اللہ! تو نے ارشاد فرمایا

وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَدْتُمْ
بِالْأَسْفَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَى
أَجَلٌ مُّسَمًّى - (۴)

اللَّهُمَّ فَاتَّقِ الْوَسْبَاحِ جَاعِلَ اللَّيْلِ سَكَنًا
وَالشَّمْسِ وَالْقَمَرِ حِسَابًا أَسْأَلُكَ خَيْرَ
هَذَا الْيَوْمِ وَخَيْرِ مَا فِيهِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ
شَرِّهِ وَشَرِّ مَا فِيهِ -

(۵)

ہم نے فطرتِ اسلام، کلمہٴ اخلاص اپنے نبی حضرت محمد صلی
اللہ علیہ وسلم کے دین اور اپنے باپ حضرت ابراہیم کی ملت
پر صبح کی وہ ہر باطل سے جدا تھے اور مشرکین میں سے
نہیں تھے۔

یا اللہ! ہم نے تیرے نام کے ساتھ صبح کی تیرے نام
پر شام کی تیرے نام پر ہی زندہ ہیں اور اسی پر مر سینگے
اور تیری طرف ہی لوٹنا ہے۔

یا اللہ! میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ آج مجھے ہر بھلائی
کی طرف اٹھا اور ہم آج کے دن برائی کرنے یا کسی
مسلمان کو برائی پہنچانے سے تیری پناہ چاہتے ہیں۔

اور وہی اللہ ہے جو تمہیں رات کو موت دیتا ہے اور
وہ جانتا جو کچھ تم دن کو کہتے ہو پھر تمہیں اس میں اٹھاتا
ہے تاکہ مقررہ وقت پورا کرے۔

اسے اللہ! صبح کو نکالنے والے رات کو سکون کا باعث اور
سورج چاند کو حساب کا ذریعہ بنانے والے میں تجھ سے اس
دن کی بھلائی اور اس میں جو کچھ ہے اس کی بھلائی کا سوال
کرتا ہوں اس کے شر اور جو کچھ اس میں ہے اس نے
شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔

(۱) مسند امام احمد بن حنبل جلد ۳ ص ۴۰۴ روایت عبدالرحمن ابن ابی زبیر رضی اللہ عنہ

(۲) مسند امام احمد بن حنبل جلد ۲ ص ۳۵۴ روایت ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ

(۳) سنن ابی داؤد جلد ۲ ص ۳۳۴، ۳۳۸ کتاب الادب

(۴) قرآن مجید، سورہ انعام آیت ۶۰

(۵) مصنف ابن ابی شیبہ جلد ۱۰ ص ۲۰۹ کتاب الدعاء

اللہ تعالیٰ کے نام سے (بیدار ہوتا ہوں) جو کچھ اللہ تعالیٰ چاہے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی قوت نہیں جو کچھ اللہ تعالیٰ چاہے تمام نعمتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں جو کچھ اللہ تعالیٰ چاہے تمام بھلائی اللہ تعالیٰ کے قبضہ میں ہے جو کچھ اللہ تعالیٰ چاہے برائی کو صرف اللہ تعالیٰ ہی دور کرتا ہے۔

میں اللہ تعالیٰ کی ربوبیت، اسلام کے دین ہونے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہوں۔ اے ہمارے رب! ہم نے تجھ ہی پر بھروسہ کیا تیری طرف ہی رجوع کیا اور تیری طرف ہی لوٹنا ہے۔

جب شام کا وقت ہو تو بھی یہ مذکورہ بالا دعائیں مانگے۔

اللہ تعالیٰ کی ربوبیت، اسلام کے دین ہونے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہوں۔ اے ہمارے رب! ہم نے تجھ ہی پر بھروسہ کیا تیری طرف ہی رجوع کیا اور تیری طرف ہی لوٹنا ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ مَا شَاءَ اللّٰهُ لَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ
مَا شَاءَ اللّٰهُ كُلُّ نِعْمَةٍ مِنَ اللّٰهِ مَا شَاءَ
اللّٰهُ الْخَيْرُ كُلُّهُ بِيَدِ اللّٰهِ مَا شَاءَ اللّٰهُ
لَا يُعْرَفُ الشُّعْرُ اِلَّا بِاللّٰهِ

(۱)

رَضِيتُ بِاللّٰهِ رَبًّا وَبِالْاِسْلَامِ دِيْنًا
وَبِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيًّا (۲)
رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنبَأْنَا وَإِلَيْكَ
الْمَصِيْرُ (۳)

شام کی وقت کی دعا

یہ دعا بھی مانگیں۔

میں اللہ تعالیٰ کے پورے کلمات اور اس کے تمام ناموں کے ساتھ اس کی تمام مخلوق کے شر سے اور ہر شر والی چیز کے شر سے اور ہر جانور کے شر سے پناہ چاہتا ہوں (اے اللہ!) سب کچھ تیرے قبضے میں ہے اور بے شک میرا رب سیدھے راستے پر لیتا ہے۔

أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ الثَّمَاتِ فَاسْمَاتِهِ
كَلِمَاتٍ مِنْ شَرِّ مَا ذَرَأَ أَوْ بَرَأَ (۴)
وَمِنْ شَرِّ كُلِّ ذِي شَرٍّ وَمِنْ شَرِّ كُلِّ دَابَّةٍ
أَنْتَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ
مُسْتَقِيمٍ (۵)

شیشہ دیکھتے وقت

جب شیشہ دیکھے تو کہے۔

(۱)

(۲) کنز العمال جلد ۲ ص ۶۳۸ حدیث ۴۹۶۰

(۳) قرآن مجید، سورہ ممتحنہ آیت ۲

(۴) سند امام احمد بن حنبل جلد ۳ ص ۴۱۹ حدیث عبدالرحمن بن حنیس

(۵) کنز العمال جلد ۲ ص ۶۳۸ حدیث ۴۹۶۰

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي سَوَّى خَلْقِي وَكَرَّمَ
صُورَةَ وَجْهِی وَحَسَّنَهَا وَجَعَلَنی مِث
الْمُسْلِمِینَ - (۱)

تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے میری تخلیق
اعتدال سے بنائی میرے چہرے کی صورت کو اچھا بنا یا اور
اسے خوب صورت کیا نیز مجھے مسلمانوں کی جماعت میں شامل کیا۔

کچھ خریدنے کے وقت | جب تم کوئی خادم یا غلام یا جانور خریدو (اب انسانوں کی خرید و فروخت نہیں ہوتی) تو اس
کی پشانی پڑ کر لوں کہو۔

اللَّهُمَّ إِنی أَسْأَلُكَ خَیْرًا وَخَیْرًا مَا جَبَل
عَلَيْهِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ سَرِّهِ وَشَرِّ مَا
جَبَل عَلَيْهِ - (۲)

یا اللہ! میں تجھ سے اس کی بھلائی اور جس فطرت پر اسے
رکھا گیا اس کی بھلائی کا سوال کرتا ہوں اور اس کے
شر اور جس شر پر اسے پیدا کیا گیا اس سے تیری پناہ ہوں۔

نکاح کی مبارک باد پیش کرتے وقت | جب تم نکاح کی مبارک باد پیش کرو تو یوں کہو۔

بَارَكَ اللهُ فِیْكَ وَبَارَكَ عَلَيْكَ
وَجَمَعَ بَیْنَكُمَا فِی خَیْرٍ (۳)

اللہ تعالیٰ تجھے اس میں برکت دے اور اسے تمہارے
لیے بارکت بنائے اور تم دونوں کو بھلائی کے ساتھ اکٹھا
رکھے۔

ادا تیگی قرض کے وقت |

جب تم قرض ادا کرو تو جس کا قرض ادا کیا ہے اس کے لئے یہ الفاظ کہو۔

بَارَكَ اللهُ لَكَ فِیْ أَمْوَالِكَ وَمَا لَكَ (۴)

اللہ تعالیٰ تجھے تیرے اہل و مال میں برکت عطا فرما۔

کیوں کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

إِنَّمَا جَزَاءُ السَّلْفِ الْحَمْدُ وَالْإِدَاعَةُ - (۵)

بے شک قرض کا بدلہ شکر ہے ادا کرنا اور ادا تیگی قرض ہے۔

تو یہ وہ دعائیں ہیں کہ آخرت کا ارادہ کرنے والا ان کو یاد کرنے سے بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ اس کے علاوہ سفر، نماز،

(۱) مجمع الزوائد جلد ۱۰ ص ۱۳۹ کتاب الاذکار

(۲) سنن ابی داؤد جلد اول ص ۲۹۲ کتاب النکاح

(۳) کتاب الاذکار ص ۲۵۱ ما یقال للزوج عند عقد النکاح

(۴) سنن نسائی جلد ۴ ص ۲۲۷

(۵) سنن نسائی جلد ۲ ص ۲۲۷

ومنو وغیرہ کی دعائیں ہم نے حج، نماز اور طہارت کے بیان میں ذکر کر دی ہیں۔

دعا کا فائدہ | اگر تم کہو کہ دعا کا کیا فائدہ ہے حالانکہ قضا کو کوئی چیز ٹال نہیں سکتی تو نہیں جاننا چاہیے کہ دعا کے ذریعے مصیبت کو ٹالنا بھی تو قضا ہے تو دعا مصیبت کو دور کرنے کا سبب ہے اور حصول رحمت کا ذریعہ ہے جسے ڈھال تیر کو دور کرنے کا اور پانی زمین سے ستر لوہوں کو نکالنے کا ذریعہ ہے تو جس طرح ڈھال، تیر کو دور کرتی ہے اور دونوں کے درمیان مقابلہ ہوتا ہے اسی طرح دعا اور مصیبت بھی ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی قضا و قدر کا اعتراف کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ ہتھیار نہ اٹھائے جائیں۔

ارشاد خداوندی ہے :

اپنا بچاؤ اختیار کرو۔

تُخَذُوا حِذْرًا كَمَا - (۱)

اور یہ بھی نہیں ہوتا کہ زمین میں بیج ڈالنے کے بعد اسے پانی نہ دیا جائے پس کہا جائے کہ اگر تقدیر میں سبزی کا اگنا ہوا تو بیج سے سبزی پیدا ہوگی اور اگر تقدیر میں نہ ہوا تو نہ ہوگی۔

بلکہ سبب کا سبب سے متعلق ہونا تقدیر اول ہے۔ اسے قضا کہتے ہیں جس کے بارے میں کہا گیا کہ وہ پلکنے چھکنے یا اس سے بھی جلدی ہے پھر اسباب کی تفصیل کے مطابق، مسببات کا ان سے متعلق ہونا تدبیر ثانی ہوتا ہے اور یہ تقدیر ہے تو جس نے بھلائی کی تقدیر مقرر کی اس نے سبب کے ساتھ اس کو مقرر کیا اور جس نے شر کو مقرر کیا اسے بھی سبب کے ساتھ متعلق کیا ہے لہذا جیسے بصیرت حاصل ہو اس کے نزدیک ان میں کوئی تضاد نہیں۔

پھر دعا کا فائدہ جو ہم نے ذکر کے ضمن میں لکھا ہے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ دل کی حاضری ہوتی ہے اور عبادت کا بنیادی مقصد یہی ہے۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :

دعا، عبادت کا مغز ہے۔

الدُّعَاءُ مَغْزُ الْعِبَادَةِ - (۲)

مخلوق کا عام معاملہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف ان کے دل اسی وقت متوجہ ہوتے ہیں جب کوئی حاجت درپیش ہوتی ہے یا مصیبت پڑتی ہے کیونکہ جب انسان کو تکلیف پہنچے تو لمبی چوڑی دعائیں کرتا ہے تو دعا کی ضرورت رہتی ہے اور دعا کی وجہ سے انسان کا دل انکساری کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور اس سے ذکر حاصل ہوتا ہے جو سب سے بہتر عبادت ہے یہی وجہ ہے کہ انبیاء کرام، اولیاء عظام اور پھر ان کے بعد نیک لوگوں پر حسب مراتب

(۱) قرآن مجید، سورہ نساء آیت ۱۱،

(۲) جامع ترمذی ص ۱۸۶ ابواب الدعوات

مصائب نازل ہوئے ہیں کیوں کہ اس صورت میں دل اللہ تعالیٰ کا محتاج ہو کر عاجزی اور گڑگڑاہٹ کے ساتھ اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور یہ بات اسے بھولنے سے روکتی ہے جب کہ مال داری عام طور پر تکبر کا باعث ہوتی ہے کیونکہ انسان جب اپنے آپ کو مالدار دیکھتا ہے تو سرکشی کرتا ہے جو اذکار و دعائیں ہم ذکر کرنا چاہتے تھے وہ ہم نے ذکر کر دی ہیں اللہ تعالیٰ ہی بھلائی کی توفیق دینے والا ہے۔ — باقی دعائیں جو کھانے، سفر اور بیمار پرسی سے متعلق ہیں وہ انشاء اللہ اپنے اپنے مقام پر آئیں گی۔ اور اسی پر پھر دوسرے ذکر اور دعاؤں کا بیان مکمل ہوا۔ اس کے بعد ان شاء اللہ اُذراء کا بیان ہوگا تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے اور ہمارے سردار حضرت محمد مصطفیٰ اور آپ کی آل و صحابہ پر رحمت ہو۔

وظائف کی ترتیب اور قیام لیل کی فضیلت

یہ احیاء العلوم کا دسواں بیان ہے اور اس کے ساتھ کتاب کا چوتھا حصہ جو عبادات سے متعلق ہے اختتام پذیر ہو جائے گا۔ ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر اس کا بے حد شکر ادا کرتے ہیں اور اس کا اس انداز میں ذکر کرتے ہیں جس سے دل میں تکبر اور نفرت باقی نہ رہے اور اس کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے رات اور دن کو ذکر یا شکر کا ارادہ کرنے والوں کے لیے آنے جانے والا بنایا، ہم اُس کے اُس نبی پر درود بھیجتے ہیں جسے اُس نے حق کے ساتھ خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا، اور آپ کی پاکیزہ آکل اور عزت والے صحابہ کرام پر رحمت ہو جنہوں نے صبح و شام اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کوشش کی حتیٰ کہ ان میں سے ہر ایک دین میں ایک راستہ دکھانے والا ستارہ اور روشن چراغ بن گیا۔ حمد و صلوة کے بعد! اللہ تعالیٰ نے زمین کو اپنے بندوں کے لیے نرم بنایا اس لیے نہیں کہ اس کے اوپے محلات میں مستقل ٹھکانہ بنالیں بلکہ اسے منزل قرار دے کر اس سے سامان سفر حاصل کریں جو انہیں ان کے سفر میں ان کے وطن تک پہنچائے اور اس سے اپنے عمل اور فضل کے تحفے جمع کریں اس کے پھندوں اور مہلکات سے بچیں، اور یقین کریں کہ زندگی اُن کو اس طرح لے جاتی ہے جس طرح کشتی اپنے سوار کو لے جاتی ہے پس لوگ اس جہاں میں مسافر ہیں اور ان کی پہلی منزل پگھوڑا اور آخری منزل قبر ہے وطن جنت یا جہنم ہے عمر، سفر کی مسافت ہے، اس کے سال مزاول اور مہینے فرسخ ہیں، دن میل اور سانس قدم ہیں، عبادت پونجی ہے، وقت اصل مال ہے شہوتیں اور اعراض ڈاکو ہیں اور اس کا نفع سلامتی کے گھر میں بڑی سلطنت اور ہمیشہ کی نعمت کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے ذریعے کامیابی حاصل کرنا ہے اس کا نقصان اللہ تعالیٰ سے دوری اور اس کے ساتھ عبرتناک سزائیں طوق اور جہنم کے مختلف درجات میں دردناک عذاب ہے تو جو شخص ایک سانس بھی غفلت میں گزارے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے ذریعے قرب حاصل نہ کرے تو وہ قیامت کے دن اتنا نقصان اٹھائے گا اور اسے اس قدر حسرت ہوگی جس کی کوئی انتہاء نہیں اسی بڑے خطرے اور ہولناک کام کے لیے اہل توفیق مستعد ہوئے انہوں نے خواہشات نفسانیہ کو مکمل طور پر چھوڑ دیا اور باقی عمر کو غنیمت سمجھتے ہوئے تکرارِ اوقات کے مطابق وظائف کو ترتیب دیا جیسا بادشاہ کے قرب کے لیے رات اور دن کو زندہ رکھنے کی حرص کی اور دائمی گھر کے لیے کوشش کی طریقتِ آخرت کے علم میں اہم بات یہ ہے کہ وظائف کی تقسیم اور اوقات کے اندازے پر جس طرح پہلے گزر گیا عبادت کی تقسیم کے طریقے کو تفصیلاً بیان کیا جائے اور یہ بات دو بابوں کے ذکر سے واضح ہوگی۔

پہلا باب :- وظائف کی فضیلت اور رات دن میں ان کی ترتیب۔

دوسرا باب :- قیام لیل کا طریقہ، اس کی فضیلت اور اس سے متعلق دیگر امور۔

پہلا باب

وظائف کی فضیلت ان کی ترتیب اور احکام

اور اس بات کا بیان کہ ان پر ہمیشہ کے لیے عمل پیرا ہونا اللہ تعالیٰ کی طرف جانے کا راستہ ہے۔

وظائف کی فضیلت

جان لو! نور بصیرت سے دیکھتے دیکھتے جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ملاقات کے بغیر نجات نہیں اور اس کی ملاقات کا صرف یہی راستہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس کی پہچان میں دنیا سے رخصت ہو اور محبت و انس کا حصول تب ہوتا ہے جب محبوب کا ذکر ہمیشہ کہا جائے اور اس کی معرفت تب حاصل ہوتی ہے جب مسلسل اس کی ذات، صفات اور افعال کے بارے میں غور و فکر کرے اور اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے سوا کچھ موجود نہیں اور ذکر و فکر کا دوام اس وقت تک حاصل نہیں ہوتا جب تک دنیا اور اس کی خواہشات کو چھوڑنے سے اور ضرورت سے زائد کو ترک نہ کرے اور یہ سب کچھ اسی صورت میں حاصل ہوتا ہے جب وہ رات اور دن کے اوقات میں اذکار و افکار کے وظائف میں مصروف رہے۔ اور جب نفس فطری طور پر ملال میں پڑ جاتا ہے تو وہ ذکر و فکر کے اسباب معینہ میں سے کسی ایک فن پر صبر نہیں کرتا بلکہ جب اسے ایک طریقے کی طرف ٹوٹایا جائے تو وہ ملال اور بوجھ کا اظہار کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ نہیں تھکتا بلکہ تم تھک جاتے ہو اور اس کے کرم کا تقاضا ہے کہ وہ ایک فن سے دوسرے فن کی طرف منتقل کرنے کے ساتھ سکون پہنچاتا ہے اسی طرح ایک قسم سے دوسری قسم کی طرف لے جاتا ہے اور یہ وقت کے اعتبار سے ہوتا ہے تاکہ دوسری طرف منتقل ہونے سے لذت زیادہ ہو اور لذت کی وجہ سے رغبت میں اضافہ ہو اور جب رغبت دائمی ہوگی تو اس عمل میں دوام آئے گا اسی لیے اوراد و وظائف کو مختلف قسموں میں بانٹ دیا گیا ہے تو چاہیے کہ ذکر و فکر تمام اوقات یا اکثر اوقات کو گھیر لیں کیوں کہ نفس فطری طور پر ذہنی لذتوں کی طرف مائل ہوتا ہے اگر بندہ اپنے اوقات کا نصف حصہ ذہنی تدبیروں اور جائزہ خواہشات پر صرف کرے اور دوسرا نصف عبادت میں صرف کرے تو میلان دنیا کی طرف ہی ہوگا کیونکہ وہ طبیعت کے موافق ہے تو اگرچہ وہ وقت کے اعتبار سے مساوی ہیں لیکن یہ کیسے برابر ہوں گے جب کہ طبیعت ان میں سے ایک کو ترجیح دے رہی ہے کیوں کہ ظاہر و باطن امور دنیا پر معاون ہیں اور ان کی طلب میں دل صاف اور خالی ہے جب کہ عبادت کی طرف دل کو تنگ لگا جاتا ہے اس سلسلے میں دل کا خلوص اور حاضری صرف بعض اوقات میں سلامت رہتی ہے تو جو شخص کسی حساب کے بغیر جنت میں داخل ہونا چاہتا ہے وہ اپنے اوقات کو عبادت میں مصروف رکھے

اور جو شخص اپنی نیکیوں کے پڑے کو بھاری کرنا اور ترجیح دینا چاہتا ہے وہ اپنے اکثر اوقات کو عبادت میں گزارے
اگر اچھے اور برے عمل مل جائیں تو معاملہ خطرناک ہے لیکن امید ختم نہیں ہوتی اور اللہ تعالیٰ کے کرم سے معافی کی انتظار ہوتی
ہے ممکن ہے وہ اپنے جُود و کرم سے بخش دے یہ وہ بات ہے جو نور بصیرت سے دیکھنے والوں پر منکشف ہوتی ہے اگر
تو اس کا اہل نہیں تو اللہ تعالیٰ کے اس خطاب کو دیکھ جو اس نے اپنے رسول سے فرمایا اور فوراً ایمان سے اس کو سمجھو
اللہ تعالیٰ نے اس بندے سے جو سب سے زیادہ قریب اور سب سے بلند مرتبے والا ہے،

ارشاد فرمایا:

بے شک آپ کے لیے دن میں بہت زیادہ مصروفیات
ہیں تو آپ اپنے رب کا نام یاد کریں اور سب سے قطع
تعلق کر کے اس کے ہو جائیں۔

إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا وَادْكُرِ
اسْمَ رَبِّكَ وَتَبْتَئِلُ إِلَيْهِ تَتَسَلَّلُ
(۱)

اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

اور صبح و شام اپنے رب کا نام یاد کریں اور رات کے
وقت اسے سجد کریں اور زیادہ رات تک اس کی تسبیح
بیان کریں۔

وَادْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا وَمِنَ
اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا
(۲)

اور ارشاد خداوندی ہے:

اور اپنے رب کی تسبیح بیان کریں طلوع آفتاب سے
پہلے اور غروب سے پہلے اور رات کے وقت اور نمازوں
کے بعد اس کی تسبیح کریں۔

وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ
وَقَبْلَ الْغُرُوبِ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ
وَادْبَارَ النُّجُومِ (۳)

اور ارشاد باری تعالیٰ ہے:

اور اپنے رب کی تسبیح کریں جب کھڑے ہوں اور رات کا کچھ
حصہ اور جب ستارے چلے جائیں تو اس کی پاکیزگی بیان کریں۔

وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ وَمِنَ
اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ (۴)

(۱) قرآن مجید سورہ مزمل آیت ۸۱

(۲) قرآن مجید سورہ دھر آیت ۲۵، ۲۶

(۳) قرآن مجید سورہ قی آیت ۳۹، ۴۰

(۴) قرآن مجید سورہ طور آیت ۲۸، ۲۹

اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْأًا وَأَقْوَمُ قِيْلًا - (۱)

بے شک رات کا اٹھنا سختی سے روندتا ہے اور رات کو درست کرتا ہے۔

اور ارشاد باری تعالیٰ ہے:

وَمِنْ أُنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَى (۲)

رات کی گھڑیوں اور دن کے کناروں میں تسبیح کریں تاکہ آپ خوش ہو۔

اور ارشاد فرمایا:

وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَزُلْفَا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبُنَّ السَّيِّئَاتِ - (۳)

اور دن کے دونوں کناروں اور رات کے کچھ حصے میں نماز قائم کریں بے شک نیکیاں، گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔

پھر دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کامیاب بندوں کی کس طرح اور کن الفاظ کے ساتھ تعریف فرمائی ہے۔

ارشاد خداوندی ہے:

أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةً رَبِّهِ، قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ - (۴)

کیا وہ شخص جو رات کی گھڑیوں میں سجدے اور قیام کی حالت میں کھڑا رہتا ہے آخرت سے ڈرتا اور اپنے رب کی رحمت کی امید رکھتا ہے فرما دیجئے کیا اہل علم اور بے علم برابر ہو سکتے ہیں (برابر نہیں ہو سکتے)۔

اور ارشاد خداوندی ہے:

تَتَجَافَى جُنُوبَهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا - (۵)

ان کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں وہ خوف اور امید کے ساتھ اپنے رب کو پکارتے ہیں۔

(۱) قرآن مجید سورہ مزمل آیت ۶

(۲) قرآن مجید سورہ طہ آیت ۱۳۰

(۳) قرآن مجید سورہ ہود آیت ۱۱۴

(۴) قرآن مجید، سورہ زمر آیت ۹

(۵) قرآن مجید، سورہ سجده آیت ۱۶

اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:
وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا۔
(۱)

اور وہ لوگ جو اپنے رب کے لیے سجدے اور قیام
میں رہتے ہیں۔

اور ارشاد خداوندی ہے:
كَانُوا قَلِيلًا مَّا يَهْتَجِعُونَ وَيَأْتُوا سَحَارًا
هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ (۲)

وہ لوگ رات کو کم سوا کرتے تھے اور وہ سحری کے
وقت بخشش مانگتے تھے۔

اور ارشاد باری تعالیٰ ہے:
سُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ
تُصْبِحُونَ۔ (۳)

پس اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی بیان کرو جب تم شام کرتے
اور جب صبح کرتے ہو۔

اور ارشاد خداوندی ہے:
وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْعَدَاةِ
وَالْعِشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔
(۴)

اور آپ ان لوگوں کو (اپنے آپ سے) دُور نہ کریں
جو اللہ تعالیٰ کی رضا تلاش کرتے ہوئے صبح و شام اسی
کو پکارتے ہیں۔

یہ تمام آیات تمہارے لیے واضح کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف جانے کا راستہ یہ ہے کہ اپنے تمام وقت کی حفاظت کرتے
ہوئے انہیں اُوراد و وظائف میں صرف کیا جائے اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ پسندیدہ وہ بندے
ہیں جو سورج، چاند اور سیاروں کو اللہ تعالیٰ کی یاد کے لیے
دیکھتے ہیں۔

أَحَبُّ عِبَادِ اللَّهِ إِلَى اللَّهِ الَّذِينَ يَدْعُونَ
الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالْأَظْلَمَةَ لِذِكْرِ اللَّهِ
تَعَالَى۔ (۵)

اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

(۱) قرآن مجید سورہ فرقان آیت ۶۱

(۲) قرآن مجید سورہ الذاریات آیت ۱۷، ۱۸

(۳) قرآن مجید سورہ روم آیت ۱۷

(۴) قرآن مجید سورہ انعام آیت ۵۲

(۵) الدر المنثور جلد ۳ ص ۳۴ تحت آیت فائق الاضمار

سورج اور چاند حساب بتاتے والے ہیں۔

الشمس والقمر بحسبان - (۱)

اور ارشاد خداوندی ہے :

الْم تَرَىٰ رَيْبَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ وَنُورًا لِّجَعَلَهُ سَاكِنًا ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسُ عَلَيْهِ دَلِيلًا ثُمَّ قَبَضْنَا إِلَيْنَا قَبْضًا يَسِيرًا - (۲)

اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا :

وَالْقَمَرَ قَدَرْنَا مَنَازِلَ - (۳)

اور ارشاد فرمایا :

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ اللَّيْلِ وَالْبَحْرِ - (۴)

اور وہی ذات ہی جس نے تمہارے لیے ستارے بنائے تاکہ تم ان کے ذریعے خشکی اور سمندر کے اندھیروں میں راستہ پاؤ۔

تمہیں یہ خیال نہیں کرنا چاہیے کہ سورج اور چاند کے چلنے سے ایک منظوم و مرتب حساب مقصود ہے اور ستارے ، روشنی اور ستاروں کی تخلیق کا مطلب یہ ہے کہ ان سے دنیوی امور پر مدد حاصل کی جائے بلکہ مقصود یہ ہے کہ ان کے ذریعے اوقات کی مقدار معلوم کر کے ان اوقات کو عبادات اور آفرت کے لیے تجارت میں صرف کیا جائے۔

اس پر اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد گرامی تمہاری راہنمائی کرتا ہے۔

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِّمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا - (۵)

اور وہی ذات ہے جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کے پیچھے لگایا اس شخص کے لیے جو ذکر کرنا چاہتا ہے یا شکر گزار بندہ بننا چاہتا ہے۔

(۱) قرآن مجید سورہ رحمن آیت ۱۵

(۲) قرآن مجید سورہ فرقان آیت ۴۵ ، ۴۶

(۳) قرآن مجید سورہ یسین آیت ۳۶

(۴) قرآن مجید سورہ انعام آیت ۹۷

(۵) قرآن مجید ، سورہ فرقان آیت ۶۲

یعنی رات اور دن ایک دوسرے کے پیچھے آتے ہیں تاکہ ایک وقت میں کوئی عمل نہ جائے تو دوسرے وقت میں اس کا تدارک کر لے۔ اور واضح فرمایا کہ یہ بات ذکر و شکر کے لیے ہے کسی اور مقصد کے لیے نہیں۔

ارشاد خداوندی ہے:

وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَاتٍ لِّمَنۡ يَّحۡسِبُ
آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبۡصِرَةً
لِّبَنۡتَنۡغُوا فَضْلًا مِّنۡ رَبِّكُمۡ وَلِتَعَلَّمُوا
عَدَدَ السِّنِّينَ وَالۡحِسَابِ - (۱)

اور ہم نے رات اور دن کو نشانیوں بنا یا پس ہم نے رات کی نشانی کو مٹا دیا اور دن کی نشانی کو دیکھنے کے لیے بنایا تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو اور سوالوں کی گنتی اور حساب کو جان لو۔

جس فضل کی تلاش کا حکم ہے وہ ثواب اور مغفرت ہے اور ہم اللہ تعالیٰ سے اس چیز کے لیے حُسنِ توفیق کا سوال کرتے ہیں جس پر وہ راضی ہے۔

جان لو! دن کے وظائف سات ہیں۔

وظائف کی تعداد اور ترتیب

طلوع فجر سے سوچ کی ٹکیہ کے طلوع تک ایک وظیفہ ہے، سوچ کے طلوع ہونے سے زوال تک دو وظیفے ہیں، زوال سے عصر تک دو وظیفے اور عصر سے مغرب تک دو وظیفے ہیں۔ رات کے وظائف چار قسموں میں تقسیم ہوتے ہیں مغرب سے لوگوں کے سونے تک دو وظیفے اور رات کے دوسرے نصف سے طلوع فجر تک دو وظیفے تو ہم ہر دردا اور وظیفہ کی فضیلت اور اس سے متعلق امور کا ذکر کرتے ہیں۔

پہلا وظیفہ:

یہ صبح کے طلوع ہونے سے طلوع آفتاب تک ہے یہ نہایت عمدہ وقت ہے اور اس کی فضیلت و شرافت کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی قسم کھائی ارشاد فرمایا:-

صبح کی قسم جب وہ سانس لے۔

وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ (۲)

اور اس وقت کے ذریعے اپنی تعریف کرتے ہوئے فرمایا:

وہ رات کو بچا کر دن کو نکالنے والا ہے۔

فَالِقِ الرُّجُمِ مَبَاحٍ - (۳)

اور فرمایا:

(۱) قرآن مجید، سورہ فرقان آیت ۶۲

(۲) قرآن مجید، سورہ تکویر آیت ۱۸

(۳) قرآن مجید، سورہ النعام آیت ۶۶

قُلْ اعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ - (۱) آپ فرما دیجیے ہیں پھاڑنے والے رب کی پناہ چاہتا ہوں۔
 اللہ تعالیٰ نے اس وقت سائے کو سمیٹنے کے ذریعے اپنی قدرت کا یوں اظہار فرمایا :
 ثُمَّ قَبَضْنَا إِلَيْنَا قَبْضًا يَسِيرًا (۲) پھر ہم نے اس سائے کو کچھ وقت کے لیے سکیر ڈیا۔
 یہ وہ وقت ہے جب رات کا سایہ سورج کی روشنی پھیلنے کے باعث قبض کیا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس وقت لوگوں کو تسبیح کی راہنمائی فرمائی۔

ارشاد خداوندی ہے :

سُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ (۳) صبح و شام اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی بیان کرو۔

اور ارشاد فرمایا :

وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا - (۴)

اور سورج کے طلوع سے پہلے اور غروب ہونے سے پہلے اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کرو۔

اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا :

وَمِنَ آيَاتِ اللَّيْلِ قَسَبَحَ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْحَمُ (۵)

اور رات کی گھڑیوں اور دن کے کناروں میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرو تاکہ تم خوش رہو۔

اور ارشاد خداوندی ہے :

وَإِذْ كُنَّا سَمْرَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا (۶)

اور صبح و شام اپنے رب کے نام کا ذکر کرو۔

ترتیب :-

یہ وظیفہ جاگنے سے شروع کر دے جب جاگے تو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ابتدا کرتے ہوئے کہے۔

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَالِيَهُ النُّشُورُ -
 تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے ہمیں موت (نیند) کے بعد زندہ کیا اور اسی کی طرف اٹھنا ہے۔

(۱) قرآن مجید، سورہ فلق آیت ۱

(۲) قرآن مجید سورہ فرقان آیت ۴۶

(۳) قرآن مجید سورہ روم آیت ۱۷

(۴) قرآن مجید سورہ طہ آیت ۱۳۰

(۵) قرآن مجید سورہ دھر آیت ۲۵

(۶) قرآن مجید سورہ طہ آیت ۱۳۰

اس کے علاوہ وہ تمام دعائیں اور آیات پڑھے جو ہم نے کتاب الدعوات میں جاگنے کے وقت کی دعا کے سلسلے میں ذکر کی ہیں۔ دعا کی حالت میں ہی لباس پہنے اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں ستر عورت کی نیت کرے اور ستر عورت کی نیت کرے اور یہ نیت کرے کہ وہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی عبادت پر مدد حاصل کرتا ہے لیکن نہ تو ریاکاری مقصود ہو اور نہ ہی تکبر کا اظہار کرے، پھر طہارت خانے میں جائے اگر ضرورت محسوس کرے وہاں پہلے یاپاں پاؤں اندر رکھے اور وہ دعائیں مانگے جو ہم نے طہارت کے بیان میں بیت الخلاء میں جانے اور وہاں سے نکلنے کے سلسلے میں ذکر کی ہیں پھر سنت کے مطابق مسواک کرے جیسے پہلے بیان ہوا اور تمام سنتوں نیز ان دعاؤں کی رعایت کرتے ہوئے جو ہم نے کتاب طہارت میں بیان کی ہیں، وضو کرے ہم تمام عبادات کا فرداً فرداً ذکر کر چکے ہیں اب صرف ترکیب و ترتیب کے طریقے پر ذکر کریں گے۔

پس جب وضو سے فارغ ہو جائے تو فجر کی دو رکعتیں یعنی سنتیں اپنے گھر میں پڑھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح کیا کرتے تھے (۱) ان دو رکعتوں کے بعد وہ دعا پڑھے جو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے چاہے سنتیں گھر میں پڑھے یا مسجد میں۔ یوں کہے۔

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِكَ
تَهْدِي بِهَا قَلْبِي۔ الخ (۲)

اے اللہ! میں تجھ سے تیری رحمت کا سوال کرتا ہوں کہ تو اس کے ذریعے میرے دل کو ہدایت عطا فرما۔

پھر گھر سے نکل کر مسجد کی طرف جائے اور مسجد کی طرف جاتے وقت کی دعا نہ ٹھوسے نماز کے لیے دوڑ کر نہ جاتے بلکہ سکون اور وقار کے ساتھ جائے جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے (۳) انگلیوں کو انگلیوں میں نہ ڈالے اور مسجد میں یوں داخل ہو کہ وایاں پاؤں پہلے رکھے اور مسجد میں داخل ہونے کی وہ دعائیں جو حدیث شریف سے ثابت ہے (۴) پھر مسجد کی پہلی صف میں جائے اگر اس میں گنجائش ہو لیکن نہ تو لوگوں کی گردنیں پھلانگے اور نہ بھیڑ کرے جیسا کہ جمعہ کے بیان میں گزر چکا ہے۔ اور اگر صبح کی سنتیں پڑھ چکا ہے تو اب تحیتہ المسجد کی دو رکعتیں پڑھے (۵) پھر جماعت کی انتظار میں بیٹھ جائے اور مستحب یہ ہے کہ اندھیرے میں نماز پڑھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی

(۱) صحیح بخاری جلد اول ص ۱۵۶ باب التہجد۔

(۲) کنز العمال جلد ۲ ص ۶۴۹ حدیث ۳۹۸۷۔

(۳) صحیح بخاری جلد اول ص ۱۲۴ کتاب الجمعة۔

(۴) مسند امام احمد بن حنبل جلد ۵ ص ۲۲۵ مرویات ابوسعید۔

(۵) طلوع فجر کے بعد فجر کی دو سنتوں کے علاوہ نفل پڑھنا جائز نہیں لہذا تحیتہ المسجد نہ پڑھے ۱۲ ہزار روپی

نماز اندھیرے میں پڑھے تھے۔ (۱)

نماز باجماعت بالخصوص صبح اور عشاء کی جماعت کو کبھی نہ چھوڑے کیونکہ ان دونوں کی زیادہ فضیلت ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ نے صبح کی نماز کے بارے میں فرمایا۔

مَنْ تَوَضَّأَتْهُ تَوَجَّاهُ إِلَى الْمَسْجِدِ لِيُصَلِّيَ

فِيهِ الصَّلَاةَ كَانَ لَهُ بِكُلِّ خَطْوَةٍ حَسَنَةٌ

وَمِجَى عَنْهُ سَبْعَةٌ وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرٍ

أَمْثَالِهَا فَإِذَا صَلَّى تَمَّ أَنْصَرَتْ عِنْدَ طُلُوعِ

الشَّمْسِ كُتِبَ لَهُ بِكُلِّ شَعْرَةٍ فِي جَسَدِهِ

حَسَنَةٌ وَأَنْقَلَبَ بِحِجَّةٍ مَبْرُورَةٍ فَإِنْ

جَلَسَ حَتَّى يَرْكَعَ الصُّحَى كُتِبَ لَهُ بِكُلِّ

رُكْعَةٍ أَلْفًا حَسَنَةً وَمَنْ صَلَّى الْعَتَمَةَ

فَلَهُ مِثْلُ ذَلِكَ وَأَنْقَلَبَ بِعِمْرَةٍ مَبْرُورَةٍ

(۲)

جس نے وضو کیا پھر مسجد کی طرف چلنا کہ اس میں نماز پڑھے تو ہر قدم کے بدلے اس کے لیے ایک نیکی ہوگی اور اس سے ایک گناہ مٹایا جائے گا۔ اور ایک نیکی کا ثواب دس کے برابر ہوگا پس جب نماز پڑھے اور طلوع آفتاب کے بعد واپس لوٹے تو اس کے سیم کے ہر بال کے بدلے اس کے لیے ایک نیکی لکھی جاتی ہے اور وہ مقبول حج کے ساتھ واپس لوٹتا ہے اور اگر وہاں بیٹھا رہے اور چاشت کی نماز بھی پڑھے تو اس کے لیے ایک رکعت کے بدلے بیس لاکھ نیکیوں کا ثواب لکھا جاتا ہے اور جو آدمی عشاء کی نماز پڑھے تو اسے اس کی مثل ثواب ملے گا اور وہ مقبول عمرہ کے ساتھ لوٹے گا۔

بزرگوں کی عادت تھی کہ وہ طلوع فجر سے پہلے مسجد میں داخل ہوتے تھے ایک تابعی فرماتے ہیں میں طلوع فجر سے پہلے مسجد میں داخل ہوا تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہو گئی وہ پہلے تشریف لائے تھے۔ انہوں نے فرمایا اسے بھتیجے تم اس وقت گھر سے کیوں باہر آتے ہو؟ میں نے عرض کیا صبح کی نماز کے لئے۔ انہوں نے فرمایا تمہیں تو ٹھہری ہو ہم اس وقت گھر سے آکر مسجد میں بیٹھنے کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کی طرح قرار دیتے تھے یا انہوں نے فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کے برابر سمجھتے تھے۔ (۳)

(۱) حدیث شریفین آتا ہے صبح کو سفید کرد اس کا ثواب زیادہ ہے تو دونوں احادیث میں یوں تطبیق ہوگی کہ اندھیرے میں شروع کر کے روشنی میں ختم کرے لہذا جس قدر قرأت کرنا ہو اس کے مطابق ایسے وقت پر شروع کریں کہ اختتام روشنی میں ہو ۱۲ ہزاروی (۲) کنز العمال جلد ۷ ص ۵۷۴ حدیث ۲۰۳۱۶

حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے آخری حصے میں تشریف لائے تو ہیں حضرت فاطمہ الزہراء رضی اللہ عنہا سوتے ہوئے تھے آپ نے فرمایا کیا تم نماز نہیں پڑھتے؟ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ باتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! ہماری جانیں اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہیں جب وہ انہیں اٹھانا چاہے گا اٹھو جائیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے گئے میں نے سنا کہ آپ واپس جاتے ہوئے اپنا ہاتھ اپنی ران پر مارتے ہوئے فرماتے تھے: "اور انسان بہت جھگڑا لو ہے" پھر فجر کی دو سنتوں اور دعا کے بعد استغفار اور تسبیح میں مشغول وہاں تک کہ نماز کھڑی ہو جائے دعا مانگتے ہوئے ستر مرتبہ یہ الفاظ کہے۔

ہیں اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرنا ہوں جس کے سوا
کوئی معبود نہیں وہ خود زندہ دوسروں کو قائم رکھنے
والا ہے اور میں اس کے ہاں توبہ کرتا ہوں۔

أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الَّذِي تَدَاوَاهُ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ
الْقَيُّومُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ۔

❖ ❖ ❖

اور ایک سو مرتبہ یوں پڑھے۔

اللہ تعالیٰ پاک ہے اور تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں
اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اللہ سب سے بڑا ہے۔

سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
وَاللَّهُ أَكْبَرُ۔

پھر فرض نماز پڑھے اور ان تمام باطنی اور ظاہری آداب کا خیال رکھے جن کا ہم نے ذکر کیا ہے جب نماز سے فارغ ہو جائے تو طلوع آفتاب تک مسجد میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے جس کی ترتیب ہم ذکر کریں گے۔

صبح کی نماز کے بعد سورج کے طلوع ہونے تک مسجد
میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا مجھے چار غلام آزاد کرنے
سے زیادہ پسند ہے۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
لَوْ أَنَّ قَوْمًا فِي مَجْلِسٍ أَذَكَ اللَّهُ تَعَالَى فِيهِ
مِنْ صَلَاةِ الْعَدَا إِلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ
أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ أَعْتَقَ أَرْبَعِ رِقَابٍ۔ (۱)

ایک روایت میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح کی نماز پڑھے لیتے تو سورج کے طلوع ہونے تک اپنے
مصلیٰ پر بیٹھے رہتے (۱) بعض روایات میں ہے کہ آپ دو رکعتیں پڑھتے۔ یعنی سورج طلوع ہونے کے بعد پڑھتے، اس
نماز کی فضیلت میں بے شمار روایات آتی ہیں حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسے اپنے
رب کی رحمت میں سے ذکر کرتے تھے آپ فرماتے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

(۱) سنن ابی داؤد جلد ۲ ص ۱۶۰ کتاب العلم

(۲) مسند امام احمد بن حنبل جلد ۵ ص ۱۰۵ روایات جابر بن عمرو۔

اسے انسان مجھے فجر کی نماز کے بعد ایک ساعت اور نماز عصر کے بعد ایک ساعت یاد کریں ان دونوں وقتوں کے درمیان مجھے کفایت کروں گا۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ذُكِّرُوا بِصَلَاةِ الْفَجْرِ
سَاعَةً وَّلَبَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ سَاعَةً الْفَلَاحِ
مَا بَيْنَهُمَا - (۱)

جب یہ فضل ظاہر ہو تو بیٹھ جائے اور طلوع آفتاب تک گفتگو نہ کرے بلکہ طلوع تک اس کا وظیفہ چار باتوں پر مشتمل ہونا چاہیے، دعائیں، ذکر اور اسے تسبیح کی صورت میں دہرائے قرآن پاک کی تلاوت اور غور و فکر۔

جہاں تک دعاؤں کا تعلق ہے تو نماز سے فارغ ہونے کے بعد شروع کر دے اور یوں کہے۔

اے اللہ! حضرت محمد مصطفیٰ ص اور آپ کی آل پر رحمت و سلام نازل فرمایا اللہ! تو سلامتی والا ہے تیری طرف سے سلامتی ہے اور سلامتی تیرے طرف لڑتی ہے اسے ہمارے رب ہمیں سلامتی کے ساتھ زندہ رکھنا اور ہمیں سلامتی کے گھر میں داخل کرنا اسے جلال اور عزت والے تو برکت والا ہے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ
وَسَلِّمْ اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ
السَّلَامُ وَإِلَيْكَ يَجُودُ السَّلَامُ حِينًا
رَبَّنَا بِالسَّلَامِ دَاخِلْنَا دَارَ السَّلَامِ
تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ -

پھر اس دعا سے شروع کرے جس کے ساتھ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آغاز فرمایا کرتے تھے وہ یہ ہے۔

”میرا رب پاک ہے وہ بلند و بالا اور عطا کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ ایک ہے اسکا کوئی شریک نہیں اسی کی بادشاہی ہے اور کسی کے لیے تعریف ہے وہ زندہ رکھتا اور مارتا ہے وہ خود زندہ ہے اسے کبھی موت نہیں آئے گی اسی کے قبضے میں جھلائی ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ نعمت و فضل عطا کرنے والا ہے اور اچھی شنا کے لائق ہے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہم صرف اسی کی عبادت کرتے ہیں خالص اسی کی عبادت کرتے ہیں اگرچہ کافروں کو ناپسند ہو“

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَلِيِّ الْعَلِيِّ الْوَهَّابِ (۱)
لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ
الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ
حَيٌّ لَا يَمُوتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَى
كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَإِلَهُ الْإِلَهِ أَهْلُ
النِّعْمَةِ وَالْفَضْلِ، وَالشَّاءِ الْحَسَنِ،
وَإِلَهُ الْإِلَهِ، وَلَا تَعْبُدُوا إِلَّا آيَاهُ مُخْلِصِينَ
لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ - (۲)

(۱) کنز العمال جلد اول ص ۲۲۰ حدیث ۱۷۹۵

(۲) مستدھام احمد بن حنبل جلد ۲ ص ۵۴ مرویات مسلم بن روع

(۳) السنن الکبریٰ للبیہقی جلد ۲ ص ۱۵ کتاب الصلوٰۃ

پھر وہ دعائیں پڑھے جو ہم نے دعاؤں کے بیان میں تیسرے اور چوتھے باب میں ذکر کی ہیں اگر ممکن ہو تو یہ تمام دعائیں کے بیان میں سے جو اس کے حال کے موافق ہوں، دل کو زیادہ نرم کرنے والی اور زبان پر آسان ہوں وہ یاد کر لے۔ جہاں تک اذکارِ مکررہ کا تعلق ہے تو یہ وہ کلمات ہیں جنہیں بار بار پڑھنے کی فضیلت آئی ہے ہم ان کا ذکر کر کے بات ویل کرنا چاہتے کم از کم تین یا سات اور زیادہ سے زیادہ ایک سو یا ستر بار پڑھے درمیانی تعداد دس ہے۔ جس قدر کلمات ہو اس کے حساب سے پڑھے زیادہ کی فضیلت بھی زیادہ ہے اعتدال یہ ہے کہ دس مرتبہ پڑھے اور ہمیشہ پڑھنے لگتے یہ زیادہ لائق ہے۔

کیوں کہ بہترین کام وہی ہوتا ہے جسے ہمیشہ کیا جائے اگرچہ کم ہو اور کسی بھی وظیفہ کو زیادہ ہونے کی صورت میں ہمیشہ بن کیا جاسکتا پس تھوڑا اور دائمی افضل ہے اور تھوڑا وظیفہ دل پر زیادہ اثر انداز ہوتا ہے جب کہ زیادہ ہو اور کبھی کبھی ہو یہ مؤثر نہیں ہوتا تھوڑے اور دائمی عمل کی مثال پانی کے قطرے جیسی ہے جو زمین پر مسلسل پڑتے ہیں تو وہاں ایک ٹھاہن جاتا ہے اگرچہ یہ تھوڑے ہیں اور زیادہ متفرق وظیفہ اس پانی کی طرح ہے جو ایک ہی مرتبہ پڑتا ہے یا متفرق طور مختلف اوقات میں پڑتا ہے تو اس کے اثرات ظاہر نہیں ہوتے۔

کلماتِ ذکر | ذکر کے کلمات دس ہیں :

(نوٹ) ترجمہ پیچھے گزر چکا ہے۔

۱- لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ
لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ
وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ
عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

۲- سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ (۱)
۳- سُبُوْحٌ قُدُّوْسٌ رَبِّ الْمَلَائِكَةِ
وَالرُّوْحِ - (۲)

رنگا مکہ اور جبریل علیہ السلام کا رب پاک اور مقدس

ہے
میں اللہ تعالیٰ عظمت و لہنے کی تسبیح ہے حمد کرتا ہوں۔

۴- سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ وَبِحَمْدِهِ (۳)

(۱) مجمع الزوائد جلد ۱۰ ص ۸۹ کتاب الاذکار

(۲) صحیح مسلم جلد اول ص ۱۹۲ کتاب الصلوٰۃ

(۳) کنز العمال جلد ۲ ص ۲۳۸ حدیث نمبر ۳۹۱۷

میں عظمت والے اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگتا ہوں اس کے سوا کوئی معبود نہیں وہ زندہ قائم رکھنے والا ہے اور میں اس سے توبہ کا سوال کرتا ہوں۔

یا اللہ تو جسے عطا کرے اس سے کوئی روک نہیں سکتا اور جسے تونہ دے اس کو کوئی دے نہیں سکتا اور کسی دولت مند خاندانی شرافت والے کو اس کی دولت ریا خاندانی شرافت) فائدہ نہیں دیتی جب تک اعمال اچھے نہ ہوں (اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ سچا روشن بادشاہ ہے اللہ کے نام سے جس کے نام کے ساتھ زمین و آسمان میں کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اور وہی سننے جاننے والا ہے۔

یا اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو تیرے بندے، نبی اور رسول ہیں کسی سے ٹپڑھے ہوئے نبی ہیں، اور آپ کی آک پر رحمت نازل فرما۔

میں اللہ تعالیٰ سننے جاننے والے کے پناہ چاہتا ہوں شیطان مردود سے اسے میرے رب میں شیطانوں کے دوسوں پناہ چاہتا ہوں اور تیری پناہ چاہتا ہوں کہ وہ شیطان حاضر ہوں۔

۵- اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الْعَظِيْمَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ وَأَسْأَلُ التَّوْبَةَ

(۱)

۶- اَللّٰهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا اَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ

(۲)

۷- لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ الْمُبِينُ (۳)
۸- بِسْمِ اللّٰهِ الَّذِي لَا يَصْرُفُ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (۴)

۹- اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَعَلَىٰ اٰلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ - (۵)

۱۰- اَعُوْذُ بِاللّٰهِ السَّمِيعِ الْعَلِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ رَبِّ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيْطَانِ وَاَعُوْذُ بِكَ رَبِّ اَنْ يَّحْضُرُوْنِ - (۶)

(۱) کنز العمال جلد ۲ ص ۱۵۰ حدیث نمبر ۳۵۳۶

(۲) صحیح بخاری جلد ۲ ص ۹۹ کتاب القدر

(۳) کنز العمال جلد ۲ ص ۲۳۳ حدیث ۳۸۹۶

(۴) مسند امام احمد بن حنبل جلد اول ص ۶۶ روایت عثمان بن عفان

(۵) الترغیب والترہیب جلد اول ص ۲۵۸

(۶) مسند امام احمد بن حنبل جلد ۳ ص ۵ روایت ابوسعید خدری

جب ان دس کلموں میں سے ہر ایک کو دس دن باز پڑھایا جائے تو سو کی تعداد پوری ہو جاتی ہے اور یہ ایک ذکر سو بار پڑھنے سے بہتر ہے کیونکہ ان میں سے ہر کلمے کی الگ فضیلت ہے اور دل کو ہر ایک سے الگ تہنید اور لذت حاصل ہوتی ہے اور جب ایک کلمہ سے دوسرے کلمہ کی طرف منتقل ہوتا ہے تو نفس کو ایک گونہ راحت ملتی ہے اور یہ لال سے محفوظ ہو جاتا ہے۔

جہاں تک قرأت کا تعلق ہے تو ان تمام آیات کو پڑھنا مستحب ہے جن کی فضیلت کے بارے میں احادیث وارد ہیں وہ ہیں۔

۱۔ سورہ فاتحہ (۱) (۲) آیت الکرسی (۲) (۳) سورہ بقرہ کی آخری آیات (جو آسن الرسول سے شروع ہوتی ہیں) (۳)
 ۲۔ شہداء اللہ آخر تک آیت (۳) (۴) قل اللهم مالک اللک (دو آیات) (۵) (۶) لقد جاءکم رسول من انفسکم (آخر تک) (۷)
 ۳۔ لقد صدق اللہ رسولہ الروایا الحق (آخر تک) (۸) الحمد للہ الذی لم یتخذ ولداً (ایک آیت) (۹) (۱۰) سورہ حدید کی پہلی پانچ آیات (۱۱) سورہ حشر کی آخری تین آیات۔ (۱۰)
 اور اگر مستبغات عشرت تفصیل آگے آ رہی ہے، پڑھے جو حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت ابراہیم تمہی رحمہ اللہ کو بطور ہدیہ دے کر انہیں وصیت کی وہ صبح شام ان کو پڑھیں تو اس طرح فضیلت مکمل ہو جائے گی اور تمام دعاؤں کی فضیلت جمع ہو جائے گی۔

حضرت کریم و برہ رحمہ اللہ جو ابدال میں سے تھے فرماتے ہیں میرے پاس میرا ایک بھائی شام سے آیا اور اس نے

(۱) صحیح بخاری جلد ۲ ص ۲۶۲ کتاب التفسیر

(۲) صحیح بخاری جلد اول ص ۲۴۱ فضائل القرآن

(۳) صحیح بخاری جلد اول ص ۲۴۱ فضائل القرآن۔

(۴) قرآن مجید سورہ آل عمران آیت ۱۸، کنز العمال جلد اول ص ۵۰، حدیث ۵۰۵۷

(۵) قرآن مجید سورہ آل عمران آیت ۲۶، کنز العمال جلد ۲ ص ۶۴۹ حدیث ۵۰۵۶

(۶) قرآن مجید سورہ توبہ آیت ۱۲۸، الدر المنثور جلد ۳ ص ۲۹۵

(۷) قرآن مجید سورہ فتح آیت ۲۷، الدر المنثور جلد ۶ ص ۷۰

(۸) قرآن مجید سورہ ابراہیم آیت ۱۱، مسند امام احمد بن حنبل جلد ۳ ص ۲۲۹ مرویات انس الجعفی

(۹) قرآن مجید سورہ نمبر ۵۷، الدر المنثور جلد ۱ ص ۲۸

(۱۰) قرآن مجید سورہ نمبر ۵۹، الدر المنثور جلد ۶ ص ۲۰۲

مجھے ایک تحفہ دیا اور کہا اسے کرزا مجھ سے یہ تحفہ قبول کر دینا بہترین تدبیر ہے میں نے پوچھا اسے بھائی! تجھے یہ تحفہ کس نے دیا ہے انہوں نے کہا مجھے ابراہیم تمبی نے دیا ہے میں نے کہا کیا تم نے ابراہیم تمبی سے نہیں پوچھا کہ ان کو کس نے دیا؟ انہوں نے کہا ہاں اس نے پوچھا ہے وہ فرماتے تھے میں کعبۃ اللہ کے صحن میں بیٹھا ہوا تھا اور "سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، الحمد للہ" پڑھنے اور اللہ تعالیٰ کی بزرگی بیان کرنے میں مصروف تھا کہ ایک شخص میرے پاس آیا اور اس نے مجھے سلام کیا پھر وہ میری داہنی جانب بیٹھ گیا میں نے اپنی زندگی میں ایسا خوبصورت اتنے عمدہ کپڑوں، اتنے زیادہ سفید بالوں اور اتنی خوشبودار کوئی شخص نہیں دیکھا میں نے پوچھا اسے اللہ کے بندے! تو کون ہے؟ اور کہاں سے آیا ہے؟ اس نے کہا میں خضر ہوں، میں نے پوچھا کیسے آنا ہوا؟ اس نے کہا تجھے سلام کرنے آیا ہوں اور تجھ سے محض اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کرتا ہوں اور میرے پاس ایک تحفہ ہے جو تجھے دینا چاہتا ہوں میں نے پوچھا وہ کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ تم سورج طلوع ہونے اور لگھڑ سے باہر زمین پر پھیلنے سے پہلے نیز غروب آفتاب سے پہلے سورۃ فاتحہ، قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق، قل هو اللہ احد، قل یا ایہا الکفرون اور آیت الکرسی سات سات بار پڑھا کرو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سات مرتبہ پڑھو، بارگاہ رسالت میں سات بار ہدیہ درود شریف بھیجا اپنے لیے اپنے والدین اور تمام مومن مردوں اور عورتوں کے لیے سات بار استغفار کرو اور سات مرتبہ یہ دعا مانگو۔

یا اللہ میرے ساتھ اور ان سب کے ساتھ ابھی اور آخرت میں دین، دنیا اور آخرت سے متعلق وہ بڑا ذکر بنا جو تیرے شایان شان ہے اور اے ہمارے مولا ہمارے ساتھ وہ سلوک نہ کرنا جس کے ہم مستحق ہیں بے شک تو بخشنے والا، بزرگوار، سخی، کریم، مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔

اللَّهُمَّ اِنلِ بِي دِيهْمًا عَابِلًا وَاِجْلًا فِي الدِّيْنِ وَالدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ مَا اَنْتَ لَكَ اَهْلٌ وَلَا تَفْعَلْ بِنَا يَا مَوْلَانَا مَا نَحْنُ لَكَ اَهْلٌ اِنَّكَ غَفُوْرٌ حَلِيْمٌ جَوَادٌ كَرِيْمٌ رُوْنٌ رَحِيْمٌ۔

اور یاد رکھو اس وظیفہ کو صبح و شام نہ چھوڑنا۔ حضرت ابراہیم تمبی فرماتے ہیں، میں نے پوچھا تمہیں یہ عطیہ کس نے دیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا مجھے یہ عطیہ یہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے میں نے کہا مجھے اس کے ثواب کی خبر دیجئے انہوں نے کہا کہ جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو تو اس کا ثواب پوچھا اپنا آپ بتا دیں گے حضرت ابراہیم تمبی فرماتے ہیں کہ انہوں نے ایک رات خواب میں دیکھا کہ فرشتے ان کے پاس آئے اور ان کو اٹھا کر لے گئے حتیٰ کہ انہیں جنت میں داخل کر دیا چنانچہ انہوں نے جو کچھ اس میں تھا دیکھا اور جو عظیم انور جنت میں دیکھے بیان کئے، فرماتے ہیں میں نے فرشتوں سے پوچھا یہ کس کے لیے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ ان لوگوں کے لئے ہیں جو تمہارے اس عمل جیسا عمل کریں وہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے وہاں کے پھل کھائے اور پانی پیا فرماتے ہیں سرکارِ دو عالم

صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور آپ کے ہمراہ ستر انبیاء کرام علیہم السلام اور فرشتوں کی ستر صفیں تھیں ہر صف، مشرق و مغرب کے درمیان فاصلے کے برابر تھی۔ آپ نے سلام کرتے ہوئے میرا ہاتھ پکڑا میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خضر علیہ السلام نے مجھے بتایا کہ انہوں نے آپ سے یہ حدیث سنی ہے آپ نے فرمایا حضرت خضر علیہ السلام نے سچ فرمایا ہے اور وہ جو کچھ بیان کرتے ہیں وہ سچ ہے وہ زمین والوں کے عالم میں ابدال کے رئیس ہیں اور وہ زمین پر اللہ تعالیٰ کے شکر و حمد میں سے ہیں۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ جو شخص میری طرح یہ عمل کرے اور جو کچھ میں نے خواب میں دیکھا ہے وہ نہ دیکھے تو کیا اسے بھی وہ کچھ ملے گا جو آپ نے مجھے عطا فرمایا؟ آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جن نے مجھے حق کے ساتھ نبی بنا کر بھیجا وہ اس وظیفہ پر عمل کرنے والے ہر شخص کو عطا فرمائے گا اگرچہ وہ مجھے اور جنت کو نہ دیکھے اور اس کے وہ تمام کبیرہ گناہ معاف ہو جائیں گے جو اس نے کئے اللہ تعالیٰ اس سے اپنے غضب اور عذاب کو دور کر دے گا اور بائیں طرف کے فرشتے کو حکم دے گا کہ وہ ایک سال تک اس کے ذمہ کوئی گناہ نہ لکھے وہ ذات جن نے مجھے حق کے ساتھ نبی بنا کر بھیجا ہے اس پر وہی عمل کرے گا جس کو اللہ تعالیٰ نے خوش بخت پیدا کیا اور اسے وہی چھوڑے گا جس کو اللہ تعالیٰ نے بد بخت بنایا۔ حضرت ابراہیم تمہی رحمہ اللہ نے چار مہینے تک کچھ کھایا نہ پیا اور اور شاید یہ اس خواب کے بعد کی بات ہے (۱)

یہ قرأت قرآن کا وظیفہ ہے اگر اس پر اپنے معمول کی منزل کا اضافہ کرے یا صرف یہی پڑھے دونوں طرح صحیح ہے کیوں کہ قرآن پاک ذکر، فکر اور دعائے سب کو جمع کرتا ہے جب کہ تدبیر کے ساتھ ہوجیسا کہ ہم نے تلاوت کے باب میں اس کی فضیلت اور آداب کے ضمن میں ذکر کیا ہے۔

وظائف میں سے ایک وظیفہ غور و فکر کرنا ہو، کس چیز میں غور و فکر کرے اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کی تفصیل نجات دینے والے امور کے ضمن میں تفکر کے بیان میں آئے گی لیکن اس کا مجموعہ دو فنون پر مشتمل ہے۔ ان میں سے ایک یہ کہ نفع بخش معاملات میں غور و فکر کرے یعنی جو کوتاہیاں ہو چکی ہیں ان کے بارے میں اپنے نفس کا محاسبہ کرے اور آئندہ دن جو سامنے ہے کے وظائف کو ترتیب دے نیکی کے راستے میں جو رکاوٹیں ہیں ان کو دور کرنے کے بارے میں سوچ و بچار کرے اپنی کوتاہی کو یاد کرے اور ان باتوں کو بھی جو اس کے اعمال میں خلل ڈالتی ہیں تاکہ وہ عمل کو درست کرے اور اپنی ذات نیز مسلمانوں سے معاملات کے سلسلے میں اچھی نیتوں کو دل میں حاضر کرے۔

(۱) بعض حضرات نے اس واقعہ کا انکار کیا ہے اور کہا کہ حضرت خضر علیہ السلام کو حضور علیہ السلام سے ملاقات ثابت نہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ انکار کی کوئی وجہ نہیں اور نہ ہی اس میں ملاقات کا ذکر ہے اور سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ تحفہ حاصل کرنے کا ذکر ہے اور وہ خواب کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے واللہ اعلم بالصواب ۱۲ ہزاروی۔

دوسرا فن وہ ہے جو علم مکاشفہ میں اسے نفع دے وہ یہ کہ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور اس کی ظاہری باطنی نعمتوں کے سلسلے آنے کے بارے میں سوچے تاکہ اس طرح اللہ تعالیٰ کی معرفت زیادہ ہو اور ان نعمتوں پر اس کا زیادہ شکر کرے یا اس کی سزاؤں اور عقوبتوں میں غور کرے تاکہ معبود کی قدرت اور بے نیازی کی پہچان زیادہ سے زیادہ حاصل ہو اور ان سزاؤں وغیرہ سے زیادہ ڈرے اور ان تمام امور کے کئی شعبے ہیں کہ بعض لوگوں کو ان میں غور و فکر کی گنجائش ہوتی ہے اور بعض کو نہیں۔ ہم ان باتوں کو تفکر کے باب میں بیان کریں گے اور جب غور و فکر آسان ہو جائے تو یہ سب سے زیادہ فضیلت والی عبادت ہے کیوں کہ اس میں اللہ تعالیٰ کے ذکر کا معنی ابھی پایا جاتا ہے اور دو باتیں زائد بھی ہیں۔

ایک بات معرفت کا زائد ہونا ہے کیونکہ غور و فکر معرفت اور کشف کی چابی ہے اور دوسری بات محبت کا اضافہ ہے کیونکہ دل میں اسی کی محبت ہوتی ہے جس کی تعظیم کا عقیدہ ہو اور اللہ تعالیٰ کی عظمت اور جلال کا انکشاف اسی وقت ہوتا ہے جب اس کی صفات اس کی قدرت اور افعال کے عجائب کی معرفت ہو تو غور و فکر سے معرفت حاصل ہوتی ہے معرفت سے تعظیم اور تعظیم سے محبت میں اضافہ ہوتا ہے اور ذکر بھی اُنس پیدا کرتا ہے اور یہ بھی ایک قسم کی محبت ہے لیکن جو محبت، معرفت کے باعث پیدا ہوتی ہے وہ زیادہ مضبوط، زیادہ ثابت اور بہت عظیم ہوتی ہے عارف کی محبت اور ذکر جو مکمل طور پر دیکھے بغیر اُنس حاصل کرتا ہے اس کے اُنس کے درمیان نسبت اسی طرح ہے جیسے ایک شخص جس نے کسی شخص کے حسن و جمال کو آنکھوں سے دیکھ کر عشق کیا اور وہ اس کے اخلاق، افعال، فضائل اور خصائل حمید پر تجربہ کی بنیاد پر مطلع ہوا اس کے عشق کو اس آدمی کے اُنس سے نسبت ہو جس کے کانوں میں کسی آدمی کے اوصاف بار بار سنائی دیتے اور وہ آدمی اس کی آنکھوں سے غائب ہے اور اس نے اس کے اوصاف کسی تفصیل کے بغیر اجمال کے ساتھ سنے تو اس کی محبت اس آدمی کی محبت کی طرح نہیں ہے جس نے دیکھ کر محبت کی ہے کیوں کہ خبر دیکھنے کے برابر نہیں ہوتی۔ وہ بندے جو اپنے دل اور زبان سے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں اور جو کچھ رسول عظام لاتے اس کی تصدیق کرتے ہیں لیکن ان کا ایمان تقلیدی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے چند جمل امور کو جانتے ہیں اور ان کو اس کی تصدیق پر مانتے ہیں جس نے ان کے سامنے بیان کیا۔

اور عارفین وہ ہیں جنہوں نے اس جلال و جمال کو باطنی بصیرت کی آنکھ سے دیکھا جو ظاہری آنکھ سے زیادہ مضبوط ہے کیونکہ کوئی بھی شخص اس کے جلال و جمال کی گہرائی تک نہیں پہنچ سکتا اور یہ بات مخلوق کی طاقت سے باہر ہے لیکن ہر شخص نے اسی قدر مشاہدہ کیا جس قدر اس سے حجاب اٹھایا گیا اور اللہ تعالیٰ کے جمال کی کوئی انتہاء نہیں اور نہ اس کے حجابوں کی حد ہے جن حجابوں کو ٹور کرنا مناسب ہے اور ممکن ہے وہاں تک پہنچنے والا یہ خیال کرے کہ وہ منزل تک پہنچ گیا ہے وہ ستر حجاب ہیں۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

اِنَّ لِلّٰهِ سَبْعِيْنَ حِجَابًا مِّنْ نُّوْرِ لَوْ كَشَفَهَا
لَا حَزَقَتْ سُبْحَاتٌ وَجْهَهُ كُلِّ مَا اَدْرَكَ
بِئْسَ مَا اَدْرَكَ
بے شک اللہ تعالیٰ کے ستر نورانی پردے ہیں اگر وہ ان
کو اٹھا دے تو اس کی ذات کے انوار ہر اس چیز کو جلد
دیں جہاں تک اس کی نظر پہنچے۔

مطلب یہ ہے کہ سب کچھ جل جائے کیوں کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ہے اور یہ حجابات بھی ترتیب سے ہیں
اور ترتیب میں یہ انوار اسی طرح مختلف ہیں جس طرح سورج، چاند اور ستارے ایک دوسرے سے مختلف ہیں سب سے
چھوٹا پہلے ظاہر ہوتا ہے پھر جو اس سے بڑا ہوتا ہے (اسی طرح آگے چلتا ہے)
اسی بنیاد پر بعض صوفیائے کرام نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی تدریجاً یہ درجات حاصل ہوئے۔
ارشادِ خداوندی ہے:

پس جب ان پر رات چھا گئی۔

فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ (۲)

یعنی جب ان پر معاملہ مشتبہ ہو گیا تو۔

رَأَى كَوْكَبًا - (۳)

آپ نے ایک ستارہ دیکھا۔

یعنی آپ نورانی پردوں میں سے ایک پردے تک پہنچے اور اسے ستارے سے تعبیر کیا گیا اس سے یہ چمکتے
ہوتے ستارے مراد نہیں کیونکہ عوام میں سے ہر آدمی جانتا ہے کہ رب ہونا ان اجسام کے لائق نہیں بلکہ وہ تو پہلی نظر میں
اس کا ادراک کر لیتے ہیں پس عوام گمراہ نہیں ہوتے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس سے کس طرح بے خبر رہ سکتے ہیں
تو جن پردوں کو نوری کہا گیا ہے ان سے یہ روشنی مراد نہیں جو آنکھوں سے دیکھی جاتی ہے بلکہ ان سے وہی کچھ
مراد ہے جو اللہ تعالیٰ کے اس ارشادِ گرامی میں مراد ہے۔

اللّٰهُ نُورٌ وَالسَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ مِثْلُ نُوْرٍ

اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کو روشن کرنے والا ہے
اس کے نور کی مثال ایک طافیجے کی ہے جس میں چراغ ہو۔

كَمْشَكَوٰةٍ فِيْهَا مِصْبَاحٌ - (۴)

ہم ان معانی سے عنانِ فہم کو پھیرتے ہیں کیونکہ یہ علمِ معاملہ سے خارج ہیں اور ان کے حقائق تک پہنچنے کے لئے
اس کشف کی ضرورت ہے جو خالص فکر کے تابع ہو اور بہت کم لوگوں کے لیے یہ دروازہ کھلتا ہے عام لوگوں کو ان ہی

(۱) سندابی عوانہ جلد اول ص ۱۲۵، ۱۲۶ بیان نزول الرب

(۲) قرآن مجید، سورۃ النعام آیت ۷۷

(۳) قرآن مجید سورۃ النعام آیت ۷۷

(۴) قرآن مجید سورۃ نور آیت ۳۵

باتوں میں نور و فکر میسر ہوتا ہے جو علم معارف میں مفید ہیں۔ اور اس فکر کا بھی بہت بڑا فائدہ اور نفع ہے۔

توبہ چار وظائف یعنی دعا، ذکر، قرأت اور فکر ہر طالبِ آخرت کا وظیفہ ہونا چاہیے وہ نماز فجر کے بعد بلکہ ہر فرض نماز کے بعد یہ وظیفہ پڑھے کیوں کہ نماز کے بعد ان چار باتوں کے علاوہ کوئی وظیفہ نہیں اور اس وظیفہ کے پڑھنے پر تپ قادر ہوگا جب اپنا ہتھیار اور ڈھال پکڑے گا اور روزہ وہ ڈھال ہے جس سے شیطان کے راستے تنگ ہو جاتے ہیں اور شیطان ایسا دشمن ہے جو ہدایت کے راستے سے پھیر دیتا ہے۔ اور طلوع فجر کے بعد صرف فجر کی دو سنتیں ہیں اور فرض نماز کا وقت طلوع آفتاب تک ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اس وقت انکار میں مشغول رہتے تھے یہی بات زیادہ بہتر ہے اور اگر اس پر نیند غالب آجائے اور وہ نماز کے بغیر دور نہ ہو اور نماز پڑھے تو کوئی حرج نہیں راحنان کے نزدیک طلوع فجر کے بعد نفل نہیں پڑھ سکتے اگر بیٹھنے سے نیند آئے تو آدمی چل پھر کر وظیفہ کرے لیکن نفل نہ پڑھے

دوسرا وظیفہ:

یہ سورج کے طلوع ہونے سے چاشت کے وقت تک ہے یعنی طلوع آفتاب اور زوال کے درمیان کا وقت جب نصف ہو جائے اگر دن کو بارہ گھنٹے تصور کریں تو یہ وقت تین گھنٹے گزرتے کے بعد ہوتا ہے اور یہ دن کا چوتھا حصہ ہے۔

اور دن کے اس چوتھے حصے میں روزانہ وظیفہ ہیں۔

۱۔ ایک چاشت کی نماز ہے اور ہم نماز کے بیان میں اس کا ذکر کر چکے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ اشراق کے وقت دو رکعتیں پڑھے اور یہ وہ وقت ہے جب دھوپ زمین پر پھیلتی ہے اور نصف نیز کے برابر سورج بلند ہو جاتا ہے اور جب اوتھنی کے بچوں کے پاؤں گرم ہونے لگیں اور پاؤں کو تپش محسوس ہو۔ تو دو رکعتوں کا وقت وہ ہے جس کے بارے میں ارشاد خداوندی ہے۔

يَسْتَبِحْنَ بِالْعَتَمِيِّ وَآدِ شَرَاقِ - وہ رات اور اشراق کے وقت اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی بیان

کرتی ہیں۔

(۲)

یہ سورج کے چمکنے کا وقت ہے یعنی اس وقت سورج کی تمام روشنی ظاہر ہو جاتی ہے اور وہ زمین کے بنجرات اور بنجار سے اوپر اٹھ جاتی ہے کیونکہ بنجرات وغیرہ اس کی کھل چمک میں رکاوٹ ہوتے ہیں۔

(۱) مسند امام احمد بن حنبل جلد ۵ ص ۱۰۱ مرویات جابر بن سمرو

(۲) قرآن مجید، سورہ ص من آیت ۱۸

اور چار رکعت کا وقت، وقت چاشت سے جس کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے فرمایا
وَالصُّحُفِ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ (۱)
اور چاشت کی قسم اور رات کی جب وہ چھا جائے۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے تو صحابہ کرام اشراق کی نماز پڑھ رہے تھے۔

اپ نے بلند آواز سے فرمایا:
إِلَّا أَنْ صَلَاةَ الْوَاثِنِينَ إِذَا رَمَضَتِ
الْفِصَالُ (۲)
سنو! مقربین کی نماز اس وقت ہے جب اونٹوں کے
بچوں کے پاؤں جلنے لگیں۔

اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اگر اشراق اور چاشت میں سے ایک ہی نماز پر اکتفا کرے تو نماز چاشت کے لیے یہ وقت
مناسب ہے اگرچہ دونوں مکروہ اوقات کے کناروں پر پڑھنے سے بھی اصل فضیلت حاصل ہو جاتی ہے یعنی جب سورج
نصف نیرے کے برابر طلوع ہو جائے اس وقت سے لے کر زوال سے کچھ دیر پہلے تک پڑھ لے۔ لفظ صبحی (چاشت) کا
اس پورے وقت پر اطلاق ہوتا ہے گویا اشراق کی دو رکعتیں اس وقت ہوتی ہیں جب مکروہ وقت ختم ہونے کے بعد
نماز کی اجازت مل جائے کیوں سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

يَبْئُتُكَ سُوْرُجٌ، شَيْطَانٌ كَيْفَ سَبَّحْتَ سَاعَةَ طُلُوعِ
إِنَّ الشَّمْسَ تَطْلُعُ وَمَعَهَا قَرْنُ الشَّيْطَانِ
ہوتا ہے پس جب وہ بلند ہوتا ہے تو شیطان اس سے
فَإِذَا ارْتَفَعَتْ فَارْتَقَهَا۔
جدا ہو جاتا ہے۔

(۳)
تو کم از کم بلندی یہ ہے کہ زمین کے بخارات اور بخار سے بلند ہو جائے اور یہ بات اندازے سے معلوم ہوتی ہے۔ (راہِ حیل)
نقشے بنے ہوئے ہیں جن سے تمام اوقات کا علم ہو جاتا ہے۔

۲۔ اس وقت کا دوسرا وظیفہ وہ نیک کام ہیں جو لوگوں میں مروج ہیں کہ وہ سویرے سویرے کرتے ہیں مثلاً مریض کی بیمار
پرسی، جازے کے ساتھ جانا، نیکی اور تقویٰ پر مدد کرنا، علم کی مجلس میں حاضر ہونا اور اس کے علاوہ کسی مسلمان کی حاجت کو پورا
کرنا وغیرہ۔ اور اگر اس وقت کوئی ایسا کام پیش نہ آئے تو ان چار وظائف کی طرف لوٹ آئے جن کا ہم نے ذکر کیا ہے یعنی
دعائیں مانگے، ذکر کرے، قرآن پاک کی تلاوت کرے اور غور و فکر کرے اور اگر چاہے تو نفل نماز بھی پڑھے کیونکہ یہ صبح کی نماز
کے بعد مکروہ ہے اس وقت نہیں تو گویا اس وقت یہ وظائف کی پانچویں قسم ہو جائے گی اس شخص کے لیے جو چاہے البتہ

(۱) قرآن مجید سورہ والضحیٰ آیت ۲۶۱

(۲) مسند امام احمد بن حنبل جلد ۲ ص ۳۷۵، ۳۷۶ مرویات زبید بن ارقم

(۳) السنن الکبریٰ للبیہقی جلد ۲ ص ۵۴ کتاب العداۃ

صبح کی فرض نماز کے بعد ہر ایسی نماز مکروہ ہے جس کا پہلے سے کوئی سبب نہ ہو۔ اور طلوع فجر کے بعد زیادہ بہتر یہ ہے کہ فجر کی سنتیں اور نخیۃ المسجد پر اکتفا کرے اور نوافل میں مشغول نہ ہو بلکہ ذکر و فکر اور دعائیں مشغول ہو۔ راحات کے بعد طلوع فجر کے بعد صرف دو سنتیں پڑھ سکتے ہیں باقی کوئی نفل جائز نہیں اگر سنتیں مسجد میں پڑھے تو سنتوں کے ذریعے درجہ فرض نماز کے ذریعے نخیۃ المسجد کا ثواب مل جائے گا ۱۲ ہزار روپی۔

تیسرا وظیفہ :

یہ چاشت سے زوال تک ہے چاشت سے مراد دن کی چوتھائی یا اس سے کچھ پہلے کا وقت ہے کیونکہ ہر تین گھنٹے کے بعد نماز کا حکم ہے جب طلوع فجر کے بعد تین گھنٹے گزر جائیں تو اس وقت اور اس سے کچھ پہلے چاشت کا وقت ہے جب دوسرے تین گھنٹے گزر جائیں تو ظہر کی نماز کا وقت ہے پھر تین گھنٹے گزریں تو عصر کا وقت ہے راحات کے نزدیک عصر کا وقت تاخیر سے شروع ہوتا ہے پھر جب تین گھنٹے گزریں تو مغرب کا وقت ہے، طلوع فجر اور زوال کے درمیان نماز چاشت کا مرتبہ اسی طرح ہے جس طرح زوال اور غروب کے درمیان عصر کی نماز ہے۔ البتہ یہ فرق ہے کہ نماز چاشت فرض نہیں کیوں کہ اس وقت لوگ اپنے کام میں مصروف ہوتے ہیں اس لیے ان پر آسانی رکھی گئی ہے۔ اس وقت کا وظیفہ وہی چار امور اور دو زائد باتیں ہیں۔

۱۔ اس وقت کسبِ عدل، اسبابِ معیشت اور بازار کی حاضری میں مشغول ہو اگر تاجر ہے تو صدق و امانت کے ساتھ تجارت کرے اگر کاریگر ہے تو خیر خواہی اور شفقت کو پیش نظر رکھے اور تمام کاموں میں اللہ تعالیٰ کو نہ بھلائے۔ اور اگر روزانہ کما سکتا ہے تو ہر دن اتنا ہی کمائے جتنا اس دن کے لیے ضروری ہو۔ جب ایک دن کا رزق حاصل ہو جائے تو اب اپنے رب کے گھر میں لوٹ آئے اور آخرت کا سامان تیار کرے کیوں کہ آخرت کی حاجت بہت زیادہ ہے اور اس سے نفع اندوزی دائمی ہے لہذا وقتی حاجت سے زیادہ کمانے کی نسبت یہ کمائی اہم ہے۔

کہا گیا ہے کہ مومن صرف تین جگہ مل سکتا ہے۔

۱۔ تو مسجد میں ہوگا اور اسے رعبادت کے ذریعے آباد کرنا ہوگا۔ یا اپنے گھر میں لوگوں سے کنارہ کش ہوگا یا کسی ضروری کام میں مشغول ہوگا اور بہت کم لوگوں کو معلوم ہوتا ہے کہ ضرورت کس قدر ہے بلکہ اکثر لوگ غیر ضروری کو بھی حاجت میں شمار کرتے ہیں کیونکہ شیطان ان کو فقر سے ڈراتا ہے اور برائی کا حکم دیتا ہے چنانچہ وہ اس کی بات سن کر وہ چیز بھی جمع کرتے ہیں جسے کھاتے نہیں کیوں کہ وہ محتاجی سے ڈرتے ہیں جب کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے طرف سے مغفرت اور فضل کا وعدہ دیتا ہے لیکن وہ اس سے منہ پھیرتے ہیں اور اس میں رغبت نہیں رکھتے۔

۲۔ قیلوہ یعنی کچھ دیر آرام کرتا ہے اور یہ سنت ہے اس کے ذریعے قیام بیل پر مدد ملتی ہے جیسے سحری کھانا سنت ہے کہ اس سے دن کے روزے پر مدد حاصل ہوتی ہے۔ اور اگر وہ رات کو قیام تو نہ کرے لیکن سوتے بھی نہ اور

اچھے کاموں میں مشغول بھی نہ ہو بلکہ بعض اوقات غافل لوگوں کی مجلس اختیار کر کے ان سے گفتگو کرتا ہے تو اس کے لیے سونا بہتر ہے کیونکہ جب اس کی طبیعت مذکورہ اذکار و وظائف کی طرف رجوع نہیں کرتی تو اس وقت سونے میں خاموشی اور سلامتی ہے۔

بعض بزرگوں نے فرمایا کہ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا جس میں خاموشی اور سوجانا ان کا بہترین عمل ہوگا اور کتنے ہی عابد ہیں کہ ان کی بہترین حالت سوجانا سے اور یہ اس صورت میں ہے جب عبادت میں ریاضت پدید آتی ہے اور اس سے چھٹکارا نہیں پاسکتا۔ تو غافل فاسق کی کیا صورت حال ہوگی حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔ کہ بزرگان دین کو یہ بات پسند تھی کہ وہ سلامتی کی تلاش میں فراغت کے وقت سوجائیں پس جب اس کا سونا سلامتی کی طلب اور قیام لیل کی نیت سے ہوگا تو یہ سونا بھی عبادت ہوگا۔ لیکن اسے زوال سے اتنی دیر پہلے بیدار سوجانا چاہیے کہ نماز کے لیے تیاری کر سکے یعنی نماز کے وقت سے پہلے وضو کر کے مسجد میں حاضر ہو جائے کیونکہ یہ اعمال کے فضائل میں سے ہے اور اگر وہ نہ سوتے اور نہ ہی محنت مشقت میں مبتلا ہو تو نماز اور ذکر میں مشغول ہو کیونکہ یہ دن کے اعمال میں افضل ہیں، اس لیے کہ اس وقت لوگ اللہ تعالیٰ سے غافل ہو کر دنیوی افکار میں مشغول ہیں تو وہ دل جو اس وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے فارغ ہوتا ہے جب لوگ اس کے دروازے سے اعراض کرتے ہیں وہ اس لائق ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے پاک کر دے اور اپنے قرب و معرفت کے لیے چن لے اس کی فضیلت قیام لیل کی فضیلت جیسی ہے کیونکہ رات کا وقت سونے کی وجہ سے غفلت کا وقت ہوتا ہے اور یہ خواہش کی اتباع اور دنیوی افکار میں مشغولیت کی وجہ سے غفلت کا وقت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ارشادِ گرامی کا ایک معنی یہی ہے۔

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً
لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ (۱)

یعنی ان میں سے ایک کو فضیلت میں دوسرے کے پیچھے لانا ہے اور دوسرا معنی یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کے پیچھے آتے ہیں لہذا اگر ایک میں کوئی عمل رہ گیا تو دوسرے وقت میں اس کا تدارک کرے۔

چوتھا وظیفہ:

زوال سے لے کر ظہر کی نماز سے فراغت تک کا وظیفہ اور ظہر کی سنتیں ہیں دن کے وظائف میں سے یہ سب سے مختصر لیکن سب سے افضل ہے جب زوال سے پہلے وضو کر کے مسجد میں آئے اور صبح ڈھلنے پر مؤذن اذان شروع کرے تو اذان کے جواب تک صبر کرے پھر اذان اور اقامت کے درمیان والی عبادت کو قائم کرنے کے لیے

گھڑا ہو۔ کیوں کہ یہی وقت اظہار ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا :

وَحِينَ تَنْظُرُونَ (۱)

اور جب تم اظہار کرتے ہو۔

اس وقت چار رکعات اس طرح پڑھے کہ ان کے درمیان سلام کے ساتھ تفریق نہ کرے (یعنی اکٹھی چار رکعات پڑھے) (۲) اور یہ دن کی تمام نمازوں میں ایک نماز ہے جس کے بارے میں بعض علماء نے نقل کیا کہ اسے ایک سلام کے ساتھ پڑھے لیکن اس روایت پر اعتراض کیا گیا ہے اور حضرت امام شافعی رحمہ اللہ کا مذہب یہ ہے کہ باقی نوافل کی طرح دو دور کعتوں کے حساب سے پڑھے اور درمیان میں سلام پھیرے صحیح روایات اسی کے بارے میں آئی ہیں۔

اور ان رکعات کو لمبا کرے کیونکہ اس وقت آسمان کے دروازے کھلتے ہیں^(۳) جیسا کہ ہم نے نفل نماز کے باب میں حدیث ذکر کی ہے ان میں سورہ بقرہ یا سوسو آیات والی سورتوں میں سے کوئی سورت یا طوال مفصل میں سے سور سے کم آیات والی کوئی چار سورتیں پڑھے۔ ان گھڑیوں میں دعا قبول ہوتی ہے۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بتا دیا کہ اس وقت آپ کا کوئی عمل (بارگاہ خداوندی میں) اٹھایا جائے۔ پھر ظہر کی چار کعتیں جماعت کے ساتھ پڑھے لیکن اس سے پہلے چار کعتیں ضرور پڑھے چاہے طویل ہوں یا مختصر۔

پھر ظہر کے بعد دو کعتیں اور پھر چار رکعات (نفل) پڑھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرض نماز کے بعد اسی قسم کی نماز کسی فضل کے بغیر پڑھنے کو ناپسند فرمایا۔ (۴) اس نفل نماز میں آیت الکرسی سورہ بقرہ کا آخری رکوع اور جو آیات ہم نے پہلے وظیفہ کے بیان میں ذکر کی ہیں ان کا پڑھنا مستحب ہے۔ تاکہ یہ دعا، ذکر، قرأت، نماز، تحمید، تسبیح اور وقت کی بزرگی سب کو چاہے ہو۔

پانچواں وظیفہ :

ظہر سے عصر تک مستحب یہ ہے کہ مسجد میں ٹھہر کر ذکر یا نماز یا دیگر اچھے کاموں میں مشغول رہے اور نماز کے انتظار میں معتکف رہے کیوں کہ عمدہ اعمال میں سے ایک عمل نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا بھی ہے اور یہ بزرگوں

(۱) قرآن مجید سورہ روم آیت ۱۸

(۲) سنن ابی داؤد جلد اول ص ۱۸۰ کتاب الصلوٰۃ

(۳) سنن ابی داؤد جلد اول ص ۱۸۰ کتاب الصلوٰۃ

(۴) اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب ایک مرتبہ فرض نماز پڑھ لی تو اب دوبارہ پڑھے یا یہ کہ فرض نماز میں دو کعتوں میں سورت

پڑھے ہیں دو میں نہیں ملائے تو سنتوں کی تمام رکعتوں میں ملائیں تاکہ فرض نماز کی طرح نہ ہو جائے ۱۲ ہزاروی۔

سنت ہے۔ جو شخص ظہر اور عصر کے درمیان مسجد میں داخل ہوتا تو وہ نمازیوں سے تلاوت کی آواز اس طرح سنتا جس طرح شہد کی مکھی کی بھینناہٹ ہوتی ہے اگر گھر میں دین کی سلامتی اور دل جمعی زیادہ ہو تو اس کے حق میں گھر افضل ہے چونکہ بھی لوگوں کی غفلت کا وقت ہوتا ہے اس لیے اس وقت وظیفہ میں مشغولیت کی فضیلت تیسری وظیفہ کی فضیلت کی طرح ہے۔ اور جو آدمی زوال سے پہلے سوئے اس کے لیے اس وقت سونا مکروہ ہے کیونکہ دن میں دو مرتبہ سونا مکروہ ہے بعض ماہ نے فرمایا۔ تین باتوں پر اللہ تعالیٰ غضبناک ہوتا ہے کسی تعجب خیز بات کے بغیر سننا، بھوک کے بغیر کھانا اور سب بیداری کے بغیر سونا۔

نیند کی مقدار یہ ہے کہ دن رات کے چوبیس گھنٹے ہوتے ہیں تو نیند میں اعتدال یہ ہے کہ رات دن میں آٹھ گھنٹے سوئے۔ در اگر رات کو ہی اتنا وقت سو پارہے تو دن کو سونے کا کوئی مطلب نہیں اور اگر اس سے کچھ مقدار کم ہو تو دن کے وقت سے پورا کرے تو جو آدمی ساٹھ سال زندگی گزارے اس کی عمر میں بیس کی کمی کافی ہے جب وہ کل وقت کا تہائی حصہ یعنی آٹھ گھنٹے سوئے گا تو اس کی عمر کا تہائی حصہ کم ہو جائے گا اور چونکہ سونا روح کی غذا ہے جس طرح کھانا بدن کی اور علم و ذکر دل کی غذا ہے لہذا نیند کو بالکل ختم کرنا ممکن نہیں۔ اور اعتدال کی مقدار یہ (آٹھ گھنٹے) ہے اور اس سے کمی بعض اوقات بدن میں اضطراب کا باعث بنتی ہے ایسے جو آدمی آہستہ آہستہ شب بیداری کو اپنی عادت بنا لے تو اب اس کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ یہ وظیفہ سب سے طویل ہے لیکن اس میں بندوں کا نفع بھی زیادہ ہے اور قرآن پاک کی درج ذیل آیت میں جن اصالح کا ذکر کیا گیا ہے یہ ان میں سے ایک ہے۔

اور اللہ تعالیٰ کے لیے سجدہ کرتی ہے ہر چیز جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں بعض خوشی سے اور بعض مجبوراً اور ان کے سائے بھی صبح و شام سجدہ ریز ہیں۔

وَاللّٰهُ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظَلٰلًا لَهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْاَصَالِ - (۱۱)

اور جب جمادات اللہ تعالیٰ کے لیے سجدہ کرتے ہیں تو بندہ جو با شعور ہے کس طرح اس کے لیے مختلف عبادات سے عاقل رہنا جائز ہوگا۔

چھٹا وظیفہ
جب عصر کا وقت داخل ہوتا ہے تو چھٹے وظیفے کا وقت شروع ہو جاتا ہے یہ وہ وقت ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے ارشاد خداوندی سے:

اور زمانے کی قسم۔

وَالْعَصْرِ (۱)

(۱) قرآن مجید، سورہ رعد آیت ۱۵

(۲) قرآن مجید سورہ عصر آیت ۱

آیت کے دو معنوں میں سے ایک معنی یہی ہے اور ایک تفسیر کے مطابق لفظ "آصال" رِبَالْعَدْوِ وَالْأَصَالِ سے بھی یہی وقت مراد ہے اور قرآن میں لفظ عَشِيًّا سے بھی یہی مراد ہے اور اللہ تعالیٰ کے ارشاد گرامی "بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ" (۲) میں لفظ عشی سے بھی یہی وقت مراد ہے اس وقت کا وظیفہ صرف چار رکعات (سنت غیر مؤکدہ) ہیں جو اذان اور اقامت کے درمیان ہیں، جیسے ظہر کے ذکر میں گزر گیا ہے۔

پھر فرض نماز پڑھے اور پہلے وظیفہ کے سلسلے میں جن چار اقسام کا ذکر کیا گیا ہے ان میں مشغول ہو یہاں تک کہ دھوپ دیوار کے اوپر تک چلی جائے اور سورج کا رنگ زرد پڑ جائے چوتھے اس وقت نماز پڑھنا منع ہے لہذا تدریجاً اور سمجھ کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کرے اس لیے کہ (تلاوت) ذکر، دعا اور فکر سب کو شامل ہے تو اس قسم میں تینوں اقسام کے اکثر مقاصد آجاتے ہیں۔

ساتواں وظیفہ

جب سورج کا رنگ زرد ہو جاتے یعنی زمین کے قریب ہو کر اس کی روشنی غبار اور بخارات کو جو زمین کی سطح پر ہیں ڈھانپ لے اور اس کی روشنی میں زردی نظر آنے لگے تو اس وظیفہ کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور یہ پہلے وظیفہ کی طرح ہے جو طلوع فجر سے سورج کے طلوع ہونے تک ہوتا ہے کیونکہ یہ غروب سے پہلے ہے جیسے وہ طلوع آفتاب سے پہلے ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد گرامی سے یہی مراد ہے۔

فَسَبِّحَْانَ اللّٰهِ حِيْنَ تُمْسُوْنَ وَحِيْنَ تَصْبِحُوْنَ -
شام کے وقت اور بوقت صبح اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کیا کرو۔
(۳)

اور اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد گرامی میں جن اطراف کا ذکر ہے ان میں سے دوسری طرف یہی ہے۔

فَسَبِّحْ رِجَالًا مِّنَ السَّمَاءِ - (۱)
دن کے کناروں پر اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرو۔
حضرت حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں اکابر اسلاف دن کے پہلے حصے کی نسبت اس کی زیادہ تعظیم کرتے تھے وہ فرماتے ہیں کہ بعض بزرگ دن کے پہلے حصے کو دنیا کے لیے اور آخری حصے کو آخرت کے لیے منقص کرتے تھے۔ تو اس وقت تسبیح استغفار خصوصی طور پر باقی وظائف جو پہلے درجہ میں ذکر کئے ہیں، پڑھے جائیں مثلاً یوں پڑھے۔

(۱) قرآن مجید سورہ ص آیت ۱۸

(۲) قرآن مجید سورہ روم آیت ۱۷

(۳) قرآن مجید سورہ طہ آیت ۱۳

میں اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگتا ہوں وہ اللہ جس کے سوا
کوئی معبود نہیں وہ زندہ قائم رکھنے والا ہے میں اس سے
توبہ کا سوال کرتا ہوں اللہ تعالیٰ عظمت واسے کی تسبیح ہے
تحمید بیان کرتا ہوں۔

اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ
الْقَيُّومُ وَأَسْأَلُهُ التَّوْبَةَ وَسُبْحَانَ
اللّٰهِ الْعَظِيمِ وَيَحْمَدُهُ -

یہ کلمات اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد گرامی سے ماخوذ ہیں۔

اپنے گناہ کی بخشش مانگو اور صبح و شام اپنے رب کی
حمد کے ساتھ اس کی پاکیزگی بیان کرو۔

وَأَسْتَغْفِرُكَ ذُنُوبِي وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ
بِالْعَتَمِيِّ وَالْإِبْكَارِ (۱)

ساتھ استغفار زیادہ پسندیدہ ہے جیسے
میں اللہ تعالیٰ کی بخشش چاہتا ہوں بے شک وہ بہت بخشنے
والا ہے میں اللہ تعالیٰ کی بخشش کا طلب گار ہوں بے شک
وہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے اسے میرے رب بخش دے
اور رحم فرما اور توبہ سب سے بہتر رحم فرمانے والا ہے پس ہمیں
بخش دے اور ہم پر رحم فرما اور توبہ سب سے زیادہ رحم
فرمانے والا ہے پس ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما اور تو
سب سے زیادہ بخشنے والا ہے۔

قُرْآنِ پَاکِ مِیْنِ اللّٰهِ تَعَالٰی كَيْ جُوْنَامِ مَذْكُوْرٍ مِیْنِ اِنْ كَيْ
اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا
اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ اِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا رَبِّ
اغْفِرْ وَارْحَمْ وَاَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِيْنَ
فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَاَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِيْنَ
فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَاَنْتَ خَيْرُ
الرَّاحِمِيْنَ -

غروب آفتاب سے پہلے۔

وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا (۲)

وَاللَّيْلِ اِذَا يَغْشَى (۳)

قسم ہے سورج اور اس کی دھوپ کی۔
اور قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے۔

اور قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ (پوری سورت) اور قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ (پوری سورت) پڑھنا مستحب ہے جب

سورج غروب ہو تو یہ استغفار میں مشغول ہو۔

جب اذان سننے تو یوں کہے۔

(۱) قرآن مجید سورہ عافرا آیت ۵۵

(۲) قرآن مجید سورہ الشمس آیت ۱

(۳) قرآن مجید سورہ واللیل آیت ۱

اللَّهُمَّ هَذَا إِذْ بَالَ لِي لَيْلِكَ وَإِذْ بَارَكْتَ
نَهَارِكَ وَأَصْوَاتُ دُعَائِكَ۔

یا اللہ! یہ تیری رات کے آنے اور تیرے دن کے جانے
اور تیری طرف بلائے والوں کی آوازوں کا وقت ہے۔

جیسے پہلے گزر چکا ہے پھر اذان کا جواب دے اور نماز مغرب میں مشغول ہو جائے غروب آفتاب کے ساتھ ہی دن
کے وظائف ختم ہو گئے۔ بندے کو چاہیے کہ اپنے حالات کا جائزہ لے اور اپنے نفس کا محاسبہ کرے اس کے راستے
کا ایک مرحلہ پورا ہو گیا اگر آج کا دن گذشتہ دن کے برابر ہوا تو اسے نقصان ہوا اور اگر اس سے ہزار ہا تو لعت کا
مستحق ہوگا۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

لَا بُورِكَ لِي فِي يَوْمٍ لَّا أَزْدَادُ فِيهِ
خَيْرًا۔ (۱)

مجھے اس دن برکت حاصل نہیں ہوگی جس دن میں بھلائی
کا اضافہ نہ کروں۔

اگر وہ اپنے نفس کو تمام دن بھلائی اور مشقت برداشت کرنے میں دیکھے تو یہ خوشخبری ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا
کرے کہ اس نے اسے یہ توفیق دی اور اپنے راستے پر قائم رکھا اور اگر دوسری حالت ہو تو رات، دن کی نایب ہے لہذا
سابقہ کوتاہی کی تلافی کی کوشش کرے کیوں نیکیاں برائیوں کو زائل کر دیتی ہیں، تمام رات جسمانی صحت اور باقی عمر
کے حصول پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے کہ اسے کوتاہی کے ازالے کے لیے وقت مل گیا۔ اور دل میں یہ تصور کرے
کہ زندگی کا دن آخر کو پہنچ گیا ہے اور زندگی کا سورج غروب ہوئے والا ہے اور اس کے بعد طلوع نہیں ہوگا اور
اس وقت کوتاہی کے ازالے اور عذر پیش کرنے کا دروازہ بند ہو جائے گا زندگی چند روزہ ہے یقیناً ایک
ایک دن کے خاتمے کے ساتھ مکمل طور پر ختم ہو جائے گی۔

رات کے وظائف:

رات کے وظائف پانچ ہیں:

پہلا وظیفہ:

جب سورج غروب ہو جائے تو مغرب کی نماز پڑھے اور مغرب و عشاء کے درمیان والے وقت کو زندہ رکھے
اس وظیفہ کا آخری وقت وہ ہے جب شفق غائب ہو جاتی ہے اور شفق سے مراد سرخی ہے اور اس وقت عشاء
کا وقت داخل ہو جاتا ہے۔ (۲)

(۱)

(۲) احسان کے نزدیک سرخی کے بعد والی سفیدی کو شفق کہتے ہیں جب وہ ختم ہوتی ہے تو وقت عشاء شروع ہوتا ہے ۱۲ ہزاروی

اللہ تعالیٰ نے اس کی قسم کھائی ہے :

كَلَّا اَقْسِمُ بِالْمَشْفِقِ - (۱)

مجھے شفق کی قسم سے۔

اس وقت کی نماز کو ناشتہ الیل کہا جاتا ہے کیونکہ رات کی ساعتیں اس وقت شروع ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے درج ذیل ارشاد میں جن "آناہ" (اوقات) کا ذکر ہے ان میں سے ایک آن (ساعت) یہی ہے۔

ارشاد خداوندی ہے :

وَمِنْ اٰنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ (۲)

اور رات کی کچھ گھنٹوں میں تسبیح بیان کرو۔

اور یہ آواہن کی نماز ہے اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد گرامی سے یہی مراد ہے۔

تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ (۳) ان کے پہلو بستروں سے ہٹ کر رہتے ہیں۔

حضرت حسن سے یہ بات مروی ہے اور ابن ابی زیاد نے اسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا ہے کہ آپ سے اس آیت کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا یہ مغرب و عشاء کے درمیان ہے پھر آپ نے فرمایا "تم پر مغرب اور عشاء کے درمیان کی نماز لازم ہے وہ دن کے لغویات کو دور کرتی ہے اور اس کے آخر کو اچھا کرتی ہے۔ (۴)

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے اس آدمی کے بارے میں پوچھا گیا جو مغرب و عشاء کے درمیان سو جاتا ہے تو آپ نے فرمایا وہ ایسا نہ کرے کیونکہ، قرآن پاک کی آیت "تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ" سے یہ ساعت مراد ہے اس وقت کی عبادت کی فضیلت دوسرے باب میں ذکر کی جائے گی۔

اس وظیفہ کی ترتیب یہ ہے کہ مغرب کے بعد پہلے دو رکعتیں پڑھے جن میں "قل یا ایہا الکفر ون" اور "قل هو اللہ احد" پڑھے اور یہ دو رکعتیں نماز مغرب کے بعد کسی کام میں مشغول ہونے یا وقفہ کئے بغیر پڑھے یہ دو سنتیں ہوں گی، پھر چار رکعات طویل پڑھے پھر شفق کے غائب ہونے تک جس قدر ممکن ہو نوافل پڑھے اگر مسجد گھر کے قریب ہو تو گھر میں پڑھتے ہیں کوئی صرح نہیں اگر مسجد میں اشکاف کا ارادہ نہ ہو اور اگر نماز عشاء کی انتظار میں مسجد میں ٹھہرنے کا ارادہ ہو تو یہ افضل ہے بشرطیکہ بناوٹ اور دکھاوے سے محفوظ ہو۔

(۱) قرآن مجید، سورہ الشقاق آیت ۱۶

(۲) قرآن مجید سورہ طہ آیت ۱۳۰

(۳) قرآن مجید سورہ سجدہ آیت ۱۶

(۴) کنز العمال جلد ۱ ص ۳۹۲ حدیث ۱۹۴۴۹

دوسرا وظیفہ:

یہ وظیفہ نمازِ عشاء کا وقت شروع ہونے سے لوگوں کے سونے کے وقت تک ہوتا ہے اور یہ وہ وقت ہے جب اندھیرے نوب چھا جاتا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے اس وقت کی قسم کھاتے ہوئے فرمایا:

وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ (۱)

رات اور اس میں جمع اندھیرے کی قسم

اور ارشاد فرمایا:

إِلَى غَسَنِ اللَّيْلِ - (۲)

(سورج کے ڈھلنے سے) رات کے چھا جانے تک (نماز پڑھو)

اس وقت رات چھا جاتی ہے اور تاریکی مستحکم ہو جاتی ہے۔

اس وظیفے کی ترتیب میں تین امور کا خیال رکھا جائے۔

(۱) عشاء کی فرض نماز کے علاوہ دس رکعات پڑھے چار رکعات عشاء سے پہلے اذان اور اقامت کے درمیان،

چھ رکعتیں، فرض نماز کے بعد اس طرح کہ دو انگ اور الگ پڑھے ان میں قرآن پاک کی مخصوص آیات پڑھے جیسے سورہ بقرہ کی آخری آیات، آیت الکرسی، سورہ حدید کی ابتدائی آیات سورہ حشر کی آخری آیات اور اس کے علاوہ پڑھے۔

(ب) تیرہ رکعات پڑھے جن میں سے آخری نماز وتر ہوں (۳) (آخر میں وتر ہوں) نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے

متعلق اکثر روایات میں اسی طرح آیا ہے۔

سمجھ دار لوگ اپنے اوقات وظیفہ رات کی ابتدا سے مقرر کر لیتے ہیں اور اگر مضبوطیوں تو رات کے آخری حصہ سے

مقرر کرتے ہیں احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ شروع میں پڑھے کیوں کہ بعض اوقات بیدار نہیں ہو سکتا یا کھڑا ہونا مشکل ہو جاتا ہے البتہ عادت بن جلتے تو رات کا آخری حصہ افضل ہے۔

پھر اس نماز میں مخصوص سورتوں سے تین سو آیات کی مقدار پڑھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر سورہ یسین، سورہ

سجہ لقمان، سورہ دغان، سورہ الملک سورہ زمر اور سورہ واقعہ سے پڑھتے تھے (۳)

اگر نماز بھی پڑھ سکے تو سونے سے پہلے ان تمام سورتوں یا بعض کی تلاوت ترک نہ کرے۔

(۱) قرآن مجید، سورہ انشقاق آیت ۷

(۲) قرآن مجید، سورہ اسراء آیت ۸

(۳) صحیح بخاری جلد اول ص ۱۵۳ باب التہجد

(۴) کنز العمال جلد اول ص ۵۱۰ حدیث ۲۶۳۵

تین احادیث میں وارد ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت کیا پڑھتے تھے سب سے زیادہ مشہور یہ ہے کہ سورۃ النبی، سورۃ الملک، سورۃ زمر اور سورۃ واقعہ پڑھتے تھے، (۱)

ایک روایت میں ہے کہ سورۃ زمر اور سورۃ بنی اسرائیل پڑھتے تھے (۲)

تیسری روایت میں ہے کہ آپ ہر رات سبحات پڑھتے تھے یعنی جن سورتوں کے شروع میں "سُبْحٰنَیْہِ یٰسُبْحٰنَہُ" کے

اظہار میں اور آپ فرماتے تھے کہ ان میں ایک آیت ہے جو ہزار آیات سے بہتر ہے۔ (۳)

علماء کرام چھ کی تعداد پوری کرتے ہوئے "سُبْحٰنَ اِسْمِ رَبِّکَ الْاَعْلٰی" کا بھی اضافہ کرتے تھے کیوں کہ حدیث میں

کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم "سُبْحٰنَ اِسْمِ رَبِّکَ الْاَعْلٰی" سورت کو پسند فرماتے تھے۔ (۴)

آپ وتر نماز کی تین رکعات میں "سُبْحٰنَ اِسْمِ رَبِّکَ الْاَعْلٰی" "قُلْ یٰ اَیُّهَا الْکٰفِرُوْنَ" اور "قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ" پڑھتے تھے۔ (۵)

ج۔ اگر رات کو قیام کی عادت نہ ہو تو وتر نماز سونے سے پہلے پڑھے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے

ی۔ مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت فرمائی ہے کہ میں وتر پڑھ کر سوؤں (۶)

اور اگر رات کو نماز کی عادت ہو تو تاخیر افضل ہے۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

صَلَاةُ اللَّیْلِ مَثْنٰی مَثْنٰی فَاِذَا خِفَّتْ

الصُّبْحُ فَاَوْتِرْ بِرُكْعَتَیْہِ (۷)

رات کی نماز دو رکعتیں ہے پس جب تمہیں صبح کا ڈر ہو تو ایک رکعت کا اضافہ کر کے طاق بنا لو۔ (۸)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے پہلے سے میں بھی وتر پڑھے ہیں درمیان

(۱) کتاب عمل الیوم واللیلۃ ص ۱۸۳ حدیث ۶۷۵

(۲) مسند امام احمد بن حنبل جلد ۶ ص ۶۸ مرویات عائشہ رضی اللہ عنہا

(۳) کتاب عمل الیوم واللیلۃ ص ۱۸۳ حدیث ۶۸۲

(۴) مسند امام احمد بن حنبل جلد اول ص ۹۶ مرویات علی رضی اللہ عنہ

(۵) سنن ابن ماجہ ص ۱۳۳ ماجاز فی الوتر

(۶) صحیح بخاری جلد اول ص ۱۳۵، البواب الوتر (۷) ایضاً

(۸) مطلب یہ ہے کہ رات کے نوافل دو رکعت کر کے پڑھو اور جب صبح ہونے کا خطرہ ہو تو اب دو رکعتیں نہ پڑھو بلکہ تین پڑھو اور

یہ وتر نماز ہے یہ مطلب نہیں کہ ایک رکعت پڑھو ۱۲ ہزاروی

ہیں بھی اور آخری حصے میں بھی۔ لیکن آخر کار آپ نے سحری کے وقت پڑھنے کی عادت بنالی۔ (۱)

حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں وتر پڑھنے کی تین صورتیں ہیں اگر تم چاہو تو رات کے پہلے حصے میں پڑھو پھر دو رکعتیں (نوافل) پڑھو یعنی اب یہ تمام نماز طاق رکعات ہو جائے گی اور اگر تم چاہو تو ایک رکعت پڑھو اور جب بیدار ہو تو اس کے ساتھ دوسری رکعت ملا کر پھر رات کے آخری حصے میں وتر پڑھو تاکہ یہ تمہاری رات کی آخری نماز ہو جائے۔ (۲)

یہ ان سے مروی ہے لیکن پہلے اور تیسری طریقے میں کوئی عرج نہیں۔ جہاں تک وتروں کو لم کرنے کا تعلق ہے تو صحیح طور پر ثابت ہے کہ اس سے منع کر دیا گیا لہذا اسے کم نہ کیا جائے (۳) اور یہ بات مطلقاً مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

لَا دَرْتَانَ فِي لَيْلَةٍ (۴)

ایک رات میں دو بار وتر نہیں ہیں۔

اگر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے قول کا درمیان والا حصہ تسلیم کیا جاتے تو اس سے دو خرابیاں لازم آتی ہیں ایک یہ کہ ایک رکعت انگ پڑھنا جو صحیح نہیں دوسرا وتر نماز کو دو بار پڑھنا جو صحیح ہے ۱۲ ہزاروی) اور جس شخص کو جاگنے میں تردد ہو تو اس کی آسانی کے لیے علماء کرام نے ایک آسان صورت کو مستحسن قرار دیا ہے وہ یہ کہ وتروں کے بعد سوتے وقت اپنے بستر پر بیٹھ کر دو رکعت پڑھ لے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آہستہ آہستہ گھٹنوں کے بل بستر پر تشریف لے جاتے وہاں دو رکعتیں پڑھتے۔ اور ان دو رکعتوں میں سورۃ زلزال اور سورۃ التکاثر ہے (۵) کیونکہ ان دو سورتوں میں ڈرایا گیا ہے ایک روایت میں ہے کہ قل یا ایہا الکفر دن پڑھے کیوں اس میں دوسروں کی عبادت سے بیزاری اور خالص اللہ تعالیٰ کے لیے عبادت کا ذکر ہے کہا گیا ہے کہ اگر وہ بیدار ہو جائے تو یہ دو رکعتیں ایک رکعت کے قائم مقام ہو جائیں گی اور اب وہ رات کے آخر میں ایک رکعت پڑھے تو یہ پہلی نماز سے مل کر جنت ہو جائے گی اور تھے سرے سے وتر پڑھنا اچھا ہے اسے ابو طالب مکی نے اچھا قرار دیا ہے (پہلے گزر چکا ہے کہ ایک رکعت پڑھنے سے حضور علیہ السلام نے منع فرمایا نیز ایک رات میں دو بار وتر نہیں پڑھ سکتے لہذا اس صورت پر عمل نہیں ہوگا ۱۲ ہزاروی)

(۱) صحیح بخاری جلد اول ص ۱۳۸ ابواب الوتر

(۲) ایک رکعت پڑھنے سے حضور علیہ السلام نے منع فرمایا اور اسے بتیرا قرار دیا لہذا ایک رکعت نہیں پڑھنی چاہئے ۱۲ ہزاروی

(۳)

(۴) سنن ابی داؤد جلد اول ص ۲۰۳ کتاب الصلوٰۃ

(۵) صحیح مسلم جلد اول ص ۲۵۳ کتاب صلوٰۃ المسافرین

ابوطالب کی نے فرمایا کہ اس میں تین اعمال ہیں۔ زندگی کی کم امید رکھنا، وتر نماز کا حصول اور رات کے آخر میں بون کا ہونا تو ان کی یہ بات ٹھیک ہے لیکن اس میں ایک شبہ ہے وہ یہ کہ اگر یہ رکعتیں پہلی نماز کو حجت بناتی ہیں تو بار نہ ہونے کی صورت میں بھی اسی طرح ہوتا چاہیے اور پہلے وتر باطل ہونے چاہیں پس یہ بات محل نظر ہے کہ اگر وہ بیدار ہو جائے تو حجت ہوں اور اگر سو یاڑ ہے تو حجت نہ ہوں البتہ حضور علیہ السلام سے یہ بات صحیح طور پر ثابت ہو جائے کہ پانے آرام فرما ہونے سے پہلے وتر نماز پڑھی اور بعد میں اسے ٹوٹا یا تو معلوم ہوگا کہ یہ دونوں رکعتیں ظاہری طور پر حجت ہیں اور معنوی طور پر طاق ہیں پس بیدار نہ ہونے کی صورت میں طاق شمار کی جائیں اور بیدار ہو جائے تو شمار ہوں گی۔

پھر وتر نماز سے سلام پھرنے کے بعد یہ کلمات پڑھنا مستحب ہے۔

سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
وَالرُّوحِ جَلَّتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ
بِالْعِظَمَةِ وَالْجَبْرُوتِ وَتَعَزَّزَتْ
بِالْقُدْرَةِ وَتَهَرَّتْ الْعِبَادُ بِالمَوْتِ۔

پاک بادشاہ کی پاکیزگی بیان کرتا ہوں جو فرشتوں اور
جبریل امین کا رب ہے یا اللہ تو نے اپنی عظمت و
جبروت سے آسمانوں اور زمین کو ڈھانپ لیا تو قدرت
کے ساتھ عزت والا ہے اور تو نے بندوں کو موت کے
ذریعے قابو میں رکھا۔

ایک روایت میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرضوں کے علاوہ عام طور پر بیٹھ کر نماز پڑھتے تھے (۱) اور آپ نے فرمایا بیٹھنے والے کے لیے کھڑے ہو کر پڑھنے والے کی نسبت نصف ثواب ہے اور لیٹ کر پڑھنے والے کو بیٹھ کر پڑھنے والے کی نسبت نصف ثواب ملتا ہے (۲) اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ لیٹ کر نفل نماز پڑھنا صحیح ہے (۳)

تیسرا وظیفہ:

یہ وظیفہ سونے سے متعلق ہے سونے کو وظائف میں شمار کرنے میں کوئی حرج نہیں کیونکہ جب اس کے آداب کا خیال رکھا جائے تو عبادت شمار ہوتا ہے کہا گیا ہے کہ جب بندہ با وضو ہو کر سوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو بیدار ہونے تک نمازی لکھا جاتا ہے اور اس کے لباس میں ایک فرشتہ داخل ہو جاتا ہے اگر وہ سونے کی حالت میں حرکت کرے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے تو فرشتہ اس کے لیے دعا مانگتا ہے اور بخشش طلب کرتا ہے۔ (۴)

(۱) سنن نسائی جلد اول ص ۲۴۲ کتاب قیام اللیل

(۲) مصنف ابن ابی شیبہ جلد ۲ ص ۵۲ کتاب الصلوٰۃ

(۳) احسان کے نزدیک لیٹ کر نماز اسی صورت میں پڑھنا جائز ہے جب رکوع اور سجدہ نہ کر سکے کیونکہ لیٹ کر نماز اتارے سے پڑھی جاتی ہے

(۴) الترغیب والترہیب جلد اول ص ۴۰۸ الترغیب فی انہ پیام الانسان ظاہراً

ایک حدیث شریف میں ہے۔

إِذَا نَامَ عَلَى طَهْرٍ أَرَفَتْ رُوحَهُ
إِلَى الْعَرْشِ الرَّاقِ

جب بندہ با وضو ہو کر سوتا ہے تو اس کی روح عرش
کی طرف اٹھائی جاتی ہے۔

یہ تو عوام کی بات ہے تو خاص لوگوں، علماء اور پاک دل والوں کا معاملہ کیا ہوگا انہیں تو خواب میں اسرار کا کشف
ہے اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

تَوَمُّ الْعَالِمِ عِبَادَةٌ وَتَفْسُهُ تَسْبِيحٌ - (۲)

عالم کا سونا عبادت اور اس کا سانس لینا تسبیح ہے۔
حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ آپ رات کے قیام میں کیا کرتے ہیں؟ انہوں
نے فرمایا میں رات بھر قیام کرتا ہوں کچھ دیر بھی نہیں سوتا اور قرآن پاک کو وقفے وقفے سے پڑھتا ہوں۔ حضرت معاذ
رضی اللہ عنہ نے فرمایا لیکن میں سو جاتا ہوں پھر اٹھتا ہوں اور سونے کی حالت میں ثواب کی نیت کرتا ہوں جس طرح قیام
کرتا ہوں (۳)

پھر ان دونوں نے یہ بات سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی تو آپ نے فرمایا اسے ابو موسیٰ
حضرت معاذ رضی اللہ عنہما تم سے زیادہ فقیہ ہیں۔

سونے کے آداب

سونے کے آداب درج ہیں۔

۱۔ وضو اور مسواک۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ جب بندہ با وضو ہو کر سوتا ہے تو اس کی روح عرش
کی طرف لے جائی جاتی ہے اور اس کا خواب سچا ہوتا ہے اور اگر وہ طہارت پر نہ سوتے تو روح اوپر تک نہیں پہنچ
سکتی تو اسے پراگندہ خواب آتے ہیں جو سچ نہیں ہوتے (۴) تو اس سے ظاہری اور باطنی دونوں قسم کی طہارت مراد ہے
اور باطنی طہارت ہی غیب کے پردوں کو مٹانے میں مؤثر ہوتی ہے۔

۲۔ اپنے سر کے پاس مسواک اور وضو کے لیے پانی تیار رکھے اور جاگتے وقت عبادت کے لیے کھڑا ہونے کی نیت کرے
جب بیدار ہو تو مسواک کرے ہمارے اسلاف بزرگ اسی طرح کیا کرتے تھے۔

(۱) مجمع الزوائد جلد اول ص ۶۲ کتاب العلم

(۲) الاسرار المرفوعة ص ۲۵۵ حدیث ۱۰۱۶

(۳) صحیح بخاری جلد ۲ ص ۶۲۲ کتاب المغازی

(۴) مجمع الزوائد جلد اول ص ۶۲ کتاب العلم

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مروی ہے کہ آپ ایک رات میں کئی بار مسواک کرتے جب آرام فرماتے تو مسواک کرتے اور جب بیدار ہوتے تو مسواک کرتے (۱) اگر وضو کے لیے پانی نہ ملے تو پانی کے ساتھ اعضاء پر مسح کر لے اگر اتنا بھی نہ ملے تو قبلہ رخ ہو کر بیٹھ جائے اور ذکر، دعا، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں غور و فکر کرنے میں مشغول ہو جائے یہ قیام لیل کے قائم مقام ہو جائے گا۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بستر پر جاتے وقت رات کو نماز کے لیے اٹھنے کی نیت کرے پھر اس پر نیند غالب آجائے سستی کہ صبح ہو جائے تو اسے نیت کی مطابق ثواب ملے گا اور اس کی نیت اللہ تعالیٰ طرف سے اس پر صدقہ ہوگا۔ (۲)

۳۔ جس آدمی نے وصیت کرنا ہو تو وہ اپنی وصیت اپنے سر ہانے رکھ کر سوئے کیونکہ نیند کی حالت میں روح قبض ہونے کا خوف موجود ہے اور جو آدمی کسی وصیت کے بغیر مر جائے تو عالم برزخ میں قیامت تک اسے کلام کی اجازت نہیں دی جائے گی فوت شدہ لوگ اس کی ملاقات کے لیے آئیں گے اور کلام کریں گے لیکن وہ کلام نہیں کر سکے گا تو ان میں سے بعض بعض سے کہیں گے یہ مسکین کسی وصیت کے بغیر مرے اچانک موت کے خوف سے ایسا کرنا مستحب ہے اور اچانک موت میں آسانی ہے مگر وہ شخص جو موت کے لیے تیار نہ ہو بلکہ لوگوں کے حقوق کی وجہ سے اس کی پٹی پر لہجہ ہو (اس کے لیے اچانک موت بہتر نہیں)

۴۔ ہر گناہ سے توبہ کر کے سوئے اور تمام مسلمانوں کے بارے میں اس کا دل صاف ہو دل میں کسی کے ظلم کا ذکر نہ کرے اور بیداری کے بعد گناہ کا ارادہ بھی نہ رکھنا ہو۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔
 مَنْ أَدْرَى إِلَىٰ ذِي سَيْفٍ لَا يَتَوَىٰ ظِلْمًا
 أَحَدٌ وَلَا يَجِدُ عَلَىٰ أَحَدٍ غُفْرًا
 مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ (۳)

۵۔ عمدہ بچھونے کے ذریعے عیش پرستی اختیار نہ کرے بلکہ اس چھوڑ دے یا درمیانے قسم کا بستر اختیار کرے بعض اصحاب سونے کے لیے بچھونے کو ناپند کرتے تھے اور اسے تکلف سمجھتے تھے اصحاب صفہ صحابہ کرام جو صفہ پر رہتے تھے

(۱) مصنف ابن ابی شیبہ جلد اول ص ۷۰، کتاب الطہارات

(۲) سنن ابن ماجہ ص ۹۶ باب إقامة الصلوة

(۳)

اور یہ مسجد نبوی شریف میں ایک چوتڑہ ہے، اپنے اور مٹی کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں رکھتے تھے وہ کہتے تھے ہم اسی سے پیدا ہوئے اور اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے ان کے خیال میں اس سے دلوں میں زیادہ رقت پیدا ہوتی ہے اور یہ تواضع کے زیادہ لائق ہے لہذا جس شخص کا نفس اس مشقت کو برداشت نہ کرے وہ درمیانہ بچھونا اختیار کرے۔
۶۔ جب تک نیند نہ آئے، نہ سوئے اور نہ ہی تکلف نیند لائے البتہ رات کے آخر میں قیام پر مدد حاصل کرنا مقصود ہو تو ٹھیک ہے ہمارے اسلاف اس وقت سوتے جب نیند غالب ہوتی، اس وقت کھاتے جب بھوک لگتی اور ضرورت کے وقت کلام کرتے تھے اسی لیے ان کا یہ وصف بیان ہوا۔ کہ وہ رات کو کم سوتے تھے، اور اگر نیند کا غلبہ نماز اور ذکر سے روکے اور پتہ نہ چلے کہ کہا کہہ رہا ہے تو سو جائے یہاں تک کہ وہ جو کچھ کہتا ہے اسے سمجھ لے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیٹھے بیٹھے سونے کو ناپ مذ کرتے تھے حدیث شریف میں ہے۔

وَلَا تَكَايِدُوا اللَّيْلَ (۱)

رات کے وقت مشقت میں نہ پڑو۔

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ فلاں عورت رات کو نماز پڑھی ہے جب اس پر نیند غالب آتی ہے تو ایک رسی کے ساتھ لٹک جاتی ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرما دیا اور ارشاد فرمایا تم میں کوئی شخص رات کو اسی قدر نماز پڑھے جو آسان ہو پس جب اس پر نیند غالب آجائے تو سو جائے۔

آپ نے ارشاد فرمایا:

تَكْفُرُونَ مِنَ الْعَمَلِ مَا تُطِيقُونَ فَإِنَّ اللَّهَ لَنْ يَمَلَّ حَتَّى تَمَلُّوا - (۲)

جس قدر طاقت ہو عمل کا بوجھ اٹھاؤ اللہ تعالیٰ ہرگز نہیں اکتائے گا البتہ تم تھک جاؤ گے۔

اور آپ نے ہی ارشاد فرمایا:

خَيْرُ هَذَا الدِّينِ أَيْسَرُهُ -

اس دین میں وہ بات سب سے اچھی ہے جو سب سے زیادہ آسان ہو۔

(۳)

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ فلاں شخص نماز پڑھتا ہے سوتا نہیں روزہ رکھتا ہے چھوڑتا نہیں آپ نے فرمایا لیکن میں تو نماز بھی پڑھتا ہوں سوتا بھی ہوں روزہ بھی رکھتا ہوں اور روزہ ترک بھی کرتا ہوں یہ میری سنت ہے پس جس نے میری سنت سے منہ پھیرا اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں (۴)

(۱) الفردوس بماثورا لخطاب جلد ۵ ص ۶۰/ حدیث ۷۶۰

(۲) مسند امام احمد بن حنبل جلد ۲ ص ۶۱ مرویات عائشہ

(۳) مسند امام احمد بن حنبل جلد ۵ ص ۳۲ مرویات مجن بن ادرع (۴) صحیح بخاری جلد ۲ ص ۵۸، ۵۹، کتاب النکاح

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "اس دین سے مقابلہ نہ کرو میرے شک یہ مضبوط ہے پس جو آدمی اس سے مقابلہ کرے گا تو یہ اس پر غالب آجائے گا تو اپنے نفس کے نزدیک اللہ تعالیٰ کی عبادت کو ناپذیر نہ ٹھہراؤ۔" (۱)

۴۔ قبلہ رخ ہو کر سوئے قبلہ کی طرف رخ کرنے کی دو صورتیں ہیں۔

ایک وہ جو قریب الموت شخص کی ہوتی ہے یعنی وہ گدی پر رچیت بیٹھا ہوا ہو اور اس کا چہرہ اور پاؤں کی تلوے قبلہ کی طرف ہوں دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جس طرح قبر میں قبلہ رخ کیا جاتا ہے یعنی پہلو پر سو جائے اور اس کا چہرہ اور بدن کا اگلا حصہ قبلہ کی طرف ہو اور یہ اس صورت میں ہو گا جب دائیں پہلو پر سوئے۔

۸۔ سوتے وقت دعائیہ کلمات پڑھے یوں کہے۔

يَا سَمِيكَ رَبِّي وَضَعْتَ جَنَّتِي وَيَا سَمِيكَ
أَرْفَعُكَ، (۲)

اے میرے رب میں تیرے نام پر اپنے پہلو کو رکھتا
ہوں اور تیرے نام سے اٹھاتا ہوں۔

اس کے علاوہ ماثورہ دعائیں جو ہم دعاؤں کے بیان میں ذکر کر چکے ہیں مخصوص آیات پڑھنا بھی مستحب ہے مثلاً
آیت الکرسی، سورہ بقرہ کا آخری رکوع اور اس کے علاوہ۔ اسی طرح یہ بھی پڑھے۔

وَاللَّهُ كَمَا إِلَهُكُمْ إِلَهُ وَاحِدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
وَإِخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُكُكِ الَّتِي نَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَبْغُ النَّاسُ وَمَا أَنْزَلَ
اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَاءٍ فَأَخْبَاهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ
الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِينَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ - (۳)

کہا جاتا ہے کہ جو شخص سوتے وقت اس آیت کو پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کو حفظ قرآن کی دولت عطا فرمائے گا
اور وہ اسے کبھی نہیں بھولے گا۔

سورہ اعراف سے یہ آیات پڑھے۔

إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ -

بے شک تمہارا رب وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو
چھ دنوں میں پیدا فرمایا۔

(۱) السنن الکبریٰ للبیہقی جلد ۳ ص ۱۸ کتاب الصلوٰۃ

(۲) کتاب عمل الیوم واللیلہ ص ۱۹ حدیث ۴۰۹

(۳) قرآن مجید سورہ بقرہ آیت ۱۶۳ - ۱۶۴

پھر اس نے عرش پر اُستوا فرمایا جیسا اس کی شان کے لائق ہے) تکتا ہے رات سے دن کو اس حال میں کہ دن، رات کو تیزی سے طلب کرتا ہے اور سورج اور چاند اور ستاروں کو رپیدا فرمایا) وہ سب اس کے حکم کے پابند ہیں سنوا پیدا کرنا اور حکم دینا اسی کے ساتھ خاص ہے اللہ تعالیٰ بڑی برکت والا ہے جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے اپنے رب کو گرگڑاتے ہوئے اور آہستہ پکار ویلے شک اللہ تعالیٰ حد سے بڑھے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ اور زمین میں فساد نہ پھیلاؤ اس کی اصلاح کئے بعد۔ اور اس سے دعا مانگو ڈرتے ہوئے اور امید کرتے ہوئے بے شک اللہ کی رحمت نیکو کاروں کے قریب ہے۔

ثم استوى على العرش يغشى الليل
النهار يطلبه حثيثا والشمس
والقمر والنجوم مسخرات بأمره
اولم الخلق والاد من تبارك الله رب
العالمين ه ادعوا بكم تضرعا
و خفية انه لا يحب المعتدين ه
ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها
وادعوه خوفا وطمعانا ان رحمت
الله قريب من المحسنين ه

(۱)

اور سورہ بنی اسرائیل کی آخری دو آیات پڑھے چوبہ ہیں۔

آپ فرما دیجئے یا اللہ کہہ کر پکارو یا یا رحمن کہہ کر جس نام سے پکارو اسی کے اچھے نام ہیں نہ بلند آواز سے نماز پڑھو اور نہ بالکل آہستہ پڑھو ان دونوں کے درمیان راستہ تلاش کرو اور آپ فرما دیجئے سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے کسی کو اپنا بیٹا نہیں بنایا اور نہ ہی اس کی بادشاہی میں کوئی اس کا شریک ہے اور نہ در ماندگی میں اس کا کوئی مددگار ہے اس کی بڑا بدرجہ کمال بیان کرو۔

قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن اما
تدعوا فله الاسماء الحسنی ولا تجهر
بصلاحتك ولا تخافت بها وابتغ
بين ذلك سبيلا ه وقل الحمد
لله الذي لم يتخذ ولدا ولم
يكن له شريك في الملك ولم
يكن له ولي من الدن و كبر ه
تكبيرا

(۲)

تو اس کے پاس میں ایک فرشتہ داخل ہوگا جو اس کی حفاظت کے لیے مقرر کیا جائے گا۔ اور وہ اس کے لئے مغفرت کی دعا مانگے گا۔ سورہ فلق اور سورہ الناس پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر پھونکے اور پھر اسے اپنے چہرے اور تمام جسم

(۱) قرآن مجید، سورہ اعراف آیات ۵۲، ۵۵، ۵۶

(۲) قرآن مجید بنی اسرائیل آیت ۱۱۰، ۱۱۱

پر ہے (۱)

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح مروی ہے

سورۃ کعب کی پہلی دس اور آخری دس آیات کی تلاوت کر کے اور یہ آیات قیام لیل کے لیے جاننے کی خاطر ہیں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ جو شخص سورۃ بقرہ کی آخری دو آیتیں پڑھنے سے پہلے سو جائے میں اس کو کامل عقل والا نہیں سمجھتا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، پچیس مرتبہ پڑھنے تک چاروں کلمات کا مجموعہ ایک سو بار ہو جائے۔

۹۔ سوتے وقت یہ بات یاد رکھے کہ نیند ایک قسم کی وفات ہے اور بیدار ہونا قیامت کے دن اٹھنے کی طرح ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے۔

اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي
لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا۔

اللہ تعالیٰ جانوں کو موت دیتا ہے ان کی موت کے
وقت اور جن کی موت کا وقت نہیں آتا ان کی روح
نیند میں قبض کر لیتا ہے۔

(۱)

اور ارشاد خداوندی ہے:

مَوَّالَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ (۲)

وہی اللہ ہے جو تمہیں رات کے وقت موت دیتا ہے۔
تو نیند کو موت قرار دیا جس طرح بیدار ہونے والے کے لیے کچھ مشاہدات منکشف ہوتے ہیں جو حالت نیند میں اس کے حالات کے مناسب نہیں ہوتے اسی طرح قیامت کے دن اٹھنے والا وہ باتیں دیکھے گا جو کبھی اس کے دل میں نہیں کھٹکیں اور نہ کبھی اس نے مشاہدہ کیا زندگی اور موت کے درمیان نیند کی مثال اس طرح ہے جیسے دنیا اور آخرت کے درمیان برزخ ہے۔

حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے سے فرمایا اے بیٹے! اگر تجھے موت میں شک ہے تو مت سوتا جس طرح تو سوتا ہے اسی طرح موت بھی آئے گی۔ اور اگر تجھے قیامت کے دن اٹھنے میں شک ہے تو نیند سے بیدار نہ ہو جس طرح تو سوتے کے بعد بیدار ہوتا ہے اسی طرح مرنے کے بعد اٹھے گا۔

حضرت کعب اخبار فرماتے ہیں جب تو سوتے تو دایں پہلو پر لیٹ جا اور اپنا رخ قبلہ کی طرف کر کیوں کہ یہ بھی

(۱) صحیح مسلم جلد ۲ ص ۲۲۳ کتاب السلام

(۲) قرآن مجید سورۃ زمر آیت ۲۲

(۳) قرآن مجید سورۃ انعام آیت ۵۹

ایک وقت ہے۔

ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو آرام فرما سوتے تو اپنے رخسار کو دائیں ہاتھ پر رکھتے اور یوں خیال رکھتے کہ آج رات ہی انتقال کر جائیں گے آپ اس وقت یہ کلمات کہتے۔

اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَرَبَّ

الْعَرْشِ الْعَظِيمِ رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ وَمَلِكِكَ (۱) ہمارے رب اور ہر چیز کے رب اور مالک۔

یہ مکمل دعا، دعاؤں کے بیان میں گزر چکی ہے۔

بندے پر لازم ہے کہ سوتے وقت تین باتوں کا خیال رکھے ایک یہ کہ کس بات پر سو رہا ہے اس وقت دل میں کیا خیال ہے اس پر کیا چیز غالب ہے اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس کی ملاقات کی چاہت یا دنیا کی محبت؟ اسے یقین کرنا چاہیے کہ وہ اسے بات پر فوت ہوگا جو اس پر غالب ہے اور جس بات پر فوت ہوگا اسی پر اٹھایا جائے گا کیوں کہ آدمی اسی کے ساتھ ہوتا ہے جس سے محبت کرتا ہے وہ انسان ہو یا کوئی چیز۔

۱۰۔ جاگتے وقت دعا مانگنا۔ جب بیدار ہو تو ادھر ادھر پہلو بدھنے کی حالت میں وہ کلمات پڑھے جو سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔

وہ یہ ہیں :-

اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ ایک ہے غالب

ہے آسمانوں اور زمین نیز جو کچھ ان کے درمیان ہے

سب کا رب ہے وہ غالب ہے بخشنے والا ہے۔

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ رَبُّ

السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا

الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ۔ (۲)

اسے کوشش کرنی چاہیے کہ سوتے وقت سب سے آخر میں اس کی زبان پر اللہ تعالیٰ کا ذکر جاری ہو اور جب بیدار ہو تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا ذکر جاری ہو یہ محبت کی علامت ہے تو ان دونوں حالتوں میں دل میں وہی بات ہوگی جو اس پر غالب ہوگی تو اس کے ساتھ دل کا تجربہ کرے کیونکہ یہ محبت کی علامت ہے اور یہ علامت دل کے اندر سے واضح ہوتی ہے یہ افکار اس لئے مستحب ہیں تاکہ دل اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف چل پڑے اور جب بیدار ہو تو یہ کہتا ہوا بیدار ہو

تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے ہمیں نورت دینے

کے بعد زندہ کیا اور اسی کی طرف اٹھائے۔

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا

وَأَلَيْهِ النُّشُورُ۔

(۱) مسند امام احمد بن حنبل جلد ۲ ص ۴۴۴ مرویات ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ

(۲) المستدرک للحاکم جلد اول ص ۴۰۰ کتاب الدعاء

اس کے علاوہ دعائیں جو ہم نے دعاؤں کے بیان میں ذکر کی ہیں۔

چوتھا وظیفہ :

یہ وظیفہ رات کے پہلے نصف سے شروع ہو کر اس وقت تک ہوتا ہے جب رات کا چھٹا حصہ رہ جائے اس وقت بندہ تہجد کے لیے اٹھتا ہے اور تہجد کا نام اس نماز کے ساتھ خاص ہے جو نیند کے بعد ہوتی ہے۔ اور یہ رات کا درمیان والا حصہ ہے اور یہ دن کے اس وظیفہ کے مشابہہ ہے جو زوال کے بعد ہوتا ہے اور وہ دن کا درمیان ہے اللہ تعالیٰ نے اس وقت کی قسم کھائی ہے۔

ارشاد خداوندی ہے :

اور رات کی قسم جب وہ چھا جائے،

وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ (۱)

یعنی جب رات ٹھہر جائے اور اس کا ٹھہراؤ اس وقت ہوتا ہے پس اس وقت اس زندہ قائم ذات کے علاوہ جسے اونٹ اور نیند نہیں آتی، تمام آنکھیں سوئی ہوتی ہیں کہا گیا ہے کہ سبھی سے مراد اس کا پھیلنا اور لمبا ہونا ہے بعض نے کہا اس سے اس کی تاریکی مراد ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ رات کے کس حصے میں دعا زیادہ سنی جاتی ہے آپ نے فرمایا رات کا درمیان حصے میں (۲)

حضرت داؤد علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں عرض کیا،

یا اللہ! میں تیری عبادت کرنا چاہتا ہوں تو کونسا وقت افضل ہے اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی اسے داؤد علیہ السلام! رات کے پہلے اور آخری حصے میں قیام نہ کریں کیونکہ جو پہلے حصے میں قیام کرتا ہے وہ آخری حصے میں سو جاتا ہے اور جو آخری حصے میں قیام کرتا ہے وہ پہلے حصے میں قیام نہیں کرتا بلکہ آپ رات کے درمیان حصے میں قیام کریں تاکہ آپ کے اور میرے درمیان تخلیہ ہو اور تمہاری حاجات مجھ تک پہنچیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، رات کا کونسا حصہ افضل ہے؟ آپ نے فرمایا رات کا پچھلا نصف (۳)

رات کے پچھلے نصف کے بارے میں روایات ہیں آتا ہے کہ اس وقت عرش جھومتا ہے جنات عدن سے ہوائیں پھیلتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت آسمان دنیا پر نازل ہوتی ہے (۴)

(۱) قرآن مجید، سورہ والضحیٰ آیت ۱

(۲) المستدرک للحاکم جلد اول ص ۱۶۴ کتاب الطہارۃ

(۳) السنن الکبریٰ للبیہقی جلد ۲ ص ۴ کتاب الصلوٰۃ

(۴) مجمع الزوائد جلد ۱۰ ص ۲۱۲ کتاب اہل الجنۃ

اور اس کے علاوہ روایات ہیں۔

اس وظیفے کی ترتیب یہ ہے کہ بیداری کے بارے میں (مذکورہ) دعاؤں سے فراغت کے بعد وضو کرے اور اس کی سنتوں، آداب اور دعاؤں کا خیال رکھے پھر جائے نماز پر جائے اور قبلہ رخ ہو کر کھڑا ہو اور یوں پڑھے۔

اللَّهُ أَكْبَرُ كَثِيرًا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا
وَسُبْحَانَ اللَّهِ مُبَارَكًا وَآصِلًا

اللہ سب سے بڑا ہے اللہ تعالیٰ کے بہت زیادہ
تعریف ہے اور صبح و شام اللہ تعالیٰ کے لیے پاکیزگی ہے۔

پھر دس مرتبہ سبحان اللہ، دس مرتبہ الحمد للہ، دس مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھے اور پھر یوں کہے۔

اللَّهُ أَكْبَرُ وَالْمَلَكُوتِ وَالْجَبْرُوتِ
وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْعِظْمَةِ وَالْجَلَالِ وَالْقُدْرَةِ

اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے وہ بڑائی، عظمت، جلال اور
قدرت والا ہے۔

تہجد کے لیے قیام کے وقت یہ کلمات سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہیں۔

اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ نُورُ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ، وَلَكَ الْحَمْدُ، أَنْتَ بَهَاءُ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ، وَلَكَ الْحَمْدُ، أَنْتَ رَبُّ
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَلَكَ الْحَمْدُ، أَنْتَ

اے اللہ تیرے لیے حمد ہے تو آسمانوں اور زمین کا نور

ہے تیرے لیے حمد ہے آسمانوں اور زمین والے تجھ ہی

سے مانوس ہیں اور تیرے ہی لیے حمد ہے تو آسمانوں

اور زمین کا رب ہے اور تیرے ہی لیے حمد ہے۔ تو

آسمانوں اور زمین کو نیز جو کچھ ان میں اور ان پر ہے اسے

قائم کرنے والا ہے تو حق ہے تجھ سے حق ہے تیری

ملاقات حق ہے، جنت حق ہے، جہنم حق ہے، قیامت

کے دن اٹھنا حق ہے انبیاء کرام علیہم السلام حق ہیں حضرت

محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حق ہیں یا اللہ! میں تیرے

لیے اسلام لایا تجھ پر ایمان لایا تجھی پر بھروسہ کیا تیری طرف

رجوع کیا تیرے نام سے دشمنوں سے جھگڑا کیا اور تیری

بارگاہ میں فیصلے کے لیے رجوع کیا میرے گزشتہ پھیلے،

پوشیدہ اور ہر گناہ نیر میری زیادتیاں بخش دے تو آگے

اور پیچھے کرنے والا ہے تیرے سوا کوئی معبود نہیں یا اللہ!

میرے نفس کو تقویٰ عطا فرما اور اسے پاک کر دے تو

وَالْأَرْضِ، وَلَكَ الْحَمْدُ، أَنْتَ بَهَاءُ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ، وَلَكَ الْحَمْدُ، أَنْتَ رَبُّ
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَلَكَ الْحَمْدُ، أَنْتَ

قِيَوْمَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ
وَمَنْ عَلَيْهِنَّ، أَنْتَ الْحَقُّ، وَمِنْكَ الْحَقُّ،
وَلِقَاؤُكَ حَقٌّ، وَالْجَنَّةُ حَقٌّ، وَالنَّارُ
حَقٌّ، وَالنُّشُورُ حَقٌّ، وَالنَّبِيُّونَ حَقٌّ، وَ

مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَقٌّ، اللَّهُمَّ

لَكَ أَسَأَمْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَعَلَيْكَ

تَوَكَّلْتُ، وَإِلَيْكَ أَنْبَتُ، وَبِكَ خَاصَمْتُ،

وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ، فَاعْفُ عَنِّي مَا

قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا

أَعْلَنْتُ وَمَا أَسْرَفْتُ، أَنْتَ الْمَقْدِمُ وَأَنْتَ

الْمُؤَخِّرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ (۱) اللَّهُمَّ

(۱) سنن امام احمد بن حنبل جلد اول ص ۲۹۸ روایت ابن عباس رضی اللہ عنہما۔

سب سے زیادہ پاک کرنے والا ہے تو میرے نفس کا
دل اور مالک ہے یا اللہ! مجھے اچھے اعمال کی ہدایت سے
اچھے اعمال کی راہنمائی تو ہی کرتا ہے اور مجھ سے برائی کو
دور کر دے برائی کو تو ہی دور کرنے والا ہے یا اللہ!
میں مسکین پریشان حال کی طرح سوال کرتا ہوں اور محتاج
ذیل کی طرح تجھ سے دعا مانگتا ہوں یا اللہ! مجھے اس
دعا کے ساتھ بدبخت نہ کرنا مجھ پر رؤف اور رحیم ہو
جانا جن سے سوال کیا جاتا ہے ان میں سے بہتر عطا
کرنے والوں میں سے زیادہ معزز ذات۔

أَنْتَ نَفْسِي تَقْرَاهَا، وَزَكَاةَا أَنْتَ خَيْرٌ مِنْ
زَكَاةَا، أَنْتَ وَلِيَّتْهَا وَمَوْلَا مَا (۱) اللَّهُمَّ
اهْدِنِي لِأَحْسَنِ الْأَعْمَالِ، لَا يَهْدِي
لِأَحْسَنِهَا إِلَّا أَنْتَ، وَأَصْرِفْ عَنِّي سَيِّئَهَا
لَا يَصْرِفُ عَنِّي سَيِّئَهَا إِلَّا أَنْتَ، (۲) أَسْأَلُكَ
مَسْأَلَةَ الْبَائِسِ الْمُسْكِينِ، وَأَدْعُوكَ
دُعَاءَ الْمُفْتَقِرِ الذَّلِيلِ، فَلَا تَجْعَلْنِي
بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، وَكُنْ لِي رَءُوفًا
رَحِيمًا يَا خَيْرَ الْمَسْئُولِينَ وَأَكْرَمَ

الْمُعْطِينَ - (۳)

حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو کھڑے ہوتے تو نماز شروع کرتے

وقت یہ الفاظ پڑھتے۔

اے اللہ! اے جبریل، میکائیل اور اسرافیل کے رب
آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والے پوشیدہ اور ظاہر
کو جاننے والے تو بندوں کے درمیان ان کے اختلافات
کا فیصلہ کرتا ہے جس حق میں اختلاف کیا گیا اس میں اپنے
حکم سے میری راہنمائی فرما بے شک تو جسے چاہے
سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔

اللَّهُمَّ رَبِّ جِبْرَائِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَإِسْرَافِيلَ
فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ
وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ
فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، اهْدِنِي لِمَا
اخْتَلَفْتُ فِيهِ مِنْ الْحَقِّ يَا ذَكَرَكَ أَنْتَ
تَهْدِي مَنْ تَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ - (۴)

اس کے بعد آپ نماز شروع کرتے اور دو ہلکی پھلکی رکعات پڑھتے پھر جس قدر ہو سکتا دو دو رکعتیں پڑھتے اور اگر
پہلے وزن پڑھے ہوتے تو اب پڑھتے۔ مستحب یہ ہے کہ سلام پھیرنے کے بعد سو مرتبہ سبحان اللہ پڑھ کر دو

(۱) مسند امام احمد بن حنبل جلد ۴ ص ۲۷۱ مرویات زید بن ارقم رضی اللہ عنہ

(۲) المعجم الکبیر للطبرانی جلد ۸ ص ۴۷۰۰ حدیث ۷۹۸۲

(۳) الدر المنثور جلد اول ص ۲۲۹ تحت آیت ربنا آتانا فی الدنیا حسنة

(۴) صحیح مسلم جلد اول ص ۲۶۳ کتاب ملوۃ المسافرین۔

نمازوں کے درمیان تفریق کر کے اس طرح کچھ آرام ملے گا اور نماز کے لیے اس کی طبیعت میں تازگی پیدا ہوگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز کے بارے میں صحیح احادیث سے ثابت ہے کہ آپ پہلے دو مختصر رکعتیں پڑھتے پھر دو طویل رکعتیں ادا فرماتے پھر دو رکعتیں پڑھتے جو ان سے ذرا ہلکی پھلکی ہوتی ہیں پھر تدریج کم کرتے چلے جاتے یہاں تک کہ تیرہ رکعات پڑھتے (۱)

ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز میں آہستہ قرأت کرتے تھے یا بلند آواز سے؟ تو انہوں نے فرمایا کبھی آہستہ اور کبھی بلند آواز سے قرأت فرماتے تھے۔ (۲)

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کی نماز دو دو رکعتیں ہے پھر جب صبح کا خوف ہو تو دو رکعتوں کے ساتھ ایک اور رکعت ملا کر اسے طاق بنا لو (یعنی دو پڑھو) آپ نے فرمایا مغرب کی نماز دن کی نماز کو طاق رکعات بنا دیتی ہے پس رات کی نماز کو بھی طاق بناؤ (۳)

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قیام لیل کے بارے میں صحیح طور پر تیرہ رکعات ثابت ہیں (۵) ان رکعات میں اپنا وظیفہ قرأت پڑھے یا مخصوص سورتوں سے پڑھے جو بھی آسان معلوم ہو۔ یہ بھی ایک وظیفہ کے حکم میں ہے جو رات کے آخری چھٹے حصے کے قریب ہے۔

پانچواں وظیفہ:

یہ رات کا آخری چھٹا حصہ ہے اور یہ سحری کا وقت ہے۔

اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

وَبِالْآسْحَارِ هُمْ يَسْتَعْفِرُونَ - (۶)

اور وہ لوگ سحری کے وقت بخشش مانگتے ہیں۔

کہا جاتا ہے کہ اس سے مراد نماز پڑھنا ہے کیونکہ اس میں استغفار ہے اور یہ فجر کے قریب ہوتا ہے جب رات کے فرشتے واپس جاتے ہیں اور دن کے فرشتے آتے ہیں۔

(۱) صحیح مسلم جلد اول ص ۲۶۲ صلاة المسافرين

(۲) سنن نسائی جلد اول ص ۱۹۷ کتاب قیام اللیل۔

(۳) صحیح مسلم جلد اول ص ۲۶۵ کتاب صلاة المسافرين

(۴) مسند امام احمد بن حنبل جلد ۲ ص ۸۳ مرویات عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما۔

(۵) صحیح مسلم جلد اول ص ۲۶۲ کتاب صلاة المسافرين

(۶) قرآن مجید، سورۃ الذاریات آیت ۱۸

اللَّهُمَّ احْطَطْ عَنِّي وَرِزًّا وَاجْعَلْهَا لِي عِنْدَكَ
ذُخْرًا وَاحْفَظْهَا عَلَيَّ وَتَوَفَّنِي عَلَيْهَا
حَتَّى الْفَلَاحِ بِهَا غَيْرَ مُبَدَّلٍ
تَبْدِيلًا۔

یا اللہ! مجھ سے میرا رگن ہوں گا، بوجھ اتار دے اس
شہادت کو اپنے پاس ذخیرہ بنا اور اس کی حفاظت فرما
تو مجھے اسی کلمہ شہادت پر وفات دے حتیٰ کہ میں تجھ سے
ملاقات کروں تو اس میں کوئی تبدیلی نہ ہوئی ہو۔

تو بندوں کے لیے وظائف کی یہ (مذکورہ بالا) ترتیب ہے اس کے علاوہ وہ ہر روز چار امور کو جمع کرنا مستحب گردانتے
تھے روزہ، صدقہ اگرچہ قلیل ہی کیوں نہ ہو، مریض کی عبادت اور بخارش میں حاضری۔

حدیث شریف میں ہے:

مَنْ جَمَعَ بَيْنَ هَدْيِي الْأَرْبَعِ فِي يَوْمٍ
غُفِرَ لَهُ وَفِي رِوَايَةٍ دَخَلَ الْجَنَّةَ۔
(۱)

جو آدمی ایک دن میں ان چار باتوں کو جمع کرے اس کو
بخش دیا جاتا ہے اور ایک روایت میں ہے کہ جنت میں
داخل ہوگا۔

اگر ان میں سے بعض پر عمل کرے اور بعض پر نہ کر سکے تو اسے نیت کی وجہ سے ان تمام کا ثواب ملے گا۔ ہمسارے
اسلاف اس بات کو ناپ نہ کرتے تھے کہ کوئی دن صدقہ کے بغیر گزر جائے چاہے وہ ایک کھجور ہو، پیاز یا روٹی کا ایک
ٹکڑا ہی ہو۔ کیونکہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

الزُّجَلُ فِي ظِلِّ صَدَقَتِهِ حَتَّى يَقْضَى
بَيْنَ النَّاسِ۔ (۲)

قیامت کے دن، آدمی اپنے صدقہ کے سائے میں ہوگا
حتیٰ کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ ہو جائے۔

جہنم سے بچو اگرچہ کھجور کے ایک ٹکڑے (کا صدقہ کرنے)
سے ہو۔

اور آپ نے ارشاد فرمایا:
إِنِّي لَأَرَى النَّارَ وَكُنُوسَ تَمْرَةٍ۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایک سائل کو انکوڑ کا ایک دانہ دیا اس کے لیے لیا حاضرین نے رنجب سے، ایک دوسرے
کی طرف دیکھنا شروع کر دیا تو ام المومنین نے فرمایا تمہیں کیا ہوا اس میں بے شمار ذرات ہیں اور ایک ذرے پر بھی ثواب
ملتا ہے۔ ہمارے اسلاف سائل کو خالی ہاتھ لوٹانا اچھا نہیں سمجھتے تھے کیوں کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے

(۱) المعجم الکبیر للطبرانی جلد ۱۱ ص ۱۲۳ حدیث ۱۱۳۰۰

(۲) کنز العمال جلد ۶ ص ۲۷۱ حدیث ۱۶۱۰۹

(۳) مسند امام احمد بن حنبل جلد ۲ ص ۲۵۶ مرویات عدی بن حاتم

اخلاق کریمانہ سے ہے کہ جب آپ سے کسی نے سوال کیا تو آپ نے جواب میں لفظ "نہیں" نہیں فرمایا بشرطیکہ اس وقت آپ کے پاس کچھ ہوتا بلکہ بعض اوقات آپ فرض لے کر سائل کو دے دیتے تھے اور اگر دینے کے لیے کچھ نہ ہوتا تو خاموش رہتے (۱)

حدیث شریف میں ہے۔

يُصْبِحُ ابْنُ آدَمَ عَلَى كُلِّ سَلَاةٍ مِنْ جَسَدِهِ صَدَقَةٌ (۲)

انسان جب صبح کرتا ہے تو اس کے جسم کے ہر جوڑ پر صدقہ لازم ہوتا ہے

اور اس کے جسم میں تین سو ساٹھ جوڑ ہیں۔ آپ نے مزید فرمایا:

نیکي کا حکم دنیا صدقہ ہے برائی سے روکے تو یہ بھی صدقہ کسی کمزور کو سامان اٹھوانے میں مدد دے تو یہ بھی صدقہ کسی کو راستہ دکھانا بھی صدقہ ہے اور راستہ سے تکلیف وہ چیز کو ہٹانا بھی صدقہ ہے۔

فَأَمْرُكَ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ وَتَهْيِئُكَ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ وَحَمْلُكَ عَلَى الضَّعِيفِ صَدَقَةٌ وَهَدَايَتُكَ إِلَى الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ وَإِهْلَاكُكَ لِرَدَى صَدَقَةٌ (۳)

حتیٰ کہ آپ نے تسبیح و تہلیل کا ذکر فرمایا پھر فرمایا چاشت کی دو رکعتیں بھی صدقہ ہیں تم ان سب پر عمل کروایا فرمایا یہ سب تمہارے لیے جمع ہونے چاہیں۔

حالات کی تبدیلی سے وظائف کا بدل جانا

جان لو! آخرت کی کھیتی کا ارادہ کرنے والا اور اس کے راستے پر چلنے والا پھر حالات سے خالی نہیں وہ عابد ہو گا یا عالم یا متعلم، حکمران ہو گا یا صنعت کار اور یا وہ موحّد ہو گا جو غیر سے منہ موڑ کر اللہ واحد بے نیاز کی ذات میں مستغرق ہو گا۔ یہ وہ شخص ہے جو اپنے آپ کو عبادت کے لیے مختص کر دیتا ہے اور اس کے علاوہ اس کی کوئی

۱۔ عابد کا وظیفہ | مصروفیت نہیں ہوتی اگر وہ عبادت چھوڑ دے تو بالکل بیکار ہو کر بیٹھ جاتا ہے اس کے وظائف کی ترتیب وہ ہے جو ہم نے ذکر کی ہے۔ البتہ اس کے وظائف میں تبدیلی کا ہونا کوئی بعید بات نہیں یعنی وہ اپنے تمام وقت کو نماز میں صرف کرتا ہے یا قرآن پاک کی قرأت یا تسبیحات میں مصروف رہتا ہے صحابہ کرام میں سے بعض کا

(۱) صحیح مسلم جلد ۲ ص ۲۵۳ کتاب الفضائل
(۲) صحیح مسلم جلد اول ص ۲۲۲، ۲۲۵ کتاب الزکوٰۃ
(۳) صحیح مسلم جلد اول ص ۲۲۲، ۲۲۵ کتاب الزکوٰۃ

وظیفہ روزانہ بارہ ہزار تسبیح پڑھنا تھا بعض تیس ہزار بار پڑھتے تھے بعض صحابہ کرام تین سو سے چھ سو رکعات تک پڑھتے تھے بلکہ ایک ہزار رکعات تک پڑھتے تھے ان کی کم از کم نقل نمازرات دن میں بیس رکعات ہوتی تھیں جب کہ ان میں سے بعض روزانہ ایک مرتبہ قرآن پاک پڑھتے بعض دو ختم کرتے بعض صحابہ کرام دن بارات میں ایک ہی آیت بار بار پڑھتے اور غور و فکر کرتے حضرت کریم دبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ میں مقیم تھے وہ روزانہ دن کے وقت ستر طواف کرتے اور رات کو بھی ستر طواف کرتے اور اس کے ساتھ وہ رات اور دن میں قرآن پاک دربار ختم کرتے تھے اس کا حساب لگایا گیا تو روزانہ چوبیس کلومیٹر مسافت بنتی ہے پھر ہر سات چکروں کے بعد دو رکعتیں بھی پڑھتے تو یہ دو سو اسی رکعات دو ختم شریف اور دس فرسخ (چوبیس کلومیٹر) مسافت طے کرنا ہوتا۔

اگر تم ہو کہ ان اورد میں سے کس میں زیادہ وقت صرف کرنا بہتر ہے تو جان لو کہ نماز میں کھڑے ہو کر قرآن پاک پڑھنا اور اس میں تدبیر کرنا ان سب کو جمع کرنا ہے لیکن بعض اوقات اس کی ہمیشہ پابندی مشکل ہو جاتی ہے تو افضل یہ ہے کہ آدمی کے حالات بدلنے سے یہ بدل جائے وظائف کا مقصد تو دل کو پاک کرنا اور اسے اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے مرتب کرنا اور اس سے مانوس کرنا ہے تو مرید کو اپنے دل کی طرف دیکھنا چاہیے جس کی زیادہ تاثیر دیکھے ہمیشہ اسی پر عمل پیرا ہو جب اس میں ملال محسوس ہوا تو دوسرے وظیفہ کی طرف منتقل ہو جائے اسی لیے ہمارے نزدیک بہتر یہ ہے کہ عام لوگ ان مختلف اورد کو مختلف اوقات پر تقسیم کر دیں جیسا کہ پہلے گزر گیا تو ایک نوع سے دوسری نوع کی طرف منتقل ہوں کیونکہ طبیعت عام طور پر تھک جاتی ہے اور ایک آدمی کے حالات بھی اس سلسلے میں مختلف ہوتے ہیں لیکن جب وظائف کا مقصد اور اسرار سمجھا جائیں تو اس کے معنی کے پیچھے چلیں مثلاً جب تسبیح سنے اور اسے دل میں محسوس کرے تو جب تک اسے محسوس کرے اس پر پابندی سے عمل کرے حضرت ابراہیم بن ادھم رحمہ اللہ سے بعض ابدال کے بارے میں مزوی ہے کہ وہ دریا کے کنارے پر رات کو نماز پڑھنے کھڑے ہوئے تو بلند آواز سے تسبیح سنی لیکن کوئی بھی نظر نہ آیا انہوں نے فرمایا تو کون ہے؟ میں تیری آواز سنتا ہوں لیکن تو دکھائی نہیں دیتا اس نے کہا کہ میں ایک فرشتہ ہوں جو اس سمندر پر مقرر ہوں میں جب سے پیدا ہوا ہوں یہ تسبیح کہتا ہوں میں نے کہا تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا "مہلبیا میل" میں نے پوچھا یہ تسبیح پڑھنے والا کیا ثواب حاصل کرتا ہے؟ اس نے کہا جو آدمی ایک سو سو بار پڑھے وہ مرنے سے پہلے جنت میں اپنی جگہ دیکھ لے گا یا اسے دکھایا جائے گا۔

وہ تسبیح یہ ہے۔

میں اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی بیان کرتا ہوں جو بلند بدلہ دینے والا ہے اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی بیان کرتا ہوں جو معنوی طور
ارکان والا ہے وہ ذات پاک ہے جو رات کو لے جاتی اور

سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَلِيِّ السَّيِّئِ
سُبْحَانَ اللَّهِ الشَّدِيدِ الرَّبَّكَانِ سُبْحَانَ
مَنْ يَذْهَبُ بِاللَّيْلِ وَيَأْتِي بِالنَّهَارِ سُبْحَانَ

دن کو لاتی ہے وہ ذات پاک ہے جسے کوئی ایک کام
دوسرے کام سے نہیں پھیرتا وہ ذات پاک ہے جو مشفق،
احسان کرنے والا ہے وہ اللہ پاک ہے جس کی تسبیح
ہر جگہ بیان کی جاتی ہے۔

مَنْ لَوْ شَغَلَهُ شَأْنٌ عَنْ شَأْنٍ سَبَّحَاتِ
اللَّهِ الْحَنَانَ الْمَنَّانِ سَبَّحَانَ اللَّهِ الْمُسْتَبِيحِ
فِي كُلِّ مَكَانٍ -

یہ تسبیح اور اس طرح کی دیگر تسبیحات جب سنے اور دل میں اس کی کچھ وقت محسوس کرے تو اسے لازم پکڑے
اور جس عمل کو دل میں پائے اور اس میں اس کے لیے بھلائی کا دروازہ کھلے اسے ہمیشہ اختیار کرے۔

۲۔ عالم کا وظیفہ | وہ عالم جس کے علم سے لوگ فتویٰ، تدریس یا تصنیف کے حوالے سے فائدہ اٹھاتے ہوں تو
اس کے وظیفے کی ترتیب عاید کے وظیفہ کے خلاف ہوگی کیونکہ وہ کتابوں کے مطالعہ تصنیف
اور فائدہ پہنچانے کی ضرورت محسوس کرتا ہے اور اس کے لیے لازماً وقت کی ضرورت ہوتی پس اگر اس کام میں وقت گزارنا
ضروری ہو تو یہ عمل فرائض و سنن کے بعد سب سے افضل ہے اور اس پر وہ تمام روایات دلالت کرتی ہیں جو ہم نے
علم کے بیان کے میں تعلیم و تعلم کی فضیلت کے ضمن میں ذکر کی ہیں اور ایسا کیوں نہیں ہوگا۔ جب کہ علم میں باللہ تعالیٰ کے
ذکر پر دوام ہے اور جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں غور و فکر کرنا ہے اس میں
لوگوں کا نفع ہے اور طریق آخرت کی طرف ان کی راہنمائی کرنا ہے اور بعض اوقات ایک مسئلہ جسے متعلم سیکھتا ہے
اس کے ساتھ عمر بھر کی عبادت کو درست کرتا ہے اور اگر وہ اسے نہ سیکھتا تو اس کی محنت ضائع ہو جاتی ہے اور جو
علم، عبادت پر مقدم ہے اس سے ہماری مراد وہ علم ہے جو لوگوں کو آخرت کی رغبت اور دنیا سے دوری کا درس
دیتا ہے یا وہ علم مراد ہے جو آخرت کے راستے پر چلنے میں ان کی ہدایت کرتا ہے جب کہ وہ راہ حق پر چلنے کے لیے مدد
حاصل کرنے کی نیت سے خریدیں وہ علوم مراد نہیں جن کے ذریعے جاہ اور مرتبہ میں اور مخلوق میں مقبولیت کا ارادہ
کیا جائے علم کے سلسلے میں بھی اوقات کی تقسیم بہتر ہے۔

عالم کے دن رات کی تقسیم | تمام اوقات کو ترتیب علم میں مصروف رکھنے کو طبیعت برداشت نہیں کرتی لہذا
صبح سے طلوع آفتاب تک ذکر اور وظائف کے لیے مختص ہو جائے جیسا کہ ہم

نے پہلے وظیفہ کے ضمن میں ذکر کیا ہے طلوع آفتاب سے چاشت تک تعلیم میں مصروف ہو اگر اس کے پاس کوئی شخص
آخرت کے لیے علم حاصل کرنے والا ہو اگر کوئی نہ ہو تو غور و فکر میں مشغول ہو اور جو علوم دین سے مشکل معلوم ہوتے ہیں
ان میں غور و فکر کرے کیونکہ ذکر سے فراغت کے بعد اور دنیوی سوچ میں پڑنے سے پہلے دل کی صفائی مشکلات کو
سمجھنے میں مددگار ہوتی ہے چاشت سے عصر تک تصنیف اور مطالعہ میں مصروف رہے صرف کھانے پینے، طہارت،
فرض نماز اور دن بڑا ہو تو کچھ دیر قبیلہ کے لیے وقف کرے عصر سے سوچ کے زبرد ہونے تک قرآن پاک کی قرات،

تفسیر یا حدیث یا کوئی دوسرا علم جو اس کے سامنے پڑھا جائے اس کو سنے، اس کے بعد غروب آفتاب تک ذکر استغفار اور تسبیح میں مصروف رہے تو سورج کے طلوع ہونے سے پہلے اس کا پہلا وظیفہ زبان کے ساتھ ہوگا۔

دوسرا وظیفہ جو چاشت تک ہوگا وہ غور و فکر سے متعلق ہوگا تیسرا وظیفہ عصر تک مطالعہ اور کتابت کی صورت میں آنکھ اور ہاتھ سے تعلق رکھتا ہے چوتھا وظیفہ جو عصر سے شروع ہوتا ہے وہ کانوں سے متعلق ہے تاکہ اس میں آنکھوں اور ہاتھوں کو آرام پہنچے کیونکہ عصر کے بعد مطالعہ کرنا یا لکھنا بعض اوقات آنکھوں کو نقصان پہنچاتا ہے سورج کا رنگ بدلنے کے بعد پھر ذکر لسان کی طرف لوٹ جائے تو اس طرح دن کا کوئی حصہ اعضاء کے عمل سے خالی نہیں ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ ان تمام میں دل بھی حاضر ہوگا۔ جہاں تک رات کا تعلق ہے تو اس میں حضرت امام شافعی رحمہ اللہ کی تقسیم بہترین ہے آپ نے رات کو تین حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا ایک حصہ مطالعہ اور ترتیب علم کے لیے اور یہ پہلا تہائی حصہ ہے، درمیانہ حصہ نماز کے لیے اور تیسرا حصہ سونے کے لیے یہ سردیوں کی راتوں میں آسان ہوتا ہے اور گرمیوں کی راتوں میں بعض اوقات ایسا نہیں ہو سکتا البتہ نیند کا زیادہ حصہ دن کو پورا کرے تو ٹھیک ہے۔

طالب علم کا وظیفہ | اذکار و نوافل میں مشغولیت کی نسبت علم حاصل کرنے میں مصروف رہنا افضل ہے۔ لہذا وظیفہ کی ترتیب میں اس کا حکم وہی ہے جو عالم کا ہے لیکن عالم فائدہ پہنچاتا ہے اور اسے فائدہ حاصل کرنے میں مشغول رہنا چاہیے۔ اور جس وقت عالم تصنیف و تالیف میں مشغول ہوتا ہے یہ حاشیہ لکھنے اور کتابت میں مشغول ہو یہ بھی اپنے اوقات کو اسی طرح تقسیم کرے جس طرح ہم نے ذکر کیا ہے اور ہم نے تعلم اور علم کی فضیلت کے بارے میں جو کچھ لکھا ہے وہ اس بات پر دلالت ہے کہ یہ افضل ہے بلکہ اگر کوئی شخص اس طرح طالب علم نہ ہو کہ وہ حاشیہ وغیرہ لکھے اور علم حاصل کر کے عالم بنے بلکہ عوام میں سے ہو تو اس کا ذکر و وعظ اور علم کی مجالس میں حاضر ہونا ان وظائف میں مشغولیت سے بہتر ہے جو ہم نے صبح اور طلوع آفتاب بلکہ دیگر اوقات کے سلسلے میں ذکر کئے ہیں۔

حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے۔

إِنَّ حُضُورَ مَجْلِسٍ ذِكْرٍ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةٍ
أَلْفِ رَكْعَةٍ وَشَهْرٍ أَلْفِ جَسَادَةٍ
وَعِيَادَةِ أَلْفِ مَرِيضٍ (۱)

بے شک مجلسِ ذکر میں حاضری ایک ہزار رکعات پڑھنے،
ایک ہزار جنازوں میں حاضر ہونے اور ایک ہزار بیماروں
کی عیادت سے بہتر ہے۔

یہاں ذکر سے وعظ و نصیحت اور علم کی مجالس مراد ہے محض واعظین اور قصے سنانے والے اور ادھر ادھر کی باتیں کر کے ہنسانے والے لوگوں کی مجالس مراد نہیں ۱۲ ہزاروی

(۱) کتاب الموضوعات جلد اول ص ۲۲۳ کتاب العلم۔

مزار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
 إِذَا رَأَيْتُمْ رِيَاضَ الْجَنَّةِ فَأَنْتَعُوا فِيهَا
 تَعَالَوْا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا رِيَاضُ الْجَنَّةِ
 قَالَ حَلَقُ الذِّكْرِ۔ (۱)

جب تک جنت کے باغوں کو دیکھا تو وہاں سے خوراک
 حاصل کرو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ! جنت کے
 باغ کہا ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ذکر کے حلقے (مجالس)۔

حضرت کعب احبار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اگر علماء کی مجالس کا ثواب لوگوں کے سامنے ظاہر ہو تو وہ اس پر ایک
 دوسرے سے لڑیں حتیٰ کہ ہر امیر اپنی حکومت چھوڑ دے اور ہر دوکاندار اپنی دوکانداری چھوڑ دے۔

حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا ایک شخص گھر سے نکلتا ہے اور اس پر تہامہ سیاہ جتنے گناہ ہوتے ہیں
 ہیں جب وہ کسی عالم کی بات سن کر خوف کھاتا اور گناہوں سے توبہ کرتا ہے تو وہ اپنے گھر کی طرف اس طرح لوٹتا
 ہے کہ اس پر کوئی گناہ نہیں ہوتا پس تم علماء کی مجلس سے جدا نہ ہو اللہ تعالیٰ نے زمین پر مجالس علماء سے زیادہ معزز جگہ
 نہیں بنائی ایک شخص نے حضرت حسن بصری رحمہ اللہ سے کہا کہ مجھے اپنے دل کی سختی کی شکایت ہے انہوں نے فرمایا مجالس
 ذکر کے قریب جایا کرو حضرت عمار زاہدی نے مسکینہ طغاویہ کو خواب میں دیکھا اور وہ ہمیشہ حلقہ ذکر میں رہتی تھیں انہوں
 نے کہا اے مسکینہ خوش آمدید، اس نے کہا کیا کہتے ہو؟ مسکینہ چلی گئی اور مالدار کی آگئی ہے انہوں نے پوچھا وہ کس
 طرح؟ تو اس نے جواب دیا اس شخص کا حال کیا پوچھتے ہو جس کے لیے جنت اپنی تمام نعمتوں کے ساتھ مباح کر دی گئی،
 انہوں نے فرمایا کس بنیاد پر؟ تو کہا اہل ذکر کی مجلس اختیار کرنے سے۔

غلام یہ کہ عمدہ کلام اور اچھی سیرت والے واعظ کی باتوں سے محبت دنیا کی گرہ جو دل سے کھل جاتی ہے توبہ و عطف
 ان بے شمار کلمات سے بہتر ہے کہ اس کے باوجود دل میں محبت دنیا باقی رہے۔

وہ شخص جو اپنے اہل و عیال کے لیے کام کاج کی حاجت رکھتا ہے اس کے لیے
 جائز نہیں کہ وہ اپنے اہل و عیال کو ضائع کر کے تمام وقت عبادات میں گزارے

بلکہ کام کے وقت اس کا وظیفہ بازار کی حاضری اور اپنے کسب میں مشغولیت ہے لیکن اسے چاہیے کہ وہ اپنے کاریگری اور
 کام کاج میں اللہ تعالیٰ کے ذکر کو نہ بھولے بلکہ وہ تسبیحات، اذکار اور قرأت قرآن میں مشغول رہے کیونکہ کام کے ساتھ
 اس عمل کو جمع کیا جاسکتا ہے جب کہ کام کے ساتھ نماز کو اکٹھا کرنا ممکن نہیں البتہ پوکیا رہو تو اس ڈیوٹی کے ساتھ نماز
 پڑھنا مشکل نہیں ہوتا پھر جب ضروری کسب سے فارغ ہو جائے تو وظائف کی طرف لوٹ جائے اور اگر وہ مسلسل
 مشقت میں رہے اور ضرورت سے زائد مال صدقہ کر دے توبہ ان تمام وظائف سے افضل ہے جن کا ہم نے ذکر کیا ہے

(۱) مسند امام احمد بن حنبل جلد ۳ ص ۵۰۰ روایات انس بن مالک رضی اللہ عنہ

کیونکہ عبادت جن کا فائدہ دوسروں تک پہنچتا ہے ذاتی فائدے والے کاموں سے زیادہ مفید ہیں۔ اور اس نیت سے کسبِ حلال اور صدقہ ذاتی طور پر عبادت اور قرب خداوندی کا ذریعہ ہے پھر یہ کہ اس سے دوسروں کو فائدہ پہنچتا ہے اور مسلمانوں کی دعاؤں کی برکات اس کی طرف لوٹتی ہیں اور یوں ثواب بڑھ جاتا ہے۔

حکمرانوں کا وظیفہ | اس سے حکمران، قاضی اور وہ لوگ مراد ہیں جو مسلمانوں کے کاموں میں مشغول ہیں جیسے فوجی، پولیس والے اور دیگر محکموں کے لوگ) تو ان کا مسلمانوں کے کی حاجات اور مقاصد کو شریعت کے طریقے پر انجام دینا اور نیک نیتی سے کام لینا ان تمام مذکورہ وظائف سے افضل ہے۔

تو اس پر لازم ہے کہ دن کو لوگوں کے حقوق میں مشغول ہو اور فرائض پر اکتفا کرے اور مذکورہ وظائف بات کو پڑھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اسی طرح کیا کرتے تھے آپ نے فرمایا مجھے بند سے کیا تعلق ہے اگر میں دن کے وقت سو جاؤں تو مسلمان ضائع ہو جائیں گے اور اگر رات کو سوؤں تو خود ضائع ہو جاؤں گا۔

جو کچھ ہم نے ذکر کیا اس سے تمہیں معلوم ہو گیا کہ دونوں کو بدنی عبادت پر مقدم کیا جائے ایک علم اور دوسرا مسلمانوں کے ساتھ نرمی کا سلوک۔ کیونکہ علم اور نیکی کا سلوک دونوں ذاتی طور پر عمل میں اور ایک ایسی عبادت ہے جو تمام عبادت پر فضیلت رکھتی ہے اس کا فائدہ دوسروں کو پہنچتا ہے اور نفع پھیلتا ہے پس یہ دونوں باتیں عبادت پر مقدم ہیں۔

مؤحد کا وظیفہ | مؤحد یعنی وہ شخص جو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات میں مستغرق ہوتا ہے اور اس کے تمام افکار صرف ایک فکر میں جمع ہو جاتے ہیں وہ صرف اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے اور صرف اسی سے ڈرتا ہے غیر سے رزق کی توقع نہیں رکھتا وہ جس چیز کو دیکھتا ہے اس میں صرف اللہ تعالیٰ کو دیکھتا ہے تو جس آدمی کا رتبہ اس درجہ تک پہنچ جائے وہ مختلف قسم کے وظائف کا محتاج نہیں ہوتا اور فرائض کے بعد اس کا صرف ایک وظیفہ ہے اور وہ یہ ہے کہ ہر حال میں اس کا دل اللہ تعالیٰ کے ساتھ حاضر رہے جب ان کے دلوں میں کوئی خیال آتا ہے یا کانوں میں کوئی بات پڑتی ہے یا آنکھوں کے سامنے آتی ہے تو وہ اس میں غور و فکر کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ انہیں حرکت اور سکون دیتا ہے تو ان لوگوں کے تمام حالات ان کے لیے اصناف کا باعث ہیں وہ عبادت میں امتیاز نہیں کرتے یہی وہ لوگ ہیں جو بھاگ کر اللہ تعالیٰ کی طرف چلے گئے جیسے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔

لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ فَذَرُوا آلِي اللَّهِ (۱)
تاکہ تم نصیحت حاصل کرو پس اللہ تعالیٰ کی طرف دوڑ جاؤ۔
اور یہی لوگ اللہ تعالیٰ کے اس قول کے مصداق ہیں۔

وَإِذَا عَتَمْتُمْ لُجُجًا وَمَا يَكْفُرُونَ إِلَّا
 اللَّهُ فَأَوْفُوا بِالْكُفْرِ يَنْشُرْ لَكُمْ
 رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ - (۱)

اور جب تم نے ان سے اور اللہ کے سوا جن کی وہ پوجا
 کرتے ہیں ان سے کنارہ کشی اختیار کی تو اب نماز میں پناہ
 لے لو وہ تمہارے لیے اپنی رحمت پھیلا دے گا۔

اللہ تعالیٰ کے ارشاد گرامی میں اسی بات کی طرف اشارہ ہے۔

إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَّهْدِينِ -
 راستہ دکھا دے گا۔ (۲)

یہاں صدیقین کے درجات کی انتہا ہوتی ہے۔ اور یہاں تک پہنچا اسی صورت میں ممکن ہوتا ہے جب ایک عرصہ
 دراز تک وظائف کی پابندی کی جائے۔ مرید آخرت کو ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ ان باتوں میں سے کچھ سن کر دھوکہ میں آجائے
 اور اپنے نفس میں اس کا دعویٰ کرے اور عبادت کے وظائف میں کوتاہی کرنے لگے اس درجہ پر پہنچنے والے کی علامت
 یہ ہے کہ اس کے دل میں وسوسے پیدا نہ ہوں اور نہ اس کے دل میں گناہ کا خیال اُسے نہ پریشانیوں کا جو ہم اسے
 مضطرب کرے اور نہ بڑے بڑے اشغال اس کے راستے میں رکاوٹ بنیں، تو یہ مرتبہ ہر ایک کو کیسے مل سکتا ہے۔
 اور ان سب لوگوں کے وظائف کی ترتیب وہی ہے جو ہم نے ذکر کی ہے اور یہ جو کچھ ہم نے ذکر کیا ہے سب
 اللہ تعالیٰ تک پہنچانے والے راستے ہیں۔

إِشْرَافُ عَدَاوَتِي هِيَ :
 قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ فَبِئْسَ لَكُمْ
 أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا - (۳)

آپ فرما دیجئے سب اپنے اپنے طریقے پر عمل کرتے ہیں
 تو تمہارا رب اسے خوب جانتا ہے جو زیادہ سیدھے
 راستے پر ہے۔

یہ سب ہدایت یافتہ ہیں البتہ بعض کو دوسروں کی نسبت زیادہ ہدایت حاصل ہے

حَدِيثُ ثَرْعِيفِ بْنِ هَبَالَةَ :
 أَرِيْمَانٌ ثَلَاثٌ وَتَلَاثُونَ وَتَلَاثًا عَشْرَةَ
 طَرِيقَةً مِنْ لِقَىٰ اللَّهِ تَعَالَىٰ بِالشَّهَادَةِ

ایمان کے تین سو تینتیس راستے ہیں جو شخص ان میں سے
 کسی ایک راستے پر گواہی دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے

(۱) قرآن مجید، سورہ کہف آیت ۱۶

(۲) قرآن مجید، سورہ صافات آیت ۹۹

(۳) قرآن مجید، سورہ اسراء آیت ۸۴

عَلَى طَرِيقٍ مِنْهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ - (۱)

ملاقات کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔

بعض علماء نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے رسولوں کی تعداد کے مطابق ایمان کو تین سو تیرہ اخلاق کی تعداد پیدا فرمایا تو ہر مومن ایمان کے کسی ایک طریقے پر ہوں وہ اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلتے والا ہے تو تمام لوگ (مومن) راہ حق پر ہیں اگرچہ عبادت میں ان کے طریقے مختلف ہیں۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِحْسَانَ

رَبِّهِمْ أَلَوْ سَبِيلًا أَمَّهُمَا حَرْبٌ - (۲)

یہ لوگ جن کو پوجتے ہیں تو اپنے رب تک وسیلہ

دھونڈتے ہیں کہ ان میں سے کون زیادہ قریب ہے۔

انسانوں کی ان تمام اقسام کے حق میں و طائف میں اصل چیز دوام ہے کیوں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ باطنی صفات

میں تبدیلی آجائے اور عمل کی انفرادی صورت میں اعمال کا اثر کم ہوتا ہے بلکہ ان کے آثار محسوس ہی نہیں ہوتے

اثرات مجموعے پر مرتب ہوتے ہیں پس جب ایک عمل پر کوئی اثر محسوس ہی نہیں ہوتے اثرات مجموعے پر مرتب ہوتے

ہیں پس جب ایک عمل پر کوئی اثر محسوس نہیں ہوتا اور اس کے پیچھے فوری طور پر دوسرا اور تیسرا عمل نہیں آئے گا تو پہلا

اثر مٹ جائے گا اور یہ اس فقیہ کی طرح ہوگا جو ذاتی طور پر فقیہ ہونا چاہتا ہے تو وہ جب تک بہت زیادہ تکرار

نہیں کرے گا فقیہ نہیں ہوگا اگر وہ ایک رات میں تکرار کرے تو اس کا کچھ اثر نہ ہوگا اور اس مقدار کو متواتر راتوں

پر تقسیم کر دے تو وہ عمل مؤثر ہوگا۔ اسی راز کی طرف اشارہ کرتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

أَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ أَدْوَمُهَا

وَأَنْ قَلَّ (۳)

اللہ تعالیٰ کو وہ اعمال زیادہ پسند ہیں جن میں دوام ہو

اگر چہ کم ہوں۔

ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کے بارے میں پوچھا

گیا تو انہوں نے فرمایا آپ کا عمل دائمی ہوتا تھا اور آپ جب کوئی عمل کرتے تو اسے مضبوط کرتے۔ (۴)

اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

مَنْ عَوَدَ اللَّهُ عِبَادَةً فَذَكَرَهَا مَلَكًا

جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے کسی عبادت کا پابند بنایا

(۱) شعب الایمان جلد ۶ ص ۳۶۶ حدیث ۸۵۴۹

(۲) قرآن مجید، سورہ اسراء آیت ۵۷

(۳) صحیح مسلم جلد اول ص ۲۶۶ کتاب صلوٰۃ المسافرین

(۴) صحیح مسلم جلد اول ص ۲۶۶ کتاب صلوٰۃ المسافرین

مَقْتَدَةُ اللَّهِ - (۱)

پھر اس نے تھک کر چھوڑ دیا تو اللہ تعالیٰ اس پر ناراض ہوتا ہے
اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کے بعد دو رکعتیں پڑھیں جو کسی دُفد کے ساتھ مشغولیت کی وجہ سے رہ

گئی تھیں (۲) (حالانکہ آپ عصر کے بعد نفل نہیں پڑھتے تھے)

پھر آپ ہمیشہ عصر کے بعد پڑھتے لیکن گھر میں پڑھتے تھے مسجد میں نہیں، تاکہ آپ کی اقتداء نہ کی جائے (معلوم ہوا کہ یہ
حضور علیہ السلام کی خصوصیت تھی دوسروں کے لیے اس اس کی اجازت نہیں ۱۲ ہزاروی) اسے حضرت عائشہ اور حضرت
ام سلمہ رضی اللہ عنہما نے روایت کیا ہے۔

اگر تم کہو کہ کوئی دوسرا شخص اس سلسلے میں حضور علیہ السلام کی اقتداء کر سکتا ہے جب کہ یہ مکروہ وقت ہے —
تو جان لو کہ کراہت کے سلسلے میں ہم نے جو تین اسباب بیان کئے ہیں یعنی سورج کی پوجا کرنے والوں کی مشابہت سے
بچنا، یا شیطان کا سینگ ظاہر ہونے کے وقت سجدہ کرتا، یا تھک جانے کے خوف سے عبادت سے کچھ دیر آرام
کرنا ہے اور یہ تینوں باتیں سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں متحقق نہیں ہوتیں لہذا آپ پر غیر کو قیاس نہ کیا
جائے اور اس کی دلیل یہ ہے کہ آپ کا یہ عمل گھر میں ہوتا تھا تاکہ دوسرے آپ کی اقتداء نہ کریں۔

دوسرا باب

وہ اسباب جو قیام لیل کو آسان کرتے ہیں نیز وہ راتیں جنہیں عبادت میں گزارنا مستحب ہے، رات کو عبادت کرنے کی فضیلت، مغرب و عشاء کے درمیان کی فضیلت اور رات کی تقسیم کا طریقہ

مغرب و عشاء کے درمیان عبادت کی فضیلت
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

إِنَّ أَفْضَلَ الصَّلَاةِ عِنْدَ اللَّهِ صَلَاةُ الْمَغْرِبِ
لَمْ يَحْطُهَا عَنْ مَسَافِرٍ، وَلَا عَنْ مُقِيمٍ
فَتَحَّ، بِهَا صَلَاةُ اللَّيْلِ وَخَتَمَ بِهَا
صَلَاةُ النَّهَارِ، فَصَلِّ صَلَاةَ الْمَغْرِبِ وَصَلِّ
بَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ بِنِيَّةِ اللَّهِ لَكَ قَصْرَيْنِ فِي الْجَنَّةِ - (۱)

اللہ تعالیٰ کے نزدیک افضل نماز مغرب کی نماز ہے اسے نہ مسافر سے کم کیا نہ مقیم سے، اس سے رات کی نماز کو شروع کیا اور دن کی نماز کو ختم کیا تو جو آدمی مغرب کی نماز پڑھے اور اس کے بعد دو رکعتیں ادا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں دو محل بنائے گا۔

راوی فرماتے ہیں مجھے معلوم نہیں کہ وہ سونے کے ہوں گے یا چاندی کے۔ اور جو شخص اس کے بعد چار رکعتیں پڑھے تو اس کے بیس سالہ گناہ یا فرمایا چالیس کے گناہ یا فرمایا چالیس کے گناہ بخش دیئے جاتے ہیں۔ (۲)
حضرت ام سلمہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی مغرب کے بعد چھ رکعت پڑھے تو یہ اس کے لیے ایک پورے سال کی عبادت کے برابر ہے یا (فرمایا) گویا اس نے بیس سالہ تقدیر میں نماز پڑھی۔ (۳)

(۱) تفسیر الاحکام القرآن جلد ۳ ص ۲۱۰ تحت آیت حافظوا علی الصلوات

(۲) کنز العمال جلد ۷ ص ۲۹۳ حدیث ۱۹۲۵۵ (۳) العنل المتناہیہ جلد اول ص ۵۷۷ حدیث ۷۷

حضرت سعید بن جبیر، حضرت ثوبان رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ جو آدمی مغرب و عشاء کے درمیان میں مسجد میں رُک جائے نماز اور تلاوت قرآن کے علاوہ کوئی گفتگو نہ کرے تو اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے کہ اس کے لیے جنت میں اور محل بنائے ان میں سے ہر محل ایک سو سال کی مسافت ہوگا اور ان دونوں کے درمیان درخت لگائے گا اگر تمام دنیا والے اس کا چکر لگائیں تو وہ ان کو کافی ہو۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو آدمی مغرب اور عشاء کے درمیان دس رکعات پڑھے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل بنائے گا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ! اس طرح تو ہمارے محلات بہت زیادہ ہوں گے۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ بہت دینے والا اور بہت زیادہ فضل والا ہے۔ یا آپ نے فرمایا وہ زیادہ پاک ہے۔ (۱)

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ جو آدمی مغرب کی نماز یا جماعت پڑھے پھر اس کے بعد دو رکعتیں پڑھے اور اس دوران کوئی ذبیہوی گفتگو نہ کرے پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی پہلی دس آیات اور اس کے درمیان سے یہ دو آیتیں پڑھے۔

اور تمہارا معبود، ایک معبود ہے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ رحمت والا مہربان ہے بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش

وَاللَّهُ كَمَا تَأْتِي السَّمَاءُ
وَالْأَرْضِ دَاخِلِينَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفَلَاقِ
الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ لِيَمِيعَةَ النَّاسِ وَمَا
أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ
بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَيَّتَ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ
الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِينَ السَّمَاءِ
وَالْأَرْضِ رَايَتْ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ - (۲)

اور سورہ اخلاص پندرہ بار پڑھے پھر رکوع اور سجدہ کرے جب دوسری رکعت کے لیے اٹھے تو سورہ فاتحہ، آیت الکرسی اور اس کے بعد کی دو آیتیں پڑھے اور سورہ بقرہ کے آخر سے تین آیات یعنی "اللہ ما فی السموات" سے آخر تک پڑھے اور پندرہ بار سورہ اخلاص پڑھے حدیث شریف میں اس کا ثواب اس قدر بیان کیا گیا ہے جو شمار سے باہر ہے۔

(۱) کنز العمال جلد ۷، ص ۲۸۷، حدیث ۱۹۲۲۶

(۲) قرآن مجید، سورہ بقرہ آیت ۱۶۳، ۱۶۴

حضرت کرزبن دبرہ جو ابدال میں سے ہیں فرماتے ہیں میں نے حضرت خضر علیہ السلام سے عرض کیا کہ مجھے کوئی ایسی چیز سکھائیں کہ روزانہ رات اس پر عمل کروں انہوں نے فرمایا جب مغرب کی نماز پڑھو تو کسی سے کلام کئے بغیر عشاء تک نماز پڑھو جو نماز پڑھ رہے ہو اس کی طرف متوجہ رہو اور ہر دو رکعتوں پر سلام پھیر دو ہر رکعت میں ایک بار سورہ فاتحہ اور تین بار قل ہو اللہ احد پڑھو، جب نماز سے فارغ ہو جاؤ تو گھر چلے جاؤ اور کسی سے کلام نہ کرو، پھر دو رکعتیں پڑھو ہر رکعت میں سورہ فاتحہ اور سات مرتبہ قل ہو اللہ احد پڑھو، سلام پھرنے کے بعد سجدہ کرو اور اس میں سات مرتبہ "سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْكَبِيرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ" پڑھو پھر سجدے سے مبراٹھا کر سیدھے ہو کر بیٹھ جاؤ اور ہاتھوں کو اٹھا کر یوں پڑھو۔

یا حییٰ یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام
یا الہ الاولین والآخرین یا رحمن
الرحیم یا ربنا والآخرین ورحیمہما یا رب
یا رب یا رب یا اللہ یا اللہ یا اللہ
اسے زندہ، اسے قائم رکھنے والے، اسے بزرگی اور عزت
والے اسے پہلوں اور پھلوں کے معبود اسے دنیا اور
آخرت کے رحمن اور ان دونوں کے رحیم اسے میرے
رب، اے میرے رب! اے میرے رب! اے میرے رب!
اسے میرے اللہ! اے میرے اللہ!

پھر کھڑے ہو کر ہاتھ اٹھاٹھے ہوئے یہی دعا مانگیں پھر جہاں چاہیں قبلہ رخ ہو کر دائیں پہلو پر سو جائیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھیں اور پڑھتے رہیں حتیٰ کہ سو جائیں۔ حضرت کرزبن دبرہ کہتے ہیں میں نے کہا میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے بتائیں آپ نے یہ بات کس سے سنی ہے تو انہوں نے فرمایا میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا جب آپ نے یہ دعا سکھائی اور یہ آپ کی طرف وحی کی گئی میں اس وقت وہاں تھا یہ سب کچھ میرے سامنے ہوا تو آپ نے جس کو یہ سکھائی ہے میں نے اس سے سیکھی ہے۔

کہا جاتا ہے کہ جو شخص عین یقین کے ساتھ اس دعا اور اس نماز کی پابندی کرے اور اس کی تصدیق کرے وہ دنیا سے جانے سے پہلے خواب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوگا بعض لوگوں نے یہ عمل کیا تو دیکھا کہ وہ جنت میں داخل ہوئے وہاں انبیاء کرام کو دیکھا ان میں سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی زیارت کی اور آپ نے ان سے کلام کیا اور تعلیم بھی دی۔

غلام کلام یہ ہے کہ مغرب و عشاء کے درمیان عبادت کرنے کی فضیلت بہت زیادہ ہے یہاں تک کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت عبید اللہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز کے علاوہ نماز کا حکم دیتے تھے؟ انہوں نے فرمایا مغرب اور عشاء کے درمیان نماز پڑھنے کا حکم فرماتے تھے (۱)

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
 مَنْ صَلَّى مَا بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ فَذَلِكَ
 صَلَاةُ الرَّوَابِيَةِ - (۱)

جو شخص مغرب اور عشاء کے درمیان نماز پڑھے تو یہ روابیہ
 کی نماز ہے۔ روابیہ وہ لوگ جو لوگ جو اللہ تعالیٰ کی طرف
 رجوع کرنے والے ہیں

حضرت اسود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں جب بھی اس وقت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس آیا تو انہیں
 نماز پڑھتے ہوئے دیکھا میں نے ان سے اس بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا ہاں یہ غفلت کی گھڑی ہے۔
 حضرت انس رضی اللہ عنہ اس کی پابندی فرماتے اور کہا کرتے تھے کہ یہ شب بیداری ہے اور فرماتے کہ اس کے
 بارے میں یہ آیت نازل ہوتی ہے۔

تَنَجَّاتِي جُودِيهِمْ عَنِ الْمَصَاحِبِ - (۲)
 ان کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں
 حضرت احمد بن ابی الحواری فرماتے ہیں میں نے حضرت ابوسلیمان درانی سے کہا کہ میں دن کو روزہ رکھتا ہوں اور
 مغرب و عشاء کے درمیان کھانا کھاتا ہوں کیا آپ اسے پسند کرتے ہیں یا میں دن کو روزہ نہ رکھوں اور ان دونوں
 نمازوں کے درمیان عبادت کروں؟ انہوں نے فرمایا دونوں کام کرو میں نے کہا اگر ایسا کرنا آسان نہ ہوتو؟ انہوں نے
 فرمایا روزہ چھوڑ دو اور اس وقت نماز پڑھو۔

قیام لیل کی فضیلت

آیات کریمہ:

ارشاد خداوندی ہے:

إِنَّ رَبَّكَ يَقْلَمُ نَفْسَ تَقْوَىٰ آدَمِيٍّ مِّنْ
 قُلُوبِ اللَّيْلِ - (۳)

ارشاد خداوندی ہے:

إِنَّ نَاسِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْأً

بے شک آپ کا رب جانتا ہے کہ آپ رات کا وہ
 تہائی حصہ (نماز میں) کھڑے ہوتے۔

بے شک رات کا اٹھنا خواہشات کو سخت روندنے

(۱) کنز العمال جلد ۷ ص ۳۸۸ حدیث ۱۹۵۲۹

(۲) قرآن مجید سورہ سجدہ آیت ۱۶

(۳) قرآن مجید سورہ منزل آیت ۲۰

وَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا - (۱)

والا اور بات کو درست کرتا ہے

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

تَتَجَافَى جُنُوبَهُمْ وَعَنْ الْمُضَاحِحِ (۲)

ان کے پہلو بستروں سے الگ ہوتے ہیں۔

ارشاد خداوندی ہے:

أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا

کیا وہ شخص جو رات کی گھڑیوں میں سجدے اور قیام کی حالت میں رہتا ہے۔

وَقَائِمًا - (۳)

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا

وہ لوگ جو سجدے اور قیام کی حالت میں اپنے رب کے لیے رات گزار دیتے ہیں۔

وَقِيَامًا - (۴)

اور ارشاد فرمایا:

وَأَسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ -

اور صبر اور نماز کے ساتھ مدد مانگو۔

احادیث:

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

جب تم میں سے کوئی شخص سوتا ہے تو شیطان اس کی گڈی پر تین گرہیں لگاتا ہے ہر گرہ کی جگہ پر بھونک مارتا ہے اور کہتا ہے یہی رات ہے سو جا پس اگر وہ بیدار ہو کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے اگر وضو بھی کرے تو دوسری گرہ کھلتی ہے پھر نماز بھی پڑھے تو تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے تو وہ ہمتا شن بشاش صبح کرتا ہے ورنہ صبح کے وقت اس پر کستی طاری ہوتی ہے۔ (۶)

ایک حدیث شریف میں ہے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک آدمی کا ذکر کیا گیا جو رات بھر صبح تک

(۱) قرآن مجید، سورہ منزل آیت ۶

(۲) قرآن مجید، سورہ سجدہ

(۳) قرآن مجید، سورہ زمر آیت ۹

(۴) قرآن مجید سورہ فرقان آیت ۶۲

(۵) قرآن مجید سورہ بقرہ آیت ۴۵

(۶) معجم بخاری جلد اول ص ۳۵ کتاب التہجد۔

سوتا ہے آپ نے فرمایا وہ شیطان ہے اور شیطان نے اس کے کان میں پٹیاب کہا ہے (۱)
ایک اور روایت میں ہے کہ شیطان کے پاس سنگھانا، چٹانا اور چھڑکنا ہے جب کسی بندے کو سنگھانا ہے تو اس
کے اخلاق بُرے ہوتے ہیں جب اسے چٹانا ہے تو اس کی زبان برائی کے ساتھ تیز ہو جاتی ہے اور جب چھڑکاؤ کرتا ہے

و وہ ساری رات سوتا ہے یہاں تک کہ صبح ہو جاتی ہے۔ (۲)

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دو رکعتیں جو بندہ رات کے درمیان پڑھتا ہے وہ اس کے لیے دنیا
اور دُعا فیہا سے بہتر ہیں اور اگر میں اپنی امت پر گراں نہ سمجھتا تو ان پر لازم کر دیتا۔ (۳)
صحیح حدیث میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کی ایک ایسی
گھڑی ہے جو کسی مسلمان بندے کو موافق ہو جائے اور وہ اسی میں اللہ تعالیٰ سے بھلائی کا سوال کرے تو اللہ تعالیٰ

اسے عطا فرماتا ہے (۴)
ایک روایت میں ہے کہ وہ دنیا اور آخرت کی بھلائی میں سے اللہ تعالیٰ سے مانگے اور یہ پوری رات میں ہے (۵)
حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے رہے حتیٰ کہ آپ
کے قدم مبارک پھٹ گئے آپ سے عرض کیا گیا کیا آپ اگلے پھلے گناہوں سے معصوم نہیں ہیں آپ نے فرمایا کیا
میں شکر گزار بندہ نہ ہوں (۶)

یعنی یہ زیادہ مرتبہ کے حصول سے کنا یہ ہے کیونکہ شکر، مزید حصول کا سبب ہے۔

اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:
لَیْسَ شُكْرُكُمْ لِيْ اَنْ تَكُوْمُوْا
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "اسے ابوہریرہ رضی اللہ عنہ) کیا تم چاہتے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت پر زندگی اور
اگر تم شکر کرو تو میں تمہیں مزید عطا کروں گا۔ (۷)

(۷)

(۲) حلیۃ الاولیاء جلد ۶ ص ۲۰۹ ترجمہ ۳۸۲

(۳) کنز العمال جلد ۶ ص ۱۵۷ حدیث ۲۱۴۰۵

(۴) مسند امام احمد بن حنبل جلد ۲ ص ۳۴۸ مرویات جابر رضی اللہ عنہ

(۵) صحیح مسلم جلد اول ص ۲۵۸ کتاب صلوة المسافرین

(۶) مسند امام احمد بن حنبل جلد ۶ ص ۱۱۵ مرویات عائشہ رضی اللہ عنہا

(۷) قرآن مجید، سورہ ابراہیم آیت ۷

موت کی حالت میں نیز قبر اور حشر میں بھی ہو؟ (اگر ایسا چاہتے ہو) تو رات کو اٹھ کر نماز پڑھو اور تم اللہ تعالیٰ کی رضا تلاش کرو اسے ابوہریرہؓ بگھر کے کونوں میں نماز پڑھو آسمانوں میں تمہارے گھر کی روشنی ہوگی جس طرح ستاروں کی روشنی دنیا والوں کے لیے ہوتی ہے۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا "رات کو نماز کے ساتھ قیام اختیار کرو یہ تم سے پہلے کے نیک لوگوں کا طریقہ ہے بے شک رات کی عبادت اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ، گناہوں کا کفارہ جسمانی لذتوں کے ازالہ اور گناہوں سے رکاوٹ کا باعث ہے (۱)۔"

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ جو شخص رات کو نماز پڑھتا ہو اور اس پر نیند غالب آجائے تو اس کے لیے نماز کا ثواب لکھا جاتا ہے اور اس کی نیند اس پر صدقہ ہوتی ہے (۲)۔

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ اگر تم سفر کا ارادہ کرو تو اس کے تیاری کرتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا تو سفر قیامت کا کیا حال ہے؟ اسے ابوذر نے کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ اس دن کیا بات نفع دے گی؟ انہوں نے عرض کیا جی ہاں بتائیے میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ آپ نے فرمایا قیامت کے دن کے لیے سخت گرامی کے دن روزہ رکھو وحشت قبر کے لیے رات کے اندھیرے میں دو رکعتیں پڑھو، بڑے بڑے کاموں کے لیے حج کرو، کسی مسکین کو صدقہ دو یا کوئی سچی بات کہو یا رکم ازکم، بری بات سے رُک جاؤ۔ ایک روایت میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص تھا جب لوگ اپنے بستروں پر چلے جاتے اور سو جاتے تو وہ اٹھ کر نماز پڑھتا اور قرآن پاک کی تلاوت کرتا تھا اور کہتا "اے آگ کے رب! مجھے اس سے نجات عطا فرما یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی گئی تو آپ نے فرمایا جب وہ اس طرح کرے یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی گئی تو آپ نے فرمایا جب وہ اس طرح کرے تو مجھے اطلاع کرنا، چنانچہ آپ اس کے پاس تشریف لے گئے اور اس کی دعا کو سنا جب صبح ہوئی تو فرمایا اے فلاں! تو نے اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کیوں نہیں کیا؟ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ! یہ میرا مقام نہیں اور نہ میرے اعمال اس تک پہنچتے ہیں کچھ دیر گزری تو حضرت جبریل علیہ السلام اترے اور عرض کیا (یا رسول اللہ!) آپ فلاں آجی کو خبر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے جہنم اسے بچا لیا اور جنت میں داخل کر دیا۔

ایک روایت میں کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ

(۱) المستدرک للحاکم جلد اول ص ۲۰۸ کتاب صلوٰۃ التطوع

(۲) مستند امام احمد بن حنبل جلد ۶ ص ۲۲ روایات عائشہ رضی اللہ عنہا

اچھے آدمی ہیں اگر وہ رات کو نماز پڑھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ بات بتائی تو اس کے بعد انہوں نے قیام لیل کی پابندی شروع کر دی (۱)

حضرت نافع رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما رات کو نماز پڑھتے پھر فرماتے اسے نافع! کیا سحری ہو گئی؟ میں عرض کرتا نہیں تو وہ نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے پھر پوچھتے اسے نافع! کیا سحری ہو گئی! میں عرض کرتا جی ہاں تو وہ بیٹھ کر اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے حتیٰ کہ صبح ہو جاتی۔

حضرت علی بن ابی النخیر فرماتے ہیں حضرت یحییٰ بن زکریا رضی اللہ عنہ نے جو کی روٹی یہ ہو کر کھائی اور صبح تک اپنے وظیفہ سے رے خبرا سوئے رہے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں الہام کیا اے یحییٰ! تو نے میرے گھر سے اچھا گھر پایا ہے؛ یا مجھ سے اچھا پڑوسی مل گیا ہے؛ مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم! اگر تم جنت کو ایک دفعہ بھی جھانک لو تو اس کے شوق میں تمہاری چربی پگھل جائے اور جان نکل جائے اور اگر تم جہنم کو جھانک کر دیکھو تو تمہاری چربی پگھل جائے اور آنسوؤں کے بعد پیپ بنے لگے اور اونی کپڑے کی بجائے لوہا نہیں لے۔

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ ایک شخص رات کو نماز پڑھتا ہے اور صبح دن ہوتا ہے تو چوری کرتا ہے آپ نے فرمایا عنقریب یہ نماز اسے اس کے عمل سے روک دے گی۔ (۲)

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس مرد پر رحم فرماتے جو رات کو عبادت کے لیے کھڑا ہوتا ہے پھر اپنی بیوی کو بھی جگاتا ہے اور وہ نماز پڑھتی ہے اگر وہ نہ جاگے تو اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارتا ہے۔ (۳)

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس عورت پر رحم فرمائے جو رات کو کھڑی ہو کر نماز پڑھتی ہے پھر اپنے خاوند کو بھی جگاتی ہے اور وہ بھی نماز پڑھتا ہے اگر وہ نہ جاگے تو اس کے منہ پر چھینٹے مارتا ہے۔ (۴)

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رات کو بیدار ہو اور اپنی بیوی کو بھی جگائے پھر وہ دونوں نماز پڑھیں تو وہ بہت ذکر کرنے والے مردوں اور بہت ذکر کرنے والی عورتوں میں لکھے جاتے ہیں (۵)

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

(۱) صحیح بخاری جلد اول ص ۱۵۱ باب التہجد

(۲) مستدرک امام احمد بن حنبل جلد ۲ ص ۲۴۴ م مرویات ابی ہریرہ

(۳) سنن ابن ماجہ ص ۴۹۲ باب إقامة الصلوة

(۴) سنن ابن ماجہ ص ۴۹۲ باب إقامة الصلوة

(۵) ایضاً

أَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْمَكْتُوبَةِ قِيَامُ اللَّيْلِ - (۱) فرائض کے بعد بہترین نماز رات کا قیام ہے۔

حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جو شخص اپنے وظیفہ یا رات کی کسی عبادت سے سو گیا پھر اسے فجر اور ظہر کے درمیان پڑھا تو اس کے لیے یوں لکھا جائے گا کہ گویا اس نے رات کو ہی پڑھا ہے (۲)

آثار صحابہ و تابعین | ایک روایت میں ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ زات کو ایک آیت کا ورد کرتے کرتے گرجا جاتے تو کئی دن تک ان کی عبادت کی جاتی جس طرح مریض کی بیماری رپسی کی جاتی ہے۔

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا طریقہ تھا کہ جب لوگ سو جاتے تو آپ کھڑے ہو جاتے اور شہد کی مکھی جیسی جھنبھنا ہٹ سناؤ دیتی تھی کہ صبح ہو جاتی۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ نے ایک رات سیر ہو کر کھانا کھایا اور فرمایا جب گدھے کو چارہ زیادہ دیا جاتے تو وہ زیادہ کام کرتا ہے تو وہ صبح تک کھڑے رہے۔

حضرت طاؤس رحمہ اللہ جب اپنے بستر پر جاتے تو اس پر کروٹیں بدلتے جیسے کڑا ہی میں دانا اچھٹنا ہے پھر کود کر بستر سے اٹک ہو جاتے اور صبح تک نماز پڑھتے پھر فرماتے جنم کے ذکر سے عبدین کی نیند اٹھ گئی۔

حضرت حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہم کسی عمل کو رات کی محنت (قیام لیل) اور مال خرچ کرنے سے زیادہ سمجھتے نہیں جانتے پوچھا گیا کہ تہجد پڑھنے والوں کے چہرے کیوں زیادہ خوبصورت ہوں گے انہوں نے فرمایا ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے علیحدگی اختیار کی تو اس نے اپنا نور انہیں پہنا دیا۔

ایک بزرگ سفر سے واپس آتے تو ان کے لیے پھونا بچھایا گیا وہ اس پر سو گئے حتیٰ کہ ان کا وظیفہ رہ گیا انہوں نے قسم کھائی کہ آئندہ کبھی بھی بستر پر نہیں سوئیں گے۔

حضرت عبدالعزیز بن ابی رواد رحمہ اللہ کا طریقہ تھا کہ جب رات چھا جاتی تو وہ اپنے بستر کے پاس آکر اس پر ہاتھ پھیرتے اور فرماتے بے شک تو نرم ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی قسم! جنت میں تہجد سے بھی نرم بستر ملے گا پھر وہ رات بھر بستر پر پڑھتے رہتے۔

حضرت فضیل رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب رات آتی ہے تو شروع میں اس کا لمبا ہونا مجھے ڈراتا ہے لیکن میں قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیتا ہوں حتیٰ کہ صبح ہو جاتی ہے اور میرا کام مکمل نہیں ہوتا۔

حضرت حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں انسان گناہ کرتا ہے تو اس کی دیر سے رات کو اٹھنے سے محروم ہو جاتا ہے۔ حضرت فضیل رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر تم رات کو قیام کرنے اور دن کو روزہ رکھنے پر قادر نہیں ہو تو جان لو کہ تم محروم ہو۔

(۱) سند امام احمد بن حنبل جلد ۲ ص ۴۴۴ روایات ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ

(۲) صحیح مسلم جلد اول ص ۲۵۶ کتاب الصلوٰۃ المسافرین

اور تمہاری خطائیں زیادہ ہو گئی ہیں۔

حضرت صلہ بن ایشیم رحمہ اللہ ساری رات نماز پڑھتے جب سحری کا وقت ہوتا تو عرض کرتے الٰہی! میرے جیسا آدمی جنت نہیں مانگ سکتا لیکن تو مجھے جہنم سے پناہ دے۔

ایک شخص نے کسی دانا سے کہا کہ میں رات کو قیام کرنے سے عاجز ہوں اس نے کہا اسے بھائی! دن کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرو اور رات کو قیام نہ کرو (تو کوئی حرج نہیں)

حضرت حسن بن صالح رحمہ اللہ کی ایک لونڈی تھی انہوں نے اسے ایک قوم پر بیچ دیا جب رات کا درمیان ہوا تو لونڈی کھڑی ہوئی اور کہنے لگی اسے گھر والو! اٹھو نماز پڑھو انہوں نے پوچھا کیا صبح ہو گئی ہے کیا فجر طلوع ہو گئی ہے؟ اس نے کہا کیا تم صرف فرض نماز پڑھتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں چنانچہ وہ حسن بن صالح کے پاس چلی گئی اور کہنے لگی اے میرے مالک! آپ نے مجھے ایسے لوگوں پر بیچ دیا جو صرف فرض نماز پڑھتے ہیں مجھے واپس لے لیں چنانچہ انہوں نے اسے واپس لے لیا۔

حضرت ربیع رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں نے حضرت امام شافعی رحمہ اللہ کے گھر کئی راتیں گزاریں تو وہ رات کو تھوڑا سا وقت آرام کرتے۔

حضرت ابو الجوزیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں چھ مہینے حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ساتھ ہاتھ اس میں کسی رات بھی انہوں نے اپنا پہلو زمین پر نہیں رکھا۔

حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نصف رات عبادت کرتے آپ ایک جماعت کے پاس سے گزرے تو وہ کہنے لگے یہ شخص پوری رات عبادت کرتا ہے تو آپ نے فرمایا مجھے جی آتی ہے کہ اس کام کے ساتھ میری تعریف کی جائے جو میں نہیں کرتا اس کے بعد آپ رات بھر عبادت کرتے ایک روایت یہ ہے کہ آپ کے لیے رات کے وقت بھپونا نہیں ہوتا تھا۔

کہا جاتا ہے کہ حضرت مالک بن دینار رضی اللہ عنہ نے اس طرح رات گزاری کہ پوری رات اس آیت کو پڑھتے رہے حتیٰ کہ صبح ہو گئی۔

کیا وہ لوگ جو گناہ کاتے ہیں ان کا خیال ہے کہ ہم ان کو ان لوگوں کی طرح کر دیں گے جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کئے۔

أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ
أَنْ نَّجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا
الصَّالِحَاتِ - (۱)

حضرت مغیرہ بن حبیب رحمہ اللہ نے حضرت مالک بن دینار رحمہ اللہ کو دیکھا کہ انہوں نے نماز عشاء کے بعد وضو کیا پھر

اپنے مصلیٰ پر کھڑے ہوئے اور اپنی دائرہ کو پکڑ لیا حتیٰ کہ آنسوؤں کی وجہ سے ان کا کلا گھونٹا گیا کہنے لگے یا اللہ مالک کے بڑھاپے کو دوزخ پر حرام کر دے یا اللہ! تو جانتا ہے کہ جنت میں کون رہے گا اور جہنم میں کون کوئی تو مالک کا گھر کون سا ہے؟ وہ صبح تک یہی بات کہتے رہے۔ حضرت مالک بن دینار رحمہ اللہ فرماتے ہیں ایک رات میں اپنا وظیفہ بھول کر سو گیا تو میں نے خواب میں ایک احمدی کو دیکھا جو بہت زیادہ خوبصورت ہے اور اس کے ہاتھ میں رقعہ ہے اس نے کہا کیا تو اسے اچھی طرح پڑھ سکتا ہے؟ میں نے کہا ہاں اس نے وہ رقعہ مجھے دے دیا تو اس میں لکھا تھا۔

کیا لذتوں اور خواہشات نے تجھے جنت میں خوبصورت اور محبت کرنے والی خوروں سے غافل کر دیا گیا تو ان معنیوں میں ہمیشہ رہنے کا موت نہیں آئے گی اور جنتوں میں خوبصورت خوروں سے کھیلے گا خوابِ غفلت سے بیدار ہو کہوں کہ تجھ میں قرآن پاک کی تلاوت اس سے بہتر ہے۔

کہا گیا کہ حضرت مسروق رضی اللہ عنہ نے حج کیا تو وہ ہر وقت سجدہ ریز رہتے تھے حضرت ازہر مغیث رحمہ اللہ سے مروی ہے اور وہ رات کو قیام کرنے والوں میں تھے انہوں نے فرمایا کہ میں نے خواب میں ایک عورت کو دیکھا جو دنیوی عورتوں کے مشابہ نہیں تھی میں نے پوچھا تو کون ہے؟ اس نے کہا خورہوں میں سے ہے کہ مجھ سے نکاح کر لے اس نے کہا میرے مالک کو پیغام نکاح دے اور مہر ادا کریں نے کہا تیرا مہر کیا ہے؟ اس نے کہا دیر تک تہجد پڑھتے رہتا۔

حضرت یوسف بن مہران فرماتے ہیں مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ عرش کے نیچے ایک فرشتہ ہے جو مرغ کی شکل کا ہے اس کے ناخن موتیوں کے اور کلنی سبز زبرجد کی ہے جب رات کا پہلا تہائی حصہ گزرتا ہے تو وہ اپنے پروں کو پھر پھراتا ہے اور کہتا ہے کہ قیام کرنے والوں کو اٹھنا چاہیے جب رات کا نصف گزر جاتا ہے تو وہ پھر پھر پھرتا ہے ہوتے کہتا ہے تہجد پڑھنے والے اٹھیں، جب دو تہائی رات گزر جاتی ہے تو وہ پھر پھر پھرتا ہے ہوتے کہتا ہے نماز پڑھنے والوں کو اٹھنا چاہیے جب فجر طلوع ہوتی ہے تو وہ پروں کو ہلاتے ہوئے کہتا ہے غافل لوگوں کو اٹھنا چاہیے اور ان پر بوجھ ہیں۔

کہا گیا کہ حضرت وہب بن منبہ یثربی رحمہ اللہ نے تیس سال تک اپنا پہلو زمین پر نہیں رکھا اور وہ فرمایا کرتے تھے اگر میں اپنے گھر میں شیطان کو دیکھوں تو وہ مجھے تیکہ دیکھنے سے زیادہ پسند ہے کیونکہ تیکہ نیند کی دعوت دیتا ہے۔ اور ان کے لیے چڑھے کا ایک تیکہ تھا جب نیند کا غلبہ ہوتا تو وہ اپنا سینہ اس پر رکھ دیتے اور کچھ جھونکے لے لیتے پھر نماز کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے۔

کسی بزرگ نے فرمایا کہ میں نے خواب میں اللہ تعالیٰ کی زیارت کی تو میں نے سنا وہ فرما رہا تھا مجھے اپنی عورت و جلال کی قسم! میں حضرت سیمان تیمی کو اچھا ٹھکانہ دونا کیونکہ انہوں نے میرے لیے چالیس سال عشاؤں کے وضو سے صبح کی نماز پڑھی ہے کہا جاتا ہے کہ ان کے مذہب میں جب نیند دل پر چھا جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے مطلب یہ ہے کہ ان کا دل بھی متوجہ رہتا تھا۔

بعض قدیم کتابوں میں اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ اس نے فرمایا کہ میرا سچا بندہ وہ ہے جو قیام لیل میں مرغ کی اذان کا (صبح کا) انتظار نہیں کرتا۔

قیام لیل کی آسانی کے اسباب

جان لو! لوگوں پر رات کا قیام مشکل ہے سوائے ان لوگوں کے جن کو قیام لیل کی ظاہری اور باطنی شرائط کی آسانی کے ساتھ توفیق دی گئی۔

ظاہری شرائط:

قیام لیل کی ظاہری شرائط چار ہیں۔

۱۔ زیادہ نہ کھائے کیونکہ اس طرح زیادہ پانی پیئے گا اور اس پر نیند غالب آجائے گی اور کھڑا ہونا مشکل ہوگا بعض بزرگ ہر رات دسترخوان کے پاس کھڑے ہو کر کہتے اے مریدین گئے گروہ! زیادہ نہ کھاؤ اس طرح زیادہ پینا پٹے گا تو زیادہ سوڑے اور موت کے وقت بہت زیادہ افسوس ہوگا یہ ایک بڑا ضابطہ ہے یعنی معدے پر کھانے کا بوجھ کم ڈالنا۔ ۲۔ دن کو ایسے کاموں کے ذریعے اپنے آپ کو نہ تھکائے جن کے ذریعے اعضاء تھک جاتے ہیں اور اعضاء کمزور ہو جاتے ہیں کیونکہ یہ بھی نیند کا سبب ہے۔

۳۔ دن کا قبیلہ نہ چھوڑے کیونکہ یہ سنت ہے (۱) اور قیام لیل پر مدد کرتا ہے۔

۴۔ دن کو گناہوں کے بوجھ نہ اٹھائے کیونکہ اس سے دل سخت ہو جاتا ہے اور بندے اور اسباب رحمت کے درمیان رکاوٹ ہو جاتی ہے۔

ایک شخص نے حضرت حسن بصری رحمہ اللہ سے عرض کیا اے ابو سعید! میں رات کو آرام سے سوتا ہوں حالانکہ میں قیام لیل کو پسند کرتا ہوں اور وضو کے لیے پانی تیار رکھتا ہوں تو کیا وجہ ہے کہ میں رات کو قیام نہیں کر سکتا؟ انہوں نے فرمایا تمہارے گناہوں نے تمہیں قید کر دیا ہے۔ حضرت حسن رحمہ اللہ جب بازار میں داخل ہوتے اور لوگ کی فضول اور لغو باتیں سنتے تو فرماتے میرا خیال ہے کہ ان لوگوں کی رات بھری رات ہے کیونکہ دن کو نہیں سوتے۔

حضرت سوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں ایک گناہ کے سبب جس کا میں نے ارتکاب کیا تھا پندرہ سال تک میں قیام لیل سے محروم رہا پوچھا گیا کہ وہ کونسا گناہ ہے؟ فرمایا میں نے ایک آدمی کو دیکھا جو رو رہا تھا تو میں نے دل میں کہا کہ یہ ریاکار ہے ایک بزرگ فرماتے ہیں میں حضرت کرز بن وبرہ رحمہ اللہ کے پاس گیا، تو وہ اور ہے تھے میں نے پوچھا کیا آپ کے اہل و

عیال میں سے کسی کی موت کی خبر آتی ہے؟ انہوں نے کہا اس سے بھی سخت ہے میں نے پوچھا کسی درد کی وجہ سے تکلیف ہے؟ انہوں نے کہا اس سے بھی سخت ہے میں نے پوچھا وہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا میرا دروازہ بند ہے پردہ لٹکا ہوا ہے اور میں نے رات کا وظیفہ نہیں پڑھا یقیناً اس کی وجہ کوئی گناہ ہے جو میں نے کہا ہے کیوں کہ نیکی اچھائی کو لاتی ہے اور برائی، برائی کو لاتی ہے اور ان میں سے تھوڑا زیادہ کو لانا ہے اسی لیے حضرت سلیمان دارانی نے فرمایا کسی شخص کی نماز باجماعت کسی گناہ کی وجہ سے ہی چھوٹی ہے وہ فرماتے تھے رات کو احتدام سزا ہے اور جنابت رات کا تقاضا ہے اور ڈوری کی علامت ہے۔

بعض علماء نے فرمایا اے مسکین! جب روزہ رکھو تو دیکھو کس کے پاس اور کس چیز کے ساتھ افطار کرتے ہو کیونکہ بندہ ایک لقمہ کھاتا ہے تو اس کا دل پہلی حالت سے بدل جاتا ہے اور پہلی حالت کی طرف نہیں لوٹتا۔ تو تمام گناہ دل کی سختی پیدا کرتے ہیں اور قیام لیل سے روکتے ہیں اور خاص تاثیر یہ ہے کہ وہ حرام کھاتا ہے جب کہ حلال لقمہ دل کی صفائی اور اس کو جلدائی کے لیے متحرک کرنے کا ذریعہ ہے اور یہ تاثیر کسی اور بات سے پیدا نہیں ہوتی دل کی حفاظت کرنے والے لوگ اس بات کو تجربہ کی بنیاد پر جانتے ہیں جب کہ شریعت بھی اس کی گواہی دیتی ہے۔ اسی لیے ان میں سے بعض نے فرمایا کہ کتنے ہی لقمے قیام لیل سے روکتے ہیں اور کتنی ہی نگاہیں قرآن پاک کی سورت پڑھنے سے مانع ہیں ایک شخص کوئی لقمہ کھاتا ہے یا کوئی ایسا عمل کرتا ہے جس کی وجہ سے وہ قیام لیل سے محروم ہو جاتا ہے جس طرح نماز بے حیائی اور برائی کی باتوں سے روکتی ہے اسی طرح بے حیائی، نماز اور باقی تمام نیکیوں سے روکتی ہے جس کے ایک داروغہ نے کہا کہ میں تیس سال سے زیادہ داروغہ رہا جو آدمی بھی رات کو بکرا جاتا میں اس سے پوچھتا کہ کیا اس نے نماز عشر جماعت سے پڑھی ہے تو وہ سب کہتے نہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جماعت کی برکت بے حیائی اور برائی کے کاموں سے رکاوٹ ہو جاتی ہے۔

باطنی امور:

یہ بھی چاہئے۔

۱۔ مسلمانوں کے بارے میں کینہ پروری سے تیز بدعتوں اور دنیا کے فضول خیالات سے دل کا سلامت ہونا ہے کیونکہ جس آدمی کی توجہ دنیوی تدابیر کی طرف ہو اس کے لیے قیام آسان نہیں ہوتا اور اگر وہ کھڑا ہو بھی جائے تو نماز میں ان ہی امور کے بارے میں سوچتا رہتا ہے اور وہ وسوسوں میں مبتلا رہتا ہے اس قسم کی حالت کے بارے میں کسی نے کہا ہے۔

دربان مجھ سے کہتا ہے، یا کہ تم سوئے ہوئے تھے اور تم تو جاگتے ہوئے بھی سوئے ہوئے ہو۔

۲۔ امید کم ہو اور دل پر خوف زیادہ طاری ہو کیونکہ جب آخرت کی پریشانیوں اور جہنم کے درجات بارے میں سوچے گا تو نینداڑ جائے گی اور خوف بڑھ جائے گا جیسے کہ حضرت طاووس نے فرمایا کہ جہنم کے ذکر سے عابدین کی نینداڑ جاتی ہے۔

اور جیسے ایک واقعہ ہے کہ بصرہ میں ایک غلام تھا جس کا نام صہیب تھا وہ پوری رات قیام کرتا تھا اس مالک نے اس سے کہا تمہارا رات کو قیام کرنا دن کے کام کو نقصان پہنچاتا ہے اس نے کہا صہیب جب جہنم کو یاد کرتا ہے تو اسے نیند نہیں آتی ایک اور غلام رات بھر ہی سوتا تھا جب اسے یہ بات کہی گئی تو اس نے کہا جب مجھے جہنم کا خیال آتا ہے تو میرا خوف بڑھ جاتا ہے اور جب میں جنت کو یاد کرتا ہوں تو شوق کے باعث، سونے پر قادر نہیں ہوتا حضرت ذوالنون حصری رحمہ اللہ نے فرمایا قرآن پاک نے اپنے وعدہ اور وعید کے ذریعے رات کے وقت سونے سے روک دیا وہ بزرگی والے بادشاہ کا کلام سمجھ چکے ہیں اس لیے ان کی گردنیں اس کے سامنے عاجزی کے ساتھ جھکی ہوئی ہیں۔ انہوں نے یہ بھی پڑھا۔

اے سونے اور غفلت میں پڑنے والے نیند کی کثرت حسرتوں کا باعث ہے بے شک قبر میں جانے کے بعد بہت لمبی نیند ہوگی اور تمہارے لیے سچھونا تیار کیا گیا چاہے وہ تمہارے گناہوں کے اعتبار سے ہو یا نیکیوں کے حساب سے، کیا تورات کو ملک الموت سے بے خوف ہے اور ایسے لوگوں پر بھی وہ رات کو آتا ہے۔

حضرت ابن مبارک رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔

جب رات تاریک ہوتی ہے تو وہ محنت (عبادت) میں لگ جاتے ہیں حتیٰ کہ جب صبح روشن ہوتی ہے تو وہ حالت رکوع میں ہوتے ہیں خوف نے ان کی نیند اڑادی اور وہ کھڑے ہو گئے اور بے خوف لوگ دنیا میں تسلی سے سوئے ہوئے ہیں۔ آیات، احادیث اور آثار سے قیام لیل کی فضیلت سننے حتیٰ کہ اس کی امید اور ثواب کے لیے شوق پکا ہو جائے پس یہ شوق مزید حاصل کرنے اور جنت کے درجات کی رغبت کو پڑھائے جسے ایک حکایت میں ہے کہ ایک نیک شخص جہاد سے واپس آیا تو اس کی بیوی نے اس کے لیے بستر تیار کیا اور اس کی انتظار میں بیٹھ گئی وہ مسجد میں داخل ہو کر نماز پڑھتا رہا حتیٰ کہ صبح ہو گئی اس کی بیوی نے کہا ہم ایک عرصہ تک تمہارے منتظر رہے جب تم آئے تو صبح تک نماز میں مشغول رہے اس نے کہا اللہ کی قسم! میں پوری رات جنت کی حور کے بارے میں سوچتا رہا اور اپنی بیوی اور گھر کو بھول گیا اور ساری رات اسی کے شوق میں کھڑا رہا۔

ہم۔ اور یہ سب سے اچھا سبب ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس بات پر سچتہ ایمان کہ وہ اپنے قیام میں جو صرف بھی زبان سے نکالتا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتا ہے اور یہ کہ اللہ تعالیٰ اس پر مطلع ہے اس کے ساتھ ساتھ دل کے خطرات کا بھی مشاہدہ کرے اور یوں سمجھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے خطاب ہو رہا ہے۔

تو جب اللہ تعالیٰ سے محبت کرے گا تو یقیناً اس کے لیے خلوت کو بھی پسند کرے گا اور اس سے ہمکلامی کی لذت پائے گا تو اپنے محبوب سے مناجات کی یہ لذت اسے طویل قیام کی رغبت دے گی۔ لہذا اس لذت کو کچھ بعید نہ سمجھے کیوں کہ اس پر عقل و نقل دونوں گواہ ہیں۔

جہاں تک عقل کا تعلق ہے تو اسے اس شخص کو دیکھنا چاہیے جو کسی کے حسن کی وجہ سے اسی سے محبت کرتا ہے۔

یا اس کے انعام و اکرام اور مال کی وجہ سے اسے محبوب رکھتا ہے تو وہ کس طرح اس کے ساتھ رہنے اور گفتگو میں لذت حاصل کرتا ہے حتیٰ کہ اسے رات بھر نیند نہیں آتی۔

اگر تم کہو کہ خوبصورت لوگوں کو دیکھنے سے لذت حاصل ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ تو نظر نہیں آتا تو جان لو کہ اگر خوبصورت محبوب پردے کے پیچھے ہو یا تاریک مکان میں ہو تو بھی محبت کو اس کی ہمسائیگی سے لذت حاصل ہوتی ہے اگرچہ وہ اسے دیکھ نہیں رہا اور نہ اسے کسی اور بات کی لالچ ہے وہ اس سے اظہار محبت کرتا اور اس سے ہمکلام ہوتا ہے تو یہی اس لیے خوشی کا باعث ہے اگرچہ یہ باتیں اس محبوب کو معلوم بھی ہوں۔

اگر تم کہو کہ وہ محبوب کے جواب کا منتظر رہتا ہے اور اس کا جواب سن کر لذت حاصل کرتا ہے جب کہ اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں سنتا۔

تو جان لو کہ اسے معلوم ہے کہ وہ اس کا جواب نہیں دیتا بلکہ خاموش رہتا ہے تو حالات پیش کرنے کی لذت اس کے لیے باقی رہتی ہے اور اس کے دل کی باتیں اس تک پہنچتی ہیں اور یہ کیسے نہیں ہوگا جب کہ یقین رکھنے والا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر وہ بات سنتا ہے جو مناجات کے درمیان اس کے دل پر وارد ہوتی ہے تو وہ اس سے لذت حاصل کرتا ہے۔

جس طرح کوئی شخص رات کو بادشاہ کے پاس علیحدگی میں ہوتا ہے اور رات بے وقت اس کے سامنے اپنی حاجات پیش کرتا ہے اور اس کے انعام کی امید سے لذت حاصل کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے امید تو نہایت سچی ہے اور جو کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ بہتر اور زیادہ باقی رہنے والا ہے اور دوسروں کے پاس جو کچھ ہے، اس سے زیادہ نفع بخش ہے تو کس طرح وہ اللہ تعالیٰ سے علیحدگی میں اپنی حاجات پیش کر کے لذت حاصل نہیں کرے گا۔

اس کے نقلی دلائل یہ ہیں کہ جو لوگ رات کو قیام کرتے ہیں وہ اس قیام سے لذت حاصل کرتے ہیں اور رات کو چھوٹا خیال کرتے ہیں جس طرح محب، محبوب کے وصال کی رات کو مختصر خیال کرتا ہے حتیٰ کہ ان میں سے بعض سے کہا گیا کہ تمہاری رات کی کیا صورت ہے؟ تو اس نے کہا میں نے کہا میں نے کبھی اس بات کا لحاظ نہیں کیا وہ مجھے اپنا چہرہ دکھاتی ہے اور چلی جاتی ہے اور میں اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔

ایک دوسرے بزرگ نے فرمایا کہ میں اور رات مقابلہ کرنے والے دو گھوڑوں کی طرح ہیں بعض اوقات وہ مجھ سے آگے نکل کر صبح تک چلی جاتی ہے اور بعض اوقات وہ میری سوچ کو توڑ دیتی ہے۔

کسی بزرگ سے پوچھا گیا آپ کی رات کا کیا حال ہے؟ انہوں نے فرمایا وہ ایک ساعت سے جب میں دو حالتوں کے درمیان میں ہوتا ہوں جب وہ آتی ہے تو میں اس کے اندھیرے پر خوش ہوتا ہوں اور جب اس کی فجر آتی ہے تو میں غمگین ہو جاتا ہوں اس کے ساتھ میری خوشی کبھی بھی مکمل نہیں ہوتی۔

حضرت علی بن بکار رحمہ اللہ فرماتے ہیں چالیس سال سے مجھے صبح کی آمد نے جتنا غمگین کیا اتنا کسی دوسری بات نے غمزہ نہیں کیا۔

حضرت فضیل بن عیاض رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب سورج غروب ہوتا ہے تو میں اندھیرے پر خوش ہوتا ہوں کیونکہ اب مجھے اپنے رب کے ساتھ خلوت کا موقع ملتا ہے۔ اور جب صبح ہوتی ہے تو میں غمگین ہو جاتا ہوں کیونکہ اب لوگ میرے پاس آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابوسلیمان رحمہ اللہ فرماتے ہیں رات کو قیام کرنے والے کھیل کود والوں کی نسبت زیادہ لذت پاتے ہیں اگر رات نہ ہوتی تو میں دنیا میں ٹھہرنا پسند نہ کرتا۔ انہوں نے یہ بھی فرمایا اگر رات کو قیام کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ ثواب کی بجائے صرف یہ لذت عطا فرمائے تو انہیں یہ زیادہ پسند ہوگی بعض علماء نے فرمایا کہ دنیا میں کوئی ایسا وقت نہیں جو جنتی نعمتوں کے مشابہ ہو البتہ جو لوگ رات کو انگساری کرتے ہیں وہ مناجات کی صلوات پاتے ہیں ان میں سے بعض نے فرمایا مناجات کی لذت دنیا سے نہیں بلکہ جنت سے ہے اسے اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء کرام کے لیے ظاہر کیا ان کے علاوہ کسی کو یہ لذت نہیں ملتی۔ حضرت ابن منکدر رحمہ اللہ فرماتے ہیں دنیا کی لذت سے صرف تین چیزیں باقی رہ گئی ہیں۔ رات کا قیام، (مسلمان) بھائیوں سے ملاقات اور نماز باجماعت۔ بعض عارفین نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سحری کے وقت شب بیداری کرنے والوں کے دلوں کو دیکھتا ہے اور ان کو نور سے بھر دیتا ہے۔ تو فرماؤ ان کے دلوں پر لٹتے ہیں اور وہ روشن ہوتے ہیں پھر ان کے دلوں سے زائد نور غفلوں کی دلوں پر پھیلتا ہے۔

قدیم علماء میں سے بعض نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بعض صدیقین کی طرف وحی بھیجی کہ میرے کچھ بندے ایسے ہیں جن سے میں محبت کرتا ہوں اور وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ وہ میرے مشتاق ہیں اور میں ان کا مشتاق ہوں وہ مجھے یاد کرتے ہیں اور میں ان کو یاد کرتا ہوں وہ میری زیارت کرتے ہیں اور میں ان کو دیکھتا ہوں۔

اگر تو ان کے راستے پر چلے تو میں تجھ سے محبت کروں گا اور اگر تو ان سے روگردانی کرے تو میں تجھ پر ناراض ہوں گا انہوں نے عرض کیا اسے رب ان کی علامت کیا ہے۔ فرمایا وہ دن کے وقت سایوں کو دیکھتے ہیں جیسے چرواہا اپنی بکریوں کی نگرانی کرتا ہے وہ سورج کے غروب ہونے کی طرف اس طرح لپکتے ہیں جس طرح پرندے اپنے گھونسلوں کی طرف لپکتے ہیں جب ان پر رات کی تاریکی چھا جاتی ہے اور اندھیرا ہو جاتا ہے اور ہر محب اپنے محبوب کے پاس چلا جاتا ہے تو وہ میرے اپنے پاؤں کھڑے کرتے اور اپنے چہرے بچھا دیتے ہیں اور میرے کلام کے ذریعے مجھ سے گفتگو کرتے ہیں اور میرے انعام کے ذریعے میرے سامنے انگساری کرتے ہیں۔ تو کو چھینتا ہے اور کوئی رقتا ہے کوئی آہیں بھرتا ہے اور کوئی عرض گزار ہوتا ہے جو مشقت وہ میرے لیے اٹھاتے ہیں وہ میرے سامنے ہے اور میری محبت میں جو کچھ شکایت کرتے ہیں میں سنتا ہوں میں انہیں سب سے پہلا عطیہ یہ دوں گا کہ ان کے دلوں میں اپنا نور ڈالوں گا تو وہ میرے بارے میں خبر دیں گے۔ جیسے میں ان کے بارے میں خبر دیتا ہوں دوسرا یہ کہ اگر ساتوں آسمان اور ساتوں زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے

ان کے مقابلے میں ہوں تو میں ان چیزوں کو کم سمجھوں گا۔ تیسرا یہ کہ میں ان کی طرف خاص توجہ کرتا ہوں تو بتاؤ جس کی طرف میں یوں متوجہ ہوں تو میں اسے کیا کچھ عطا کروں گا۔

حضرت مالک بن دینار رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب بندہ رات کو کھڑا ہو کر تہجد پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے قریب ہوتا ہے اور وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے قرب کی وجہ سے دل میں جو نرمی، خلوت اور انوار پاتے ہیں وہ اس کا سبب اسی بات کو جانتے ہیں۔

اس کا راز اور تحقیق یہی ہے عنقریب محبت کے بیان میں اس کی طرف اشارہ کیا جائے گا۔

روایات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے منقول ہے وہ فرماتا ہے اسے میرے بندے! میں ہی وہ اللہ ہوں جو تیرے دل کے قریب ہوا اور تو نے میرا نور غیب میں دیکھا۔ بعض مریدین نے اپنے شیخ سے رات بھر جاگنے کی شکایت کی اور نیند کے حصول کی کوئی ترکیب پوچھی تو شیخ نے فرمایا اسے بیٹے ابرار اور دن میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ بخشش کے جھونکے آتے ہیں جو بیدار دنوں تک پہنچتے ہیں اور سوئے ہوئے دلوں سے گزر جاتے ہیں لہذا ان جھونکوں کو حاصل کرو اس نے کہا اے میرے سردار! آپ نے تو مجھے یوں چھوڑ دیا کہ نہ میں رات کو سو سکتا ہوں اور نہ دن کو۔ جان لو کہ خوشبو اور بخشش کے جھونکوں کی امید رات کو زیادہ ہوتی ہے کیوں کہ قیام لیل کی وجہ سے دل کی صفائی حاصل ہوتی ہے اور مشاغل دور ہو جاتے ہیں۔ ایک صحیح حدیث میں حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں۔

آپ نے فرمایا:

رات میں ایک ایسی ساعت ہوتی ہے کہ اگر کسی مسلمان کے موافق ہو جائے اور وہ اس میں اللہ تعالیٰ سے بھلائی کا سوال کرے تو اللہ تعالیٰ اسے عطا کرتا ہے۔

رَأَى مِنَ اللَّيْلِ سَاعَةً لَا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللَّهَ تَعَالَى خَيْرًا إِلَّا أَعْطَاهُ
آيَةٌ (۱)

ایک دوسرے روایت میں ہے، کہ وہ اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت کے امور میں سے (کسی کا) سوال کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے عطا کرتا ہے (۲) اور یہ پوری رات میں ہوتا ہے اور قیام کرنے والوں کا مطلوب یہی ہے اور یہ پوری رات میں متغی ہے جس طرح رمضان المبارک میں لیلۃ القدر پوشیدہ ہے اور جسے جمعہ کے دن ایک ساعت پوشیدہ ہے اور یہ ان مذکورہ جھونکوں کی ساعت ہے۔

(۱) مستدرک احمد بن حنبل جلد ۳ ص ۳۷۸ روایات جابر رضی اللہ عنہ

(۲) صحیح مسلم جلد اول ص ۵۸ کتاب صلوات المسافرین

رات کے اجزاء کی تقسیم | جان لو! مقدار کے اعتبار سے رات کی عبادت کے سات مرتبہ ہیں۔

پہلا مرتبہ :

پوری رات عبادت کرنا یہ مضبوط لوگوں کی شان ہے جو اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے اگ تھک کر دیتے ہیں اور اس کے ساتھ ہمکلامی کی لذت حاصل کرتے ہیں یہ عمل ان کی غذا اور ان کے دلوں کی زندگی بن جاتا ہے لہذا وہ زیادہ دیر تک کھڑے رہنے سے تھکتے نہیں اور نیند کو دن کی طرف ٹوٹا دیتے ہیں جب کہ لوگ مشغول ہونے میں اسلاف کی ایک جماعت کا یہی طریقہ تھا وہ عشاء کے وضو کے ساتھ صبح کی نماز پڑھتے تھے۔

حضرت ابوطالب مکی نے نقل کیا کہ چالیس تابعین سے یہ بات تو اترا اور شہرت کی صورت میں منقول ہوتی ہے ان میں سے بعض وہ تھے جنہوں نے چالیس سال تک یہ عمل جاری رکھا۔

انہوں نے فرمایا کہ ان میں سے سعید بن مسیب اور صفوان بن سلیم مدنی ہیں فضیل بن عیاض اور وہیب بن وردکی ہیں، طاؤس اور وہیب بن ضبہ یعنی ہیں ربیع ابن خثیم اور حکم کوثر سے تعلق رکھتے ہیں ابوسلیمان دارانی اور علی بن بکار کا تعلق شام سے ہے، ابو عبد اللہ الخواص اور ابو عاصم (دونوں کے نام میں لفظ عبد اللہ ہے) حبیب ابو محمد اور ابو جابر سلمانی ایرانی ہیں مالک بن دینار، سلیمان ثنی، یزید قاشی حبیب بن ابی ثابت، یحییٰ بکا بصری ہیں۔ اور ان کے علاوہ کہس بن منہال ہیں جو ایک مہینے میں نوے ختم کرتے تھے اور جب تک اس کو سمجھ نہ لیتے دوبارہ پڑھتے، مدینہ طیبہ والوں سے ابو حازم اور محمد بن منکدر ہیں اور یہ ایک جماعت ہے جن کی تعداد بہت زیادہ ہے۔

دوسرا مرتبہ :

نصف رات قیام کرنا اس عمل کو بے شمار اسلاف نے اختیار کیا اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ پہلے تہائی اور آخری چھٹے حصے میں سو جائے تاکہ اس کا قیام رات کے درمیان میں ہو اور یہ افضل ہے۔

تیسرا مرتبہ :

رات کا تہائی حصہ قیام کرنا اس میں مناسب طریقہ یہ ہے کہ رات کے پہلے نصف میں اور آخری چھٹے حصے میں سو جائے خلاصتہ کلام یہ ہے کہ رات کے آخری حصے میں سو جانا محبوب ہے کیوں کہ وہ صبح کی اونگھ کو دور کرتا ہے اکابر بزرگ صبح کی اونگھ کو ناپسند کرتے تھے رات کے آخری حصے میں سونے سے چہرے پر زادی کم ہوتی اور لوگوں کی انگشت نمائی کم ہوتی ہے اگر رات کا اکثر وقت قیام کرنے اور سحری کے وقت سو جائے تو اس کے چہرے کا رنگ کم زور ہوگا اور اونگھ بھی کم آئے گی۔

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کے آخر میں دست پڑھ

لیتے تو اگر اپنی ازواج مطہرات سے کوئی حاجت ہوتی تو ان کے قریب جاتے ورنہ اپنے مصلیٰ پر لیٹ جاتے حتیٰ کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ حاضر ہو کر آپ کو نماز کی اطلاع کرتے (۱)

انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ میں نے آپ کو سحری کے بعد ہمیشہ آرام فرمایا (۲)
 حتیٰ کہ بعض اسلاف نے فرمایا کہ صبح سے پہلے کا یہ آرام کرنا سنت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھی یہی بات کہنے والوں میں سے ہیں اس وقت ہونا پر وہ غیب کے پتھپتھ سے مکاشفے اور شاہدے کا سبب ہے اور یہ دل والوں کے لیے ہوتا ہے اور اس میں آرام ہے جردن کے وظائف میں سے پہلے وظیفہ برد و دیتا ہے رات کے دوہرے نصف میں سے تہائی حصہ قیام کرنا اور آخری چھٹا حصہ سو جانا حضرت داؤد علیہ السلام کا طریقہ ہے۔

چوتھا مرتبہ :

رات کا چھٹا یا پانچواں حصہ قیام کرے اور افضل یہ ہے کہ یہ نصف اخیر میں آخری چھٹے حصے سے پہلے ہو۔

پانچواں مرتبہ :

وقت کا اندازہ نہ کیا جائے کیوں کہ یہ بات نبی کے لیے آسان ہوتی ہے کیونکہ ان پر وحی نازل ہوتی ہے یا اس شخص کے لیے جو چاند کی منازل کو جانتا ہو علم ہیئت کا ماہر ہو اور کسی کو ننگرانی کے لیے مقرر کرے کہ وہ اس کا خیال رکھے اور اسے جگائے تو بادلوں کی راتوں میں یہ بات بھی مشکل ہوتی ہے تو ایسے شخص کو رات کے پہلے حصے میں قیام کرنا چاہیے یہاں تک کہ اس پر نیند غالب آجائے پھر جب بیدار ہو تو عبادت کرے پھر جب نیند کا غلبہ ہو تو دوبارہ سو جائے اس طرح اس کے لیے رات میں دو بار نیند اور دو بار قیام ہوگا۔ اور یہ رات کی مشقتوں میں سے ہے اور سب سے سخت لیکن افضل عمل ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی طریقہ تھا۔ (۳)

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کا طریقہ بھی یہی تھا، اس کے لیے جلیل القدر صحابہ کرام اور تابعین کی ایک جماعت نے بھی یہی طریقہ اختیار فرمایا اسلاف میں سے بعض بزرگ فرماتے تھے نیند صرف پہلی بار کی ہے اگر میں جاگ کر چہرے سوتے لگوں تو اللہ تعالیٰ میری آنکھوں کو نہ سلائے مقدار کے اعتبار سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام ایک انداز پر نہیں تھا بلکہ آپ بعض اوقات نصف رات قیام فرماتے کبھی دو تہائی کبھی ایک تہائی اور کبھی چھٹا حصہ (۴)

(۱) سنن ابی داؤد جلد اول ص ۹، کتاب الصلوٰۃ

(۲) سنن ابی داؤد جلد اول ص ۱۸، کتاب الصلوٰۃ

(۳) سنن ابی داؤد جلد اول ص ۲۰، کتاب الصلوٰۃ

(۴) صحیح مسلم جلد اول ص ۲۶۰، کتاب صلوٰۃ المسافرین

مختلف راتوں میں مختلف طریقہ ہوتا تھا۔

اس پر اللہ تعالیٰ کا یہ ارشادِ گرامی دلیل ہے۔ جو سورہ منزل میں دو جگہ ہے۔

إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَوْفَىٰ مِن ثُلَاثٍ

اللَّيْلِ وَنِصْفَ الْوَجْهِ - (۱)

تو دو تہائی سے کچھ کم گویا نصف اور چھٹا حصے کا نصف ہے (بارہواں حصہ ہے) اگر نصفہ وثلثہ کو کسرہ دے کر
جر کے ساتھ نصفہ وثلثہ پڑھیں تو دو تہائی کا نصف اور اس کا تیسرا حصہ ہوگا تو یہ تیسرے اور چوتھے حصے کے قریب
ہوگا۔ اور اگر نصب زبر کے ساتھ پڑھیں (جن طرح اوپر مذکور ہے) تو نصب رت بنے گا۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مرض کی آواز سنتے تو کھڑے ہو جاتے (۲)
اور یہ چھٹا حصہ یا کچھ کم ہے متعدد صحابہ کرام سے مروی ہے فرماتے ہیں میں نے سفر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
کی رات کی نماز کو دیکھا آپ نماز عشاء کے بعد کچھ دیر آرام فرما ہوتے پھر بیدار ہوتے تو آسمان کے کناروں کو دیکھتے ہوئے
فرماتے۔

رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا يَا بَاطِلًا - (۳)

اے ہمارے رب! تو نے اسے باطل پیدا نہیں کیا۔

اے ہمارے رب! تو نے اسے باطل پیدا نہیں کیا۔

”إِنَّكَ لَا تَخْلُقُ الْمَيِّعَادَ“ تک پڑھا۔ (سورہ آل عمران کی آیات ۱۹۱ تا ۱۹۴ پڑھیں)
پھر بستر سے مسواک نکال کر مسواک فرماتے اور وضو کر کے نماز پڑھتے جتنی کہ میں کہتا آپ نے جتنی دیر آرام فرمایا ہے
اسی قدر بھی پڑھی ہے پھر آپ آرام کرتے اور میں کہتا آپ نے اتنی دیر آرام فرمایا جتنی دیر نماز پڑھی۔ پھر بیدار ہونے کے
بعد وہی کلمات کہتے جو پہلے کہے اور وہی پہلے والا عمل دہراتے (۴)

چھٹا مرتبہ:

یہ کم مقدار میں قیام کرنا ہے یعنی چار یا دو رکعات کی مثل قیام کرنا۔ یا وضو کرنا مشکل ہو تو قبلہ رخ ہو کر بیٹھ جائے اور
ذکر و دعا میں مشغول ہو، اللہ تعالیٰ کے فضل اور رحمت سے رات کو قیام کرنے والوں میں لکھا جائے گا۔
ایک روایت میں ہے کہ رات کے وقت نماز پڑھا اگر صبر بکری دوہنے جتنا وقت ہو (۵)

(۱) قرآن مجید، سورہ منزل آیت ۲۰

(۲) صحیح مسلم جلد اول ص ۲۵۵ کتاب صلاة المسافرين

(۳) قرآن مجید سورہ آل عمران آیت ۱۹۱

(۴) سنن نسائی جلد اول ص ۲۲۲ باب ذکر صلاة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

(۵) المعجم الکبیر للطبرانی جلد اول ص ۲۷۱ ص ۸۷

تویہ طریقہ تقسیم ہے آخرت کا ارادہ کرنے والے کو چاہیے کہ جو طریقہ آسان معلوم ہوا سے اختیار کرے اگر رات کے وقت قیام مشکل ہو تو مغرب و عشاء کے درمیان عبادت اور عشاء کے بعد کے وظیفہ کو نہ چھوڑے پھر صبح سے پہلے سحری کے وقت اٹھے اس طرح سونے کی حالت میں صبح نہیں ہوگی۔

ساتواں مرتبہ:

رات کے دونوں کناروں میں عبادت کرے اور جب مقدار کی طرف نظر ہو تو یہ مرتبہ، وقت کے لمبا اور مختصر ہونے کے اعتبار سے ہیں لیکن پانچویں اور ساتویں مرتبہ میں وقت کی مقدار کو نہیں دیکھا گیا کیونکہ آگے سچھے ہونے کی وجہ سے ان میں مذکورہ ترتیب جاری نہیں ہوتی۔ کیونکہ ساتواں مرتبہ چھٹے مرتبے کی مقدار سے اور پانچواں مرتبہ مقدار میں چوتھے مرتبے سے کم نہیں۔

جان لو! کہ وہ راتیں جن کی فضیلت زیادہ ہے اور ان میں عبادت کے لیے قیام مستحب ہے سال میں پندرہ راتیں ہیں آخرت کا ارادہ کرنے والے کو ان سے غافل نہیں ہونا چاہیے کیوں کہ یہ نیکیوں کے موسم اور تجارت کی منڈیاں ہیں اور جب تاجر موسم رحیم کو سیزن کہتے ہیں، اسے غافل ہوتا ہے تو وہ تجارت میں نفع حاصل نہیں کر سکتا اور جب مرد آخرت فضیلت اوقات سے غافل ہوتا ہے تو کامیاب نہیں ہو سکتا۔

فضیلت والی راتیں اور دن

ان راتوں میں سے چھ راتیں رمضان المبارک میں ہیں پانچ راتیں آخری عشرہ کی طاق راتیں ہیں کیوں کہ ان میں لیلۃ القدر کوئی نہ کھیا جاتا ہے اور ایک سترہ رمضان المبارک کی رات ہے یہ وہ رات ہے جس کی صبح یوم فرقان رحمتی و باطل میں فرق کرنے والا دن ہے جس دن میں دولت شکر باہم مقابل ہوئے اور اس میں واقعہ بدر ہوا ہے۔

حضرت ابن الزبیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ رات لیلۃ القدر ہے۔ اور دوسری نورانی یہ ہیں محرم کی پہلی رات، دسویں محرم کی رات، رجب المرجب کی پہلی، پندرھویں اور ستائیسویں رات (یعنی معراج شریف کی رات) اور اس رات کے لیے نماز احادیث سے ثابت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

شب معراج کی نماز | اس رات عمل کرنے والے کے لیے ایک سو سال کی نیکیوں کا ثواب ہے جو آدمی اس رات بارہ رکعات پڑھے ہر رکعت میں سورہ فاتحہ اور قرآن پاک کی کوئی دوسری سورت پڑھے ہر دو رکعتوں کے بعد تشهد پڑھے اور آخر میں سلام پھیرے۔

اس کے بعد یہ کلمات سو مرتبہ پڑھے۔

”سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ“ — سو مرتبہ ”اَسْتَغْفِرُ اللَّهَ“ پڑھے سو مرتبہ

درود شریف پڑھے اور اس کے بعد اپنے دینی اور اخروی امور کے لیے جو دعا چاہے مانگے صبح روزہ رکھے تو

اللہ تعالیٰ اس کی تمام دعاؤں کو قبول فرمائے گا بشرطیکہ گناہ رکے کاموں کی دعا نہ ہو، (۱)

شبِ برأت کی نماز | شعبان کی پندرہویں رات (شبِ برأت) کو ایک سو رکعت پڑھے ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد دس مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھے، اسلاف کرام اس نماز کو نہیں چھوڑتے تھے جیسا کہ ہم نے نقل نماز کے ضمن میں ذکر کیا ہے۔

اس کے علاوہ نود و الحجہ کی رات اور عیدین کی دو راتیں ہیں۔

اس طرح یہ کل پندرہ راتیں ہوں گی،

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،

مَنْ أَحْيَا لَيْلَتِي الْعِيدَيْنِ كَمَا كَيْتُ قَلْبُهُ
يَوْمَ تَمُوتُ الْقُلُوبُ -

جس نے دو عیدوں کی راتوں کو (عبادت کے ساتھ) زندہ رکھا اس کا دل اس دن نہیں مرے گا جب دل مریں گے۔

(۲)

فضیلت والے دن نہیں ہیں۔ ان میں مسلسل وظائف پڑھنا مستحب ہے نویں ذوالحجہ، دس محرم، رجب کی ستائیسویں تاریخ اس کی بہت بڑی فضیلت ہے

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،

مَنْ صَامَ يَوْمَ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ مِنْ رَجَبٍ
كَتَبَ اللَّهُ لَهُ صِيَامَ سِتِّينَ شَهْرًا -

جو آدمی ستائیس رجب کو روزی رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ساٹھ مہینوں کے روزوں کا ثواب لکھ دیتا ہے۔

(۳)

یہی وہ دن ہے جس میں حضرت جبریل علیہ السلام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر رسالت لے کر اترے (اس کے علاوہ) سترہ رمضان المبارک کا دن ہے جس میں واقعہ بدر ہوا، شعبان کی پندرہ تاریخ، جمعہ کا دن، عیدین کے دو دن، ایام معلومات یعنی ذوالحجہ کے دس دن اور ایام معدودات (رگنے ہوئے دن) یعنی ایام تشریق (گیارہ بارہ تیرہ ذوالحجہ) حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا۔

إِذَا سَلِمَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ سَلِمَتِ الْوَيَامُ
جب جمعہ کا دن سلامت گزر جائے تو باقی دن بھی اچھی

(۱) کنز العمال جلد ۱۲ ص ۲۱۲، ۲۱۳ حدیث ۳۵۱۰

(۲) سنن ابن ماجہ ص ۱۲۸ ابواب ماجاد فی الصیام

وَإِذَا سَلِمَ شَهْرُ رَمَضَانَ سَلِمَتِ السَّنَةُ
 طرح گزر جاتے ہیں اور حیبِ رمضان المبارک اچھی طرح
 گزر جائے تو پورا سال صحیح سلامت گزرتا ہے۔ (۱)

بعض علماء نے فرمایا جو شخص دنیا میں پانچ دن میں آزمائش اختیار کرے گا۔
 وہ آخرت میں آرام و آسائش نہیں پائے گا۔

اس سے عیدین کے دو دن، جمعہ، عرفہ (اکھڑ ذوالحجہ) اور عاشوراء (دس محرم) کے دن مراد ہیں۔
 ہفتے میں فضیلت والے دن جمعرات اور سوموار کے دن ہیں۔ ان دنوں میں اعمال اللہ تعالیٰ کی طرف اٹھائے جاتے ہیں
 مہینوں اور دنوں کے فضائل ہم نے روزے کے بیان میں ذکر کئے ہیں۔ لہذا انہیں لوٹانے کی ضرورت نہیں۔ واللہ اعلم،
 تمام دنیا کے منتخب بندوں پر رحمت ہو۔
 اللہ تعالیٰ کی حمد اور مدد سے احیاء علوم الدین کی پہلی جلد مکمل ہوئی اس کے بعد دوسری جلد ہے جو کھانے کے آداب
 سے شروع ہوگی۔

الحمد للہ! احیاء العلوم کی پہلی جلد کا ترجمہ آج یکم رمضان المبارک ۱۴۱۶ھ رات نوبج کر چوبیس منٹ پر مکمل ہوا
 اللہ تعالیٰ اسے امت مسلمہ کے لیے نافع اور راقم کے لیے ذریعہ نجات بنائے آمین سبھاہ سید المرسلین۔

محمد صدیق ہزاروی سعیدی
 جامعہ نظامیہ رضویہ
 اندرون لوہاری دروازہ لاہور

صَلَّى اللهُ عَلَى حَبِيْبِهِ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ

